

قرآن مجید

کاشف ترجمہ دار

زیر ہدایات

امام جامعۃ احمدیہ

حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع

آیۃ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

(الحجر: ۲۲)

بہ چھبہ کائٹہ چیز تیتھہ بیکو (آنتھہ رس) خزائینہ آسہ نیش
آسن نہ مگر اس چھ تہ آکھ گئی تھہ اندازہ سبکو نازل کران

قرآن مجید

کاشتہ ترجمہ دار

زیر ہدایات

امام جماعت احمدیہ

حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابعیہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

کاشتہ ترجمہ

بمطابق

تفسیر صغیر با محاورہ اُردو و ترجمہ قرآن مجید

از

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی

مترجم غلام نبی ناظر
نظر ثانی سید عبدالحی

پبلشر
اسلام انٹرنیشنل پبلیکیشنز لمیٹڈ انگلستان


سُورَتِن هِنْدَفَرَسْت

نمبر شمار	سورة	صفحه	نمبر شمار	سورة	صفحه	نمبر شمار	سورة	صفحه
۱	الفاتحة	۱	۲۵	الفرقان	۵۲۸	۴۴۲	الحجرت	۴۹
۲	البقرة	۲	۲۶	الشعراء	۵۳۹	۴۴۶	ق	۵۰
۳	أل عمران	۶۶	۲۷	التَّمَل	۵۵۷	۴۸۱	الذُّرَيْت	۵۱
۴	النِّسَاء	۱۰۱	۲۸	القصاص	۵۷۰	۴۸۶	الطُّور	۵۲
۵	المائدة	۱۳۲	۲۹	العنكبوت	۵۸۶	۴۹۱	التَّجْم	۵۳
۶	الانعام	۱۷۱	۳۰	الزُّومر	۵۹۷	۴۹۷	القمر	۵۴
۷	الاعراف	۲۰۳	۳۱	لقمن	۶۰۶	۸۰۲	الرَّحْمَن	۵۵
۸	الانفال	۲۲۸	۳۲	التَّجْدَة	۶۱۳	۸۰۹	الواقعة	۵۶
۹	التَّوْبَة	۲۵۲	۳۳	الاحزاب	۶۱۷	۸۱۵	الحديد	۵۷
۱۰	يونس	۲۷۹	۳۴	سبا	۶۳۳	۸۲۲	المجادلة	۵۸
۱۱	هُود	۳۰۰	۳۵	فاطر	۶۴۳	۸۲۷	الحشر	۵۹
۱۲	يوسف	۳۲۴	۳۶	يَس	۶۵۲	۸۳۲	المُمتحنة	۶۰
۱۳	الرَّعد	۳۴۶	۳۷	الصَّفَّت	۶۶۱	۸۳۶	الصَّف	۶۱
۱۴	ابراهيم	۳۵۶	۳۸	ص	۶۷۵	۸۳۹	الجمعة	۶۲
۱۵	الحجر	۳۶۷	۳۹	الزُّمَر	۶۸۴	۸۴۱	المنفقون	۶۳
۱۶	التَّحَل	۳۷۷	۴۰	المؤمن	۶۹۷	۸۴۳	التَّغَابِن	۶۴
۱۷	بَنِي إِسْرَائِيل	۴۰۱	۴۱	خَمَّ السَّجْدَة	۷۱۰	۸۴۷	الطَّلَاق	۶۵
۱۸	الكهف	۴۲۱	۴۲	الشُّورَى	۷۱۹	۸۵۰	التَّحْرِيم	۶۶
۱۹	مريم	۴۴۱	۴۳	الرَّحْرَح	۷۲۹	۸۵۳	الملك	۶۷
۲۰	طه	۴۵۳	۴۴	الذَّخَان	۷۴۰	۸۵۷	القلم	۶۸
۲۱	الانبياء	۴۷۱	۴۵	الجاثية	۷۴۶	۸۶۲	الحاقة	۶۹
۲۲	الحج	۴۸۶	۴۶	الاحقاف	۷۵۱	۸۶۶	المعارج	۷۰
۲۳	المؤمنون	۵۰۱	۴۷	محمَّد	۷۵۹	۸۶۹	نوح	۷۱
۲۴	النُّور	۵۱۳	۴۸	الفتح	۷۷۵	۸۷۲	الجَن	۷۲

صفحة	سورة	نمبر شمار	صفحة	سورة	نمبر شمار	صفحة	سورة	نمبر شمار
٩٢٥	القارعة	١٠١	٩١٥	الاعلى	٨٤	٨٤٦	المزمل	٤٣
٩٢٦	التكاثر	١٠٢	٩١٤	الغاشية	٨٨	٨٤٩	المعثر	٤٣
٩٢٤	العصر	١٠٣	٩١٩	الفجر	٨٩	٨٨٣	القيمة	٤٥
٩٢٤	الهمزة	١٠٣	٩٢١	البلد	٩٠	٨٨٦	الذهر	٤٦
٩٢٨	الفيل	١٠٥	٩٢٣	الشمس	٩١	٨٨٩	المرسلت	٤٤
٩٣٩	قريش	١٠٦	٩٢٣	البيبل	٩٢	٨٩٣	النبا	٤٨
٩٣٠	الماعون	١٠٤	٩٢٦	الضحى	٩٣	٨٩٦	الذُرُعَت	٤٩
٩٣٠	الكوثر	١٠٨	٩٢٤	المنشور	٩٣	٨٩٩	عبس	٨٠
٩٣١	الكافرون	١٠٩	٩٢٨	التين	٩٥	٩٠٢	التكوير	٨١
٩٣٢	النصر	١١٠	٩٢٩	العلق	٩٦	٩٠٥	الانفطار	٨٢
٩٣٢	التهب	١١١	٩٣١	القدر	٩٤	٩٠٤	المطففين	٨٣
٩٣٣	الاخلاص	١١٢	٩٣١	البيئنة	٩٨	٩١٠	الانشقاق	٨٣
٩٣٣	الفلق	١١٣	٩٣٢	الزلزال	٩٩	٩١٢	البروج	٨٥
٩٣٣	الناس	١١٣	٩٣٣	الغديت	١٠٠	٩١٣	الطارق	٨٦

پاران ہند فرست

صفحة	پاره	نمبر شمار	صفحة	پاره	نمبر شمار	صفحة	پاره	نمبر شمار
٥٩٣	اتل ما اوحى	٢١	٢٤١	يعتذرون	١١	٢	الک	١
٦٢٣	ومن يقنت	٢٢	٣٠١	وما من دآية	١٢	٢٤	سيقول	٢
٦٥٣	ومالى	٢٣	٣٢٣	وما ابزئى	١٣	٥٣	تلك الرسل	٣
٦٩٠	فمن اظلم	٢٣	٣٦٤	ربما	١٣	٨١	لن تناولوا	٣
٤١٨	اليه يرد	٢٥	٣٠١	سبحن الذى	١٥	١٠٨	والمحصنات	٥
٤٥١	حَمَّ	٢٦	٣٢٥	قال الم	١٦	١٣٥	لا يحب الله	٦
٤٨٣	قال فما خطبكم	٢٤	٣٤١	اقرب للناس	١٤	١٦٢	واذا سمعوا	٤
٨٢٢	قد سمع الله	٢٨	٥٠١	قد افلح	١٨	١٩٢	ولوا اتنا	٨
٨٥٣	تبرك الذى	٢٩	٥٣٢	وقال الذين	١٩	٢١٩	قال الملا	٩
٨٩٣	عم	٣٠	٥٦٦	امن خلق	٢٠	٢٣٥	واعلموا	١٠



سورة فاتحہ، یہ سورہ چھ مکئی تہ بسم اللہ بہتہ چھ آیتھ (۷) آیتھ آہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	بِسْمِ اللّٰهِ (تعالیٰ) سُنْدِنا و بہتہ پران (میں) حد رؤس کرم کرن و ول تہ، پھیر پھیر کرم کرن و ول چھ۔
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ②	سار کرم (تہ) تعریفین ہند تقدار چھ اللہ تعالیٰ ہے، میں (سار) عالم ہند رحیم و ول (چھ)۔
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ③	حد رؤس کرم کرن و ول پھیر پھیر کرم کرن و ول۔
مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ④	(تہ) جز بکر تہ سز بکر وقتک ماک چھ۔
إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ⑤	(ا) سے خلیہ! اسی چھ چانی عبادت کران تہ تریہ چھی مدد مکان۔
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ⑥	اَسہ پکنا و سیز و تہ۔
صِرَاطَ الذِّیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۙ	تہن لوکن ہنز و تہ یمن پیٹھ تریہ انعام کر کرم تہ چھتہ
غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ⑦	یمن پیٹھ (پرستہ) تہ (چھ) سید (ممت چون) غضب نازل تہ تہ چھ (پرستہ) تہ (مگرہ) مگرہ (تہ)۔

لہ صحابہ کرامن ہنڈس پر تہ ہنڈس پیٹھ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودت تہ
مَغْضُوْبٍ عَلَیْهِمْ چھ یہود تہ ضال چھ عیسائی۔ یمن آہن مشر چھ امت محمدیس
نہجت کر تہ آہن تہن یز تہ یہودین تہ عیسائین ہند کرم پانچ بن۔

عَظِيمٌ ﴿۱۰﴾

ع

بیر چھ تہند خاطر اکھ بوڑ عذاب (مقدر)۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱﴾

بیر چھ کیہنہ لوکھ تھن تیریم وناں چھ نہ اسیہ چھ
اللہ (تعالیٰ) ہس پچھ تہ پینہ وائس دہ ہس پچھ
ایمان۔ حالانکہ تم چھن ہرگز ایمان تھوان۔

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَمَا
يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾

تم چھ اللہ (تعالیٰ) ہس تہ تمہن لوکن پچھ ایمان
اؤتمت چھ دوکھ دین پترھان۔ مگر تم چھن
(درحقیقت) پانس وراے کالہر دوکھ دوان وور
گوو تم چھن فکر تران۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ
مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ لِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ ﴿۱۳﴾

تہند دن دن مشر اُسی اکھ بیمار پتر ہر رآو اللہ
(تعالیٰ) ہن (بیر تہ) تہنتر بیمار تہ تمہن چھ لکھ کر لوکھ
عذاب واناں۔ نیکیا ز تم اُسی ایڑ وناں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿۱۴﴾

بیلہ تمہن ورتہ پیر (ز) بتر اتر پچھ مہ کرو فدا
تہ (اوپر) چھ وناں، اُسی چھ صرف اصلاح کرن والی
(کن دارتھ) بوڑو! یکے لوکھ چھ بلاشک فساد
کرن والی۔ وور گوو تم چھن (بیر پتر) فکر تران۔

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا
يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾

تہ بیلہ تمہن ورتہ پیر نہ (تھ پچھ) اُلو ایمان
پتھیا ٹھ (بیر) لوکو ایمان اؤتمت چھ تہ وناں چھ،
زلیا اُسی اُلو (تھیا ٹھ) ایمان پتھیا ٹھ بے وقوفو
ایمان اؤتمت چھ؟ یاد تھوو! (بیم چھ ایڑ وناں)
تم چھ پانے بے وقوف، وور گوو (بیکھ) چھن زاناں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا
يَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

تہ بیلہ تمہن لوکن سمکھان چھ پچھ پچھ ایمان اؤتمت
چھ تہ وناں چھ (ز) اُسی چھن (بیر رول) مانان
اڈیلہ تم پینہن سفنن خلوکھ سمکھان چھ، اقی
چھکھ وناں نہ اُسی چھ یقیناً توہر سستی، اُسی
اُسی صرف (بیر مؤمنین) مخولہ کران۔

وَإِذَا قَالُوا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۗ
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيُطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا
مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۷﴾

اللہ (تعالیٰ) دیر تمہن (تہند) محولگ سزا تہ
تمہن تراو پینہن نافرمانین مشر پیر۔
بیم چھ تم لوکھ، پچھ ہدایت تر اوتھ ٹھراکی پراو،
بیر نیکیا پتر ڈراو نہ ورتہ تمہن دنیاوی فایدہ

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي
طُغْيَانِهِمْ بِخَمَلُونَ ﴿۱۸﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلَالَةَ
بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا

كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۵﴾

مَنْلَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
فَلَمَّا أَصَابَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ
بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا
يُبْصِرُونَ ﴿۱۵﴾

صَمُّكُمْ عَنِّي فَمَا لَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۱﴾

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ
وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ
فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ
الْمَوْتِ، وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۱۱﴾

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ
كُلَّمَا أَصَابَهُمْ لَمَسُوا فِيهِ نَارًا
أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، لَٰنَ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿۱۷﴾

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ
بِنَاءً، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ بِرِزْقًا لَّكُمْ، فَلَا
تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَدَاءً وَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

تہ نہ لو بہ تمو صلایت۔

تہنہنر حالت چھینے تسن شخضہ سنہر ہش سیمو ند
نول، پتہ سبیلہ تمو (نار) تسند اوند پوکھ کاشروو
تہ اللہ (تعالیٰ) ہن نیو تہنہنر گاش تہ تم تراون
(رنگہ رنگہ) انہ گن منتر (تہہ حاس منتر) ہمن
پھنہ (کانبہ موکن پائے) درپٹھی یوان۔

تم بچہ زری، ککو (تہ) اڈ اوکوزین نہ تم باز۔
نہہ چہ (تہنہنر سال) تمہ روڈوکی پاتھو یس (گنہ)
اوبہ منتر (وسان) آسہ (تہتہ روڈ) ہتھ سوتو (رنگہ)
رنگہ) انہ گنہ تہ ہنگرایہ تہ وزلمہ آسان چھینہ تم
چہ ترلو سوتو مسرتہ کہ بیمہ پینہ اونگہ پینہن
کنن منتر ٹھکان۔ حلاکہ اللہ (تعالیٰ) چہہ سارہنہ
کافرن تباہ کرن وول۔

قرب چہ زروزل نیہ رمن اچہ کاشس مہنہ سبیلہ تہ
سو پرہنن چھینہ تم چہ اتھ (کاشس) منتر یکن ہوا
تہ نیلہ (سو) ہمن انہ گن کران چھینہ تم چہ روڈہ
گزشان تہ ہنگراہ اللہ (تعالیٰ) ہنہہ سہ سہ کرہے
تہنہنر بل تہ وچھن بل یھنا ضایع۔ اللہ (تعالیٰ)
چہہ ہڈو پاتھو (تہہ) پرہتہ کنہ کامہ پلہہ (نیمیک)
سہ (اڈ کر) یوہ قودت تھان وول۔

اسے لوکو! سنس (ہمنس) رہہ ہنر عبادت کرو۔ سیمو
توہو (تہ) تہ تم (تہ) یکم توہہ ہر دھتہ گڈرہ
ہتو چہ، پاد کرڈہ تہ چہہ اتھ توہو (پرہتہ کنہ)
قسم چہو بلو ہنہ (نیمو)۔

(سے چہ) سیمو تہنہنر ہاپتہ زمین فرشہ کنہ تہ
آسان پینہ کنہ ہنومت چہ تہ اوبہ منتر چھن آب
وولت۔ پتہ چھن تمہ (آہ) ڈو مینون ہنہنک
برق تہنہنر ہاپتہ کولت۔ اوکو توہہ ہنہو یوکھ تہتہ
ماہتہ اللہ (تعالیٰ) ہس سوتو ہرایری کرن والی۔

وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ مَادَّعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَقُونَ هَذَا النَّاسَ وَالْحِجَابَ رُءُوسَ الْكُفْرِيِّينَ ﴿۱۸﴾

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْهَارٌ مَطَهَّرَةٌ لَهُمْ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۹﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مِمَّا بَعُوضَةٌ فَمِمَّا فُوقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنََّّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا

بہ ہر گاہ امر (کلام) کہ سبب ایس امر پنیس بندس پیٹھ تابل کورمت پتھ توہر کتہ (قسم کس) شمس منتر (ہینہ آہتی) چھو۔ تیلہ اگر توہر پڑبارک چھو تہ اڑی تو اتھ ہیو اکھ سواہ! بیہ اڑی توکھ (پنہر مدد خاطر) خدایس ورے پنہر مدگار (تہ نلاوتھ) اڑ اگر توہر تہ کوروتہ تہ توہر ہیو تہ ہرگز (تہ) کرٹھ، تیلہ بچو تمہ نابورنہہ بیٹیک زالن انسان تہ کتہ پھینہ۔ سہ پتھ کافرن ہند پاتھ تیا کرنہ آمت۔

بہ ہر تہ تمن لوکن نھو شخیر یکو ایمان اونمت پتھ تہ بیہ پھکھ نیک علم کر منتر نہ تہند خاطر پتھ (تھو) بارغ یمن منتر کہ لہ پکان پھینہ۔ تیلہ تمن یاغن ہندلو میوو منتر کیہنہ رزق تمن دہ پیسہ۔ تم دین یہ ہے پتھ سے رزق یس اسہ امر بروتھ دہر آمت اوس، تہ تمن نش پیسہ سہ (رزق) تھہ لون میلون اتہ۔ بیہ آسن تہند خاطر تمن یاغن منتر پاک جوہر تہ تمن لمن تمن یاغن منتر ہر ہمیشہ۔

اللہ (عالی) چھینہ کانہہ کتھ بیان کرنہ لنتہ پتھ روزان اڑ سہ مہس ستب آسن تن یا تمہ کھوسہ ہڈتہ۔ اڑ ہم لوکھ ایمان تھولن پتھ تم چھو زمانہ ز سہ پھینہ تہندس پورولونہر طرفہ بالکل پڑ (کتھ) تہ ہم لوکھ کافر گئیہ تم چھو دپان (نر، مہجر)

لہ قرآن کرپس منتر پتھ وار یاہن جائن جنس متعلق من تختہم الاھلہ یوان۔ تھتک لفظی معنی چھ تیلہ کتہ یا بوہ کتہ یعنی جنتہ کین کلبن ہندس شہلین تلو تلو آسن تمہ چہ کولہ پکان یا جنتین ہندس اختیار تل یا زیر انتظام آسن تمہ کولہ تہ جو یہ پکان یا جنتین ہنر ملکیت آسن۔ تیلہ تیلہ ہم الفاظین اسی کرو امیک یا محادہ ترجمہ، "بوہ کتہ" "منتر" یا "تل" تہ۔

لہ یا تمہ کھوتہ لو کٹ تہ ہیوونہ۔

اللہ (تعالیٰ) سُنَدِیہ کہتے ہاؤنک منشا کیاہ چھہ؟
 (امول کہتے چھہ بیہ نہ) سُنَدِیہ وار یا ہن (لوکن) امیر
 (قرآن) دُکُ غمراہ قرار دوان تہ وار یا ہن (لوکن)
 چھہ امیر (قرآن) دُکُ ہدایت دوان، بیہ چھہ نہ سُنَدِیہ
 امیر دُکُ تہو نافرمانو وراے کاشبہ تہ غمراہ قرار
 دوان۔

بیم اللہ (تعالیٰ) سُنَدِیہ عہد پختہ کرنہ پتہ چھہ شان
 چھہ، تہ سُنَدِیہ چھہ یتھ اللہ (تعالیٰ) رلاؤنک حکم
 دوان چھہ شان چھہ تہ پتہ تہ پتہ چھہ فساد کران
 تہ لاکھ چھہ نقصان تلن والی۔

(اے لوگو!) تُوہر کتھیا ٹھو چھو اللہ (تعالیٰ) ہنس
 (یعنی تہن کتھن) انکار کران حالانکہ تُوہر اسی دے
 جان، پتہ بتاؤر دُکُ تُوہر تُوہر جانلہ پتہ (بیہ لکھ دوان
 بیہ) مار دُکُ تہو، پتہ کر دُکُ تہو ہر سُنَدِیہ تہ
 پتہ دیکھ تہو کتھ چھہ تہ نہ۔

سُنَدِیہ (خلا چھہ سُنَدِیہ تم ساری چیز بیم زمین مشر
 چھہ، تہنہ فائدہ خاطر یاد کر۔ پتہ کور تہو آسمان
 کون توجہ تہ تم کون کمل سُنَدِیہ آسمان تہ سُنَدِیہ پتہ
 کانہ کہتے (یعنی پتہ حقیقت) زہر پٹھو زمان۔

تہ (اے انسانہ) تُوہر کتھ وقت یاد) بیہ پتہ چانی سرور کران
 ملین وون تہ ہر چھہ پتہ تہ پتہ لکھ چھہ بنون
 وول (دیکھ پتہ) تہو وول تہ پتہ کر لکھ لکھ پتہ
 (تہو شخص تہ) یاد بیم اتھ مشر فساد کران تہ
 (لکھ اُکس) تہو والن۔ تہ اسی چھہ (بیم بیم) چون تہ
 کرنس تہو پتہ چون شو تہ پتہ پتہ (چھہ) تہ تہ مشر
 چھہ تہو پتہ آسک اقرار تہ کران۔ (اتھ پتہ) فرودکھ
 (اللہ تعالیٰ ہن) بہ چھہ یقیناً تہ کتھ زانان یہ نہ
 تُوہر زمان چھو۔

بیہ پتھنو اللہ (تعالیٰ) ہن آدم ساری تاؤ۔ پتہ

وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا مِمَّا يَضِلُّ بِهِ
 إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾

الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
 مِيثَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
 أَنْ يُؤْصَلَ وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
 أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٧﴾

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ آمِنًا
 فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
 ثُمَّ رَأَيْتُمْ تُزْجَعُونَ ﴿٨﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
 جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
 فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوٰتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩﴾

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
 فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۚ قَالُوا أَتَجْعَلُ
 فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ
 الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ
 نُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ

۱۰ تاؤوتہو چھہ مراد صفات الہی ہن ہن علم صرف اللہ تعالیٰ ہن، پتھناوہن سرتی ہون چھہ۔

عَلِ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۰﴾

دیندر تم ناوسا کون تم ملکیں بروئٹھ کنہ پیش تہ
فرمویں نہ اگر توہی صحیح کہتہ وان چھو تیلہ وڈی
تو میہ ہندری ناو۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِمَا
عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْخَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۳۱﴾

تو ووتس تہ چکھ بے عاب۔ اسہ چھینہ کانہہ علم ماسوات
تہ پہ تریہ اسی ہینچنا وک ہتی چھنہ۔ بے شک چکھ
تہ پہ پلڑ پلڑ علمہ وول (تہ پرتہ قوس تہ فطس تہ)
حکمت نظر تہ تھاون وول۔

قَالَ يَا اِٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ فَلَمَّآ
اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ
لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُوْنَ ﴿۳۲﴾

اتھ پیٹھ فرمویں (یعنی اللہ تعالیٰ ہن) اے آدم
یکن ملکیں ون ہندری ناو۔ پتہ ییلہ تمہ (آدم)
تہندری ناو وڈی تہ (اللہ تعالیٰ ہن) فرمویں
میہ اوس وناہ تہ ہیہ ووتنت نہ ہر تھیس آسمان تہ
زمین ہنچہ کھٹھہ کتہ زنان؟ تہ ہر چھس (تہ)
زنان یہ توہی تون کڈان چھو تہ (تہ) یہ توہی
کھان چھو۔

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ
فَسَجَدُوْا اِلَّا ابْلِیْسَ ؕ اَبٰی وَّ
اسْتَكْبَرَ ۙ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۳﴾

بیہ (پا و وس وڈ تہ یاد) ییلہ اسہ ملکیں وول
نہ آدم ہنچہ فرمانبر داری کرو۔ اچہ جو کفر فرمانبر داری
اما پلوز ابلیس (کرو نہ تمہ) کوز انکار بیہ کون
تکبر تہ سہ اوس (بروئٹھ پیٹھ) کافرو ہنچہ۔

وَ قُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ
الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۴﴾

بیہ وول اسہ (آدم) اے آدم! تہ تہ چاڈ آشنی
رؤز و جنس ہنچہ تہ اتھ مشر نیپن توہی نیپن
رستہن (کھینو فراغتہ سان مگر بیٹہ) یعنی فلائی
تکس تکھ گرتھو زبو نہ نتہ ہنو توہی فلاو اندہ۔

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا
مِمَّا كٰنَا فِيْهِ سَوّٰ قُلْنَا اِهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَّلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرّٰتٌ
مِّنْ اَعْلٰى حٰثِيْنَ ﴿۳۵﴾

تہ (تمہ پتہ سپد پتھو نہ) شیطان ڈال تم (دوہوہ
پنہ مقامہ ہنچہ) اسہ (کھر ک) ڈی تہ پتھو کڈن
تم تمہ (حالہ) مشر، بیٹہ مشر تم اسی۔ تہ اسہ
وول (ہن زمین تہ) نیرو۔ توہی مشر چھ کینہ
کینن ہندری دشمن۔ تہ (یاد تھو نہ) تہند خاطر
چھینہ اوس (گنڈتھ) وقلس نام نیپن ہنچہ پتہ
روزن ہماے تہ زندگی ہندری سامانہ (مقدار)۔
اسہ پتہ، چھو آدم نیپن پرودگار اس ہنچہ (دعا و اول)

نَلَقٰى اٰدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰتٍ فَتَابَ

أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَثَلُّونَ الْكِتَابَ ،
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾

پان پھون مشرأوتھ تھن ان ؛ حلا نك توہی چو کتاب
(یعنی قرات) پیران ، تمہ پتہ (تر) پھونا توہر عقلیہ
کام ، ہوان ؟

وَاسْتَجِیْبُوْا بِالصَّیْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَ
رِئَاسًا لِّكَبِیْرَةٍ اِلَّا عَلَی الْخَشِیْعِیْنَ ﴿۱۱﴾

بہ منگو صبر تہ دعا کر تھہ (اللہ تعالیٰ ہس) مدد تہ
یہ کار) پتہ بے شک عاجزی پراوان والہو ورآے (زین
ہند خاطر) مشکل۔

الَّذِیْنَ یَظُنُّوْنَ اَنْهُمْ مَّلٰئِکَةٌ اَرٰیہُمْ وَا
اَنْہُمْ اٰیٰتٍ رَّجَعُوْنَ ﴿۱۲﴾

(تم عاجزی پراوان والی) ہم (یہ کہتے پتہ) پتہ
تھوان پتہ نہ تم پتہ سنس ریس سمکن والی ، بہ
یہ کہتے پتہ تہ نہ تم پتہ کون پتہ گرتھن والی

یَبْرِئِ اِسْرَآءِیْلَ اِذْ کُرُوْا اِنْعَمٰتِی
الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَاٰتِی
فَضَلْتُکُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۳﴾

اے بنی اسرائیل! میوں سہ احسان کرو یاد ریس مہ
توہر پتہ کورمت پتہ۔ بہ (سہ احسان تہ) زمیہ
اسو توہر سارہے عالم پتہ فقیات ڈر مہر۔

وَاَتَّقُوا یَوْمًا لَا تَخْرِیْ نَفْسٌ عَنْ
نَفْسٍ شَیْئًا وَّلَا یُقْبَلُ مِنْہَا شَفَاعَةٌ
وَّلَا یُؤْخَذُ مِنْہَا عَدْلٌ وَّلَا لَہُمْ
یُنصَرُونَ ﴿۱۴﴾

بہ کھوڑو تھہ دہ ہس نہ (سہ دہ ہس) کانہہ شخص
کانہہ ہس شخصہ سہ قائم مقام ہیکہ نہ ہیکہ نہ بہ
تہہ کہ کانہہ سفارش منظور کرنہ تہ نہ بہہ تہہ کہہ
(کہہ قبمک) عوضانہ قبول کرنہ تہ نہ بہہ تم مدد کرنہ۔

وَ اِذْ نَجَّیْنٰکُمْ مِّنْ اِلْفِرْعَوْنَ یَسُوْمُوْنَکُمْ
سُوْءَ الْعَذَابِ یَذِیْبُوْنَ اَبْنَاءَکُمْ وَا
یَسْتَحْیِبُوْنَ نِسَآءَکُمْ وَاِیْ ذٰلِکُمْ بَلَآءٌ
مِّنْ رَّبِّکُمْ عَظِیْمٌ ﴿۱۵﴾

بہ (پاؤو سہ وقت تر ہس) بیبلہ اسہ توہہ فرعونہ
ہند قومہ سہ تھہ حاس منزجات دیو نہ سہ اوسو
تہہ ہر بدترین عذاب دول۔ تہہ ہس بیچون اوس ذبح کران
تہہ تہہ زن ان اوس زندہ تھاولن۔ تہہ تھ کہہ منراس
(تہہہ باپتہ) تہہہ سہ ہند طرفہ اکھ بڑ آزمائش۔

وَ اِذْ فَرَقْنَا بِکُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَبَیْنٰکُمْ وَا
عَرَفْنَا اِلْفِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۱۶﴾

بہ (پاؤو سہ وقت تہ یاد) بیبلہ اسہ تہہہ باپتہ
سمندس ترہین دیتہ تہہہ دیو اسہ توہہ منجات
تہہ تہہہ اچھن تل کور فرعونہ سہ قوم عرق۔

وَ اِذْ وَاَعَدْنَا مُوسٰی اَرْبَعِیْنَ لَیْلَةً
ثُمَّ اَتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِہَا وَا
اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۱۷﴾

بہ (پاؤو سہ وز تہ تر ہس) بیبلہ اسہ موسیٰ ہس
ترتھہن رائزن ہند وعدہ کور۔ پتہ بنوو توہہ
تہہہ (گرتھہ) پتہ ظالم ہیکہ اکھ ووژھ (معبود)۔

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْکُمْ مِّنۢ بَعْدِ ذٰلِکَ
لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ ﴿۱۸﴾

پتہ کورو اسہ تمہ پتہ (تر) توہہ معاف ، یہہ توہر
شکر گزار بنو۔

وَ اِذْ اٰتٰیْنَاکُمْ مُّوسٰی الْکِتٰبَ وَاَلْفُرْقٰنَ

بہ (پاؤو سہ وقت تہ یاد) بیبلہ اسہ موسیٰ ہس کتاب

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۸﴾

(یعنی توہم) تہ فرقان (یعنی معجزات) دے دیے تھے تو ہر
 ہدایت لیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي آلُكُمْ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكُمْ قَوْمٌ مِّثْلُكُمْ فَأَمْرٌ لِلَّهِ
 أَنْ يُضِلَّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ بَنِي آدَمَ مَا شَاءَ
 لَهُ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۹﴾

بہ (یا وہ) وقت تہ یاد) یہیلہ موسیٰ ہن پسنہن
 قومس وون، اے میانہ قومہ (کہو لوگو!) تو بہر چھو
 وورہ ہن (معیود) بناوتھ پسنہن زوان پیٹھ لہینا
 ظلم کورمت۔ او کہو نمو توہی پسنہن یاد کرن واپس
 کن تہ پرہتھ الھ شغوس کرن پسنہن نفسس کھش
 یہ کتھ چھید تہنہن یاد کرن واپس ہن تہنہن حقہ
 سلہما جان (یہیلہ توہر تہ کور) تیلہ کور تمہ توہر
 کن فضلہ سان بہ توہر۔ سہ چھ یقینا (پسنہن
 ہن کن) سلہما دھیان دہن وول (تہ) چھری چھری
 رحم کرن وول۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُبْرِكَ إِلَّا
 بِنِعْمَةِ رَبِّنَا الَّذِي أَنزَلَ الْغُلُقُوتَ
 مِنَّا فَاجْعَلْ لَنَا آيَاتٍ مِّثْلَ آيَاتِهِ
 فَجَاءَهُمْ آيَاتُنَا وَجَاءَنَا الْكُرْبُ
 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لِنَبِّئَهُ
 مَا هُوَ لَدُنَّا بِمَنْ يُغِيثُ الْحَمِيمَ ﴿۶۰﴾

بہ (یا وہ) وقت تہ تہتس) یہیلہ توہر وناہ و اے
 موسیٰ! اسی مانو تہ ہرگز یاد کتھ یوتام تہ اسی اللہ تعالیٰ
 روبرو وچھون۔ اتھ پیٹھ رڈی و توہی اک ہلاک کرن
 واپس عدان تہ توہی اسی و پسنہن کروتس ہنہ انجام پسنہن
 اچھن بروٹھ کتھ) وچھان۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مُوسَى
 نَبِيًّا فَكَذَّبُوا فَسَاءَ لِمَنْ
 كَفَرَ ۚ وَجَاءَهُمْ آيَاتُنَا
 وَجَاءَنَا الْكُرْبُ وَاللَّهُ
 يَهْدِي مَن يَشَاءُ لِنَبِّئَهُ
 مَا هُوَ لَدُنَّا بِمَنْ يُغِيثُ
 الْحَمِيمَ ﴿۶۱﴾

پتہ تکی و اسہ توہی تہنہن ہلاکتہ پتہ (بہ حقود) او کہو
 نہ توہی بنو شکر گزار۔

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا
 عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوىَ
 كُلَّوَا مِنْ طَيْبَاتِ مَا
 رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُوا نَا
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿۶۲﴾

بہ کور و اسہ توہر او برک سایہ تہ تہنہن خاطر وول
 من تہ سلوی (بہ وول و اسہ نہ) تہو شوڈ لوچیز و منز
 ہم اسہ توہر دے ہی چھو، کھینو۔ تہ تم کور نہ (ناہی
 کتھ) سون نوقصان بلکہ اسی تم پسنہن نوقصان کران۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
 فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
 وَادْخُلُوا مِنْهَا أَبْوَابًا
 مَّكِينًا ﴿۶۳﴾

بہ (یا وہ) وقت تہ یاد) یہیلہ اسہ و نیو نہ تہ لیتی
 منز اڑو تہ اتھ منز سیستین میٹھو کھینو فراغتہ

۱۔ پاس بخش کرن چھینہ کا نسیہ نہیں منز جائز۔ ایک مطلب چھ پنہنہ حاشیہ تہ ہن نفس رخصتہ ہا رتھ۔
 ۲۔ من تہ سلوی، "من" ایک نقلی معنی چھ احسان یعنی پرہتھ قسمک رزق لیس بلا محنت الناس میلہ۔ حدیث منز چھ
 اَلْكَلِمَاتُ مِنَ الْمَعْنَى هِيَ تَرْكِيْبُهُمْ تَرْكِيْبُهُمْ مِنْ زَمَانِ اِسْتَوْذَرُوا كَا وَهُوَ اَسَانٌ مَجْزِيٌّ۔ سلوی گوو ہا تہ اہر
 قسمکو لوگوں جانواد۔

الْيَوْمِ الْآخِرَةِ عَمَلٌ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۶﴾

پیچھے تہ آخرتہ کس دوسرے پیچھے (کابل) ایمان آؤ گت چھ تہ بے چین نیک عمل کر ہتر۔ بڑی پانچھی چھ تہ بند باپتھ تہندس لبش تہن بند (شوبہ دار) اجر۔ بے نہ آسہ تہن (بے نہ وائس زماں متعلق) کاتہ خوف تہ نہ آسہ تہ (پتہس زماں پیچھے) غمگین۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دَرَفَعْنَا فُوقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۳۷﴾

بے (پاؤو سہ وقتہ تہ ترہس) بیلے آسہ تو بہر لو تہتر عہد اوسو، پتہس بے اوس اسہ تو بہر پیچھے طور متھرومتہ (بے اوسو تو بہر وؤگت نہ) بے کتہشا) اہر تو بہر ویتت چھو تہ رو چہر۔ بے بے کتہشا اتھ منز چھ تہ تھو یلا تھ توہر متعلق بؤو۔

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّا بَعَدَ ذَلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۳۸﴾

اگر (ماکار پاریت میلہ) پتہ (تہ) چھرو تو بہر تھتر تہ اگر تو بہر اللہ (تعالے) سہد فہل تہ رحمت آسہ ہے تہ تہ توہر سپد ہو ضرور تہ قصان تہن واپو اندر۔ بے چھو کہ توہر تہ لؤک (تہند انجام) پتھ تہ تہ تہ تو بہر منز (آستہ) سبتہ کس تہ معاطس منز جادتی کر ہتر آس، تھ پیچھے اوس اسہ تہن وؤگت نہ (گتھو تہ) ذہل واندہ بؤو۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۳۹﴾

لہذا آسہ بؤو بے (واقعہ) تہن (لوکن) ہند خاطر تہ بک (تہر وقتہ) مؤہو آسہ تہ بے (واقعہ) سبتہ نہ پتہ پتہ واپن لوکن ہند خاطر تہ عبرتک مؤہب تہ متقین ہند خاطر نفہمت (رٹنگ باعث)

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۴۰﴾

بے (پاؤو سہ وقتہ تہ یاد) بیلے مؤسلی ہن پتہس توہس وؤن نہ اللہ (تعالے) چھ تو بہر (الک) گاوہ ذبح کرنگ حکم دولان۔ تہو وؤن (تہس) تہ چھکا اسہ تھٹھہ کران؟

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَاءَ قَالُوا أَلَيْسَ آتَّخِذْنَا هَهُذَا قَالًا وَعُذُّ بِلِلَّهِ أَنْ

۱۔ صحراے سینا ہس منز چھ بے کہ سلسلہ کوہن ہند مطلب چھ بیلے اسہ توہر سینا کوہس داہن س سونہر تھ اے و ۲۔ سبت چھ بڑوارہ ونان تولس منز اوس یہودین حکم زسبتہ کردن ہر گتھ نہ کتہ قسبتہ کام کرنی مگر تہو کر اتھ جلوب ووزکی۔ ۳۔ یعنی واندہ صفت۔ ۴۔ عربی زبانی منز چھ بقرہ تہ واندس دولونی ونان۔ مہرس منز آسہ لؤک واندس پوزا کران لہذا تھ سارک ہے واقعس منز چھ غالباً واندہے مراد۔

أَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۱﴾

دوپیکھ (یعنی ٹوٹی ہن) ، بیہ چھس (امر چھہ لبتہ) اللہ (تعالیٰ) سُد پناہ منجان نہ بہ سپد (بیہ کار کریمہ) جاہلین منتر شابل۔

قَالُوا إِذْ أُنزِلَتْ عَلَيْكُمُ الْآيَاتُ لَقَدْ كُنْتُمْ أَهْلَ الْأَرْضِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۳۰﴾

تمو وونس سارہ باپتھ منگ پینس ریس دھار سُرُون امر چھہ کڈتھ سم (گاو) کرڑھ چھہ۔ تم (یعنی ٹوٹی ہن) وونکھ سہ چھہ فرماوان سم چھہ تڑھ گاو یوس نہ چھہ بندہ تہ نہ وڑھہر، بلکہ اتھ درمیان چھہ پور بولن او بولیس حکم تو بہ دتہ بولان چھہ، سہ اُلو بجا۔

قَالُوا إِذْ أُنزِلَتْ عَلَيْكُمُ الْآيَاتُ لَقَدْ كُنْتُمْ أَهْلَ الْأَرْضِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۳۰﴾

تمو وونس سارہ باپتھ منگ (بیہ) پینس ریس دھار سُرُون امر واش کڈتھ نہ تندر رنگ کیٹھ چھہ (ٹوٹی ہن) دوپیکھ، سہ چھہ فرماوان نہ سم چھہ اکھ کر گاو۔ تندر رنگ چھہ سبھا شوخ (تہ) سم چھہ وچین واپن سبھاہ خوش کران۔

قَالُوا إِذْ أُنزِلَتْ عَلَيْكُمُ الْآيَاتُ لَقَدْ كُنْتُمْ أَهْلَ الْأَرْضِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۳۰﴾

تمو وونس سارہ خاطر منگ (بیہ) پینس ریس دھار سُرُون امر واش کڈتھ، سم (گاو) کرڑھ چھہ؟ امر ہے چھہ امر قسمہ چہ (سارہ) گاو ہتہ بوزن بولن۔ بیہ (تھو پڑھ نہ) اگر اللہ (تعالیٰ) ہن یوزہ تہ اسی کرو ضرور ہدایت قبول۔

قَالَ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي يُسْقِطُ مِنَ السَّمَاءِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَرَكَ الْجِبَالَ جَانِبًا فَلَدَّى عُقْدًا وَمَا يَعْلَمُ السَّمَاءُ بِمَا تَحْتُ وَلَا يَسْقِطُ فِيهَا مِن شَيْءٍ كَالَّذِي لَا يَعْلَمُ الْيَوْمَ بِالْحَقِّ قَدْ بَخَّوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۱﴾

(ٹوٹی ہن) دوپیکھ سہ چھہ فرماوان نہ سم چھہ تڑھ گاو یوس نہ چھہ وانہ لاکہ آوتہ نہ زمین واپر ہے تہ نہ چھہ فصلس منگ دولن، سبھا چھہ چھہ تس چھہ کانہ وون پر رنگ (یعنی ٹوک یا داغ) ، تمو وونس وونڈ چھہ تریہ حقیقت (امر لبتہ) واشگاف کر موش۔ چناچہ تمو کر سم (گاو) ذبح بوزن وسے تہ تم اسی نہ بہ کر نہ خاطر تیار۔

وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا فَذَلِكُمُ الْعَذَابُ الَّذِي لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۲﴾

بیہ (پارو سہ وقت تہ یاد) بیلہ تو بہر اکھ شخصیں قتل (کرنگ دعویٰ) کور وک۔ پتہ کور و تندر حقہ اختلاف

سہ یہود اسی دعویٰ کران نہ امر چھہ حضرت عیسیٰ صلیبہ پیچہ کھا لبتہ مار تہ شہادت۔ بیہ دعویٰ چھہ درست چھہ حالتس منتر حضرت عیسیٰ صلیبہ پیچہ والہ آوتھ حالتس منتر چھہ کانہہ از نام مؤد مت۔

حالانکہ یہ (کثیرشہا) توہم کھینٹتے تھا وان اسو اللہ
 (تعالیٰ) اوس تر نئی راون وول -
 اتھ پیچھ وون اسو نر یہ (واقعہ) وُحیون اللہ نفس
 سوتی پیش بینہ والین کیشن بین واقعات سوتی ملناوتھ
 (اد سپرو توہم اصلیت معلوم) اللہ (تعالیٰ) چھ یتھ
 کئی معدن نرنہ کران تر توہم چھو نشانہ ہاوان یتھ توہم
 عقلہ کام ہینہو۔

تمہ بہتہ گئے بیہ تہندک دل سوت تر زن گوو تم چھ کہہ
 ہوک نہ تر کھوتہ تر ہما سوت تر کہو مشر چھینہ کینہہ
 (کہہ) بلا شک ترہ تر آسان کیو مشر دریاو نیرن چھ تر
 تمو مشر چھینہ کینہہ ترہ تر آسان یم پھٹان چھینہ تر تمو
 مشر چھ آب نیرن ہولن۔ کیو (دلو) اندر (تر) چھ کینہہ
 ترہو اللہ (تعالیٰ) ہند بیہ چھ (معانی مکان) اوسو
 بیوان۔ بیہ یہ (کثیرشہا) توہم کران چھو اللہ (تعالیٰ) چھنہ
 ہرگز تر نہ تر بے خبر۔

(اے مسلمانو! کیا توہم چھو راے نر تم (ہنودک) مانن
 تہنہر کہہ؟ حالانکہ تمو مشر چھ کینہہ لوکھ ترہو یم اللہ
 (تعالیٰ) سند کلام بوزان چھ۔ پتہ تر فکر تر نہ پتہ چھ
 (تمیک مطلب) بگاڑن۔ تر تم چھ (امر کام ہندک) بانہ چھ
 زبر پٹھو) زانان۔

بیہ سید یم لوکھ مؤمن سمکھان چھ تر و نان چھ کہہ نر
 اسی چھ مؤمن۔ تر سید یم پانہ واڈاگ کن سمکھان
 چھ تر (کہہ) اگس چھو تھ کھالان) چھ و نان کیا توہم چھو
 جس تر تمہ کہتھ و نان بیہ اللہ (تعالیٰ) ہن توہم ہرگز
 نئی راو مشر چھینہ؟ امیک تر نیر یہ نر تم کران کیو
 (زاڈا کارلو) ہندو سو اللہ (تعالیٰ) ہس بروٹھ کہہ
 توہم پیچھ حجت قائم کیا توہم چھو نا عقلہ کام ہولن؟
 کیا تم چھنا یہ (کہہ) زانان نر تم یہ کینہہ کھینٹتے تھا وان چھ
 تر یہ تم نون کڈان چھ، اللہ (تعالیٰ) چھ تر زانان؟
 بیہ چھ تمو مشر کینہہ مسٹر یم کیشنہ اپرو کہتھ و رائی

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ
 يُخَيِّئُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكْفُرُ الْكٰفِرِيْنَ ۝۶۰

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَيٰ
 كٰلِحٰجٰرَةً اَوْ اَشَدَّ قَسْوَةً ۚ وَاِنَّ مِنْ
 الْحٰجٰرَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ۚ
 وَاِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ
 الْمَآءُ ۚ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَنْهِيْطُ مِنْ
 خَشِيَّةٍ اِلٰلٰهِ وَمَا لِلّٰهِ بِغَا فِى الْعَمَّا
 تَعْمَلُوْنَ ۝۶۱

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِكُمۡ وَاَنْتُمْ كٰفِرِيْنَ
 فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلِمَ اللّٰهِ
 ثُمَّ يَحَرِّفُوْنَهَا مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَاَنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۶۲

وَاِذِ الْقَوٰلِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا
 وَاِذْ اَخْلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا
 اَتَّخَذْتُمْ اٰنۡسَابًا مَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰيْكُمْ
 لِيُخٰجِجُوْكُمْ بِهٖ عِنۡدَ رَبِّكُمْ ۚ اَفَلَا
 تَعْقِلُوْنَ ۝۶۳

اَوْ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ
 وَمَا يُخَلِّیُوْنَ ۝۶۴
 وَمِنْهُمْ اُمَّیُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّا

أَمْ آتَيْنَا إِيَّاهُمْ آيَاتِنَا فَكَنُتُوا ۝۱۱

بِ

پیشہ کتابہ ہند کہنی تہ علم چھنہ تھاوان تہ تم چھ صرف
کتھہ گنڈان

لہذا ہم لوگہ پنخیا اتھو کتاب لیکھان چھ (تہ) امہ
کہ ڈو کے (کیشٹھا) محل رتہ خاطر چھہ وانان نہ یہ
(کتاب) چھہ اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ تہنہر باچھہ
(اکھ کر لوتھ) عذاب (مقدر) بیہ (چھہ اس وانان نہ) تہنہ
باچھہ چھہ تہنہ بن اتھن ہند لیکھو متہ کہ باعتہ (اکھ
کر لوتھ) عذاب (مقدر) بیہ یہ تم کماون چھہ تمہ موکھ (تہ)
چھہ تہنہ خاطر عذاب (مقدر)۔

بیہ چھہ تم وانان نہ امہ چھو نہ (جہنم) نار کیشٹو
گنڈاؤر ہتھو دو ہو علاو ہرگز نہ۔ ڈرون (تہن) کیا توہ
چھو اللہ (تعالیٰ) سنہر بارگاہہ نشہ کاہنہ عہدہ ہوتہ
(اگر پڑھ کتھ چھہ) تیلہ کہ نہ سہ ہرگز پنسن عہدہ ہولہ
نہہ چھو توہ اللہ (تعالیٰ) ہس متعلق ترشہ کتھ وانان نیکی
توہہ (کیشٹو) علم چھو نہ۔

کیا نہ ! ہم لوگہ تہ کہ نہ ہچہ بدی کماون، تہ تہنہ
گوناہہ بیہ تمن (ترشہ ہو لوتھ طرفو) ولہ نہ۔ تم چھہ جہنم
نارس منتر سہن (اولیٰ تہ تم روزن اتھو منتر۔

تہ یو لوگو ایمان اونٹ چھہ بیہ چھہ جو نیک عمل کر منتر
تم چھہ جنس مگر ص اولیٰ (تہ) تم بسن تھہ منتر (ہر
ہیشہ)۔

بیہ (پاؤر سہ وقت تہ یاد ایلیہ امہ بنی اسرائیل پوڑتہ
عہدہ ہتراؤ نہ توہی گرو نہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراوی کاہنہ
ہنر عبادت تہ ماس ماجہ سہتو کرہ احسان۔ بیہ
دیتھ کئی) اشدان، یقین تہ مسکپن سہتو تہ۔ بیہ
(عہدہ تہ ہتراؤ) نہ لوگن سہتو کرہ مچھہ رس کلام
بیہ اسو نیماز قائم تھوان تہ زکوٰۃ اسو ادا کران۔ مگر
(امہ پتہ) کیشٹو (لوگو) وراوی گے و (تتو مہ) توہی
ساری روے گرواتی کران چھہ تھہ۔

بیہ (پاؤر سہ وقت تہ ترشہ) یلیہ امہ توہہ عہدہ ہتراؤ

قَوْلِ الَّذِي نَبِيًّا يَكْفُرُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلِ لَهُمْ
مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَذَبِيلُ لَهُمْ وَمَا
يَكْسِبُونَ ۝۱۲

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا
مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا
فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۱۳

بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ
خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۝۱۴

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۝۱۵

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَوَالِدِينَ
لِأَخْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَآقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ
مُّعْرِضُونَ ۝۱۶

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ

﴿ مَا كُفِّرُوا وَلَا تُخَفِّرُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ
 دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَزْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾

ز توہی کرو جو (پانہ وانی) خواہ نہ تو ان - بیے گدی لوگ نہ بیخو بان
 (بیے پنہ توہی لوگ) پستہو گرو اندر تہ توہی او سو (امیک)
 اقرار کورث ، بیہ بھو توہی (تہ عہدس متعلق ہمیشہ) گواہی
 دولں روڈی ہو۔

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَ
 تُخْرِجُونَ قَرِيبًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ
 تظهرون عليهم بالآثام والعُدوان
 وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُوَ
 مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ
 بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ
 فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا
 خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبِئْسَ مَا الْقِيلَمَةُ
 يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ
 بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

اد توہی لوگ بھو یکم پانہ وانی (امر عہد با وینہو) اکہ اکیس قبل
 کران بھو تہ پستہو منتر بھون اکہ جماعت گوناہر تہ فسلمہ
 سان (تہندن دشمن) اتھہ روٹ کران تہندہو گرو منتر کورث
 ژہنن - تہ اگر تم توہر نش تیدی بونہ (اماد منگہ) . من
 تہ توہر بھو لکھ فدیہ دتھ تم سیلہ تہ ترلو ناولں سینیہ زن تم
 (گرو اندر) کورث (تہ) توہر پیٹھ سلام کرنہ آمت اوس تہ کیا
 توہر بھو اکٹاہر ہندن اکیس حصص پیٹھ توہر ایمان اتان تہ اکیس
 حصص بھو انکار کران ؟ اد توہر منتر یکم یہ کران بھو جن ہند
 سزا کیا چھ تھہ (دنیائی) زندگی منتر رسولی (تہنہ) وانی
 (لوہر جن میلہ) تہ قیامت دہ بہرین تم امر کھو تہ تہ کرچیس
 فذلیس کن چھ تھہ نہہ ، تہ یہ توہر کران بھو ، اللہ تعالیٰ)
 پھتہ ہرگز تہ انتہ بے خبر۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ
 الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۶﴾
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مَوْسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ
 بَعْدِهِ بِالرِّسَالِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ
 مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ
 الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا
 تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقْنَا
 كَذِبْتُمْ وَقَرِيبًا تَقْتُلُونَ ﴿۷﴾

(بیہ) یکے بھو تم لوگ یکم یہ (دنیا بیچ) زندگی پتہ سینیہ واپس
 (زندگی) کھو تہ ژہ زمان بھو ، اوکو نہ بیہ تہندہ فذلیہ
 کم کرنہ تہ نہ بیہ تمن (بیہ کورث رنگہ) اتھہ روٹ کرتہ۔
 بیہ اوس امر (بے شک) موسیٰ ہس کتاب وژہ منتر تہ
 تس پتہ سوزی امر (تم) رسول (یکم توہر زمانان بھو وکھ)۔
 بیہ عیسیٰ ابن مریمس (تہ) وانی امر تہ نشانہ تہ روح القدس
 ووسو بخش تس طاقت (اما پوز توہر نگہ و سار نے بھہ)
 تہ اد (وانی توہی ز یہ کتھ پھنا پانہند ؟ تہ) سیلہ تہ توہر
 نش کاہر رسول سمہ تعلیم) بھتہ او ، بھتہ تہندہ نفس پندہو
 نہ کران تہ توہر کورث سکیر (ظاہر) تہ زن گونہ کینیہ اپڑاؤر
 و توہر تہ کینیہ کرو و قبل۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ
 اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸﴾

بیہ (اوس بھو پنے ز) تمو بھو (بیہ تہ) وونمت (ز) سانی
 دل بھو پروں منتر ، (مگر یہ کتھ چھینہ) تہ بکیر اللہ تعالیٰ
 ہن چھینہ تہندہ کورث موکھ تمن پیٹھ لعنت کر منتر۔ او کو بھہ

يَفْقَهُوا وَاسْمَعُوا، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ آيْمَانُكُمْ، إِنَّ كُنتُمْ مَوْءِنِينَ ﴿۵﴾

کینترھا ابر توہر ویت مت چھو تر رلو چہرہ تر تہنر
(یعنی اللہ تعالیٰ ہنر) اطاعت کرو۔ اٹھ پیٹھ ویاوتو
(یم لولکھ توہر منتر تہر وقہر ابر مخاطب اوس) تر (سپٹھا
رت گوو) ابر بوز تر (اوس چھو پتر ومان تر) ابر چھ (ہ
حکم) نہ ماتنگ فاصلہ کوڑمت تہ تہند کفر کرنہ موکلہ
گوو تہند بن دن اندر ووزھ (یعنی تھی سہند محبتک بنڈن)
جائے کر تھہ لہ۔ تر ون (تہن) تر اگر توہر مؤمن چھو تہ
سہ کام۔ سیمیک توہر تہند ایمان حکم دوک چھو، چھینہ سلٹھا
یکھہ۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵﴾
وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ آيْدِيهِمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۶﴾

تر ون (تہن) اگر اترنگ کہ اللہ تعالیٰ اہس نش (ایم)
لولکھ تراوتھ صرف تہندی خاطر چھہ تہ اگر توہر (اتھ
دعواہس منتر) پز یارک چھو تہیلہ کرک تو مرنگ تہن!
تہ (اے مسلمانو! یاد تھا ووا!) یہ کینترھا تہند لو اتھو
برونٹھ سوڑتھ تھومت چھہ تہر کوفہ مہکن تہ تم زانہہ
تہ امیک (یعنی ابر تہمکہ موتک) تہن کر تھہ تہ اللہ
(تعالیٰ) چھہ فلان زبر پٹھو زانان۔

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوةٍ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَمَا هُوَ بِمُرْضِيهِ مِنَ الْعَذَابِ، أَنْ يُعَمَّرَ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۶﴾

بہ لہر کھہ تہ لے شک تم (تہ) بہ کینہہ تم لولکھ تر یم
مشرک چھہ، ساروہ لولو ہند کھوتہ جاہ زہرگی ہند لالچی
تہو منتر چھہ (پر تھہ) اکھ (ایم) ہترھان زتس گرتھہ
ساتس وری وائس میلنہ۔ حالانکہ یہ (کھہ یعنی) تہنر
(ز پٹھ) وائس لہوہ ہیکہ تہ تہ عذابہ ہنہر بچاوتھہ، تہ
یہ کینترھا تم کران چھہ، اللہ تعالیٰ) چھہ تہ وچھان۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۷﴾

تر ون (تہن) تر یس شخص ابر باعترہ جبریل سہند
دشمن ابر تر تھی کر اللہ تعالیٰ) ہند حکم ستر چائس
وئس پیٹھہ یہ (کتاب) تارل لہہ سہر تھہ (کلاس) یس ابر
برونٹھ موؤد چھہ پوز کرن واجتی چھہ بہ چھینہ مؤمن
ہند با پٹھہ ہدایت تہ نھو شجری۔

لہ اشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ "ایک لفظی ترجمہ چھہ "تہندر دل اوس ووزھ (یعنی تہند محبت) چاوتہ آخر مطلب
چھہ تر تہند بن دن مشر اوس ووزھ ہنر پرستش کرنچ کل گئے ہنر۔

مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ثُمَّ لَيْسَ
مَآ شَرَكُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿۷۰﴾

تم کہتے ہیں انہیں اسی کی جگہ سے تم مہنوس تہ زنا تہ درمیان
(پانہ وانی) تفریق تراوان لہ اسی تم اسی تہ اللہ تعالیٰ
ہند حکم و والی کا نہ تہ کیو کہتو ہند (کی ضرر و آساوا
تہ تہ متقابلہ چھہ یکم (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہند دُشمن) سو کہتہ پنچھان یو ہہ ہمن ضرر و آساوا تہ
نفع دیکھ تہ کیہ تہ کیو لکو چھہ یقینا یہ زونمت زریس
یہ (طریقہ) پانناو، آخرتس اندر چھہ نس کا نہ تہ حصہ
تہ سہ چیزیتہ بدل جو پین پان کیہ تہ تھومت چھہ، چھہ
سیٹھا ناکا، کاش کہیم زانہ ہن۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَوُا
مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرًا لَّو كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿۷۱﴾

بہ اگر ہم لوکھ ایمان اتہ ہن تہ تقویٰ پراوہن تہ
دُشمن ترہے فکر زریس) اللہ تعالیٰ) ہند طرف سین دول
بدلہ چھہ سار و ہے کھوتہ جان (بدلہ) کاش کہیم زانہ ہن۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا
وَقُولُوا إِنظُرْنَا وَاسْمَعُوا لِكَلِمَةٍ
عَذَابٍ لِّئَلَّا تَتَّقُوا اللَّهَ

اے ایماندارو! (پہنیرس تہ کیو کہتہ کران) مہ اُسو راعِنَا
ونان بلکہ اُسو "انظُرْنَا" ونان بہ اُسو (تہنر کہتہ دیان
دقہ) بوزان بہ (تھوو یاد نہ) سکران ہند خاطر چھہ دگر
دار عذاب (مقدہ)۔

مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۷۲﴾

اہل کتابو اندر تہ بہ مشرکو اندر کیو لوکھ (ساہن رسولن
ہند) انکار کونمت چھہ، تم چھہ پسند کران تہ تو ہہ پیٹہ بہ
تہندس بہ ہند طرفہ کہہ تمک خا (تہ برکت) نازل کرنہ
تہ (تم چھہ مشراوان نہ) اللہ تعالیٰ) یس بہ تہ حال چھہ
تس چھہ پنہنہ رحمتہ خاطر تراوان۔ تہ اللہ تعالیٰ) چھہ
بوڈ فضل کرن دول۔

مَا تَسْخَرُونَ مِنْ آيَةٍ إِذْ أَنْسَأَهَا تَارَةً يُخَيْرُ

یس تہ کا نہہ پیغام اُسو منسوخ کران یا مشراوانا و ان

لہ یعنی تم دہ لوے ملک صفت بزرگ اُسو مہنودین خفیہ پاٹھ تربت دول تہ راز داری ہند
اوس یہ سال زریس راز نواوس مرد پنہنہ زنا بوش باوان تہ نہ اُس زمان پنہنہ راز چہ باوقہ
پنہنہ مردس نش کران۔

لہ عربی زباؤ متر چھہ "راعِنَا" تیلہ و تہ لوان ییلہ دہ لوے ڈرک برابر اسن۔ مطلب چھہ تہ تھا و سون خیال اکر
تہ تھا و سون خیال بگر مطلب بوڈ بزرگ آبر تیلہ چھہ "انظُرْنَا" و تہ متاوب۔ یعنی جناب سون تھا و تہ لوان
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام کر تہ و تہ تہ "راعِنَا" و تہ بلکہ پیر "انظُرْنَا" و تہ۔

مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾

تہ اسو چھو تم کہو تہ رت یا تیجھے بیو (پیغام) بیو کولہ لڑ
دنیہ ہس اندر) انان کیا تریہ چھے نا پے زرا اللہ (تعالیٰ)
پچھ پر ہتھ کتہ کتہ پیٹھ (تینیک سہ اراد کر پور) پور
تھورت تھاون وول۔

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ، وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍّ ﴿۱۲﴾

تریہ پچھے نا پے زرا آسمان ہنز تہ زمینج بادشاہی چھہ
اللہ (تعالیٰ) ہنز سے تہ اللہ (تعالیٰ) ہس و لای چھہ تہند
تہ کاہنہ دوست تہ نہ کاہنہ مدد کرن وول۔ ؟

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ
كَمَا سَأَلْتُمُوهُ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْإِنْفَكِرَ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۳﴾

کیا تو ہر چھو اپنہس پیغمبر سے پچھے کئی سوال کرنی ہنر شہان
پچھے کئی (ام) برو تھہ مؤمنی ہس سوال کرنہ امی اسو؟
بیہ (چھو مشراوان ز) ایس شخص کفر ایمان سے تہ
بدلو، (اد) (زانی تو ز) سہ ڈول سینر و تہ لہش۔

وَلَا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّدُّوكُمْ
مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَقَارِئًا بِحَسَدٍ مِّنْ
عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
الْحَقُّ فَاغْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿۱۴﴾

اہل کتاب بو منر چھہ واراہ لوکھ امہ پرتہ زرق ہتھ تہن پیٹھ
نون سپدنت، تمہ صدہ کئی ایس تہندہن پینہن زون اندر
(پاؤ سپدنت) چھہ بیہ شہان ز تہندہ ایمان انہ پتہ بناؤر
نو تہ ہر بیہ کافر۔ اد تہ ہر بزکرو ز تہن کرو تو تہا مہا
بیہ کرو (تہن) درگدر یوتما اللہ (تعالیٰ) ایس حکم تہا
فرماو۔ اللہ (تعالیٰ) پچھے بے شک پر ہتھ کتہ کرن پیٹھ
(پور) پور تھورت تھاون وول۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَمَا
تُقَدِّمُوا وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا نَيْمُكُمْ،
عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿۱۵﴾

بیہ تھادو نماز (شرطو مطابق) قائم تہ زکوٰۃ کرو ادا۔
بیہ تھادو یاد) یو سہ تہ نیکی توہی پینہن ذاتہ خاطر بروٹھ
کتن سوزو، توہی لیون سہ اللہ (تعالیٰ) ہس لہش۔ اللہ
(تعالیٰ) پچھے یقینا تہندہ اعمال و چھان۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن
كَانَ هُوَ ذَا ذُنُوبٍ مِّمَّنْ تَلَكَ مَا نَبِيُّهُمْ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۱۶﴾

بیہ چھو تم (یہودی تہ نصاریٰ) دنان ز جنتس اندر
اثر تہ تھو لوکو، وراہی ایم یہودی تہ نصاریٰ آسن، ہرگز کاہنہ
ایم چھو محض، تہندہ اور زوہ سے۔ تہ ون (تہن) ز
اگر توہی بزکریارک چھو تہندہ کرو پنڈو ڈیل پیش۔

بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۷﴾

(بیہ موزو نہ باجے لوکھ) کیا ز (اثران) نہ؟ ایس کاہنہ تہ
پین پان (اللہ) ہس پشراو بیہ آسہ نیک کام
کرن وول (تہ)، اد تہندہ ربن لہش پچھے تہندہ خاطر بدلہ

۱۳
۱۴

(چکاؤتھ)۔ تہ جن لوگن نہ آسہ (ہنہ وائس زانس متعلق) کتہ قبمک خوف تہ نہ آسن تم (کتہ پتہ مس توتھس پیٹھ) عم ہنہ والی۔

تہ یہودی چھہ زمان نہ نصاریٰ چھہ کتہ (پز) کتہ پیٹھ قائم تہ نصاریٰ چھہ زمان نہ یہودی چھہ کتہ (پز) کتہ پیٹھ قائم۔ حلا تکہ تم وہ نوسے چھہ (اکے) کتاب (یعنی تورات) پران۔ جتھ کتہ بیک لکھ علم آسہ نہ تھاوان تم تہ آسہ تہنہ سہ ہش کتہ کران۔ اوکڑتھ کتہ (کتھ) منزیم اختلاف کران چھہ تھ متعلق کر اللہ (تعالیٰ) قیامتزدہہ جن درمیان فاصلہ۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ وَهُمْ يثْلُونِ الْكِتَابَ ۚ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ فَاَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِیْمَا كَانُوْا فِيْهِۦ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۳﴾

تہ تس (شخصہ ہند) کھوتہ کس چھہ بوڈ ظالم (ہستہ بیان)۔ سیر اللہ (تعالیٰ) تہنہ مسجد و ہستہ (لوکھ) چھہ رڈ۔ نہ جن اندر یہ تمہند ناو ہنہ تہ تہنہ وارانی پیٹھ کوٹن کمر۔ بجن (لوگن) ہند خاطر ادہہ مناسب نہ جن (مسجد) اندر اثر جن مگر (صلی) کھوژان کھوژان۔ تہند خاطر چھہ دنیا ہس منز (تہ) رسوالی تہ آخرتس منز (تہ) بوڈ عذاب (مقدر)۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّتَّعَ مَسْجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذَكَّرَ فِيْهَا اِسْمُهُ وَاسْعٰی فِيْ خَرَابِهَا ۗ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّذْكُرُوْا هٰٓاِلاَ خَارِبِيْنَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۴﴾

یہ چھہ مشرق تہ مغرب اللہ (تعالیٰ) ہندی اوکڑ لوگن تہ توہم چھہ کرو سکتے آسہ اللہ (تعالیٰ) سند توحہ اللہ (تعالیٰ) چھہ یقینا وسعت دہہ وول (تہ) پٹھانن وول یہ چھہ جن زمان نہ اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ (ہنہ خاطر) اکھ نیچو ہنومت (تہنہ سہ یہ کتھ چھہہ دست کینہ) سہ چھہ (پرچہ کتروزی ہستہ) پاک۔ بلکہ یہ کینترھا آسمان تہ زمینہ اندر چھہ (تہ) چھہ سورسے تھو سندسے۔ ساری چھہ تہنہ فرما تہر دار۔

وَقَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۗ سُبْحٰنَہٗ ۗ بَلٰ لَآءَ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ کُلٌّ لَّہٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۵﴾

سہ چھہ آسمان تہ زمینہ ہند (کتہہ پرانہ نمونہ وائی) یاد کران وول تہ سلیہ سہ کتہ امرک (یعنی تس وجودس منز اتک) فاصلہ کران چھہ تہ تھ نسبت چھہ صرف یہ فراوان نہ "تہ سہ" تہ سہ چھہ بیان۔

بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَاِذَا قُضِیَ اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فَیَکُوْنُ ﴿۱۶﴾

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُعَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا آيَةً، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّتْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَوقِنُونَ ﴿۱۱﴾

ترجمہ لو کہ ہم (خدا کے ہنسنے جھکنے ہنسنے) ہم تمہاراں چھنے، چھہ دنان ز اللہ (تعالیٰ) کیا نہ چھنے اسے سہو (سید سینود) کتھ کران یا اہر نش (کیا نہ) چھنے کانہہ نشان یوان؟ یتھ کتھ (بیکل) بہنرہے ہش کتھ اکہ (ترجمہ لو کہ تر) کران ہم یکن بروئٹھ موسیٰ۔ تمن سارک نے ہنرک دل چھ سپدکڑ ہتھ ہوی۔ اسے چھ تمن لکن ہند باچھ ہم پڑھ کران چھ پڑھ دیکھو نشان نشان کڈتھ بیان کرکڑ ہتھ (مگر ہم لو کہ چھنے مانان)۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۲﴾

اسے چھک تر بے شک نھہ شخبر دہو وول تر خبر دار کرن وول (بناوتھ) حق (تر پزیر) ہتھ سوزمت تر جہنمو ین متعلق ہسی نہ تر یہ کانہہ پزیرتھ گار کرن۔

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ دَرَجَةٍ وَلَا نَصِيحَةٍ ﴿۱۳﴾

تر (تر تھو یاد) یہودی سپدے نہ زاہ تر یہ راضی نہ نہ (سپدے) نصاریٰ (تھوش) یوتانی نہ تر تہند دپنچ پاروی کرکھ۔ تر ون تمن ز اللہ (تعالیٰ) سند ہدایتے چھ پڑکڑ پاٹھ اصول ہدایت تر (اسے مخاطباً) اگر تر تمہ علمہ پتھ (تر) یس تر یہ نش امت چھ تہنزن خاہش ہنر پاروی کرکھ تر اللہ (تعالیٰ) ہند کتھ نہ اسے کانہہ چون یار تر نہ آسی کانہہ مدرکات

الَّذِينَ اتَّبِعَتْهُمْ لِكُتُبٍ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۴﴾

(ترجمہ لو کہ) یکن اسے کتاب ڈر ہنر چھنے ہم چھہ اسیج پاروی (تھتھ کتھ) کران یتھ کتھ اسیج پاروی کرکڑ پزیر۔ ہم لو کہ چھ اتھ پیٹھ (پوتہ تر) ایمان تھوان تر ہم لو کہ امیک انکار کرن تھے چھہ نو تصان سکن لکن۔

يٰۤاَيُّهَا سَرَّاءِ يٰۤاِبِلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَيُّ فُضِّلْتُكُمْ عَلٰى الْخٰلِوِيْنَ ﴿۱۵﴾

اسے بنی اسرائیل! میون سہ احسان کرو یاد یس میرے تھہ ہہ پیٹھ کورمت چھہ۔ ہسے (بیر کتھ تر) نہ میرے ڈراؤو تھہ ہہ تمام عالمن پیٹھ تھوود درہہہ

وَاتَّقُوا يٰۤاَيُّهَا مٰلَا تُجْرِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۶﴾

ہسے کھوڑو تھہ دوہس ینلرزن کانہہ شخس کتھ تر مورتس مشر کانہہ ہسے شخہہ سند قائم مقام ہیکہ نہ سپدتھ تر نہ پتھ نش کتھ تھمک معاوتہہ

قبول کرنے۔ نہ دیر تس کا نپہ سفارش فایم تہ نہ
بیسہ تہن مدد کرنہ۔

بیسہ (پاوو سہ وقت تہ یاد) بیلہ ابراہیم تہو ہندی
رین کیشرو کتھو سستی آزموو تہ تہو باو تہو کتھو)
پلوہ کر تہہ۔ (اتھ پیٹھ) فرمولس (اللہ تعالیٰ ہن)
نہ بہ چستہ تہ یقینا لوکن ہندام بناون وول۔

(ابراہیم) دوپ تس تہ میانو اولادواندہ تہ (بناوہ
زیکھ نام)۔ (اللہ تعالیٰ ہن) فرمولس (ادکیاہ ضرور
مگر) میون وعدہ واتہ تہ ظالمین تام۔

بیسہ (پاوو یاد سہ وقت تہ) بیلہ اسہ یہ گہ (یعنی خانہ کعبہ)
لوکن ہند خاطر چھپر چھپر سمجھ جائے تہ امن (دہنہ)
وول تمام ہنومت اس تہ حکم اوس ویتنت ابراہیم ہند ایستاد
روز سچ جائے بناوہ زبون نماز ہند مقام بیہ و تراو اسہ ابراہیم
تہ اسماعیلس شاکیدی حکم نہ میون گہ تھادو زبون
طواف کرن والہن تہ اعتکاف کرن والہن، تہ رکوع
کرن والہن تہ سجد کرن والہن ہند خاطر پک (تہنا)۔

بیسہ (پاوو سہ وقت تہ یاد) بیلہ ابراہیم ویناو نہ
اسے میانہ رہو! یہ بناون اکھ امنہ وول شہر تہ بیستہ
کیو روزن والہو مشریم اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ تہ
ہینو وائس دوہس پیٹھ ایمان ان تہن کرئی نہ (پر پتھ
گتہ قسکو) ہو عطل۔ (اتھ پیٹھ) فرمولس (اللہ
تعالیٰ ہن) نہ یس شخصس کفر کر تس (تہ) واتناو
ہو (توتہ) کتہ و قس تام فایدہ پتہ یمن سہ مجبور
کر تھ تاہ کس عدلیس کن تہ (بیر) انجام پتھ سلٹھانا کارہ

بیسہ (پاوو سہ وقت تہ یاد) بیلہ ابراہیم اتھ گرس
وکن کھالان اوس تہ اسماعیل تہ (اوس سیدی سیدی تہ
دو نوے اوس ونان نہ) اسے سانہ پرور دکار!
سانہ طرفہ کر تہ (یہ خدمت) قبول۔ تہ پے پتھ کھ

وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فَاتَّمَّهُنَّ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ جَاءَ عَلَيْكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالُوا وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، قَالَ لَا يَبْنَاكَ
عَمْرَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۵﴾

وَ إِذِ اجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَ آمْنًا، وَ اتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلًّى، وَ عَهْدًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ
إِسْمٰعِيلَ اَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَ الْكٰفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۱۲۶﴾

وَ إِذِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا
أَمِنًا وَ اَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن
أَمَن مِّنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قَالَ وَ
مَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ
إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَرِثَاسَ الْمَصِيْرِ ﴿۱۲۷﴾

وَ إِذِ يَزِفُّهُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَ إِسْمٰعِيلُ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۸﴾

(یس) سپٹھا بوزن وول (تہ) سپٹھا زانن وول (چھ)۔
 اے سائبر پرورگاڑا بیہ چھی ژریہ اسی پتہ اتجا کران
 نہ (اسر) دوہ لونی بناو تہ پیڑی فرمانبردار (بند) تہ
 سانو اولادو اندر تہ (بناؤن) اکھ فرمانبردار جماعت تہ
 اسر ونہر سائی (متاسب حال) عبادتکو طریقہ، تہ اسر
 کن کر تہ (پنہ) فضلہ سان تو تہ۔ بے شک چھک
 تہ (پنہن بدن کن) سپٹھا دیان دتہ وول (تہ) پھر
 پھر کر رحم کرن وول۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ مِنْ
 دُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ . وَاَرِنَا
 مَنَّا سِكَتًا وَ تَبَّ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۳﴾

اے سائبر پرورگاڑا سون چھ بیہ اتجا نہ (یکم وہے اندر
 سوزتن (تہ) اکھ تیتھ رسول یس جن چائی آسے پرتھ
 بوزناو، تہ بیہ پتھناو جن کتاب تہ حکمت بیہ کر
 تمون پاک۔ یقینا چھک تہ غلبہ تھاوان وول (تہ)
 حکمت وول۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
 يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ . اِنَّكَ اَنْتَ
 الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۴﴾

بیہ یس شخصس ورائی تیکو پن پان ہلاک کورمت اسر
 کس ہیکہ ابراہیم بندس دپس سدی روے گردانی
 کر تھ؟ تہ اسر اوس سہ بے شک تھ دنیہ ہس اندر
 تہ برگزیدہ کورمت تہ آخرتس اندر تہ اسر یقینا نیکو کاران
 سدی (گنہراونہ امت)۔

وَ مَنْ يُّزَعَبْ عَنِ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلَّا مَنْ
 سَفِهَ نَفْسَهُ ، وَ لَقَدْ اَضْطَقَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا
 وَ اِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لِمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۵﴾

ییلو ہندی پرورگاڑا کس وون نہ (سائی) فرمانبردار
 پرلو! تھو وونس (درجواب) نہ سنے چھسہ
 (برو تھ پٹھ) سارک نے عالمن ہندس پرورگاڑا
 فرمانبردار پرلو موتر۔

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ ، قَالَ اَسْلَمْتُ
 لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿۱۶﴾

بیہ کور ابراہیم پنہن تیچون تہ (تھ کئی کور)
 یعقوبن تہ (پنہن تیچون) امر کتھ ہند تھ کپد
 (تہ وونک نہ) اے میانو گو برو! اللہ (تعالیٰ)
 ہن چھ بے شک یہ دین تہند باپتھ ترورمت او
 کئی توتانی ٹرنلو نہ ہرگز یوتانی نہ توہر
 (اللہ تعالیٰ ہند) یوہر فرمانبردار سپرو۔

وَ وَصِيًّا بِهَا اِبْرَاهِيْمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يٰۤاِبْرٰهِيْمَ
 اِنَّ اللّٰهَ اِضْطَقَكَ لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا
 تَمُوتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۷﴾

کیا توہر آسواتمہ وقتہ موجود؟ ییلو یعقوبس موت
 (یعنی پتہ سات) او تہ سلیہ تمہ پنہن تیچون وون

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ
 الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ

بَعْدِيَاءَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ
آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِلَهُمَا وَاحِدًا * وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۳۷﴾

تر تو ہی کو کھڑے عبادت کرو میہ پتہ بہ پتہ تو وہی (تس
در جواب) تر اسی کو پائیس معبود (ہنتر) تو پائیس
جسک اجدادن ابراہیم تو اسماعیل تو اسحاق سندس
معبود ہنتر عبادت، ایس کئے معبود چھ تو اسی چھ
تہنڈی فرما تہر دار۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۸﴾

یہ چھ پہلے سے جماعت لے سو (پنن دور پور کر تھ) موہتر
چھتہ۔ یہ کثیرا تہر کوو (تمیک نفع نوقصان) چھتہ
تس کی کیت۔ تو یہ توہر کوو (تمیک نفع نوقصان)
چھ توہر کیت تو یہ کثیرا تہر کران اسی تھ متعلق
بیو، نہ توہر (کیتہ) پتر تھنہ۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا
قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا * وَ
مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۹﴾

توہر بوزوا، تر تم چھ بیہ وان تر یہودی یا
نصارا کی بنو، توہر کیو (تھ کئی) ہدایت۔ تر وان (تمن
تر، پتہ پاٹھی) تر، بلکہ ابراہیم ایس (خدایس کن) تمن
وول اوس تسند دین (پراوو) بیہ (تھوو یاد تر) سہ
اوس نہ مشرک کو مشر۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا
أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالرُّسُلَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَفْعَلُ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ * نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ
نُفُوسَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ وَضَعُوا
سُلْبَهُمْ * وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ﴿۴۰﴾

توہر وولو تر اسی چھ ایمان تھوان اللہ (تعالے) ہس
پتھ بیہ تھ پتھ بیہ اسر کن نازل کر نہ امت چھ بیہ
یہ کثیرا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب تو (تس کی)
اولادن پتھ نازل سیدت اوس بیہ یہ کثیرا موسیٰ
تو عیسیٰ، ہس دنہ امت اوس تو (یتھ کئی) یہ کثیرا
(باقے) نبین تہنڈک رہ ہنڈ طرفہ دنہ امت اوس
(تھ تمام وحی پتھ)۔ اسی چھنہ تھو اندر اوس
(نبیس تو بیس نبیس) در میان (کاتھ) تو (چھپہ)
فرق کران تر اسی چھ تہنڈی فرما تہر دار۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ
أهْتَدُوا * وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ
فِي شِقَاقِ فَسَيْحِكُمْ فَيَكْفُرُ اللَّهُ * وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۴۱﴾

اگر تم لوگ (یتھ پاٹھی) ایمان ان یتھ کئی توہر
تھ (تعلیم) پتھ ایمان اونٹ چھو، تو (بس)
تمو لوہ (تیل) ہدایت۔ دچھ بوزو اگر تم چھپہ
تو (زانی زبوز) تم چھ صرف اتھلاس پتھ (کمر
گڈ تھ) اتھ صلواتس اندر بجاوی تہ اللہ (تعالے)
ضرور تمن (ہنڈ شہر) رتہ سہ چھ سبھ ہے

بوزن وول (تہ) سبھ ہے زانن وول۔
 (اے مسلمانو! میں تو لو نہ اُسی تہ پڑا وول) اللہ تعالیٰ
 سُن دین۔ تہ دینس (یعنی دین بجا وول) اندر کس
 ہنیکہ اللہ تعالیٰ، ہس کھوتہ بہتر آستہ۔ اُسی
 چھ تہندی عبادت کرن والی۔

تہ وول (حسن کیا تو ہی چھوا اللہ تعالیٰ) ہس متعلق
 اسر ستر نیاے لاگان؟ حالانکہ سہ چھ سون (تہ)
 پروردگار تہ تہند (تہ) پروردگار، تہ سانی اعمال چھ سانہ
 با پتھ تہ تہندی اعمال چھ تہند با پتھ تہ اُسی چھ
 تس ستر اخلاص (یعنی نخلص تعلق) تھا وول۔

(اے اہل کتاب! کیا تو ہی چھوا (یہ) دنان نہ ابرہیم
 تہ اسماعیل تہ اسحاق تہ یعقوب تہ (تہندی) اولاد اُسی
 یہودی یا نصاریٰ؟ تہ وول (حسن) کیا تو ہی چھوا جاد
 زانان کہہ اللہ تعالیٰ؟ تہ تہند کھوتہ جاد
 ظالم کس ہنیکہ اُستہ لیس سہ گواہی کھتہ لیس
 تس نش اللہ تعالیٰ) ہند طرفہ اُسی؟ تہ اللہ
 تعالیٰ) چھ تہ ہرز تہر نشہ لے خیر یہ تو ہی کران چھو۔
 یہ چھ سہ جماعت لیسہ (پنن زمانہ بلوہ کر تھ) موہتر
 چھتہ۔ یہ کینترھا تہر کوو (تہیک نفع نو تصان) چھ
 تہر خاطر تہ یہ تو ہی کوو (تہیک نفع نو تصان)
 چھ تہند با پتھ۔ یہ یہ تم کران اُسی تھ متعلق
 یہ و نہ تو ہی پر تہر تھنہ۔

کم عقل لوکہ دن ضرور نہ یم (مسلمان) کھو چہرین پھری
 تہ قبلہ نشہ پتھ پتھ تہ (برونٹھ) اُسی (یہیہ تہ تہر
 کتھ کرن) تہ (حسن) وول نہ مشرق تہ مغرب چھ اللہ
 تعالیٰ) ہندی۔ سہ بیس یہ تہرھان چھ تس چھ اُسی
 و تھ تا وول۔

تہ (اے مسلمانو! پتھ پا تھی تو ہی اسر ستر و تھ ماڈ تہر چھو)

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
 وَنَحْنُ لَهُ عِيدُونَ ﴿۱۹﴾

قُلْ اتَّبِعُونِي فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا
 وَرَبُّكُمْ وَكُنَّا عَمَلًا لَّنَا وَكُنَّا عَمَلًا لَّكُمْ
 وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۲۰﴾

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
 وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْكَشْبَاطَ كَانُوا
 هُودًا أَوْ نَصْرَى، قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ
 أَنَّ اللَّهَ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ
 شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ
 بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا
 كَسَبَتْ وَلكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا
 تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۲﴾

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا
 وَلَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا
 عَلَيْهَا قُلْ لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ،
 يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۲۳﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

تھے پانچویں چھوٹے توہم توہم توہم پانچ امت بناؤ اور توہم
توہم (بین) لوگوں ہندو بنگال بنو تہ یہ رسول امین
تہند بنگال، تہ اسے اوس سے قبل یہ پانچ تہ (اسے بروٹھ
تایم) اوسکے، اوکو مقرر کوڑت یہ اسے بیسیس رسول
ہنر فرمانبردار کران وول شخصس تس شخصس مقابلہ کران
لیس پوت کھوری چھپر تھ گزھان چھپر تہ یہ (کھتہ) چھپر
(لوگوں کرت) تو لوگو سوائے بین اللہ (تعالیٰ) ہن ہریت
دیتت چھ ضرور مشکل تہ اللہ (تعالیٰ) چھپر (تہتہ) نر
تہند کر ایمان کر ضایع۔ اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً سارہ
انسان پوٹھ سہٹھا مہربان (تہ) چھپر چھپر کر کران
وول۔

اوس چھ جون آسانس کن چھپر چھپر توہم چھرون
وچھان روزان۔ اوکو چھروٹھ تہ اوس ضرور تھو قلیس
کن لیس تہ پند کران چھ ہن اوکو چھپر تہ ہن روے
(دوڑ) مسجد حراس کن تہ (اسے مسلمانوں) توہم
یہ تہ اوس توہم تہ اوس تھو (قیس) کن پین
روے چھرن تہ بین لوگوں کتاب (یعنی تورات) دسہ
آہتر چھپر تم چھ تہتہ پانچو زمان نر یہ (قبل بلاؤک
حکم) چھ پائس پرور دکا ہند طرفہ (سوزنہ امت کھ)
پنر تہ یہ کثیرھایم (لوگھ) کران چھ اللہ (تعالیٰ)
چھن تہ لنتہ ہرگز بے خبر۔

تہ بین لوگوں (توہم بروٹھ) کتاب دہن آہتر چھپر ہرگاہ
تہ تم لیش پر تہ (کے تہمک) نشان (تہ) پتہ بکھ
تم کران تہ (توہم) چھ تہتہ پاروی تہ نہ ہیکھ تہ تہند
تہتہ پاروی کر تہ نہ کر تہم اندر کانہہ (فرق) دوہ
(فرق) ہند تہتہ پاروی تہ (اسے مخاطب!) اگر اس
پتہ تہ نہ تہ نش چھ (الہی) علم امت، تہ تہنر
نہن ہنر پاروی کرکھ تہ تہ علوس منتر بکھ تہ بے
کھک نالیس منتر گنر راونہ۔

تہ لوگھ بین اسہ کتاب چھ تہتہ چھ تہ سہ

لَتَكُونُوا أَشْهَادًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أَوْ مَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى
عَقْبَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَكِبْرَةٌ إِلَّا عَلَى
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِلَّ أَيْمَانَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۷﴾

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَنُؤَيِّتُكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ، وَإِنَّ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّهِمْ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ ﴿۷﴾

وَلَيُنَظَّرَنَّ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ
وَجْهَهُمْ لِلْقِبْلَةِ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا فَخَالِفُوا فَخَالِفُوا
مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ
غَافِلٌ عَمَّا يُصْنَعُ إِنَّ اللَّهَ
بِالْمُفْعَلِينَ لَشَدِيدٌ
عَذَابٌ ﴿۷﴾

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَخْرَفُونَهُ كَمَا

پہنچنا وہاں یہ توہمی (برونٹھ) زانان اسوم نہ۔
 او کو تو (سینلہ بہ یوت فغیل کرن وول چھس تہ)
 توہمی تھوو میہ یاد، ہم (تہ) روزو و توہمی بلکن
 بیہ بیو میانی شکر کرن والی تہ میانی نہ شکر می کرؤ۔
 اے لوگو! یو ایمان آؤنت چھو، صبر تہ دعا کر تھ
 ٹنگو (اللہ تعالیٰ سند) مدد۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ بیشک
 صبر کرن والین سبتی (آسان)۔

بیہ ہم لوکھ اللہ (تعالیٰ) سبتر وتہ مارنہ یوان چھہ
 بہن نسبت مہ و لو (ہرگز بہ) نہ تم چھہ مورج نہ
 (تم چھہ مورج) بلکہ چھہ زندہ، وونی گوؤ تہ بہ
 چھو نہ فکر ترن۔

تہ اسی آزماو و توہمی ضرور کینترھا خوف تہ بوجھ
 (سبتی) تہ مالو تہ زوو تہ میون ہترگی (ہند) دسو
 تہ (اے رسول!) تہ بوز ناؤکھ (ہم) صبر کرن والی
 خوش خبر۔

ہیں چھہ نیل (تہ) کانہہ مصیبت بیہ (تم چھہ کارکن)
 ونان چھہ نہ اسی چھہ اللہ (تعالیٰ) ہندگی بیہ چھہ تسو
 کن چھہ تہ گترھن والی۔

یکے چھہ تم لوکھ یکن چھہ تہندک پردردگار ہند طرفہ
 برکت (نازل ہدان) چھہ تہ رحمت (تہ)۔ تہ یکے لوکھ
 چھہ یو ہدایت لوہ مت چھہ۔

صفا تہ مروہ چھہ بے شک اللہ (تعالیٰ) ہند لوشتاؤند
 او کو یس شخص امہ کرگ (یعنے فاضل کعب) حج یا عمرہ
 کر تہ تس چھہ بہن درمیان تمیز پکنس کانہہ گوناہ تہ
 یس تہ کانہہ شخص پس نہ خوشیہ کانہہ نیک کام کر (سہ)
 زانن نہ) اللہ (تعالیٰ) چھہ (نیک کارن ہند) قدر دان
 بیہ چھہ (سہ) سہا زانن وول۔

ہم لوکھ سہ (کلام) کھان چھہ یس امہ سنہو ہشتاؤ تہ
 ہایتہ سان نازل کورمت چھہ امہ پتہ نہ اسی چھہ تہ ہتھ
 کتابہ اندر نئی رتھ بیان کورمت۔ ہتھی ہوکر لوکھ چھہ

فَاذْكُرُونِي اذْ كُرْتُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا
 تَكْفُرُونِ ﴿۱۸۶﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
 بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
 الصَّابِرِينَ ﴿۱۸۷﴾

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۱۸۸﴾

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
 وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ
 الثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۱۸۹﴾

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا
 إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۹۰﴾

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ
 رَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۹۱﴾

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ
 فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ
 خَيْرًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿۱۹۲﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ
 الْبُحْتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
 لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ

اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّحُونَ ﴿۱۹﴾

یمن پیٹھ اللہ (تعالیٰ) لعنت کران چھ تہ (باقی) لعنت کران واپ (تہ) چھ لعنت کران۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا
فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ﴿۲۰﴾

آ، وہوں گنو پینو توبہ کور تہ (پین) اصلاح کورکھ تہ
واش کڈتھ کورکھ (خدا پیہ بندن ممکن ہند) بیان، ادر
یتھین لوکن پیٹھ کرم بہ فضل سان توبہ۔ بیہ پھس بہ
(پنہن بندن کرن) سبھا توبہ کرن وول (تہ) پھیر
چھیر رحم کرن وول۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَرَاءً
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۲۱﴾

پلو لوکو انکار کور تہ کفر کس حاس منہرے گے مٹتھ،
یتھین لوکن پیٹھ چھ لے شک اللہ (تعالیٰ) منہر،
ملائیک ہنرتہ بیہ سارہے لوکن ہنر لعنت۔

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
العذاب وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۲۲﴾

تم روزان اتھ منہر (آدر)، نہ پیہ ہن (ہند عذاب
کم کرن تہ نہ پیہ ہن (شاہر کھانج) موہت دہن۔

وَاللَّهُمَّ لَهُمْ آجِلٌ إِلَىٰ آيَاتِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۲۳﴾

بیہ چھ تہند معبود (پنس ڈالس اندر) کنے معبود۔ نس
ورائی چھنہ کانہہ معبود (سہ چھ) حد رؤس کرم کرن
ول (تہ) پھیر رحم کرن وول۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَخْيَأَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَشَّرَ
فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاتٍ رُوحًا تَضْرِبُ
الرِّيْحَ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۴﴾

آسمان تہ زمینہ ہنر یا والیشہ، رات تہ دنہ چھ بروٹھ
پنس تہ ہن ناوان (تہ جہازن) منہر یہ بنی آدمس نفع
دہن والی چیز ہتھ سمندر منہر جہان چھینہ، بیہ تھ آس
منہر بس اللہ (تعالیٰ) ہن اوہر منہر وول پتہ کرن تہ
ڈس زمین تہ کرم تہ ہنر تہ اتھ اندر چھال وول
پر تھ قسمکو جانہر۔ بیہ ہواون ہندس اوہر پکتاوس منہر
بیہ تھ اوہر منہر بس آسمان تہ زمینہ منہر بس مسخر
چھ، چھ (بلشک) تہ قومہ باپتھ بس عقل کام، ہواون
چھ، کرم یا (قسمکو) ہنسان۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أندادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ
الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ
أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ

تہ کینہہ لوکھ چھ تھویم غیر اللہ منہر (اللہ تعالیٰ ہس)
ہس بناوان چھ۔ تم چھ ہن اللہ (تعالیٰ) بند محبتکو
پاٹھو ٹاٹھنا کران۔ یکم لوکھ ہن چھ تم چھ سارہے
کھوتہ جہا اللہ (تعالیٰ) ہسے ول بران تہ یکم لوکھ (امر)
ظہکو مرنکب ہیرک (متر چھ) اگر تم (تھ ساعس) نیلہ
تم عذاب (برونچہ کید) وچین، (کنہ پاٹھو وہر) وچین

پہنچنے بوزان۔ ہم لاکھ چھ زر، کئی تہ اڑی اڑکھی چھکھنے
فکر تران۔

اے لوگو! کیو ایمان اونمت چھو، تمو پاکیزہ چیزو منتر
ہم اسہ توہر دتی ہتی چھو کھیپو تہ اگر توہی (پڑی پٹھی)
اللہ (تعالیٰ) ہنترے عبادت کرن چھو تہ تمی سہ شکرانہ
(تہ) کرو۔

تمو چھ توہر پیٹھ صرف مسردار، رتھ، سورماز تہ تم چیز
سوام کرو متو ہم اللہ (تعالیٰ) ہند وراہی بہہ کانہہ ہند
ناو کرنہ آہی آسن۔ وول گویس شخصس (ہم چیز ورتاوس
منتر انتر خاطر) مجور گرتھ تہ نہ اسہ سہ قولوس مقابلہ
کرن وول تہ نہ اسہ حدود ہیرتین وول ہنس چھنہ
کانہہ گناہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بود بخش مار (تہ) پھیری
پھیری رحم کرن وول۔

ہم لاکھ سو (تعلیم) کھٹان چھو ہوسہ اللہ (تعالیٰ) ہن
(الہی) کتاب منتر نازل کر ہتر چھنہ تہ تم بدلہ چھو کم
کیتھسا مول وول کران۔ تم چھو یقینا سینن یٹرن منتر
صرف نار بران تہ قیامت دہہ نہ کر اللہ (تعالیٰ) ہن
سہتی کام تہ نہ گنتر او ہن شو تری۔ بیہ چھ ہنہ
باپتھ کر یوٹھ عذاب (مقصد)۔

یکے چھو تم لاکھ کیو ہدایت تر اوتمہ گمراہی تہ مغفرت
تر اوتمہ عذاب پر وو۔ او نارس (یعنے ناکوس عذابس)
چھ ہنہ تران بانہ چھو حارانی لایق۔

یہ عذاب سپد امر خاطر اللہ (تعالیٰ) ہن چھنہ یہ
کتاب برحق نازل کر ہتر۔ تہ کیو لاکھ کیتھ کتاب متعلق
اختلاف کوہمت چھو تم چھو بے شک اٹھتھ رسو بس
عداوتس منتر (ہنہ آہتی)۔

تہند مشرقس تہ مغربس کن مہتھ کرن چھنہ کانہہ بڑ
ہکی۔ ابا پوز پور پور نیک چھ سہ شخصس ہینو اللہ (تعالیٰ)

صُمُّ بَكْمَ عُمِي فَهَمْ لَا يَخْقَلُونَ ﴿۱۷﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اكْلُوا مِن طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
رَآيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۸﴾

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَ
لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُودٌ ذَوِجَبِّمٌ ﴿۱۹﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا
النَّارَ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۰﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰةَ
بِالْهُدٰى وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا
أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۲۱﴾

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَ
إِنَّ الَّذِينَ اٰخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي
شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿۲۲﴾

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَنَّمَا
إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۸۱﴾

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤَسِّسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا
فَأَضَلَّهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۸۲﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۸۳﴾

آيَاتِ مَا مَعَدُّوْنَ لِكَ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ،
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهُ ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾

شَهْرٍ مَضَى الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْأَنْزِلَاتِ
الْقُرْآنِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ

تقویٰ کرن والین پیٹھ پچھ (یہ کہتہ) واجب۔

مگر ایس شخصیں یہ (وصیت) تمہارے کہ بوزن پیتہ بدلاؤ تہ
تمہیک گوناہ پچھ صرف پچھنے یک تمہ بدلاؤن۔ اللہ (تعالیٰ)
چھہ بے شک زہر پانچھ بوزن وول (تہ) سبھا زانن وول۔

اد ایس شخصیں کانہہ وصیت کرن وایس لیش طرفدارکی
یا گوناہ (سوزد) سیدس کھوڑ تہ تمن کرناو پانہ وازی
صلح ، تیلد چھہ تس کانہہ گوناہ۔ اللہ (تعالیٰ) بہتھ

بے شک بوڑ بختن مار تہ پھیرک پھیرک رحم کرن وول۔
اے لوگو ایمو ایمان اونٹ چھو، لوہ ہر پیٹھ تہ چھہ بوزن
درنہ (پچھ پانچھ) فرین کرنہ آمت پچھ پانچھ تمن
لوکن پیٹھ فرین کرنہ آمت اوس یک توہہ ہر وچھ گذرے
ہتر چھہ۔ چھہ توہی (روحانی تہ اتلائی گمزورینشہ) پچھو۔

(اوبو ڈرو توہی روز) کینہہ گرنیز ہندک دودہ۔ تہ
توہ ہر مشر ایس شخصیں بیمار آسہ یا سفرس مشر آسہ
تس پز بین دین مشر گرنہ (پوہ کرنہ) تہ تمن
لوکن پیٹھ یک امیک (یعنے روزہ درنک) طاقت آس
نہ تھاولن، چھہ (قدیر کنہ) اُکس بسکینہ مند (مقدور)
مطابق (کھون دین واجب۔ تہ ایس شخصیں پوہ فرماہ دارکی
سان کانہہ نیک کام کر یہ آسہ تہند خاطر بہتر تہ
اگر توہی علم تھولن چھو تہ (تیلد ہیکو و توہہ فکر تہ
نہ) تہنہ روزہ درنہ چھہ تہند خاطر سبھا جان۔

رہناتک رچھ چھہ (سہ رچھہ) سبہ کہ حقہ قرآن (اگر)
نازل کرنہ آمت چھہ۔ (سہ قرآن) ایس سارنہ انسان
ہندہ خاطر ہدایت (بتاؤدھ سوزنہ آمت) چھہ۔ تہ
ایس پانس اندر صاف دلائل تھولن چھہ (تہ دلائل)
یکن ہدایت وہ پلان چھہ تہ آتھ سدی چھہ (قرآن مشر)

تفصیلی احکام برونیچے بیان کرک ہتر۔ بلکہ مایس ماجہ تہ آشنان سدی رت سلوک کر پچھ وصیت
یا پسہز جایداد چھہ وصیت یا یہ تاکید کرن ز میوں جایداد گرنہہ شرعیہ مطابق یا گرنہہ یں یا
فلانی فلانی غار وارث آشنان تہ گرنہہ کیشرا دین۔

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا
لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۱﴾

الہی نشان تہ ۔ او کبڑ توہر مشرئیں شخصیں یہ رتھہ
(اتھہ حلس مشر) و پھہ (رہ سہ نہ آسہ بیار تہ نہ آسہ
سفرس مشر) تس پیز نہ سہ در یہ (رتھہ) ۔ تہ لیس
شخصیں بیار آسہ یا سفرس مشر آسہ، تس پیٹھ چھیلے
بین دہن مشر گرہند (پوہ کرہ واجب) ۔ اللہ (تعالیٰ)
چھ تہند با پتھہ سہولیت بیشرھان تہ تہند با پتھہ چھینہ سہولت
بیشرھان ۔ تہ (یہ حکم چھہ تمہو امہ موکھہ و میت نہ پتھہ
توہر شکی مشر ہوتہ پتہ تہ) چھہ توہر گرہند پوہ کرہ
تہ اتھہ (کتھہ) پیٹھہ کرہ اللہ (تعالیٰ) سہد کجہر (بیان)
نہ تمہو چھو توہر ہدایت دیتہ یہ چھہ توہر (توہر سہد)
شکر کرن والی ہونو ۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَا ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۳۲﴾

تہ (اسے رسول!) بیلہ میاڈ بندہ تہیہ میہ متعلق پڑھ
تہ (تہ و کھ جواب نہ) یہ چھس (بھن) نہر دیک (ہہ)
بیلہ دعا کرن وول میہ اودہ تہ یہ چھس سہد دعا قبول
کران ۔ او کبڑ پیز نہ تم (دعا کرن والی تہ) کرن میون
حکم برسر تہ میہ پیٹھہ اغن ایمان چھہ تم ہدایت لین ۔
توہر چھو روز دہی ہنن راترن مشر سپنن آسٹہن
نش گرھتھک اجازت ۔ تم چھیلے تہند با پتھہ اکھ (یعنے
اکر قہمک) لباس تہ توہر چھو تہند با پتھہ اکھ (یعنے
اکر قہمک) لباس ۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ زانان نہ توہر آسہ
و سپنن نفس ہنرتق تھنی کران او کبڑ کور تمہو توہر سہ
پیٹھہ فتنہ ستر توہر تہ تہند (امر حاضر ہند) کورن
اصلاح ۔ لہذا گرھو توہر و و ہر (بے فکر یا تمہو) بھن
نش ۔ تہ یہ کیشھا اللہ (تعالیٰ) ہن تہند نا طر مقدر
کورمٹ چھہ تہ رھانڈو ۔ یہہ کینو تہ چنیو یونانی توہر
صبح سفید کھ سیاہ کھہ نشہ بیون ہونہ پیٹھہ ۔ امہ
پتہ کرہ (صبح پیٹھہ) کاکٹ تام روز پوہ ۔ تہ یہیلہ
توہر سون مشر اعتکافس (بہتھہ) آسہ تہ بھن (یعنے

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى
نِسَائِكُمْ ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَهُنَّ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَلُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنكُمْ ، فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَتَمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ وَ
أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ ، فَلَا تَقْرُبُوهَا ، كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ

الْكُفْرَيْنِ ﴿۱۷﴾

جنگ (شروع) کرن نہ۔ تہ اگر تم توہمہ سستی (تہ تہ) جنگ کرن۔ تیلہ کر لیکھ توہمہ تہ تم قتل۔ بین کافرن کیت چھ یو ہے سزا۔

اد اگر تم بازمین، تہ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک بوڈ بختن مار (تہ) پھیر پھیر کر رحم کرن وول۔

بیہ کرو توہمہ جس سستی توت تام جنگ نہ کاشہہ ہنتہ روز نہ پتھ کن باتے تہ دین سید محض اللہ (تعالیٰ) ہند تھطرے۔ اد اگر تم بازمین تہ (یا تھوور) ظالمو وراے پھتہ کاشہہ پیٹھ رٹھ (کھارن بجائز)۔

سرمہ وول ریتھ چھ سرمہ واپس ریتس بدل تہ سار نے عزتہ والین چیزن ہند (یعنی تہند جنگ) چھ بدلہ ہتہ یوان او کوئی لیس شخص توہمہ پیٹھ جوتی کر توہمہ ہینوئس (تسنز) جادتی ہند (توت) بدلہ ہتہ ہن نحو توہمہ پیٹھ جادتی کر ہتہ آسہ تہ اللہ (تعالیٰ) سد تقویٰ پراوو بیہ تراوہ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک تقویٰ کرن والین سستی (آسان)۔

بیہ کرو اللہ (تعالیٰ) ہتہ و تہ منتر (مال تہ جان) تریج تہ ہینوہے اتھو مہ تراوو (ہین پان) ہاکس منتر بیہ کرو احسان تہ ہتہ زر۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک احسان کرن والین سستی ٹاٹھتار کرن۔

بیہ کرو اللہ (تعالیٰ) ہند (راضی گزہنہ) موکھ حج تہ عمرہ یوہ۔ ہتہ اگر توہمہ (کے باعہ کوز حج تہ عمرہ کرن ہتہ) ٹھاکناوہ ہینو ادیہ کیتھا قربانی توہمہ ہتہ سیدرو (کرو ذبح) تہ یوتانی نہ قربانی ہینہ جایہ پیٹھ واپہ، ہینہن کلن مہ کا سو مس۔ تہ لیس کھاہ توہمہ منتر ہتہ آسہ یا ہینہ کلہ (واد) سستی تن تکلیف (واتان) آسہ (تہ اگر مہ کس مہ کاساوی) تمس پیٹھ آسہ (امموکھ) روزن یا صدقہ یا قربانی ہند رنگہ کینہہ ہدیہ (واجب)۔ ہتہ تیلہ توہمہ امس منتر

فَاِِنْ اَنْتَهُوَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ ذَّحِيْمٌ ﴿۱۸﴾

وَكَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِِنْ اَنْتَهُوَ فَلَا عُدُوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹﴾

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۰﴾

وَانْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۲۱﴾

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ؕ وَلَا تَخْلِقُوْا اِدْوَسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ صَبِيًْا اَوْ صَدَقَةٌ اَوْ وُسْلٌ ؕ فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيًّا مِّثْلَةَ اَيَّامٍ فِي

بہ نیت پڑھ لوگھ (پوت) پھیران رُوڈی ہتی چھ تتی
 پڑھ پھیر توہی تہ (پوت) تہ اللہ (تعالیٰ) ہس
 مُنکو مغضرت۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک بخش بار
 (تہ) چھیر چھیر گرم کرن وول۔

پتہ نیلہ تو، سینہ عبادت پرور کر تھہ مع کلو تہ ()
 پرانس زمانس منتر (پتہ جد اجداد یاد کرن کر پانچ
 کر لئون اللہ (تعالیٰ) یاد۔ یا (اگر ہنیو تہ تمہ
 کھوتہ تہ) جادِ دل گنڈتھہ کر لئون یاد۔ کیئہ
 لوگھ چھ تھو ییم (ینی) ونان روزن چھ زراے
 سانہ پروردگار اسہ دتہ پتھو و تہ ہس اندر آرام
 تہ تہند چھتہ اترس منتر کانہہ تہ حصہ آسان۔
 تہ تمن اندر چھ کیئہ (تھو تہ آسان) ییم ونان
 چھ زراے سانہ پروردگار! اسہ د (بھد) و تہ
 ہس منتر (تہ) کامیابی تہ اترس اندر (تہ د)
 کامیابی بہ پچا و اسہ نار کہ غذا بہ لیتہ۔

یکے چھ (تم لوگھ) پہند خاطر تہنر (نیک) کماہ
 موگھ (ٹوایک) اکھ سپٹھا بوڈ حصہ (مقدر) چھ
 تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپٹھا جلد حساب چکاون وول۔
 بیہ کر لئون (بیم) گنڈتھہ دوہن منتر اللہ (تعالیٰ)
 یاد۔ پتہ یس شخصس وترھ کر (تہ) دوہن دوہن
 منتر بے (گڑھ واپس) یس چھتہ کانہہ گوہناہ تہ
 یس شخصس پتہ روز تس (تہ) پتھن کانہہ گوہناہ
 (یہ وعد) چھ نلس شخصہ سبہ باپتھ یس تقوی
 پراو تہ توہی پراو اللہ (تعالیٰ) سند تقوی
 تہ زانو ز توہی ساری ہیو (اگر دوہہ) سونہر اوگھ
 تس بروٹھ کن ہنہ۔

بیہ چھ کیئہ انسان تھو (تہ آسان) پہنر کتھ
 دیہیہ) دنیا چہ زندگی متعلق توہہ (سپٹھا) پرینو
 چھیم معلوم سپدان تہ تم چھ (کتھہ کرنہ) ورتھہ
 (اعلامس) پتھ یس تہندس دس اندر چھ، اللہ

تُمْ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
 وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿۳۰﴾

فَإِذَا قُضِيَتْكُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا
 اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ
 ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا
 آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
 مِنْ خَلَقٍ ﴿۳۱﴾

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
 الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
 وَقَدْ آتَى النَّارَ ﴿۳۲﴾

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ
 سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۳۳﴾

وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ فِي آبَائِهِمْ تَخَبُّهُ
 فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
 وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ لِمَنِ الْاِثْمُ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ ﴿۳۴﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا
 فِي قَلْبِهِ ۗ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿۳۵﴾

(تعالے) ہس گواہ مھبراوان حسانکرم بھم بھم (کر) سارنے لڑایہ کرن ہند کھوتہ جاد لڑایہ گری آسان۔
 بیہ بیلیہ تم تا کم بنان چھ تہ فساد (پاؤ) کرنہ
 تہ زراعت تہ مخلوق تباہ کرنہ کہ غرضہ چھ تم (سار
 ہے) ملکس اندر دوان پھیران۔ حسانکرم اللہ
 (تعالے) پھنہ فساد پسند کرن۔

بیہ بیلیہ بھن و نہتہ بیہ ز اللہ (تعالے) سند
 تقویٰ پراوو تہ (پینو) عزت (رچھتہ ہند)
 چھتہ بھن گو تہ ہس پھہ آما کرن۔ لہذا امہ
 (تسمہ کین لوکن ہند) خاطر چھ جہنم کافی تہ سوہ
 چھتہ یقیناً سلہٹھا کچھ روزن جاتے۔

بیہ چھ کینہ انسان بھو (تہ) آسان بھ اللہ
 (تعالے) سند رضا حاصل کرنہ موکھ پنس زوس
 کینہ (ہے) ترہناک چھ تہ اللہ (تعالے) چھ
 (پنسنن پھنن اخلامہ والین) بدن پھہ سلہٹھا
 شفقت کرن وول۔

اے لوگو! یو ایمان اوتمت چھو، توہی ساری
 بیو فرمانبرداری (ہندس ڈائرس) ہنر تہ شیطانس
 سینو مہ پکبو پیرس پود رلاوتھ۔ سہ چھ بے شک
 تہند نون دشمن۔

بیہ اگر توہر امہ باوجود تر توہر ہنش چھ ٹاکار نشانہ
 آتہ زنگہ نٹے و تینہ زابو ز اللہ (تعالے)
 چھ بے شک غالب (تہ) حکمتہ وول۔

ہم (لوکھ) کتھ (کتھ) چھ امہ وراہی پیار و فی ز اللہ
 (تعالے) بین جن ہنش اوہر ساین مشر بیہ (بین)
 فرشتہ (تہ) اچہ کتھ ہند قاصد بین کرنہ تہ ساری
 معاملہ چھ اللہ (تعالے) ہسے کن پھیرتھ گزہان۔
 (تہ) یعنی اسراٹیلن پر ترھو تو ز امہ کا تیاہ
 نئی نئی نشانہ اسو جنم دتی متی تہ بیس شخص اللہ
 (تعالے) ہنر (کاہنہ) نعمت بدلاو امہ پتہ ز سوہ

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
 فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ
 لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۳۱﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ
 الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهَا جَهَنَّمُ ۗ وَ
 كَيْفُ الْمَهَادِ ﴿۳۲﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ
 ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ
 بِالْعَبَادِ ﴿۳۳﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي
 السَّلَامِ كَآفَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
 الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۳۴﴾

فَإِن زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ
 فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۵﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي
 ظُلُلٍ مِّنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ
 الْأَمْرُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۳۶﴾

سَلِّ بِنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّنْ
 آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الحَقَابِ ۳۷

سیدس حاصل (تہ تحریر آسہ یہ حقیقت نازی ہنرا) اد
 (سہ تھاون یاد زہ) اللہ (تعالیٰ) پھہ سجت سزا
 دہ وول۔

یو لوکو کفر پروومت پھہ تمن پھہ دنیاوی زہندی
 غوش شکل کر تھہ لونہ آہتر تہ تم پھہ تمن لوکن
 ٹھہ کران یو ایمان اوتمت پھہ، تہ (تھہ مقابل)
 یو لوکو تھوی پروومت پھہ تم گنہن یمن (کفار)
 پھہ قیامت دہہ غالب۔ تہ اللہ (تعالیٰ) یس
 پترھان پھہ تس پھہ بے حساب دوان۔

ساری لوکھ اسی کے (خیال تھوان)۔ پترہ سوزی
 اللہ (تعالیٰ) ہن نبی غوشخبر دہہ والی تہ خبردارکن
 والی بناوتھہ۔ بیہ سوزان تمن سترہ حق پھہ کتاب
 پھہ سہ (یعنی اللہ تعالیٰ) لوکن درمیان تمن
 کھن متعلق فاصلہ کر یمن مشرتمو اختلاف یاد
 کورمت اول مگر (سید بیہ زہ) صرف ہموہ لوکو
 یمن سہ کتاب دہہ آہتر اس کور، تمہ پترہ زہن
 بشو اسی ٹاکاہر نشانہ آہتر، پانہ وانی سرکشی
 (تہ فساج) کفر تھہ (یعنی کتابہ) متعلق اختلاف۔ اد
 کفر فی اللہ (تعالیٰ) ہن مؤمن پنہ حکمہ سترہ تھہ
 پترہ تام پھہ متعلق یو لوکو اختلاف کورمت ادس
 تہ اللہ (تعالیٰ) یمن پس پند کران پھہ تس پھہ
 سیز وتر پھہ پکناوان۔

کیا تو بہ چھو زانجہ تھومت زہ تو ہی گزہو جناس
 اندر دا نزل؛ امہ باوجود زہونہ چھنہ تو بہ پھہ تمن
 لوکن ہنر (ہش تکلیفچ) حالت آہتر، یکم تو بہ
 بروٹھ گدرے پترہ پھہ، تمن وائر تنگی (تہ) تہ
 تکلیف (تہ)، بیہ آسے تم زہر پٹھو کھوتر ناوتہ پھہ
 زہ (تہرہ و تھک) رسول تہ تس سترہ ایمان ان والی
 ون زہ اللہ (تعالیٰ) سہ مدد کرنا واتہ؛ یاد
 تھوو! اللہ (تعالیٰ) سہ مدد پھہ بے شک نزدیک

ذِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
 يَسْحَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ
 الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْيٰقِيْنَةُ
 وَاللّٰهُ يَزِدُّكَ مِنْ يَّشَاءٍ بِخَيْرٍ حَسٰبٍ ۝۳۷

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ قَبَحَتْ
 اِلٰهَ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ
 اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
 بَيْنَ النَّاسِ فَيَمَّا اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ
 اٰخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ
 مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ
 فَهَدٰى اِلٰهَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اٰخْتَلَفُوْا
 فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِ اللّٰهِ يَهْدِي
 مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝۳۷

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَاَنْتُمْ
 لَا تَكُوْمُوْنَ مِثْلَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
 مَسْتَهْمِلِيْنَ الْبٰسِ اَسَءُ وَالضَّرَءُ وَاَنْتُمْ
 حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَضُرُ اللّٰهُ اِلَآءَ اَنْ
 نَضُرَ اللّٰهُ قَرِيْبًا ۝۳۷

أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰﴾

لوگھ چھ بے شک اللہ (تعالیٰ) ہند رحیمکو وو میدور
تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپہا بخش مار (تہ) پھیری
چھ پھر رحم کرن وول۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ،
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُثْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾

تم چھی تریہ شرابس تہ زارس متعلق پیرتھان
تہ ونگھ (زہ) بکن (کاہن) منز چھ بوڈ گوناہ
(تہ لوقصان) ، بیہ چھ لوکن ہند خاطر بکن اندر
(کویا) فایڈ (تہ) مگر تہند گوناہ (تہ لوقصان)
چھ تہند فایڈ کھوتہ سپہا ہوڈ۔ بیہ چھی تریہ تم
(لوگھ) پتہ) پیرتھان زہ تم کیا کرن خرچ بہ تہ ونگھ
زہ یوت نہ کلپنس منز تراوہ۔ چھ کوی چھ اللہ
(تعالیٰ) پنہر حکم تہند باچھ بیان کران چھ توہر
سوچس کام پنیو۔

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
الْيَتَامَى ، قُلْ لِاصْلَاحٍ لَهُمْ خَيْرٌ ، وَإِن
تَخَاطَبُوا فِيهَا حَوْلَ اللَّهِ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَاَعْتَنَتَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۲﴾

چھ دنیاہس متعلق (تہ) اتنس متعلق تہ بیہ چھی ہم
(لوگھ) تریہ یقین متعلق (تہ) پیرتھان۔ تہ ونگھ (زہ)
بکن ہند اصلاح کرن چھ سپہا زہ کام۔ تہ اگر
توہر بکن سدی رلیتہ مپلتہ روزو تہ (تہ) منز چھ
کاہنہ خرچ تہ کیاہر) تم چھ تہند بایہ تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ فساد کرن واپس ، اصلاح کرن واپس مقابلہ زہ پانچو
زانان۔ تہ اگر اللہ (تعالیٰ)۔ سترہ ہے تہ۔ توہر
تراوہ ہے و متفقس منز۔ اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً
غالب تہ حکمتہ وول

وَلَا تُشْرِكُوا بِالْمُشْرِكِ حَتَّىٰ يَبُوءَ مِنَّا
وَأَمَةٌ مُّؤَمَّنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ، وَلَوْ
أَعَجَبْتُمْ كُمْ ، وَلَا تُشْرِكُوا بِالْمُشْرِكِينَ
حَتَّىٰ يَبُوءُوا مِنَّا ، وَكَعْبَدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ ، وَلَوْ أَعَجَبْتُمْ ، أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ

تہ توہر مہ کرو مشرک زانن سدی خاندن یوتانی
تہ تم ایمان ان۔ تہ اکھ مؤمن کثیر چھ یقیناً
اُکس (آزاد) مشرک زانہ ہند کھوتہ جاو جان آسان
اڈ سہ آسی تنو توہر (کا تراہ تہ) پسند۔ تہ (تہ)
پاٹھی) مسلمان زانن مہ کرو مشرک مردن سدی خاندن
(توتانی) یوتانی تہ تم ایمان ان۔ تہ اکھ مؤمن
غلام چھ اُکس مشرک (آزاد) ہند کھوتہ (تہ) یقیناً

لہ عفو لفظکی چھ تریہ معنی ، اسرار کھوتہ شوتہ ، پنہر ضرورتہ علاو ، یہ منگنہ وراس دینہ بیہ۔

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۴﴾

جادو جان آسان۔ یاد دوسے سے توہمہ (کوتاہہ) پسند
آسی و، ایم لوگھ پچھ تارس کن الو کران تہ اللہ تعالیٰ
پچھ پستہ حکم سستی جنتس تہ مغفرتس کن ناد
دوان تہ لو کن ہندہ پاپچھ پچھ پیڑی (معرفتی) نشانہ
واش کدھہ بیان کران سیتھہ تم نصیحت رن۔

بیر جھی ایم (لوگھ) تریہ ماہواری (ہند بن دوہن نتر آشرہ
نش گڑھتس) متعلق (تہ) پیر زھان۔ تہ کدھہ زہ
سہ پچھ کدھ ضرر واتان وول (کار)۔ او کوئی رُو زو
توہری ماہواری (ہند بن دوہن) منتر آشنو لنتہ الگ
تہ یوتانی نہ تم پاک (تہ صاف) سپدن، جن نش
مہ گڑھو، او سیلہ تم سران کر تھہ پاک سپدن تہ
پیاری کو توہمہ خدای حکم دیتت چھو (تپاری) بیو
جن نش۔ اللہ تعالیٰ پچھ (جن سستی) ایم پھپر
پھپر تہ کن رجوع کران چھہ اے شک ٹاٹھنار کران۔
بیر پچھ (سہ ظاہری تہ باطنی) صفائی تھون ولہن ستر
(تہ) محبت کران۔

تہنتہ آشرہ چھہ تہندہ پاپچھ (اکتھمک) زمین زراعت
او کوئی توہمہ پتھ کو تہ پتھو پینس زراعتس
نش بیو۔ تہ پاس کیت سُو رُو (کیشھا) بروٹھہ (تہ)
تہ اللہ تعالیٰ سُد تقوی پر اوو۔ بیر ترائو ز توہمہ
چھو نش روبرو سپدن والی۔ تہ تہ د مؤمنان تھہ
دوہس متعلق) خدش نصیر۔

تہ توہمہ مہ بتا ولون اللہ تعالیٰ نیک سلوک کرنس
تقوی کرنس تہ لو کن درمیان اصلاح کرنس (یعنی پتھن
معاملن) منتر سینتہن قسمن ہند نشانہ تہ اللہ تعالیٰ
پچھ زہر پاطھی بوزن وول (تہ) سٹھا زانن وول۔
اللہ تعالیٰ کرے و نہ توہمہ تہندہ پو قسمن منتر لہو

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ هُوَ
أَذَىٰ فَاَعْتَرِزُوا ۖ وَاللِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ
يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۲۵﴾

نِسَاءٌ كُمْ حَزَبَتْ لَكُمْ فَأْتُوا حَزَبَكُمْ
أَن تَشْتُمُوهُنَّ قَدْ مَوَّالًا نَفْسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُونَ ۚ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۶﴾

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ
أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ
النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۷﴾

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

لہ لہو قسم چھہ تم قسم ایم عاوتہ کو کھینچہ پوان چھہ، یا کدھہ وقتہ چھہ انسانس شرارت آسان
تہ سہ پچھ سوچینہ کرنہ ورائی قسمن ہاون۔ مگر ایس قسمن زان تھہ ماہونہ بیہ شتھہ پچھہ
پچھ انسان رنہ پوان۔

وَلَكِنْ يُوْأخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوْبُكُمْ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۷﴾

قسمن پیٹھ باز پیرس۔ ووه فی گوو میس (گوناوا)، تہندلو
دلو (اراد کرٹھ) کموو تھہ پیٹھ کرک و لوہبہ
باز پیرس۔ تہ اللہ (تعالیٰ) پٹھ سہٹھا بختن مار (تہ)
بردر بار۔

لِلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ مَبْرُؤً
اَزْبَعَةً اَشْهُرًا قٰنَ قٰنًا وَاِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۸﴾

یم لوکھ پنہنیں آسنہن (متعلق) قسم کھیوان (تہ تمن نیش الگ
روزان) چھ۔ تہندہ خاطر چھ (صرف) ترورن رہتن
تام پیلان (بایز)۔ اڈ اگر (آتھ و قس متر صلح
کرنو کہ خیال) رجوع کرن تہ اللہ تعالیٰ چھ یقیناً
سہٹھا بختن مار (تہ) پھپر پھپر رحم کرن وول۔
تہ اگر تم طلاق فاصلہ کرن۔ تہ اللہ (تعالیٰ) پٹھ
یقیناً سہٹھا بایز وول (تہ) سورے زان وول۔

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ ﴿۲۹﴾

تہ یمن زنان طلاق میلہ تمہ تھون ترین حیض (یعنی
تریبہ لڑ حیض پیش) تام پین پان ٹھاکا و تھہ تہ اگر
تمن اللہ (تعالیٰ) ہس (پیٹھ) تہ آخر تہ کس دوسرا
پیٹھ کہاں چھ تہ (تمن روزن خبر زہ) یہ کثیرھا
اللہ (تعالیٰ) ہن تہندہ من شری بان من پاد کرٹھ
تھومت چھ۔ تہندہ با پتھ چھنہ نہ کھن بایز تہ اگر
تہندہ خاوند پانہ وادی اسلوح کرنک اراد کرن تہ تم چھ
اتھ (مدتس) اندر اندر تمن (پنہ آتہ بناوتھ) (۲۸)
واپس نہک جاد حقدار۔ تہ پتھ پاٹھو یمن (زنان)
پیٹھ کیپہ ذمہ واپر چھنیہ۔ قاید مطابق چھ (تہ)
کئی (تمن تہ) کیپہ حقوق) حاصل، ووه فی گوو مردان
چھنیہ جمن پیٹھ اگر رنج برتری حاصل۔ تہ اللہ
(تعالیٰ) پٹھ غالب تہ حکمت وول۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوْبٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَزْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ
يُوْمِنَنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَا
بِعُوْلَتِهِنَّ اَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ
اَرَادُوْا اِلْصَاحًا وَا لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيِهِنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ وَا لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَا
اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۳۰﴾

لہ ایلا و چھتھ متمس زمان میس خاوند پیہ زانہ سہتو دون بازن ہندہ تعلقات ترمنس ہست کھیوان
چھ پیٹھ شخص ہیکر جابو کھوتہ جاد ترہن رہتن تعلق ترٹھہ، تہ پتہ پتہ پتہ یا صلح کرن یا طلاق وین تہ تم چھ
لاہر تھہ۔

الطَّلَاقُ مَزْنٌ مَقَامُ سَاكِنٍ بِمَعْرُوفٍ
 أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ، وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ
 تَأْخُذُوا بِمَا أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
 يَخَافَا إِلَّا بُقْيِمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۰﴾

تینہ طلاق (بیعتہ منتر رجوع ہیکہ سپدہ) پچھ
 دوہیہ لٹ سپدہ ہیکان (تمہ پتہ گرتھ (یا تہ)
 مناسب طریقہ سپدہ (سہ) تھا کتاوئی یا گرتھ پتہ
 سلوکہ سان روخصت کرنی تہ تہندہ باپتہ پھتہ
 تریک (یعنی تمہ مالک) یس توہہ پتہ بروکھوت
 مت پھو، کاتہہ حصہ تہ (والس) نیلن جائزہ
 (صورتہ) ورازی زبین (دوہ لونی) آسہ خطہ ز
 تمہ ہیکن نہ اللہ (تعالیٰ) ہندہ (گندہ ہتہ) حد
 قائم تھوتھ۔ لہذا اگر توہہ یہ اندیشہ آسہ ز
 دوہوے ہیکن نہ اللہ (تعالیٰ) ہندہ (گندہ ہتہ)
 حد قائم تھوتھ۔ تہ سو (زمان) یہ کتہ شہا فدیہ
 کنہ دیہ، تہ متعلق آسہ نہ ہیکن (دوہ لونی) مشر
 کائتہ (کاتہہ گہناہ۔ ہم پچھ اللہ (تعالیٰ) ہندہ
 (گندہ ہتہ) حد۔ او کتہ مہ نہو توہہ ہتہ
 تہ ہم لوکھ اللہ (تعالیٰ) ہندہ (گندہ ہتہ)
 حد و ہتہ نیک (زادی تو ز) تے لاکھ پچھ (اصل)
 ظلم۔

پتہ اگر (پچھہ کنہ بیان کرنہ آمتنہ دوہن طلاقن
 ہندہ گدزنہ پتہ تہ خاند تہس تریہیم) طلاق دیہ تہ
 سوہ زمان آسہ نہ (تمہ پتہ) تمہ ہندہ خاطرہ جہا پتہ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَكَ مِنْ بَعْدِ حَتَّى
 تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ

لہ عام طور پچھ سانہ زمانہ عالم یہ زمانہ زبیس شخص پینہ آسنہ پکوٹے ترے طلاق دیہ تہندہ طلاق پچھ
 بائن سپلان یعنی پتہ ہیکہ نہ سہ تہس سوتہ تو تام بیہ خاندہ کرگرتھ؛ یو تام نہ سوہ بیہ کائتہ مردوس سوتہ
 خاندہ کرگرتھ نمہ گرتھ یا تہس طلاق ہیکہ نہ۔ اوے پچھ کتہرو مولویو حلوک غار اسلامی مسئلہ
 کوڑمت۔ صحیح صورت پھتہ یہ زقرآن کریم پچھ فرماوان الطَّلَاقُ مَزْنٌ یعنی طلاق بائن
 پچھ دوہیہ لٹ سپدہ ہیکان پچھ پتہ ز گوتہ دیہ مرد پینہ زمانہ ہندہ طہرس (یعنی بین
 دوہن سوہ پاک آسہ پتہ منتر طلاق تمہ پتہ ہیکہ سہ طلاق واپس تہ رجوع کر یا عدت موکلنہ
 پتہ کر سہ پینہ زمانہ سوتہ نو نکاح، پتہ بیہ کتہ ساہ پانوازی ناچاکی سپدس پچھ دیہ سہ مرد پینہ زمانہ
 طلاق۔ گو یا طلاق پچھ دوہیہ لٹ ثابت، لہذا اکی لٹ ترے طلاق دتھ سہ بائن قرار دیں پچھ قرآن کریمس
 خلاف۔ یہ گرتھ زانہ تر تکہ منتر دیہ امت طلاق یا کائتہ ہندہ جہر موکلہ دیمت طلاق پچھتہ جائیز۔

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

یوتانی سو تمس ورائی (کاتبہ) بیئے ہندس نکاح
مترجمہ ہے۔ ادا کر سہ (تہ) تس طلاق دیہ تمن
دہ نونی چھتہ دو بار رجوع کرنس پیٹھ کا نہہ گوناہ۔
مگر شرط چھتہ یہ زرجن گرتہ یقین آسن زرجم یکن
اللہ (تعالیٰ) ہندس (گندک ہتی) سد قائم تھوتہ
تہ یم چھ اللہ (تعالیٰ) ہندس (گندک ہتی) سد
یکن سہ علمہ والین لوکن ہند باچہ واش کد تھ
بیان کران چھ۔

تہ سیلہ توہی زنائن طلاق دیو تہ تہہ واتن پینس گتہ
آتمس مدس (یعنی تہ کس اتھی حدس) تام تیلہ یا
تہ رٹیو کھ تم مناسب طریقس پیٹھ یا کرٹیو کھ مناسب طریقہ
سان تہہ رحمت۔ بیہ مہ رٹیو کھ تہہ تکلیف دیہ خاطر
(امری پتہ) زرجن پیٹھ کرو (پتہ بیہ) سختی۔ اپوس
شخص پیٹھ کئی کر (زادی تو ز) تھی کور پینس پانس
پیٹھ ظلم تہ توہی مہ بناو اللہ (تعالیٰ) ہندس حکم
مٹھٹن لایق۔ بیہ تھوتہ تہہ نعتش یاد بیہ اللہ
(تعالیٰ) ہندس طرف توہی دیہ آہتر پھینو۔ بیہ
(تھا وو تہہ یاد) یہ تھی توہی پیٹھ نازل کورمت
چھ یعنی کتاب تہ حکمت۔ نہ سہ چھ توہی تہہ کر
دوس نفیحت کران۔ بیہ پراوو اللہ (تعالیٰ) سند
تھوتی تہ زانو ز اللہ (تعالیٰ) چھ پر تہہ کا نہہ
کتھ زبر پاتھو زانان۔

بیہ سیلہ توہی زنائن طلاق دیو تہ تہہ پین عدت
پوہ کرن تہ توہی مہ کرو تمن پینن خاوندن ستر
نکاح کرنس ٹھاک، سیلہ تم نیک طریقس پیٹھ پانہ
واڈی رضامند سین۔ یہ پھریو کتھ پیچھ توہی
متر پر تہہ تس شخصس نفیحت کرنہ یوان چھنیہ
یس اللہ (تعالیٰ) ہس تہ آخر تہ کس دہ میں پیٹھ
اچان تھوان چھ (تہ فکر شرک نوز) یہ کتھ چھنیہ
تہہند تھہ ساروہے کھوتہ جاد برکتر واجتو تہ پانہ

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَتَحَدَّوْا
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا إِنْ كُنْتُمْ
رِغْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۱﴾

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ
يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
الْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ آذَنٌ لِّكُمْ وَأَطْهَرُ، وَ
اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

وَالَّذِينَ يُضْعِفُونَ أَوْلَادَهُمْ حَوْلَيْنِ
 كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَزِعَهُ الرِّضَاعَةَ
 دُونَ عَمَلِ الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْكَبُهَا وَكَسُو تَهْتِ
 بِالْمَعْرُوفِ، لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا دُشْعَهَا
 لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا
 وَتَشَاؤُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ﴿۲۲﴾

تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ زمانان تہ توہی چھونہ زمانان۔
 تہ ماجر چاوان پستین شترین پور دھان وڑین تام
 دود (یہ حدایت چھہ) جن ہند خا طہر سکر دود
 چاوان (گندہ آفتس و قس تام) پور کرن پھرین
 تہ بیس مال سندر شتر چھہ تندر مہ چھہ قایہ
 مطابق جن (دود چاوان واجین) ہند کھین چھین تہ
 جن ہند پو شکر - کانبہ شخصس پیٹھ چھینہ تندر
 طاقت کھوتہ چاوان ذہر واری تراونہ لوان - کانبہ ماجہ
 گزہ تہ تندر شتر سندر دود دھ دہین تہ نہ گزہ
 ماس تندر شتر سندر باعہ (دھ دہین) - تہ
 واری شس پیٹھ (تہ) چھہ پیٹھ (کرن لارم) تہ
 اگر تم دود لوسے پاتہ واری رضامندی تہ مشورہ سدی
 دود ترش پھرین تہ جن پیٹھ چھینہ (اتھ مشر)
 کانبہ گوناہ - بیہ اگر توہی پستین شترین (کانبہ بیس
 زمانہ اتھ) دود چاواناوان پھرہو تہ تہ بہ پیٹھ
 چھینہ کانبہ گوناہ ، بیلہ زن توہی سہ (معاوضہ) مناسب
 یا ٹھو ادا کرو بیس تہ بہ دین مقرر کورمت چھو۔ تہ
 اللہ (تعالیٰ) سندر تقویٰ پراوہ بیہ زابوزر بیہ کینترھا
 توہی کران چھو، اللہ (تعالیٰ) چھہ یقیناً تہ وسچان۔
 تہ تہ بہ مشرین (لکن) روح قبض کرنہ لوان چھہ
 تہ تم چھہ (پانس چھہ کن) آشرہ تراوتھ گزھان
 (پیزر ہر) تمہ (آشرہ) چھون پین پان ثرون
 رہن (تہ) دھن (دوہن) تام ٹھاکناوتھ - پتہ بیلہ
 تمہ پین گندہ نہ امت مدت پور کرن - تمہ بیہ کینترھا
 (تہ فاصلہ) پانس متعلق کرن تمیک چھینہ تہ بہ
 کانبہ گوناہ - تہ بیہ توہی کران چھو اللہ (تعالیٰ)
 چھہ تمہ ہنہ باخیر۔
 بیہ زمان سدی نکاح کرنہ کس عرضداشت متعلق

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
 بِتَرَبُّصٍ، يَأْتِفُوهنَّ أَشْهُرًا
 عَشْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ ﴿۲۳﴾

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ

لہ یعنی مرد و ستر مال حالت نظر تل تھاوتھ۔

خُطِبَةُ النِّسَاءِ أَوْ اذْكَرْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ
 لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا وَلَا أَعْيُنًا
 وَمَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ
 حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَافٍ عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۸﴾

۳۸

یوہر کہتہ توہی اشارہ پاشو (بہن) ولو یا سپنہن دین
 اندر تھوو۔ تھہ پٹھہ چھنہ توہر کا نہہ گوناہ - اللہ
 (تعالیٰ) چھہ زنانہ ز توہر بیو ضرور تہند خیال مگر
 توہر مہ کروہن سستی ترور ترور (کا نہہ) معاہدہ
 ووی گوویہ (چھو اجازت) ز توہر ولو جن کا نہہ
 مناسب کہتہ - تہ یوتانی (عدتک) حکم سپنہن معیادس
 واتہ (تہ) توہر مہ کروہ (توتام) نکاح کرناک پوتہتہ
 ارادہ - بیہ زانو ز تہندن دین منترہ کیشہا (تہ) چھہ
 اللہ (تعالیٰ) چھہ تہ زنانہ - او کز کھوڑو توہر اتھہ
 (کہتہ) تہ زانو ز اللہ (تعالیٰ) چھہ سپنہاہ بختن مار (تہ)
 برد بار۔

توہر چھنہ کا نہہ گوناہ اگر توہر زنانہ تمہ وقتہ تہ طلاق
 دیوہ بیلہ زن توہر بہن اتھہ تہ لوگت آسہ وہ یا مہر
 (تہ) آسہ نہ مقرر کورمت - تہ اتھہ مہر تہ منترہ
 و توہر (توہر) دیوہ کیشہ ساماہ بہن مناسب پاشو۔
 دولت مندس پیٹھ (چھنہ یہ کہتہ) تہند طاقتہ مطابق
 (الزوم) تہ نادارس پیٹھ (چھنہ) تہند طاقتہ مطابق (الزوم)
 نیو کارن پیٹھ چھہ (اسہ یہ کرن) واجب (کورمت)۔
 اگر توہر بہن تمہ بروٹھہ ز توہر آسہ بہن چھوومت
 مگر مہر آسہ و مقرر کورمت، طلاق دیوہ، تہ (تھہ
 صورتس منترہ) سس (مہر) توہر مقرر کورمت آسہ
 و، تسمیک نہیف چھو (بہن سواہ کرن) اسہ (صورتہ)
 وراہی ز تہہ (زنانہ) کرن توہر مہر معاف - یا کر سہ
 (شخص) معاف، سیمی ہندس انھس منترہ نکاح گڈنگ
 اختیار اسہ۔ تہ تہند معاف کرن چھہ تقویٰ ہس جاد
 نزدیک تہ توہر مہ آسہ یا نہ وراہی (ورتا و کرتہ وز)
 احسان کرن تراوان (بیہ تھہ ووادز) یہ کیشہا
 توہر کرن چھو اللہ (تعالیٰ) چھہ (تہ) یقینا و بھان

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ
 مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
 فَرِيضَةً يَدَّ مِتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِمِ
 قَدَرَهُ وَ عَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا
 بِالْمَعْرُوفِ إِحْقَاقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۹﴾

وَ إِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
 فَرَضْتُمْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَخْفُونَ أَوْ
 يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُ عَقْدَةُ النِّكَاحِ
 وَأَنْ تَخْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ لَا
 تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿۴۰﴾

لہ یعنی زنانہ ہند وکیل یا ولی ۔

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَىٰ ۖ وَتَقُوْا لِلّٰهِ قِنْتَيْنِ ﴿۳۵﴾

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاتًا ۖ فَإِذَا
آمَنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا
لَمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۶﴾

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ
أَزْوَاجًا ۖ وَصِبْيَةً ۖ لَا ذَرْبَ لَهُمْ مِّمَّا عَالَا
الْحَوْلُ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْتُمْ فَلَآ
جُنَآحَ عَلَيْكُمْ فِي مَآفِعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
وَمَعْرُوفٍ ۖ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۷﴾

وَاللّٰهُ طَلَّفَتْ مِتَآءًا ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۸﴾

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۹﴾

الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَهُمْ اَلُوْفٌ ۚ خَذَرُ الْمَوْتِ ۚ فَقَالَ لَهُمْ
اللّٰهُ مُؤْتُوْا نَفْسَهُمْ اَحْيَا هُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰى النَّٰسِ ۚ وَلٰكِيْنَ اَكْثَرُ
النّٰسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۴۰﴾

تو ہم تمہارے (سارے) نمازوں میں تو (خاص کر) تہ
مندی میں نماز پڑھو۔ تہ اللہ (تعالیٰ) سے
خاطر سپردی فرمانبردار بنیے استناد۔

بہ اس خوف آسے، تہ پیدل یا سوار اسی
تھے (پرو نماز)۔ پتہ سید تہ امن حاصل سپرد
تہ اللہ (تعالیٰ) کر لیں یاد تہ کیا تہ چھو تو
(تہ کینشہا)، چھتا و تہ، یہ تہ توہر (برونہ) زمان
اسی۔

بہ ہم لوگ تہ مشر بنیہ عالمی مژمن تہ آشنہ پتہ
کن تروان تہ تم کرن سینین آشنہ بند حقہ اس
ڈریس نام فایہ و اتا و یخ یعنی یمن (گرو اندر) نہ
کڈ یخ وصیت۔ و وری گوو اگر تم (پاڑ پانے) مژمن
تہ پانس متعلق یوسہ پڑیونی کتہ تم کرن تمیک چھو
تہ کاتہ گوناہ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ غالب تہ حکمتہ
وول۔

بہ ہمین زمان طلاق دہہ ہمین تہ چھ پنہو حال تو
میطابق کینہ سامانہ دین ضروری۔ یہ کتہ چھینہ (اسہ)
متقین پیچہ واجب (گرو مژ)۔

یہ کتہ تہ اللہ (تعالیٰ) تہند (فایہ) خاطر پنہو
حکم و اش کڈتہ بیان کران یہ تہ زن تہ فکر ترو۔

کیا تہ و تہ نامن لوکن ہنر خبر ہم مرہ ہنر پنہو
خاطر پنہو گرو اندر در اتو اسی سید تم (تہ لو کو)
سامہ بڈر اسی؟ اتہ پیچہ و زن یمن اللہ (تعالیٰ)
ہن نہ توہر مسرو۔ تمہ پتہ کر کر تم تہ زندہ اللہ
(تعالیٰ) چھ بے شک (بوڈ) فعیل کرن وول و وری
گوو واریاہ لوگ چھنہ شکر کران۔

یہ یعنی بنی اسرائیل، ہم فرعونہ ہند ہمہ مصر مشر دریاے۔
یہ یعنی تہ ہنر نامہ فانی کہو ہیو اللہ (تعالیٰ) ہن یمن ساری فاتحہ ہن طاقت
وایس تہ پتہ کو کرن یمن معاف تہ یمن ورن فتح۔

تو ہر کرو اللہ (تعالیٰ) ستر و تر جنگ تہ زانو ز
اللہ (تعالیٰ) چھ سبھا بوزن وول (تہ) وارا زان
وول۔

کیا کا تہ بجا؛ یس اللہ (تعالیٰ) ہس (پسنہ مالک)
اکھرت مگر تڑ پتھ دیہ! چھتہ سہ تھتہ تہنہر با پتھ جاد
جاد ہر راو، تہ اللہ (تعالیٰ) سندر چھتہ بیت سنت ز
سہ (چھ) بند سندر مال) توان تہ (تھتہ چھ) ہر اولان
تہ تو ہر بیو (اخر) تسو کن پھیرتھ ہنہ۔

کیا تہ سیدے ناجی اسرائیل کہن کہن تھدین
لوکن ہند حال معلوم؟ یکم موسیٰ ہس پتہ گدرے
وتی چھ؟ ییلہ تموا کس نبیس وون ز سانہ خاطر
کر لوکن کا تہہ (شخصیں) بادشاہ (بتاوتھ) استاد
یچھ اسی (تس ماتحت سیدتھ) اللہ (تعالیٰ)
ستر و تر جنگ کرو۔ تھو وون پتھنہ تہ سید ز اگر
تو ہر پتھ جنگ فرض کردہ پتہ تہ تو ہر کرو پتہ جنگ؟
تھو وون اتہ سیدہ تہ اسہ کیا چھ گومت ز اسہ
کرو تہ اللہ (تعالیٰ) ستر و تر جنگ حالانکہ اسی چھ
پسنہو گرو اندر کدہنہ آمتی تہ ستر لو ہنہ (چھ)
ترہینہ کرنہ آمتی (مگر ییلہ کہن پتھ جنگ فرض کرنہ
او تہ تموا اندر گے اکیس لو کچھ (پسنہ) جمانہ ورا ک
(باقی) ساری پھیرتھ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ ظامن
زبر پاٹھو زانان۔

تہ تہند کہن وون تہن تہ اللہ (تعالیٰ) ہن چھ
طلوت (یعنی جدعون) بادشاہ بتاوتھ (اسہ کامر خاطر)
استاد گومت۔ تموا وونس، تس کہتہ پاٹھو ہیکہ اسہ پتھ
کلومتھ مپلہتھ، ییلہ زن اسی تس مقابلہ کلوتھ جاد
تھدر چھ؟ تس سپر نہ (کا تہہ ترشہ جاد) مالی ووزری
تہ عطا۔ تھو وونکھ اللہ (تعالیٰ) ہن چھ تس بے شک
تو ہر پتھ فقہت ڈر مہتر تہ تس چھن علمی تہ جمانی
لحاظہ (تہند کھوتہ جاد) وسعت عطا کر مہتر۔ تہ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۷۰﴾

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضْعِفُهُ لَهُ آخْضَعًا فَأَكْثِرَ زَنًّا وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿۷۱﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
مِنَ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالَ لِنَبِيِّ لَهُمْ
ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ
أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا
وَبَنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالظَّالِمِينَ ﴿۷۰﴾

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ
لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ
الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ
وَلَمْ يَأْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
أَصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ
وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۷۱﴾

اللہ (تعالیٰ) ہمیں پیشتر جان چھہ، اُس چھہ پتہ پتہ ملک،
 عطی کران تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ سبھا وسعت عطاکرن
 وول (تہ) واراہ زانن وول۔

بیر وون بہندرک شیمان تہن ز تہنوز کلوتیج وول چھہ
 پیر (تہ) ز تہ ہر میلہ و (اکھ تہنہ) تولوڈ چھہ منتر
 تہندرک پروردگار ہند طرفہ (تہندرک پاتھ) دیک قرار
 (اسہ) تہ تہر چیزک با تہ حصہ آسہ ایس موسیٰ
 ہندلو تعلق دارو تہ مارونہ ہندلو تعلق دارو (پانس
 پتہ کن) تروو۔ ملا یک آسن تہ تہ تہنہ ہتہ۔
 اگر توہر نوین چھو تہ پتہ (تہنہ) منتر چھہ تہندرک
 خاطر یقینا اکھ (بولڈ) ہنشان۔

پتہ پتہ طاوت پتہ فوج ہتہ دراو تہ تہو وون
 ز اللہ (تعالیٰ) چھہ اکھ کولہ ہند دوسری یقینا
 توہر اکھ امتحان ہنہ وول۔ اچہ تہو تہر اکھ لہنہر
 (پتہ برتہ تریش) چھہ تہ چھہ میہ سستی (والبتہ
 روزہون) تہ تہو تہ اندر تہ تہ تہ آسہ پیک میہ سستی
 تہ وراے تہو تہ منتر پتہ دوزہ سستی اکھ تہنوب
 کھنڈ چہو و (تہ پتہ آسہ تہ کا تہ الزام)۔ (سپد
 پیر) پتہ چھہ تہو منتر کیشرو وراہی (باقے سار
 وپے) تہر (کولہ) منتر تریش۔ پتہ پتہ تہ پانہ
 تہ (بیر) تہ لوکھ پتہ سستی ایمان اونمت اوس
 تہ تہندرک لشکر سستی مقابلہ کرنک ہکل کیہنہ
 طاقت (ماپوز) پتہ لوکن پتہ آس ز تہن چھہ
 اللہ (تعالیٰ) ہس سستی ملاقات سپان وول تہو
 وون ز سبھا لوکھ جہاز چھہ اللہ (تعالیٰ) ہند
 حکمہ سستی پتہ جہازن پتہ غالب آس تہ اللہ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ
 يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ
 رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَ
 آلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَةً لِّكُم مَّا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۱﴾

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ
 اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ
 فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي
 إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَفَشَرِبُوا
 مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا
 بِالْيَوْمِ مَرَجَا لُوتٌ وَجُنُودُهُ قَالَ الَّذِينَ
 يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ آلِلَهُ كَمْ مِنْ فِئَةٍ
 قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ
 وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۰۲﴾

لہ تولوڈ چھہ تابوت۔ نطق کا شہرہ صورت۔ ایک نقلی معنی چھہ صندوق یا ناو، مگر استعمال پاتھ چھہ ایک معنی دل یولو
 ہنہ۔ (مفردات لغب)

(تعالیٰ) چھ صبر کزن والین سرتی (اسان) او
کئی چھنہ کھوڑ تک کینہی وجہ۔

بیہ سیدلہ تم جالوت تہ کیند فوجہ (کر مقابلہ) خاطر
(میسر) درے تہ تمو وون، اے سائہ پروردگار
اسہ پیٹھ کر صبر نازل تہ سائی کھوڑ تھاو (میدان
جنگس منتر) ٹھیکرا و تھہ بیہ کلاہین، کافرین خلاف
اسرا تھہ روٹ۔

پتہ (ترجمہ) تمو جنگس منتر ووٹھہ تہ) دژ تمو اللہ
(تعالیٰ) ہند ارادہ مطابق جس شکست تہ داوودن
کور جالوت قبل، تہ اللہ (تعالیٰ) ہن کر تس
حکومت تہ حکمت عطا بیہ یہ کینترھا تس (یعنی
اللہ تعالیٰ ہس) منظور اوس تمیک کورن تس
(یعنی داوودس) علم عطا۔ اگر اللہ (تعالیٰ)
انسان (شرارتہ نشہ) دور تھو ہے تہ، یعنی کینترن
(انسان) کینترن ہند دسی (ٹھاکناو ہے تہ) تہ
زمینہ گرتھہ ہے تلک پیٹھ۔ اماہ یوز اللہ (تعالیٰ)
چھ سارہنے عالمن پیٹھ بوڈ فبول کرن وول۔
(او کئی چھ سہ یہ فساد بہناوان)۔

یم چھ اللہ (تعالیٰ) ہندک آہ۔ یم اسی تہ
پرتھ بوز ناوان چھتھ۔ اتھ حالس منتر نہ تہ
چھکھ حقس پیٹھ (قائیم) تہ تہ چھکھ یقیناً
رسولو اندر۔

یم رسول (بہنتر کتھ ہیر کتہ سپر) چھ تم یو منتر
اسہ کینترن، کینترن پیٹھ فضیلت بختہ پتر اس۔ یو
منتر چھ کینہ تھو یکن سرتی اللہ (تعالیٰ) ہن کلاہ
کور۔ تہ یو اندر کری کینترن ہندک (صرف) درجات
ہند تہ عیسیٰ ابن مریمس اسی اسہ ٹاکاہر دلائل دژ
تہ تہ روح القدس دس اوس تس طاقت بختہ۔ تہ

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا
رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّثْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۸۱﴾

فَهَرَمُوهُمْ يَا دِينَ اللّٰهِ تَوَقَّتْ دَاوُدُ
جَالُوتَ وَانْتَهُ اللّٰهُ الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللّٰهُ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ
الْاَرْضُ وَلَئِنِ اللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَی
الْعٰلَمِیْنَ ﴿۸۱﴾

تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ تَشْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۸۱﴾

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَ
آتَيْنَاهُ بُرُوْجَ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ
اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الذّٰبِقُ مِنْ بَعْدِهِمْ

مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ
اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَن آمَنَ وَمِنْهُمْ
مَنْ كَفَرَ وَكَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا بِهِ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿۱۳۷﴾

ہر گاہ اللہ (تعالیٰ) بیترہد ہے تو ہم لوگ تمہیں پستہ
(آہستہ) آسمان کریم نہ مانا کہ نشانہ پستہ پانہ وانی
لڑائی (جنگ) اما یز (تعبت چھ نہ) جنو کوڑ (اسہ)
باوجود اختلاف - چنانچہ کثیر و اولن تمہو اندر ایمان
تہ کثیر و کوڑ انکار - تہ اگر اللہ (تعالیٰ) بیترہد ہے
تیار کریم نہ ہم لوگ پانہ وانی لڑائی (جنگ) - مگر اللہ
(تعالیٰ) یہ بیترہاں چھ تی چھ کران۔

اے ایماندارو! یہ کثیرھا اسہ تو بہر دیتت چھو تمہر منہ
کرو خرچ (خدا یہ منہر و تہ یوت ایکو) سہ دودہ سینہ
برونٹھ بیہر دودہ نہ کتہ قہمک (ہیون کنن) نہ
دوستی تہ نہ سفارش (کارگر) سپر - تہ (اللہ عکس)

انکار کرن والو چھ (پنہن پانس پیٹھ) ظلم کرن والو
اللہ (تعالیٰ) چھ سہ (ذات) - نیس ورآے عبادک
(بہ) کاہہ حقدار چھنہ، کابل زندگی وول، (پنہن
ذاتس منہر) قایم (تہ سارہنہ) قایم تمھون وول۔

تہ چھ تہس نہہ تہ نہ بندر - یہ کثیرھا آسمان منہر چھ
تہ یہ کثیرھا زمینہ منہر چھ (تہ سورہ) چھ تمہر سہ
کس چھ نیس تہنہر اجازتہ ورائی تہس برونٹھ کسہ
سفارش کر؛ یہ کثیرھا جن برونٹھ کتہ چھ تہ یہ کثیرھا
تمہن پستہ کتہ چھ (تہ سورہ کیہنہ) چھ سہ زمانہ تہ

تمہر میکن نہ تہنہر مرضی ورائی تہنہر کاتہہ (تہ)
حصہ لبتہ - تہنہر علم چھ آسمان پیٹھ (تہ) تہ
زمینہ پیٹھ (تہ) حاکم تہ تہس چھنہ تمہن راچہ کرہ
تھکر اولن - بہر چھ سہ شانہ بوڈ (تہ) عظمتہ وول۔

دیہر کس معاس منہر چھنہ کتہ قہمک جبر (چاہر تہ
کیا) ہدایت تہ گمراہی منہر (باہمی) فرق چھنہ مانا کہ
سپہر منہر - ام کو (زانو نہ) نیس شخص (پنہر مرضی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
مِمَّا كَرِهْتُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
لَّا بَيِّنَةٍ فِيهِ وَلَا حُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ
وََالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۳۸﴾

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي
يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا
شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۱۳۹﴾

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

لہ امیک لفظی معنی چھ منہر اولن حضرت ابن عباس چھ فرماوان انکرسی الالحکم کرسی چھ علمس
ونان - یہ کتہ چھ حاکم تہ کرسی ونان - (مفردات راغب)

الْوَثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۶﴾

سیدو نیکی بشارت ٹھاک کرن واپس (یعنی تسنیر کتھ ماتہ
فیشہ انکار کرتہ اللہ تعالیٰ) اس پیچھ اپمان تھو اد تم
رؤف مضبوطی سان (اللہ) نہایت مقبوط اعتماد لایق
پینر یس تہ (زبیب) پھٹن وول پچھ ، تہ اللہ تعالیٰ
چھ سبھا بوزن وول (تہ) واران نزن وول ۔

اللہ تعالیٰ پچھ تمن لوکن ہند دوست یکم اپمان
نان چھ ، سہ پچھ تمن گنہو منہر گدھہ کاشس کن
انان تہ یکم کافر چھ تہندک دوست چھ نیکی بشارت ٹھاک
کرن واول (لاکھ) ۔ تم چھ تمن محاشہ منہر گدھہ گدھہ
کن نوان ۔ تم لاکھ چھ ناز واول (یعنی ناز منہر سون
واول) ۔ تم روزن تھہ منہر ۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أَوْلِيَانَهُمُ الطَّاغُوتُ ،
يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿۵۷﴾

کیا تریہ نیش و اثر ناس شخصہ پینر خبر یس امہ
(تکبر کر) باعتہ ز اللہ تعالیٰ) ہن اس تس
حکومت دتھہ تھہ و منہر ، اوس ابراہیم ستر
تپرس پروردگار متعلق بحث (بحث) کرنہ لوگت ۔
(یہ سید تیل) سید ابراہیم (تس) وون ز میون
پروردگار چھہ سہ یس زند تہ چھہ کرن تہ ماران تہ
چھہ ۔ تم وولس (اتھہ پیچھہ ز) ہر (تہ) پچھس زند
کرن تہ ماران ۔ ابراہیم وولس (ز اگر یہ کتھہ
چھہ) ، اد اللہ تعالیٰ) چھہ آقباس مشرق کیکو
انان نر اتن سہ (وولس) مغربہ ککو ۔ اتھہ پیچھہ گوو
سہ کافر بکر تہ بکر ۔ تہ ایہ اوس سیدنے تہ کیاز
اللہ تعالیٰ) پچھہ ظالم لوکن (کامیابی ہنر) وھہ
ملون ۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي
رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ، قَالَ
أَنَا أَنبِيٌ وَأُمِّيٌّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ
اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ
بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۸﴾

تہ (کیا تریہ چھہ کاتبہ انسان) تمس شخصس ہیو

اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ

لہ یہ ضمیر ہیکہ حضرت ابراہیمس کن تہ پچھہ تھہ یعنی اللہ تعالیٰ ہن اس حضرت ابراہیمس زوتانی
بادشاہت ڈر منہر تہ منر وولس اوسد تہ ہوتن بحث کرن ۔

عَلَىٰ عُرُوْشِهَا قَالِ اَنْتَ اِيْحِي هٰذِهِ اللّٰهُ
بَعْدَ مَوْتِهَا . فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ
عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ،
قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، قَالَ
بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلَى
طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٖ ، وَ
انْظُرْ اِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً
لِّلنَّاسِ وَاَنْظُرْ اِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا
ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ،
قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۰﴾

(و صحیحمت)؛ ایس اکہ تبجہ شہر کنو دراو ۔ جتھ یہ حال
اوس زرسہ اوس پشو وراکی وکراونہ آمت ہ تکر وون
(یہ و صحیحہ) ز اللہ (تعالیٰ) کر کر اتھ ، امر چہ
و ا رانی پستہ آباد ہ اتھ پیٹھ تھووسہ اللہ (تعالیٰ)
ہن ہنس ورس تام (بندر منتر) مار تھہ پتہ تلن
سہ بیہ (تہ) فرمولس (اے میانہ بنہ) تہ کس
کاس تام چھاکھ (اتھ حالتر منتر) رود مت ہ تکر
وونس ہر چھس اکس دوس یا دیکس کنہ حصس
تام (اتھ حالتر منتر) رود مت (اد) فرمولس
(اللہ تعالیٰ ہن ، بیہ چھ ٹھیک) بیہ چھاکھ تہ
(اتھ حالتر منتر) ہنس ورس تام تہ رود مت ۔ وون
وچھ تہ پتہس کھنس چنس (یعنی ، تہ کن سامان)
زرسہ ما پٹھ پھلور مت ، بیہ وچھ تہ پتہس خرس
کن (تہ بیہ کن دھوننی ہند سلامت روزن وچھہ
زان ز پون خیال تہ چھہ پتہہ جایہ درست تہ سون
خیال تہ) تہ یہ چھہ اسہ اڈ کوز کور مت چھہ تہ
لوکن ہندہ با پٹھ اکھ تشان بنا و تھہ بیہ وچھہ اڈ کوز
کن ز اسی کتھہ پانٹھ چھہ کبہ پتہہ جایہ تھہ و تھہ
جوران پتہ چھہ اسی کن پٹھہ ماز کھلان اڈ میلہ چھس
پٹھہ (حقیقت) پٹھہ پانٹھ ظاہر سپتہ تہ تکر وون ز
ہر چھس زانان ز اللہ (تعالیٰ) چھہ پر چھہ چنرس
پٹھہ قومہ درست تھون وول ۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي
الْمَوْتٰى ، قَالَ اَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ، قَالَ بَلٰى
وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنُّ قَلْبِيْ ، قَالَ فَخُذْ
اَدْبَعَةَ مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ

بیہ اکرو مس واقعہ تہ یاد (سبلہ ابراہیمین و نیاو ز اے
میانہ پرور وکار مینہ و تہ ز تہ کتھہ پانٹھ چھاکھ مورہ
ز نہہ کن ہ فرمولس کیا تہ چھہ نا ایمان اونمت ؛
دو پتہس (یعنی ابراہیمین) کیا نہ ہ ؛ (اپمان تہ چھہ

لہ یہ شہر چھہ یروشلم ایس با پکو بادشاہ بخت نصرن حملہ کر تھہ برباد تہ زمینا و کر تھہ ۔
حضرت حزقیاس ہوو اللہ تعالیٰ ہن کشفس منتر ز ہنس ورس تام گتھہ یہ
شہر بیہ زندہ تہ آباد (حزقیل باب ۲۷)

اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ
ادْعُهُنَّ يَا زَيْنَلْت سَحِيحًا وَاَعْلَمْ أَنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۵﴾

بلاشک حاصل سپدیت (ووذ گوو (مین پرتھہ بیہ)
دلہ کر الطینانہ ناطرہ - اللہ تعالیٰ ہن (فرموتس
اتھا ؛ ثر انکھ ترورجاناوار تہ تم کرکھ سوکھ - پتہ
تھو پرتھہ کنہ باس پٹھہ تمو اندر اکھ (اکھ حصہ)
پتہ درہمن ناد ، تم پن ورتھہ ورتھہ ترے کن (وچھا)
تہ زان ز اللہ تعالیٰ) چھ علیہ وول تہ حکمتہ وول -
یم لوکھ پتہ مال اللہ تعالیٰ) سنزوتہ خرچ کران
چھہ . تہنتر (امر کامہ ہنر) مثال چھہ تہ اتا چہہ
پھلچ ہش ، یس (ووتھ) سٹھہ ، ہنل کڈ تہ پرتھہ
ہلس آسن ہتھہ پھل تہ اللہ تعالیٰ) یو سہنر
ناطرہ پتھہان چھہ لس چھہ (امر کھوتہ تہ) ہرکمانہ
دوان تہ اللہ تعالیٰ) چھہ وسعت دہن وول تہ
سٹھہان زان وول .

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ
وَحَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۚ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۶﴾

یم لوکھ پتہ مال اللہ تعالیٰ) سنزوتہ خرچ کران
چھہ - پتہ خرچ کرکھ چھہ کنہ رنچ ہنت تھا وان
تہ نہ چھہ کنہ رنچہ ، اذا واتاوان . تہنترس پرورگار
رتش پتھہ تہن (ہندین اعمالن) ہند بدلہ (رتھہ)
ہیہ نہ تہ آسرتہن کنہ قہمک خوف تہ نہ گرتہن تم
عملمین -

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لَمْ يَلْبَسُوا مَا أَنفَقُوا مَنًّا ۚ
لَّا أَدَّىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۷﴾

رتھہ کتھہ (کپڑ) تہ (خطا) معاف کران چھہ تمہ صدقہ
کھوتہ ہجاوت بیتھہ پتہ (پندر کڈنہ باپتھہ) اذا
واتاوان (شرع) سپد تہ اللہ تعالیٰ) چھہ بے نیاز
(تہ) برد بار -

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن
صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَىٰ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ
حَلِيمٌ ﴿۳۸﴾

اے اپنا دلرو ! توہو مہ کرو پتہ صدقہ احسان پھرتہ
تہ تکلیف دہن (چہ علم) سستی ضلح ، اس شخصہ ہنر
پاٹھو یس لوکن لو باو ناطرہ مال خرچ کران چھہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا
صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَدَىٰ ۚ كَالَّذِي
يُنْفِقُ مَالَهُ رِجَاءَ النَّاسِ وَالْأَيْوُسِ

لہ صرھن ، کیتھ لوکو چھہ امیک معنی کورت " تم جاناوار کرکھ قتل " کرا تھہ ملوتس مشرچہ اینیک
(پانس کن) بے معنی روزان ، حالانکہ لوقتس مشرچہ امیک معنی سوکران تہ (مفردات رافب)
لہ امیر آتہ چھہ ثابرت ز افس بیار ترس بہن سٹھہ ہتھہ ترک اناج نہر تھہ -

يَا لُدُّوْا اَلْيَوْمَ الْاٰخِرَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَاِبِلٌ
فَتَرَكَهُ صَلْدًا اَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ
مِّمَّا كَسَبُوْا، وَاَللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿۵۹﴾

تہ اللہ (تعالیٰ) اُس تہ آخرتہ کس دہ اُس پٹھ
پٹھہ ایمان تھوان تہ کیا ز تھو ہنر حالت چھہ تہ
کے پٹھ ہنر پٹھہ کینہہ ٹیتر (پہمتر) آسہ
تہ تھہ پٹھہ پیسہ ہر نوک روڈ تہ سہ کر تھہ (پٹھہ)
بیہ (صاف کنہ پل - کم (چھہ تھو لوکھ نہ) یہ
کینترھا تم زینان چھہ تمیک کا نہہ حصہ تہ چھہ نہ
تہن اٹھو لوان - بیہ چھہ نہ اہر قسمہ کین کا ہنر
اللہ (تعالیٰ) (کامیابی ہنر) دتھ ناوان -

وَمَثَلِ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ
اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَغْيِيْتِنَا مِّنْ
اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ بَرْبُوْةٍ اَصَابَهَا
وَاِبِلٌ فَاتَتْهَا اُحْلَامًا ضٰحِقِيْنَ ؕ اِن لَّمْ
يُصِبْهَا وَاِبِلٌ فَطُلٌّ ؕ وَاَللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۶۰﴾

تہ یم لوکھ پینو مال اللہ (تعالیٰ) ہنر رضامندی
ساحل کر نہ خاطر تہ پین پان مضبوط کر نہ خاطر
خرچ کران چھہ تہنر (یعنے تہنر خرچہ) حالت چھہ
تہہ باغیچہ ہنر یس و وگنیاس آسہ (تہ) تھہ
آسہ ہر نوک روڈ پیومت پیہہ سستی تھو دہ گتہ
میوہ دیت مت آسہ تہ (پٹھہ حالت آسہ نہ نہ)
اگر تھہ ہر نوک روڈ پیسہ نہ تہ روڈ پھینو کے تہ
(روزہ تہ خاطر سٹھا) تہ یہ کینترھا تو ہر کران
چھو اللہ (تعالیٰ) چھہ تہ و چھان -

اَيُّوْذًا حٰدِكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ
تَّجْوِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهَارُ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ
وَاصَابُهُ الْكِبْرُ وَ لَهُ دُرِّيَّةٌ
ضُعْفَاءٌ ۚ فَاَصَابَهَا اَعْصَادُ فِيْهِ نَارٌ
فَاخْتَرَقَتْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۶۱﴾

کیا تو ہر ہنر چھا کا نہہ شخص سبترھان ہر زس گوڑھ
کھنر باغا تہ دھہ باغا آسن تھہ منتری کو لو
پکان آسن (تہ) تھہ منتر آسن پر تھہ قسمو میوہ
میلان (روزان) تہ سہ آسہ ہنر تہ او رومت
تہ نس آسن لو کو (لو کو) بچہ - پتہ یہ تھہ ہنر
اکھ تہہ واو لن تھہ منتر نار (ہو) آسہ تہ سہ
(باغ) پیسہہ ڈنڈہ - (وچھو) اللہ (تعالیٰ)
چھہ تہنر (فایدہ) باچھہ پٹھہ پٹھہ پٹھہ حکم بیان
کران - پٹھہ زن تو ہر نکر (پٹھہ کام) اہر کران

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَّقُوا مِنْ
طِيْبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ
تُنْفِقُوْنَ وَاَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ

اے ایماندارو! یہ کینترھا تو ہر کمومت چھو تہ یہ
کینترھا اہر تہنر باچھہ زمپنہ منتر کمومت چھہ
تہ منتر کو رتی رتی تہ پاکیزہ چیز (اللہ تعالیٰ
ہنر تہ تہہ توفیق آسہ تہ تہ تہہ) خرچ تہ لو ہر

میرا سو (صدقہ باجیہ) تہمتھ ناکارہ چیز ارادہ سان
تزارتھ کڈان یکو منتر توہی خرچ تہ چھو کران مگر
پنہنہ خاطر کرو نہ سہ زانہہ قبول امر ورائی زہ اللہ
(قبول کرنس) منتر لاگو توہی وچھتھ اوجھہ - بیہ
زراؤ زہ اللہ (تعالیٰ) چھہ (ہلکل) بے نیاز تہ حمدک
سہٹھا سقدار۔

شیطان چھو توہی محتاجی نشہ کھوڑناوان تہ توہی
چھو بے حیالی ہند تلفین کران تہ اللہ (تعالیٰ) چھو
توہی پنہنہ طرفہ اگر بچہ ہتھاشہ ہند تہ بڑ فضلک
وعدہ کران بیہ چھہ اللہ (تعالیٰ) وارہ وسعت دہ
وول تہ سہٹھا زان وول۔

سہ لیس بیڑھان چھہ حکمت چھیس عطا کران تہ لیس
حکمت آسہ عطا کرنہ آسہتر، اچ (زراؤ زہ) لیس
میول اللہ (سہٹھہ) بے نفع دہ وول چہر تہ (باد
روزی نو زہ) عاقلو ورائی چھنہ کاہنہ نصیحت ران۔

بیہ یہ کیشرھا تہ توہی (خدا بے ہند) خاطر خرچ کرو
یا یہ کیشرھا تہ توہی تڈلہ مانو۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ تہ
بے شک زانان (سہ دلو توہی تہمیک نیک بدلہ)
تہ ظالمن ہند آسہ نہ کیشر تہ مددگار۔

اگر توہی غمہ وانہ صدقہ دلو تہ یہ (تہ) چھہ سہٹھا
جان (طریقہ) تہ اگر توہی تم (صدقہ) کھٹھہ غریبن
دلو تہ یہ چھہ تہند (نفسہ) خاطر جاڈرت تہ سہ
(اللہ تعالیٰ) کر (امرہ باعترہ) تہنتر کھوی یا بدیہ توہی
نشہ دور تہ یہ کیشرھا توہی کران چھو، اللہ (تعالیٰ)
چھہ تھہ واقف۔

تم (سینر) وہہ انہی چھہ چانہ مٹہ۔ وھڑی گوویس
اللہ (تعالیٰ) بیڑھان چھہ لیس چھہ (سینر) وہہ
پہٹھہ انان بیہ لیس تہ رت رت مال توہی (خدا بے
سز و تہ) خرچ کرو تہمیک نفع آسہ و توہی پنہنہ
زوسنہ (کیت)، حقیقت چھہ یہ زہ توہی چھو چھہ

تُعْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَمِيدٌ ﴿۳۷﴾

الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ يَا مَرْكُومَ
بِالْفَحْشَاءِ، وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ تَغْفِيرًا
مِّنْهُ وَفَضْلًا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۸﴾

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، وَمَن
يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِيرًا، وَ مَا يَدَّكُرُ إِلَّا أُولُو
الْأَلْبَابِ ﴿۳۹﴾

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ
مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، وَ مَا
لِظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۴۰﴾

إِن تَبَدُّوا وَالصَّدَقَاتُ فَنِعْمًا هِيَ، وَإِن
تُخْفُوا هِيَ وَتَوَاتَوْهَا الْفُقَرَاءُ فَهِيَ
خَيْرٌ لَّكُمْ، وَ يَكْفُرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ،
وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۴۱﴾

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي مَن يَشَاءُ، وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلَا نَفْسِكُمْ، وَ مَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءً
وَجْهِ اللَّهِ، وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
يُؤْتِكُمْ إِلَيْكُمْ، وَ أَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ ﴿۴۲﴾

خریج صرف اللہ (تعالیٰ) سے تو تیرے بیٹے سے نہ خراب کران تیرے مال تو ہی خراب کرو گے یہ تو تیرے پورے پورے (والیس) دینے - تو تیرے بیٹے سے نہ ظلم کرنے۔

ایسی چیز کہ بیان کرنے آتی صدقہ چھ (تم) حاجت مند ہند خراب کریم اللہ (تعالیٰ) سے نہ (دو کیسوں کا مویشی) چھ (تیرے بیٹے سے) تم ہو سکتے ہو مگر (آزادی سان) سے گزرتا ہے۔ (اللہ) کے خیر (شخص) چھ (تہنہ) سوالیہ نہیں کہ باعتراف ہن غار موشاج زمانان - تو ہی ہو تہنہ شکلہ تلہ پر نہ تاوتہ نہ تم چھ لکن اکا گزرتا ہے سوال کران - بیہ لیس تیرے مال تو ہی (اللہ تعالیٰ) سے نہ خراب کرو۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک تیرے لئے پڑنے پڑھنے زانیاب۔

یکم لکھ پینے مال رتس تیرے دلہس تیرے پلٹے (پڑھنے) تیرے تہ ولہ (تیرے اللہ تعالیٰ) سے نہ خراب کران روزان چھ - تہنہ با چھ تہنہ س پرور دگارس ہن تہنہ اجر (ترتہرتہ) - بیہ نہ

آسہ ہن کا تہ خوف تیرے نہ سیدن تم غمگین - یکم لکھ سود کھولن چھ تم چھ بلکل تھ پڑھنے استاد سپدان چھ بیس پچھ شیطانہ سہ (یعنی پاکار کی بند) سخت حملہ آسہ - بیہ (حالت) چھ ایہ کنز تیرے چھ ونان (روزان) از (ہیون) کوئن تیرے چھ بلکل سود کی پڑھنے - حالانکہ اللہ (تعالیٰ) ہن چھ (ہیون) کوئن بجائز قرار دیتے تیرے سود ہن حرام کوونت - او کوئی (تھو یاد ز) لیس (شخص) ہن تو ہندس پرور دگار سہ طرفہ کا تہ نصبت

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْقُفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِعْقَابًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۳۰﴾

۳۰

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْئِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۱﴾

۳۱

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَفْقَهُمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْتُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۲﴾

لہ یعنی یکم لکھ دینے چھین کا لہن منتر آہر آس تیرے دنیاہ چھ نہ کماوتہ ہکان۔

(واجب کتھ) واپر تہ سہ بیبہ (تہ لوزتھ خلاف ورزی
کرتہ ہنہ) باز۔ اڑیہ (لین دین) تھو امہ بروٹھ
کوزمت چھ تمیک نفع چھہ تھندے تہ تھند معالجہ
چھہ اللہ (تعالیٰ) ہس عالجہ، تہ یکم (لوکھ) بیبہ
(سکے کام) کرن تھ چھہ (ضرور) نار (دزن)
وآلی۔ تہ روزن تھہ منتر پیدتھ۔

اللہ (تعالیٰ) کر سوڈ نابود تہ صدقات ہر اڑیہ
چھہ اللہ (تعالیٰ) پرتھہ کانبہ برس کافر س
(تہ) برس گوناہ گارس پند کران۔

یکم لوکھ ایمان انان چھہ تہ نیک تہ مناسب حال
کاسہ کران چھہ تہ نماز چھہ قائم تھولان تہ ترکوآ چھہ
دوان تہندہ باپتھ چھہ تہندس پروردگارس تھ
پزری پاٹھو تہندہ اجر (رڑھتھ)۔ تھن نہ (تہ)
آسہ کنبہ قسم خوف تہ نہ سپرن تھ غمگین۔

اے ایماندارو! اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ پانساو۔
تہ اگر توہی نمون چھو تہ سوڈ (کھسایہ) منتر یہ
کینرھا باپہ آسہ تہ تھنو تراوتھ۔

تہ اگر توہی یہ کور و نہ تہ اللہ (تعالیٰ) تہ تھند
سولہ ہند طرفہ (برپا سپن والہ) جنگل تھو
یقین۔ بیہ اگر توہی سوڈ ہنہ توبہ کرو تہ کانبہ
تھتھ کاپ چھہ تہ کیا ز (تہند مولہ وصول کرن چھہ
تہندہ باپتھ جائیز۔ اٹھ صولس منتر) نہ کرو توہی
(کانبہ پیٹھ) ظلم تہ نہ سپرن تھہ پیٹھ ظلم۔

بیہ اگر کانبہ (قرصدار تنگ دست پیدتھ بیہ تہ
اوسوڈ عالی (سیلس) تام پز و تس مہبت دنی
تہ اگر توہی بوز شوڑ تھولان چھو تیلہ زانو ز تھند
(اُمس شخصس مول تہ) صدقہ (کنہ) دین یہ تھ
سارہ وہے کھوتہ رت (کار)۔

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ
اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿۷۸﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ
آتَوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُخْزَنُونَ ﴿۷۹﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿۸۰﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ دُؤَسُ
أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۸۱﴾

وَإِن كَانَ دُؤُ عَشْرَةَ فَنَظْرَةً إِلَى
مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۲﴾

عَلَيْكُمْ ﴿۳۷﴾

توڑو نہ شکس مشر (اوکو چھ لین دینک
 لیکھن ضروری) اسہ (صورتہ) وراری نہ باپار
 آسہ اتھو اتھی۔ یہ زن توہر پانہ واڈی (مال تہ رقم)
 ہولان دولن (تمی وقتہ نیاسے مولاولن) چھو۔ تھتھ
 صورتس اندر (لین دین) نہ لیکھنک چھنہ توہسہ
 پیچھ کاٹہ گھناہ۔ بیہ تیلہ توہر پانہ واڈی، ہون کھن
 کرو تیلہ آسہ زلو گولہ بناوالن۔ بیہ (رؤزک توہ کھتھ
 یاد نہ) نہ گرتھ کھاس تکلف دہنہ یں تہ نہ گواہس
 تہ اگر توہر (تہ) کرو تہ یہ (کھتھ) آسہ توہسہ
 منہر تافرمانی (ہنر علامت)۔ بیہ پترو توہسہ
 اللہ (تعالے) سند تقویٰ پراون تہ (اگر توہر) پہ
 کرو (اللہ تعالیٰ) دیو توہر علم تہ اللہ تعالیٰ
 چھ پرتھ چہن زبر یا طھر زانان۔

تہ اگر توہر سفرس پیچھ آسو تہ توہر میلہ و نہ
 کاٹہ لیکھن وول تہ تیلہ چھ (امیک اولہ بدل کاٹہ
 چیز) گرو تھاولن۔ اوکو اگر توہر مشر کاٹہ شخص
 کھنہ (پنہس) اساتلا زاہ (تہ تس دہ کپنہ رقم)
 تہ یس امانت وار زانہ آست آسہ تس پتر سند (پنہ
 امانت تھون والی سند) امانت (منگنہ وز) واپس
 کرن۔ تہ پنہس رحین واپس اللہ تعالیٰ سند
 تقویٰ پراون۔ بیہ نہ آسو توہر شہادت (زاہ)
 کھان۔ تہ یس سہ کھتھ تھو سہ چھ بے شک سہ
 (شخص) بیجو سند دل گھناہ گھار چھ۔ بیہ (تھا ویجا)
 یہ کینرھا توہر کران چھو اللہ تعالیٰ چھ تہ
 زبر یا طھر زانان۔

یہ کینرھا تہ آسان تہ زمینہ منہر چھ تہ چھ اللہ
 تعالیٰ سندے تہ یہ کینرھا تہنہن دن دن اندر چھ
 اد تہ توہر نون کڈو تو یا کھتھ تھاوک تو۔ اللہ
 تعالیٰ، بیجو توہر تمیک حساب۔ پتہ یس بیٹھہ
 تہ تس بختہ تہ یس بیٹھہ تس دہر عذاب۔ تہ

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا
 كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ، فَإِنْ أَمِنَ
 بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوَ الَّذِي أُوْتِيتِ
 أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾

۳۷

اللہ ما فی السموات وما فی الارض،
 وان تبتدوا ما فی انفسکم او تخفوها
 بحکمکم بواللہ، فیکفول من یشاء
 ویعذب من یشاء، واللہ علی کل
 شیء قدير ﴿۳۷﴾

اللہ (تعالیٰ) چھ پرچھ اکیس چھس پیٹھ بار قوموت
تھون دول۔

یہ کثیرھا تہ اسی رسولس پیٹھ تسندس پروردگار
سند طرفہ نمازل کرنہ آمت چھ تھ پیٹھ چھ سہ
(پانہ تہ) ایمان تھون تہ (باتہ) مؤمن تہ (چھ
ایمان تھون) یکم چھ سہ سہ سلم اللہ (تعالیٰ) تہ
تسندس ملائکین تہ تسندس کتابین تہ تسندس رسولن
پیٹھ ایمان تھون (بسیہ چھ ونان تہ) اسی چھ تسندس
رسولن مندر (اکھ) اکیس درمیان (کائتہ) فرقی کران۔
بسیہ چھ یہ ونان تہ اسہ چھ (اللہ تعالیٰ سند حکم)
بوزومت۔ تہ اسی چھ تسندس (دلی) فرمانبردار سندر
وتہ۔ (یم لوکھ چھ دعا کران تہ) اے سانہ پروردگار
اسی چھ پانہ بخشائش سنگان تہ تریہ کن چھ (اسہ)
چھ تہ یں۔

اللہ (تعالیٰ) چھ تسندس شخصس پیٹھ تمہ سوائے
یہ تسندس طاقس اندر اسہ کائتہ ذمہ واری ترولان
یوسہ تہ (پتر) کام کر مہتر اسہ (سہ) اسہ تسندس
خاطر (قایدہ واجبی) تہ یوسہ تہ (بچھ) کام
کر مہتر اسہ (سہ) پیٹھ تس پیٹھ (وبال بتھ)۔

(بسیہ چھ تمہ تہ ونان تہ) اے سانہ پروردگار!
اگر تہ کالہ اسہ تہ گرتھ یا غلطی کرو تہ اسہ
دہن تہ سزا۔ اے سانہ پروردگار! اسہ پیٹھ
تراور تہ (تھ پاتھ) ذمہ واری تھ پاتھ تہ
جن لوکن پیٹھ تراومہتر اسہ یم اسہ بروٹھ


(گدر سیتہ) چھ۔ اے سانہ پروردگار! تھ پاتھ
تھاوری تہ اسہ تھ (سہ بور) تھیح (لیتے ینیمہ
کر تھیح) اسہ ہیکتہ تھتہ۔ بسیہ کر اسہ عفو، بسیہ
کر اسہ مغفرت، بسیہ کر اسہ رحم (تہ کیا تہ) تہ
تھکھ سون والی۔ اوکو کر اسہ کافرن ہنر جہا تہ

خلاف مدد۔

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
مَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ سَلَامًا لِّفِرْقٍ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ ﴿۳۳﴾

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا شَيْئًا مِنْ حَيْثُ
وَعَتْهَا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ،
رَبَّنَا لَا تَوَاجِدْنَا إِنْ تَوَيْبْنَا أَوْ
أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا،
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا حَمَلْنَا لَنَا بِهِ،
وَاعْفُ عَنَّا، وَاعْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا،
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿۳۴﴾

۳۴



سورة آل عمران: یہ سورہ مجیدنی ہے بسم اللہ ہے چھ آیتہ زبھہ ہے آیتہ بیس چھس وہ کوئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

الکَمَّ ①

اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ②

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَا
الْاِنْجِيلَ ③

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ
الْفُرْقَانَ هَ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ
اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَاَللّٰهُ عَزِيْزٌ
دُوًّا نِّيْقًا ④

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ
وَلَا فِى السَّمٰوٰتِ ⑤

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ
يَشَاءُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑥

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ
آيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاٰخَرُ
مُتَشٰبِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ

بہ چھس اللہ (تعالیٰ) سُنْد ناو ہے (پرلن) یس حسب
رؤس کرم کرن وول اتہا پھیر پھیر کر رحم کرن وول چھہ
بہ اللہ چھس سار وہ کھوتہ ہجاد زانن وول۔

اللہ (تعالیٰ) چھہ سوزات زکوم (ہندہ وراہی چھہ کانہہ
عجاس لایق۔ سہ چھہ کابل زنگی وول (پننس ذاتس
منز) قایم ہے (سارہ نے) قایم تھون وول۔

تو چھہ شریہ پیٹہ یہ کتاب حق ہے تازل کر ہتر۔
یوسہ تھہ (وحیہ) یوسہ نیہ (کتاہ) بروٹھہ (آہتر)
آس پور کرن واجز چھہ ہے تھو آس نیہ بروٹھہ
لوکن ہدایت دہہ باچھہ تورات ہے انجیل نازل کر ہتر،
بہ چھہ تھو قاصد کرن وول نشاہ تازل کورمت۔

یو لوکو اللہ (تعالیٰ) ہندین نشانن انکار کورمت ہے چھہ
تہندہ خاطر چھہ بے شک کر یوٹھہ عذاب (مقدر) ہے اللہ
(تعالیٰ) چھہ غالب ہے، سزا دہہ وول۔

اللہ (تعالیٰ) ہس نش چھہ ہرگز کانہہ چہرہ ہے ترہاہہ۔
(نہ) زمپنس منز ہے نہ آسمانس منز۔

سے چھہ یس شرک بانن منز تو ہہ ترہہ صورت دوان
چھو ہرہہ بیٹھہاں چھہ تھس وراے چھہ کانہہ
عجاس لایق ہے سہ چھہ غالب ہے (تہ) حکمتہ وول۔

سے چھہ نیو شریہ پیٹہ یہ کتاب نازل کر ہتر چھہ نیو
کیہہ (آیہ ہے) چھہ محکم آیہ یک نیہ کتاب ہندہ
سیخ بنیاد چھہ ہے کیہہ بہہ (آیہ چھہ یک) متشابہ چھہ

۱۔ محکم چھہ ہم آیہ بین منز خاص قرآن کریم چھہ تعلیم بیان کرنہ آہتر چھہ۔

۲۔ متشابہ چھہ ہم آیہ بین منز چھہ من کتابن سدی زلوڈی تعلیم بیان کرنہ آہتر چھہ۔

ذٰلِكَ لِحُجْرَةِ لَادِي الْاَبْصَارِ ﴿۱۰﴾

اُمّی بکن (کافرن، سینو یو ہے) اُچھو ستریتینہ
کھوتہ دوگنہ و پھان تہ اللہ (تعالیٰ) یس بیہرہان
چھ تہس پھ پین مدد دتھ طاقت بخشان۔ اٹھ (کھتہ)
مشر چھتہ اُچھ والین ہند خاطر بے شک اکھ نصبت۔
لوکن چھ (عام طور) پسندینہ والین چھین یعنی زنانہ،
نیچون تہ سونہ تہ روہ پھ کین رترہر تھ خزانہ،
خوش شکل گرین، چارواہن ہند تہ زراعتک محبت
رتر شکلہ مشر ہاونہ آمت، بیہ چھ دنیاوی زندگی
ہند سامانہ تہ اللہ (تعالیٰ) تہ چھ سہ (ذات)
نیس نش نہایت شوہر دار ٹھکانہ چھ۔

تہ دیکھ (ز) کیا ہمہ ونوا توہ ہر امیر کھوتہ (تہ)
جاو رت چھنہ؟ ہم لوکھ تقویٰ پرانہ، تہند خاطر
چھ تہندس پروردگارس نش تقویٰ بارغ بکن مشر
کولہ پکان چھتہ، جن مشرین (تہ) بیہ چھ
(تہندہ باچھ امیر علاو) پاک آشر تہ اللہ (تعالیٰ)
سند رضا (مقدر) بیہ چھ اللہ (تعالیٰ) پستین
پاک بندن و پھان۔

ہم ونان چھ (ز) اے سانہ پروردگار! امیر چھ
پزری پاٹھو ایمان اونمت اوکوز کرتہ سانی خطا
معاف تہ امیر بجاو نارکہ عذاب نشہ۔

ہم صبر کرن والی تہ پوز دن والی تہ فرمانبردار تہ
(خدا یہ ہند خاطر پینو مال) خرچ کرن والی تہ
سحر وقتن (یعنی پتر مرہ پیار) استغفار کرن والی چھ۔

اللہ (تعالیٰ) چھ انصافہر مطابق یہ گواہی دوان
زہ حقیقت چھتہ بیہہ زہیمس ورائی چھنہ (بیہ)
کانہہ معبود۔ بیہیہ ملک تہ تہ علمہ والی تہ چھ
بیہ شہادت دوان) زہیمس ورائی چھنہ کانہہ (تہ)
عبادتس لوق سہ چھ غالب (تہ) حکمتہ دول۔

اللہ (تعالیٰ) ہس نش چھ اول دین بے شک کمال
فرمانبردارکی۔ تہ ہوتہ لوکو بکن کتاب دہنہ آہتر اس

ذٰیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿۱۱﴾

قُلْ اَوْ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكَمَّ، لِلذّٰیِّنِ
اتَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِیْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا وَاذْوَابٌ
مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ
بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ ﴿۱۲﴾

الذّٰیِّنَ یَقُولُوْنَ رَبَّنَا اِنَّا اٰمَنَّا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَرَقْنَا عَذَابَ
النّٰرِ ﴿۱۳﴾

الضّٰیِرِّیْنَ وَالضّٰدِقِیْنَ وَالْقَوٰیغِیْنَ وَ
الْمُنْفِقِیْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِیْنَ بِالْاَسْحٰرِ ﴿۱۴﴾

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ
اُولُو الْعِلْمِ قٰٓئِمًا بِالْقِسْطِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۱۵﴾

اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَاَمَّا
اٰخْتَلَفَ الذّٰیِّنَ اَوْ تَوَّالِ الْكُتُبِ اِلَّا مَنۢ بَعَدَ

تمہ پر یہ کہ تمہیں نبی اوس علم آمت، کوڑ پانہ وازی فساق
کجو اختلاف - بیہ نسی اللہ (تعالیٰ) سندین نشان
انکار کر (سہ تمہاوں یاد نہ) اللہ (تعالیٰ) چھ بے
شک جلد بے حساب بہتہ وول۔

وہی اگریم (لؤکھ) تریہ سستی جگر کرن تہ تہ وکھ
تر میہ تہ تمو لؤکو یم میانی یارو کار چھ، چھ پین پان
اللہ (تعالیٰ) ہنتر فرمانبردار کی منز لوگمت تہ بین
لؤکن کتاب دنہ آمہتر چھینہ (تہمن) ون بیہ اُمین
(یعنی یم کتابہ وراے چھ) نہ کیا توہم (تہ) چھوا
فرمانبردار سپان؟ اڈ اگر تم فرمانبردار سپان (زبانو
نہ) تیلہ لوب تمو ہدایت - تہ اگر تمو بچھ پھیر تہ
پجانہ ذمہ چھ صرف (تہمن تام پیغام) واتناون۔ تہ
اللہ (تعالیٰ) چھ بدن وچھان۔

یم لؤکھ اللہ (تعالیٰ) ہندین آین انکار کران چھ تہ
ناحقہ چھ نسیین قبل کرن بیٹھان تہ (تمہ علوہ)
لؤکن منز انفاقک ہدایت کرن والہن تہ چھ تم قبل
کرن بیٹھان، تہ دہمن کرٹھہ عذاب نہبر۔

یم چھ تم لؤکھ) تہ بین ہندر اعمال بیٹھ دنیا ہس
(منز تہ) تہ منز منز (تہ) ضایع گترھن تہ
تہند آسو نہ کینتو تہ مددگار۔

کیا تریہ پھینا تہمن لؤکن ہند علم بین شریعتک
اکھ حصہ دنہ اوس آمت؟ (زینیلہ) تہمن اللہ
(تعالیٰ) ہنتر کتابہ کن آلو کر تہ یوان چھ بیٹھ زن
سو تہمن درمیان فاصلہ کر تہ تمو منز چھ کینتہ لؤکھ
(تہتہ) نافرمائی کران بچھو بچھو گترھان۔

یہ (بچھ پھرن) چھ اڈ کجی تہ تم چھ دنان ز گزینتہ
ہندلو کینتو دوہو وراہی پھو تہ اسہ ہرگز نار تہ یہ
کیتہ تھا بہتان تم گنڈان چھ تمو چھ تہمن تہندس
دلپس (یعنی دہنہ کس معاملس) متعلق دفا دتیت۔
تیلہ آسو تمہ دوہد بیٹھ (پنس) منز کانہہ شک

مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَخْبًا بَيْنَهُمْ، وَمَنْ
يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ⑤

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ
مَنِ اتَّبَعَنِ، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَسْلَمُوا فَإِنْ أَسْلَمُوا
فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلَاءُ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ⑥

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
يَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ بَاءُ مَوْزُونٍ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ،
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⑦

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَوَّطْتَ أَعْمَالَهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ⑧

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ
الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ
مُّعْرِضُونَ ⑨

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا الْكَافِرُ
إِلَّا آيَاتًا مَّا عَدُوذَاتُ، وَعَرَّهْمُ فِي
دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ⑩

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْتَهُمْ لِيُجَادِبَ فِيهِمْ

(شبه) چھین، تم سو سراو کہ تہ تہند حال کیاہ آسہ؟
تہ پر تہ شخصن یہ کینترھا کموت آسہ یہ تہ
(تہ وہہ) تہ پلور پلور دہہ تہ تہن پلہہ یہہ
تہ اکہنہ تہ، ظلم کرنہ۔

تہ ون اے اللہ! میں سلطنتک مابک چھاکہ تہ
میں سیرھاں چھاکہ تہ میں سلطنت دوران تہ میں
سیرھاں چھاکہ تہ میں سلطنت آتہ، ہوں۔ تہ
میں سیرھاں چھاکہ غلبہ چھی ہس بختان تہ میں
سیرھاں چھ ہن ذہیل چھین کران۔ سورے ہرر
چھ (بجائی ہے افس منر تہ تہ چھاکہ یقین
پر تہ کتہ چیزس بیٹھ تودرت تھون وول۔

تہ چھین رات دوہس منر داخل کران تہ دوہ چھین
راٹ منر داخل کران بیہ چھین مورس نش زو دار
کڈان تہ زو دارس نش مورس کڈان تہ میں سیرھاں
چھاکہ جسابہ روستے چھہس دوران۔

مومن مہ بناون مومن تراوتہ کافرین دوست، صرف
چھہ تہن نش پلور یا تہ پچھہ روزتے تہند خاطر
جائیز۔ میں میں شخص (توہہ منر) تیتھ کر تہ
آسہ اللہ (تعالیٰ) ہس ستر کتہ تہ کتہ منر کانہہ
تعلق (تہ اللہ تعالیٰ) چھو توہہ پنہ عذاب
نہہ کھوڑناون تہ اللہ تعالیٰ) ہس کتہ آسہ و
(توہہ پتو لکن) چھہ تہ گرتھن۔

تہ ون تہن (ہ) یہ (کینترھا) تہندین وچہن اندر
چھہ، تہ اڈ یا کھتہ تھاور تو یا لون کڈو تو اللہ
(تعالیٰ) زانہ تہ (پر تہ صلوس منر) تہ یہ کینترھا
تہ آسمان منر تہ یہ کینترھا منر تہ (سورہ) زمان تہ
اللہ تعالیٰ) چھہ پر تہ کتہ چیزس بیٹھ تودرت
تھون وول۔

تہ دوہس کھوڑو)۔ تہہ دوہہ پر تہ کانہہ شخص
پر تہ تہکی یوسہ تہ کر مہر آسہ (پانس) برو تہ

وَدُوبَيْتَ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِبِيَدِكَ
الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۷﴾

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ
تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۷﴾

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ لَّا أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمُ تُقْمَهُ وَيُحِذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ
إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۱۷﴾

قُلْ إِنْ تُحْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ
تُبَدُّوهُ يَخْلَعُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي
السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۷﴾

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ
مُحَضَّرًا ۗ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ

کہہ موجود ہے، یہی ہے ہدیٰ تم کو کرمش آسہ
سوتہ، سہ کرمناز کاشش اتھ (ہدیٰ) تہس
منزہاگ آسہ ہے واریاہ ترہین۔ یہی چھو توہہ
اللہ تعالیٰ) پینتہ عذابہ رشتہ کھوثر ناولن تہ اللہ
تعالیٰ) چھ پینتہ بنکن پیٹھ واریاہ شفقت کرن
وول۔

تر و نکھ تر (اے لوگو) اگر توہی اللہ تعالیٰ ہے
سوتی محبت تھاوان چھو تیلہ کرو میانی پاروی سہ
(تر) کر (تھ صورتس منز) توہہ سوتی ٹاٹھنی
تہ توہہ بختہ و تہندہر خطا۔ تہ اللہ تعالیٰ) چھ
بوڈ بخش ہار (تر) پھیری پھیری رحم کرن وول
تہ و نکھ تر (تر) توہی کرو اللہ تعالیٰ) تہ تہندس
رسولہ سنز اطاعت (اتھ پیٹھ) اگر تہ تھ پھرن
اد (یاد تھو و تر) اللہ تعالیٰ) چھنہ کافرن
سوتی ہرگز محبت کران۔

اللہ تعالیٰ) ہن اُس آدمس تہ نوحس تہ ابراہیم
سندس خاندانس تہ عمران ہندس خاندانس بے شک
سار نے عالمن پیٹھ فقیلت ڈر مشر۔
(تھو اُس) اُکس تھس نلسس ا فقیلت ڈر مشر
یس اُکھ اُکس سوتی پور پاٹھی ہنتر تھاوان وول
اوس تہ اللہ تعالیٰ) چھ سبھا بوزن وول تہ
واریاہ زان وول۔

(یاد پاوو) ییلہ عمران ہند خاندانہ چہ (اکر) زانہ
وولن تر اے میانہ پروردگار! یہ کینترھا میانس
شکس منز چھ (سہ) چھ میہ آزاد کر تھ تر یہ
ندرانہ پیش کش تھومت۔ لہذا کرن تر (سہ)
میانہ طرفہ بیتھ کئی و تھ کئی قبول۔ بے شک چھ
ترہے سبھا بوزن وول (تر) واریاہ زان وول۔
یتہ ییلہ سہ سہ زیتھ راگیہ۔ تہ وولن اے
میانہ پروردگار! میں ہے چھ یہ کور ہنتر شکہ

أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَ
يَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَاللَّهُ دَرُوفٌ
بِالْعَبَادِ ﴿۱۷﴾

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸﴾

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۹﴾

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَآلَ
إِبْرٰهِيْمَ وَآلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۰﴾

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَاللَّهُ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۱﴾

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَّوْتُ
لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۲۲﴾

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا
أُنْثَىٰ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ، وَ

منزہتہ ہمیشہ، تو یہ کثیر شہادتس زاو اللہ (تعالیٰ) اوس تہ (سار وے کھوتہ) بجاہ زانان - تہ (تمہر مند کو چھمت) نیچو چھتہ اُمس کور ہندک پاتھو (اکن ممکن) - بیہ (وونون ز) میہ چھہ اُمس ناو سریم کورمت تہ بہ چھس یہ تہ اُمس ہندک اولاد مردود شیطانتس ہنتہ (یعنی تہند حملہ ہنتہ) پچاس پینہ ہس منتر دوان -

اد کور تہندک پروردگارن سو سبھہا رتی پاتھو قبول - تہ سو آہ نفیس پاتھو رچھتہ تہ زکریا بیوہ تہند کھیل - نیلہ کنہ وز زکریا گر کس سار وے کھوتہ شوہر دار حصص منتر تنس ہنت گرتھہ ہے (تہ) تنس ہنتس اوس کانہہ (تہ کانہہ) رزق لبان - (تہ زکریا) تمہ وون (اگر دوہہ ہی وچھتہ) اے سریم! یہ کتہ آو چاہہ یاچھہ؟ تمہ وونس اللہ (تعالیٰ) ہند دربار اللہ (تعالیٰ) یس بیٹھہاں چھہ یقیناً چھہ تنس جساہہ رستہ دوان -

اد کور زکریا ہن پنسنس پروردگارن آلو (تہ) وون تنس، اے میانہ پروردگار! تہ بخش میہ (تہ) پینہ دربار پاک اولاد - تہ چھکھ بے تنک دعا چھہا قبول کرن وول -

اتھ بیٹھہ ڈر ملاکو تنس (تمہ وز) نیلہ سہ گر کس سار وے کھوتہ شوہر دار حصص منتر نماز پلان اوس آواز، ز اللہ (تعالیٰ) چھہ تزیہ یحییٰ ہنتر شوہر منتر دوان، یس اللہ (تعالیٰ) ہنتر اکھ کتھ پلوہ کرن وول آسہ تہ (تمہ علاو) آسہ سردار تہ (گمہ ناہو ہنتہ) پتھ رتن وول تہ نیکن منتر سپد (ترقی کتھہ) نیہ -

تمہ وون، اے میانہ پروردگار! میہ کتھہ پاتھو ہنہ (میانہ زندگی منتر، وائس لین وول) - نیچو؟ بوز وے تہ میہ چھہ بچہ آمت تہ میاڈ آسہ

لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۳۱﴾

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا إِذْ كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا، قَالَ يَمْرُئُومُ إِنِّي لَأَشِدُّ هَذَا، فَالْتِ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، إِنْ أَللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۱﴾

هُنَّارِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۳۱﴾

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۱﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرَ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۳۱﴾

چھ ہاتھ (گیمٹر) ، فرمونس اللہ (تعالیٰ) چھ
پتھے (قودرتہ وول) سہ یہ بیٹھان چھ (تہ)
چھ کران۔

تھ وون (پتہ) اے میانہ پرور دگار! مسیا نہ
باپتھ دکا نہ حکم ، فرمونس نہ تریہ چھے یہ حکم
نہ تہ کرکھ نہ ترمن دوہن تام لوکن سدی اشارو
ورای کتھ تہ پنن پرور دگار کرہن سپٹھا یاد تہ
صبح شام کرکھ تسنہز سبح۔

بیہ (پاؤوسہ وقت یاد) بیلیہ ملاکیو وون ، اے
مریم! اللہ (تعالیٰ) ہن پتھکھ تہ یقینا برگزیدہ
کر مہتر تہ پاک کر مہتر بیہ چھنکھ تہ سارہنے
عالم ہنرو زناو منتر نزار مہتر۔

اے مریم! تہ بن پننہس پرور دگار سوز فرماہوار
بیہ کر سچو ، بیہ کر توحید مطابق عبادت کرن
والہن سدی رلٹھ توحید مطابق عبادت۔

یہ چھ غاہر چہو خبرو منتر (اکھ خبر) یہ سہ اسی
تریہ پیٹھ وحی (ہند دگر ظاہر) کران چھ۔ تہ
بیلیہ تم پننی تہر (او مہکھ) لایان اسی نہ تمواندہ
کس کر مریمہو خبر گیری تہ تہ اوسکھ نہ تمہن
نش۔ تہ نہ اوسکھ تہ (تمہ وقتہ) تمہن نش
بیلیہ تم (پانہ وانی) تروان اسی۔

(پتہ پاؤوسہ وقت یاد) بیلیہ ملاکیو وناو ، اے مریم!
اللہ (تعالیٰ) چھے تریہ پننہ کلام دگر (اکیس نیچوکی
سوز) بشارت روان۔ تسند ناو اسی مسیح عیسیٰ ابن
مریم۔ بیس (یتھ) دنیہ ہس تہ اترس اندر باوقار
اسیہ تہ (خداہ ہندو) مقربو منتر اسیہ۔

بیہ کر منس (یعنی لہ کجارس) منتر لوکن سدی کتھ
تہ اڈ وہر وانہہ وابتھ (تہ)۔ تہ سہ اسیہ نیک

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً. قَالَ آيَتُكَ أَلَّا
تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا ذُرِّيًّا
وَإِذَا كُرِدَّتْ بِكَ كَثِيرًا وَسِيِّحٌ بِالْعِشِيِّ وَالْأُبَّكَارِ ۝

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُاِنَّ اللّٰهَ
اضْطَفٰنِكَ وَطَهَّرَكَ وَاضْطَفٰنِكَ عَلٰى
نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

يَمْرُؤُا اِقْتَرِيْ لِرَبِّكَ وَاَسْجِدِيْ وَاذْكُرِيْ
مَعَ الرَّٰكِعِيْنَ ۝

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقَوْنَ اَقْلَامَهُمْ
اَيْتُهُمْ يَكْفُلْ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

اِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُاِنَّ اللّٰهَ
يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ۙ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمَقْرَبِيْنَ ۝

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ۝

لو کو مشر۔

تمہ دون، اے مہمان پروردگار! میانہ سر رکھتے کئی
 بیسے شر، مہانکر کا نشہ (تہ) بشرن چھتہ میہ چھومت
 فرموس اللہ (عالیٰ سند کرُن) چھتہ بیٹھ (آسان)
 سہ یہ بیٹھان چھتہ تر چھتہ پاؤ کران۔ (تہ) بیٹھ سہ
 کتہ کتہ ہند فاصلہ کران چھتہ آتی چھتہ متعلق صرف
 یہ فرماوان تر " تر یہ وہدوس، تر سہ چھتہ بیٹھ
 وہدوس یوان "

تر (بیٹہ ڈرٹس بشارت تر) تس، بیٹھناو (اللہ علیٰ)
 کتاب تر حکمت (یعنی حکمتہ چہ کتہ) بیہ (بیٹھناو)
 تورات تر انجیل۔

بیہ (سوزتس) بنی اسرائیل کن رسول (بناوتھ یہ
 پیغام، چھتہ) تر یہ چھس توہدیش تہندس پروردگار
 ہند طرفہ اکھ نشان ہتھ آمت (تہ سہ چھتہ تر)
 بہ کر تہندس خاطر جاننا وار ہند پاٹھی میٹر پیٹھ
 (مخلوق) پاؤ۔ بیٹہ بہ تر تن منتر چھو کھ دتھ اکھ
 نوو روح بیٹھ پیٹھ تم اللہ (عالیٰ) ہند حکم
 وڈ وڈ سیکان تر بہ کران اللہ (عالیٰ) ہند حکم
 اون تر تھس لہ ٹھیک تر مودی متی کر کھ زرنہ
 تر یہ کتہ شہا توہی کھیو تر یہ کتہ شہا توہی پتہن
 گرن منتر جمع کروہ تمیح دموی توہدیش (تہ) اگر
 توہی مؤمن اہوتیلہ آہر اتھ منتر تہند باپتھ اکھ
 نشان۔

بیہ چھس (بہ سوہومی) یوسہ میہ بروٹھ (آمتہ)
 چھیہ یعنی تورات، پور کران وول (ہتھ) آمت
 بیہ (چھس آمت) تر کیتہ چیزیم تہند خاطر حرام
 اسی کرتہ آمت۔ (تہ) کر کھ تہند باپتھ حلال۔ بیہ
 چھس بہ توہدیش تہندس پروردگار ہند طرفہ

قَالَتْ رَبِّ اَنْىٰ يَكُوْنُ لىٰ ذٰلِكَ وَلَمْ يَمْسَسْنى بَشَرًا ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِلَآ مَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۷۴﴾

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿۷۵﴾

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِي اِسْرٰءِيْلَ اَنۢىۡ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيٰتٍ مِّنۡ رَبِّكُمْ ۗ اِنۢىۡ اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَتَمَّ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا يٰۤاٰذِنِ اللّٰهُ ۗ وَاُبْرِيۡءُ الْاَكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ وَاٰخِي الْمَوْتٰى يٰۤاٰذِنِ اللّٰهُ ۗ وَاُنۢبِتُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَاَمَّا تَدۢخِرُوْنَ فِيۡ بُيُوْتِكُمْ ۗ اِنۢىۡ فِيۡ ذٰلِكَ لَايۡةٌ لَّكُمْ اِنۡ كُنۡتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۷۶﴾

وَمَصَدَّقًا لِّمَا بَيَّنَّ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَاِلٰى جَلۡ لَّكُمْ بَعۡضَ الَّذِيۡ خَرِمَ عَلَيۡكُمْ وَاَجۡتَبٰتُكُمْ بِآيٰتٍ مِّنۡ رَبِّكُمْ ۗ فَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَاَطِيعُوْا ﴿۷۷﴾

اکھ نشانہ ہوتے آمت او کوز پر اوو توہی اللہ
(تعالیٰ) سدا تقویٰ بیہ کزو میانی اطاعت۔

اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک میون (تہ) پروردگار
تہ تہند (تہ) پروردگار، او کوز کرو توہی توہی ستر سے
عبادت۔ بیہی چھو سئینز و تھ۔

پتہ نیلہ عیسیٰ بن تہند کز انکار و چھ تہ وون ز
اللہ (تعالیٰ) ہند خاطر کم (لوکھ) چھ میانی مدگار!
حورایو وونس (ز) اسی چھ اللہ (تعالیٰ) ہند
(یعنے تہند دیگر) مدگار۔ اسی چھ اللہ (تعالیٰ)
ہس پیٹھ ایمان تھون تہ تہ روز گواہ ز اسی چھ
فرمانبردار۔

اسے سنا پروردگار! میر کیشترھا تریہ نازل کورمت
چھتھ تھ پیٹھ چھ اسی ایمان تھون تہ اسی چھ
تیمس رسول ہندک پارو کار بنے ہتر او کوز لیکھ
تہ اسر گواہن منتر۔

تہ تمو (یعنے مسیح ہندک دشمنو) تہ کرک تدریر تہ
اللہ (تعالیٰ) ہن تہ کرک تدریر۔ تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ سارہ تدریر کرن والین منتر جادوت تدریر
کرن وول۔

(سہ وقت پاوو یاد) نیلہ اللہ (تعالیٰ) ہن وون
اسے عیسیٰ! ہر دے تریہ (طبعی طریقس پیٹھ) موت
تہ بیہ نختہ پننس دربارس منتر عزت تہ کافرین
(ہندو الزامو) ہتہ کر تہ پاک بیہ یک چمڈ
پارو کار چھ تھن دہر تھن لوگن پیٹھ یک انکار کرن
والی چھ، قیامت کس دہر ہس تاہ غلبہ، پتہ آسہ و
تہ ہر بیہ کون چھ تہ یں اد کوز بہ توہہ در میان
تھن کتھن ہند فاصلہ یمن منتر توہر اخلاف کران چھ
اد یک لوکھ کافر چھ تھن دہر بہ ہتہ دنیاہس (منتر
تہ) تہ انزل منتر (تہ) سخت عذاب تہ تہند آسہ
تہ کتھو تہ مدگار۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُواهُ
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۱۰﴾

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ
مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۱۱﴾

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ
فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۲﴾

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وَاللَّهُ خَيْرٌ
الْمَاكِرِينَ ﴿۱۳﴾

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ
رَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَاجْعَلْ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ لِي
مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۴﴾

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْدِبْهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ
مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۱۵﴾

بہرے ہم لوگھ مؤمن چھ تہ تمو چھہ نیک (تہ
مناسب حال) علمہ کرک مشر۔ جس دیہ سہ تمس
(علمن) ہندہ (پور) پورہ اجہر۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ
ظاہر سستی سحت کرن۔

یہ یعنی آہ تہ حکمتہ واجز تعلیم چھی اسی ترہہ
بوز ناولن۔

(یاد تھا ویر) اللہ (تعالیٰ) ہس بئس چھہ عیسیٰ
سند حال یقینا آدمہ ہندہ حاکم پامھو، سہ (یعنی
آدم) کور تمو ہو چھہ میشر لشر پاد۔ پتہ ووشن س
متعلق ز تر یہ و بوس تہ سہ ہنوتن و بوس س۔
یہ چھہ چانس پروردگار ہندہ طرفہ سخی او کز مس بن
تہ شک کرن و ابو اندر۔

و فی سبب شخص، ترہہ بئس (الہی) علم ہنر پتہ
ترہہ سستی اتھ متعلق بحث کر تیلہ ون تر (سز)
و لو اسی لوگھ پنہی گبر ناد دتھ تہ توہی اسی لوگھ
پنہی گبر، اسی (لوگھ) پنہی زنانہ تہ توہی (لوگھ)
پنہی زنانہ، تہ اسی لوگھ پنہی پان تہ توہی (لوگھ)
پنہی پان، پتہ کرو تا نگر لاکھہ دعائہ اپز ایرین
تہ صوفو اللہ (تعالیٰ) سنتر لعنت۔

بے شک چھہ یوہ ہے پوز بیان تہ اللہ (تعالیٰ)
ہس وراہی چھہ کانبہ (تہ) عبادتس لایق تہ پزک
پامھو چھہ اللہ (تعالیٰ) ہے غالب تہ حکمتہ دول۔

اج اگر تم پھیرن (یاد تھا ویر) اللہ (تعالیٰ)
چھہ فسادین بلا شک زبر پامھو زنانہ۔

تہ ون (ز) اے اصل کتاب! (کم از کم) بیو
توہہ اکیس ترہہ کتبہ کن یوہہ اسہ تہ توہہ درمیان
برابر چھہ (تہ سم چھہ یہ کتبہ) ز اسی کرو نہ
اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی کانبہ ہتر تہ عبادت
تہ کانبہ پنہی کرون تہ تمو سند شریک تہ نہ اولن

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَبُورَ فِيهِمْ أَجْرُهُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿۵۱﴾

ذَلِكَ نَشَلُّوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّخْرِ
الْمَكِيِّ ﴿۵۱﴾

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ
خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ﴿۵۲﴾

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ
الْمُتَرَدِّينَ ﴿۵۳﴾

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ
الْحِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبْنَاءَنَا وَ
آبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا
وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ
اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ﴿۵۴﴾

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِن
إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿۵۵﴾

فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ
بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۵۶﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّٰهِ
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ ﴿۵﴾

اے اللہ (تعالیٰ) تراوتھ پانہ واڈی اکھ بیاکھ پرورگار
بناولن۔ او اگر تم پھیرن تہ برتن وان تر توہی
رؤ زو گواہ زراکی چھ (خدا یہ ہندک) فرمانبردار
اے اہل کتاب! توہی کیا ز چھو ابراہیمس متعلق
بجواد لہ لاکان۔ بیلئے زن تورات تہ انجیل بے شک
تس پتہ نازل کرنہ آستر چھیہ۔ او کیا توہ پیر چھو نا
فکر تران؟

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَمَا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا
مِنْ بَعْدِهَا أَفَلَا تَحْقِلُونَ ﴿۵﴾

بوزو! توہی چھو تم لوکھ یمن برتن کھن متعلق بحث
کران رورکتی چھو یمن ہند توہ پیر علم اوسو۔
او کیا ز چھو توہی (ووزی) یمن کھن متعلق
بحث کرنہ لگر متی یمن ہند نہ توہ پیر کہنی (تہ)
علم چھو، حالانکہ اللہ (تعالیٰ) چھ زانان تہ توہی
چھو نہ زانان۔

هَآأنتُمْ هَؤُلَاءِ حَآجَّجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ
بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيْمَا لَيْسَ
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُوْنَ ﴿۵﴾

ابراہیم نہ اوس یہودی تہ نہ نصرانی، بلکہ اوس
سہ (خدا یس کن) کھنہ روزن وول (بیر اوس)
فرمانبردار تہ مشرکو اندر اوس نہ۔
ابراہیمس سستی جاڈ تعلق تھاوان والی چھ لوکو منز
یقیناً (تہ بلاشک) تم لوکھ یمن ہندک باروکار چھ۔
بیر (تمہ علاقہ) یہ نبی تہ تم لوکھ یمن (اوس پیٹھ)
ایمان اولن۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ مؤمن ہند
دوست۔

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا
نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۵﴾
إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَكَذِبِينَ
اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵﴾

اہل کتابو اندر چھ اکھ جماعت تمنا کران زکاش
تم کرہنو توہ پیر عہدہ عمرہ عمرہ تم چھ پنس پاس
عہدہ ہی منز تراوان تہ فکر چھکھ نہ تران۔

وَدَّثَ ظَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ
يَضِلُّوكُمْ ؕ مَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۵﴾

اے اہل کتابو! توہی کیا ز چھو وجھتہ کرہتھ
اللہ (تعالیٰ) ہند پن آیین انکار کران؟ حالانکہ
توہ پیر چھو گوہی ڈر ہتر۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
اللّٰهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۵﴾

اے اہل کتاب! توہی کیا ز چھو زانہتھ ماہتھ
حق باطلس سستی رلاوان تہ حق چھو کھان۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿۵﴾

بہ چھ اہل کتابو اندر اکھ جماعت وان تر بہ
کثیرھا مومنین پیٹھ تارل کرنہ آمت چھ تھتھ
پیٹھ ابرو دہکس گوڈیکس حصس منتر اپمان تہ
تہ کس پیٹھ حصس منتر کروی (تمہ لنتہ) انکار
شاید ماہ تم تہ پھیرن (امرہ دسی)

بہ (چھ وان تر) تس شخصس وراچی یس
تہندہ دہنچ پاروی کران آسہ، مہ ماہو کانسہ
ہند، تر ونکھ (نر) اصل ہایت یعنہ اللہ (تعالے)
سند ہدایت چھ بیر زکانبہ گوڑھہ تیٹھ کپتہ
میلن تیٹھ توہہ میولمت اوسو۔ یارن تم تہندس
پروردگارس بروٹھ کتہ توہہ سستی جگہ۔ (بہہ)
ونکھ تر فضل تہ چھ بے شک اللہ (تعالے)
سندس اتھس منتر۔ سہ یس بیترھان چھ تس
چھ فضل بختان۔ بہ چھ اللہ (تعالے) سہا
وسعت دہر وول (تہ) واراہ تران وول۔
سہ سیمس بیترھان چھ (تس) چھ پنہہ رحمتہ
باپتہ تران تہ اللہ (تعالے) چھ بوڈ فغول
کرن وول۔

بہ چھ اہل کتابو اندر (کانہہ) تیٹھ تہ ہرگاہ
شوتس (مالک) اکھ انبر امانتہ پاٹھ رکھ تہ
سہ کری تہ تر یہ واپس تہ تمواندر چھ (کانہہ)
تیٹھ) تر ہرگاہ تر تس اکھ دینار امانتہ پاٹھ
دکھ اوسہ دینی تہ تر یہ سہ تہ واپس۔ ماسویہ
امرکہ تر تر روزکھ تس (کس پیٹھ) وہ دینہ۔
یہ (کھ) چھہ امرکہ تر تم چھ وان تر اسہ پیٹھ
چھہ امین (یعنہ عربہ کہن روزن واپن) منغلن
کانہہ رٹہ تہ تم چھ اللہ (تعالے) ہس پیٹھ
زانہ (مانتھ) اپز لاگتھ تھوان۔
تیٹھ کو تہ بلکہ یس شخصس یزین عہد پور کر
تہ تقویٰ پراو تہ (سہ چھ متقی) اللہ (تعالے)

وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيْنَا آمَنُوا
وَجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿۳۷﴾

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ
قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ
أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ
عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۸﴾

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۳۹﴾

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنِ إِذَا تَأَمَّنَهُ بَقِطًا
يُؤَدُّهُ إِلَى الْبَلِكِ وَمِنْهُمْ مَنِ إِذَا تَأَمَّنَهُ
يَدِينَارًا لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ
عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ
يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۴۱﴾

چھ متفقین سستی بے شک محبت تھاوان۔
 یم لؤکھ اللہ (تعالے) ہس سستی پیند پوہند
 تہ تموم بدل کے مول لہ وصول چھ کران جن لوکن ہند
 آسہ نہ اترس منز کا نہ حصہ تہ قیامتر دوہہ کر
 نہ اللہ (تعالے) جن سستی کہتہ تہ نہ وچہ جن کن
 نہ گنتر راو جن پاک تہ تہند با پتہ چھ کر لوٹھ غلاب۔
 (مقدر)

بہ چھ تمو منز بے شک اکھ فرقاہ (تیقہ) ریم
 پیندین زبون کتاب ہند (یعنے تورا تہ کہ) دکر وٹھن
 دوان چھ لہ تیقہ توہی تہ (بہ بتم ونان چھ کتابہ
 منز زانو۔ حالانکہ تہ چھتہ کتابہ منز آسان تہ تم
 چھ ونان نہ یہ چھ اللہ (تعالے) ہند طرفہ بیلہ زن
 تہ چھنہ اللہ (تعالے) ہند طرفہ (آسان) تہ تم چھ
 زانہ (مانہ) اللہ (تعالے) ہس پدہ پز لاگتہ
 تھاوان۔

کانہ (پز یارس) انسانہ ہندس شانس چھنہ بیہ شایان
 نہ اللہ (تعالے) دیہ لس کتاب، حکومت تہ نبوت
 تہ سہ ونہ (بہ نہ) توہی بو اللہ (تعالے) ترا وٹھ
 میاں بند۔ بلکہ (چھ تیقہ انسان بیہ ونان نہ) توہی
 سپر خدایہ ہندی تہ کیا نہ توہی چھو (الہی) کتابہ ہند
 تعلیم دوان بہ او کئی نہ توہی چھو (بہ ہز بان یا کران
 بہا چھ) نہ یہ (تہند خاطر میکنے) نہ توہی دیویہ
 ہدایت نہ توہی بناو لؤکھ ملایک تہ نبی پنہ رب، کیا
 توہی دیو سہ تہند مسلمان سپر نہ پتہ کفر چ (یعنے
 کفر پر اونچ) تسلیم۔

بہ (کرو سہ وقت تہ یاد) بیلہ اللہ (تعالے) جن
 (اہل کتابن) سارہنہ نبین ہند پوتہ عہد ہز راو

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفِرِيقًا يُبَالِغُونَ فِي إِسْتِنَتِهِمْ بِالْكِتَابِ لِيُحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ۖ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَلَٰعِنَ كُونُوا رَبَّازِينَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿۱۰﴾

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَدْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۱﴾

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

لہ یعنی دہن بدل چھ دنیاہ ملی، ہوان۔

لہ یعنی تورت پلان چھ انسانی عبارتہ رلاوتہ تلاوت کران تیقہ لوکن دھوکہ لگہ۔

نہ یوں ہے کہ کتاب تم حکمت بہ تو بہر دم و۔ پتہ پتہ
تو بہر نش کا نہ (تبیہ) رسول میں سے کلام پتہ پتہ
کرن وول آہے میں تو بہر نش چھ، اڈ تو ہی اڈی
زیو تس ضرور پانچھی ایمان، بیہ گزہ تس ضرور
مدد کرن (بیہ) فرما و بیان نہ کیا تو ہی چھوا اقرار
کران تہ اتھ پیچھ چھوا میانی (یعنی میانہ طرفہ)
ذمہ واری قبول کران؟ (تہ) تمہو و نیاس، آ!
اُسی چھ اقرار کران۔ فرمودیکہ، وہ فی رُوز تو ہی
گواہ تہ پتہ پتہ چھس تو ہی سستی گواہ ہو مشر (الک گواہ)۔
وہ فی میں (شخص) ابر عہد پتہ پتہ چھیر تہ پتہ لکھ
آسن فاسق۔

اڈ کیا، تم چھا اللہ (تعالیٰ) بندہ دینہ واری
(بیہ کا نہ دینا) یہ سترہاں؟ حالانکہ آسمان تہ
زمینہ اندر میں (کا نہ تہ) چھ، خوشی سان (تہ)
نا خوش گزہ تہ (تہ) چھ تہ سے فرمانہ واری تہ
کن پیہ (بیہ) پتہ پتہ تہ۔

تہ ورن (نہ) اُسی چھ ایمان تھوان اللہ (تعالیٰ) میں
(پتہ) بیہ یہ کینترھا ابر پیٹہ نازل کرنہ امت چھ
(تہ پیٹہ)، بیہ یہ کینترھا ابر پیٹہ، اسماعیل
تہ اسماعیل تہ یعقوب تہ (تہ بن) اولادن پیٹہ
نازل کرنہ امت اوس بیہ یہ کینترھا موسیٰ میں تہ
عیسیٰ میں تہ (باقی) سارہ نبیین تہندس
پروردگار بندہ طرفہ دینہ امت اوس بیہ تمہو مشر
چھن نہ کا نہہ الک اگس نش بدون زانان۔ بیہ چھ
اُسی تہندہ فرمانہ واری۔

تہ میں شخص اسلام واری کا نہہ (بدل) دین
(پارون) بیترہ، اڈ (سہ تھان یادنہ) سہ بیہ
نہ تس نش ہرگز قبول کرنہ تہ آخرت اندر سپہ
سہ نوقسان تھن ولبو اندر۔

یکم لکھ ایمان اتہ پتہ انکاری کاتہ چھ تہ

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَكَلْتَنْصُرْتَهُ، قَالَ
إِنَّا قَدْ زُنُومًا أَخَذْنَا عَلَىٰ ذُلِكُمْ ضُرِيحًا
قَالُوا إِنَّا قَدْ زُنُومًا قَالًا فَاشْهَدُوا وَأَنَا
مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۷۰﴾

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ
الْفٰسِقُونَ ﴿۷۱﴾

أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ آسَلَمَ
مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا
وَكَرْهًا وَٱلَّذِينَ يُزَجَعُونَ ﴿۷۲﴾

قُلْ أَمَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا
أُنزِلَ عَلٰى لٰبُرْهِيْمَ وَٱلسَّمْعِيْلِ وَ
إِسْحٰقَ وَيَحْقُوْبَ وَٱلْمُشٰطِ وَ مَا
أُوْتِيَ مُوسٰى وَ عِيسٰى وَٱلنَّبِيُّوْنَ مِنْ
رَبِّهِمْ ؕ لَآ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ رُوًى
نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۷۳﴾

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن
يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ
ٱلْخٰسِرِينَ ﴿۷۴﴾

كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ

إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۷۰﴾

أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۷۱﴾

خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۷۲﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۷۳﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ زَادَوا كُفْرًا لَنْ نُقَبِّلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿۷۴﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآمَنُوا وَهُمْ حَقًّا فَلَنْ يُقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلُّ الْآرِضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَفْتَدَى بِهٖ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۷۵﴾

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْ مَّا تَحِبُّونَ ؕ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۷۶﴾

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلٰلًا لِلسَّنِيِّ إِسْرَآءِئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِئِيلُ

شہادت چھکھ ڈر مشر نہ (یہ) رسول چھ پڑ لویر تہ بہن بش آسن (بیہ) دسپلہ تہ آ مشر بہن کتھ پائو انہ اللہ (تعالے) حدایتس پیٹھ ۹ تہ اللہ (تعالے) چھنہ ظاہن حدایت دوان ۱۰ یم لوکھ چھ تھو نہ بہند سزا چھ یہ نہ یمن پیٹھ ۱۱ آسن اللہ (تعالے) ہنر) تہ ملا یکن (ہنر) تہ سارنہ لوکن ہنر لعنت۔

تم روزن اتھ (لعنتس) مشر نہ (تہ) بیہ بہن (پیٹھ) یہ عذاب کم کرنہ تہ نہ یہ بیہ بہن ڈیخیر تراوتہ۔

جمو لوکھ وراہی یم امر پتہ توبہ کرن تہ اصلاح کرن تہ اللہ (تعالے) چھ بے شک سبھا بخش وول (تہ) پھیر پھیر کر رحم کرن وول۔

یم لوکھ ایمان انہ پتہ انکاری گا تہ آسن تہ تم آسن پتہ کفرس مشر بیہ ہن تہ بروٹھ دراہر ، بہند توبہ بیہ نہ ہرگز قبول کرنہ ، تہ یکے لوکھ چھ (تم) یکن و تھ راو۔

یم لوکھ انکاری گا تہ آسن تہ کفر چھ حالز مشر بہ آسن موہو۔ جمو مشر بیہ نہ کاشہ بش زہینہ اوت سون (تہ) یہ سہ فد یہ کتہ پیش کر ، ہرگز قبول کرنہ۔ یکن لوکن ہند خاطر چھ کر لوٹھ عذاب (مقعد) تہ بہند آسن نہ کونہ تہ مددگارہ

توہی ہیکو نہ ہرگز پوز پوز نیکی لیتھ یوتانی نہ پسنیو ٹاٹھو پوسپنو مشر (خدا یہ بند خاطر) خرچ کرؤ۔ تہ یس کانبہ چہر تہ توہی خرچ کرؤ اللہ (تعالے) چھ تھ پوز پائو زانان۔

پرہتھ کانبہ کھین اوس بنی اسرائیل ہند باپتھ حلال۔ تمہ حصہ وراہی یس

عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ
التَّوْرَةُ، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ
فَاتْلُوهَا إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵﴾

اسرائیلیں (یعنی حضرت یعقوب) تورات
نازل سپدنہ بروٹھ پنہ خاطر مسکروہ
گنڈرومت اوس۔ تہ و نکھ ہر گاہ توہر
ہند باپتہ حلال۔ تہ و نکھ ہر گاہ توہر
پڑ یارک پھو تہ تورات اوتہ سو پڑو۔

تورات

وونی ہم (لوکھ) امہ پتہ (تہ) اللہ
(تعالیٰ) ہس پڑ لاکھتھ قھون، اد
تہ لوکھ آسن نطلم۔

فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۶﴾

تہ و نکھ نہ اللہ (تعالیٰ) ہن پھ پوز
وونمت، او کوز کرو توہر ابراہیم
سند دپنچ پآر وک، یس دخالیں
کن (تیمتھ روزن وول اوس بیہ اوس
نہ سہ مشر کو منہر۔

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ
ابْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ
المُشْرِكِينَ ﴿۷﴾

سار وے کھوتہ گو ڈنیک گر یس تمام
لوکن ہند (قاید) خاطر بناونہ امت
اوس پھ سہ یس مکس منہر چھ، سہ
پھ سار وے عالمو خاطر برکتر وول
(مقام) تہ ہدایت (دنگ باعت)۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۸﴾

تھ اندر پھ کاتیاہ پر ہر لوڈی نشاہ
ابراہیم مند قیام گاہ پھ (سہ) تہ
یس تھ اندر داعسل سپد سہ پھ
امنس منہر یوان تہ اللہ (تعالیٰ) ہن پھ لوکن
پہ پھ فرمن کورمت نہ ہم کرن امہ ترک
حج۔ (یعنی) یس (تہ) تھ تانی گرتھنک
توفیق لبہ، تہ یس انکار کر اد (سرتھان)
یاد نہ (اللہ تعالیٰ) پھ تمام عالمو
نشہ بیہ پرواے۔

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْرَاهِيمَ
مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وَيَلْتَمِسُ عَلَى النَّاسِ
حُجَّ البَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَةِ اِلَيْهِ سَبِيلًا
وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ
العَالَمِينَ ﴿۹﴾

ثرون نہ، اے اہل کتاب! توہر کیا نہ پھو
اللہ تعالیٰ، ہندن آین انکار کران حالکھ اللہ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا

تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

قُلْ يَا هَذِهِ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن أَمَنَ تَبِعُونَهَا عَوجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

(تعالے) پچھ تہندین اعمالن پیٹھ بکران ۔
 بیہ کن (تو نہ) اسے اہل کتاب! بیس
 ایمان انان پچھ تس کیازر چھو توہر اللہ
 (تعالے) سنزرتہ نش ٹھاک کران ۔ توہر
 چھوون پر دوتھ ، ہجر پراو ورتی سبترھان
 حالانکہ توہر چھو (اتھ پیٹھ) گواہ ۔ تہ
 یہ کینترھا توہر کران چھو اللہ (تعالے) چھنہ
 تمہ نش ہرگز غافل ۔

اے مومنو! اگر توہر تمہو لوکو اندر بین
 بکتاب دینہ آمشر اس ، کتہ فریقہ اطاعت
 کبرو اور تم بتاؤ توہر تہہ تہند

ایمان اتہہ پتہ بیہ کافر ۔
 بیہ توہر کتہہ پٹھ کبرو کفر سبیلہ زن
 توہر تم لوکھ چھو بین اللہ (تعالے) ہندر
 آہہ پچرھہ بوزناوتہ یوان چھہ ؟ بیہ پچھ
 توہر منتر تندر رسول (موجود) تہ بیس
 شخص اللہ (تعالے) سنز چھین جہاے
 منگہ اور (زانی تو) سہ او سنزرتہ پکناونہ ۔
 اسے ایماندارو! اللہ (تعالے) ہندر تقویٰ پراوو
 تہکو ساری شرط ہتھہ تہ توہر گرتھہ صرف تھہ
 حاس منتر موت بین نہ توہر آسو پور فرما ندرار ۔

بیہ رٹو توہر سارک اللہ (تعالے) سنز رز چھہ تہ
 چھکرہ متہ بیس تو ۔ بیہ پاوک تو اللہ (تعالے) سند
 (سہ) احسان یاد بیس تمہ توہہ پیٹھ کورمت چھہ
 بیلہ توہر (اکھ اکر ہندر) دشمن آسرو، تمہ کور
 تہندین دین منتر لول پاوہ بیس کس نیس منتر توہر
 تہند احسانہ کوز بے بارہ بنے و ، بیہ آسرو توہر
 آکس نار کھو کس دس پیٹھ مکر تمہ بچاوک و توہر ۔
 یٹھ کوز چھہ اللہ (تعالے) پچنہ آہہ تہندہ خاطر
 بیان کران بیٹھہ توہر ہدایت لبو ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا
 فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿۱۱﴾

وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُثَلِّ
 عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَ
 مَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى
 صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۲﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
 تَقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ
 مُّسْلِمُونَ ﴿۱۳﴾

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا
 تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
 فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ
 عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
 مِنْهَا، كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۴﴾

وَلَتَكُنَّ مِنَكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۱﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَا
اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۵۲﴾

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا
العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۵۳﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ
فَإِنَّهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۴﴾

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿۵۵﴾

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِلَىٰ
اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۵۶﴾

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۵۷﴾

بہ گزشتہ توہمہ منزاکہ جماعتہا برتھہ آہنہ سیمچ
کام صرف یہ آہہ نہ سو وہیہ (لوکن) نیکی کن ناد
بہ وہیہ نیک کھن ہنر تعلیم تہ ہدیہ لہنہ رطہ
پتھہ تہ ہیکے ٹوکھ پھہ کامیاب سپنہ والی۔

بہ مہ ہینو توہمہ ہنن لوکن ہندرک پانگی ہم ٹاکاہ
ہنشانہ ہنر پتہ پھکرہ آہیہ تہ ہموکوز (پانہ والی)
اختلاف پادہ، تہ ہم نہ لوکن ہندرک ہاپتھہ چھہ
(تمہ دوہہ) ہار عذاب (مقدر)۔

ہینہ دوہہ کیہنہ ہتھی پرنی سپنہ تہ کیہنہ ہتھی
گرشہن کرہنہ اہ ہین لوکن ہندرک ہتھی کرہنہ کرہنہ
(ہنن ہینہ ونہنہ) کیا (ہیہ ہننا پوز نہ) توہمہ آہیہ
سپنہ ایمان انہ پتہ کافر سپنہ ہتھی۔ اوگنہ
وہیہ سپنہ کافر سپنہ کہ ہاعنہ امر غنابک
منہ۔

تہ ہین لوکن ہندرک ہتھی پرنی سپنہ تم آسن
اللہ (تعالیٰ) ہندرک رحمتس منہ (تہ) تم آسن
تھہ منہ (ہر ہمیشہ) روزہ وئی۔

ہیم چھہ اللہ (تعالیٰ) ہندرک آہیہ ہین اندر حق چھہ
(تہ) ہم آسی تہ پرتھہ ہوزنا وان چھہ تہ اللہ
(تعالیٰ) چھہ کلہم عالمون ہنہ گنہ تہ عالمس پتھہ
گنہ قہمک ظلم کرن ہینہ ہان۔

بہ یہ کیہنہ آسمان منہ چھہ تہ یہ کیہنہ ہازہینہ
منہ چھہ (تہ سورہ) چھہ اللہ (تعالیٰ) سندہ
تہ اللہ (تعالیٰ) ہس کتہ ہین ساری معا ملہ
پھہ پتھہ وائناونہ۔

توہمہ چھو (سارہ وہیہ کھوتہ) برہ جماعتہ ہوہو
لوکن ہندرک (قایدہ) خاطرہ پادہ کرہ آہنہ چھہ
توہمہ چھو نیکی ہندرک ہدایت کران تہ ہدیہ لہنہ چھو
پتھہ ران بہ چھو اللہ (تعالیٰ) ہس پتھہ ایمان
تھولن تہ ہرگاہ اہل کتاب تہ ایمان انہ ہن تہ ہن

ہندہ خاطر گرتھ ہے بجاؤت تمہن اندر چھ کیشہ
 نمون تہ، تہ بجاؤ چھہ تمہن منتر نافرمان۔
 یکم لوکھ ہیکن نہ معمولی ادا ورنہ ورنائی توہر کیشہ
 نو قصان وناؤتھہ بیہ اگر تم توہر سستی جنگ سکران
 ادر تم تران توہر کن تھہر پھرتھہ۔ پتہ ہیکہ نہ تمہن
 کنہ اندر مدہ مپلتھہ۔

سیتین تہ تم لبتہ پن تمہن پیٹھ چھہ ذلت نازل
 کرنہ آمتر۔ امہ وراے نہ تم پن اللہ (تعالیٰ)
 ہندس کنہ عہدہ (کس) یا لوکن ہندس کنہ عہدہ کس
 پتہ ہس تل (تم ہیکن نہ تمہ ذلتہ نشہہ بچتھہ)۔ بیہ
 چھہ تم اللہ (تعالیٰ) ہندہ غنیکہ نشاہہ سیتہ، تہ
 بے بسی (ہنر حالت) چھہہ تمہن سستی گنتہ
 تھونہ آمتر۔ یہ چھہ امہ موکھ (کرنہ آمت) نہ تم
 اسی اللہ (تعالیٰ) ہندس پن آین انکار کران تہ ہنگتہ
 منگہ اسی سبب قتل کرن سیتھان یہ کتھہ اسی
 (تمہن اندر) تہنتر نافرمانی کرنہ تہ حد نمبر گناہ تو آسہ
 موکھ (لبتہ یوان)۔

تم ساری لوکھ چھہ ہوی۔ اہل کتابہے اندر چھہ
 اکھ ترشہ جماعت تہ یوسہ (پنس عہدس پیٹھ) تاہم۔
 چھہہ۔ تم چھہ راز پھرن اللہ (تعالیٰ) ہندس آسہ
 پران تہ سجدہ (تہ) چھہ کران۔

تم چھہ اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ تہ سیتہ واپس
 دوہس پیٹھ ایمان تھوان تہ نیکی ہند ہدایت کران
 تہ بدیہ نشہہ پتھہ رمان تہ نیک کامن منظر اکھ اس
 برونتھہ نیران تہ یکے لوکھ چھہ نیکی اندر۔

بیہ یوسہ نیکی تہ تم کرن تھہہ بیہ نہ بنے قدری کرنہ
 تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ تقویٰ پرلون والین زبر پاٹھہ رانان۔

یکم لوکھ کافر چھہ، تمہن نہ بچاون تہندر مال تہ نہ
 تہندر اولاد اللہ (تعالیٰ) ہندہ عذابہ نشہہ۔ بیہ
 چھہ تم لوکھ، نادر واری (یعنی نارس ہون والی)۔ تھہ

لَنْ يَضُرَّكُمْ وَلَا أَذَىٰ دَرَانٌ
 يُفَارِلُوكُمْ يُولُوكُمْ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا
 يُنصَرُونَ ﴿۷۱﴾

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا
 إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحُبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَ
 بَاءٌ وَيَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
 الْمَسْكَنَةُ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
 يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ
 الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكُمْ بِمَا عَصَوْا
 وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۷۱﴾

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ
 قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ الْبَيْلِ وَ
 هُمْ يَسْجُدُونَ ﴿۷۲﴾

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
 يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ
 أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۷۲﴾

وَ مَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بِهِ وَ
 اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۷۳﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُخَيِّرَ عَنْهُمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَ لَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ
 شَيْئًا وَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَلِدُونَ ﴿۱۱﴾

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ
أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا
أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكْتَهُ، وَمَا ظَلَمَهُمُ
اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۲﴾

منزورون (تم) بسوزی۔

یہ کثیرھا ہم لوگہ نزدیکہ چہ زندگی متعلق خرچ کران
چہ خرچ مثال چھہ تمہ ہواج ہش بیہ منز سجت
ترنیار آس۔ (تہ) سہ چہ بیہ قومہ کہ زمین زراعتہ
پیٹھو نیو سنس پاس پیٹھ ظلم کورمت آس۔ پیٹھ
کر سہ تھہ تباہ، تہ اللہ (تعالیٰ) ہن کور نہ ہن
(لوگن) پیٹھ ظلم، ووزی گوو تم چہ سینین زون
پیٹھ پانے ظلم کران۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً
مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْمُرُكُمْ بِالْحَيَاةِ
الْحَسَنَةِ قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءُ مِن
أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾

اے ایماندارو! پیٹھ لوگہ تراوتہ مہ بناؤ لیکہ (بدل
لوگہ) سر باجر۔ تم چہ توہہ سستی بدسلوکی
کرس کاٹھہ چھہ نہ کران (تہ) تہند تکلفس مشر
ہنہ یں چھہ خوش کران (تہنر) دشمنی چہ تہندو
دہانو تہنہ مشر بیہ یہ کثیرھا تہندین وچھن مشر
کھٹھہ پھہ تہ چھہ (تمہ کھوتہ تہ) جاو۔ اگر توہر
عقلہ کام ہنہ واپ چھہ تیلہ چہ اسہ تہندہ باچہ پیٹھ
آیہ واش کڈتہ بیان کرکہ ہوتہ۔

هَآنَتُمْ أَوْلَاء تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ
وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا الْقُومُ
قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ
الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْمِنُوا
بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿۱۴﴾

ہوزو! توہی چھو تم لوگہ ہم تمن سستی لول چھہ وناوان
سالانہ تم چھہ توہہ سستی لول وناوان۔ تہ توہی
چھو (سر) سلبم کتابہ پیٹھ ایمان انان تہ تیلہ تم
توہہ سمکھان چھو اتی چھہ وناوان (ز) اسی (تہ) چھہ
ایمان تھول۔ تہ تیلہ تم بیون سیدان چھہ او چھہ تم
توہہ خلاف شرارتہ سستی او نگہ تراپان۔ تہ ون (تمن
ز) گترھو مسرو پیٹھ شرارتہ سستی۔ اللہ (تعالیٰ)
چھہ شک وچھو ہر تمام تہ زانان۔

إِن تَمَسَّكُمُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن
تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن
تَضِيدُوا وَتَثَقُّوا لَا يَصُرُّكُمْ
كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ
مُحِيطٌ ﴿۱۵﴾

اگر توہہ کاٹھہ کامیابی حاصل سیدو، او تمن چھہ بد
لیوان، تہ اگر توہہ کاٹھہ تکلیف واتہ و تہ تھہ پیٹھ
چھہ تم خوش گرشان۔ تہ اگر توہی صبر کرو تہ تقویٰ
پر او تیلہ وناوان و نہ تہنر (مخالف) چل توہہ
کھنی (تہ) نوقصان تہ یہ کثیرھا تم کران چھہ اللہ
(تعالیٰ) چھہ یقینا تھہ ملے تباہ کرن وول۔

بہ (اگر سہ وقت یاد) میلہ تہ سپنہن گر کہن نش
صبح صبح او موکہ درایکھ - نہ مؤمن بہناؤ کہہ جنگ
با پتھ تہنن مقرر کر مشن جاین پیٹھ تہ اللہ
(تعالیٰ) پتھ (چاڈ دغا) سہا بوزن وول (تہ توہر
لوکن ہندک حالات) زبر پاکھر زان وول -

(پتھ کر سہ وقت یاد) میلہ (زن تم حالات و پتھ)
توہر مشن نہ درک بزدلی ماوس پیٹھ تیار سپد کتہ
مسی حالانکہ اللہ (تعالیٰ) اوس تہند دوست - بہ
پیز مؤمنن اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ توکل کرن -
تہ (امر بروئٹھ جنگ) بدس مشن میلہ توہر پس
پایہ اوسو ، پتھ اللہ (تعالیٰ) ہن توہر مدد دیت
مت - او کتہ پراوو توہر اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ بیٹھ
زن توہر شکر گزار بنو -

(سہ وقت تہ کر یاد) میلہ تہ مؤمنن زن اوسکھ
نہ کیا تہند با پتھ سپنا یہ (کتھ) کانی نہ تہند پرورگار
کر و توہر (آسمانہ پیٹھ) منزل سپدک متہو تریو
ساسو ملاکیو ہند موسی مدد ؟

کیاز سپدہ (کانی) ؟ اتر توہر صبر کرو تہ تقویٰ پراوو
بہ اگر تم (کافر) و ذی توہر پیٹھ حملہ کر تھہ بین
تیلہ کر تہند پرورگار پانڑو ساسو بر لوہر حملہ کرن
والہو ملاکیو ہند موسی توہر مدد -

بینہ پتھ اللہ (تعالیٰ) ہن یہ (کتھ) صرف او
مہو کہ مقرر کر مشن نہ تہند خاطر آسہ تہ شجر تہ
تہندک دل بین امر ستر اطمینان ، نہ تہ چھ مدد
صرف) اللہ (تعالیٰ) ہندک طرفہ (یوان) یس غلبہ
وول (تہ) حکمت وول پتھ -

(بہ چھ اللہ تعالیٰ ہن یہ کتھ) او موکہ (مقرر
کر مشن نہ سہ (اللہ تعالیٰ) تہ ٹ کافرن ہند
الہ حصہ یا کر تم ذہل بیٹھ زن تم ناکام (سپدکھ)
واپس گزہن -

وَاِذْ خَدَوْتُمْ مِنْ اٰهْلِيْكَ تَبٰوِيْ
الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللّٰهُ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۳۷﴾

اِذْ هَمَمْتُمْ طَآئِفَتَيْنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۗ
وَاللّٰهُ وَاٰلِيْهُمَاۤ وَ عَلٰى اللّٰهِ
فَلْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۸﴾

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ وَاَنْتُمْ
اَذِلَّةٌ ۗ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿۳۹﴾

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ
اَنْ يُمَدِّدَ بِكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلَافٍ مِنَ
الْمَلٰٓئِكَةِ مُزْبِنِيْنَ ﴿۴۰﴾

بَلٰٓءٌ اِنْ تَصْبِرُوْا وَاَتَّقُوا اَوْ يَأْتِكُمْ
مِّنْ قُوْرِهِمْ هٰذَا يُمَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ
بِخَمْسَةِ اَلَافٍ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ
مُسَوِّمِيْنَ ﴿۴۱﴾

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَّكُمْ ۗ
لِتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُكُمْ بِمَا نَصَرَكُمُ
اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿۴۲﴾

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ
يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿۴۳﴾

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۱۰﴾

چون چھتو بیٹھ معاملس منتر کھنٹی (دُخُل، یہ سورسے
چھتو خدایہ ہندس اکتس منتر) ادر سہ تمن پیٹھ فضل
کرکرتن یا تمن عذاب دیتن (مگر تم چھ عذابس
لا بیٹھ) تہ کیا ز تم چھ فلالم۔

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
يَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۱﴾

میس یہ کیتھھا آسمان منتر چھ تہ یہ کیتھھا
زمین منتر چھ، (تہ سورسے) چھ اللہ (تعالے)
سندسے۔ سہ یس یہ تھھان چھ تس چھ بختان تہ
یس یہ تھھان چھ تس چھ عذاب دوان۔ مس چھ اللہ
(تعالے) سبھا بختن بار (تہ) چھپرک چھپرک رحم
کرن وول۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا
الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا
اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

اے ایماندارو! توہی مسہ اوسو (پننن ماس پیٹھ)
سود کھولن۔ یس ماس) حد روس ہراوان چھ تہ
اللہ (تعالے) سند تقویٰ پراوو بیٹھ زن توہی کامیاب
سپرو۔

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ ﴿۱۱۳﴾

بیس کھوڑو تمھ نارس یس منکر ہندہ با پتھ تیار
کرتہ آمت چھ۔

وَ اَطِيعُوا اللّهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۱۴﴾

بیس کرو اللہ (تعالے، سنز) تہ تہندس رسولہ
سنز اطاعت۔ بیٹھ زن توہی رحم کرتہ بیس۔

وَ سَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ
جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۗ
اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

بیس بگلو بروٹھ پننن پروردگار ہندہ طرفہ نمازل
سپدن واجبہ بختاشہ (کن)، تہ تھتہ جنتس کن
بیبیک ممول آسمان تہ زمین چھ تہ یس تقویٰ
پراون والین ہندہ خاطر تیار کرتہ آمت چھ۔

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ
وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظِ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ
النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱۶﴾

بیم (متقی) خوشحالی (منتر تہ) تہ تمھ چھو ہنس
منتر (تہ خدایہ سنز وتہ) خرچ کران چھ، تہ
شکھ تراپن وال تہ لوکن عفو کرن وال چھ۔ تہ
اللہ (تعالے) چھ احسان کرن والین سندہ ماٹھنیا
کران۔

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا اٰجِسًا اَوْ ظَلَمُوْا
اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاَسْتَغْفَرُوْا
لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَ مَن يَّغْفِرِ الذُّنُوْبَ

ووز کوو (تمن لوکن ہندہ با پتھ) بیم کاٹھہ کچھ کام
کرتھہ یا پننن زون پیٹھ علم کرتھہ اللہ (تعالے)
ہس یاد کران چھ تہ پنننن تقوون ہنس معافی

إِلَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَوْ يُصِذُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا
وَهُمْ يَخْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

بیشترهاں چھ، تہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی کس
پچھ خطا بخشتمہ ہیکان ہتہ یہ کثیرھا تمو کورمت
آسان پچھ تھہ پیہہ چھنہ (تم) تراہتمہ (مانہہ)
اکبر کران۔

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْلُوبَةً مِّن رَّبِّهِمْ
وَجَنَّتْ تَحْرِيْبِي مِّن تَحْتِهَا إِلَّا نَهْرٌ
خَالِدِينَ فِيهَا وَنَحْمُ أَجْرَ الْعَمَلِينَ ﴿۳۱﴾

یک لوکھ چھ تھوہر تہند جزا آسہ تہندس پروکاب
ہند طرفہ (نازل سپان واجہو) بخشش تہ تھوہر
باغ میں مشر نہر پکان آسن۔ تہ ہم روزن کن
اندربسان تہ کام کرن والہن ہند یہ بدلہ کوتاہ
رت پچھ۔

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ، فَمُصِرُوْا
فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ ﴿۳۲﴾

توہہ بروٹھ چھ عمل کرہی وارا دستور آسی ورا
(تمہن ہندی نتیجہ ہے وچھو آسنو) ادر مینہ
مشر چھوہر تہ وچھوہر (ہم صابطہ) اپراون
والہن ہند انجام کیہہ (کھریون) سپد۔

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۳﴾

یہ (ذکر) چھ لوکن ہندہ خاطر سہٹاوضات
کرن وول تہ تقویٰ پرلون والہن ہند با پچھ
ہدایت تہ نصیحت۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمْ
الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾

بیہ مہ تاوو توہی کمزوری تہ مہ ہیہو عم۔ تہ
ہرگاہ توہی مؤمن چھو تیلہ روزو توہی سرس۔

إِنْ يَمْسَسْكُمُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ
قَرْحٌ مِّثْلُهُ ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا
بَيْنَ النَّاسِ ، وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ، وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾

ہرگاہ توہہ کانہہ چھوگہ گہ و تہ تمہن لوکن تہ
چھ تیلہ چھوگہ لوگت۔ تہ ہم (غلبکر) دوہ چھو
تھوہر آسی چھاکہ ہم لوکن مشر وار وار پھرناناوان
روزان (ہتہ ہم نصیحت رن) بیہ ہتہ اللہ (تعالیٰ)
تمہن لوکن شہراو پکو ایمان اونمت پچھ۔ تہ توہہ
مشر بناو (کثیرن) شہید۔ اللہ (تعالیٰ) چھنہ
ظالمین پسند کران۔

وَلِيُمَيِّضَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ
الْكَافِرِينَ ﴿۳۶﴾

بیہ ہتہ ، ہم مؤمن چھ ، تمہن کر اللہ (تعالیٰ)
پاک تہ صاف تہ کافرن کر ہراک۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ
يَعْلَمَ الضَّالِّينَ ﴿۳۷﴾

کیا توہہ چھوا (ہم) فکر توڑمت تہ توہی سپدو
جنتس مشر داخل۔ حالانکہ وہ گری نہ اللہ (تعالیٰ)
ہن توہہ مشر ہم لوکھ تھی ہم مجاہد چھ تہ نہ کرن

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ
تَنْظُرُونَ ﴿۷۰﴾

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَنْتُمْ مَأْتُونَ قِيلَ
أَنْقَلِبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ
عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَ
سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۷۱﴾

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ
الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَيَجْزِي
الشَّاكِرِينَ ﴿۷۲﴾

وَكَايِنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ
كَثِيرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَمَا ضَعُفُوا ۚ وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿۷۳﴾

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَارْحَمْنَا ۚ إِنَّ
أَمْرَنَا ذَلِيلٌ ۚ وَأَنْتَ أَعْلَمُ

تم نئی حکم صبر کرن والی چھ -
بیہ اسی و توہمی ینیرہ موتیچ خامش امیر کہ وقتہ
برونٹھ تہ کران۔ لہذا چھو (ووڑی) توہمہ بیہ تنٹھ
حالتس منز وھمیت ز امیک سوئے رترتہ ناکارہا
چھینہ توہمہ پیٹھ نئے موثر۔ (ادکیاز چھ ووڑی کینہ
کینہ پوت، ہوان ؟)

بیہ محمد چھ صرف اکھ رسول۔ تس بروٹھ چھ ساری
رسول وفات سپر کہوت۔ لہذا اگر سہ (تہ) وقتہ
سپر یا قیل کرنہ پیہ، کیا توہمی پھیر کہ واپانہ
پوت کھوری واپس؟ تہ یس شخص پوت کھوری واپس
پھیر سہ ہیکہ نہ ہرگز اللہ (تعالیٰ) سہند
نوقصان کرتھ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) دیہ شکر گزارن
ضرور رترہ منورہ۔

تہ اللہ (تعالیٰ) ہند اذہن وراچی ہیکہ نہ کانہہ
زو ذاتھ مرتھ (تہ کیاز اللہ تعالیٰ ہن چھ) اکھ
گنڈھ میعاد وول فاصلہ (کرتھ تھومت) تہ یس
شخص دنہک بدلہ ترھانہ ون آسہ، اسی دمو
تس تمہ منز۔ تہ یس شخص آخریک بدلہ ترھانہ
ون آسہ، اسی دمو تس تمہ منز۔ بیہ دمو
شکر گزارن ضرور بدلہ

بیہ چھ سبھانہ تھو (گدرے ہتہ) یمن سیرتہ
رلبھ (تہنر) ہماڑ منز واریا ہو لوکو جنگ
کور تہ خدایہ ہنر و تہ منز یس تکلیف تہن ووت
تمہ کہو نہ ہاو تہو کہالت تہ نہ ہاو کہ کمزوری تہ
نہ نئے یہ تم (دشمنن بروٹھ کہن) ہر ہرسان
تہ اللہ (تعالیٰ) چھ صبر کرن والین ورتہ محبت
کران۔

بیہ وون نہ تمو امیر کتھ وراچی کینہ (تہ نراے
سانہ پروردگار! سانی خطا! سانہ کوتاہی) تہ سانہ
اعمان منز سانہ زیادہ تہ کراسہ معاف۔ بیہ درلو

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۳۰﴾

فَاتَّهَمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ
ثَوَابِ الْآخِرَةِ ، وَ اللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۱﴾

۱۵
۱۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا
الَّذِينَ كَفَرُوا يَزِدُّكُمْ عَلَى
أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿۳۲﴾

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿۳۳﴾

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا
الزَّعْبَ يَمَّا أَسْرَوْا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ
بِهِ سُلْطَانًا وَ مَا أُوْهُمْ النَّارُ وَ يَتَسَّ
مَتَّوَى الظَّالِمِينَ ﴿۳۴﴾

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا إِذْ تَحْسُرْتَهُمْ
بِأَذْنِهِ ، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ
فِي الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مَن بَعْدَ مَا
أَرْسَلَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ ، مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ
الدُّنْيَا وَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ،
ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ، وَلَقَدْ
عَفَا عَنْكُمْ ، وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۵﴾

سأذی قدم تہ کافرن بخلاف کراسہ مدہ ۔
اتھ پیٹھ دُبیت تمن اللہ (تعالے) ہن دُنیہ ہک
بدلہ (تہ) اُخرتک بجاو رت بدلہ (تہ) - تہ اللہ
(تعالے) چھہ اصمان کرن والین لول بران ۔

اے ایماندارو! ہرگاہ توہی تمن لوکن ہنرفانہراکی
کرو یم کافر چھہ تہ تم پھرنو توہہ پوت کھوری
والیس نیہ کنی توہی گاٹہ تلن والہو منفرہ بنو ۔

(توہی چھو تہ خاہر تلن والی) بلکہ چھہ اللہ (تعالے)
تہند مدگار تہ سہ چھہ سارہ وہے مدد کرن والہو
کھوتہ بجاو رت ۔

یم لوکہ منکر چھہ ، اسی تراوو تہندین دن اندر بے
شک ثابت ۔ او مومکھ زہتمو چھہ سہ چہر اللہ
(تعالے) سد شریک مہرومت - بیہج تہم کابہہ
دیل نازل چھہ کر مہتر ۔ تہ تہند ٹھکانہ چھہ ناز
تہ ظلمن ہند ٹھکانہ کوتاہ خراب چھہ ۔

بہ کور اللہ (تعالے) ہن توہہ سستی بین وعدہ
بے شک پورہ (تمہ وقتہ) - بیلہ کہ توہی تمہ بند
کلمہ تم مارک مارک فناہ ارسو کہ کران یوتانی زہ
- بیلہ توہہ ڈبجیر ترورو تہ (رسول اللہ بندہا)
حکس متعلق کور و پانہ وافی جگڑ تہ یہ کینزہا
توہی بیٹھان اسی و ، تہم اوسو تہ توہہ ہوومت
تمہ پتہ کرور (توہہ) ناقرا مانی ۔ (تہ تم کور بین
مدد بند) کیبہ اسی توہہ منر دنیا تھانہ و فی
تہ کیبہ اسی توہہ منر آخرت تھانہ و فی - پتہ
بجاکور و تم توہی تہنر آزمائش کرنہ مومکھ
تمن (دوشمنن) ہند حملہ ہنہ - بیہ چھو تمہ
یقینا توہہ معاف کورمت تہ اللہ (تعالے) چھہ
مومین پیٹھ بارہ فضل کرن وول ۔

بیلہ توہی دوان تران اسی و تہ کانیہ کن اسی و تہ

إِذْ تُضْعِدُونَ وَ لَا تَلَوْنَ عَلَى أَحَدٍ

وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ
فَأَنَا بِكُمْ غَمًّا يَغِيهِ لِكَيْلًا تَخْرَلُوا
عَلَّ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا آصَابَكُمْ وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾

پوت چہرہ تھ نظر تہ دیوان، حالانکہ رسول اوسو توہہ
تہنہنر مار وہے کھوتہ پتو سہہ ہماثر مشر (وودہن)
آلو دیوان۔ اتھ پیٹھ دیوتو تھ (اللہ تعالیٰ ہن)
توہہ کہ عمر بدل بیکھ اکھ عم بیتھ یہ کثیرھا توہہ
نش اتھ گومت پتھ تہ لیس (دو کھ) توہہ وومت
چھو تھ پیٹھ گرتھو نہ توہی عملین تہ یہ کثیرھا
توہی کران چھو، اللہ (تعالیٰ) چھ تہ پلور پاتھ

زانان۔

پتہ کرتھ امر عمر پتہ توہہ پیٹھ دل دنجہ تھون
واجبہ حالت یعنی بندہ نازل یوسہ توہہ مشر
اکس دوس پیٹھ حاوی سپدان اس تہ اکھ دور
اوس بیتھ نہ تم اسی تہند لو زوو فکر مند کرتھ
تھاوک ہتی۔ تم اسی اللہ (تعالیٰ) ہس نسبت
جاہلیتہ (کہ زبانہ) کہن عثمان ہندک پاتھ اپزک
گمانہ کرن۔ تم اسی زبانہ، کیا حکوتس مشرھا
سون تہ کہنہ (دخول)؛ تہ ونکھ (ز) حکومت
چھ سر سالم اللہ (تعالیٰ) سترہے۔ تم (مناقی)
چھ پنہن دن اندر تہ کثیرھا کھان یہ نہ تم تہ
نش ظہر کران چھ۔ تم چھ دیان اگر سون (تہ)
حکوتس مشر کہنہ (دخول) اس تہ اسی گرتھ ہو
نہنتہن مار۔ تہ ونکھ ہرگاہ توہی پنہن گرن
اندر (تہ) روزہ ہو۔ توہہ بین لوکن پیٹھ لڑائی
کرتی فہن کرتہ آمتر چھہ۔ تم آسہ ہن (قبول
سپتھ) پنہن لر تراونہ چین جاین کن ضرور
درامتی بیتھ اللہ تعالیٰ بین حکم پلور کرہے) بہہ
بیتھ یہ تہندین وچین اندر چھ اللہ تعالیٰ کرہے متع
از مالیش تہ یہ کثیرھا تہندین دن اندر چھ تھ کرہے فہ
(تہ پاک)۔ تہ اللہ تعالیٰ چھ وچن ہنرتھ تہ زہر پاتھ زانان
نیمہ دوہہر دوہوے فوج اکھ اکس بیتھ لجاہہ تمہ
دوہہر یو توہہ مشر تھہر پھریاہہ تم یہ تھہاہ

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ بَعْدِ الْعَمِّ
أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ،
وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ
يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
الْجَاهِلِيَّةِ، يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ
الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ
لِلَّهِ، يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا
يُبْدُونَ لَكَ، يَقُولُونَ لَوْ كَانِ لَنَا
مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلْنَا هَهُنَا، قُلْ لَوْ
كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى
مَضَاجِعِهِمْ، وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي
صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِي
قُلُوبِكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿۵۶﴾

لَا الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعِينَ، إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ

يَبْخُسُ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۵۱﴾

شیطان صرف تہندلو کینشو اعمالو کئی پچھ تراوی تہ ووژی پچھ اللہ (تعالیٰ) ہن بے شک تم معاف کوزمت۔ اللہ (تعالیٰ) پچھ یقیناً سبھاہ بخش بار (تہ) برد بار (یعنی تہ پڑ کرن وول)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا دَاعُوا إِلَى الْإِلْهِ لَئِيْهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرُبًا لَّوْكَانُوا عِنْدَ نَأْمَا مَا كَانُوا أَوْ مَا قَتَلُوا ۗ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكُمْ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۵۲﴾

اے ایماندارو! توہر مسہ بنو تمہن لوکن ہندک پامٹو ہم کافر گاہتر پچھ تہ پسنہن باین متعلق چھ دپان بینہ زن تم ملکس منز (جہاد کر غرضہ) سفرس نیلن پچھ، زہر گاہ ہم اسہ بش روز ہن تیلہ نہ سرہن تہ نہ میہن قول کرنہ پچھ اللہ (تعالیٰ) تمہن ہنز (اکتھ) تہندس دلس منز حسرتک باعث بناو۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہے (پچھ زندہ کرن تہ مارن۔ تہ یہ کینترھا توہر کران پچھو اللہ (تعالیٰ) پچھ تہ وچھان۔

وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۵۳﴾

ہر گاہ توہر اللہ (تعالیٰ) ستر و تہ منز قبل کرنہ بیو یا مسرو تہ یقیناً آسہ اللہ (تعالیٰ) ہنز بخشش تہ رحمت سبھا بہتر تمہ کھوتہ یہ تم جمع کران پچھ۔

وَلَيْنَ مُمْتًا أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُخْشَرُونَ ﴿۵۴﴾

ہر گاہ توہر مسرو یا قبل کرنہ بیو تہ توہر بیو بے شک (صرف) اللہ (تعالیٰ) ہس کئے سوتہ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۵۵﴾

اد تہ پچھ تمہ تمہ شاپہ رحمتہ کر باعثہ (کئی) یوسہ اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ (ثریہ) دنہ آہتر پچھ، تمہن کیت نرم (دل) واقعہ سپدنت۔ تہ اگر تہ بد اخلاق تہ سنگ دل آسہ کھ تہ ہم لولک تہ ہن تریہ بش (تہ گزہ ہن پھلہ چھانگر) لہذا تہ کر تمہن معاف تہ تہندہ خاطر منگ (خلایس) بخشائیش تہ حکومتہ (کین معاملن) منز آس ہمن سبتو مشورہ کران (یعنی تمہن آس مشورہ ہوان) پتہ بینلہ تہ (کتہ کتہ ہند) پونختہ ارادہ کرکھ تہ اللہ (تعالیٰ) ہس پچھ کر توکل۔ اللہ

(تعالے) چھ توکل کرن والین سستی اول ورتاوان ہرگاہ اللہ (تعالے) توہمہ مدد کرک و تہ توہمہ پیٹھ (ہیکر) نہ کاہنہ غالب (بیٹھ) - تہ اگر سہ توہمہ مدد کرن تراوتیلہ کس چھ یس توہمہ تس پتہ مدد کرک و - تہ مؤمنس پیر اللہ (تعالے) ہس پیٹھ توکل کرن -

بہ پیٹھ کانسہ نبی ہندس شانس یہ شایان ز سہ کر کر خیانت تہ یس شخص خیانت کر سہ کر پسنہ خیانتہ سستی حاصل کورمت (مال) قیامتہ دوہہ پانے نون - پتہ پیہہ پر ہتھ کاہنہ زوس (تہ) پلور پلور دہوہ یہ تھو کورمت آہہ تہ تمہ پیٹھ پیہہ نہ کاہنہ ظلم کر تہ -

کیا یس شخص اللہ (تعالے) ہندس رضا ہس پتہ چھ پکان، ہیکیا تس شخصس ہو آستہ؟ یس اللہ (تعالے) ہند طرفہ (تازل سیدن وول) غضب ہتھ واپس پھیر تہ تسد ٹھکانہ آہہ جہنم تہ سہ جائے چھیہ (روز نو کہ حساب) سٹھا ناکارہ تم (لوکھ) چھ اللہ (تعالے) ہس بش مختلف درجن پیٹھ - تہ یہ کیشرھا تم کران چھ اللہ (تعالے) چھ تہ وچھان -

اللہ (تعالے) ہن چھ مؤمنن پیٹھ یقینا احسان کورمت نیلہ تھو تمہن کن تھوے منتر اکھ رسول سوز، یس تمہن تسندرک آہہ پرتھ بوز نادان چھ تہ تمہن پک کران چھ بہ چھ تمہن کتاب تہ حکمت ہنچھنا وول، تہ تمہن آس (امر بروٹھ) بے شک نہر (وانہ) گھراہی منتر (پیٹھ) -

بہ کیا (یہ پھنا پوز؟ تہ) نیلہ (تہ) توہمہ کاہنہ بیٹھ تکلیف ووتوہیمہ دوگنہ توہمہ (پانہ) واتورمت اوسو تہ توہمہ ووتوہیمہ ز یہ کہہ پیٹھ چھ (امت) - تہ وول (تمہن) ز سہ چھ (پانہ) تہنہد پینہ طرفہ

إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنَّ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۱﴾

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَخْلُفَ، وَمَنْ يَخْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ بِئُومَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۲﴾

أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا دَهُ جَهَنَّمَ ۚ وَ يَأْسُ الْمَصِيرُ ﴿۱۶۳﴾

هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِصِيرِكُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۴﴾

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَوْفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۱۶۵﴾

أَوَلَمْ آصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مَثَلِيهَا ۚ قُلْتُمْ أَلَيْسَ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۶۶﴾

آمت - اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً پرچہ کتبہ پیٹھ
قودرت تھوں وول۔

بیہ نیمہ دو ہر دو لغے جمانز اکھ اُکس بھہ لجاہ
(تمہ دو ہر) یہ (تکلیف) توہہ وا تراو وُسہ اوس
اللہ (تعالیٰ) ہندی حکمہ سیتی (وومت) تر اہر
موکھ (وا تراو ویتھ) زسہ مؤہن نئی راوہے۔

بیہ نئی راوہے منافقن - تہ (منافقن) اوس
وتنہ آمت زر وُلو اللہ (تعالیٰ) ہنر و سہ
کرو جنگ تہ (دشمنہ سندا حملہ) زکاوو۔ (بیٹھ
پیٹھ) ہجو وون ز ہرگاہ اُسی جنگ کرن زانہ ہو
تیلہ بیہ ہو ضرور توہہ سیتی۔ تم (لاکھ) اُسی
تمہ دو ہر ایمانہ کھوتہ کھرس جاہ نزدیک تم
اُسی پسینو دلاو سیتی تہ کینترھا وناں بیہ
تہندین دن منراوس۔ تہ یہ کینترھا تم کھسان
چھ اللہ (تعالیٰ) چھ تہ سار وہے کھوتہ جاہ
زانان۔

(یک چھ تم لاکھ) میوزن پسین باین متعلق
ترتھ حالتز منرا تر پانہ اُسی تم (پتھ) بہتھ
روزیہ، ونیاو، ز ہرگاہ تم سانی کتھ مانہ ہن
تیلہ بیہ تہ قبل کرن، تر ون (تمن) زاکر
توہہ پز یاکر چھو تہ پسینہ پانہ ہتہ تاوہ
تون (وونی) موت تر لئاوتھ۔

یم لاکھ اللہ (تعالیٰ) ہنر و تہ منرا قبل کرنہ
آہتو چھ، تم مہ زانکھ مؤدر سیتی۔ تم چھ
پسینس پروردگارن ہن زانہ (تہ) تمن چھ رزق
دنہ یوان۔

تم چھ تھہ پیٹھ خوش یہ اللہ (تعالیٰ) ہن
تمن پسینہ فضلہ سیتی دیت مت چھ۔ بیہ چھ
تمن متعلق (تہ) خوش یم تمن پتہ تھ ونب
چھتہ تمن سیتی رلے ہتہ (تکیاز) تمن (تہ)

وَمَا آصَابَكُمْ يَوْمَ تَلَقَى الْجَمْعِ
فِي آذَانِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۵﴾

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ
تَعَالَوْا فَاقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ
ادْفَعُوا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا
اتَّبَعْنَاكُمْ، هُمْ لِلْكَافِرِينَ مِيذَانٌ قَرِيبٌ
مِنْهُمْ، لِلَّذِينَ آمَنُوا يُقُولُونَ يَا فَوَاهِشُهُمْ
مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿۹۶﴾

الَّذِينَ قَالُوا اِلَّا خَوَانِهِمْ وَقَعَدُوا
لَوْ اَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا، قُلْ فَاذْرُوْا
عَنْ اَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿۹۷﴾

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ اَمْواتًا، بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرِزُّوْنَ ﴿۹۸﴾

فَرِحِينَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ،
وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا
بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اِلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۹۹﴾

تہندیں مذہبی بائیں) آسہ نہ کاہنہ خوف تہ
نہ آس تم غمگین۔

تم چھہ خوش سپدان تھہ بجز نعمتہ پیٹھہ لوسہ
اللہ (تعالیٰ) بندہ طرفہ (تہن عطا) سپز مہتر چھہ
تہ (تہندس) فطلس پیٹھہ تہ تہ اتھہ کتھہ پیٹھہ تہ تہ
اللہ (تعالیٰ) چھہ مومن بندہ اجر ضایع کران۔

یو لوکو اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس رسولہ سند حکم
پانہ چھو کہہ لد گشہنہ پیٹہ (تہ) قبول کور۔ تمومنز
یو مین فرض رتی پاٹھہ تکہہ وول تہ تقویٰ پروو
تہندہ خاطر چھہ بوڈہ اجر۔

(پیم چھہ) تم (لوکہ) مین دشمنو ویاوہر لوکو چھہ
توہر خلاف (شکر) جمع کورمت اد کوز کھوڑو توہر
تہن۔ اد اُم (کلان) ہر روو بیہ مین تہ تہند
ایمان تہ تمو وون نہ سائہ خاطر چھہ اللہ (تعالیٰ)
کافی۔ تہ سہ کوتاہ رت کار ساز چھہ۔

لہذا پھیرک تم اللہ (تعالیٰ) بندہ طرفہ کہہ لوفقتنا
ورایہ بیٹہ نعمت تہ بوڈہ فضل ہتھہ واپس۔ تہ تم
پیکر اللہ (تعالیٰ) تہندس رضہ ہس پیٹہ تہ اللہ
(تعالیٰ) چھہ بوڈہ فضل کرن وول۔

یہ (کھوڑو ناون وول) چھہ صرف (اکھ) شیطان
سہ چھہ پسنین دوستن کھوڑو ناوان۔ اگر توہر
مؤمن چھو تہ مین (شیطان) مہ کھوڑو تہ
نیہ کھوڑو۔

بیہ پیم لوکہ کفرس منز وٹھہ (وٹھہ) بروہنہ
پکان چھہ تم مہ کزونی نہ تریہ غمگین۔ تم ہیکن تہ
اللہ (تعالیٰ) ہس ہرگز کاہنہ ضرر وائتاوتھہ اللہ
(تعالیٰ) چھہ بیہ تھان نہ اترتس منز تھوہ نہ تہند
باپتھہ کاہنہ حصہ۔ بیہ چھہ تہندہ خاطر بوڈہ عذاب (تعالیٰ)
یو لوکو ایمان تراوتھہ کفر پروومت چھہ تم ہیکن
تہ اللہ (تعالیٰ) ہس کاہنہ ضرر وائتاوتھہ تہ تم

بِسْمِشْرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَ
فَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرَّسُولِ
مِنْ بَحْدٍ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ فَالَّذِينَ
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۷﴾

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا كُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿۱۷﴾

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ لَمْ
يَمَسَّسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ
اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿۱۷﴾

إِنَّمَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ يَخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾

وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي
الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يُضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا
يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي
الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۷﴾

إِنَّ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ
لَن يُضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَ لَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۷﴾

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا
نُمَلِّئُهُمْ خَيْرٌ لَّا نَفْسُهُمْ إِنَّمَا نُمَلِّئُ
لَهُمْ لِيُزِدُوا إِثْمًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ﴿۳۸﴾

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذَرَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا
أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَاتِ مِنَ
الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطِيعَكُمْ عَلَى
الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِي بِمَنْ يُرْسِلِهِ
مَنْ يَشَاءُ ۚ مَنْ قَامُوا بِإِلَهِهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن
تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۳۹﴾

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا
أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا
بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَاللَّهُ مِيرَاثُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴿۴۰﴾

۱۸
۹

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
اللَّهَ فَقِيرٌ وَرَدَّ نَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۚ وَسَكَتَ ۚ
مَا قَالُوا وَ قَتَلَهُمُ الْكَافِرِينَ بِغَيْرِ
حَقٍّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۴۱﴾

كَيْتِ آسِه كَرُوِيْطِه عَذَابِ .

بہ یہ ہم لوگھ کافر چھ ہم مہ زانن نہ سون تم دیکھ
تراون چھ تہندین زون ہند خاطر جان۔ اسی
یس دیکھ تم تراون چھ۔ تمیک نتیجہ آسہ
صرف (تہند) گوناہن منتر جاو ولہن یں تہ
تہند خاطر چھ رواکن وول عذاب (مقدر)۔

(یہ) اوس نہ ممکن (ہے) نہ یہ سہ ساس پیٹھ
توہی (لوگھ) چھو اللہ (تعالیٰ) تراوہے (توہی
ہوین) موبن تھو پیٹھ۔ یوتانی سہ (اللہ تعالیٰ)
ناپاکن پاکو لستہ بیون کڈتھ دیہ ہے تہ۔ اللہ
(تعالیٰ) بیکہ ہے تہ توہی غایس پیٹھ آگاہ کڈتھ۔
وہ ڈگوو اللہ (تعالیٰ) چھ تراون پینو رسولون
یس پترھان چھ او کو اوتوہی ایمان اللہ
(تعالیٰ) ہس تہ تہندین رولون پیٹھ۔ تہ اترتوہی
ایمان اوتو تہ تقویٰ پراوو توہی میلہ و یوز اچھ۔

بہ یہ ہم لوگھ تھہ (یعنی مالہ کس دس) منتر یس
اللہ (تعالیٰ) ہن تم پینہ فضلہ سستی دیمت
چھ، بخل کران چھ۔ ہم مہ زانن ہرگز (یہ) پینہ
خاطر جان بلکہ چھ یہ تہ تم کیت ناکارہ۔ بین
مالن منتر ہم بون نخل کران چھ، قیامتر دوہ پیہ
یقیناً تم ہنتر بناوتہ (تہ پیہ تہندین ہن منتر
تراونہ) تہ آسان ہند تہ زمین ہند میراث چھ اللہ
(تعالیٰ) ہند خاطر ہے تہ یہ کینترھا، توہی کران چھو
اللہ (تعالیٰ) چھ تمہ لستہ باخبر۔

یہو لوگو (یہ) وومننت چھ نہ اللہ (تعالیٰ) تہ ہے
چھ محتاج تہ اسی چھ آسن اول۔ اللہ (تعالیٰ)
ہن چھ تہنتر (یہ) کہتہ وار پاٹھ یوز مہتر۔ اسی
تھوہو تم ہنتر یہ کہتہ بہ تہند ناحقہ نبی قول
کرنس پتہ روزن لے شک لیکھا تہ اسی وونون
دزنگ عذاب تہ شو۔

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيِدِيكُمْ وَ أَنْ اللَّهَ
لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿۳۸﴾

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عِندَنَا آلَاءٌ
نُؤْمِنُ بِرِسْوَائِهِ حَتَّىٰ يَأْتِيََنَا بِقُرْآنٍ
تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن
قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ
تَقْتُلُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۹﴾

فَإِنْ كَذَّبْتُمْ فَسَقَدْتُمْ كَذَّبْتُمْ رَسُولٌ مِّن
قَبْلِكُمْ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَ الزُّبُرِ
الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۴۰﴾
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، وَ إِنَّمَا
تُؤْفُونَ أَجْوَادَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،
فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ
فَقَدْ فَازَ ، وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ
الْغُرُورِ ﴿۴۱﴾

لَتُحْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ
لَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن
قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا آذَى
كَثِيرًا ، وَإِنْ تَضَيَّرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ
مِن عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۴۲﴾

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ

یہ (عذاب) آسہ تمہ کہ سبب یہ (کثیرشہا) تہمت دلو
اتھو بروٹھ کن سوزمت چھ تہ حق چھ یہ نہ
اللہ (تعالیٰ) پھنہ بندن پیٹھ ظلم کران ۔

یہ لوگو وو منت چھ نہ اللہ (تعالیٰ) ہن چھ اسہ
یقینا سنا کہدی حکم و سیت نہ اسی مانو نہ (تھ و قس
نام) کانہ رسولہ ستر کتھ یوتانی نہ سہ ترشہ
قریبانی (ہند حکم) انہ سیتھ نار کھوان لہ آسہ ۔ تہ
ون (جن) نہ کہو یا رسولو چھ توہہ نش میہ بروٹھ
ٹاکار نشانہ اڈی ہو ۔ بیہ سہ (پچیر) تہ یس توہر
بیان کران چھو ۔ اڈی توہر پڑیا کر چھو تہ تم قہل
کرنس کیا نہ لجاو پستہ ؟

پستہ اگر تم تہہ اپزانو اڈی (توتہ کیاہ گوہ) تہہ
بروٹھ تہ چھ کہو یا رسول اپزانو آہو کیو ٹاکار
نشانہ تہ ہایت نامہ ، بیہ پر نہ لونہ شہ پشتر انیہ
پر سیتھ کانہ نہو چھ مونک مسز ترش وول تہ
توہہ بیو صرف قیامتہ دوہہ تہندی (یعنی تہندی
اعمالن ہندی) پورہ بلہ دہہ ۔ اڈی یس نارہ نشہ
دور تھونہ بیہ تہ جنس مغز داخل کرنہ بیہ سہ
سید کامیاب تہ دنیاوی زندگی (ہند سامانہ) چھ
صرف فریب دہہ وول عارضی سامانہ

توہی بیو تہندی مالو تہ زوو کئی ضرور آزوادہ
بیہ بوزو توہی ضرور تمہن لوکن نش میں توہہ بروٹھ
کتاب دہہ آہتر اس ، بیہ تمہن نش (تہ) ہم
مشرک چھ سبھا اذیت (دہہ واجنہ کتھ)
تہ اگر توہی صبر کرو تہ تقویٰ پراوو ، تیلہ چھہ
یہ یقینا ہمتہ چھو کامہو مشرک ۔

بیہ (کرو سہ وقت یاد) تیلہ اللہ (تعالیٰ) ہن

لہ مراد چھ سوختنی قومہابی ۔ یمیک رواج ہندیں ، یہودیوں تہ ایڈی جو سن مشراوس
تم اسی قومہابی کر تھہ نارس مشرزلان ۔

أَذْتُوا الْكُتُبَ لَتَبَيِّنَنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوهُ فَتَبْذُوهٗ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۳۸﴾

تَمَنُّ لَوْ كُنْ يَمِينِ كِتَابٍ دِنْرَ آمَنْرٍ حَبِيْبِيْ . عَمْدٌ مَّبْتَرُو
نَرِ تَوْبِيْ كُرْبُوْلِيْنَ يِي (كِتَاب) صُرُوْر لَوْ كُنْ نَشْ نَشْرُ
تِي يِي تَهْمَاوَلُوْلُنْ نِيْ كَهْمَا تَهْ زَانِهِيْ . مَكْرَتِيْ بَاوَبُوْدٍ دِيْر
تَمُوْسُوْ سِيْنِيْ تَهْتَرُ يِيْتَهْ كُنْ دَارَتَهْ تِيْ سُوْءِ تَرَاوَتَهْ
رُوْمَكُهْ كَم (كَيْتَرَهَا) مَوْلِيْ . يِي كَيْتَرَهَا تَم رِيْمَان
يِيْتَهْ سُوْءِ كَوْتَاهِ نَاكَارٍ يِيْتَهْ .

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاوَا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْمَدَ ذَا اِمَالَمَ يَفْعَلُوْا فَا لَا تَحْسَبَنَّهْمُ بِمَفَازَةِ مَنَ الْعَذَابِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۳۹﴾

تِيْ مِهْ زَانِهِيْ تَم لُوْمَكُهْ يِكْلُ عَذَابِيْ نَشْ . يِيْتَهْ يِيْم
يِيْنَسِ كُرْكُ تَمَسِ يِيْتَهْ فَيُحْرِكِرَانِ يِيْتَهْ تِيْ يِيْسِ كَارِ
نِيْ تَمُوْ كُوْرُ تَهْتَهْ يِيْتَهْ (تِيْ) يِيْتَهْ يِيْتَهْ شِهَانِ زِيْ تَهْتَرُ
تَعْرِيفِ كَرِيْمِيْنِ كَرِيْمِيْ . (تَم يِيْنِ صُرُوْر رِيْسِيْ)
تِيْ تَهْتَرُ بَا يِيْتَهْ يِيْتَهْ كَرُوْمِيْ عَذَابِ (مَقْدَرِ) .

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۴۰﴾

بِيْءِ اَسْمَانِ تِيْ زَمِيْنِيْ مَبْتَرِ حَكُوْمَتِ يِيْتَهْ اَللّٰهُ (تَعَالٰ)
سَبْرِيْ تِيْ اَللّٰهُ (تَعَالٰ) يِيْتَهْ بَرِيْتَهْ كَهْتَهْ يِيْتَهْ پَلُوْرُ
يَا يِيْتَهْ قَادِرِ .

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اَلْيَلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّاُولِيْ اَلْاَلْبَابِ ﴿۴۱﴾

اَسْمَانِ تِيْ زَمِيْنِيْ مَبْتَرِسِ يَادِ كَرِيْمِ ، تِيْ رَاكِهْ تِيْ دُوْه
يِيْتَهْ بَرُوْمِيْ يِيْنَسِ مَبْتَرِ يِيْتَهْ عَقْلِيْ وَالِيْنِ مَبْتَرِ بَا يِيْتَهْ
يِيْرُ يَا يِيْتَهْ كَهْمُ يَا اَبْشَانِيْ (مُوْبُوْدِ) .

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَّ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۗ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۴۲﴾

رَمِ عَقْلِيْ وَاَلِيْ) يِيْمِ وُوْدِيْ تِيْ مَبْتَهْ ، تِيْ يِيْنِيْنِ
لَرِنِ يِيْتَهْ رُوْزَتَهْ تِيْ اَللّٰهُ (تَعَالٰ) مَسِ يَادِ كَرِنِ
(رُوْزَانِ) يِيْتَهْ . بِيْءِ اَسْمَانِ تِيْ زَمِيْنِيْ مَبْتَرِسِ
يَادِ كَرِنِ مَبْتَرِ يِيْتَهْ سُوْحِيْنِسِ كَامِ مَبْرُوَانِ .
(بِيْءِ يِيْتَهْ وِنَانِ زِيْ) اِيْءِ سَابِيْ پَرُوْرُ دِكَا رِيْ ! تَرِيْءِ
كُوْرِيْتَهْ نِيْ يِيْءِ (عَالِمِ) بِيْءِ قَائِيْمِ يَادِ تَرِيْءِ يِيْتَهْ
(يِيْتَهْ بِيْءِ مَقْصِدِ كَامِ كَرِيْمِ نَشِيْءِ) يَا كِ . لَهْتَرِ
بِيْءِ اَسْمَانِ تَرِيْءِ نَا كَرِيْءِ عَذَابِيْ نَشِيْءِ (بِيْءِ بِيْءِ اَوْنِ سَانِيْ
زَنْدِيْءِ) بِيْءِ مَقْصِدِ بَسْمِ نَشِيْءِ .

رَبَّنَا اِنَّكَ مَن تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْرَجْتَهٗ ، وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِّنْ اَنْصَارٍ ﴿۴۳﴾

اِيْءِ سَابِيْ پَرُوْرُ دِكَا رِيْ ! يِيْسِ تَرِيْءِ نَارِ اِنْدَرِ تَرَاوِيْنِ سُوْءِ
كُوْرَتَهْنِ تَرِيْءِ يِيْعِيْنَا ذِيْلِ تِيْءِ طَالِمِنِ مَبْتَرِ اَسْمَانِ
نِيْءِ كَانِهِيْ تِيْءِ مَدِدِ كَارِ .

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي

اِيْءِ سَابِيْ پَرُوْرُ دِكَا رِيْ ! اَسْمَانِ يِيْتَهْ لُوْزَمَتِ بِيْءِ شَكِ

لِيَلِدِيْمَا نَآءَ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاَمَّا كَآءَ
رَبَّنَا فَاَعُوْزُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَا اَلْاٰمِنُوْنَ ﴿۱۷﴾

تَبَيَّنَّ نَادٍ دِيْنَهُ وَاَلِيْسَ اَلُوْا اِيْمَانَ (دِسْ)
تَحَاطِرُ نَادٍ دَوْلَانِ چھ (تہ و نمان چھ) زِرِ سِنَس
پَرُوْر دِگَارِ اَلُوْا اِيْمَانَ۔ لہذا اسرہ اُوْلَانِ اِيْمَانَ۔ اُو
کُوْن، اے سائہ پرور دِگَارِ! تِر کر سَاغِي قَطُوْر
مَعَا ف تہ سائہ بُدِہ بیکھ اسرہ نَش و تھرا و تھ
تہ اسرہ دِ نِيکِن سَتِي (رُلُو تھ) و قَات۔

(بیس) اے سائہ پرور دِگَارِ! اسرہ دِ تہ (کئی تھ)
بِيْمِيْکِ تَرِيْہِ پِنْسِنِ رَسُوْلِنِ (ہنرِ زَبَانِي) اسرہ سَتِي
و عہد کُوْرَتِ چھتھ۔ تہ قِيَا مُتْر دہ ہر کُرکِ زہ نہ
اسرہ دِلِہ۔ تہ چھکھ نہ زانہہ پِنْسِنِ و عَدَسِ خِلَاف
کولن۔

چنانچہ، تہ ہنرِکِ پَرُوْر دِگَارِ اَلُوْا تہ ہنرِ (دعا، یہ
و نمان) زہ یہ کہ نہ تو ہر مشر سائہ عمل کرن و اَلُو
ہنرِ عمل ضایع اُو (سہ) مِرِدُ اَسْرَتِنِ يٰ
زَنَان۔ تو ہی بھو اکھ اُکِسِ سَتِي (تعلق تھون
و اَلُو)۔ لہذا بیکو ہجرت کر تہ تم آہ تہ ہنرِ ہو
گرو اندر کر تہ تہ میانہ و تہ مشر آو تہ من کلِف
دِہ تہ تہو کُوْر جِہگ تہ آہ قہل کر تہ۔ یہ ہر مَنَاو
لِیَقِيْنَا تہ ہنرِ بَدِيْہِ (یعنی تہ من بَدِيْنِ مَنَدِ اَشْرِ)
تہ من ہنرِ تہ یہ کہ تہ تہ بے شک تہ تہ من بَا عِن
مَنْرِ دَا عِن لِیَمِنِ مَنْرِ نَہِرِ لِکَانَ اَسْن۔ اللہ
(تعالیٰ) ہنرِ طَرَفِ مِیلِہ تہ من (یہ انعام) بدلہ
کیتہ۔ اللہ (تعالیٰ) تہ چھ سہ سِیْمِسِ بِنَش
ہر تہ کھوتہ رَتِ جِزَا چھ۔

ہم لو کہ کافر چھ تہ ہنرِ مَنکَسِ مَنْرِ ہنرِ پھروک
چھیرنِ بیتھنہ تریہ دو کھس مشر تراوی۔

یہ چھ عارضی نفع سببہ پتہ تہ ہنرِ ٹھکانہ جہنم
آہ تہ سہ چھ سببہ ہے بیکھ ٹھکانہ
وہ فی گوو کیو لوکو پِنْسِنِ پَرُوْر دِگَارِ سُنْدِ تَقْوِي

رَبَّنَا وَ اٰمِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَ
لَا تُخِزْنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اِنَّكَ لَا
تُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿۱۸﴾

فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّيْ لَا اُضِيْعُ
عَمَلَكُمْ عَا مِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَاَلَّذِيْنَ هَا جَرُوْا
وَ اُخْرِجُوْا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَ اُذُوْا فِيْ
سَبِيْلِيْنَ وَ قَتَلُوْا اَوْ قَتِلُوْا اَلَا كَفَرْنَ عَنْهُمْ
سَوَآءِيْهِمْ وَ اَلَا ذُخْلَتْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۚ تُوَابًا مِّنْ عِنْدِ
اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ ﴿۱۹﴾

لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي
الْبِلَادِ ﴿۲۰﴾

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۚ ثُمَّ مَا وَاوَهُمْ جَهَنَّمُ وَ
يُسْسِ الْاِيْمَانُ ﴿۲۱﴾
لِيَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ


پر وومت چھ تہندہ خاطر چھ تھو باغ یمو
منزری نہر پکان چھیہ - ہم روزن تمن اندر
ہمیشہ - اللہ (تعالیٰ) ہندہ طرفہ آسہ یہ
پڑھی لوزی ہند رنگہ ، تہ یہ کینشہا) اللہ
(تعالیٰ) ہس لیش چھ تہ چھ نیک لوکن ہندہ
خاطر بیہ تہ رتے ۔

تہ اہل کتابو اندر چھ کینشہ لوکھ لے شک تھو
(تہ) یم اللہ (تعالیٰ) ہس (پہچھ) بیہ
یہ کینشہا) تہ ہر پہچھ تازل کرہ امت چھ تھہ
پہچھ) بیہ یہ کینشہا تمن پہچھ تازل کرہ آیاو
(تھہ پہچھ تہ) ایمان تھوان چھ ، تہ سستی چھ
اللہ (تعالیٰ) ہس برو تھہ کتہ عا جزی پراون
واکی - تہ اللہ (تعالیٰ) ہندین آین بدل
چھنہ کم معول رمان - یم چھ تھو لوکھ مکن ہندہ
بدلہ تہندس پروردگار لیش تہندہ باچھہ (رڑھتھہ)
چھہ - اللہ (تعالیٰ) چھہ جلد حساب کرن وول۔
اے ایماندارو! صبرس ہنیو کام تہ (دُشمنہ ہندہ
کھوتہ جاد) صبر کروو تہ سرحدن ہنہر بگمانی کرو
بیہ پراوو اللہ (تعالیٰ) سُد تقویٰ بیٹھ
زن توہی کامیاب سپرو ۔

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا نُنزَلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَا
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لَّا بَرَارٍ ۝۱۱۱

وَاتَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ؕ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۱۱۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اضْبِرُّوا وَ
صَابِرُوا وَ رَاطِبُوا ؕ وَ اتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝۱۱۳



سورة نساء، یہ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ پہچھ چھ اٹھ کھ تھہ تہ سنتھہ آسہ بیہ چھس رڑوہ کروا

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سُد ناو ہتھہ (پران) ایس
حدہ روس کرم کرن وول (تہ) چھہری چھہری رحم کرن
وول چھہ ۔

اے لوکو! پسنس پروردگار سُد تقویٰ پراوو۔ نیگر
توہی اکی جانہ اندر یاد کر کرو۔ تہ (صرف) تمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

رَوَّجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا
وَرِيسَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا ۝

(کہ جنسہ) نسبتہ کوڑن تہندہ جوڑ پاد۔ تہ پتہ پتہ
دھنویوہ نشہ واریاہ مسرد تہ زنانہ (دنیہ ہس مشر
پانہ کڑتھ) تیلر اولن۔ بیہ پراوو اللہ (تعالے)
سند تقویٰ (اوکئی تہ) نہ تہندہ ڈسی چھو توہی
پانہ وانی سوال کران تہ خاص کڑتھ اُشناوی (ہین
معاملن) مشر (ہینو تقویٰ ہس کام) اللہ (تعالے)
چھہ توہہ پٹھہ بے شک بکران۔

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
الْبُيُوتَ بِالطَّبِيبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

بیہ دیو یتیم تہندہ مال تہ پاک (مال) کہ
بدلہ مسر رلو ناپاک (مال) تہ تہندہ مال مہکھیو
پنٹن مان سدی (رلاوتھ) پہ چھہ یقینا بوہ
گوناہ۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَوَلَّتْ وَرَبِّ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَحْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

بیہ اگر توہہ (پہ) خوف آسہ و نہ توہی ہیکو نہ
یتیم (ہندس حقس) مشر انصاف کڑتھ تہ یوہ سہ
(صورت) توہہ پسند بیو (کرو، یعنی غارتیم)
زنانو مشر کرو دوان دوان (سیدی) تہ ترہن
ترین (سیدی) تہ ترون ترہن سیدی نکاح۔ وونی
گووہ اگر توہہ (پہ) خوف آسہ و نہ توہی ہیکو
نہ عدل کڑتھ، تیلہ کرو اگر سہ (زنانہ) سیدی
یا بتمن (کنہرن) سیدی ہم تہندہ اتھس مشر چھیہ
نکاح۔ (یہ طریقہ چھہ اتھ کتھ) سہیہ نزدیک
نہ توہی بیو نہ ظالم۔

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ
طِبَّنَ لَكُمْ مَعْنَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَانكحُوهُ
هُنَّ بَيِّنَاتٌ لِّكُمْ ۝

بیہ کرو زنانہ تہندہ مہر خوش دلی سان ادا پتہ
اگر تم پسندہ دلچہ خوشی سیدی تہ مشر کینترھا
توہہ دلو، تہ یہ زنانہ نہ تہ چھہ تہندہ مسر تہ
انجامہ کہ لحاظ نہت، تہ کھیو توہی بلا شک۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

تہ نافرہن مسر آسو دوان پتہ مال ہم اللہ (تعالے)
ہن تہندہ باپتھ آسر بناوہ ہتی چھہ (دوان گوو)
تمو مشر اسیلوکہ ہم کھیواں چواوان بیہ (اسیلوکہ)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَحْسِينًا ﴿٥٠﴾

پوشاک لاگان تہ بجا سز (تہ برہر) کتھہ آسوکھونان
 بیہ روزو یتیمین ہنر آزمایش کران توت تام یوت
 تام ہم خاندس (الایق واتسہ) واتن پتہ اگر
 توہی ہمیں اندر فہمیدگی (ہندر آثار) موہیو
 تہ تہندر مال دیو ہمیں واپس، تہ تہندر
 ہوان سپنہ (کرخوف) سستی مہ کھینو ہم (مال)
 نا بجا یز پانھی تہ ولی (ولی) تہ یس کاہنہ
 مالدار آسہ تس پز (یہ مال ورتا تہ ہنہ) دورے
 روزن۔ ووز گوویس لاجار آسہ سہ کھینا
 مالہ منہر) متاسب رنگس منہر۔ پتہ ییلہ توہر ہمیں
 تہندر مال واپس کرو تہ ہمیں (یتیمین) روہرو
 کرو گواہ مقرر تہ حساب ہنس کیت چھہ اللہ
 (تعالیٰ، کئے، کافی)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥١﴾

بیہ چھ مردان ہند (تہ) تہ زنان ہند تہ اکھ صہہ
 مقرر۔ تہہ (مالس) منہر یس تہندر مول موج
 تہ نزدیک آشناو پتہ کن تراوتہ گزہن۔ اہ تہ
 (تہرہ) منہر ہم آسہ نکومت یا جاہ۔ (یہ) چھہ
 اکھ گزہتہ صہہ یس (خدا تعالیٰ ہند طرفہ) مقرر
 کرہ امت چھہ۔

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْضُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٢﴾

بیہ ییلہ (تہرہ) باگراو تہرہ وقتہ (بہیکینہ)
 آشناو تہ یتیم تہ مسکین (تہ) یس تہ امہ منہر دیو
 ہمیں (تہ) تہ ہمیں ولو بجا یز (تہ برہر) کتھہ۔

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كُفْرًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضُعْفًا فَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُنْتَفِعُونَ ﴿٥٣﴾

بیہ ہم لوکھ کھوژان آسن نہ اگر ہم پانس پتہ کن
 کمزور اولاد تراوتہ گئے تہ ہمیں کیا بہنہ؟ ہمیں پز
 (ہمیں یتیمین متعلق تہ) اللہ (تعالیٰ) سہندر
 نوحس کام، مینو۔ بیہ پز نہ ہم وٹن صاف تہ سیز کتھہ۔

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿٥٤﴾

ہم لوکھ ظلمہ سستی یتیمین ہند مال کھوان چھہ ہم
 چھہ یقیناً ہمیں سڑن منہر چھراہ نار بران تہ
 ہم سہندر بے شک رہنہ تہ صہو یس ندر منہر۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْيِي
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِن كَانَ لَهُ وَكَدَّ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ
وَكَدَةٌ وَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّن
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥١﴾

اللہ (تعالیٰ) چھ تہندین اولاد ہند حقہ توہم
حکم دون (زیرکس) مردہ مند (حصہ) چھ دون
زنان ہند حصس برابر، تہ اگر اولاد (پھراہ)
زنانہ آسن تہ وہ یو جاہ آسن تہ تہندہ خاطر
(تہ) چھ (تمہ بجایداک) یہ تمہی (مرن وائی)
چھ کمن تر وومت آسہ، ترتیبہ منتر نہ حصہ (تہ)
مقرر تہ اگر (صرف) اکھ (زنان) آسہ تہ تہندہ
خاطر چھ (تروکک) نصف تہ اگر تس (مرن
وایس) اولاد آسن، تہ تہندس مایس ماجہ
ہند باچھ (تہ زن گوو) تمو اندر پرتھہ اکھ
سند باچھ چھ تمہ ہند ترکہ منتر شمیم حصہ
(مقرر) تہ اگر تس اولاد آسن تہ تہ تہند وایت
آسہ (صرف) تمہ سند مول موج تہ تہند ماجہ
چھ ترتیبہ حصہ (مقرر) - وہ فی گوو اگر تس
بائی (بینہ موجود) آسن تیلہ چھ تہند ماجہ کیت
شیم حصہ (مقرر - یک ساری حصہ سیک ادا)
تہند وصیت تہ (تہند) قرضہ (نکھ والنہ) پتہ
توہر چھو تہ زنانہ ز تہندین مایس (بیرک بین)
تہ تہندین بیچون منتر کمن چھ تہندہ باچھ جاہ
نفع واتنوں وول - اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ
چھ (یہ) فرض مقرر کرنہ آمت - اللہ (تعالیٰ)
چھ یقینا سبھا زنان وول (تہ) حکمتہ وول -
سہ یہ کیشرھا تہندہ آسہ تراوتھہ گردھن اگر بہمن
اولاد آسن تہ تہ بہمن ہند (تروک) منتر چھ نصف
(حصہ) تہند - تہ اگر تہندہ اولاد (موجود) آسن
تیلہ یہ کیشرھا تمو تر وومت آسہ تمیک چھ تروہم
(حصہ) تہند - (یک حصہ آسن) وصیت تہ تہندہ
قرضہ (نکھ والنہ) پتہ (چھ کمن بیکہ ہمتہ مالہ
منتر) - تہ اگر توہر اولاد آسنو تہ تہ یہ کیشرھا
توہر چھ کمن تراوتھہ گرشو تمہ منتر چھ تروہم

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن
لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَكَدَّ ۚ فَإِن كَانَ لهنَّ وَكَدٌ
فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکُن مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِيَن بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَاللَّهُنَّ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُم إِن لَّمْ يَكُن لَّکُم
وَكَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَکُم وَكَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ

يُؤَدَّتْ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَئِن لَّمْ يَكُن لِّكَ إِخْوَةٌ فَأَتَىٰ غَيْبَتِي مِنْ فَتْرَةٍ قُلْ إِنَّ أُخْتِئْتُ مِنْ فَتْرَةٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَ آبَاؤُنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَبِّنَا قَالُوا لَوْلَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ يُحَافِظَانِ صَبْرًا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ لَكُمْ آيَاتٌ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٥﴾

(حصہ) بہن (آئینہ) ہند۔ تہ اگر تو بہ اولاد آسنو تہ یہ کیشہا تو ہی چھ کن تراوتھ گڑھو تمہ منڑ چھ اُٹھم (حصہ) تہند۔ (یکم حصہ) آسن (وصیت تہ) تہند (قرضہ) نکھہ والنہ) پتہ۔ بیہ نیئیس مردہ ہنڑ یا زنا نہ ہنڑ وراثت باگراوہ یوان چھہ اگر تس نہ آسہ مول تہ نہ اولاد مگر تس آسہ کانہہ بوسہ یا بیئہ تہ ہمو اندر چھہ پر ہتھ کانہہ ہند شینیم (حصہ) تہ والا تم جاوہ آسن تیلہ سپن تم (سدری) تر نیئیس (حصہ) منڑ شریک۔ (یکم حصہ سپن) وصیت تہ (من) والی سند (قرضہ) نکھہ والنہ) پتہ (بچے متہ مالہ مطابق)۔ کانہہ گڑھہ نہ (اتھہ باگرس منڑ ضرر و آناون مقصد آسن۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ چھہ یہ محکم (تو بہہ دہو یوان)۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ یوہ زان وول تہ برد بار۔

یکم چھہ اللہ (تعالیٰ) ہند (مقرر کرکے متہ) حد تہ یکم لوکھ اللہ (تعالیٰ) تہ تہند کس رسولہ ہنڑ اطاعت کرن، بہن کر سہ بہن باغین منڑ داغیل، بہن منڑ نہہر لیکان آسن تہ تم روزن ہمیشہ بہن اندر تہ بیہے چھہ بڑ کامیابی۔ تہ نیئیس (شخص) اللہ (تعالیٰ) تہ تہند کس رسولہ ہنڑ نافرمانی کر، بیہ نیئیس تہند لو (گنڈ تھہ تہاوکہ متہو) (حد و نیئیس کس کر سہ نازک منڑ داغیل ہتھ اندر سہ اُکس ز چھس ملتس تام روزن گڑھہ تہ تہند خا طہر چھہ رسوا کرن وول عذاب (مقدر)۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِغِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٦﴾

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا لَا يُبَدَّلُ مِنْهَا ذَلِكَ أَجْرُ الْمُتَّقِينَ ﴿١٠٧﴾

لہ "خلود" لفظ چھہ جنس تہ جہنم رسولہ کریم کیو۔ بیو مقادمتہ چھہ ثابت نہ جنت روزہ ہمیشہ تہ جہنم چھہ غرضی۔ امیک عذاب گڑھہ کہ دہ بہہ ختم۔ اور کئی چھہ ہتھ جاییہ "ز چھس ملتس تام" ترجمہ کرنہ امت۔

وَالَّذِينَ بَاتَيْنَ اللَّيْلَ حَاشِدَةً مِّنْ نِّسَائِهِمْ
فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَدْبَعًا مِّنْكُمْ
فَإِنَّ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ
حَتَّىٰ يَتَوَقَّعُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ لَّهُنَّ
لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

بہ تہمترو زنا تو منبر بیکہ کنہ بیچھ کارس لہ
نزدیک گرتھن تمن متعلق منبر بیکہ کنہ بیچھ
پسینو (اشا و تہ ہسایو) منبر زور گواہ۔ اد اگر
تم (زور گواہ) شہادت دن تہ توہر تھو یو کہ
تم (پسین) گرن اندر توت تا کہ تہ تم نہ
موت یا کر اللہ (تعالیٰ) تہند تھطر کا نہہ
(بیچھ) وتھ۔

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا
فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٨﴾

بہ توہر منبر بیک نہ مرد بیچھ کارس نزدیک گرتھن
تہ توہر دیو تمن اذا! پتہ اگر تم دو نوے توبہ
مرن تہ اصلاح کرن۔ تیلہ کر یو کہ چشم پوشی
اللہ (تعالیٰ) پتہ یقیناً سببہ ہے توبہ قبول کرن
وول تہ، پھیر پھیر رحم کرن وول۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الشُّرُوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ
مِّن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾

اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ چھ صرف تمن لوکن
ہند تھطر توبہ (قبول کرن واجب) ہم جہالتہ
سستی کنہ ہدی ہند کریم دار سپن تہ پتہ کرن
تم ولی ولی توبہ۔ تہ ہم لو کہ چھ تھو ہم
پیٹھ اللہ (تعالیٰ) مہربانی کران چھ تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ سببہ زان وول تہ، حکمتہ وول۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ وَالَّذِينَ
يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا ۗ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا
لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٠﴾

بہ توبہ (کہ قبول سپنک حق) چھ تمن لوکن
ہند تھطر ہم بدیہ کران گرتھان چھ یوتانی نہ
تیلہ تمو اندر کا نہہ موت (ساعت) نزدیک
پوان چھ تہ سہ چھ ونان مینہ کور بے شک ووفی
توبہ، تہ نہ چھ تمن لوکن ہند تھطر (توبہ قبول
سپنک حق) ہم کفر چھ حائر منبرے مران چھ
ہم لو کہ چھ تھو نہ ہم ہند تھطر چھ اس کر لو کہ
عذاب تیار کوڑت۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِدْ لَكُمْ

اسے ایماندارو! تہند تھطر چھ (یہ) بجای نہ

تَرْتَوُوا الْيَسَاءَ كَرَاهًا، وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَأْ حَشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ، وَ
عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ⑤

تو ہر نبوی زبردستی سان زنان ہند کر وارث تہ تو ہر
مہ کر لو لکھ تم امر غرضہ تنگ از یہ (کتبہ شہا) تو ہر
تجن دیتت چھو تمہ منتر نیو لکھ کینہ (مہبتہ الیس)
پتھ روڈ ہر گاہ تم کینہ نینہ (وانہ) بدیہ ہنر ہرم
دار آسن (تہ تمہ خاطر چھ حکم پیہہ کینہ امت)
بیہ کرو تجن سیدی رت سلوک، تہ ہر گاہ تو ہر
تم ناپسند کر لو لکھ تہ (یاد تھو و ز) بیکل ممکن
چھ (بیہ) نہ تو ہر کرو لکھ چیز ناپسند تہ اللہ
(تعالیٰ) کر تھہ منتر سپہا (پہن) بہتہری
(ہند سامانہ) پاؤ۔

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ
زَوْجٍ، وَآتَيْنَتْكُمْ مِنْهُنَّ قَنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذْ وَامْنَهُ شَيْئًا، اتَّأَخُّذُ وَنَهْ
بُهْتَانًا وَرِثْمًا مُبِينًا ⑥

بیہ اگر تو ہر (اگس) آستہ ہنر بجایہ (بلاک) آستہ
بدلاؤنی سترھو تہ تو ہر چھو تمہ منتر اگس،
(مالک) لکھ انبار تہ دیت مت تہ (توتہ) مہ
ہنیوس تمہ (مالہ) منتر کہنی (تہ واپس)۔ کیا
تو ہر نیواس (سہ مال) تو ہمت لاگتھ تہ منہ
(وانہ) گو ناہر ڈر لیبہ ؟

وَكَيْفَ تَأْخُذُ وَنَهْ وَ قَدْ أَقْضَى
بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ أَخَذَ مِنْكُمْ
مِثْنًا قَاغْلِيظًا ⑥

بیہ کتھہ پاٹھی ہنیو تو ہر (سہ مال) نتھ ؟ سیدہ
زن تو ہر پاؤ وانی لکھ اگس بش گمٹی چھو تہ
تمہ (آستہ) چھو تو ہر لکھ پایدار عہد ہوتہمتہ
بیہ تمہ زنا تو منتریم تمہند لو مالو بڑی بنو نکاح
منتر از منتر آسن، پینہ کانسہ سیدی نکاح کرو۔
ووڈی گوو بیہ (بروٹھ) گوو (تہ گوو) بیہ (فعل)
اوس یقینا چھہ تہ طیش دہ وول بیہ اوس بیہ
سپہا بدرسم۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ⑦

تو ہر پیہہ چھہ حرام کردہ آستہ تمہنر ماجرہ تہ تمہنر
کوہ تہ تمہنر بینہ تہ تمہنر پوچھہ، تہ تمہنر
ماسہ، تہ تمہنر باؤہ، تہ تمہنر پینہ تہ تمہنر
(دوہ) ماجرہ یو تو ہر دوہ دیتت آسہ و تہ
تمہنر دوہ بینہ تہ تمہنر ہشہ تہ تمہنر تمہ
ووہ کوہ یم تمہنر تن آستہن ہنر آسن یکن

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَ بَنَاتِكُمْ
وَ أَخَوَاتِكُمْ وَ عَمَّاتِكُمْ وَ خَالَاتِكُمْ وَ بَنَاتِ
الْأَخِي وَ بَنَاتِ الْأَخِي وَ أُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْتُمْ وَ أَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ
وَ أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ وَ رَبَّائِبِكُمُ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمْ الَّتِي

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَنْ لَمْ يَكُوْنُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَلَا حَلَائِلُ
أَبْنَاؤُكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ، وَ أَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ.
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٧﴾

سیدی توہہ خلوت کوڑت چھو۔ تہہ تم آسن
تہندین گرن اندر چھپہ بوان، مگر ہر گاہ توہہ
بتمن (آشنین) سیدی خلوت کوڑت آسہ و
نہ تہہ تیلہ چھپہ (تہندین کورین سیدی
نکاح کرس منز) توہہ کائہہ گوناہ۔ بیہ
(یہ تھہ کئی) تہندین بتمن تیچوہن ہنر
آشنہ، ہم تہندہ پشتر آسن (چھپہ
توہہ پیٹھ حرام) بیہ بیہ (تہہ) ز توہہ کر لوکھ
زہہ بینہ (پینس نکاح منز آنہ) یکجا
ووز گوو بیہ بروٹھہ گوو (تہہ تہہ گوو)۔ اللہ
(تعالیٰ) چھہ سبھا بخش بار (تہہ) چھپہ
چھپہ رحم کرن وول۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا بَيْنَ
مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَأُجَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً،
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٠﴾

بیہ (بروٹھہ پیٹھ) نکاح منز آہتر زنانہ (تہہ
چھپہ توہہ پیٹھ حرام) صرف توہہ زنانہ ورا بیہ
تہندین ملکیتس منزین۔ بیہ چھہ اللہ (تعالیٰ)
ہن توہہ پیٹھ فرض کوڑت۔ تہہ ہم کیو (پیٹھہ
کنہ چھکاوتہ آشرو زنانہ) ورا بیہ آسن ہم چھپہ
توہہ پیٹھ (نکاح کرٹھ) حلال۔ (یعنی یہ تھہ پانگی)
ز توہہ کر لوکھ (بتمن) پینسہ مالو کسی طلب بشرط
چھہ یہ نہ توہہ آسو خاندن کرن والی تہہ زنا کرن والی
آسو نہ۔ پتہ (چھہ پتہ شرط نہ) اگر توہہ بتمن
بش نفع ٹلمت آسہ و تہہ توہہ کوڑت بتمن و عہہ
کرٹہ آمت مہر تہہ برابر ادا۔ تہہ (مہر) مقصد
سپدہ پتہ یہ تھہ (کئی پیشی) پیٹھہ توہہ پانہ وادی
رضامند گرتھو تھہ متعلق آسہ و نہ توہہ کائہہ
گوناہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ بے شک سبھا زان
وول (تہہ) حکمتہ وول۔

وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ

لہ یہ صورت چھپہ صرف چھپہ قید زان متعلق مجاہز، سہہ بتمن سیدی نکاح کرٹھہ۔

سستی خاند کرکند، طے طاقت آسہ نہ تھا وان
 (سہ) کرن تہنیزو بلکیس منز آسٹرو (زنانو)
 لینے تہنیزو مؤمن کنیزو منز گانہ سستی نکاح
 تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تہندس اپانس سار وہے
 کھوتہ جاد زانان۔ توہر چھو اکھ اہس سستی
 (تعلق تھاوان) لہذا کروہن سستی تہندس مانگن
 ہند اجازتہ سستی نکاح۔ بیہ کروہن تہندس مہر
 اتن دستور مطابق ادا، مگر بیلیہ تم پاکیز
 آسن تہ زنا کرن واجبہ تہ ترور یار بانوان وینہ
 آسن تہ۔ پتہ بیلیہ تم نکاح تل من اتہ ہرگاہ
 تہہ کہے بی حیاتی ہنر جرم وار سپدن تہ تہند
 سزا آسہ آزاد زنانو بیٹہ لہیف۔ بیہ (اجازت)
 چھ تہس کیت بیس توہہ منز گوناہس کھوتران
 آسہ۔ تہ تہند صبر کرن چھ تہند خاطر جاد
 رت۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپٹا بخش وول
 (تہ) پھیری پھیری رحم کرن وول۔

اللہ (تعالیٰ) چھ بیٹھان نہ یکم لوکھ توہہ بزوتھ
 (گذرے ہتر) چھ۔ تہندس (طور) طریقہ کر تہند
 باپتہ بیان تہ کر (ہن کن) تہنر رہمانی بیہ
 کر توہہ پیٹھ شفقت تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپٹا
 زان وول تہ حکمتہ وول۔

بیہ چھ اللہ (تعالیٰ) بیہ بیٹھان نہ توہہ
 پیٹھ کر شفقت تہ یکم لوکھ بد خاہش پتہ
 لگان بھہ تم چھ بیٹھان نہ توہہ نمبو وار ایدر کن۔

اللہ (تعالیٰ) چھ بیٹھان نہ توہہ کروہ (بارس)
 لہر تہ انسان چھ کمزور پاؤ کر تہ امت۔

اے ایماندارو! توہر مہ کھنیو پیچڑ مال پانہ وازی
 نامائیز پاٹھو۔ ووزی گوو پانہ وازی رضا مندر سالن
 با پار کر رنڈ (مال حاصل کرن) چھ جسٹیز بیہ

يَتَّكِهَ الْمُحْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَتِكُمْ
 الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ
 بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَإِنْ كُفِرْتُمْ
 بِأَذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسْفُحَاتٍ
 وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ
 فَإِنَّهُنَّ بِفَاحِشَةٍ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ
 مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ
 ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَإِنْ
 تَضَيَّرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿۱۰۹﴾

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
 الرِّيبَةَ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ﴿۱۱۰﴾

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ
 وَيُرِيدَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ
 تَعِينُوا أَمِينًا عَظِيمًا ﴿۱۱۱﴾

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ
 خُلُقَ الْإِنْسَانِ ۚ صَاحِبًا ﴿۱۱۲﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
 أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۚ إِنَّمَا
 تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿۵۱﴾

مہ کرو پیڑ پان قتل اللہ (تعالیٰ) بیٹھ یقیناً توہم پیٹھ پھپر پھپر رحم کرن وول

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۵۲﴾

تہ لیس (شخص تہ) یہ (یعنی بیٹے سہ مال کھنوں) جادتی تہ ظلم کہ عادتہ کفر کر، سہ دیمون اسی ضرور تارس منتر دارتھ تہ یہ (کرن) بیٹھ اللہ (تعالیٰ) ہس نیش سہل۔

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿۵۳﴾

یو (کھو) نیش توہی پتھ رٹنہ یوان پھو، اگر تہو منتر یجو یجو (کھو) نیش توہی دور روزو تہ اسی کرو تہندہ عاب دور تہ توہر کرو عزتہ واجہہ جہاہ منتر داخل۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا، وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا، وَ سَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۵۴﴾

بیہ بیٹھ (چیز) اسی اللہ (تعالیٰ) ہن توہم منتر کیشن، کیشن پیٹھ فضیلت ڈر منتر چھنی تمیک طمع مہ کرو۔ یہ کیشنہا مردو کمومت چھ تمہ منتر چھ تہند حصہ تہ یہ کیشنہا زناو کمومت چھ تمہ منتر چھ تہند حصہ، تہ توہی منگو (صرف) اللہ (تعالیٰ) ہس تہند فضلگ حصہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً پرچھ اکھ چیز سہا زان وول۔

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُم نَصِيْبُهُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿۵۵﴾

بیہ چھ امہ پرچھ اکھ (شخص) کتو تہندس ترکس متعلق وارث مقرر کرکری ہوتی۔ (تم وارث چھ) مول، موج تہ نزدیک آشناو بیہ تم (تہ) کین سیدی توہم پھنچہ عہد و پیمان کرکری ہوتی چھو (یعنی آشتیہ یا خاوند) لہذا دیو، تم تہ کین مقرر سیدمت حصہ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً پرچھ گنہ کتھ پیٹھ بنگران۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالصَّالِحَاتُ قَنِيْثٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَ الَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

مرد چھ زنان پیٹھ بنگران (بناوہ آہتی) تمہ فضیلتہ موکھ یوس اللہ (تعالیٰ) ہن تمو منتر کیشن کیشن پیٹھ ڈر منتر چھنی، بیہ امہ موکھ زہتمو چھ پنتہو مالو منتر (زنان پیٹھ) خرچ کوڑمت، لہذا نیک زناہ چھنیہ فرماہر دار

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ بِ قَانَ
أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿۳۵﴾

تہ اللہ (تعالیٰ) ہند مدد سستی پوسیدہ کھن
ہنتر حفاظت کرن واجبتہ آسان۔ تہ بین ہنتر
نافرمانی ہند تو بہ خوف آسہ و۔ (تمن کرو) (تو بہ)
نصیحت تہ تمہ تر او لیکھ شو تمکن کھن مشن
کئے زنہ بیہ دیکھ چوب پتہ ہر گاہ تم تہنتر
اطاعت کرنی لگن تیلہ مہ ترھا ٹرو تمکن خلاف
کاٹہ بہانہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک سٹھا
تھوڈ (تہ) بوڈ۔

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْحَثُوا
حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ
يُرِيدَ إِضْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿۳۶﴾

ہر گاہ تو بہ تمکن دوہ لونی (بازن) ہند پانہ وانی
(تعلقن مشن) اختلاف گرتھنک خوف آسہ و تیلہ
کرو اگہ فاصلو تندیو (یعنی مرد بہرلو) آشنا و منتر تہ اگہ لویو
تندیو (یعنی زنانہ ہندلو) آشنا و منتر مقرر۔ پتہ اگر تم دہ لونی
(تالیو) صلح کرناون بیتر من تہ اللہ (تعالیٰ) کرن تم دہ لونی
(بازن) در میان بلہ ترار پانہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً
سٹھا زان وول (تہ) خبر دار۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُجُورًا ﴿۳۷﴾

بیہ کرو تو ہی اللہ (تعالیٰ) سنتر عبادت تہ کاٹہ
چیز مہ بتا و لونی تندیو شریک۔ بیہ (کرو) تالیو
ماجہ سستی (سٹھا) احسان تہ (بیہ) رشتہ دارن
تہ یتمین تہ مستکین سستی، تہ (تھہ پانہ)
آشنا و ہمساین تہ قد آشنا و ہمساین بیہ لری (ہن)
والین لونی تہ مسافرن تہ بیہندی تو ہی مالک چھو
(تمن سستی کرو احسانک سلوک) تہ یکم کبر کرن
والی تہ تھدی تالیو یکن والی آسن تمن بیجھتہ
اللہ (تعالیٰ) زانہ تہ پسند کران۔

بِالَّذِينَ يَبِخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ، وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُّهِينًا ﴿۳۸﴾

یکم (پانہ تہ) بخل کران چھ تہ (ہن) لونی
(تہ) بیجھ بخل کرتیج و تھہ لوان۔ بیہ یہ کینترھا
اللہ (تعالیٰ) ہن پسندہ فضلہ سستی تمن دیت
چھ تہ چھ کھٹان، تہ آسہ بیجھ کافرن ہند
باپتہ ذلیل کرن وول عذاب تیار کورمت۔

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ

بیہ یکم لیکھ پیچہ مال لونی لوانہ خاطر خرچ

النَّائِسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالشَّيْطَانِ كَفَرْنَا
فَسَاءَ قَرِينًا ﴿۳۱﴾

کران چھ تہ نہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ ایمان
تھوان تہ نہ پتہ پتہ واپس دوہس پیٹھ (تمن
ہند انجام آسہ خراب) تہ تہیس (شخصس) شیطان
سوتی بوج آسہ (سہ تھاون یاد نہ) سہ چھ
سبھا خراب سوتی بوج۔

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ
اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿۳۲﴾

بیہ تمن پیٹھ کیانا (قہر) اوس (وسان) ہرگاہ
تم اللہ (تعالیٰ) ہس تہ پتہ پتہ واپس
دوہس پیٹھ ایمان انہ ہن۔ تہ یہ (کیشرها)
اللہ (تعالیٰ) ہن تمن دیتت چھ تمہہ منز
کر ہن (تسزوتہ) خرج تہ اللہ (تعالیٰ)
ہس چھ تمن متعلق پوڑ پاطھ علم۔
اللہ (تعالیٰ) کر نہ زانہہ اکھ ذر تہ ظلم۔ بیہ
اگر کانسہ کانہہ نیکی آسہ تہ سہ ہر راپس بیہ
دیس پس نہ طرفہ (تہ) سبھا پوڑ اجہر۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكَ
حَسَنَةً يُضَعِفَهَا دِيُونَ مِن لَّدُنْهُ
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۳﴾

بیہ تہند حال کیاہ آسہ بیلیہ اسی پر پتہ کنہ نماز
منز اکھ گواہ اون تہ تہ انوکھ تمن لکن متعلق
گواہ (بتاوتھ)۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿۳۴﴾

تمہ دوہہ ایکو کفر کورمت چھ بیہ چھاکھ (تہس)
رولہ سنز نافرمانی کر مہز، کرن تمنا نہ (کاش)
تمن پیٹھ پیہ ہے زمین برابر کرنہ تہ تم ہیکن
تہ اللہ (تعالیٰ) ہس نش کانہہ کتھ کھٹھ۔

يَوْمَئِذٍ يَبُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَعْوَسُوا
الرَّسُولَ لَوْ تَسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَكَلَّا
يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿۳۵﴾

اے ایماندارو! یونانی تہ توہی پسین حواسن منز
اوسو، نماز نزدیک مہ اوسو گرھان تھہ ولس
تام نہ توہی یہ کیشرها ونان (تہ پران) چھو تہ
پہ پیٹھ (نہ) فکر ترن، تہ نے (گرٹھو زلو) بیہ
عسل آسہ کس حالتس منز (نماز نش)، یونانی
سلن کرو (نہ) ماسوایہ تمہہ کہ نہ توہی اوسو تہ
یکوڑی، بیہ اگر توہی بنار اوسو یا سفرس پیٹھ
اوسو (بیہ اوسو بیہ عسل، تیلہ اوسو تیمم کرن)
یا توہہ منز آسہ کانہہ نمبر نہ تہ امت یا اوسو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلَاةَ إِذْ كُنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَ
أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا غَدُورًا ﴿۳۶﴾

توہری زنان سستی صوحبت کر تھ تہ آمہی (یعنی
 بیہ غسل آہسو) تہ توہر میلہ و نو آب - ادر
 پاک میتر ہند اراد کرو (یعنی تمیم کرو) پتہ
 پھر تاوو (توہر تم میتر دار اتھ) پینہن بھنہن
 تہ اتھن پیٹھ - اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً سلھا
 معاف کرن وول اتہ، ورا بھنن ہار -

کیا تریہ یھینا تھن لوکن ہند حال معلوم یکن (الہی)
 کتابہ منتر کیہنہ حصہ دتہ آیاو زہ تم چھ ٹھرا ہی
 پاناوان تہ بیستھان چھ زہ توہر (تہ) ڈلو (اہل)
 ورتہ ہنہ -

بہ چھ اللہ (تعالیٰ) تہندین دشمن تہند کھو جاو
 زنان تہ اللہ (تعالیٰ) چھ دوستی منتر کانی - تہ
 اللہ (تعالیٰ) چھ مددگار آسہ کنز تہ کانی -

یم لوکھ میہودی چھ تمو منتر چھ کیہنہ (خلیہ تہن)
 کھن پنہو جاو ہنہ اولہ بدل کران تہ ونان چھ
 زہ اسہ بوز تہ (تمہ باوجود) کر نافرمانی - بیہ
 (چھی ونان زہ) بوز سانہ کتھ، (خدا بیہند کلام)
 گوشہ تہ تریہ زاہ بوزناو نہ یکن، بیہ (چھ
 ونان) تہ کر سون لحاظہ - (بیہ کتھ پتھ تم) پتہ
 زہو وٹھتھ اپڑی پاٹھو ونان تہ دپن منتر
 چھ طعنہ دیوان - ہر گاہ تم بیٹھ کنز و نہ ہن
 تہ اسہ بوز تہ اسہ مون بیہ (ونہ ہن زہ بوزو
 تہ اسہ پیٹھ کرو (رحمتی) نظرہ - تہ تہند
 خاطر گڑھ ہے جاوڑت تہ درستی ہند باعت (مگر
 تم روڈی نہ صرف اسہ ہنہ محروم) بلکہ کر اللہ
 (تعالیٰ) ہن تھن پیٹھ تہند کھن کر سبہ لعنت
 ادر کنز چھنہ تم ایمان انان -

اے لوگو! یکن (الہی) کتاب دتہ آیاہ! بیٹھ
 (کتابہ) پیٹھ ابو ایمان یوسہ اسہ (ووفی) مارل
 کر منتر چھنہ تہ یوسہ تھ (الہی کلاس) پڑ کران

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ
 الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ
 اَنْ تَضِلُّوْا السَّبِيْلَ ﴿۵﴾

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَاكُمْ ۗ وَكَفٰى
 بِاللّٰهِ ذٰلِيْمًا ۙ وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿۶﴾

وَالَّذِيْنَ هٰذَا وَاٰخِرَ فُوْنِ الْكَلِمَةِ
 عَنْ مَّوٰضِعِهِ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا ۙ
 عَصَيْنَا ۗ اَشْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ ۙ وَرَاعِنَا لَيْتًا
 بِالسَّنِيْتِهِمْ ۙ وَطَعْنَا فِي الذِّيْنِ ۙ وَكُو
 اَتْهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا ۙ وَاطَعْنَا ۙ
 اَسْمَعُوْا ۙ اِنظُرْنَا لَكَ اَنْ خَيْرًا لَّهُمْ ۙ
 اَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ ۙ فَلَا
 يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۷﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوتُوْا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا
 نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ اَنْ
 تَطْمِئِسَ وُجُوْهُكُمْ فَرُدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهَا ۗ اَوْ

واہنر چھیہ یس توہہ نش (بروشٹھے موجود)
 چھہ ، امہ بروٹھہ ز اسی کروکہ توہہ منتر پڑک
 مہنوی ہلاک تہ تم پھروکہ تہنرو تھرو وارک
 یا تھہ پٹھو امہ سبتہ والہن پٹھہ لعنت کر یاہ
 تھہ پٹھو کرو تم پٹھہ (تہ) لعنت تہ
 اللہ (تعالیٰ) سہنر کتھہ روتہ (ضرور) پڑک سبتہ
 اللہ (تعالیٰ) کر تہ (یہ کتھہ) نہ تہیہ معاف نہ
 تہہ یہیہ (کاٹہ) شریک تھہ روتہ، تہ یس
 (گوناہ) امہ ہنہ ادنہ آسہ سہ اہ تیکو بند
 حقہ ہنہ تھہ ، معاف کر یس تہ تیکو اللہ (تعالیٰ)
 ہس سبتہ (کاٹہ) شریک تھہ روتہ آسہ تہ
 (زاد تو نہ) تہ کڑ سبتہ یڑ بڈی (ہنر کتھہ)۔

کیا تہیہ چھینا تہن لوکن ہند حال معلوم ہم
 پینس پانس پاک گھنر راوان چھہ؟ (تہن چھہ
 یہ حق) بلکہ اللہ (تعالیٰ) یس ہنہ تھان چھہ تہ
 چھہ پاک قرار دوان تہ گھنر آنچہ ہنر پکھہ منتر
 فتمس برابر تہ یہیہ نہ (تہن پٹھہ) ظلم کر تہ
 وچھہ اہم کتھہ پٹھو چھہ اللہ (تعالیٰ) ہس پٹھہ
 اہر لاگتھہ تھولن تہ یہ کتھہ) چھہ کافی (جک
 تام) ٹاکا گوناہ۔

کیا تہیہ چھینا تہن لوکن ہند حال معلوم ہم
 (الہی) کتابہ منتر کہیہ حصہ دہہ آیاو (ز) تم
 چھہ بیہ قایدہ (کتھن) تہ حد نہن والہن پٹھہ
 ایمان تھولن تہ کافرن متعلق چھہ وناں نہ ہم
 لوکہ چھہ مؤمن ہند کھوتہ جاہ صداہت یافتہ؟
 ہم چھہ تم لوکہ ہمیں پٹھہ اللہ (تعالیٰ) ہن
 لعنت کڑ منتر چھہ تہ ہمیں پٹھہ اللہ (تعالیٰ)

لَعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَابَ السَّبْتِ،
 دَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۱۰﴾

لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
 وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ
 يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا
 عَظِيمًا ﴿۱۱﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ
 بِلِلَّهِ يُزَكِّيَنَّ مِنْ يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ
 فَتِيلًا ﴿۱۲﴾

أُنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
 وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿۱۳﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ
 الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالطَّاعُوتِ
 وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ
 مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿۱۴﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ
 يَلْحَنِ اللَّهُ فَلَنْ نَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿۱۵﴾

لہ یہودیو منتر یہو لوکو سبتہ ہمیں معامس منتر نافرمانی کر یاے۔

عہ الجنت۔ بیہ قایدہ کتھہ

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمَالِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝

لعنت کر تے ہیں نہ زانہہ لستہ کاٹھہ (مدگار) کیا جس میں ہند چھا نکو متس منتر کاٹھہ حصہ تیلہ دن نہ تم لوکن کھنڈر آٹھ ہندس ترپس سب تے۔

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مَالًا عَظِيمًا ۝

یا یہ کینٹھا (اللہ تعالیٰ) میں پسند فضلہ سب تو لوکن دیت مت چھ۔ کیا تم چھا تھہ پیٹھ تمن سب سہ کران؛ (ہرگاہ یہ کتھ پھیٹ) تیلہ ہے اسہ ابراہیم ہندس اولاد (تہ) کتاب تہ حکمت ڈر مہتر اس تہ اسہ اس تمن (بیہ) بڑ حکومت ڈر مہتر۔

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝

پتہ اولن تمو منتر کینٹھو تھہ (لو کتاب) پیٹھ ایمان تہ کینٹھ روڈر تمو منتر تمہ بشہ رکھہ تہ جہنم چھ پیشہ منتر سبھا جاو۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُضَلِّيهِمْ نَارًا، كَلِمًا تَضَجَّتْ جُلُودُهُمْ بِذَلَّتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

ہو لوکو سائن آین الکار کورمت چھ اسی دموکھ تم جلد (ہے) نارس منتر دارتھ۔ تیلہ تمن کتہ ویز ترہہ (ڈر تھہ) گلن اسی دمو تمن بوم بدل ترہہ (تہ اسی کرو) اسہ موکھ یٹھ تم غلاب ترپس۔ اللہ تعالیٰ چھ بے شک غلاب (تہ) حکمتہ وول۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَوَسُدُّوا عَنْهُمْ زُلْفَىٰ ظِلًّا ظِلِيلًا ۝

بیہ یو لوکو ایمان اوتمت چھ تہ تمو جہنم نیک اعمال بجا آتی ہوتی تم کروکھ اسی ضرور پتھن باعن منتر دا نخل بیمن منتر کولہ پکان آسن تم گڑھن تمن منتر ہمیشہ روزان۔ تہند خاطر آسن تمن منتر پاک آٹھ تہ اسی کروکھ تم گڑھن شہلس منتر روزنہ خاطر دا نخل۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

اللہ تعالیٰ چھہ توہر یقینا (اسہ کتھہ) حکم دوان نہ توہر کرو امانت تہندس سقدان حوالہ بیہ (یہ نہ)۔ تیلہ توہر لوکن درمیان قاصلہ کرو تہ عدلہ سان کرو قاصلہ۔ اللہ تعالیٰ بیہ کتھ ہنر توہر نصحت کران چھو سو پھیٹ بے شک

سیٹھ سو جان۔ اللہ (تعالیٰ) مجھ یقیناً سیٹھا
بوزن وول (تہ) وچھن وول۔

اے ایماندارو! اللہ (تعالیٰ) ہنر اطاعت
کرو بیہ کڑو رٹلو ہنر تہ اطاعت تہ محکمان
ہنر تہ (کڑو اطاعت)۔ اچ ہرگاہ توہر (حاکم
سیٹھ) کتہ کتہ منتر اختلاف کڑو تہ ہرگاہ توہر
اللہ (تعالیٰ) ہس تہ پتہ پتہ وائس دہس
پیٹھ ایمان تھوان چھو تیلہ گرتھہ بیہ (مقدیمہ)
اللہ (تعالیٰ) ہس تہ رسوس کن زمین (تہ)
تہندہ محکمہ مطابق گرتھہ بیہ معاملہ طے کرن) بیہ
کتھ چھنہ بہتر تہ انجامہ کہ لحاظہ جادو بر۔

کیا تریہ وچھتہ نامن لوکن بند حال یکم وول
کران چھہ نہ بیہ (کتھ شرا) تریہ کن تارل کر تہ آمت
چھہ تہ (بیہ) بیہ تریہ بروٹھ تارل کر تہ آمت
اوس، تھہ پیٹھ چھہ تھو ایمان اونمت تہ اہر
باوہو نہن اوس حکم دہہ آمت نہ تھو چھہ
تھہ مہ کرناون فاصلہ تہ تہندہک وئس پیٹھ مہ
پگن۔ تم چھہ بیٹھان نہ یکم نے اتھہ کرناون
فاصلہ تہ کیاز شیطان چھہ بیٹھان نہ تھن تارو
خطرناک گھراہ منتر۔

بیہ ییلہ نامن ونہہ یوان چھہ نہ بیہ کتھ شرا اللہ
(تعالیٰ) ہن تارل کوہمت چھہ تھہ کن تہ
رسوس کن بیو تہ تہ چھہکھہ منافق وچھان
نہ تم چھہ تریہ ہنس جادے چھہ تھان۔

پتہ کیاز (چھہ بیہ سپدان نہ) ییلہ نامن پیٹھ تہن
کامن ہندہک تھہ منتر کاہنہ مصیبت یوان چھہ
تہ تم چھہ (مبارک تہ) تریہ ہنس (چھہ) اللہ
(تعالیٰ) ہنر درہے کڑو کڑو یوان نہ باللہ
اسہ کریاو صرف نیک سلوک تہ صلح کرنا وئک
ارام۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ
الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ۝

۱۱۶

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ
آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ
قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَكَّمُوا إِلَى
الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا
بِهِ ، وَ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ
ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

وَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتُفِقِينَ
يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۝

فَكَيْفَ إِذَا آصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَاءَ ذَلِكَ يَخِلْفُونَ ۗ يَا اللَّهُ
إِن أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَ تَوْفِيقًا ۝

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعَظَّمَهُمْ
قُلُوبَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ⑤

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَوْنِ أَتْلُهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ⑥

فَلَا ذَرْبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحْكَمُوا لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ⑦

وَكُونُوا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا
فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَكَوْنَتْهُمْ فَعَلُوا
مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
أَشَدَّ تَثْبِيثًا ⑧

وَإِذَا لَاتْتَنَّهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا
عَظِيمًا ⑨

وَلَمَّا دَعَا إِلَهُمُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ⑩

ہم چھ تم لوگ نہ یہ (کینٹھا) تہندین دن منہ
پچھ اللہ (تعالیٰ) پچھ تہ (زیر یا تھی) زانان
لہذا روز تہ تہن نش دورے تہ نصیحت کرکھ تہ
تہندین نفس متعلق ون تہن کارگر کتھ۔

بہ پچھتہ اسہ کا تہ رسول (تہ) اسہ غرضہ ورا تہ
سوزمت نہ اللہ (تعالیٰ) ہند حکمہ سوتی گرتھ تہ
سنترا طعت کرتہ پتہ تہ سبیلہ تہمو پنتین زون
قلم کر یاو ہر گاہ (تہمہ وز) تم تہ تہ نش تہ سہین
تہ اللہ (تعالیٰ) ہس بخشش منگہ ہن تہ رسول
تہ منگہ ہے تہندہ حقہ بخشش۔ اد تم لہ ہن
ضرور اللہ (تعالیٰ) ہس سبھا شفقت کرن وول

(تہ) پچھری پچھری رحم کرن وول

اد چائس رہہ سنز دہے، اوتانی نہ تم (پر تہ)
تہ کتھ منہ تہ متعلق تہن تنازع گرتھ تہ
تہم (یعنی تہم) بناونے۔ تہ پتہ لیس قاسمہ
تہ کرکھ تہ سوتی پنتین دن منہ کتہ تہ
تنگی لہن تہ۔ تہ پورہ پٹھی فرما سہ در سہ
(تہ)، (توتانی) آس نہ تم ہرگز ایمان دار۔

تہ امر اسی تہن (تہ) حکم دہہ ہو نہ توہی
کرو پتہ پان قبل لہ یا یہ نہ پتہ گرو مشہ
نہو! اد کینٹھ ورا تہ کرہن تہ (تہمہ لوکھ)
یہ (کام) تہ ہر گاہ تم سہ (کام) کرہن پتہ
تہن نصیحت کرنہ یہ ہے، اد تہندہ خاطر سہ ہے
تہ جاد رت تہ جاد پتہ تہگی ہند باعث۔

تہ تہ صورتس منہ دہہ ہو اسی تہن لہ شک
(سبھا) بوڈ بدلہ۔

تہ (بہ)، ناہ ہو تہن اسی ضرور سہ تہ۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ الصِّرَاطَ الْقَيُّومَ ۚ
حَسَنٌ أَوْلَٰئِكَ رَفِيقًا ۝

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
عَلِيمًا ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ
فَإِنْفِرُوا نَجَاتٍ أَوْ تَفِرُوا جَمِيعًا ۝

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ
مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ
أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۝

وَلَيْنِ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ
كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ
يَلِيَّتِنِي أَنْتُمْ فَأُوذُوا فَوذًا
عَظِيمًا ۝

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

تہ یکم (لوگھ تہ) اللہ (تعالیٰ) تہ تمہیں رسولہ
سوز اطاعت کرن تم سیدن تمن لوکن لہ منتر
شامل یمن پیچھ اللہ (تعالیٰ) ہن انعام کوڑمت
چھ۔ یعنی نیسین، صدیقین، شہیدین تہ صلح منتر
تہ یکم لوگھ چھ (سیٹھ ہے) بروی عترت باج۔
یہ فعل چھ اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ سبھا زان وول۔

اسے ایماندارو! پین بچاو (کرنگ سامانہ) تھو
(ہر وقت تیار تہ) (ادگر منتر) لوکن جہان
منتر نہر تو یا بچن جہان منتر نہر تو (ہمیشہ
اسی زو سفاظنگ کر سامانہ سوتو تھوان)۔

بہ چھ تو بہ منتر کیئہ (انسان) یقینا تھو (تہ
آسان) ہم (پیرچھ کامہ ہندس موقعس پیچھ)
ضرور چھ چھ روزان تہ ہر گاہ تو بہ کانہہ مصیبت ولتہ
و تہ ونان چھ ز اللہ (تعالیٰ) ہن کوڑ مینہ پیچھ
احسان نہ بہ اوس نہ تمن سوتو حاض۔

تہ ہر گاہ اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ تو بہ کانہہ فضل
(سید بخ کتھ) واتہ و تہ تم چھ ضرور ونان نہ
کاش بہ (تہ) آسہ تمن سوتو یقینا نہ بہ
(سیٹھا) بڑ کامیابی لہہ ما، زن نہ تمن تہ تو بہ
درمیان کانہہ دوستی ہند تعلق اوس ہی نہ۔

لہذا ہم لوگھ دنیاوی زندگی تراوتھ آخرت پانسان وان
چھ تمن یز اللہ (تعالیٰ) سوز وتہ جنگ کرن۔ تہ
یس اللہ (تعالیٰ) سوز وتہ جنگ کر اد سہ قبل
کرتہ بیسین یا سہ غلبہ لہرتن، اوسہ دموتس
جلد (ہے سیٹھا) بوڑا ہر۔

بہ تو بہ کیا چھو (گومت) نہ تو بہ چھو نہ جنگ کران

لہ بیٹھ آیس منتر چھ مع، ہن کس معنیس منتر استعمال سڈمت۔ تھکنو گوو نونفا
مع الأبرار یعنی یہ نہ نیک لوکن منتر شامل کرتھ ہر اسہ وفات۔

الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
أَهْلُهَا ۖ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
وَاِجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿۱۰﴾

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
الطَّاغُوتِ ۖ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّ
كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿۱۱﴾

ع

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا
أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ ۖ فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ
إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ
كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَ قَالُوا
رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۗ لَوْ لَّا
أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاءُ
الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ
اتَّقَىٰ ۗ وَلَا تظَلَمُونَ قِتِيلًا ﴿۱۲﴾

اللہ (تعالیٰ) ہنر و ہمت تو تمہیں کمزور مردوں
تو زنانوں تو شرین ہنر (وتیر) ہم و نان چھ
نہ اسے سانس پروردگار! اسے کہہ دینا ہستی مشنر
تیمیکو روزن و اولی ظالم چھ تو ہستہ درگاہ ہنر
سوزن سون کاہنہ دوست بناؤتھ تو ہستہ دربار
مشر کرن کاہنہ سون مددگار بناؤتھ استا۔

ہم لؤکھ مؤمن چھ ہم چھ اللہ (تعالیٰ) ہنر و ہمت
جنگ کران تو ہم کافر چھ ہم چھ شیطان ہنر و ہمت
جنگ کران۔ او کہی کرو تو ہستی شیطان ہنر و ہمت
سستی جنگ۔ بے شک چھ شیطان ہنر و ہمت تدبیر
کمزور (آسان)۔

کیا تیری بھی ناہن لوکن ہند حال معلوم؛ مین
ونہ آیاو نہ تو ہستی تھوو ہنر و ہمت چھ رتھ تو
نماز کرو قائم ہبہ دلجو زکوٰۃ (مگر تم اسے جس
کمن مال دار) وہی گوؤ نیلہ ہنر و ہمت چھ جنگ
کرن فرس کرنہ او تو ہیکدم لگو تمو ہنر و ہمت
انسان لوکن ہنر و ہمت چھ کھوڑنہ چھ ہنر و ہمت
کھوڑنہ ہنر و ہمت تمہ کھوڑنہ ہنر و ہمت۔ ہنر و ہمت
نہ اسے سانس پروردگار! تیری کیا ہنر و ہمت جنگ
کرن اسے ہنر و ہمت فرس کوڑنہ! اسے کوہنہ ہنر و ہمت
تیری کینتر کالہ ہنر و ہمت مہمت؛ تیر و نکھ نہ
دنیہ ہک قاید چھ موسیٰ پایہ تو ہنر و ہمت ہنر و ہمت
تسید ہنر و ہمت ہنر و ہمت ہنر و ہمت (زہنگ) ہنر و ہمت
تو تو ہنر و ہمت ہنر و ہمت ہنر و ہمت ہنر و ہمت
(تہ) ظلم کرنہ۔

تو ہستی ہنر و ہمت موت رتھ و تو ہنر و ہمت
مقبوط قرآن ہنر (تہ کوہنہ) اسے۔ ہنر و ہمت
(یعنی ہنر و ہمت کتہ چھ کاونہ آمتین لوکن) کاہنہ ہنر
وانان چھ تو (ہنر) چھ و نان نہ ہنر چھ اللہ
(تعالیٰ) ہنر طرفہ تو اگر کاہنہ ناکارگی و اتان

آيِن مَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ
كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۗ وَإِن
تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَإِن تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا
هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ مَن عِنْدِ

اللَّهُ، فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ
يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۝۱۰

چھکھ تہ وانان چھو زریہ چھہ چاتہ طرفہ۔ تہ
ونکھ (ز) سورے (کیپتہ) چھہ اللہ (تعالے)
ہندری طرفہ۔ لہذا یکن کیاہ چھہ گو مت زریہ
چھہ کاتنہہ کتھ فکر ترس نزریہ (تام تہ)
واتان!

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا
أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ۚ
وَإِذْ سَأَلْنَا لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَى
بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝۱۱

یس ہر تر تریہ واتی سہ چھہ اللہ (تعالے) ہند
طرفہ تہ یوسہ ناکارگی تریہ واتی سہ چھہ تریہ
پستہ طرفہ تہ اسہ چھکھ تہ لوکن ہند خ طرفہ
رسول بناوتھ سوزمت تہ اللہ (تعالے) چھہ
کافی گواہ۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ
تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝۱۲

یس رسولہ ہنر اطاعت کر (تہ زانی تو ز) تم
کر اللہ (تعالے) ہنر اطاعت تہ یکن لوکھ تھر
پھرتھ گے تہ (یاد تھووز) اسہ چھکھ تہ تہ
تمن پیٹھ راچھدر بناوتھ سوزمت۔

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ
عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي
تَقُولُ ۚ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبْتَغُونَ ۚ
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَ
كَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝۱۳

بہ چھہ تم وانان (ز سانی کام تہ چھہ) فرمانبردار
پتہ بیلہ تریہ بش نیسریہ ان چھہ تہ تمواندر
چھہ اگہ جماعت یوسہ تھہ یہ کیتھ تہ وانان چھکھ
(روتلہ) مخالف تدہ ہر کران تہ (رات کیت) ہم
تدہ ہر تم کران چھہ اللہ (تعالے) چھہ تمن لیکھت
رتھر ہر آوتھ تھاوان۔ اوکتر روز تہ تمن بش دور تہ
اللہ (تعالے) ہس پیٹھ کر توکل۔ تہ اللہ (تعالے)
ہس پتہ چھہ بہ کاتنہہ کار ساز سجد حاجت۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُتُورَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝۱۴

اد کیا تم لوکھ چھنا قرآنس متعلق سران سوچان
بہ (چھنا زانان ز) ہر گاہ سہ اللہ (تعالے) ہند
ورایہ (کاتنہہ بیئہ) ہند طرفہ آسہ ہے؟ تہ تم
سہہ تمن تھہ اندر یقینا وراہ اختلاف۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ
أَدْعَاؤُهُمْ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى
أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ

بہ بیلہ (تہ) تمن بش ایش یا خوف کاتنہہ
کتھ واتان چھہ تہ تم چھہ تھہ مشہور کرتھہ تھاوا
تہ اگر تم (یکہ کتھ) رسولس کن تہ پستن جان
کن نہہ ہن، اد تمواندر ہم (لوکھ) یرهن کتھن

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْغُهُ الشَّيْطَانُ
إِلَّا قَلِيلًا ﴿۳۷﴾

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا
نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى
اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ
وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسَاءٍ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿۳۸﴾

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ
نَصِيبٌ مِمَّا هِيَ ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً
سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِمَّا هِيَ ۗ وَكَانَ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا ﴿۳۹﴾

وَإِذَا حُجِّبْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ
مِمَّا أوردُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿۴۰﴾

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَ مَنْ أَصْدَقُ
مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿۴۱﴾

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ ۗ وَاللَّهُ
أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۗ أَتُرِيدُونَ أَنْ
تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۗ وَ مَنْ يَضِلِّ اللَّهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿۴۲﴾

ہنراصلیت (معلوم کر تھہ ہرکان چھہ ، تم لہہ ہن
(ہن ہنر حقیقت) تہ ہر گاہ تو ہہ پلٹھ اللہ
(تعالے) سُد فقول تہ تہنر رحمت آسہ ہہ تہ
کڑ تہو ورا ئی مکیو ہو تو ہہ شیطا س پتہ ۔
لہذا کر تہ اللہ (تعالے) ہنر و تہ جنگ تہ بیکھ
تہ پتہ پانہ ورا ئی (کائنہ ہند) ذمہ وار ٹھہراو تہ
تہ (چانی کلام چھہ پھرا پہ نہ) تہ کر کھہ مؤمن
آماج ۔ سبھا ممکن چھہ ز اللہ (تعالے) کر کافر ن
ہند جنگ بند ۔ تہ اللہ (تعالے) سُد جنگ چھہ
(سار وے کھوتہ) ہما دے پھن سجت (آسان)
تہ تہو سُد عذاب (تہ) چھہ (سار وے کھوتہ)
ہما دے پھن سجت (آسان) ۔

یس (شخص) رتہ سفارش کر تہند تہا طر آسہ
تمہ منزاکھ حصہ تہ یس شخص پچھہ سفارش
کر تہ اندر آسہ تہند تہا طر (تیتھ) حصہ
بہہ چھہ اللہ (تعالے) پر تہہ کتہ پچھہ پلوہ
قوہرت تھوان ۔

بہہ سبیلہ تو ہہ کائنہ دُعا کر تہ بیو تہ تو ہہ کرو
تمہ کھوتہ رت دُعا یا کرو (کم سے کم) تیتھہ (دُعا)
واپس ۔ اللہ (تعالے) چھہ پر تہہ کتہ ہند حساب
ہنر وول ۔

اللہ (تعالے) چھہ سہ ذات ز (تس ورا ئی چھہہ
کائنہ معبود سہ روز و تو ہہ بلا شک قیا مت ہنر
دہ ہس نام حج کران ۔ بیہہ کس یس منز کائنہ
شک چھہ تہ اللہ (تعالے) ہند کھوتہ ہما کسہنر
کھہ ہیکہ پز آسٹھ ؟

بہہ تو ہہ کیا چھو (گومت نہ) منافعن متعلق چھو
(توہہ) نہ رُدر (گمٹی) سبیلہ زن یہ توہہ کومت
چھہ تمہہ باعہہ چھہ اللہ (تعالے) ہن ہنر و کرمی
کڑ ہنر ۔ کیا یس اللہ (تعالے) ہن ہلاک کومت

چھ سہ بیٹیوں کو توہمی و تہ پیٹھ اُنھہ؟ تہ یس اللہ (تعالیٰ) ہلک کر تہ بکھ نہ تہ بندہ خا طسہ زانہہ کا نہہ و تہ۔

تم چھ بیترہاں نہ پتھر پاتھی تم (پانہ) کافر سیدے ہتھی چھ۔ کاش توہمی تہ بیدو (تہ پتھی پاتھی) کافر۔ تہ (تم تہ توہمی) گترہو ہوئی۔ او کو یوتانی (نہ) تم اللہ (تعالیٰ) ستر و تہ ہجرت کرن توہمی مہ بناویون تمو اندرہ کا نہہ اکھ دوست۔ پتہ ہرگاہ تم پتھی گترہن تہ توہمی ٹیو کو تم تہ نیت ہن بیو کو (تستہن) سکر لوکھ قتل تہ تمو مشر نہ بناویون (کا نہہ) دوست تہ نہ (کا نہہ) مدگار۔

صرف تمو لو کو ورائی ہم (یا تہ) کتہ تہ بھس تموس ستر تعلق تھوان آسن بین تہ توہمی در میان (کا نہہ) معاہدہ آسہ (تہ) تم بین توہمی نش اتھ حالتز مشر نہ توہمی ستر ہجگ کرنہ (نیشہ) تہ پنسن قومس ستر ہجگ کرنہ نشہ آسن (تم) پنسن سپن مشر انقباض تھوان تہ اگر اللہ (تعالیٰ) سترہ ہے تہ تمس دیہ ہے یقینا توہمی پیٹھ غلبہ، تیلہ کرنہ تم ضرور توہمی ستر ہجگ لہذا ہرگاہ تم توہمی نش بوٹھ کھسن تہ توہمی ستر کرن نہ ہجگ تہ توہمی کن تراون صلح (کر بیخ بنیاد) تہ اللہ (تعالیٰ) ہن تھان نہ تہندہ با پتھ تمس خلاف (جادتی ہنر) کا نہہ و تہ (باہق)۔

توہمی بیو کو ضرور (کیدہ) بیہ لوکھ (تھی) نہ تم چھ بیترہاں نہ توہمی نش (تہ) روز ہن امنس مشر تہ پنسن قومس نش تہ روز ہن امنس مشر نیلہ سیدہ تہ تم قتاس کن پھر وہ آہ تہ تم چھ تہ مشر بھو واررک لاینہ یوان روڈی ہتھی اہ ہرگاہ تم توہمی نش دور روزن نہ تہ توہمی کن

وَدَا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَّالِيًّا وَلَا نَصِيرًا ①

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقًا أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرَتِ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَا تَوَّ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمَّ يُقَاتِلُوكُمْ وَ أَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۖ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ①

سَتَجِدُونَ أَحْرَبِينَ يُرِيدُونَ أَن يُبَادِلُوا قَوْمَهُمْ كَلِمَاتٍ وَيُقَاتِلُوكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمَّا رَدُّوهُمُ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَخْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكْفُوا إِلَيْهِمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا

لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿۱۲﴾

۱۲

صلح (کریج بندی) تراوان (ہ) تہ پینڑ اتھو پتھ
 رٹن (ہ) تیلہ رٹوگھ توہی تم تہ یستہ دکتیا
 توہی بیوگھ (تہ) کریوگھ قبل تہ پیم لوگھ پتھ
 تھو نہ اسہ چھہ تھن تھلاف توہہ پر زلوڑی ڈپل
 ڈر مپتر۔

بہی شوہر نہ سکانہ مؤمنس ز سہ کر سکانہ مؤمنس
 قبل۔ ماسوایہ (امہ کر ز) وشقہ (سوتی گترہ
 تیرہ کتھ) تہ یس ڈمون) سکانہ مؤمنس انڑنی
 منڑ قبول کر تہ (تس پیٹھ چھینہ) اکھ مؤمن (غلام
 پتھر) گردن آزاد کرنی بہی چھہ رتہ مول (یعنی
 نون بہا) دین (واجب) یس مقولہ ہندن وارٹن
 دین پیہ ماسوایہ امہ (صورتہ) کہ ز تم تراوس
 صدقہ کنہ۔ تہ اگر سہ (مقتول) تہند کتہ دتھن
 قومہ منڑ آسہ تہ سہ آسہ (پانہ) مؤمن تیلہ چھینہ
 (صرف) اکھ مؤمن (غلام پتھر) گردن آزاد کرنی
 (سپٹھا) تہ اگر سہ (مقتول) کنہ تھہ قومہ
 منڑ آسہ یکن تہ توہہ درمیان معاہدہ آسہ تیلہ
 چھہ رتہ مول (قاتلس) پیٹھ واجب) یس
 تس (مقتولہ ہندن) وارٹن دین پیہ۔ یحہ
 پٹھ چھینہ اکھ مؤمن (غلام پتھر) گردن آزاد
 کرنی تہ ضروری۔ تہ یس نہ (تھہ سنب تلہ)
 لہ۔ تیلہ چھینہ تس دھن رتھن پے در پے روڑ
 ڈرنہ (واجب) یہ (نزی) چھینہ اللہ (تعالیٰ)
 ہند طرفہ شفقتہ کر ونگر تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ پٹھا
 زان وول (تہ) حکمتہ وول۔

بہی یس (شخص) سکانہ مؤمنس زانہہ مانہہ قتل
 کر تہند سزا چھہ جہنم (تہ) سہ گتھہ تھہ اندر
 یز کال تا روزان تہ اللہ (تعالیٰ) سپد تس
 پیٹھ ناراض تہ تس کر (پسنہ درگاہہ نشہ) دور۔
 تہ تہند یا پتھ کر سپٹھا، بوڈ عذاب تیار۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا لَا
 خَطَاةَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
 أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ
 قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ذَلِيلَةٌ مِنَ اللَّهِ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱۳﴾

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
 فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ
 غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
 عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۱۳﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ آتَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ كَسْتُمْ مُؤْمِنًا ۖ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَايِمٌ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۵﴾

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۖ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ۖ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۶﴾

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿۷﴾

۱۳۰

إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّعُوا الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِئِمَّةً كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا آلَكُم

اے ایماندارو! سبیل اللہ توہر اللہ (تعالیٰ) سبزی و تہ سفر کران آسو تہ چھان بین آسو کران۔ تہ یس توہر سلام کرو تہس مہ آسو (یہ) و نان نہ تر چھکھ نہ مؤمن۔ توہر چھو دنیاوی زندگی ہند سامانہ بیترھان۔ اہ اللہ (تعالیٰ) ہس ہش چھو واریاہ مال غنیمت۔ گوڈ آسو توہر (تہ) تہقی۔ پیتر کوز اللہ (تعالیٰ) ہن توہر پیٹھ احسان لہنڈ توہر پیٹھ چھ لازم (نہ) توہر آسو چھان بین کران۔ یہ کینترھا توہر کران چھو تہر ہش چھ اللہ (تعالیٰ) بے شک خیر دار۔

مؤمنو مشر تہقی بہتھ روزن والی بکن کانہہ ضرر چھتہ وومتت چھنہ برابر آتھ بہکان) تمن ستو بکیم پینر مال تہر جان بہتھ اللہ (تعالیٰ) سبزی و تہ جہاد کرن والی چھ۔ اللہ (تعالیٰ) ہن چھیہ پسننو مالو تہ ہانو ستو جہاد کرن والین (پتھ کن) بہتھ روزن والین پیٹھ درجس مشر فضیلت ڈر مشر بیہ چھ سارہنے ستو اللہ (تعالیٰ) ہن ہانزک و عدہ کوزت۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہن چھیہ جہاد کرن والین (پتھ کن) بہتھ روزن والین ہند کھوتہ (سپٹھا) بڑ اجرک و عدہ کریتھ (ضرور) فضیلت ڈر مشر۔

(امہ فہنپتیک معنے چھ) تسنہ (یعنے خدایہ ہند) طرفہ واراہ درجات تہ مغفرت میلن تہ رحمتک حاصل سپدن تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپٹھا بختن ہار (تہ) پھیری پھیری رحم کرن وول۔

بیم لوکن ملاکو اتھ حالتہ مشر وفات ڈر نہ تم آسی سبھن زون پیٹھ ظلم کرو نہ تم وزن تبسن نہ توہر کتھ (خیاس) مشر آسی و ہ تم

۱۳۰ یعنی کافرن ہند بن سکن مشر روزتھ آسی پرچھ تہبکی کلیف و ستران اما پوز ہجرت آسی نہ کرن۔

تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا ﴿۱۵﴾

(یعنی ہجرت نہ ہوتی تھی ہجرت والی) و تنکھ در جواب نہ اسی اسی ملکس مشر کمزور زانہ یوان (ا) و کئی کئی ہجرت) تم (ملک) دیکھ جواب، کیا اللہ (تعالیٰ) ہنر زمین اسی تانہ کشتار؟ نہ تو ہی کئی ہو تھ مشر ہجرت۔ لہذا تم لوگوں ہند ٹھکانہ آسہ بہنم تہ سہ چھین روز نہ کہ لحاظ سپہا (ہے) خراب بجائے۔

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿۱۶﴾

وہ فی گوو تم لوگہ ہم مردو، زنانونہ شرلو مشر پڑی کئی کمزور اسی (تہ) تم اسی تہ کنتہ تہیک طاقت تھوان تہ نہ اسی کانہ و تھ تمن نظر گر تھان۔

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿۱۷﴾

تم لوگوں ہند باچہ چھین اللہ (تعالیٰ) ہنر نجاش نزدیک، تہ کیا نہ اللہ (تعالیٰ) چھینی سپہا معاف کرن وول (تہ) بخشنہ وول۔

وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۸﴾

بہی یس (شخص تہ) اللہ (تعالیٰ) ہنر و تہ ہجرت کر سہ لہی ملکس مشر حفاظتہ ہجہ واریاہ جایہ تہ نحو شمال (ہندک سامانہ) تہ یس (شخص) اللہ (تعالیٰ) تہ تہندرس رسولس کن ہستہ گر سپہ ہجرت کر تھ نہیر پتہ پیہ تہس موت۔ (ا) زانی تو نہ (تہ) تہند اہر گوو اللہ (تعالیٰ) ہس مسہ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپہا (ہے) بخشن وول (تہ) چھیری چھیری رحم کرن وول۔

۱۸

بہی ہر گاہ تو ہی کھوڑان چھو نہ کافر تراو تو بہ مصیبت مشر۔ (ا) بیلہ تو ہی ملکس مشر سفر کرو تہ تو بہ چھو نہ کانہ گونا نہ نماز کرو تھوٹ۔ کافر چھ بے شک تہندک نہ وائہ دشمن۔

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ كُنْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿۱۹﴾

لہ سفرس مشر چھ برو تھ نماز قصر کرنک اجازت۔ بیہین چھ مراد نہ اگر تو بہ دشمن نہ خوف تہ اسو تیلہ پرو نماز وول وول۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ
 الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
 وَلْيَأْخُذُوا آسِيحتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا
 فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ
 طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا
 مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
 وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
 وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً
 وَاجِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ
 بِكُمْ آذٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى
 أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا
 حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
 عَذَابًا مُهِينًا ﴿۱۵﴾

بہ بیٹیلہ تو (پانچ) پھن منتر آسکھ تو تیر پیرناوہکھ
 تم نماز تہ (پیر یہ نہ) تمو منتر جہاز ہند اکھ حصہ
 سپر تریہ سستی استاد تہ پین سلع سامانہ منن
 سستی۔ پتہ بیٹیلہ تم سجدہ کرن تہ تم سپرک توہہ
 پتہ کنہ (حفاظتہ باپتہ) استاد۔ پتہ پین جماتہ
 ہند بیاکھ حصہ سستی ونب نماز چھنہ پیر متراہروہہ
 کن) تہ پرن تریہ سستی نماز تہ تم روزن بچاکھ
 سامانہ تہ پین سلع ہوتہ۔ ہم لاکھ کافر چھہ ہم
 چھہ بیٹھراک زکاش توہہ سپر ہو پینہو ہتھیار
 ہنہ غافل تہ تم کرن یکدم توہہ پیٹھ حملہ ستہ
 ہرگاہ روہ موکھ توہہ تکلیف آسہ و یا توہہ سید
 آسہ تہ پینہ ہتھیار (پتھر) و اللہ تھولس پیٹھ
 چھو نہ توہہ کاہنہ گوناہ۔ تہ کرہتہ تہ گتھن
 ساری احتیاط کرن۔ اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ یقینا
 کافر ہند باپتہ رسوا کرن وول عذاب تیار
 کرہتہ تھووت۔

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ
 فِي مَا وَتَعُونَ ۚ وَعَلَّ جُنُودِكُمْ ۚ
 فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ
 الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
 مَوْفُوتًا ﴿۱۶﴾

اد بیٹیلہ توہہ نماز پڑھتہ موکھو تہ اللہ (تعالیٰ)
 روزیون وودنہ تہ بہتہ تہ لر تراوتھ یاد کران
 پتہ بیٹیلہ توہہ اطمینان لہو تہ نماز پڑی زہو
 شپتہ سنہالتہ۔ نماز چھہ بے شک مؤمن
 گنڈتھ و تھس پیٹھ (ادا کرنی) اکھ فرہن تھہروہ
 آسپتہ۔

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۚ إِنْ تَكُونُوا
 تَأْكُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْكُمُونَ كَمَا
 تَأْكُمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا
 يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴿۱۷﴾

بہ مہ کرہو توہہ یہ قوم (دشمن ہند) تلاش
 کرنس منتر سستی۔ اگر توہہ تکلیف سپرک
 چھو سبیلہ پتھ پاٹھ توہہ تکلیف سپرک چھو
 ہن تہ چھہ تکلیف سپرک تہ توہہ چھو اللہ
 (تعالیٰ) ہس نش سبج (یعنی تمہ فضل تہ کرہج)
 وومید تھوان سبج نہ ہم وومید تھوان چھہ
 تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ سبھا (ہے) زان وول
 (تہ) حکمتہ وول۔

۱۵
۱۶

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
اللَّهُ، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿۱۵﴾

وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿۱۶﴾

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ
أَنْفُسَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
خَوًّا أَنَا آثِيمًا ﴿۱۷﴾

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا
يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ
يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، وَ
كَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿۱۸﴾

هَآئِنْتُمْ هَآؤِلَآءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ
عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ
عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿۱۹﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ
ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿۲۰﴾

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ

اسے چھپے تریے کن (یہ) صداقت بڑے کتاب
بے شک اوکو نازل کر مہتر تر تر کرکھ لوکن
ورمیان فاصلہ تمہ (حقہ) دوسی یس اللہ (تعالیٰ)
ہن تریے ہوومت پچھے۔ بیہ بڑے نہ نہ تر خیانت
کرن والین ہند کتہ تر ون وول۔

بیہ منگ اللہ (تعالیٰ) ہس (تہتر) بخشش
اللہ (تعالیٰ) پچھے یقینا سبھا (ہے) بخشش
وول (تہ) پھیر پھیر رحم کرن وول۔

بیہ مہ کر تر مجاہدہ تم لوکن ہند کتہ یکم پستین
نفس ہند خیانت کرن چھ۔ یکم (لوکھ) خیانت
مشر بڑے ہتر تہ سبھاہ گوناہ کار آسن، تم
پچھتہ اللہ (تعالیٰ) پسند کرن۔

تم چھ لوکن ہش پردہ حقان تہ اللہ (تعالیٰ)
ہس ہش چھتہ پردہ حقان۔ بوڑے تہ تہیلہ
تم راس ہش کتھن ہند مشورہ کرن آسان
چھ، یکم اللہ (تعالیٰ) پسند چھتہ کرن، تہ سہ
(اللہ تعالیٰ) چھ تم ہش آسان۔ تہ یہ کتہ ترھا
تم کروڑی چھ اللہ (تعالیٰ) چھ تمہ تباہ تہ
برباد کرن وول۔

بوزو! توہی چھو تم لوکھ یکم تہند کتہ دنیاوی
زندگی مشر تر ون رودی ہتر چھ مگر قیا مشر دہ
کس تر تہند کتہ اللہ (تعالیٰ) ہس ستر یا کس
اسے تہند سفاقت کرن وول؟

تہ یس شخص تہ کانہہ بدی کر یا پسن نفس
پچھ ظلم کر تہ پتہ پتہ اللہ (تعالیٰ) ہس
ہش (پستین گوناہن ہنر) معافی۔ اچ سہ لہ
اللہ (تعالیٰ) ہس سبھا بخشش وول (تہ) پھیر
پھیر رحم کرن وول۔

بیہ یس شخص کانہہ بدی کر تمیک کرن پتہ

عَلَّ تَفْسِيهِ ، وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿۱۲﴾

(پھر تہ) تھی پیٹھ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سہٹا
زانن وول (تہ) حکمتہ وول۔

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ آثِمًا تَمًّا
يَزِرْهُ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِخْتَمَلَ
بُهْتَانًا وَلَا تَأْمُرُوا مِثْلَهُ ﴿۱۳﴾

بہ بیس شخص کائہ اثر یا گوناہ کر پتہ دیہ کائہ
بے قصور تھیک الزام اد (زاد تو زہ) تمہ مثل
اک اپریک تہ تہ وانہ گو نہیک بور۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ
لَهَمَّثَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضْلُواكَ ،
وَمَا يُضْلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا
يُضْرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ ، وَ أَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا
لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ، وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
عَظِيمًا ﴿۱۴﴾

بہ ہرگاہ تریہ پیٹھ اللہ (تعالیٰ) سند فضل تہ
تسہتر رحمت آسہ ہے تہ تہ تم (یعنی دشمن)
سپرہن پنس بد ارادس متر کامیاب (چنانچہ)
تمو منہ اوس اکی ڈری (امر کتہ ہند) پو تہ اراد
کورمت تہ تریہ کرہ نے ہلک مگر تم کرہن
تہ پتہ پانہ ورائی کائہ ہلک تہ تریہ ہیکہ
نے تہ کہی تہ نو قصان واتناوتھ تہ اللہ
(تعالیٰ) ہن چھہ تریہ پیٹھ کتاب تہ حکمت
نازل کر مہتر تہ یہ کتہ شہا تر زانان اوسکھ
نہ (تہ) چھنکھ تہ ، پھنو مت تہ تریہ پیٹھ
چھ اللہ (تعالیٰ) سند بوڈ فضل۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ
بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ ، وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿۱۵﴾

تسہ لوکن ہند مشورہ او کپور تر اوتھ ہم صدقہ
یا نیک کتہ یا لوکن در میان اصلاح کرنک حکم
دوان چھ ، چھنہ تہنہن وار یا ہن مشورن متر کائہ
تہ رزہر (آسان) تہ بیس شخص اللہ (تعالیٰ)
سند رضا ترھانہ تہ خاطر پیٹھ کر (یعنی نیک
مشورہ کر) اسی دموتس (جلدہے) سہٹا

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ لُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُضَلِّهِ
جَهَنَّمَ ، وَ سَاءَتْ مَصِيرًا ﴿۱۶﴾

بوڈ اہر۔
تہ بیس شخص (تہ) ہدایت پورہ یا پٹھو لون گرہہ
پتہ (امس) رسولس سہتر اختلاف نے کران گرہہ
تہ مؤمن ہند طریقہ وراہے (کنہ بیس طرقتس)
پیٹھ پکہ۔ اسی لگون سہ تھو چہزس پتہ پیٹھ
پتہ سہ لوگت چھ۔ تہ سہ دمون اسی جہنم
دارتھ تہ سہ چھ واراہہ کچھ ٹھکانہ۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ
يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۳۱﴾

إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثَاءً وَإِنَّ
يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿۳۱﴾

لَعَنَهُ اللَّهُ، وَقَالَ لَا تَخْذَنَ مِنْهُ
عِبَادٌ ذَكَرْنَا مَفْرُوضًا ﴿۳۱﴾

وَلَا ضَلَّ اللَّهُمَّ وَلَا مَتَّبِعْتَهُمْ وَلَا مَرَاتَهُمْ
فَلْيَبْتِكُنْ إِذَا نَالَ الْإِنْعَامَ وَلَا مَرَاتَهُمْ
فَلْيَغْيِرْكَ خَلْقَ اللَّهِ، وَمَنْ يَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿۳۱﴾

يَجِدُهُمْ وَيَمَنِّيهِمْ، وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿۳۱﴾

أُولَئِكَ مَا أُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ
عِنَهَا مَجِيصًا ﴿۳۱﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

النَّارُ (تعالیٰ) بخشنہ تہ ہرگز سہ (گوناہ) نہ
تسند پیسہ (کاٹہ) شریک بناونہ تہ یس گوناہ
تمیر و سبھ آسہ (سہ) اچ پیو سہد حقہ پیسہ
(تس) کر معاف۔ تہ یس شخص کاتسہ اللہ
(تعالیٰ) تسند شریک بناو اچ (زانی تو زہ)
سہ پیو سیترو تہ لنتہ سبھا دور۔

تم چھنہ اللہ (تعالیٰ) تراوتھ بے زو چیزو
ورائی (کاتسہ) آلو دو ان سبک چھنہ تم بچھو
چھس شیطانس ورائی (بیس کاتسہ) آلو دو ان۔
(شمس شیطانس) یس اللہ (تعالیٰ) ہن
(پسنہ درگاہہ لنتہ) دور کورمت چھ تہ (پیو)
پہ (ونیاو تہ بہ تمہ چاہو بندو مشر ضرور اکھ
گنہ تہ حصہ۔

تہ تم کرکھ ضرور گمراہ تہ پزری پاتھو دیاوکھ
(بچہ بچہ) وہ سیترو تہ تمہن نش کر ڈاڈ کرکھ
کرکھ چاہش نہ تمہ تہ پان چار و این کن، یہ تھ
کوف کر چاہش نہ تمہ کرن خدایہ بندن مخلوق اند
تبدلی تہ یس اللہ (تعالیٰ) تراوتھ شیطانس
دوست بناو تہ (زانیو زہ) سہ آونہ وانہ گاتس
مشر پیسہ۔

سہ (شیطان) چھ تمہن و عہد دو ان تہ اکثر تھاؤوان
بیس چھنہ شیطان تمہ سبتو تسبو فریبہ چپو کتھو
ورائی (کتہ کتہ ہند) و عہد کران۔
تمہن لوکن ہند کھانہ تہ چھ جنہم تہ تمہن
نہ تمہ لنتہ کتہ تر پانج جائے۔

بیس پیو لوکو ایمان اوتمت چھ تہ نیک کامہ چھکھ
کر مشر، اسی کرکھ تم ضرور تھن باعن مشر

الْأَثَرُ خَلِيدٍ بَيْنَ فِيهِمَا آدَاءٌ وَعَدَاةٌ
حَقًّا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿۲۷﴾

لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا أَمَانِيَّةِ أَهْلِ
الْكِتَابِ، مَنْ يَعْمَلْ سَوَاءً يُجْزِئْهُ، وَلَا
لَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَبِيئًا وَلَا
نَصِيرًا ﴿۲۸﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَدِ انْتَهَىٰ بِذُخْلُونِ
الْجَنَّةِ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا ﴿۲۹﴾

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّا مِمَّنْ أَسْلَمَ
وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ
خَلِيلًا ﴿۳۰﴾

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَ
كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿۳۱﴾

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، قُلِ اللَّهُ
يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، وَمَا يُثَلِّي عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا
تُؤْتُونَ مَنَّا كِتَابَ لَهُنَّ وَتَرَعَبُونَ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأَنْ تَقُومُوا لِلنِّسَاءِ

وَأَنْتُمْ لِيَكُنَّ كَبْرُ نَهْرٍ بِكَانِ آسِنِ (تہ تمہیں
منزگرتھیں تم ہمیشہ روزانہ - (یہ چھ) اللہ
(تعالیٰ) سُنْد پوز وعدہ - تہ اللہ (تعالیٰ) ہند
کھوتہ کسٹہز کتھ ہیکہ ہاد پز آستھہ ؟

نہ چھ تہندلو آرزویو مطابق (سیدن وول) تہ
نہ اہل کتابن ہندلو آرزویو مطابق - (بلکہ ایس
شخص کاشہ ہیکہ کر تہس یہ تہمی مطابق بدلہ
دینو تہ سہ ہیکہ تہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی
کاشہ پین دوست لبتھ تہ نہ مددگار۔

تہ ہم لوکھ، ادر مرد ستن یا زنانہ، مؤمن
آستہ کس حالتس منز نیک کامہ کرن، تم
سیدن جناس منز داخل تہ تمہن پٹھہ پیہ تہ
کھنڈر آنچہ ہند ترہ نیک اوت (تہ) ظلم کرنہ۔

بیہ تہس شخصہ ہند کھوتہ ہاد کتھ دین چھ
رت داستھ ہیکان ؟ ہینو ہاد رتی پٹھو
ہل کران پین پان اللہ (تعالیٰ) ہس سوالہ
کھوتہ آستہ تہ ابراہیم ہند دینچ پاروی (اختیار)
کر ہنڈر آستہ، ایس سلامتی سان پین وول
تہ اللہ (تعالیٰ) ہن اوس ابراہیم (پین) خال
دوست بنومت۔

بیہ یہ کثیرھا آسمان منز چھ تہ یہ کثیرھا
زمینہ منز چھ، (سورے) چھ اللہ (تعالیٰ)
سندے، تہ اللہ (تعالیٰ) چھ پرچھ (کتبہ)
چیزک پوزر پوزر علم تھاوان۔

بیہ بھی لوکھ تہیہ (اگر کھوتہ ہاد) زنانہ
(نکاح) متعلق (حکم) دریافت کران۔ ترون
(تمہیں) اللہ (تعالیٰ) ہن چھ توہم تمہیں
متعلق اجازت دہیت تہ یہ توہم (تہ) کتابہ
منز (ہیں جایہ) پڑھہ بوزانہ آمت چھو
سہ چھ تمہیں ہین زنانہ متعلق ہیکہ تہ

بِالْقِسْطِ، وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۱۸﴾

تو ہی تہ بند کر کے مقرر کر کے آہستہ حق ادا کران چھو
مگر جس سستی چھو نکاح کرن بیٹھان۔
تہ (بیہ) چھہ کمزورہ کورین متعلق، بیہ
(اومو تو ہی یہ حکم دینہ آمت) نہ یقین سستی
رؤزہ انصافک معاملہ کران تہ یوسہ نیک کام
تہ تو ہی کرو (یاد تھوؤ نہ) اللہ (تعالیٰ) چھہ
تہ زبیر پاٹھو زانان۔

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ
إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَإِنْ
أُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ، وَإِنْ
تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۱۹﴾

بیہ ہر گاہ کا نسہ زنا نہ پستس خواندہ سید طرفہ
کھو چرک یا نا پیرسانی ہند اندیشہ آسہ تہ تم
دو ذوقی چھہ کا نہ گمانہ نہ تم کرن گنہ طرفہ سٹی
پانہ وانی صلح، تہ صلح چھہ (سار و پے کھوتہ)
بیہتر، تہ لوکن ہندین نفس منتر چھہ بخل
(کرنک خیال) پاؤ کر کے آمت۔ بیہ اگر تو ہی
نیک کامہ کرو تہ تقویٰ پراوو اڈ (یاد تھوؤ
نہ) یہ تو ہی کران چھو تمہ انتہہ چھہ اللہ (تعالیٰ)
پری پاٹھو خبردار۔

وَلَنْ تَسْتَظِيحُوا أَنْ تَحْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلَا تَوِيلُوا كَلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۲۰﴾

بیہ یوڈ وے تو ہی (عدل کر بیچ کا ترازہ تہ)
خا ہش کرو۔ تو ہی ہیکو تہ زنانہ درمیان
(تو تہ) عدل کر تھہ۔ لہذا تو ہی مہ کرو (پکل
اگر ہے کن) جاد مال (تیمیک نتیجہ یہ نیر)
نہ سو (دویم) بیہ مضر باگ او زانہ (چیرک)
پاٹھو تراونہ، تہ اگر تو ہی (پانہ وانی) صلح
صلح تہ کرو تہ تقویٰ پراوو تہ (یاد تھوؤ نہ)
اللہ (تعالیٰ) چھہ بے شک بخش وول (تہ)
چھیری چھیری رحم کرن وول۔

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ
سَعْيِهِ، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿۲۱﴾

تہ ہر گاہ تم (دھوے) اگہ اگہ نش الگ نیک
تہ اللہ (تعالیٰ) بناؤ (تمو منتر) پر تھہ اگہ

۱۸ یعنی بیہ کورین متعلق یمن ہر کا نہ پتہ بروٹھ تہ پراسان کرن وول آسہ۔
۱۹ یعنی پانہ وانی ہشریو یا مزار رل نو۔

پسند طرفہ سبب کڑھ آسودہ حال تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ وسعت دینہ وول (تہ) حکمتہ وول۔

بہ یہ کیشہا آسمان منتر چھ تہ یہ کیشہا زمینیہ
منتر چھ (سورے) چھ اللہ (تعالیٰ) سندس
تہ بھین لوکن توہہ بروٹھ کتاب دینہ آسہتر
اس، اسہ چھ بھن (تہ) تہ توہہ تہ تاکیری
حکم دینتہ نہ توہہ پراوو اللہ (تعالیٰ) سند
تقویٰ، تہ ہرگاہ توہی انکار کرو تہ (یاد تھوو
نہ) یہ کیشہا آسمان منتر چھ تہ یہ کیشہا
زمینیہ منتر چھ (تہ سورے) چھ اللہ (تعالیٰ)
سندس۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ بے نیاز تہ
بے شمار تعریف ہند حقدار۔

بہ یہ کیشہا آسمان منتر چھ تہ یہ کیشہا
زمینیہ منتر چھ (تہ سورے) چھ اللہ (تعالیٰ)
سندس۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ پرہہ کاہہ
ضروری سفاقت کرن وول۔

اے لوگو! اگر سہ بیٹھ تہ توہہ مارو تہ
بہین ولوکن، ابنہ، تہ اللہ (تعالیٰ) چھ آھہ
(کتھہ) پیٹھ (پوڑ) پوڑ قومرت تھاون۔
یس شخصیں دنیاہک بدلہ بیٹھان آسہ، اہ
(سہ بوزن نہ) اللہ (تعالیٰ) ہس ریش چھ
دنیاہک (تہ) تہ آخرتکی (تہ) وہ لوئی قسمن
ہندر (انعام تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سبھ
بوزن وول (تہ) وچھن وول۔

اے ایماندارو! توہی بھو پوڑ پاٹھ انقاس
پیٹھ تقایم روزن واول (تہ) اللہ (تعالیٰ) ہند
خاطرہ گواہی دینہ واول۔ ہرگاہ (تہنتر گواہی) توہہ
پانس (نہات) یا ماس ماجہ یا نزدیک انسان
خلاف (تہ گڑھان) آسہ۔ ہرگاہ (سہ) یس
خلاف گواہی دینہ آسہتر چھیہ (مادار آسہ یا

وَاللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ، وَ
لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰذْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اتَّقُوْا اللّٰهَ ، وَاِنْ
تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ ، وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿۱۹﴾

وَاللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ، وَ
كَفِيْ بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ﴿۲۰﴾

اِنْ يَشَآءْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ
بِاٰخَرِيْنَ ، وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿۲۱﴾

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ
ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَكَانَ اللّٰهُ
سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿۲۲﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوَالُوِ الرِّدِّيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ، اِنْ
يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ اَوْلىٰ بِهَمَّكَ
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ، وَاِنْ
تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا

۱۹
۲۰
۲۱
۲۲

تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿۱۷﴾

محتاج آسہ تہ اللہ (تعالیٰ) پیچھ (دو توفی صورتن منتر تہند کھوتہ) جاوہ یکن دو توفی ہندرت بیہترہ ون۔ او کھو مس آسو توہر کتہ ڈہیل) خاہتر ہنتر پاروی کران۔ پیچھ زن توہر عدل کرٹھ ہیکو تہ ہر گاہ توہر (کاہنہ شہادت) کھٹو یا (پوز ونہر نشہ) مسرو کھور پیچھ تہ (یاد تھاووہر) یہ کینترھا توہر کران پیچھ اللہ (تعالیٰ) پیچھ یقینا تمہ نشہ آگاہ۔

اسے ایماندارو! ایمان ابو اللہ (تعالیٰ) ہس پیچھ تہ تہندرس رسولس پیچھ تہ تہہ کتابہ پیچھ یوہ سو محو پستہس رسولس پیچھ نازل کر مہتر چھینہ، بیہ تہہ کتابہ پیچھ یوہ سو محو (امیر) بروٹھ نازل کر مہتر چھینہ۔ تہ یس شخصس اللہ (تعالیٰ) ہس تہ تہندرن ملائکن تہ تہندرن کتابن تہ تہندرن رسولن تہ پلوتس پیسہ وائس دہ ہس انکار کر، تہ (زبانوز) مس پیچھ حد حیر چہ محمراہی منتر ہینہ امت۔

یکو لو کو ایمان اولن پتہ کورکھ انکار۔ بیہ اوکھ ایمان تہ بیہ کورکھ انکار، پتہ گے کفرس منتر (بیہ من تہ) بڑان، اللہ (تعالیٰ) کر تہ ہرگز جنم معاف تہ نہ تاوتن (نجات) وٹھ۔

تہ بوز ناوکھ مناقق (پہ) خبر نہ تہندہ خاطر چھ کر لوٹھ عذاب (مقدر)۔

یم مؤمن تراوتھ کافرن دوست بناون چھ کیا تم چھا جنم نش عجز کی خاہستہ؛ اگر شہہ کتھ چھینہ (تیلہ) تھون تم یاد نہ عزت پیچھ (سر) سألیم اللہ (تعالیٰ) ہندہ ہے اکتس منتر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۱۷﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا أَذْأَدَٰ ذَا كَفَرُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُفْرِكَهُمْ وَلَا يُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿۱۷﴾

بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَتَّخِذُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿۱۷﴾

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا
 سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ
 يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَعْبُدُوا مَا لَهُمْ حِشْيٌ
 يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا
 مِثْلُهُمْ، إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَ
 الْكُفْرَيْنِ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٠﴾

بیمہ چھ تھو توہمہ پیٹھ پتھ کتابہ اندر یہ
 (حکم) نازل کریتھ تھومت نہ سئلہ توہمہ
 اللہ (تعالے) بندہن آین متعلق انکارک
 اظہار بوزو یا بنمن (آین) سوتو ہزل کرتہ
 یوان بوزو تہ تمن (مخولہ کن والہن) سترہ مہ
 بہو۔ (توت تانی) یوت تانی تم تمہ وراہی بیمہ
 کتہ کتھ مشر آوری گرتھن ہن)۔ توہمہ آسو
 تھہ (مخولہ بازن ہنش بہنہ کس) صورتس مشر
 بے شک ستنہ ہوک (زانتہ ہنہ والی)۔ اللہ
 (تعالے) روز بے شک منافقن تہ کافرین
 سارنہ جہنمیس مشر جمع کریتھ۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرِهِمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 فَتْرَةٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَذُ
 لِّمْ كَانُوا لِلْكَافِرِينَ نَصِيبًا، قَالُوا أَلَمْ
 نَسْتَحِذْكُمْ عَلَيْهِمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ، وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١١﴾

(ہمن منافقن) ایم تہنہ حقہ تباہی باچتھ
 پیار وئی روزان چھ، تہ ہرگاہ توہمہ اللہ
 (تعالے) بندہ طرفہ کانہن فتح (حاصل) سپہ
 و تہ (توہمہ) چھو ونان تر کیا اسی اسی
 نا توہمہ سوتو؛ تہ اگر کافرین (کامیابی ہنہ)
 کانہن حصہ میلہ اہ (ہمن) چھو ونان تر کیا
 اسی آیایہ تاہ توہمہ پیٹھ غالب؛ تہ (اسہ)
 بچاوسے و (نا) توہمہ مؤمنن نشہ؛ لہذا
 کہ اللہ (تعالے) توہمہ درمیان قیامتہ دوہم
 فاصلہ۔ بیمہ وہ نہ اللہ (تعالے) ہرگز کافرین
 مؤمنن پیٹھ غلبہ۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ
 خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا
 كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ
 اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٢﴾

منافق چھ یقینا اللہ (تعالے) ہس دوکھہ
 دین بہترھان۔ تہ سہ وہہ ہمن تہنہ دوکھک
 سزا۔ بیمہ سئلہ تم نماز کن گرتھنہ باچتھ
 استاد سپان چھ تہ کابل سان چھ استاد
 سپان ہم چھ لوکن اوان تہ اللہ (تعالے) ہس چھ کئے یاد کران۔
 ہمن ہنتر حالت چھیہ (یاد خلیس تہ غفلتس)
 مشر باگ آسان۔ نہ چھ تم ہمکن (مؤمنن)
 سوتو تہ نہ چھ تم ہمن (کافرین) سترہ۔

مَذْبَذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ إِلَى هَؤُلَاءِ وَ
 إِلَى هَؤُلَاءِ، وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ
 لَهُ سَبِيلًا ﴿١٣﴾

تہ نیکس اللہ (تعالیٰ) ہلاک کر تہ لیکھ تہ
تہند خا طہر ہرگز (بخاریج) کا تہہ و تہہ -
اسے ایماندارو! مؤمن تہڑو تہہ مسہ بنا و لوکھ
کا بفر (پنہی) دوست۔ کیا تو ہی چھو بیترہان
ز اللہ (تعالیٰ) ہس دیو پانس خلاف نہہ
(وانہ) الزامک (یعنی الزام دیک) موقعہ؟

منافق آسن یقیناً جہنمہ کس سنورس مشر
سارہ وہے کھو تہ تلہ کہہ کس حسس مشر تہ
تہو لیم ہن تہ ہرگز (کا تہہ) تہہند مدگار۔
جمو لوکو ورا ہی یو تو ہی کوڑ تہ اصلاح کوڑو کھ
تہ اللہ (تعالیٰ) ہند موی بیترہاکھ (پنہی)
حفاظت، تہ پنہی عبادت کرکھ خالص اللہ
(تعالیٰ) ہند باپتہ۔ اہیم لوکھ چھ مؤمن
مشر شامل تہ اللہ (تعالیٰ) دیہ مؤمن
منقریب بوڑا ہر۔

ہرگاہ تو ہی شکر کرو تہ ایمان اہو، تیلہ کیا
کر اللہ (تعالیٰ) توہہ عذاب و تہہ؟ تہ
اللہ (تعالیٰ) ہے) چھ قدر دان تہ سہا
زان وول۔

اللہ (تعالیٰ) چھنہ ناکار کھہ ظاہر کرنی
پند کران وہہ کوڑو نیس پیدھ ظلم کرنہ
آمت اسہ (سہ ہیکہ تمہ ظلمک اظہار کرکھہ)
تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سہا بوزن وول
(تہ) زبر پاتھو زان وول۔

اگر تو ہی کا تہہ نیکی نئی کرلو یا سمہ کھو
یا (کا تہہ ہنر) یدی معاف کرو اہ (زانونہ)
اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً سہا معاف کرن
وول (تہ) سہا تمہ درتہ وول۔

ہیم لوکھ اللہ (تعالیٰ) ہس تہ تہہدہن
رسولن انکار کران چھ بیہ چھ اللہ (تعالیٰ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ
سُلْطَانًا مُبِينًا ۝

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّرِّ الْأَسْفَلِ مِنَ
النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا
بِاللَّهِ وَآخَلَصُوا لَهُمْ يَتْلُو فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ
الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ
أَمْنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۝

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّؤْمِ مِنَ
الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ
سَمِيعًا عَلِيمًا ۝

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَخْفُوا
عَنْ سُوءِ قَاتِ اللَّهِ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ۝

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
يُرِيدُونَ أَنْ يُفْسِدُوا بَيْنَ اللَّهِ

وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿۱۳۶﴾

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿۱۳۷﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿۱۳۸﴾

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الضُّعْفَةُ بِظُلْمِهِمْ، ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذٰلِكَ، وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿۱۳۹﴾

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، وَآخِذُوا مِن مِّنْهُم مِّثْقَالَ عَلِيَّةٍ ﴿۱۴۰﴾

ہمس تہ تسدین رسولن در میان فرقی کرنی میسرھان تو بیمہ چھہ وانان ز اسی مانوگھ کیہنہ (رسول) تہ کینشن کرو اکار بیمہ چھہ میسرھان را اگھہ در میان (در میان) پانناوو کانہہ و تھاہہ۔ تم لوگھ چھہ پلو تھہ کافر تہ اسہ چھہ کافرین ہنہہ خاطر رسوا کرن وول عذاب تیار کورمت

بیمہ بیحو لوگو اللہ (تعالیٰ) ہمس تہ تسدین (سارنے) رسولن پیٹھ ایمان اون تہ تمو کرو نہہ تمو (رسولو) منتر کانسہ اوس منتر (تہ) فرقی۔ تم لوگھ چھہ تھو ز سہ وہہ رتمن جلد تہندک اجہ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ سہوا

بجشن ہار (تہ) چھہرک چھہرک رحم کرن وول اہل کتاب چھی تریہ مطالبہ کرن ز تہ کرکھ تمن پیٹھ آسمانہ پیٹھ اگھ کتاب نازل اگھہ پیٹھ مہ کر تہ تعجب) تہ کیا ز تمو کروو موسیٰ ہمس امہ کھو تہ تہ بوڈ مطالبہ۔ تمو و نیاوتس ز تہ بلون اسہ اللہ (تعالیٰ) تہ پانٹھو، اجہ تم رڈ تہندک ظلمہ کہہ باعہتہ ہلاک کرن واکل عذابن تہ تمو ہنو اگھہ ووترھ (پنن معبود)، سبیلہ زن تمن ہش تنی (تنی) نشانہ آہتر اسی، پتہ کور اسہ امہ (قفسوہ) نشہ (تہ) درگذر تہ اسہ دیت موسیٰ ہمس نہہ وانہ علیہ۔

بیمہ تھز روو اسہ تمن پیٹھ پلو تھہ عہد ہوان طورہ تہ اسہ وون تمن ز بیمہ دروازہ اترو پلور فرمانبروری سان۔ بیمہ وون اسہ تمن (بیتہ) ز سبتس (یعنے سبتہ کس معالس)

لہ عربی محاورہ مطابق چھہ امیک معنی یہ تہ اسہ بی بنی اسرائیل طور پہاڑ کس
دائیں تل بیتھ بروٹھ کتہ کوہ طور اساد اول۔

مشرکوں کو بھادتی ہے، بیعت اور عہد کے
پہلوئے عہد۔

پتہ تہند بنی عہد پھڑاوتہ (کہ باعث) تہ جن
ہند اللہ (تعالیٰ) ہندین آین انکار کرنے، تہ
تہنرو ہنگہ منگہ نسین قبل کر پھو کوششو
(ہند سبب) تہ یہ (کہتہ) ونہہ موکھ ز سادی
دل چھ پردن اندر۔ (پردن اندر) نہ بلکہ چھ
اللہ (تعالیٰ) ہن تہند کفر موکھ ہمن (ہندین)
دن پیٹھ مہر کر مشر او کئی چھنہ تم بلکل ایمان
انان۔

بہ تہند کفر (موکھ) تہ تہند سرکس
(اکھ سبھا) بڑ توہمت لاکھ تھوہ موکھ۔

بہ تہند (یہ کہتہ) ونہہ موکھ ز اللہ (تعالیٰ) اندر رسول
مسیح عیسیٰ ابن مریم کورسہ شیک قبل (چھ تہن یہ سرائیوت)
بیلہ زن تھونہ کورسہ قبل تہ نہ مورکھ صلیبس پیٹھ
کھا تھہ بلکہ یہ معاطرہ او تہند باپتہ مشتبہ کرنے تہ
یو لوگو اللہ منتر اختلاف کورسہ چھ تم چھ بزرگ
پاٹھو (اللہ متعلق پانہ) شمس منتر۔ تہ ہمن
چھنہ اللہ متعلق کا تہہ تہ پڑھ وول علم۔ ہم چھ
محض خیالی کہن پتہ لگے ہو تہ تھو کور نہ نہ
ہرز قبل۔

حقیقت چھنہ یہ نہ اللہ (تعالیٰ) ہن دیت تس
پتس دربار منتر جزیک تھنر سکیان اللہ
(تعالیٰ) چھ غلبہ وول (تہ) حکمتہ وول۔
اہل کتابو اندر آسہ نہ اکھ تہ یس اللہ (واقص)
پیٹھ پنہ مرنہ بروٹھ ایمان روز نہ انان۔ تہ
سہ آسہ قیامتہ دوہہ تھن پیٹھ گواہ۔

لہذا (تہ) ظلمہ کہ باعث یس یہودی ہند طرفہ
(ظاہر سید) کرے اور ہمن پیٹھ حرام تم صاف

فَمَا تَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَانًا لَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
بِأَيْتِ اللَّهِ وَتَقْلِبُهُمْ فِي الْآيَاتِ بَعْضٌ
حَقِّ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ
اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا
قَلِيلًا ﴿٣٧﴾

وَ يَكْفُرُهُمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلَى مَذْيَمٍ
بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿٣٨﴾

وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ
مَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنْ
الَّذِينَ اختلفوا فيه لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ
مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَ
مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿٣٩﴾

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿٤٠﴾

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَأَلْيَوْمَانِ بِهِ
قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

فَيُظْلَمُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا
عَلَيْهِمْ طَبِيعَتِ أَجَلَتْ لَهُمْ وَ بَصَدَهُمْ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۝

تہ پاک چینہ یکم (گوٹو) تہندہ خاطر حلال اسی
کرتہ آوتو تہ (بیہ) اللہ (تعالیٰ) ہنتر
وتہ نش واریا من باز تھونہ موکھ (میول ہن
یہ سزا)

بیہ تہندہ سووی کار بار کرتہ کہ باعیتہ تہ ، نیکی
زن تم تمہہ ہنتر منع کرتہ آوتو اسی - (بیہ)
لوکن ہندو مال ناحقہ کھپتہ کہ سببہ (میول
ہنن یہ سزا) تہ اسہ پھہ تمو مفر کافر
ہندہ باپتہ کرلوٹھ عذاب تیار کورتہ۔

ووفی گوڈ کیو (میہودئی) اندر یکم لوکھ غلمس
اندہ پو ختہ چھہ ہنتم تہ (بیہ) مؤمن (مسلمان) تہ
چھہ اپان انان ہنتمہ (الہی کلاس) پیٹھہ یہ تریہ
پیٹھہ تارل کرتہ آمت چھہ تہ یہ کیشترھا) تریہ بروٹھہ تارل
کرتہ آمت اوس تہ (خاص کرتہ) نمازٹھیک پاتھو پر
والین تہ زکوٰۃ ذبہ والین تہ اللہ (تعالیٰ) ہس
پیٹھہ تہ پتہ پتہ واپس دوہس پیٹھہ اپان ان
والین (لوکن) دو اسی ضرور (سدھا) بوڈ اجر۔

یقیناً اسہ چھینہ تریہ پیٹھہ (تہ) وحی (تارل)
کرتہ ہنتر ہنتمہ پاتھو اسہ نواص تہ تس پتہ (بین)
نسین پیٹھہ وحی (تارل) کرتہ ہنتر اسی بیہ اسی
ابراہیمس تہ اسماعیلس تہ اسماعیلس تہ یعقوبس
تہ (تندن) اولادن بیہ عیسیٰ ہس تہ یونس
تہ یونس تہ تارلس تہ سلیمانس پیٹھہ (تہ)
وحی (تارل) کرتہ ہنتر - بیہ ذریہ اسہ داوودس
(تہ) اکھ کتاب۔

بیہ چھہ کہو یارسول تھو یمن ہنتر خبر اسہ
(امر) بروٹھہ ڈر ہنتر چھہ - تہ کہو یارسول
چھہ تھو یمن ہند اسہ تریہ نش (کاہنہ) ذکر
کورتہ - تہ اللہ (تعالیٰ) ہن کر یاو موسیٰ

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

لَكِن الرَّاٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ
المُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ
وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ
الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الرِّكْوَةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ اُدْلِيْكَ
سَنُوْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

۲۲
۲۱

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى
نُوحٍ وَ التَّيْمِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ ۝ وَ أَوْحَيْنَا
إِلَى إِبْرٰهِيْمَ وَ إِسْمٰعِيْلَ وَ إِسْحٰقَ وَ
يَعْقُوْبَ وَ الْإِسْبٰطَ وَ عِيْسَى وَ أَيُّوْبَ وَ
يُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ وَ سُلَيْمٰنَ ۝ وَ آتَيْنَا
دَاوُدَ رِبُوْدًا ۝

وَدُسْلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ
قَبْلَ وَ دُسْلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيْمًا ۝

ہیں سب سے سیدھا بیان پانچویں کلام۔
اسے سوزا یہ تم (یعنی موسیٰ) ہیں سب سے ذکر کرنے
آہستی رسول (خوشخبر دینہ والی تہ خبردار کن والی
رسول بناؤ تہ ، سیتھ زن جن رسولن ہند (ظاہر
سیدہ) پتہ اللہ (تعالیٰ) ، ہس پیچھ لوکن ہند
کا نہہ الزام روز ہے تہ ، تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ غالب (تہ) حکمتہ وول۔

وہ فی گوو اللہ (تعالیٰ) چھ گواہی دیوان تمہ
کلامہ دس یہ تمہ شریہ پیچھ تازل کورمت چھ
نہ تمہ چھ یہ سنس عا مس پیچھ مستہل
کر تہ تازل کورمت ، تہ ملا یک (تہ) چھ گواہی
دیوان تہ اللہ (تعالیٰ) سوز گواہی چھ
سار و بے کھوتہ بالا۔

یو کفر یہ رو مت چھ تہ اللہ (تعالیٰ) سوز و تہ
تہ چھ لوکہ ٹھا کتا ورتہ تہ تم بھ بے شک
بڑ پارک گمراہ۔

یو کفر یہ رو مت چھ تہ ظلم چھ کورمت اللہ
(تعالیٰ) ہیکہ نہ تمہ ہرگز بھتہ تہ نہ ہیکہ
جہنم چہ و تہ وراے کا نہ و تہ تاوتہ۔

تم مرتضیٰ تہ مشر ا بکس (ز پٹس) مدتس تام
روزان تہ یہ کہتہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہند با پتہ سہل
اے لوکہ ! یہ رسول چھ تہ ہندس پروردگار ہند طرف
توہر نش حق ہیتہ امت او کہی ا نو توہر اہسان۔
تہند خاطر آسہ ہر تہ تہ مگر توہر انکار کرو، اہ
(یاد تھو ز) یہ کین شرا آسان تہ زمینہ اند
چھ تہ چھ یقینا اللہ (تعالیٰ) سندے۔ تہ اللہ
(تعالیٰ) چھ سیدھا زبان وول (تہ) حکمتہ وول۔

اے اہل کتاب ! توہر مہ ہینو پنس دپس
(یعنی دینہ کس معاملس) مشر مبالغس کام بیہ

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ لئَلَّا
يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ
الرُّسُلِ، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۳۱﴾

لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ
أَنْزَلَهُ يَعْلَمُهُ ذَا الْمَلَكَةِ
يَشْهَدُونَ، وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۳۱﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ صَدُّوا عَن سَبِيلِ
اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۳۱﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ
اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
طَرِيقًا ﴿۳۱﴾

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۳۱﴾

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمُ الرُّسُولُ
بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ
وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ، وَ كَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۳۱﴾

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، إِنَّمَا

میرا رسول اللہ (تعالیٰ) ہنس متعلق پتھر کھینچ
 ورائے (دیکھتی) وہاں۔ مسیح ابن مریم اوس
 اللہ (تعالیٰ) سُنَد صرف (اللہ) رسولِ بے تہنہ
 (اللہ) بشارتِ یوسف تمہو مریمس پیٹھ نمازل کرنا
 بے اوس تہنہ طرفہ اللہ رحمت، اوجو اُتو تو
 اللہ (تعالیٰ) ہنس (پیٹھ) تہ تہنہ سارہ
 رسولن پیٹھ ایمان تہ (بیٹھ کئی) مہ وُوفو نہ
 (خدا) چھ تہنہ (امر کھینچ نشہ) بیو باز (بہ) آسہ
 تہنہ خا طر سہا رت۔ اللہ (تعالیٰ) ہے
 چھ کئی معبود، مہ چھ (امر کھینچ نشہ) پاک نہ
 نس آسہ اولاد۔ یہ کئیہا آسمان تہ زمین مشر
 چھ (تہ سورے) چھ تہنہ۔ تہ اللہ (تعالیٰ)
 ہنہ حفاظت پتہ پتہ بے کالہ ہنہ حفاظت ضرور
 مسچس مہ نہ ہرگز یہ (کھت) بمر نہ مہ (بہ)
 اللہ (تعالیٰ) سُنَد اللہ بندہ زانہ) تہ نہ لگہ مقرب
 ملائکین (یہ بمر) تہ مین (لوکن) تہنہ (خدا
 تعالیٰ ہنہ) عبادت کئی عار گزہ تہ تکبیر کرن
 سہ (یعنی خدا تعالیٰ) سہ ہراو ہنہ سارہ ضرور
 پتہس دربارس مشر۔

ادیم لوکھ مؤمن آسہ تہ تموا سہ نیک (تہ ایمان
 کہ حالہ مطابق) عملہ کر مشر ہنہ دیہ سہ تہنہ
 یوہ پوہ بدلہ تہ پتہ فتنہ سوتی دیہ ہنہ (بہ
 ہنہ) جاہ تہ مین لوکن عار گیاو تہ کبر کرنا
 ہنہ دیہ سہ کر لوٹھ عذاب تہ تم لین تہ اللہ (تعالیٰ)
 ہنس ورائے (کائناتی) پتہ دوست تہ مددگار۔

اے لوگو! توہہ ہنس چھ تہنہس پروردگار ہنہ
 طرفہ اللہ نئی ڈیل آہنہ۔ تہ اسہ چھ توہہ کن اللہ
 پر بڑوں نور نمازل کوڑمت۔

لہذا یو لوگو اللہ (تعالیٰ) ہنس پیٹھ ایمان اونمت
 چھ تہ تمہ دسی چھ (تمو پتہ) بجاو کوڑمت ہنہ

الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلًا
 اللّٰهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَوْلُ الَّذِي مَزَّيْمَةٌ وَّرُوْمٌ
 مِّنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِۦ ۗ وَّ لَا
 تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۚ اِنْتَهُمْ اٰخِرًا لَّكُمْ
 اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَہٗ اَنْ
 يَّكُوْنَ لَہٗ وَاٰلَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ ۚ
 وَّ مَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَاَكْفِیْ بِاللّٰهِ وَاٰخِرًا ۝۱۴۰

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُوْنَ
 عَبْدًا لِلّٰهِ وَاَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ
 وَاَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَا
 يَسْتَكْبِرُ فَسِيَحْشُرْهُمْ رَآٰيَهُ
 جَمِيْعًا ۝۱۴۰

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
 فَيُوَفِّيهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ
 فَضْلِهِۦ ۗ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اَسْتَنْكَفُوْا
 اَسْتَكْبَرُوْا فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا
 وَّ لَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ دَلِيْلًا
 وَّ لَا نَصِيْرًا ۝۱۴۰

يَآٰيَهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهٰنٌ
 مِّنْ رَبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا لَكُمْ نُورًا مِّمَّنَّا ۝۱۴۰

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوْا بِهٖ
 فَسَيُزِيْدُهُمْ فِى رَحْمَةِ مِّنْهُ وَاَفْضَلًا

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿۳۱﴾

کریم ضرور پستہ میں جس بجز رحمت تو نہیں
نفلس مشر و انہل تو جن ہو پاس کن بیہ
واجب الہ سیز و تھ۔

يَسْتَفْتُونَكَ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلِمَةِ، إِنْ أَمْرٌ أ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَ لَدٌ
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ
مِمَّا تَرَكَ، وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً
رَجَاؤًا وَ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
تَضِلُّوا، وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

تم چھی تریہ (اکر قسم کس " کلام " ہس متعلق)
قوی پر ترهان ، تر ونگھ اللہ (تعالیٰ) چھو
توہ (تجسس) کلاس متعلق حکم بوڑ ناوان ۔
ہر گاہ کا نہہ تیبہ شخص مر ز تن آسہ نہ اولاد
تہ تن آسہ الہ بیہ اد یہ کیٹھا تمو پتھ کن
ترومت آسہ تمیک نصف چھ تہند (یعنے تنس
بیہ ہند) تہ اگر (سہ بیہ مر تہ) تنس آسہ
نہ اولاد تہ سہ (تہند بوسے) آسہ تہند (یعنے
تہند ساری تر کگ) وارث تہ ہر گاہ نہ بیہ
آسن تہ یہ کیٹھا تمو (بائی) پھکن ترومت
آسہ تمکو تریو مشر نہ حصہ چھ تہندک ، تہ اگر
تم (وارث) بائی بیہ آسن ، مرد (تہ) تہ زنانہ
(تہ) تہ (تمو مشر) آسہ مرد ہند (حصہ) دون
زنان ہندن حصن برابر ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ تہند باہتھ
(میر کتھ) بیان کران ۔ او کو تہ تہ تہ تہ تہ تہ
گتھو تہ اللہ (تعالیٰ) چھ پر پتھ کا نہہ کتھ
جان پٹھو زنانہ ۔



سُورَةُ مَائِدَةٍ، يه سُورَه چھ مدنی تہ بسم اللہ ہوتے چھ اٹھ لکھ ہتھ تہ اکوہ آپہ بیچس شرکہ کرنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

(ہر چھس) اللہ (تعالے) سندا تاو ہتھ (پران) میں صبر رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیری پھیری رحم کرن وول چھ۔

اے ایماندارو! پیڑی اقرار کرو توہر۔ تہنہد باچھ چھ (گھاسہ خور) چارواہی حلال قرار دنہ آہر تہو وراہی پھتہ توہر (قرآنس منتر) پڑھ بوز ناوہن پیسہ، شرط چھ یہ نہ توہر نا توہر (امہ اجازتہ کتہ) اجرامہ کس حالتس منتر شکار کرن جائزہ بیشک اللہ (تعالے) یہ بیڑھان چھ (تہ) چھ قہلہ کرن۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذُوا بِالْحُقُودِ ۖ إِنَّكُمْ لَكُم بِهَيْمَةٍ الْآتَعَا وَلَا مَا يَثُلُ عَلَيْكُمْ غَيْرُ مَجْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُم مَّا يُرِيدُ ①

اے ایماندارو! اللہ (تعالے) ہندہن (مقرر کرکے متہن) ہتھن ہنر بے حرمتی مہ کرو، تہ نہ حرمتہ والہ رہتہ تہ نہ (حرمت کون ہنر ہنر واجہتا قربانی) ہندہن جانوں) ہنر تہ نہ (ترہن قربانی ہنر) میں حرمت منتر ذبح کرہ باچھ ہتھانہ کبہ ہنر مالہ تالی تراوتہ آسن، تہ نہ کرو بیت الحرامس کون ہنر من واپن لوکن (ہنر بے حرمتی) ہم پسنس ربہ سندا فضیل تہ رضا تھانڈان چھ۔ تہ بیڑھ توہر اجرام کھولو ادر کرو (بے شک) شکار تہ کہ توہر (توہر سقہ) عداوت نہ توہر آس و توہر مسجد حرامہ ہتھ چھ رٹی ہتھ، گوڑھ و تہ توہر ہتھ کتھ پیچھ آماد کرن نہ توہر تہ کرو جادئی۔ توہر کرو میکی تہ تقوی (چھن کاہن) منتر بانہ واکہ (اکہ اکہ سندا) مدد تہ گوناہ تہ جادئی (ہنر کتھن) منتر مہ مسو (اکہ اکہ) مدد کران۔ تہ اللہ (تعالے)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذْ حَلَلْتُمْ قَاضِيًا وَرِثَةً يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَلَّ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبَيْتِ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②

سند تقویٰ پیرا و تہ اللہ (تعالیٰ) سند سزا چھ
یقیناً سخت آسان)۔

تو ہم پیٹھ چھ حرام کرنے آمت مردار، تہ رتھ تہ
سور باز تہ سہ (جانور) یس پیٹھ اللہ (تعالیٰ)
سند ورائی (بیہ کالنبہ ہند) ناو ہتہ آمت آسرا
بیہ ہڑت چیرہ سوتی موڈمت یا کتہ مؤنڈ اوزار
کر چھوکر سوتی موڈمت بیہ تھنر پیٹھ پیٹھ موڈمت
بیہ ہینگ ٹھکنہ بیہ سوتی موڈمت (جس نور)
تہ یس (کالنبہ) ڈرنڈن کھیومت آسہ، تجھس
ورائی تیسس تو ہم (سرنہ بروٹھ) کش کورمت
آسہ و۔ بیہ یس (جانور) کتہ دلوی دیوتا سرنہ
استھانس پیٹھ ذبح کرنے آسہ آمت چھ حرام کرنے
آمت۔ بیہ زار کھو) تہرو سوتی حصہ معلوم کرن (تہ
چھ حرام) ہرھ کام کرنی چھیہ نافرمائی (سوتی
مچرا)۔ یک لاکھ کافر چھ ہم چھ از تہند دینہ
(کرنقصان واتنا ونہ) ہتہ ناوہ مید گاہتہ۔ او
کئی مہ کھوترو تو ہی تھن تہ مینہ کھوترو۔ از چھ
میہ تہند (قاید) خاطر تہند دین کھل کورمت
تہ تو ہم پیٹھ چھ پنن احسان پور کورمت تہ تہند
خاطر چھیم اسلام بطور دین پسند کورمت۔ وہ ذی
گوو یس شخصس بھ چھ (ہندس حالتس) مشنر
مجبور سپر تہ سہ آسہ نہ گوہ نہ ہس کن بیل گڑھن
وول (تہ حرام چیرہ و مشنر کھنیہ کینہ) اد (یاد
تھوو) نہ اللہ (تعالیٰ) پیٹھ یقیناً (مجبوری
ہنن فطیلین ہند) سبھا بخش ہار (تہ) چھیر
چھیر۔ رحم کرن وول۔

تہ یہ چھی مسلمان پیر تھان نہ تہند با چھ کیا
چھ حلال کرنے آمت؟ تہ واکھ نہ تہند با چھ
چھ (ساری) طیبہ چھ حلال کرنے آمت۔ تہ

حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ
الْخَنِزِيرَ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ
الْمُنْحَنِقَةَ وَالْمَوْقُودَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ
وَالتَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَكْفُرُ الْكُفْرُ الْأَمِينُ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
إِلَيْهَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحَلَّ
لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تَعْلَمُونَ لَهُنَّ وَمَا

عَلَيْكُمْ اللَّهُ ذِكْرًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَالِمًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑤

(بے) شکرارک بجا توہو مشریم توہو شکرارک طریقہ
 پہنچنا توہو سوک کر لوکھ، ہیکار توہو چھو کہ تم تہ
 (علمی) یہ پہنچنا وان لیس اللہ (تعالیٰ) ہن
 توہو پہنچنومت چھو تہ لیس (شکرار) تم تہند
 باچہ رُتھتھ تھوان تمہ اندر کھنوی تہ تھہ پیٹھ
 اُسو اللہ (تعالیٰ) سُنڈ ناو ہوان تہ اللہ
 (تعالیٰ) سُنڈ تقویٰ پسر اوو۔ اللہ (تعالیٰ) چھ
 یقیناً جملہ حساب ہنہ وول۔

از چھ توہو کتو ساری پکیز چہر حلال کرنہ آہتر تہ
 تہند باچہ چھ حلال تہند (رونت) کھن یکن
 کتاب دہہ آہتر اُس تہ تہند (رونت) چھ
 تہن کیت حلال۔ بے پاک وامن مؤمن زمانہ
 تہ تم پاکلان زمانہ ہم ہمو لوکو مشر اس یکن توہو
 بروٹھ کتاب دہہ اُس آہتر (چھ تہند باچہ جائیں)
 ٹیلڈزن توہو تم نکاسن مشر انوکھ، نہ نہ بدکاری
 ہندی جرم دار ہنہ تہ نہ کھٹو کھٹو یارانہ لاگھتہ
 تہن دیو تہند مہر۔ تہ لیس شغوس ایمان
 تھوان کفر (بسر) کران چھ تہ (زائوز) تمہ
 ہنر عمل گئے ضایع تہ سہ اُسہ اُنرلس مشر کاٹھ
 لہن والہو مشر۔

اے ایماندارو! بیلہ توہو نمازِ خاطر و تھو تہ پنہ
 تھو تہ کھنہ وٹن تام اُسو پنہ اتھ (تہ) چھلان
 بے اُسو پنہن کلن مسح کران تہ تر تنہن تام
 (اُسو) پنہ کھور (تہ چھلان) بے اگر توہو جنہی
 اُسو تیلہ اُسو سہان کران۔ بے اگر توہو ہمسار
 (اُسو) یا سفرس مشر اُسو (تہ توہو اُسو جنہی) یا
 توہو مشر بے کانہہ تہر نہر تھہ بے اُسہ و توہو
 آشتہن سہتی ہستری تہ کر مشر تہ آب میلہ و
 تہ توہو او پاک مشر ہنہ تہم کم کرہ تہ تہ مشر
 (کینہہ گرد رُتھتھ) ملو پنہن تھن تہ اُھن۔

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ، وَطَعَامُ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ، وَ
 طَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصَيْنِينَ غَيْرَ
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، وَمَنْ
 يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَ
 هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ⑤

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
 الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
 إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
 وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ كُنْتُمْ
 جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى
 أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
 الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
 تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
 فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
 مِنْهُ، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ

مَنْ حَدَّحَ وَلَا يَكُنْ يَرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ
وَأَلْبِسْتُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ①

اللہ (تعالیٰ) چھتے توہم پیٹھ کنبہ قسبح متعلیٰ کرنی
یہ ترہان۔ وہ فی گوؤ سہ چھ توہم پاک کرن تہ توہم
پیٹھ پتہ احسان پور کرن یہ ترہان۔ نیٹہ زن توہم
شکر کرو۔

وَإِذْ كَرُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمِثْقَالَ
ذَرَّةٍ وَانْفَكَّ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ
أَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ
بِذَاتِ الصُّدُورِ ②

بہ تھارو یاد اللہ (تعالیٰ) سند سہ احسان یس
تو توہم پیٹھ کورمت چھ بسہ سہ پوختہ
عہد (تہ) یس تو توہم (تمہ وزر) ہمشراو و
یسیلہ توہم و نیاو و زہ اسہ چھ بوزمت تہ اسہ
چھ فرمانبردار سپدہ موتی۔ تہ اللہ (تعالیٰ) سند
تقویٰ پراوو۔ اللہ (تعالیٰ) چھ سپہ چہ کتہ تام
زہر پانھی زانان۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ
اللَّهُ شَهِدٌ عَلَى الَّذِينَ يَلْعَنُونَ أَلَّا يَجِدُوا مَعَكُمْ
شُرَكَاءَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِذْ عَدِلْتُمْ
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ③

اے ایماندارو! توہم سپو انصافہ سان گوہی
دوان اللہ (تعالیٰ) ہند خاطر استاد، تہ کنبہ
قویج دشمنی سینہ توہم اتھ کتہ پیٹھ آمادہ کرو
زہ توہم کرو تہ انصاف۔ توہم کرو (مضرد) انصاف
سہ چھ تقویٰ ہس جاد نزدیک تہ اللہ (تعالیٰ)
سند تقویٰ پراوو۔ یہ کینترہا توہم کران چھو اللہ
(تعالیٰ) چھ بے شک تمہ ہنہ خبردار۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ④

یہو لوکو ایمان اونمت چھ تہ نیک عملہ کر تہ چھ
تہن سوتی چھ اللہ (تعالیٰ) ہن وعدہ کورمت
زہ تہندہ باہتہ پھینہ بخشائش تہ (سہٹھا) بود
اجر (مقدر)۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ذَكَرُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ⑤

تہ یہو لوکو کفر پورومت چھ تہ سانی آہ چھکھ
ایز اوک موتی۔ تم لوکھ چھ جہنمی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كَرُّوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا
بِكَيْدِكُمْ آيِدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيِدِيَهُمْ
عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ فَالِي تَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ⑥

اے ایماندارو! توہم کرو یاد اللہ (تعالیٰ) ہنہ
پانس پیٹھ نعمت الہوسہ تمہ وقتہ سپدے (یاہ) نیلہ
اگر قومس ارادہ کر یلو نہ توہم پیٹھ تراو اتھ۔
تمہ وزر روتی توہم تہندہ کر اتھ توہم ہنہ ہنہ پیٹھ بسہ
پراوو اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ۔ تہ مؤمنین پز
اللہ (تعالیٰ) ہسے پیٹھ توکل کرن۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ⑤

بِسْمِ اللَّهِ (تعالیٰ) ہن پچھ یقیناً بنی اسرائیل پوہ ختہ عہدہ ہوئی تہ اسہ اسی تمو مشرہ باہ سردار کھڑا کری ہو۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہن اوس (بن) فرسوموت (ز) اگر توہو نماز شپہر تھ سنیا لھہ پورو تہ ترکواتہ دیو تہ میانہن رسولن پپہہ ابو ایمان تہ پریچھ رنگہ کرو تہ بند مدد تہ اللہ (تعالیٰ) ہس دیو پینہ مالہ مشرہ کیتہ پچھ (تہ) کس رنگس مشرہ او بہ پچھس یقیناً توہہ سہرہ (تہ) بہر کہ توہہ بنش تہنہنر ہدیہ دور تہ بہ کرو و لوہہ یقیناً پچھن باعن مشرہ داخل بین مشرہ کولہ پکان آسن مگر یس (شخص) توہہ مشرہ امہ پتہ تہ انکاس کام ہنیہ تہ (سہ زاین ز) سہ پچھہ سینر و تہ بنش ڈولمت۔

فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ⑥

تہ ہن ہند پوہ ختہ عہد پھراونہ سببہ کریا بہ اسہ ہن پپہہ لغت تہ بہندہ دل کریا بہ سجت تہ زن گوو تہم پچھ (کتاب ہندک) لفظ پسنہو جاپو ہتہ ڈالان تہ بیہہ کتہ ہنر ہن لہجت کرنہ آیاہ۔ تمیک اکھ حصہ پچھہ تمو مشرہ و مت تہ تہ روزک کینرہ (شخصو) وراہی ہن بنش کنہ (نہ) کنہ) خیانتس متعلق پے پتاہ لبان۔ لہندہ کر تہ ہن معاف تہ ہن کر درگدر تہ اللہ (تعالیٰ) پچھہ احسان کرن والہن یقیناً لول بران۔

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنْتِقُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ⑦

بِسْمِ اللَّهِ (تعالیٰ) ہن پچھہ لول بران۔ اسہ ہن پچھہ و نان پچھہ نہ اسی پچھہ نصاریٰ۔ اسہ ہن پچھہ ہن (تہ) عہد، پتہ مشرہ و تمو (تہ) اکھ حصہ تمہ کتہ ہند پچھہ ہن لہجت کرنہ آہتر آس۔ او تروو اسہ ہن در میان قیامتہ کس دوہس تاکہ عداوت تہ سہتہ دشمنی۔ تہ یہ کینرہ ہا تہم کلان اسی اللہ (تعالیٰ) کر ہن جلد تہ پچھہ خیر وار۔

يَا هَلْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

اے اہل کتاب! سون رسول پچھہ توہہ بنش آمت

(تو) یہ کثیر تھا تو ہی کتابی مشترک کسان اسی پر
سے چھ تمہرے مشترک سبھا (حصب) تو ہمہ نشی بیان
کران تہ واریاہ قصور تہ چھ سہ معاف کران۔
(آ، تہند با چھ اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ
اکھ نور تہ اللہ گاہر کتاب آمہر۔

اللہ (تعالیٰ) چھ تمہن (لوکن) ہم تہند رضاہس
پاروی کران چھ تمہرے سلامتی ہنرن وتن پیٹھ
پکناوان تہ پستہ حکم سہتر چھ تمہن اہر گہ پیٹھ
نورس کن کڈتھ نوان تہ سینر وتہ کن چھ تمہن
رہبری کران۔

ہم لوکھ ونان چھ نہ بے شک چھ اللہ (تعالیٰ) ہے
مسیح ابن مریم، ہم چھ بے شک کا فر سید کیو۔
تہ ون (تمہن، اگر اللہ (تعالیٰ) مسیح ابن مریمس
تہ تہنر ماجہ تہ (تمہن) تمام لوکن ہم زمینہ منر
(موجود) چھ ہلاک کرن۔ نیز تہ تہس مقابلہ کس
چھ گنہ کتھ ہند طاقت تھوان ؟ تہ آسمان تہ
زمینہ تہ یہ کثیر تھا تمہن دربان (موجود) چھ تمہن
(سارہے) پیٹھ چھ اللہ (تعالیٰ) ہنرے حکومت۔
سہ یہ کثیر تھا) یہ تھان چھ تہ چھ یاد کران
تہ اللہ (تعالیٰ) چھ پر چھ اکس کتھ پیٹھ بلور
پور قدرت تھوان۔

بہ چھ یہودی تہ نصاریٰ ونان نہ اسی چھ اللہ
(تعالیٰ) ہندر تیوہر بہ (چھ) تہندر دماٹھو۔
تہ ونکھ اڈکیاز چھو تو ہمہ سہ تہند لو قصور و
سببہ عذاب دوان ؟ (تھکنو نہ یہ زن توہر ونان
چھو) بلکہ ہم (باتے انسان) تو یاد کر کر تہ
چھ توہر تہ چھو تمہن ہند قہکی بشر۔ سہ
ہمیں پسند کران چھ (تس) چھ بخشان تہ میں
یہ تھان چھ (تس) چھ عذاب دوان۔ تہ آسمان
تہ زمینہ منر تہ یہ کثیر تھا ہمیں (دہ لونی) دریا

يَمِينُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ
جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿۱۱﴾

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۱﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ
يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِلَكَ
الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ مَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ
اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ
بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ
خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ ﴿۱۱﴾

بچھ بہمن (سارنہ) پیٹھ پھیلا اللہ (تعالیٰ) بہمن
حکومت۔ تہ تسی کُن چھ (سارنہ) پھیلا
گردھن۔

اے اہل کتاب! توہ بہمنش پھ سون رسول آمت،
سہ پھ رسولن ہند سلسلہ شہینہ گڑھن پتہ توہ بہمن
بہمن (سانہ کتھ) بیان کران بیٹھ زن توہ بہمن (سہ)
وہو نہرا بہمن نہ آو کانہہ خہ شجر دہن وول تہ
نہ آو کانہہ خبر دار کرن وول اہو کتھ پھ توہ بہمنش
اکھ خہ شجر دہن وول تہ خبر دار کرن وول آمت تہ
اللہ (تعالیٰ) پھ پر پتہ اُکس کتھ پیٹھ پور پور
قہرت تھوان۔

بہ (کرو سہ وقت یاد) بیلاہ موسیٰ ہن پنہن قومس
ونیا نہر اے میانہ قوم! توہ کرو اللہ (تعالیٰ)
سند (سہ) اسان یاد میں تھو (تہ وہر) توہ پیٹھ
کریا و بیلاہ تھو توہ بہمن منز نی مقرر کریا یہ تہ توہ بہمن
بناوے نو بادشاہ تہ توہہ ڈرانو تہ کیشٹھا یہ نہ
(دُنیا بہنو) زانی بہنو قومو منز کاشی ڈرون۔

اے میانہ قوم! توہ سپدو تھہ پاک کرری
موسئس زمپانس اندر داہل میں اللہ (تعالیٰ)
ہن تہند خاطر لیکھتھ عقومت پھ تہ تھہ پھرتھ
گرٹھ نہ پوت پھیلا تھ میں تیلہ بہنو توہ ہر تھہ پتھ
واپس۔

تھو وولس اے موسیٰ! تھہ (مکس) منز پھ
بے شک اکھ زبردست قوم (روزان) تہ
تہ یوتانی نہ تہم (لوکھ) تہہ منز نبین، اُسی سپدو
نہ تھہ اندر ہرگز داہل۔ وہ ڈگنو ہگاہ تم تہ
منز نبین نہ تیلہ پھ اُسی بے شک تھہ اندر داہل
سپان والی۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى قَثْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولِ
أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ
وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ
وَلَا نَذِيرٌ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ
أَنْبِيَاءً وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا وَإِنَّكُمْ
لَمَ يَأْتِيكُمْ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ ﴿۱۱﴾

يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
الَّتِي كَتَبْنَا لِلَّهِ لَكُمْ وَلَا تَزِدُوا عَلَيْهَا
أَدْبَارًا كُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿۱۲﴾

قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا
جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا لَن نَّذْخُلُهَا حَتَّى
يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا
دَاخِلُونَ ﴿۱۳﴾

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنحَمَهُ
اللَّهُ عَلَيْهِمَا إِذْ خَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَوَعَلَ
اللَّهُ فِتْنًا لَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَوَّءِنِينَ ۝

(اگر، اللہ تعالیٰ ہنس) کھوڑن والہو اندر دھلیو
شخصو یکن پیٹھ اللہ (تعالیٰ) ہن احسان
کورمت اوس، وون (اتھ پیٹھ بہن) نہ توہر
گڑھو بہن پیٹھ (جملہ آور سپدتھ) تھہ دروازس
مشتر دا نخل۔ نیلہ توہر تھہ مشر دا نخل سپدو
تہ توہر بیو بے شک غالب۔ تہ اگر توہر نمون
چھو تہ اللہ (تعالیٰ) ہسے پیٹھ (کرو توکل) ہیہ
(چھو اسی وناں نہ تسو پیٹھ) کرو توکل۔

قَالُوا يُمَوِّسِي إِنَّكَ لَنَدَخُلَهَا أَبَدًا مَا
دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ
فَقَاتِلْ إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ۝

تمو وون (نہ) اے نموسی! یوتانی تم (لوگ) تھہ
اندر چھو اسی سپدو تہ تھہ زمپنس اندر نہ نہیہ
دا نخل، لہذا تہ تہ چون رب (دوہوے) گڑھو تہ
کرو (تمن ستر) جنگ، اسی روزو ہر حالس
مشر نیتر نے بہتھ۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَآخِي
فَأُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

دوہن (یعنے نموسی ہن) اے میانہ پروردگار!
بہ چھس نہ پستہ پاپہ (ورائی) تہ پسنس بائیس
ورائی کانسہ پیٹھ ہرگز اختیار تھوان۔ او کتو کر تہ
امہ در میان تہ بغاوت کرن والہن لوکن در میان
فرق۔

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ
سَنَةً يَتَيَّبُوهَا فِي الْأَرْضِ، فَلَا تَأْسَ
عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

فرمودن (یعنے اللہ تعالیٰ ہن، اگر چانی میسے تھس
پھینے) او تم چھہ سنیہ (ملکہ) نشہ تر تجہین دور
ین (تام) یقیناً محروم کر تہ یوان۔ تم روزن سیتھ
نگلس اندر در بدر گڑھتھہ) او پر یور پھیران۔ لہذا
مہر بغاوت کرن والہن لوکن پیٹھ افسوس۔

وَإِذْ عَلَّمْنَاهُمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ
قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، قَالَ
لَا تُقْبَلُكَ، قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ
مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝

سید (اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) تہ بوز ناوگہ
یم آدمہ سندن دون نیچون ہند قصہ صحیح پٹھو
(یعنے تمہ وقتگ قصہ) نیلہ تمو دو شوہو اکھ
قربانی پیش کر تہ تمو مشر آیہ اکی سنز (قربانی)
قبول کر تہ تہ دوہو سنز قربانی آیہ تہ قبول کر تہ
(سیتھ پیٹھ) تمہ (پسنس بائیس) وون (نہ)
بہ کر تھہ تہ ضرور قتل۔ تمہ وونس نہ اللہ (تعالیٰ)

چھ صرف متفقین ہنتر (قربانی) قبول کران۔
 اگر خرید یہ قتل کرنہ موکھ میہ کن پین اتھہ زیوٹھ
 کورٹھہ (تہ، اد) بہ زیوٹھ او نہ ہرگز تر قتل کرنہ
 موکھ پین اتھہ تر یہ کن بہ چھس سار نے عالمن
 ہنتر رحیم و اہلس خدایس یقینا کھوٹران۔

بہ چھس بے شک بیٹھان نہ تر ٹکھ میون گوناہ
 (تہ) تہ پین گوناہ تہ (ہمیشہ خاطر بار) نیکیک
 نتیجہ یہ آسہ نہ تر سپدکھ جہانیدو مشر تہ یہ چھ
 فالمن ہند سزا۔

(سیوہ سنز قربانی قبول اس نہ سپنر ہنتر) تس
 سید پین بوعے قتل کرٹھہ رھنسن پیٹھ دل راضی
 تہ تم کوور سٹھ قتل یٹھ پیٹھ (سٹھ) نوقصان تلن
 والین منتر (شابل) سپد۔

اد سوز اللہ (تعالے) ہن اکھ کاو یس زمین
 کدان اوس او کتو نہ تس لاو نہ سپنس بائی
 سنزلش کہتہ یاٹھ دو براو؟ تم وون ،
 ہے انوس! میا فی روسی ہیکہ (یوت تہ)
 سپد تہ نہ بہ گرشہ ہائیس کاوس ہیو تہ سپنس
 بائی سنزلش کر ہن غاب۔ اد سپد سٹھ پشیمانانہ
 امیر کو کرایو اسہ بن اسراہیلن پیٹھ فرض نہ رہتم
 تھون خیال نہ) یس کانسہ شخصس امیر ورا تہ قتل
 کر نہ تم تہ اسہ قتل کورمت یا نکس منتر اسپن
 فساد و زورومت تموزن تہ تم کو تمام لوکھ قتل
 تہ یس جس زہر کر زن کر کو تم کو تمام لوکھ زہر
 تہ سانی رسول اسر جس ہن یقینا نئی نشانہ
 ہیٹھ آرتو۔ تو تہ چھہ تمو منتر واریاہ (لوکھ) نکس
 منتر جہاد تہ کران روزان۔

یکم لوکھ اللہ (تعالے) ہس تہ تہنرس رسولس
 ستر جنک کران چھہ، تہ فساد کر عزم چھہ نکس
 منتر (جنک کس نارس و ہن دہ موکھ) روان

لَوْ لَمْ يَسْطُرْ لِي يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي مَا
 أَنَا بِمَا سَطُرَ يَدِي إِلَيْكَ لَا قَتْلَكَ
 لِي إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۵﴾

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ أَيُّ ثَمِينٍ وَلَا تُمَكِّ
 فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَ ذَلِكَ
 جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۱۶﴾

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ
 فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۷﴾

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ
 لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ
 قَالَ يُوَيْلَتِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ
 هَذَا الْغُرَابِ فَأُؤَارِي سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۸﴾

مَنْ أَجَلٌ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي
 إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
 النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
 أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
 رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثُرُوا مِنْهُمْ
 بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرٌ فَوَن ﴿۱۹﴾

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ
 رُسُومًا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ
 يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

(پھیران) تہند مناسب سزا چھ یوسے زتمو
 مشر یین الھ الھ قتل کرنہ یا یین صلیس پٹھ
 الوند تراوتھ مارنہ یا یین تہندری اتھ تہ تہندری
 کھور مخافتہ موکھ ترٹھ ترھنہ۔ یا یین تم
 ملک مشر کڈھ ترھنہ لہ (ہرگاہ) یہ (سزا
 میلہ پٹھ تہ) سیدھے تہند خاطر دنیا ہس
 مشر رسوائی (ہند باعث) تہ تم آخرس مشر تہ
 چھ تہند باپتھ (سبھاہ) بوڈ عذاب (مقدر)۔
 مگر یکم لاکھ امر بزوتھ ز توہری لہو تن پٹھ
 قولہ۔ توہر کرن، تہ زانو ز اللہ (تعالیٰ) چھ
 بے شک سبھا بخش وول (تہ) پھیر پھیر
 رحم کرن وول (اوسے چھ تم توہر کرن والی
 سزاہہ ہنہہ بچاوتھ تھاوکرتی)۔

اے ایماندارو! اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ برادو
 تہ تہندس درگاہس مشر ترھانڈو قرب حاصل
 کرنہ چھ وتہ تہ تسنر وتہ مشر کرو کو بخشش
 یچھ زن توہر کامیاب سپرو۔

یکم لاکھ کافر چھ اگر یہ کیشرا (تہ) زمینس
 اندر (موجود) چھ (تہ) سورے تہ تیوتے
 تھ سبتی (بہ مال تہ) جس ہن آسہا یچھ
 زن تم قیامتہ کر دوہر عذابہ بدل دہن۔ توہ
 پیہ ہے نہ تہ جس ہن طرفہ قبول کرنہ تہ
 جس ہن خاطر چھ کر لوتھ عذاب (مقدر)۔
 تم یہ سترھن ناب مشر نیرن مگر ہرگز ہکن نہ تمہ
 اندر نہ تھہ بیہ چھ جس ہن خاطر الھ قایم
 روزن وول عذاب (مقدر)۔

بیہ یس مرد زور آسہ تہ یوسہ زنان زور آسہ
 جس دولتی ہندری اتھ ترٹھ تمہ (جبرمہ) بدل

وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنَ
 الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ
 لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۵﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا
 عَلَيْهِمْ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ
 رَّحِيمٌ ﴿۶﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
 ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ دَجَا هَذَا فِي
 سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۷﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَ مَعَا
 لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۸﴾

يُرِيدُونَ أَن يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا
 هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وَ لَهُمْ عَذَابٌ
 مُّقِيمٌ ﴿۹﴾

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
 أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّن

اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾

یس، تم کو کورنت چھ۔ (یہ چھ) اللہ (تعالیٰ)
ہند طرفہ سزا کس صورت میں تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ غلبہ وول (تہ) حکمت وول۔

اد یس شخص سے علم کر رہے تہ توہ کر رہے
اصلاح (تہ) کر رہے اللہ (تعالیٰ) کہ یقیناً تیس
پیٹھ فعل۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک بخش
وول (تہ) پھیر کر پھیر کر رحم کرن وول۔

ثریہ پھینا معلوم نہ اللہ (تعالیٰ) چھ سزاوات
ز آسمان ہنر تہ ز سپنج حکومت چھ تہ تہ
سہ نہیں (عذاب دین) پس نہ کران چھ (تس)
چھ عذاب دوان۔ تہ یس (معاف کرن) پس نہ
کران چھ (تس) چھ بخشان۔ تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ پر چھ کس کتھ یوسہ سہ کر رہے تہ تہ تہ
کرنس پیٹھ (پلور) پلور تہ درت تھون وول۔

اے رسول! ثریہ مہ کر رہے تہ لوکہ غمگین ہم
پس نہ نو آسو سستی ونان چھ نہ اسہ چھ ایمان
اؤنت تہ تہندو دلو چھ ایمان اؤنت۔ تمو
منزہ ہم لوکہ کفرس (یعنی کفر چھ کتھ قبول
کرنس) منز و تہ کران چھ۔ تہ بہودین منز
تہ چھ کتھ تہ تہ لوکہ ہم (ایہ کتھ زہر پانچ
بوزان چھ۔ (ہم) چھ (یکہ کتھ) ہاد جہاد
بوزان بیس اکیس جہاد ہند (بوزان تہ) ہاد چھ
یوسہ نہ ثریہ نش آہ۔ ہم چھ (خدا یہ تہ) کتھ
تہند پسنہ جاہ (پیٹھ تھون) پتہ (تہ جاہ)
والان۔ ہم چھ ونان زہر گاہ تہ ہد چھ پانچ
(حکم) دہ بیو تہ قبول کر رہے! تہ ہر گاہ
تہ ہد چھ پانچ (حکم) دہ بیو نہ تہ (تہ)
پتہ (تہ)۔ (تہ قبول مہ کرو) تہ اللہ (تعالیٰ)
پتہ سزا آزمائش ہند ارادہ کر تہ میکہ نہ تہند
خاطر اللہ (تعالیٰ) ہس مقابلہ کہنی کر تہ۔ ہم

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ
اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿۱۱﴾

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ، يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ
يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ
يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ
قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ
قُلُوبُهُمْ ۗ وَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۗ
سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ
آخِرِينَ ۗ لَمْ يَأْتُوكَ ۗ يُحْزِنُونَ
الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا ضَعَفَ يَقُولُونَ
إِنْ أُرِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ
تُؤْتُوهُ فَاخْذُوا ۗ وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ
فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ
قُلُوبَهُمْ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَ
لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۲﴾

لَوْكَمْ يَجِدُ (تتقی) نَبِيَّ اللَّهِ (تعالیٰ) مِنْ كَوْنِهِ تَهْتَدُ
 دل صاف کرنک (کبیتی) اِزَادَ بِبِكْمَا تَهْتَدُ خَاطِرُ
 چھینے (تہندلو اعمالو کئی) یقہ دُنیا ہنس منتر (تہ)
 رُؤُوسِی (مقدر) تہ اُخْرَسِ اَنْدَر (تہ) چھ تہند
 با پتھ (سپٹھا) بُوڈ عذاب (مقدر)۔

تَمَّ (لَوْكَمْ) چھ ایتر کتھ جان پا کھ بوزان (تہ)
 حرام چھ جاڈ جاڈ کھولن لہذا ہر گاہ تَمَّ تَرِیْبِش
 (کا تہ نیاسے پتھ) بِن اِثْرِ بِن در میان فاصلہ
 کرتہ یا بِنش اَلک روز تہ، تَرِیْبِ ہیکہ نے
 تہ تَمَّ (دو لونی حالتن منتر) کینہ نو قصان و اِنَاو تہ
 تہ تَرِ (تھووی ز سانی نصیحت یاد ز کئی تہ صوڑس
 منتر) اِکْرِثْ فَا صِلْہ کرکھ، تَمَّ در میان گزھ
 (ہر حالتس منتر) اِنْفَاہِ سَا ن فَا صِلْہ کَرْن -
 اللہ (تعالیٰ) یقہ یقینا الصاف کرن والین
 سبوتی لول ورتاوان۔

بِیْہ تَمَّ کتھ پا کھ ہیکہ نے تَرِیْبِ حَکْمِ بِنَاو تہ
 سبیل زن بِنش تولت تہند کئی اِلہی حَکْم
 پتھ موجد چھینے۔ پتہ چھ تہ باوجود تَمَّ تھ
 پھران تہ تَمَّ چھنہ ہرگز مومن۔

اسہ کر یا یہ بے شک تولت ہدایت تہ نوڑ برہ
 تَا زِل۔ تہ دُوسِ اُسی فاصلہ کران یہودین ہند
 با پتھ تہی، بِن (سانی) فرما سیر دار اُسی تہ عارف
 تہ عالم تہ، امیر موکھ نر تہند دُوسِ آیایہ اللہ
 (تعالیٰ) ستر کتابہ ہنس حفاظت یہ پتھ تہ
 تَمَّ اُسی تھ پیٹھ نگران۔ او کجی مہ کھوڑو لو، ک
 لوکن تہ میہ کھوڑو تہ توہی مہ رُؤُ مِیَانِہ اُیو
 بدل کم مول۔ تہ بِن (لَوْكَمْ) تہ (کلامہ) مطابق
 یس زن اللہ (تعالیٰ) ہن تَا زِل کورمت چھ،
 فَا صِلْہ کرن نہ۔ اِڈ تہ چھ (تکرہ) کافر۔
 بیہ اوس اسہ تھ (توراسس) منتر بِن پیٹھ

سَمَّعُونَ لِذِكْرٍ لِّلشَّخِصِ
 فَإِن جَاءُ ذَک فَاحْکُم بَیْنَهُمْ أَوْ
 أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ
 فَلَن يَصُدُّ ذَک شَیْئًا ۚ وَإِن حَکَمْتَ
 فَاحْکُم بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ
 الْمُقْسِطِیْنَ ﴿۷﴾

وَکَیْفَ یَحْکُمُوکَ دَعِندَهُمُ التَّوْرَةَ
 فِیْہَا حَکْمُ اللّٰهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ
 ذَکَ، وَ مَا أَوْلٰئِکَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۷﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِیْہَا هُدًى وَ
 نُورٌ ۚ یَحْکُم بِہَا التَّیْمُونُ الذِّیْنَ
 أَسْلَمُوا لِّلذِّیْنَ هَادُوا وَ الرَّبَّانِیُّوْنَ وَ
 الْأَخْبَارِیْمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ کِتَابِ اللّٰهِ
 وَ کَانُوا عَلَیْہِ شَہَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا
 النَّاسَ وَ اَخْشَوُا اللّٰهَ وَ لَا تَتَشَرَّوْا بِآیَاتِی
 ثُمَّ قَلِیْلًا ۚ وَ مَنْ لَمْ یَحْکَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ
 فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ ﴿۷﴾

وَ کَتَبْنَا عَلَیْہِمْ فِیْہَا أَنَّا التَّنْفِيسَ

فَصِرَ كَوْرُمْتِ زِرْ تَرُو بِلِ زَوْتِهٖ اُجْهٖ بَدَلُ اُجْهٖ
تَرِ لَسْتِهٖ بَدَلِ لَسْتِهٖ كَتَبْتِهٖ بَدَلِ كُنْتِهٖ دَنْبِهٖ بَدَلِ دَنْبِهٖ
تِهٖ بِيَهٖ (زخمِ بَدَلِ) زَجْمِهٖ اُجْهٖ اُجْهٖ بَدَلِهٖ -
وہی گویا میں شخصوں (بین) یہ (حق) تراوی
تہ تشدِ با پتھ سپد (تشد یہ فعل) گو نہ ہجیر
معافی ہند باعث - تہ یکم لاکھ تمہ (کلامہ)
مطابق فاصلہ کرن نہ میں اللہ (تعالیٰ) ہن
نازل کورومت چھ - اڑتے چھ ترکہ ظالم -

بہ سوز اسہ تمن پتہ تہندین پدک آکھن پیٹھ
عیسیٰ ابن مریم میں توراہ کس تتھ (تخص آہدین
کران اوس میں تس بروٹھ کتہ اوس بیہ اُس اسہ
تس انجیل ڈر مشر جیتہ اندر ہریت تہ نور اوس
بیہ اُس سے تتھ توراہ تقدیق کران یوسہ تس
بروٹھ کتہ اُس بیہ اُس سے تقویٰ پراون والہن
ہند خاطر ہریت تہ نصیحت -

بہ پتر انجیل والہن ز اللہ (تعالیٰ) ہن یہ اکثر تھا
تتھ مشر نازل کورومت چھ ، تس مطابق کرن فاصلہ
تہ یکم لاکھ، تمہ (کلامہ) مطابق فاصلہ کرن نہ
میں اللہ (تعالیٰ) ہن نازل کورومت چھ - اڑ
تے چھ (پوشہ) باہی -

بہ چھیہ اسہ تریہ پیٹھ یہ کتاب حقس پیٹھ نازل
کر مشر - سو چھیہ پاس بروٹھ میر کتابہ (منز
کعتن) پور کرن واجی بیہ چھیہ تتھ پیٹھ
راچھدر - لہذا کر تہ تمن در میان فاصلہ بیہ کتابہ
مطابق یوسہ اللہ (تعالیٰ) ہن تریہ پیٹھ نازل کر تہ
چھیہ تہ میں حق تریہ کن آمت چھ سہ تراوتھ
سہ کر تہ تہن تن خاہن ہنر پاروی، اسہ پتھ
توہ منہ ہر کتابسہ ہند با پتھ (پنہ پنہ استعادہ
مطابق البہمی) آس تام واتنہ با پتھ اکھ لوکٹ
یا بیڑ و تھ بنا و مشر بیہ ہر گاہ اللہ (تعالیٰ) بیترہ

بِالْتَّفِيسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْآثِفِ
بِالْآثِفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُودَ قِصَاصًا، فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ
يَخُكِّمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿۵﴾

وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بَعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَمِنَ التَّوْرَةِ وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ
هُدًى وَ نُورٌ، وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَ هُدًى وَ
مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۵﴾

وَلِيُخَكِّمَهُ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فِيهِ، وَمَنْ لَمْ يَخُكِّمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵﴾

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَخُكِّمُوا
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ
مِنْهَا جَاءَ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً لَّكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي
مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، إِلَى اللَّهِ
مُوجِعَكُمْ جَمِيعًا فَيُنزِّلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

فِيهِ وَتَخْتَلِفُونَ ﴿۵﴾

ہے تو توہم (سارنہ) بناو ہے اگے جماعت
مگر (تھکے کلاس متعلق) تہند امتحان ہستہ
موکھ یس تک توہم پیٹھ نازل کریاو (کورن نہ
تیقہ) لہذا کرو ٹیکین منزاکھ اگس بروٹھ
نیرنہ خاطر مقابلہ تکلیار اللہ (تعالے) ہستہ
کن چھو توہم سارنہ پھیرتھ گڑھن میلہ زن
سہ توہم ہمن تمام معادن منزکین منز توہم
اختلاف متواوان اسی و اصلیتہ ہشتہ خیردار کرو۔
بہ اے رسول! نہ کریکن درمیان تمہ (کلامہ)
دسی فاصلہ یس اللہ (تعالے) ہن (تہ پیٹھ)
نازل کورمت چھ تہ نہ مگر تہنننن خا ہمن
ہنر پاروی تہ ہمن ہنن روز ہشتار نہ ہنن تم تہ
قیلس منز تراوتھ اللہ (تعالے) ہند نازل کرتہ
کلام ہشتہ دور ہنن۔ پیٹھ الحر تم پھیرن تہ زان
نہ اللہ (تعالے) چھ ہستہ ہان نہ ہمن دیہ ہندو
کیشرو گونہ ہو موکھ سزا، تہ لوکو منز چھ واریہ
عہد چھڑاوان واکر۔

کیا تم چھن الہی کلام نازل سپدنہ برو ہنن فاصلہ
پند کران؟ مگر مومن ہنن تہ چھتہ اللہ (تعالے)
ہند کھوتہ جاہرت فاصلہ کرن وول کینن۔

اے ایماندارو! بیہودی تہ نصاریٰ مہ بناو لوکھ
(پینر) مددگار (تکلیار) ہنو منز چھ کیہتہ
کیشرن ہند مددگار۔ تہ توہم منز یس (تہ)
ہمن ہنن مددگار بناو سہ اسہ یقینا ہنو ہستہ
اندہ اللہ (تعالے) چھتہ ظالم لوکن ہرگز کامیاب
ہنن) و تھ ہاوان۔

بہ وچکھ تہ تم لوکھ ہہندن دین منز ہما رکی
چھہ نہ تم چھہ یہ ونان ونان ہمن (کافرین)
کن دوان دوان گڑھان (تہ) ونان چھکھ
نہ اسی چھ (اتھ کھتہ) کھوٹران نہ اسہ پیٹھ

وَأَن اخُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَ
لَا تَتَّبِعِهِ أَهْوَاءَهُمْ وَ أَخَذَهُمْ
أَن يَفْتِنُواكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ
اللَّهُ إِلَيْكَ، فَإِن تَوَلَّوْا فَاغْلَمَ أَتَمًا
يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
ذُنُوبِهِمْ، وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
لَفَاسِقُونَ ﴿۵﴾

أَوْحَكُم الْجَاهِلِيَّةَ يَبْغُونَ، وَمَنْ أَحْسَنُ
مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۵﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
الْبِهْوَادَ وَ النَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ، بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَ مَن يَتَوَلَّهُمْ فَمِنكُمْ
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿۵﴾

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن
تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، فَحَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ
بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُضِحُّوا

(دینہ) کا نہ مصیبت سے عنقریب ان اللہ تعالیٰ
(تہنہ) فتح (حاصل کرنے کی سامانہ) یا پینہ طرفہ
کا نہ (بیاکھ) صورت حال (و جوڑس) تیبہ ستر
تم تھہ کتھ پیٹھ تادم سپرن یوسہ تمو پستان
دلن اندر کھٹھ تھامو مہر پھیہ۔

بہ یہ لکھ مؤمن چھہ تم ون نہ کیا کے چھا
تم لوکھ یو (سختہ کھوتہ) سخت قسم کر کر کر
ونیاو نہ اسی چھہ پور پٹھو تو ہر ستر! تہنہ
اعمال گئی ضایع ادر تم بنے یہ گاڑ لین والی۔

اے ایماندارو! توہہ مشرئیس (شخص) پینہ دینہ
بشہ پھیر تہ (سہ تھاون یاد) اللہ (تعالیٰ)
انہ (ستر جایہ) جلدے اکھ تیبہ قوم یکن ستر
سہ لول ورتاوان اسہ تہ تم آسن تس ستر لول
ورتاوان۔ ہم مؤمنن پیٹھ شفقت کرن والی اس
تہ کا قرن کتی آسن سخت۔ تم کرن اللہ تعالیٰ
ستر و تہ جہاد تہ گائنیہ طامت کرن والی سندس
طامتس کھوتن تہ۔ یہ چھہ اللہ تعالیٰ سہ فضل
سہ یس پسد کران چھہ (یہ فعل) چھہ رتس ہون
تہ اللہ تعالیٰ چھہ وسعت بخش دول (تہ)
سپھا زان وول۔

تہنہ مددگار چھہ صرف اللہ تعالیٰ تہ تسد
رسول بہہ تم مؤمن ہم نماز قائم تھوان چھہ تہ
زکوٰۃ دوان چھہ۔ تہ تم چھہ (سستی) پوختہ
پٹھو تھالیس کن زان والی (موجہ)۔

بہ یہ لکھ اللہ تعالیٰ ہس تہ تہنہ رسول
تہ مؤمنن پینہ مددگار بناوان چھہ (تم زان نہ)
بے شک چھہ اللہ تعالیٰ ستر جماعت
قالب (سپد تہ روزن واجتی)۔

اے ایماندارو! یکن توہہ بروٹھ کتاب دینہ
اس تمو مشرئیس تہنہ دینس مولہ تہ گرن

عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نَوْمِينَ ﴿۵۱﴾

وَيَقُولَ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ
الَّذِينَ اتَّخَذُوا لِلَّهِ جَهْدًا أَيَّمَانِهِمْ
لِأَنَّهُمْ كَمَعَكُمْ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ
فَأَصْبَحُوا خُسْرِينَ ﴿۵۱﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزِدْ
مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ
لَوْمَةً لَّا آئِدٍ ذَلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يَوْمَهُ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۱﴾

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿۵۱﴾

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
فَأِنَّ جِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۵۱﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ
اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَا لِبَاءًا مِنَ الَّذِينَ

أُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكِفَّارَ
أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُفْرَهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵۰﴾

(کیت سامانہ) بناؤتھ مقصومت چھہ برتم تہ
(تمو وراے بیٹے) کافر تہ مہ بناؤ لوکھ (نہ)
مددگار تہ اگر توہی مؤمن چھو تہ اللہ (تعالے)
سند تقویٰ پراوو۔

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا
هُزُؤًا وَعِجَابًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا
يَعْقِلُونَ ﴿۵۱﴾

بہ نیلہ توہی (لوکن) نماز خاطر ناد چھو کران
تہ برتم چھہ تھہ مٹھہ تہ گنڈن بناوان۔ یہ (طریقہ)
چھہ (تمن اندر) اوکوز (موجود) نہ برتم چھہ تھہ
لوکھ نیم نہ عقلم کام ہوان چھہ۔

قُلْ يَا هَلْ الْكِتَابَ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا
وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَآنَ أَكْثَرُكُمْ
فَاسِقُونَ ﴿۵۲﴾

تہ ون تمن نہ اے اہل کتاب! توہی چھو تہ
اسہ اسہ سوای کاشہ عاب لگان نہ اسہ چھہ اللہ
(تعالے) ہس پیٹھ (تہ) تہ یس (کلام) اسہ
پیٹھ نازل کرنہ امت چھہ (تھہ پیٹھ تہ) تہ یس
(کلام تہ) بروٹھ نازل کرنہ امت اوس۔ تھہ
پیٹھ (تہ) ایمان اونمت تہ (بہ چھو عاب نزلان)
اوکوز نہ توہی مشر چھہ جاد (اللہ تعالے ہندک)
بامخی۔

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَٰلِكَ
مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ
وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ
وَ الْخَنَازِيرَ وَ عِبَدَ الطَّاغُوتِ ۚ
أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَ اضَلُّ عَن سَوَاءِ
السَّبِيلِ ﴿۵۳﴾

تہ ون (تمن) نہ کیا بہ ونوا توہی تمن (لوکن) ہند
حال؟ یکن ہند بلہ اللہ (تعالے) ہس نش
تس (شخصہ) ہند کھو تہ (یس توہی ناپند کران
چھوون) بدتر چھہ۔ تم چھہ (تم) لوکھ۔ یکن
پیٹھ اللہ (تعالے) ہن لعنت کر مشر چھہ
بہ یکن پیٹھ تموا یکن، غضب نازل کورمت چھہ
تہ یکو اندر چھہ تموا (کنیترن) واندر تہ سور بناؤ
موتلہ، تہ یکو شیطانہ ہنر ہنگی کر مشر چھہ
تمن لوکن ہند ٹھکانہ چھہ سبھاہ چھہ تہ تم چھہ سب
وتہ نش جادے دل متہ۔

وَإِذَا جَاءَ وَكُمُ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ خَلَوْنَا
بِالْكَفَرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ

بہ نیلہ تم توہی نش ہوان چھہ تہ ونان چھہ نہ
اسہ چھہ ایمان اونمت نیلہ نل تم کفر ایضے

أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

کھڑکے عقیدے، ہتھ دماغل سپرکرتو اسی
تہ تم اسی (پتہ) سہ عقیدے، ہتھ دماغل تہ
یہ کیشہا تم کھان چھ تہ چھ اللہ (تعالے) سار
وہے کھوتے (جاد زانان)۔

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي
الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتَاءَ
لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

بہ تہ چھبکھ، تم اندر واریاہ وچھان نہ تم چھ
گوتہس تہ جادتی تہ حرام کھینس کن جاد زو
گرھان۔ یہ کیشہا تم کران چھ سہ چھ بے شک
سبھا ناکار۔

لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَابُ
عَنْ قَوْلِهِمُ الْآثِمَةَ وَالْأَكْلِهِمُ السُّخْتَاءَ
لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۹﴾

عارف (لوگ) تہ عالم کیاڑ چھنہ تم پڑ ونہ
تہ حرام کھینہ ہتھ پتھ رمان؟ یہ کیشہا تم کران
چھ تہ چھ یقینا سبھا ناکار۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ
عَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَلْحَظُ
يَدَهُ مَبْسُوطَةً يُلْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ ذِكْرِكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَ
الْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعِدَاةَ وَالْبَعْضَاءُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كَلِمًا أَوْ قَدْرًا نَادًا
لِلْحَزْبِ أَطْفَاها اللَّهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسَادًا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿۲۰﴾

بہ چھ یہودی ونان نہ اللہ (تعالے) سبھس
اتھس بھہر اکل کرٹھ۔ یہ کیشہا تم وڈ نمٹ
چھ تمہ باعشہرین (خود) تہندین اتھس اکل
تراونہ تہ تم پتھ بہ لعنت کرنہ (تم چھ پڑ
ونان)۔ حقیقت چھیہ یہ نہ تمہ سبھس چھ کشاہ
سہ پھکنی بیترھان چھ خربچ چھ کران تہ یہ
کیشہا چھنہس پروردگار سبھ طرف تہ پتھ تارل
کرنہ آنت چھ تہ کرہتمو اندر واریاہن بے شک
سرکش تہ کفرس منہر (بہ تہ) جاد (تینر) تہ
اسر چھ کرہتر قیامتہ تام تم درمیان
عدوت تہ بعض پاؤ۔ بیلیر تہ زاہ تمو لڑاہ
ٹاٹھ کرنہ قہمہ کس نارس ووش دیت تہ اللہ
(تعالے) ہن کور سہ ترحبتہ تہ تم چھ ٹکس اندر
فساد باپتھ دو ان (چھیلن) تہ اللہ (تعالے) چھنہ
فسادین پسند کران۔

بہ ہر اصل کتاب ایمان انہ ہن تہ تقویٰ پڑون
تہ اسی کرہو چھنہر ناکار گہی ضرور ہن ہن
دور تہ ضرور کرہوگہ تم (کیتہ قسمہ چھن) نمہر
والین باعن اندر دماغل۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَآ ذَخَلْنَاهُمْ
جَنَّتِ النَّارِ ﴿۲۱﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ آقَامُوا التَّوَارِثَ وَالْإِنْحِيَالَ
وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ
فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ
أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءٌ
مَا يَخْمَلُونَ ﴿۵﴾

۵۴

بیمہ اگر تم توارث نہ انجیل سے یہ (کثیر شاہا)
تہنہ سے رہے ہند طرف (ووزی) تم پیٹھ نازل
کر نہ آمت چھ، تہ ظاہر کر کے روزہ میں اوجھڑو
کھینچے ہیں تم پیٹھ پیٹھو کئی تہ تہ پیٹھو
کھو رو تہ (کھینچے ہیں) تم اندر چھ (بیشک)
اکہ جماعت اعتدال پیٹھ مگر واریاہ چھ تم اندر
تھو نہ یہ (کثیر شاہا) تم کران چھ تہ چھ پیٹھا
ناکار۔

اے رسول! چاہیں رہے ہند طرف سے (کلام تہ)
ثیہ پیٹھ نازل کر نہ آمت چھ سہ و اتنا (لوکن نام)
تہ ہر گاہ ثیہ (تہ) کوڑھ تہ تہ (گویا) ثیہ چھ
تہ پیغام (سٹے) و اتوں تہ، تہ اللہ (تعالیٰ)
تھوی ثیہ لوکن (ہند حملہ بشر) محفوظ تہ اللہ
(تعالیٰ) ما و سہ کا فر لوکن ہرگز (کامیابی)
ہنر (تھ)۔

تہ لون (ز) اے اصل کتاب! یونانی توہر توات
تہ انجیل بیمہ یہ کثیر شاہا تہنہ سے رہے ہند طرف
توہر پیٹھ نازل کر نہ آمت چھ تہ ظاہر کر کے
توہر چھو تہ (تھ و قس نام) کینہ (دہر) کھ
پیٹھ (تاکیم) تہ یہ کثیر شاہا چاہیں رہے ہند طرف
ثیہ پیٹھ نازل کر نہ آمت چھ سہ ہر راہ
تمو اندر واریاہ میں سرکشی تہ کفرس مشر ضرور
اوجھڑو کر تہ تھ کا فر قوس پیٹھ افسوس۔

بیمہ لاکہ ایماندار چھ تہ بیم بیوردی چھ تہ (بیمہ)
صالی تہ نصاریٰ چھ (تمو اندر) یو (تہ) اللہ (تعالیٰ)
سہ پیٹھ، تہ پتہ ہینہ و ایس دوس پیٹھ پڑکاپٹ
ایمان اوڑنت چھ بیم چھ تمونیک عملہ کر مشر نہ
آسہ تمون (ہینہ والہ زمانک) کاہہ خوف تہ نہ آسن
تم (پتھ کن گاہتس و قس پیٹھ) عملین۔
اسہ ہشاو بے شک بنی اسرائیل پوجتہ عہد تہ تمون

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَاتِهِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ،
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۵﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ
تُقِيمُوا التَّوَارِثَ وَالْإِنْحِيَالَ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، وَكَيَزِيدَ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
طُغْيَانًا وَكُفْرًا، فَلَا تَأْسَ عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۵﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالضَّالِّينَ وَالنَّصْرَىٰ مِنَ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۵﴾

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

کُنْ سَوَافِرًا كَثِيرًا رُسُلًا - سید زانہہ بنت کاتبہ
رسول سے (تعلیم) ہمت آدیتھ تہند کر دل پسند
اسی نہ کران تہ کینہہ اپڑاؤر تموتہ کیشن اس
تم قبل کران سیرھان۔

بیر زون تموتہ (یہ) نہ کاتبہ بنتہ گڑھہ نہ پاد (ابہ
سنتی) ، ادر کئی گے تم اڈی تہ زُرک پتہ کور اللہ
(تعالیٰ) ہن شفقتہ سان ہنن کن توہر مگر ، تم
اندر گے واریاہ بیر اڈی تہ زُرک تہ یہ کیشنہا تم
کران چھ اللہ (تعالیٰ) چھ تہ وچھان۔

یمو لاکو یہ وومت چھ نہ یقیناً اللہ تعالیٰ) ہے چھ
سپح ابن مریم ، تم چھ پردے ہتی ضرور کافر تہ
سپن ہئے اوس وومت نہ اے بنی اسرائیل !
توہر کہو اللہ (تعالیٰ) ہنر عبادت یس سون اتہ ،
پروردگار چھ تہ تہند اتہ ، پروردگار چھ ۔ کتھ چھ
بیر نہ یس (شخص کاتبہ) اللہ (تعالیٰ) نہ شریک
بناو تہ (زانی تو نہ) اللہ (تعالیٰ) ہن چھ جنت
تس پیچھ حرام کورنت تہ نہ نہ کاتبہ چھ جہنم تہ
ظاہن ہند (آب) نہ کاتبہ (تہ) مدگار۔

یمو لاکو یہ وومت چھ نہ اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً
ترتیو مشرکھ تم اتہ ، پدک بے شک کافر تہ
اکیس معبودس وراہی چھنہ بیاکھ کاتبہ معبود تہ یہ کیشنہا
تم وان چھ اگر تم تہ نش باز آہ تہ تمونہ پدک
کفر پروومت چھ ہنن واتہ ضرور کر یوئمہ عذاب۔

اد تم لوکھ چھنا اللہ (تعالیٰ) ہس کن نمان ؛ تہ
تس (چھنا پنہن گونہن ہنر) معانی منگان ؛ نیل
زن اللہ (تعالیٰ) سبھا بخش وول اتہ ، چھ کر چھ کر
تم کران وول چھ۔

سپح ابن مریم اوس صرف اکھ رسول ، تس برہنم
رسول (تہ) چھ فوت پردے ہتی۔ بیر تہنر موج

أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا، كُلَّمَا جَاءَهُمْ
رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، فَرِيقًا
كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٥﴾

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَ
صَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا
وَصَمُوا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَقَالَ الْمَسِيحُ
يَبْنِي إِسْرَائِيلَ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي
وَرَبَّكُمْ، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا
النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
ثَلَاثَةٍ، وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ، وَبِئْسَ
إِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٨﴾

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ،
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ
خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ، وَآمَنَّا

صَدِيقَةً، كَأَنَّا يَا كُلِّبِ الطَّعَامَ، أَنْظَرَ
كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظَرْنَا أَنَّى
يُؤْفَكُونَ ﴿۵۱﴾

اُس سبھا پڑیاد۔ تم دونوں اُس کہیں کھووان
(روزانہ)۔ وچھ! اُسی کہتہ پاٹھو چھ تہند (تائید)
تھاٹھر دلیہ بیان کران۔ پتہ وچھ نہنن ہند خیال
کہتہ پاٹھو چھ بلاونہ یوان۔

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ
لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿۵۲﴾

تہ وکھ (زہ کیا توہی جیوا اللہ تعالیٰ) تراوتہ تم (جہن)
ہنر بندگا کران ہم نہ توہر نو قسان واتا وک طاقت
چھ تھاوان تہ نہ تائید واتا وک؟ تہ اللہ تعالیٰ
ہے چھ یس سبھاہ بوزن وول (تہ) سبھا زان
وول چھ۔

قُلْ يَا هَلْ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ
قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَ
ضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۵۳﴾

تہ وکھ نہ اے اہل کتاب! سینس دپنس متعلق
مہ ورتا و نا جائیز (پاٹھو) حد کھوتہ جاد مبالغہ
ہیہ مہ کروہن لوکن ہننن تھاہن ہنر پیا روی
ہم امہ بروٹھ (پانہ تہ) گمراہ سپرک ہوتہ چھتہ
(ہیہ) واریاہ چھ ہمو گمراہ کرک ہوتہ تہ (پانہ چھ
شیر و تہ نش دل ہوتہ۔

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ
عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۵۴﴾

بن اسرائیلو اندر پجو کفر پانوموت چھ تم پٹھ
آیاہ داوود تہ عیسی ابن مریم ہنر زیو لغت
کرہ (تہ) یہ سپرے یا و او کو نہ تہ مو کر یا سپہ
نافرمانی تہ، تم اُس حد نیران۔

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ،
لِيُنسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۵۵﴾

تم اُس تہ کہ اگس ناپسند کہتہ ہنر ہیکو تم جرم
وار سپرک (ہوتہ اسپہن)، ٹھاک کران۔ یہ کیتھا
تم کران اُس تہ اوس یقینا سبھا ناکارہ۔

تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا، لِيُنسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي
الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۵۶﴾

تہ وچھیکہ تمومنز واریاہ نہ ہم (لوکھ) کا ہر چھ
ہنن چھ ہم (پنہ) مددگار بناوان۔ یہ ہمو پنہ
مرضی سبتی بروٹھ سوزمت چھ تہ چھ سبھا
چھ۔ یوسہزن یہ کہتہ چھیہ نہ اللہ تعالیٰ
چھ ہنن ناراض گوتم تہ تم روزن عذایس اندر

۱۔ مسیح علیہ السلام سب کہیں کھووان چھ امہ کہتہ ہنر وپل نہ سہ اوس نہ خدا۔ انجیل

منز چھ مسیح بند کہیکہ چہنگ ذکر (مرقس باب ۱۱ آیت ۱۸۱۴)

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
مَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمَآ تَحْذُرَهُمْ
أَوْلِيَآءَ ۝ لَئِن كَثُرُوا مِنْهُمْ
لَفَسَقُونَ ۝

پیوستہ۔
بیمہ ہرگاہ تم ایمان تقویٰ میں اللہ (تعالیٰ) سے
(پیوستہ) تم (اُمس) نہیں (پیوستہ) تم سے
پیوستہ سے اُمس (نہیں) پیوستہ تازل کرنے آمت
چھ، تیلہ بناؤ میں نہ تم جس چیز مدگار مگر
تمو منتر چھ والاء نافرمان۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۝
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا تَصْرَىٰ بِذَلِكَ
بِأَنِّ مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَذُهَبًا نَّادًا أَنَّهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

تر بہکے مومنین سستی عداوت تھا ولس منفریقینا
یہودی تہ تم لوکھ یک مشرک چھ ساروہے کھوتہ
جادو سخت۔ تہ مومنین سستی محبت کرنے کہ لحاظ
لہبکھ تہ تمواندر ساروہے کھوتہ نزدیک تم لوکھ
یکم یہ ونان چھ نہ اُسی چھ لفارکا۔ یہ دکتھ
چھ او کئی نہ تہ اندر چھ کپتہ لوکھ) عالم تہ عابد
بیمہ او کئی نہ تم چھ نہ تکبیر کران۔

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَىٰ
الرَّسُولِ تَرَىٰ اعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ
رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

بیمہ تیلہ تم سے (الہی کلام) بوزان چھ یس نہیں
رسول پیوستہ تازل کرنے آمت چھ تہ (اے مخاطب!)
تر چھکھ وچھان نہ یو تاہ تمو حق پر نہ نومت یہ
تمہ کہ باعث چھ تہ تہنتر اچھ تر لہ شرالہ اوش باران
تم چھ ونان نہ اے سانبہ پروردگار اسہ چھ ایمان
اونمت لہذا لیکھ سون ناو (تہ) گواہن سستی۔

وَمَا كُنَّا لَنُؤْمِنُ بِاللهِ وَ مَا جَاءَنَا
مِنَ الْحَقِّ ۝ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا
مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝

بیمہ اچھ ونان نہ) اسہ کیاہ چھ گوتمت) نہ اُسی
انو نہ ایمان اللہ (تعالیٰ) سے (پیوستہ) تہ تھ
پزرس پیوستہ یس اسہ بش آمت چھ تیلہ زن اُسی
خاہش تھوان چھ نہ سون پروردگار کرن اسہ
نیک لوکن منتر دا نجل۔

فَاتَّقِ بِهْمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۝
ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝

او کئی کر اللہ (تعالیٰ) جس تہنتر (امر) کتھ
بدل تم جنت عطا یکن منتری کولہ پکان
آسن۔ جس منتر گشھن (تم) ہمیشہ روزان۔
تہ یہ ہے چھ نیکو کارن ہند بدلہ۔
تہ یو لوکو کفر پر وومت چھ تہ سادی آہ چھکھ
ایز او کئی۔ تم لوکھ چھ جہمی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكَذِبُوا بِآيَاتِنَا أَدْلِكَ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

اے ایماندارو! یہ کثیرھا اللہ (تعالیٰ) بن تہند
 باپتھ حلال ٹھہرومت چھ تہ منبر مہ ٹھہر او پاک
 پاکیزہ (چیز) حرام، تہ گندھ (حدو مہ سپرو
 نسیبہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھتہ گندھ) حدو نسیبہ
 نیرن والین لیتد کران۔

بیہ یہ کثیرھا اللہ (تعالیٰ) بن توہہ دیت مت
 چھو تہ منبر کھیو حلال (تہ) پاکیزہ (چیز) بیہ
 پراوو (تہس) اللہ (تعالیٰ) سُد تقویٰ، نیس پٹ
 توہہ ایمان تھوان بھو۔

تہند لو تہسو منبر دیو تہ اللہ (تعالیٰ) توہہ
 بے ہوو (تہس) پیٹھ سزا بلکہ تہند پوتہ تہ قسم
 کرس (تہ پتہ پھٹراوس) پیٹھ دیو توہہ
 سزا۔ لہذا تہیک (یعنی قسم پھٹراونک) لغاب
 چھ دہن مسکین (درمیانی) کھین کھیوان
 (تہتھ کھین) بیٹھ توہہ پننن گرکین کھیوان
 چھو یا تہن ہند پوتھک یا اکھ گردن (غلام منبر)
 آزاد کران۔ اڑ نیس تہ (پتہ) میسر سپر
 تیلہ چھ تریہ دہہ روز (درہی تہس پیٹھ واجب)
 تیلہ توہہ قسم کرہ (تہ پتہ پھٹراوو، تہ)
 یہ گوو تہند بن تہس ہند کفار۔ بیہ اسو توہہ
 پننن تہس ہنر حفاظت کران (اللہ تعالیٰ)
 چھ پننن آہ تہند باپتھ بیتھ پاٹھو بیان کران
 بیٹھ توہہ شکر کران والی ہنو۔

اے ایماندارو! شراب تو زار تہ پوتہ تہ چیرن
 ہندک تہر چھ محض ناپاک تہ شیطانی کار اوکھ
 بچو توہہ بھو (منبر پر سچہ کہ) ہنہ بیٹھ زن توہہ
 کامیاب سپرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ
 مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۵﴾

وَكُلُوا وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ
 أَتَقْوُونَ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۵﴾

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
 وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ
 فَكُفَّارَتَهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ
 أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ
 أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
 ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
 حَلَفْتُمْ وَارْحَمُوا حَفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ
 الْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿۵﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ⑤

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ
وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا
رَسُولُنَا الْمُبْلِغُ الْمُبِينُ ⑥

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا
اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ
اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآخَسَنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ⑥

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ اللَّهُ
بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَ
رِمَاكُمْ لِيُعَلِّمَهُ اللَّهُ مِنْ خَفَائِهِ
بِالْغَيْبِ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِمَّا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ
بِهِ ذُو عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بُلِغَ
الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ
عَدْلٌ ذَلِكَ صِيًّا مَا لَيْدُونَ وَبِالْأَمْرِ
عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ

شیطان چھ صرف یہ بیٹھان نہ توہمہ در میان تلوہ
شرابہ تہ زلہ دسی عدوت تہ کہنت تہ اللہ تعالیٰ
ہند ذکر تہ نماز نشہ ٹھکانہ و کیا وہ فی ہیکل
وا توہمہ (میو کھو نشہ) پتھ روزتھ ؟

بہ کرو اللہ تعالیٰ (تہ) ہنسر (تہ) اطاعت تہ زکولہ
ہنسر (تہ) کرو اطاعت تہ ہنسر روزہ، بہ اگر
توہمہ (امیر منہیب پتہ تہ) پھیر کر و تیلہ زانو
نر سانس رسولس چھ صرف واٹس کڈی کڈی
واتناونے اوت منہ۔

یو لوکو ایمان اونٹ چھ تہ (بہ) چکھ نیک
کامہ کر مشرہ تیلہ ہم تقویٰ پران تہ ایمان
اتن تہ نیک عملہ کرن بہ کرن تقویٰ (ہس منز
ترقی) تہ ایمان ان تہ پتہ تہ کرن تقویٰ (ہس
منز بہ ہن ترقی) تہ احسان کرن اہ بہ کیشٹھا
اتہ) ہم کھن تھہ پیٹھ (آسہ) نہ تمن کائہ گونہ
تہ اللہ تعالیٰ) چھ احسان کرن والہن ستر محبت
کرن۔

اے ایماندارو! اللہ تعالیٰ) کر ضرور تہنتر ازیش
اگر (پس پایہ) چیز یعنی شکار کہ ذریعہ بیتھ ستانی
تہند کہ اتھ تہ نیز بیان آسن۔ بیٹھ اللہ تعالیٰ)
ہن لوکن نون کڈی ہم تنہائی منز تہ تس کھوران
چہ۔ پتہ یس (شخص) امر (حکمہ کر بوز تہ) پتہ
اتہ) جادتی کر تہند خاطر آسہ تیلہ کروٹھ عذاب
اے ایماندارو! توہمہ مہ ارسو اجرام کس حالتس منز
شکار مارن تہ توہمہ منز یس (شخص) تہ نا تھہ
مانتھ مارہ، اہ یس (شکار) تمہ قتل کورمت آسہ
تمہ قہمک (چارووسے) آسہ (تس) بدلہ دکنہ
دین) نیمیک فاصلہ توہمہ منز نہ انصاف کرن
وہل انسان کرن۔ تہ سہ چارووسے چھ کھس تام
(قرہائی خاطر) واتناون تہ ضروری تہ (اگر

اللَّهُ مِنْهُ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۱۱﴾

تمیگ طاقت آسپس نہ تیل، آسپس کفار دین، یعنی کینٹرن مسکین کھن کھیاون یا تنھ برابر روز تھاونہ بیتھ زن سہ (مجرم) پنہنہ کامہ ہند بد انجام د پتراو۔ ووز گوو یہ (پتھ کن) گڈریومت چھ سہ پتھ اللہ (تعالیٰ) ہن معاف کورمت تہ یس شخصس بیہ (تی) کر تس بیہ اللہ (تعالیٰ) تہند بربک (سزا تہ اللہ (تعالیٰ) چھ غالب (تہ بدکارک) سزا دہن وول۔

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيِّدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِلسَّيِّئَاتِ أَجْرٌ وَ حُرْمَةٌ عَلَيْكُمْ صَيِّدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۱۲﴾

سمندری شکار کن تہ سہ کھنوں چھ تہند تہ سفر کرن والین ہند شطہر جائز کرنہ آمت۔ مگر یوتانی توہر احرام کس حالتس منز موشکی ہند شکار چھ (تتھ وفتس تام) توہر بیہ حرام کرنہ آمت، تہ توہر پراوو اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ سیمر ہندس دربارس منز توہر یکجا کر تھ نہنہ بیو۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِّلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْهَدْيَ وَ الْقَلَائِدَ، ذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۳﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن چھ کعبہ یعنی محفوظ گہ لوکن ہنز راکی ترقی ہند ذریعہ بنومت تہ بیہ حرمتہ اولی رتھ تہ قربانی ہندک چار اولی تہ سیمن چارواہن ہیس مالہ تراونہ آسپن آمشہ (تم تہ یہ چھ او کتہ کوومت) نہ توہر زابوزیہ کیشہا آسمان اندر چھ تہ یہ کیشہاز مینہ منز چھ اللہ (تعالیٰ) چھ ہمن سارنہ زانان۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً پرتھ چرک علم تھاون وول۔ یاد تھونہ اللہ (تعالیٰ) چھ عذاب ولس اندر (تہ) سوخت تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سبھا بختن ہر (تہ) مہربان تہ۔

وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۴﴾

رسولس پیٹھ چھ صرف (کتھ ہند) واتناون (واتہ) تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سوکتھ زبر پاکھ زانان، یوسہ (عملی طور) تہندہ روسی ظاہر پلان چھیہ تہ (سوتہ) یوسہ (وہنہ عملی طور) ظاہر پیکر تہ

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۵﴾

پہنچنے -

تہ وہاں زبے کار (چیز) بیگم تہ فایدہ مند
(چیزیں) برابر آہستہ - اور توہ بے کار چیزیں
بیادتی کٹا تہ پسند آسوں - لہذا اسے عقلمند واپس!
اللہ (تعالیٰ) سداً تقویٰ پر اوڑھتی تہ توہر کامیاب
گرتے ہو۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ
أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
يَأْتِيهِ الْبَابُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۳﴾

اے مؤمنو! (بتمن) کتنے متعلق مرہم سو کران کو
(بیم) ہرگاہ توہر پیٹھ نظر کر رہے تہ تہمت
تکلیف باعث بنے۔ تہ اگر توہر تہمت و قس منتر
بتمن نسبت سوال کرو بیٹیلہ قرآن نازل کرنے یوں
پہتہ تیلہ بن (بتمن) توہر پیٹھ نظر کر رہے۔ اللہ
(تعالیٰ) پتھ پانے (زانتہ مانگتہ) بتمن ہستہ
بیان کرنے ہستہ خاموش روڈمت تہ اللہ (تعالیٰ)
پتھ سبٹھا بختن وول آتہ، سوچیں سمجھیں کام ہستہ
وول۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن
أَشْيَاءَ إِن تَسْأَلُوا تَسْأَلُوا كَمَا دَرَأَ
تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ
تَسْأَلُوا عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ
حَلِيمٌ ﴿۱۳﴾

توہر بروٹھ پتھ اکر توہن ہر صحن کتنے متعلق
سوال کر رہے تہ (مگر بیٹیلہ جواب میں لکھتہ تہ) تمہ
(کر ماننے) ہستہ کورکھ (اد) انکار۔

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ
أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿۱۳﴾

نہ (تہ) پتھ اللہ (تعالیٰ) ہن بچہ رہے (بناونہ)
باپتھ حکم دیتے نہ سائہ تہ نہ وصیلہ
نہ حاکم بناونک۔ مگر ہم (لوکھ) کافر پتھ ہم پتھ
اللہ (تعالیٰ) ہس پتھ اپز توہمت (لاگتہ) تھوان
تہ تمہ منتر پتھ واریاہ عقلمند روہستہ۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ
وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَاوِيَةٍ لِّكَيْتَ الَّذِينَ
كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَانُوا
كَثْرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۴﴾

لہ بچیرتہ: مٹے سم وونٹ لیند کن ترہ ہستہ آسن آہستہ۔ بیٹیں وونٹ نہ داہ بچہ زابتر آسہ
ہن تہ آس یوں کن ترہ ہستہ تہ سو مس کام ہستہ رہا کر رہے یوں۔
لہ سائبتہ، بیٹیلہ کانسہ وونٹنہ آسہن پانتر بچہ زابتر تہ سو آس بیٹلہ تراونہ یوں۔
لہ وصیلہ، بیٹیلہ ترہا وجر اکھ کچہ پوت تہ اکھ کچہ پوت ڈکر زبوان آسہ تہ بتمن آسہ
نہ ذبح کران۔ نہ اکر ہستہ مارنہ ہستہ گرتہ بیٹیں تکلیف۔
لہ حاکم: نہ تر وونٹ لیند نہ لکھ داہ بچہ سپرہن نہ تہ اوس یوں بیٹلہ تراونہ۔
نہ آس تہ سوار کر کران تہ نہ آسہن کتہ نہیں سمجھ سکام، یوں۔

وَاذْأَقِيلَ لَهُمْ تَعَاكُوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
وَدَالِ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۵﴾

بہے بیلیہ تسمن و نرہ سچہ یوان نر خدایہ ہندس تا نزل
کر کر مہتس (کلاس) تہ (تہندس) رسولس کن بیو
تہ تم چہ ونان نر اسر ہتہ کتہہ پیٹھ پینز جد جلا
و چھوتو اسی (تہ) سچہ سانہ خاطر کانی کیا ہراہ
(یہ صورت آسہ نر) تہندک جد جلا آسہ ہن نابلان
تہ صیح و تہ آسہ ہن نہ زمان (توتہ روزناہ) تم
پنس سندس پیٹھ قایم)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ
لَا يَصْرِكُمْ مَنْ صَلَّى إِذَا اهْتَدَيْتُمْ، إِلَى
اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

اے مومنو! توہم کرو پستین نزل ہنز (رایہ
کر مریخ) بکر بیلیہ توہم ہریت لبو تہ کانسہ ہنز
گر اہی و اتا و کو نہ توہم تو قصان۔ توہم سارہ
چھو اللہ (تعالیٰ) ہس کتہ چھہ تہ گر تھن لہذا
یہ کثیرھا توہم کران چھو، سہ کر کر و توہم تہ
بشہ خیر وار۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ
إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَاعِلٍ مِنْكُمْ أَوْ
آخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا
نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، وَ
لَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِيَّاكُمْ إِذَا لَمِنَ
الْأَثْمِينَ ﴿۱۲﴾

اے مومنو! بیلیہ توہم مفر کانسہ موت (یک وقت
نزدیک) بیہ تہ وصیتہ کر وقتہ پز کر و توہم
پانہ و اذ کو اہی (ہند طریقہ) ہتہ کتہ (تھاوان)
نر توہم مفر سپن نر انصاف و اذ گواہ (مقرر)
یا نر گواہ (یکم توہم مسلمانو مفر آسہ نہ بلکہ)
آسہ دو پیر مفر، (یہ قاعدہ آسہ تہ صورتس
مفر) بیلیہ توہم مفس اندر سفر کر و فی اسی
تہ توہم پیٹھ سپد موتک مصیبت تا نزل (تہ
توہم سپد نو نہ پینز گواہ میسر)، توہم (مومن
ہنز جماعت) تھا کتا و لوکھ (تہ صورتس اندر) تم
دو نوے گواہ) نماز پتہ تہ تم دو نوے (بیلیان)
توہم (تہ ہنز گواہی پیٹھ) شک آسہ و، و تہ
اللہ (تعالیٰ) سہ قسم توہم نر اسی چھہ امر (شہادت)
بشہ دین، کانسہ قاید نظر تل تھاوان۔ اذ (یکم
ہند سچہ اسی گواہی دوان آسہ) سہ کو نہ آستن
سون اشنا و ہے تہ اسی تھا و نہ اللہ (تعالیٰ)
ہنز (مقرر کر مفر) شہادت (یعنی پوز و ننگ

فرمن، کھٹھہ۔ اگر اسی تہ کرو تہ اُسو سپرو
(تھہ صلوئس منز) گونہہ مگار۔

اد اکر (پتہ پین) یہ کتھ ننے بہ زیو دوشو لو پتھ
(پانس پٹھ) گونہہ واجب کورت۔ تہ بہ نہ شخص
سپان (بیو وارثو) یعنی مورد ہندو اُشاو منز (مین
خلاف گونہہ کہو دویو شخصو حق قائم کورت اوس
(گواہی خاطر) اسلو تہ تم ذن اللہ (تعالیٰ) منز
درہے کرتھہ ز سانی گواہی چھہ (مین) گونہہ مین
دون گواہن ہنر گواہی کورتہ جاد پز تہ اسہ کرتہ
(پسنہ گواہی منز) کانہہ جادتی۔ اگر اسہ تہ اسہ
تیتھ کورت تہ اُسی گرتھو ظالم گننراو ذر۔

یہ طریقہ ازہ تمن (گونہہ مین گواہن) اتھ کتھ جاد
تزدیک ز تم دن شہادت پز (واقعہ) مطابق یا
کھوژن (اتھ کتھ) نہ تہند لو قسو پتہ مین
(کینہہ) بیہ قسم (تہند کہ قسم رد کرتہ مہ کھ) پیش
کرتہ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) سہ تقویٰ پراوو بیہ کُرد
تسذین حکمن ہنر جان پاتھو اطاعت تہ (یاد
تھاووز) اللہ (تعالیٰ) چھنہ بتمر پھرن ہدایت
دوان۔

بیہ (کُرو سہ دوہ یاد) بیہ دوہ اللہ (تعالیٰ)
سولن سونراو تہ ونبکہ توہہ کیا جواب اوسو
ذہن آمت ؛ تم ذن اسہ چھنہ حقیقی علم
خاہر چین کتھ ہند اہل علم پتھ صرف، ثریہ۔
تمہ وقتہ ذن اللہ (تعالیٰ) (عیسیٰ ابن مریم تہ)
نہ اے عیسیٰ ابن مریم! یوسہ لغت میہ ثریہ
پتھ تہ چانہ ماہر پتھ نازل کریا بیہ سو کر یاد
(یعنی) بیلہ میہ پاک و صیہ سوتی ثریہ مدد کریاویہ
تہ اوسکھ لوکن سوتی لو کپاس منز (تہ) اڈور وانہ
منز تہ (رؤحانیہ تہ چہ) کتھ کران۔ بیہ اکر سہ
وقت تہ یاد (بیلہ میہ تہ کتاب تہ حکمت (چہ

فَإِنْ عُرِثَ عَلَىٰ آلِهِمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا
فَأَخْرَجَ يَفْقَهُ مِمَّا مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ
اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَاكِينَ فَيَقْسِمِينَ
بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنَ
شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِلَّا إِذَا
لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵﴾

ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ
وَجْهِنَا أَوْ يَحْكُمُوا أَنْ تَكُونَ آيْمَانُ بَعْدَ
آيْمَانِهِمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۵﴾

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا
أَجَبْتُمْ، قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۵﴾

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُوسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ
نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ
أَيْدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَنْ تَكَلِّمَ النَّاسَ
فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ
وَالحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَإِذْ
تَخَلَّقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي
فَتَشْفَعُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي

کہتے، بیچھونو کہ تہ تورات تہ آجیل (، بیچھونو مکھ) تہ ییلہ تہ میانہ حکمہ سیدی میتر ہنتر خصلت تمھون والیو (فردو مشنر) جانوار پاڈ کرنگی پاٹھو مکھ مخلوق پاڈ کران اوسکھ پیتہ اوسکھ تہ تمہن اندر چھو کہ لایان تہ تمہ اسی میانہ حکمہ سیدی مونس لایق گزھان تہ تہ اوسکھ میانہ حکمہ سیدی اُنی تہ پتھر لد بڑی کران مکھ ییلہ زن میانہ حکمہ مودر مکھ کران اوسکھ بیہ ییلہ میہ بنی اسرائیل (بیم تہ قبل کرنگ ارادہ تھاوان اسی) تہ تہ نش پتہ رُڈ (تہ وقتہ) ییلہ تہ تمہن نش دلایل پتہ آکھ تہ تمہ وون کافرو بیم ہے چھ تہ واپہ دو کو دہن واجہہ کہتہ ۔

بیہ (کر سہ وقت تہ یاد) ییلہ میا پچانہن (حوار بن ایضہ خرائٹ) کن وھی سوز نہ میہ پتہ تہ میا بس رٹوس پتہ اُو ایمان ۔ تمہ وون (تمہ وھی ہنک ہوا بس مشنر) نہ اسی چھ ایمان انان تہ تہ روز گواہ نہ اسی چھ فرمانبردارن مشنر (شابل گاہتہ)۔
بیہ (کر سہ وقت تہ یاد) ییلہ خوارو وون نہ اے عیسیٰ ابن مریم! پچائس رتس چھا طقت نہ سانہ خاطرہ والہ آسمانہ پتہ (کھنہ چنہ بڑتہ) اکھ خان؟ (اتھ پتہ) وون مسہن اگر توہی (پڑی) مؤمن چھو تہ اللہ (تعالیٰ) سُنہ تقویٰ پراوہ ۔

وَتُبْرِئِ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ أَخْرَجَ الْمُؤْمِنِينَ بِيَدِي إِسْرَاءَ يَلِكْ إِذْ جَعَلْتَهُمْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ إِذْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۱۰﴾

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۱۱۱﴾

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾

نہ بیجانہ جانوار مٹھون چھاہ دتھ بچہ کران چھ متھے کتو چھکھ تہ تہ رُوحنی قابلیتہ والین شخصن چنہ تہ بیگ چھاہ دتھ تمہن رُوحنی پروازس قابل بناوان ۔

تہ میہودی اسی انہن تہ پتھر لدن ناپک گنزراوان (احبار باب ۱۳ تہ باب ۲۱) مسیح علیہ السلام کرکے تم بے قصور ثابت ۔

سہ خداتعالیٰ ہس بقار ہیکہ نہ کا نہ مودرن زندہ کر تہ ۔ بیستین چھ رُوحنی مودر مسرادہ تہ تہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمن متعلق قرآن کریمن مشنر آمت چھ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

(انفال ۲۵۱) یعنی سہ چھو تہ ہر آلودوان میٹھ نہ تہ ہر کرکے و زندہ

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَحْمِلَ ثَمَرَهَا
فَلَوْ بَدَأْنَا وَنَحْمِلَ ثَمَرَهَا أَنْ قَدْ صَدَّقْنَا
نَكُونُ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۷﴾

تمو (حواریو) وون نہ اسی چھہ بیٹھان نہ تہ
کھینہ) منہ کھینو تہ ساڈ دل سپن مطمئن نہ
سون خد چھہ تو درتہ وول، بیہ سپد اسہ یقین نہ
ثریہ وونٹھ اسہ پوز۔ تہ اسی سپدو اتھ متعلق کوئی
دس لایق۔

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ
عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا
عَيْدًا إِلاَّ دَرِينَا وَآخِرُ نَارِ آيَةٍ مِنْكَ ۖ
أَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿۱۸﴾

(اتھ پیٹھ) وون عیسی ابن مریم، اے اللہ!
اے سائہ پروردگار! اسہ پیٹھ کر آسمانہ پیٹھ کھینہ
چینہ وونٹھ) (اکھ) خان نازل یس اسہ (سچی
کو) منہ کوٹو تہ حصہ باپتھ تہ عید (کر تہ
موجب) اسہ تہ آخری حصہ باپتھ تہ سپد عید
(کر تہ باعث) تہ چانہ طرفہ (اسہ) اکھ نشان تہ
تہ و اسہ (پینہ کنہ) رزق تہ تہ چھکھ ساروہے
رزق دہن والہو منہ بہترین رزق دہن وول۔

قَالَ اللَّهُ إِنَّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ
يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا
لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۹﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن وونٹھ بہ کر توہہ پیٹھ تہ
(مائدہ) بلا شک نازل۔ مگر یس اکھ توہہ منہ تہ
(کر نازل گرھنہ) پتہ ناشکری کر۔ اڈ بہ دہ تہ
تہ عذاب نہ دنیاہس منہ دہ نہ تہ عذاب بیہ
کھنسی (توس)۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ آتَتْ
قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُخِي إِلَهَيْنِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ، قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ
لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ حَقٌّ ۖ إِنْ
كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعَلَّمْ مَا فِي
نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۖ إِنَّكَ
أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۲۰﴾

بیہ بیلیہ اللہ (تعالیٰ) ہن وون، اے عیسیٰ ابن
مریم! ثریہ وونو تھا لوکن نہ مینہ تہ میانہ ماہر
بنائون اللہ (تعالیٰ) ہس وراکی معبود؟ تہ
تہ وون درجواب نہ تہ چھتھ (اسی تمام عابو نشہ)
پاک گنہ رواون۔ میون شوہر ہے نہ نہ بہ وہ
تہ (سو کتھ) بیٹیک نہ مینہ حق اوس، تہ اگر مینہ
تہ وونٹھ اسہ ہے تہ ثریہ اہی ضرور تمیک پنے۔
یہ کینہ میانس دس منہ چھہ تہ چھکھ (تہ زانان۔
تہ یہ کینہ میانس دس منہ چھہ بہ چھس نہ تہ)
زانان۔ تہ چھک بے شک (سارہے) غاہہ چہ
کتھ زہر پٹھو زان وول۔

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ

میںہ دنیاہ اتن صرف سوے کتھ بیٹیک ثریہ مینہ

اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُمْ فِيهِمْ ۚ فَكَلَّمْنَا تَوَاقِيْتِنِي كُنْتُمْ عَلَىٰ الرَّقِيبِ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۳۸﴾

حکم دیتے اوستہ۔ یعنی یہ ز اللہ (تعالیٰ) سبزر کرو عبادت، ایس میون (تہ) پروردگار چھ تہ تہند تہ پروردگار چھ تہ یوتانی ہر تہن منتر (موجود) رُودس، ہر رُودس تہند نگران مگر نیلہ تریہ میہ وفات ڈرتھ تہ تہے اوسکھ تہن پیٹھ نگران (ہر اوسس تہ) تہ تہ چھاکھ ہر تہچہ چیزس پیٹھ نگران۔

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَا تُهْمُ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَخَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۹﴾


ہر گاہ تہ تہن عذاب دین ہر تہکھ تہ تہم چھ چاڑی بند تہ ہر گاہ تہ تہن بخشش ہر تہکھ تہ تہ چھاکھ سبھا غالب (تہ) بچہ حکمت رول (خدا)۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۴۰﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن فرمودہ پی چھ (تہیہ) (دوہ) یہہ منتر پیڑ یارین تہند پیڑ نفع دیہ۔ تہن میں تہتھو باغ میں منتر نہر پکان آسن تہم تہن ہمیشہ تہن منتر روزان۔ اللہ (تعالیٰ) سپد تہن راضی تہ تہم سپد تہس راضی (تہ) پی چھنیہ (اکھ) بڑ کامیابی۔

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ مَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۱﴾

آسمان تہ زمینہ ہنر بیہ یہ کئی تہا تہن در میان چھ، چھج بادشاہت چھیہ اللہ (تعالیٰ) ہندی تھاکر تہ تہ چھ پر تہہ کتھ پیٹھ (پور) پور تہدرت تھان



سورة انعام: یہ سورہ چھ مکی تو بسم اللہ ہتھ چھ اکھ اکھ تہ تہا تہہ آئیہ، بیہ حصس وہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

ہر حصس، اللہ (تعالیٰ) سندا وہ تہہ (پران) ہمیں حد رُوس کرم کرن وول (تہ) چھہر کھچہر کرم کرن وول چھ۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَةَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرٰ رَبَّهُمْ يَعْدُوْنَ ﴿۲﴾

سارنہ (قہم کہن) تفرین ہند تھدار چھ اللہ (تعالیٰ) ہے۔ نیگ آسمان تہ زمین یاد چھ کر ہتھ تہ تہہ گٹ تہ گاش تہ چھن بنومت۔ امر باوجود چھ

کافر سپنس پروردگار ہندے شرک بناواں۔
 سہ چھ خدایا سیمو توہر سرچھہ (نم دار) مپشر
 نشہ پاؤ کرک توہر چھو۔ پتہ کون (زندگی ہند
 وقتہ خاطر) اکھ معیاد توہر بیہ چھ بدل بیاکھ
 معیاد تہ سیمیک فلم صرف تسواوت چھ پتہ تہ
 چھو توہر شک کران۔

بیہ چھ آسمان تہ زمین مشرے خدا بیس تہندک
 سر تہ زانان چھ تہ تہندہ نہ کتہ تہ، تہ پ
 کیشہا توہر کب کران چھو تہ چھ زانان۔

بیہ آو نہ بہن لوکن نش تہندہ پروردگار ہندو
 نشانو مشر زنیہ کا نہہ نشانہ مگر (بہندہ طریقہ
 یہ رودت ز) تم چھ تہ نشہ صرف رکہ گردانی
 کران آہو۔

او کو نیلہ کا بل حق (یعنی قرآن) بہن نش آو
 تہ تہ تہ کوڑ جو انکار، وونی نیر تمیک یہ
 نتیجہ زمین کتھن متعلق تم مٹھ کران اسر
 جلدے بہن بہن، بہن ہند واقعہ سپد خچہ
 خیر میلنہ۔

کی بہن چھناپے نہ بہن بروٹھ کاتہ بہن زمان
 (ہندک لوکھ) یکن اسر زسپنس مشر تیوت طاقت
 بحتمت اوس یوت طاقت توہر (سیمہ زمانہ کہن
 لوکن) تہ بخش تہ، کرک اسر ہلاک؛ بیہ سوزاؤ
 اسر بہن پیٹھ ددراپہ روڈ والاں او بر تہ تمہ
 سوتو آسہ اسر ہرٹھ تہر پکناؤک مشر پم تہندک
 قبھس تہ اتھس تل پکان آسہ، پتہ کرک اسر
 تم تہندو گو ناہو کوی ہلاک تہ تو پتہ کوڑ اسر
 بیاکھ اکھ نسل پاؤ۔

بیہ اگر اسر تہ پیٹھ اکھ کاغذک پیٹھ لیکھہ آہن
 کتاب نازل کرہو بیٹھ تم پستہو اتھو سوتو چھو
 بہن تہ کافر وہن بہن توہر بہ چھ اکھ ٹاکا فریب۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ
 أَجَلَهُ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ
 تَمْتَرُونَ ﴿٦﴾

هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ
 يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا
 تَكْسِبُونَ ﴿٧﴾

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا
 كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨﴾

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ
 يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٩﴾

أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ
 قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ
 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَابًا وَجَعَلْنَا
 الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ
 فَكَفَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَكُنَّا مِنْ
 بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿١٠﴾

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ
 فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١﴾

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ، وَلَوْ
أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا
يُنظَرُونَ ﴿١﴾

ہیہ چھ (مخالف) وناں۔ اُس پٹھ کو نہ آوا کائہ
ملایک نازل کرنہ؟ تہ اگر اُس کائہ ملایک نازل
کرہو، اِد (تیلہ ہے) فاصلے گزرتہ ہے پتہ پتہ
ہے نہ تمہن موہلت دہن۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَّ
لَكَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِيْسُونَ ﴿٢﴾

ہیہ (گرتہ پتہ یاد تھاؤن نہ) ہرگاہ اُس یہ
(پینغیر) ملایکو مشر تجوز کرہون تو تہ دہر ہو
اُس تس مسر نہنرے شکل تہ تمہن پٹھ کرہو
توتہ (اُس) سوکتہ مشتبہ ہتہ وڈی کین تم مشہ
واجز زانان چہ۔

وَلَقَدْ اسْتَفْهِزَّ عَادٌ بَدْسِلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَفْهِزُّونَ ﴿٣﴾

ہیہ ہم رٹول تریہ بروٹھ گدرے ہوتی چہ تمہن سرتی
تہ آیایہ ٹھٹھ مٹول کرنہ۔ نتیجہ دلاویہ نہ تمہو
مشر بیو ٹھٹھ مٹول کرہو تم وڈی تمہی عذابن
ہتہ، ہتہ سرتی تم ٹھٹھ نلاق کران اُس۔
تہ ون تمہن (ہنا) پھیرو زمپنہ مشر پتہ وچھو
اپزانن والہن ہند انجام کیا چہ سپدان۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٤﴾

تمہن پر تھو تر آسمان تہ زمپنہ مشر یہ کینٹھا
چہ سہ کھر سندر چہ؟ (تمیک جواب کیا دتے تم،
او کون، تریہ) ون (تمہن) اللہ (تعالیٰ) سندر
تمہ چھہ پستس نفس پٹھ رحمت فرض کرہتہ
تھاو ہتر سہ روزو توہر قیامتہ کس دہ ہس
تام سہ سہراوان۔ اتھ کتھ اندر چھنہ کائہ شک
نہ تم لوکھ بیو پتو رو کائس مشر تراورہ تم ان
تہ (امر بد اعمالی ہند سہہ) ایمان۔

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ،
قُلْ لِلّٰهِ، كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ،
لِيَجْزِيَكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ
فِيْهِ، الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا
يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥﴾

ہیہ یہ کینٹھا راتر (ہنر انہ گڑی) تہ دہ ہس
(یعنے دہر کائس) مشر مؤبود چہ تہ سورے
چہ سندر (یعنے خدایہ سندر) تہ سہ چہ سہٹھا
بوزن دول اتہ، وارلہ زانن دول۔

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْاٰبِلِ وَالنَّهَارِ، وَهُوَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦﴾

تہ وکٹھ کیابہ بناؤناہ اللہ (تعالیٰ) ہس ور ائیہ
ہس آسمان ہند تہ زمپنک پاؤ کرن دول چہ،
بیاکھ دوست؟ نیلہ زن سہ چہ (سارہ انسان)

قُلْ اَغْيَرَ اللّٰهُ اَتَّخِذُ وَرْثًا فَاطِرَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَاَلَا
يُطْعَمُ، قُلْ اِنِّيْ اَمْرٌ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ

مَنْ أَسْلَمَ دَلَّ لَا تَكْفُورَ مِنْ
الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰﴾

رَبِّقِ دَوْلان تہ لئس چھنہ (کانہہ ہندہ طرفہ)
رَبِّقِ دِنہ یوان - تہ وککھ ! مینہ چھہ محکم دینہ
آمت نہ بہ ہنہ سارہ وہے کھوتہ بوڈ فرما تہ رار
بیہ یہ نہ (اے رُکول !) تہ مینہ مُشْرک کو منہ
ہکھ ؟

قُلْ إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۱﴾

تہ ون نہ اکر بہ پینس پروردگار ہنہ فرمائی کبر
تہ بہ چھس اکر بڑ وکھس عذاب کھوتان ۔

مَنْ يُضْرَفْ عَنْهُ يَوْمٌ فَقَدْ رَجِمَهُ
وَذَلِكَ الْقَوْلُ الْمُبِينُ ﴿۱۲﴾

لئس لئس (عذاب) طالعہ او تہ (زانی تو نہ تہ
دوہ بہ کور خداین لئس پپہہ رحم تہ یہ چھینہ
سپٹھا بڑ کامیابی ۔

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۳﴾

بیہ ہر گاہ اللہ (تعالیٰ) تریہ کانہہ ضرر واتناوی
ادئس ورائی ہیکہ نہ سہ کانہہ دُور کُرتھ تہ اکر
سہ تریہ کانہہ رُزُر واتناوی تہ سہ چھہ پرتھ
کھہ پپہہ قادر ۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۱۴﴾

بیہ چھہ سہ پیننہ بدن پپہہ غالب تہ سہ چھہ
بجہ حکمت وول (تہ) سارہ وہے حالاً تو ہنہ خبرار

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۚ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ
هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ
بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ
إِلَهَةً أُخْرَى ۚ قُلْ لَمْ أَشْهَدْ قُلُوبًا
هُوَ إِلَهُ وَاِحِدٌ وَرَأَيْتِي بَرِيءٌ وَمَا
تُشْرِكُونَ ﴿۱۵﴾

تہ ون سارہ وہے کھوتہ جاڈ (پز) گواہی دینہ
واجب کوس ہستی چھینہ - پیتہ ون (پانے جواہر
کینہ) نہ اللہ (تعالیٰ) : سہ چھہ توہہ تہ مینہ
درمیان گواہ - تہ مینہ کن چھہ یہ قرآن (شریف)
وحی کرتہ آمت سیتھ نون امیر کز ذلیعہ بہ توہی (مینہ)
والعذابہ ہنہ) ہشیار کرو - بیہ تم ساری) تہ مین
تام یہ واہہ - کیا توہی چھو یہ گواہی دوان نہ اللہ
(تعالیٰ) ہس ورائی چھہ کینہہ بیہ معبود تہ ؟ (تہ
پیتہ) وککھ (پینہ طرفہ) نہ (توہی رُوزر توہیہ
اپز گواہیہ دوان) بہ چھنہ بیہ گواہی دوان -
(بیہ) وککھ نہ سہ (خدا) پچھہ پینس ذاتس منہ
صرف کئے خدائے تہ بہ چھس تمہن چینہ ہزار
ہکم (چینہ) توہی خدایہ ہندہ شریک بناوان

پھو کوکھ -

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ
 كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۗ وَالَّذِينَ
 خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۶﴾

تم لو کہ میں اسے کتاب دے رہا ہوں تو تم بھی اسے
 (پڑھ کر) جانتے ہو گے۔ پڑھنا تو تم سب ہی
 جانتے ہو۔ پڑھنا تو تم سب ہی جانتے ہو، مگر تم لو کہ گناہ
 کرنے سے تم اپنے آپ کو ہار دیتے ہو (تم) تو لو کہ گناہ
 کرنے سے تم اپنے آپ کو ہار دیتے ہو۔
 ایمان لانے -

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
 أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
 الظَّالِمُونَ ﴿۱۷﴾

بے تہمت کہو تو جو اپنے خدا کے لیے کذب
 (تعالیٰ) اسے پہنچے اور توڑا اور ان کے
 نشانوں پر اور ان کے آیتوں پر کذب کیا۔ یہ
 ظالم ہیں۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ
 لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَاءِكُمْ الَّذِينَ
 كُنْتُمْ تَدْعُمُونَ ﴿۱۸﴾

بیسے سب سے دوہرا ہو گا تم ساری سونہرا کوکھ، پتھر
 ساری شریک ٹھہراؤ گی تو تم بھی تمہیں
 (بتاؤ گی) تم شریک کہتے ہو۔ میں متعلق
 تو ہی دعویٰ کرانے والے ہو (تم بھی اللہ تعالیٰ
 بندے شریک)۔

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا
 وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿۱۹﴾

پتھر وہ تو تم اسے کس جو ایسے متصرف یہ زوال اللہ
 (یعنی اللہ تعالیٰ سب سے درپے) میں سون (پتھر)
 پروردگار ہے۔ اسی تمہاری (میں) نہ مشرک۔

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۰﴾

وہ جھٹلے! تم کہتے پاؤ گے وہ (بیتھ موقمیں پہنچے)
 پس میں زوال متعلق اپنے۔ تم یہ (کئی شے) تم اسے
 بروٹھ بہتان بازی کرانے والے، (تم سورے) اگر
 تمہیں ٹھٹھ۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ
 قُلُوبِهِمْ أَسِنَّةً ۖ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي
 آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةً لَا
 يُؤْمِنُوهَا بِهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ
 يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
 هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۱﴾

بیسے جھٹلے جو متعلق ہیں (لو کہ) تمہیں ہم تو ہم
 تمہیں سن رہے ہیں (کن داران جھ حالانکہ اسے جھ
 تمہیں دین پہنچے پروردگار ہی ہے۔ یہ نہ
 یہ فکر کر (نہ)۔ بیسے جھ تمہیں کن زبرد
 کرنے آمت) تم اگر تمہیں پر تھو کہ (تسک)
 نشان دہن، تم انہ نہ تھو پہنچے ایمان۔ یونانی
 (جھ تمہیں حالت و اثر مہر) زبیر تمہیں
 یوان جھ تمہیں ہی جھ مجاہدہ لگان۔ کافر جھ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَسِنَّةً ۖ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةً لَا يُؤْمِنُوهَا بِهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۱﴾

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۵﴾

وہاں یہ (قرآن) چھٹے صرف بروٹھوں میں ہنر و آستان۔
 بیہ چھوٹے امیر نشہ (بہین تہ) پتھڑاں تہ
 (پانہ تہ) چھ امیر نشہ دُور روزان۔ اما پوز تم چھینہ
 پانس ورازی کانسہ ہلک کران و وڈی گوڈ تمن چھینہ
 فکر تزان۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُقُّوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا
 يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا ۚ
 تَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۶﴾

بیہ ہر گاہ تہ تم (تمہ وقتہ) وچھہکھ۔ سبیلہ تم جھمن
 بروٹھ کتہ استاد کرنہین تہ سبیلہ تم (وہن (ز) اے
 کاش! کہ اسی یہ ہو (ایما پنج حالتہ ہتھ) واپس
 انہ تہ اسی ایزاؤ ہو کہ تہ زانہہ آئینہ پنس پروردگار
 سندر نشانہ (تہ تریہ سپدی تہندہ ایزاؤ پنج حقیقت
 معلوم)۔

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ
 قَبْلُ، وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا لَمْ تُعْنُوْا
 وَرَأَتْهُمْ لَكَذِبُوْنَ ﴿۳۷﴾

حقیقت چھینہ یہ تہ یہ (کثیر شاہا) تم (امیر بروٹھ) کھٹھ
 تھاوان اسی تہ چھ تمن پیٹھ پلڑ پاطھی و اشگاف
 گوشت۔ تہ اگر تم (واپس) انہ بیہن تہ تم
 کرہن دوبارہ بیہ تی۔ سبیلہ نش تم پتھ رٹنہ
 یوان اسی تہ تم چھ یقینا (پنس دعواہس منتر)
 ایزاؤری۔

وَقَالُوا لَآ اِنَّ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا
 نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿۳۸﴾

بیہ چھوٹے وناں زسانہ سبیلہ دنیاوی زندگی ورازی چھینہ
 (بیہ) کانہہ (زندگی) تہ نہ یو اسی (آخرت منتر)
 سٹنہ۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُقُّوْا عَلَى رَءْسِهِمْ ۚ قَالَ
 اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ
 قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
 تَكْفُرُوْنَ ﴿۳۹﴾

بیہ ہر گاہ تہ تم (تمہ وقتہ) وچھہکھ۔ سبیلہ تم پنس
 پروردگار بروٹھ کتہ استاد کرنہین (تہ) سہ
 فرماؤ (تمن)، یہ (دویم زندگی) چھنا پیز؛ (تہ)
 تم دن جواب، امیر چھ پنس پروردگار سٹنہ
 دہسے، کیا نہ؟ (ضرور چھینہ پیز!)۔ سہ
 فرماؤ بکھ، سبیلہ تہ ہو توہر پستہ انکار (تہ تمہ
 پیٹھ ڈٹھ روزنہ کتہ عذاب (یعنی تمیک منہ
 وچھو)۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ
 حَتّٰى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا

یو لو کو اللہ (تعالیٰ) سند ملاقات (ملاقات کتہ ملہ)
 ایزو و تہ چھ نوقصاس اندر ہتہ آتہ۔ یوت تانی

يَحْسَرُونَ عَلَىٰ مَا فَزَعْنَاهُمْ لَوْلَا
يَخْمَلُونَ أَذْرَاهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ
إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۷۰﴾

زیریں سہ ساعت ہنگہ منگہ تمں پیٹھہ وا تھہ پیڑ
تہ تم وٹن ہے الفوس ! تمہ کو تاہی کنی یوسہ
اسہ تمہ (ساعتہ) کہ حقہ کر تہ تم آسن تمہہ
وقتہ پیڑ باری پنپن پشتم پیٹھہ ہتھہ - بلوزو !
یسلا یوسہ تم تنگن سہ آسہ سیٹھا (ہے) ناکارہ۔
بیہ یہ دنیاوی زندگی چھنہ گندہ تہ تما شہہ ورا ی
(کہنہ) تہ یکم لاکھ تقویٰ پراوان چھہ، تہندہ خاطر
چھہ آخر تک گم یقینا بہتر۔ کیا تمہ بہتہ تہ چھونا تو کہ
عقلہ کام ہولان ؟

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۷۱﴾

اگر چھہ بے شک زانان (تہ) یہیہ کتھہ چھہ پیڑ
یہ کینتر تھا تم وناں چھہ تہ چھہ تریہ ضرور غمگین کران
تہ کیا نہ تم چھی تہ تریہ اپراوان بلکہ چھہ ظالم
(اللہ تعالیٰ) مندین آسہ زاننہ ما تھہ انکار کران۔
تہ تریہ برو بھم رسول تہ چھہ بے شک اپراوان آہو۔
اد اسہ باوجود نہ تم آسہ اپراوان تہ تمں آو تکلف ہن
تم رودر صبر کران یوت تام نہ تمں دوت سوان
مدد، تہ اللہ تعالیٰ) ہنزن کتھن چھہ کاتھہ
بدلاون وول تہ تریہ نش چھہ رسول ہنر کینہہ خیر
یقینا آمترے۔

قَدْ نَعَلْنَا لَكُمُ الْآيَةَ الَّتِي كَفَرْتُمْ
فَاتَّخَذْتُمُوهَا كُفْرًا وَ كَرِهْتُمُوهَا
وَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۷۲﴾

یہ ہرگاہ ہمیں (کافرن) ہنر روے گردانی تریہ
گوب چھہ باسن تہ ہرگاہ تریہ مغز طاقت چھہ
ز ز سپنس اندر گنہ سرونگہ ہنر یا آسمانس کن
گنہ، میر ہنر تھانہ ہیکھ کر تھہ (تہ) پتہ ہیکھ
تہندہ خاطر کاتھہ نشانہ آتھہ (اد) بے شک کر
تہ ! تہ ہرگاہ اللہ تعالیٰ) سیر تھہ ہے تہ تمں
کر بے ضرور ہدائیس پیٹھہ بمع لہذا مہن تہ بے
خیر و منبر۔

وَلَقَدْ كُرِّرْنَا لَكُمُ الْآيَةَ لِيُذَكَّرَ
عَلَىٰ مَا كُفَرْتُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَرْجَعُونَ
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْأَنْبِيَاءِ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ كَانُوا
يَكْفُرُونَ ﴿۷۳﴾

وَإِنْ كَانَ كِبْرُ عَالِيكَ إِعْرَاضًا
عَنْهُمْ فَانصُرْهُمْ وَ قَاتِلْهُمْ
وَ كَمَا نَصَرْنَا لَكُمْ فِي الْأَنْبِيَاءِ
أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَاتُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنِّي وَ كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۷۴﴾

یہ لاکھ بولان چھہ، تہ چھہ (کتھہ) قبول کران۔ تہ
(یکم) مولود (چھہ) اللہ تعالیٰ) طہ تمں تمود۔

لہ یقین چھہ "مورد" معنی حقہ تہ محرم۔

يُرْجَعُونَ ﴿۲۷﴾

پتھر میں تم تسکون نہیں -

﴿۲۷﴾

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ
قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً
وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾

بہے چھو تم وہاں نہ تہندس پروردگار ہند طرفہ کوہ
آوتس پیٹھ کا نہہہ نشانہ نازل کرنہ؛ شہر وکھ نہ
اللہ (تعالے) چھ اتھ (کہتہ) پیٹھ بے شک قادر
نہ کا نہہ نشانہ کر نازل۔ اما پوز تھو منہر چھسہ
ولاءہ (یہ کہتہ) زانان۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ
يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى
رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۲۹﴾

تہ زمینہ پیٹھ پکن والی ساری (نرو دار) تہ بیہ
پتھو دونوں وہے پکھو سرتی وچھن والی جانار
چھ تہندی یا ٹھی جہا شہ۔ اسہ کر نہ بیٹھ کتابہ
اند کہینہ تہ ٹھی۔ پتھر میں ہم (یعنی گوہ ڈیچھو
بیان کرنہ آشہرو لہو لہو منہر انسان) پتھس پروردگار
کن سحر اوتھ نہہ۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَا تَنَائِبُهُمْ وَبُخْمٍ فِي
الظُّلُمَاتِ، مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلَّهُ، وَمَنْ
يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۰﴾

بہے پھو لوگو ساری آہے ایز اورد ہوتی چھہ تم بھہ
زری تہ ٹھی (تہ) انہ گھن منہر چھہ (پیٹھ)۔ اللہ
دتعالے) ہمیں بیٹھہ (تس) کر ہلاک تہ ہمیں
بیٹھہ تس کر سینہ و تہ پیٹھ (قائم)۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدَابِ اللَّهِ أَوْ
أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرُوا اللَّهَ تَدْعُونَ، إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾

تہ دن نہ توہی و ہوتہ (سہی) نہ اگر تہہ پیٹھ
اللہ (تعالے) سند عذاب بیہ یا تہہ پیٹھ بیہ
(وعدہ دنہ آمت) ساعت۔ بیہ ہر گاہ توہی نہ تہ
چھو تہ کیا توہی کروا (تہ وقتہ) اللہ (تعالے)
ہس وری کانسہ (ہمیں) آلو۔

بَلْ لِيَاءَهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ
عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿۳۲﴾

نہ نیچہ نہ؛ بلکہ توہی کرو توہی آلو۔ پتہ اگر نہ بیٹھہ
تہ ہمیں (تکلیفہ کر کانسہ) با چھہ توہی (تس) آلو
کرو نہ کر ضرر نہ دور، تہ توہی مشر اوتوں نہ
ہس توہی (خدا نہ سند) شریک ٹھہراوان چھووان
بیہ چھہ اسہ تہہ ہر ونٹھو ہن توہن کن (رسول)
سوزی ہوتی تہ (ہم رسول ہنہ پتہ) اسہ آسہ تم
(منکر) او موکھ مالی تہ ہدنی تکلیفین منہر آوراوہ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ
فَاتَّخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَالَهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ ﴿۳۳﴾

لہ یعنی خدا تعالیٰ ہندین قولوں میں تابع چھہ۔

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷۰﴾

موتو نہ تم پر اوں عا جزی۔
پتہ کیا نہ سید نہ تہ نہ سیدہ تمس پیٹھ سون عذاب
آیاو تہ تم پر اوبن عا جزی۔ بلکہ تم تہمت در
دل (بہ ہن تہ) سجت۔ تہ یہ تم کران اس شیطاں
ہوہو تمس تہ، تہ بصورت کر تہ۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۗ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ۖ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿۷۱﴾

پتہ سیدہ تمو سو (کتہ) مشر او یوسہ تمس یاد پاوہن
یوان اس تہ اسہ تراوی تمس پیٹھ پر تہ کتہ چسپنہ کر
دروازہ سیدہ۔ یوت تامتہ نہ سیدہ تم تہ پیٹھ خوش
سیدہ یہ تمس دتہ آو تہ اسہ کڑی تم ہنگتہ منگہ عا لب
مشر مبتل۔ تہ پیٹھ تم یکدم ناوہید سیدہ۔

فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۷۲﴾

لہذا یو نظام کورمت اوس تہندہ مولیٰ تہ آہ تہ نہ
تہ (تثابت سید نہ) سارنہ تعریفین ہند تقار پیٹھ
اللہ (تعالیٰ) ہے یس سارنہ عالم ہند پر درکار پیٹھ
تہ ویکہ نہ وونی تو تہ سہی (نہ) ہر گاہ اللہ (تعالیٰ)
تہندہ بوزنگ طاقت تہ اچھ گاش ضایع کر تہ تہندہ
دلن کر موہرتہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی کس پیٹھ
معبود؟ یس تم (ضایع گاوتہ چیز) تو ہس
(واپس) اہتہ دی و۔ وچھ! اسی کتہ پاٹھو پیٹھ
پھری پھری (تہ بیون بیون انداز سان) آہ بیان
کران۔ اما پوز تم پیٹھ تو تہ روے گردانی کران گڑھان۔
تہ ویکہ نہ وونی تو تہ سہی نہ اللہ (تعالیٰ) سند عذاب یوہ
توہہ پیٹھ ہنگتہ منگہ (دوتہ دینہ روستہ) یا تہ پاٹھو
پیسہ تہ کیا ظالم لوکو وراہی سیا (بیکہ کانہہ شخصس)
ہلاک کرنہ؟

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ أُنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ﴿۷۳﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿۷۴﴾

یہ چکھ اسے رسول صرف توہنجہر دتہ خاطر تہ خبردر
کرنہ با پیٹھ سوزان۔ پتہ پیم لوکھ، ایمان اتن تہ
اصلاح کرن تمس (نہ) اسہ (آئینہ با پیٹھ) کتہ
تہمت خوت تہ نہ سیدن تم (پتھکن گامترن کوتاہن
پیٹھ) عملگین۔

وَمَا نُزِيلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ ۗ فَمَنْ أَمَنَ وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۷۵﴾

یہ یو سانہن آہن ہند انکار کورمت پیٹھ تمس سیدہ

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ

بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۰﴾

تہنہ زونا فرمایو سبب عذاب۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ لِي مَلَكٌ ۚ
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَ الْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا
تَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾

تر و نگھ سبب چھسو نہ تو بہ یہ و نان ز میہ نش چھ
اللہ (تعالیٰ) بندگی خزانہ تہ نہ (یہ ز) بہ چھس
غاب زانان تہ نہ چھسو بہ تو بہ یہ و نان۔ ز بہ چھس
ملایک، بہ چھس صرف بتیج پاروی کران، یہ میہ کن
و می کر نہ اُمت چھ۔ تر و نگھ ز کیا اُون تہ کاشدر
چکیا ہویسے اُستھ؟ اُو کیا تو تہ چھونا تو ہی سوچین؟
تر کر گھ امہ (کلام) کہ ڈر لیر تم لوگھ خبر دار ہم اتھ
کتھ کھوژان چھ ز تم بن تہندس پروردگارس کن
بع کر تھ نہ بیلیہ نہ تس سوا تہند کا تھ مدگار اُس
(تہ) نہ اُس کا تھ سفارش کرن دول۔ (اُو کتہ کر گھ
تم خبر دار)، می تھ تم تقویٰ پراون۔

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا
إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ دُونَهُ دَلِيلٌ وَلَا
شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۲﴾

بہ سہ کر تر ڈر تہن لوکن ہم پتس پروردگارس
صحن تہ شامس تند تو تہ بہر شان تس آلودوان
چھ۔ تہند حسابک کا تھ حصہ تہ چھتہ چانہ ذمہ
تہ چانہ حسابک کا تھ حصہ چھتہ تہند ذمہ۔ اُو کتہ
(ہر گاہ) تر تہن ڈر دگھ تہ تر سپدکھ ظالم۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْعَدْوٰۤى وَالْحِشْيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۚ مَا
عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ
حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ
فَتَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳﴾

بہ چھ اسہ تہو منتر کینہ کینش ہند دسی جتہ پاتھو
آرناو کہ تو می تھ تم (آرنا می تھ منتر تراونہ آدمی لوگھ)
ونن ز کیا اللہ (تعالیٰ) من کورا اسہ منتر مین (ذیل)
لوکن پیٹھ احسان؟ (رت گونو) کیا خدا چھنا شکرانہ
کران ولین (سارو پے کھوتہ جاو) زانان؟

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوْا
اٰهٗٓ لَآءِ مَنَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَاۤ اَلَيْسَ
اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴﴾

بہ سیلہ تر یہ نش تم لوگھ مین ہم سانین آین پیٹھ
ایمان انان چھ تہ تر ون (تہن ز) تو بہ پیٹھ آس
ہمیشہ سلامتی۔ تہندی پروردگارن چھ (تہند پاتھ)
پنس پانس پیٹھ رحمت فرمن کر مہتر۔ (پتھیا ٹھو)
ز تو بہ منتر مین (کا تھ) و شھن کا تھ بڈی کر تھ
گر تھ تمہ پتہ کر تو بہ تر اصلاح۔ اُو تس (خدا مین)
چھ یہ وصف ز سہ چھ سپدھا بختن بار (تہ) چھہر کر

وَاِذْ اٰجَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا قُلْ
سَلِّمْ عَلٰىكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهٖ
الرَّحْمَةَ ۗ اِنَّهٗ مِنْ عَمَلِ مِثْلِكُمْ سُوءٌ
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّهٗ
عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ﴿۱۵﴾

وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 الْمُجْرِمِينَ ﴿٥١﴾

پھیری رحم کرن وول۔
 بیہ چھہ اسی نشانہ یتھے پاٹھو واش کڈو کڈی بیان
 کران (یتھہ حق نہ) تہ یتھہ مجرمین ہند طریقہ ظاہر

۱۱

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِيَهُمْ أَهْوَاءُكُمْ
 قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذًا وَمَا آتَاكُمْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٢﴾

سید۔
 تر ون (تسن) نہ میہ چھہ آمت سہنت منع کرنہ نہ
 بہ کر (تسن) (ایزین معبودن) ہنز عبادت میں توہر
 اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی آلو کران چھو۔ تر ون
 (تسن) بہ چھس تہ تمہنرن پس پایہ ٹا ہشن ہنز
 پاروی کران (اگر بہ تہ کر، اڈ زانی تو نہ) تھہ صورتس
 منر سپس بہ گراہ تہ بہ چھس نہ ہارت لبہ و نہو
 (لوکو) منر۔

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ
 مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا
 لِلَّهِ يَفْضُلُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٣﴾

تر ون (تسن) نہ بہ چھس پنسن پرور و گاب ہند
 طراہس کا ڈیلہ پٹھہ قایم تہ توہر چھو سے (پرور و گاب)
 اڈرومت۔ یتھہ کتھ متعلق توہر جلدی کران چھو
 سہ چھتہ میہ نش۔ قاصد چھہ اللہ (تعالیٰ) ہند
 سے اختیارس منر۔ سہ چھہ پزرونان تہ بیہ چھہ سہ
 قاصد کرنس منر ساروہے کھوتہ جان۔

قُلْ لَوْ أَنِّي عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفَضِي
 الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
 بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٤﴾

تر ون (تسن) نہ یتھ چیزس متعلق توہر جلدی
 بیترہان چھو اگر سہ میہ نش آسہے تہ میہ تہ
 توہر (میلن) آسہے (اختلاف والہ) مسلک قاصد
 (کرتام) سپدنت۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ ظالمین
 ساروہے کھوتہ جاو زانان۔ (میلہ بیترہ تہ کر
 قاصد)۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَمَا تَسْقُطُ
 مِنْ دَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي
 ظَلْمِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْسٍ
 إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٥﴾

بیہ چھہ تس نش قایم چہ کتہر تس وراہی چھنہ
 کانہہ تم (قاب) زانان تہ یہ کتہرہا خشکی تہ
 سمندرس منر چھہ تہ چھہ سہ زانان تہ کانہہ پرنہ
 و تھہر چھہ پتھر پوان مگر سہ چھہ تہ زانان تہ
 زمینہ چین اڈ گن منر چھہ کانہہ دانہ پھول تہ
 نہ کانہہ اوڈر (چھہ) تہ نہ ہوکھ (چھہ) میس
 (تسندس) ٹاکا ہر سفاقتس منر آسہہ نہ۔

تہ سے چھ مہینے رات کیت تہند رُوح قبض کران
چھ تہ یہ کیشہا توہی دوہر کران چھو تہہ چھ
زانان - پتہ چھو توہہ دوہر تہان بیہ زن اکہ تہ
میس مقرر پُدمت چھ پلور کرنہ بیہ بیہ پتہ
تہند واپس گرتھن تہو کمن چھ - تہ یہ کیشہا توہی
کران چھو تہہج دیو سہ خیر -

بیہ چھ سہ پتہن بدن پیٹھ غالب تہ سہ چھ
توہہ پیٹھ کران (مقرر کر تھ) سوزان (روزان)
یڑ تازی زینیلہ توہہ مشر کائہ موت بیہ رُوح چھ
تہ سانی سوزنہ امہو (ملک) چھ تہند رُوح
قبض کران تہ تم چھنہ (حکمس تعمیل کرنس شہز)
چھو نہر کران -

پتہ بین تم اللہ (تعالیٰ) ہس کن چھہ تہہ ہنہ،
میس تہند پوز وائی چھہ، پوزو! فاصلہ چھہ تہند
اختیارس مشرتہ سہ چھہ حساب بہنہ والہن مشرتہ
سار مے کھوتہ جلد (حساب) بہنہ دول -

تہ دن (جن) زہ توہہ کس چھو خشی ہندو تہ سند
کبو مھیہو ہنہ سچاوان نیلہ توہی ماجزی سان تہ پشہ
پاٹھو تس آلو دتھ دنان چھو زہر سہ اہہ نیلہ مھیہ
ہنہ سچاوی تہ اسی سپدو ضرور شکر گزار -

تہ دن (جن) زہ اللہ (تعالیٰ) ہے چھو توہہ تمہ
ہنہ (تہ) تہ بیہ پر پتہ اکہ اضطرار تہ پریشانی
ہنہ (تہ) سچاوان - تمہ پتہ (تہ) چھو توہہ ترک
کران -

تہ دن (جن) سہ چھہ اتھ (کتھ) پیٹھ قادر تہ
توہہ پیٹھ کر عذاب نازل توہہ پیٹھ کئی یا تہندو
پدو تہ کبولہ یا ملنا وکو توہہ (اکہ اہس خلاف)
پانہ وائی بیون بیون توہہ ہندس صور تس مشرتہ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا
جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثْكُمْ فِيهِ
لِقَابِي أَيُّهَا الْمُسْتَعْتَبُونَ ثُمَّ إِلَيْهِ
مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ
عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ
الْمَوْتُ تَوَفَّاكُم رُسُلَنَا وَ هُمْ لَا
يُفْقِرُونَ ﴿١٢﴾

ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، أَلَا لَهُ
الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿١٣﴾

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّن ظُلْمِ الْبَرِّ وَ
الْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ
أَنْجَيْتَنَا مِّنْ هَذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِيْنَ ﴿١٤﴾

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ
ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿١٥﴾

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِّن تَحْتِ
أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ لُطِيْفًا ثُمَّ يُذَبِّقْ
بَعْضَكُمْ بِأَسْبَغٍ، أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ

الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿۱۱﴾

تہ تو بہ منتر و اتناؤ کیشن، کیشن ہند کسہ
تکلیف۔ وچھ اسی کتھ پانچھی چھ ٹاکار ولسپہ چکر
چھمر و نان بیٹھ زن بہن بکر تر۔

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۗ قُلْ لَسْتُ
عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۲﴾

بہی چھ پانچ قومن یہ (مسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ہند پیغام) ایڑ مٹھرو مت۔ حالانکہ
سہ چھ پوز۔ تر دن بہن تر بہ چھس نہ تہند ذمہ
وار۔

لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ ۖ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

پر چھ اکہ پیشگوئی ہند چھ اکہ حد (یعنی وقت)
مقرر آسان تہ توہی زانو جلدیے (حقیقت کیا چھیہ)۔
بہی میل تر ہم لوکھ وچھکھ کم سانہن آین ہند
حقوئے گند کتھ کران چھ تہ تھ وقتس تام روز
تر بہن ہنس نوب بیٹھ وقتس تام ہم اور ورائی
کئی بیس کتھ منتر آوری گرتھن نہ۔ تہ اگر
شیطان ترئے مشراوی دیچ پوز یاد پینہ پستہ
بہن نہ تر ظالم قومس ہنس۔

وَإِذْ آرَأَيْتَ الْكَافِرِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا
فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي
حَدِيثِكَ غَيْرِهِ ۗ وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ
فَلَا تَفْعَدْ بَعْدَ الذِّكْرِ ۚ مَعَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿۱۴﴾

بہی ہم لوکھ تقویٰ پر اون چھ تہند ذمہ چھنہ بہن
(نامناسب کتھ کرن واپن لوکن) ہند حسابک کانہہ
حصہ۔ بلکہ چھ تہند سبب نصیحت کرنی بیٹھ زن ہم
(تہ) تقویٰ پر اون۔

وَمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ
مِنْ شَيْءٍ ۚ وَلَٰكِن ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿۱۵﴾

بہی تراؤکھ تر ہم لوکھ یو سنس وپس گردن تہ
تہنہ ہنوت چھ تہ دنیاوی زندگی چھ ہم فریسی
منتر تراؤتھ تھادی ہتہ۔ بہی کریم (الہی کلام کر)
ڈرلیع نصیحت بیٹھ (ترتھ کتھ سپرنہ) نہ کانہہ زو
بہی تہند کھادی سہہ کہ سبب کئی تھ کئی ہلاکتس
اندر وار تھ دنہ نہ خلیس ورائی آسہ نہ تہند کانہہ
مددگار تہ سفارش در۔ بہی اگر ہم پر چھ اکہ (تہمک)
بلکہ تر دن تہ بہن ہنس بہی نہ تہ قبول کرنہ۔ ہم
چھ ہم لوکھ ہم تہنہ کھایہ ہند سبب ہلاکتس اندر
تراونہ آہ۔ بہن میل تہند کتھ کئی چنوں کیت توت
رہر ہو آب۔ بہی آپکھ کروٹھ عذاب۔

وَإِذْ الْكَافِرِينَ اتَّخَذُوا مِنْهُمْ لَعِبًا
وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ
بِهٖ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَيْسَ
لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَكِيلٌ وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِن
تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ بِهَا ۚ وَلَيْكَ
الَّذِينَ أُنْسِلُوا إِيمًا كَسِبُوا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ
مِّنْ حَمِيمٍ ۚ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ بِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ ﴿۱۶﴾

۱۳

قُلْ أَتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا
وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ
الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا ۚ لَهُ
أَصْحَابٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْهُدَىٰ أُئْتِنَاهُمْ
قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَإِذَا مَرْنَا
لِنُشَلِّمَنَّ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾

تَرُون (تہن، کیا اُسے کروا اللہ تعالیٰ) ہس
درا آئی تس آلو لیس نہ اسہ (کاٹنہ) نفع دوان
چھ تہ نہ چھ ضرر واتناوان ؛ تہ کیا اللہ تعالیٰ
سندہ ہدایت دہ نہ پتہ کیوا اسی تس شغفہ ہند کر پاٹو
نوت کھوری والیس ہنہ لیس بھتو پھری (لوکھ)
ہنترت پیٹھ ڈالکتھ ہتھ آسن گاہتہ ؛ (تہ اسہ)
آسہ حالان (تہ پریشان) سپدان - تنہد کر کیشہ
سہتو باجو بہتو پیم تس آلو دتھ (یہ دنان) چھ
نہ اسہ ہنس وولہ ، مہتھ ہدایت لیکھ - تہ رون
(میں کاقرن) نہ اللہ تعالیٰ) سہدے ہدایت
چھ بے شک اصلی ہدایت تہ اسہ چھ حکم دہ آمت نہ
اسی کرو سارہنہ عالمن ہندس پرور دگاہ ہنہ فرماہنہ
بیہ (چھ) یہ (تہ ہدایت دہ آمت) نہ نماز کر ساری
شرط ہتھ ادا تہ سہ خدا بتاویان پنن اسپر تہ سہ
چھ نہیں کن توہر سو نہراوتھ ہنہ بیہ -

وَإِنْ أَرَبْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَهُوَ
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۷﴾

بیہ سہ چھ نیکی آسمان تہ زمین حقہ (تہ حکمتہ)
سہتو پاؤ کر کر موتی چھ - بیہ سہیہ وہ ہد سہ ونہ نہ
(میانہ منشاء مطابق) ہتھ کتھ (سپدان) اہ تھ کتھ
سپد - تہنہ کتھ چھید سپد تھ روزان واجتہ تہ سہ
دوہہ پوس چھوکتھ دہ پیہہ - حکومت آسہ (تہ دوہہ)
(صرف) تسر (حاصل) - (سہ) چھ کھتھ تہ عیاں
(کتھ) نازن وول بیہ چھ سہ حکمتہ وول (تہ خبردار
بیہ (گرو یاد) نیلہ ابراہیم پسنس ٹاس آرس
یہ ونیاو نہ تہ چھکھا (کیشہ) پوتو معبود بناوان ؛
ہر چھتھ تہ تہ چون قوم ہنہ وانہ گراہی ہنہ پھان -

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُوْنُ ۗ
قَوْلُهُ الْحَقُّ ۗ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ
الصُّوْرَةُ ۗ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ وَهُوَ
الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿۷﴾

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيْمُ لِإِبْنِيْهِ أَرَأَيْتَ اتَّخَذْتُ
أَصْنَامًا مَّا لِلّٰهِ ۗ إِنِّيْ أَرَأَيْتَ قَوْمَكَ فِي
صَلٰتٍ مُّبِيْنٍ ﴿۸﴾

بیہ اسی ابراہیم تھتہ پاٹو آسمان تہ زمینس
پیٹھ (پنہ) بادشاہت لاوان (مہتھ سہد علم کابل
سپد) تہ مہتھ نہ سہ یقین کرن والیو اندر سپد -
(اکھ) وہ سپد مہتھ (نہ نیلہ رات تس پیٹھ پر دہ

وَكَذٰلِكَ نُرِيْ إِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَرَبِّيْكَوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۹﴾

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأٰ كَوْكَبًا ۗ قَالَ

هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأُوْحِبُّ
الْأُرْفِلِينَ ۝۴

تزو تہ تمو وُجھ اکھ تارکھ - تمو وون ایہ چھا
میون پروردگار (اَسُن ممکن)؛ پتہ ییلہ سہ
لوس تہ تمو وون نہ بہ چھسک نہ لوس واکر پسند
کران -

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي
لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝۵

(تمہ پتہ) ییلہ تمو پرلو تراوان زون وُجھ تہ تمو
وون نہ یہ چھامیون پروردگار (اَسُن ممکن)؛ پتہ ییلہ
سوتہ لوس تہ تمو وون نہ اگر میون پروردگار میں
ہایت دیہ ہے تہ تہ بہ تہ آہہا مزور مگر اہن ہنر
جماش مشنر -

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي
هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِرَانِي
بِرَبِّي ۖ وَمِمَّا تُشْرِكُونَ ۝۶

پتہ ییلہ تمو آفتاب پر نزلان وُجھ تہ تمو وون - یہ
چھامیون پروردگار (اَسُن ممکن)؛ یہ چھہ بلاشک
ساروہے کھوتہ بوڈ پتہ ییلہ سہ (تہ) لوس تہ تمو
وون نہ میں توہی (خدا یہ سُن) شریک بناوان چھون
بہ چھس تس بکل بے زار -

رَبِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۚ وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۷

میں پھیرہ پنن توہر یقیناً (ساروہے) وتہ ہجو ریشہ
بچان تس خدایس کن نیجو آسمان تہ زمین پاد
کرکوتہ چھہ تہ بہ چھس نہ مشرکواندر -

وَكَأَجَبَ قَوْمُهُ، قَالَ أَتُحَا جُّونِي فِي
اللَّهِ ۚ وَقَدْ هَدَانِي، وَلَا آخَافُ مَا
تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُ
رَبِّي ۚ شَيْءٌ عَلَّمْنَا ۚ أَفَلَا
تَتَذَكَّرُونَ ۝۸

یہ تہندی قومس یوتزہ تس سبتو بحث کرکوتہ کامیاب
سپدن (تہ) تمو وونکھ، کیا توہر چھو میں سبتو
اللہ (تعالیٰ) ہند حقیقت بحث کران ییلہ زن میں
تہ پانہ چھہ ہایت دہیت؛ تہ میں توہر اللہ
(تعالیٰ) سُن شریک بناوان چھون بہ چھس نہ
تس کھوتران - بے شک! ہرگاہ میون پروردگار
کنہ کتہ ہند اراد کر (تہ تس چھس کھوتران)
میانہ پروردگارن چھہ پر پتہ اُکس چیزس علمہ
سبتو احاطہ کورمت - اد کیا توہر چھو نا فکر تران؛
تہ بہ کتہ پاٹھی ہیکہ کھوتزہ تہہ (چہرس) میں
توہر (خدا یہ سُن) شریک بناوان چھون؛ ییلہ
زن توہر چھو نہ تہہ (چہرس) اللہ تعالیٰ سُن
شریک بناونس کھوتران یہہ متعلق تمو توہر

وَكَيفَ آخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَتَخَفُونَ
أَنكُمُ أَشْرَكْتُكُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ
بِالْأَمْنِ ۚ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝۹

پہلے کانہہ (پہلے نازل چھنڈ کر موشر لہندا
اگر توہمی (کینڈ) علم تھاوان چھو تیلہ (دو نو نہ)
اسہ دیو فرلقو منتر کس اکھ چھ امنک (یعنے
امنس منتر روزنک) جاہ حقار؟
یہو لوکو ایمان اون تہ ہمو رلوو تہ پین ایمان طلسم
سیتہ تینے لوکن ہنر خاطر چھ امن (مقدر) تہ
تھے چھ حدیت لبین وال۔

تہ یہ اس سانہ طرفہ (دہ آمہر اکھ) دہل (یوہو)
اسہ ابراہیمس تہدس قومس جوف بیچنا و ہتر اس۔
اسی یس ہتر شان چھن درجن منتر چھن تھنراون۔
چون پروردگار چھ بے شک حکمتہ دول (تہ) زہر
پاٹھو تران دول۔

تہ اسہ اسوس (یعنے ابراہیمس) اسحاق تہ یعقوب
عطا کر ہتہ۔ اسہ اوس (ہمن) سارنہ حدایت
دہیت۔ (تہ امہ بروٹھ اوس) اسہ نواس تہ ہایت
دہیت تہ تہدو (یعنے ابراہیم ہتدو) اولادو منتر
داؤدس تہ سلیمانس تہ ایلیس تہ یوسفس تہ موسیٰ
تہ ہارونس (تہ اوس اسہ ہایت دہیت) تہ
پاٹھو چھ اس زہر پاٹھو کام کرن والین بدلہ دروان۔

بیہ اوس، ذکر یاہس تہ یحییٰ ہس تہ عیسیٰ ہس
تہ ایاسس تہ ہایت دہیت مت، ایم سڈکی
اسی نیکو منتر۔

بیہ اوس) اسماعیلس، تہ ایتیسع ہس تہ یونس
تہ لوطس (تہ ہایت دہیت) بیہ اس اسہ یمن
سارنہ تمام عالمن پہلہ فقہیت دہتر۔

بیہ تہندین جدن اجدان تہ تہندین اولدان تہ
تہندین بابن تہ (اوس اسہ ہایت دہیت) تہ اسہ
اسی ہتم ترارک ہتہ تہ ہمن اس اسہ سینر و تہ
کن رہبرکی کر ہتر۔

اللہ (تعالیٰ) ہندر ہایت دہک طریقہ چھ یوہے

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴿٦٧﴾

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى
قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ
رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٦٨﴾

وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا
هَدَيْنَاهُ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ
وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

وَذَكَرْنَا وَيْحِي وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلًّا
مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٠﴾

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُم إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٢﴾

ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن

يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ ۚ وَكَوْا شُرَكَاءَ الْحَيَاطِ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَظُنُّونَ ﴿۱۸﴾

یہ تیرے کہ ذلعلیہ سے پستوں بندو مشرکس یشہان چھ
تس چھ و تھ اولان تہ اگر تم شرک کرین تہ ہم
کینہہ اعمال تم کران اسی (تم) گزہ ہنکھ امرستی
شایخ -

أَدْلَيْتَكَ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحُكْمَ وَ التُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا
هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا
بِهَا بِكْفَرِيْنَ ﴿۱۹﴾

تھے لوگھ چھ میں اسے کتاب تہ فاصلہ کرینج ذالکاکر
تہ نبوت و شر مشرکس - اور اگر تم لوگھ امیک (یعنی
نبوتک) انکار کرن تہ اسے چھیہ سو اگس (نیس)
قوس (یعنی مسلمان) حوالہ کر مشرکیم انکو منکر
چھن -

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَهُمْ
اِقْتِدَا، قُلْ لَا أَشْرُكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۲۰﴾

یعنی (پیچہ کنہ ذکر کرنہ امتین لوکن) دیت اللہ
(تعالے) ہن ہدیت لہذا کر تہ تہد ہدایت پادوی
تہ دن اتن نہ ہر چھسو نہ توہہ اتھ پیچہ کانہہ
سزوری منگان - یہ ہے چھیہ تمام عالمن ہند
خاطر صرف اکھ نصیحت -

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ۚ قُلْ مَن
أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا
وَ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ
تُبَدُّوْنَهَا وَ تَحْفُونَ كَثِيرًا ۚ وَ عَلِمْتُمْ مَا
لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لَا آبَاؤُكُمْ ۚ قُلْ
اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ
يَلْعَبُونَ ﴿۲۱﴾

بہ نیلہ تمویہ کتھ و نیایہ نہ اللہ (تعالے) ہن کوز
تہ کانسے بندس پیچہ کیہ تہ نازل تہ تمو لوگو اوس
نہ اللہ (تعالے) سند (یعنی تبندین صفات ہند انڈاز
تتھ کتھ کوزت چھ کتھ کرن پڑے - تہ دن
(اتن) نہ سوے کتاب یوہ موسیٰ ہن اسی مشرکس
تہ سو اگس لوکن ہند باپتھ نور تہ ہدایت - سوہ
گور اگس نازل کر مشرکس؛ توہر چھوون سوہ ورقہ
ورقہ کران توہر چھوون سوہ ظاہر (تہ) کران تہ
(تمہ منہر) چھو واریاہ (حصہ) کھان (تہ) حلالک
توہر چھو تہ کینر شاہا، بیچناونہ آمت یہ نہ توہر
زانان اسی و تہ نہ اسی (تہندی جدا جدا
زانان) تہ دن اتن، نہ اللہ (تعالے) ہن (ہے
اگس سو نازل کر مشرکس) یہ تہ ترا و لوگھ تم تہندی
اپس مشرکینہ و تہ -

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقٌ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَتُنذِرَ أُمَّ

بہ چھ یہ (قرآن) اکھ (تھدشاہ و اجوز) کتاب - یوہ
اسے نازل کر مشرکس چھیہ (تہ سوہ) چھ برکشو سستی

الْقُرَىٰ وَ مَن حَوْلَهَا ۚ وَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَ
هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۵﴾

بریتھ تہ میس (کلام) امر برونٹھ اوس تھہ چھینہ پلور
کرن واجبوز (تہ اسہ) چھینہ یہ اوکئی تانزل کر مہر
نر تہر دکھ امر ڈو لوکن ہلایت) تہ سیتھ زن تہ
ام القریٰ (یعنی ملکر روزن وال) بیہ ایم تھہ اُنڈر
پلور (روزان) چھہ خبر دار کر بکھہ۔ تہ پیم لوکھ پیتہ
پینہ واجنہین (وعدہ دینہ آمترن کتھن) پٹھ ایمان
انن چھہ تم چھہ تھہ (کتا بہ یعنی قرآنس) پٹھ (تہ)
ایمان انن۔ بیہ چھہ تم پستہن نمازن ہنڈ تہ ہمیشہ
خیال تھاولن۔

وَ مَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ
وَ مَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
وَ كَوْتَرَىٰ إِذَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ
الْمَوْتِ وَ الْمَلَائِكَةُ بَاسِطَوَا أَيْدِيَهُمْ
أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۚ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى
اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ
تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۵﴾

بیہ کس بیگہ کس شخصہ ہنڈ کھوتہ جاد ظالم اہستہ
میس زابنتہ مانیتہ اللہ (تعالی) ہس پٹھہ ایز نوو
راوتھ تھہو) یا یہ ونہ نہر میہ پٹھہ چھہ وحی (نازل)
کرنہ آمتر۔ سیلہ زن کس پٹھہ وحی آسہ نہ (نازل)
کرنہ آمتر۔ تہ سیتھ کتھ کتھ شخصہ ہنڈ کھوتہ
(جاد ظالم کس بیگہ اہستہ) میس یہ ونان چھہ نہ
یہ کیترھا اللہ (تعالی) ہن نازل کورمت چھہ بہ
تہ کر بے شک سیتھ (کلام) نازل۔ بیہ اگر تہر
(سہ وقت) وچھہ بکھہ سیلہ ظالم موتہ کہن کر کھیرن
مشر آورنہ بین تہ ملائک آسن (یہ ونان) پٹھہ
اتھہ دارن نہر پٹھہ زوگڈ لوکھ نمبر۔ یہ کیترھا
توہر اللہ (تعالی) ہس متعلق ناحقہ ونان اُسو
بیہ یہ زن توہر تسدن این ہنڈ حقہ تکبیرس
اُسو و کلام ہوان، تمہہ کتھ بیو توہہ از رسوایی
ہنڈ غلاب دنہ۔ (تہ تریہ ہی اکھ ہنہیبہ کر و ن
نظاہ بوزنہ)

بیہ (تمہہ ویر و لو اُس نہ) تھکتو اسہ توہر گوڈ بکھہ
لہ پڈ کر نیانو (تھکتو) چھو توہر (وونی)
اسہ نش کس کس ترنی و آتی ہوت۔ تہ یہ کیترھا اسہ
توہہ اساتہ رنگ دیت اوسو تہ چھو توہر پستہن
تھن پتھ کن ترورمت تہ (یہ کیا کتھ چھینہ ر)

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَ تَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ
ظُهُورِكُمْ ۚ وَ مَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ
الَّذِينَ رَعَيْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ
لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَا

كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۱۱﴾

اُسکی بچھت تو چھان از تہندک اتم سفارش در تہ ہمہ سیتی (مہند سچہ) توہر اُسو و دعوی کران نہ اتم چھ تہ ہمہ (پچھ حکومت کرنس) منز (خدا یہ نہک) شریک - تہندک پانہ وانی رشتہ چھ (دوڑا) بلکل تر صیتی ہتی تہ یہ کینترھا توہر و نان اُسو و تہ (سورے) چھ تہ ہم نش روومت -

۱۱
۱۲

اللہ (تعالیٰ) چھ پیزی پاٹھو چھلین تہ آچھن پھاٹہ ناؤن وول۔ سہ چھ موروس بنش زیند کڈان تہ زیندک بنش چھ مورج کڈن وول۔ تہندک اللہ (تعالیٰ) چھ یہ۔ لہذا وئی تو توہر کتہ کتہ چھو پھرتہ نتر یوان؟

إِنَّ اللَّهَ فُلِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَلَّىٰ تُوَفَّقُونَ ﴿۱۲﴾

سہ چھ صیص تون کڈن وول تہ تمکو چھ رات اراکک باعث بناومر تہ آفتاب تہ زون چھن حسابک ذریعہ بناؤر ہتی۔ یہ انداز چھ تسدیس غائب (تہ) سہاہ زان وول چھ۔

فَالِقُ الْأَصْبَاحِ، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، ذَلِكْ تَفْقِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۱۳﴾

بیہ چھ سہ سیکر تہندک باپتہ تارکہ یاد کرک ہتی چھ تہ زون توہر خشکی ہندین تہ سمندر کین مشکلات منز و تہ ہندپے لہو۔ اسہ چھ علمہ والہر توہر باپتہ نشانہ و پڑھناوتھ بیان کرک ہتی۔

ذَٰهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجْمَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾

بیہ چھ سہ سیکر توہر کی زوہر لپتہ یاد کرک ہتی چھو۔ پتہ چھ تمکو (تہندک باپتہ) اکھ عارضی روزن جاسے تہ اکھ زینٹہ مدتہ خاطر روزن جاسے مقرر کرک ہتی۔ اسہ چھ فکر ترن والہن لوکن ہند خاطر نشانہ و پڑھناوتھ بیان کرک ہتی۔

وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿۱۵﴾

بیہ چھ سہ سیکر آسمانہ پچھ آب وولمت چھ پتہ (وچھو کتہ پاٹھو) چھ اسہ امہ کر ذریعہ پرتہ پرتہ ووپاؤ یاد کورمت بیہ چھ تہ کہ ذریعہ فعل یاد کورمت بیہ اُسو (ٹیلین منز) پرتھس پچھ پتلو کڈان چھ۔ بیہ چھ کھنر کھو منز یعنی تہ کھو جامو منز بون کن اوپانہ کھنر (تزوکر) کڈان۔

وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْحِهَا قَنَوَانٌ، ذَا زَيْتَةٍ وَ جَنَّتِ مِنَ الْأَعْنَابِ وَ الزَّيْتُونِ وَ الرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ

أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾

بہ چھ دھین ہندک، زیتون کی تہ دان ہندک تھو
باغ دکھلان، میو منتر کینہ پانہ وازی اکھ اکس ہوک
چھ تہ کینہ، مختلف چھ۔ بیبلہ (تو اندر پر ہتھ
قسم کس کس) میو نیلان چھ تہ تمیک میو تہ
تمیک پٹن گڑھ دھین۔ تھق اندر چھ اپکان
ان والین ہندر باچھ بے شک (واراہ) نشانہ۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ
وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِخَيْرٍ
عَلِيمٌ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۳۱﴾

بہ چھ تمو اللہ (تعالیٰ) ہس سبتی چنو اندر
شریک مقرر کرے ہتی۔ بیبلہ زن تمو (خدایان)
تم یاد کرے ہتی چھ تہ تمو چھ تہنہ حقہ زانہ
کرنے اپڑے پاٹھو، نیچوڑ تہ کور بناوڑ مشر
سہ چھ پاک تہ یہ کینہ شہا تم بیان کران چھ
تہر ہتھ چھ سہ (تھنہ تو ایلا)۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنۢىٰ يَكُوۡنُ لَهُ
وَكۡدٌ وَّلَمۡ تَكُنۡ لَهُ صَاحِبَةً ۗ وَخَلَقَ كُلَّ
شَيْءٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

آسمان ہند تہ زمینک چھ (سہ) بلا نمونہ یاد
کرن وول۔ تس کتھ پاٹھو ہیکہ نیچوڑ مستھ
بیبلہ زن تس کاتنہ آشنی اس نہ۔ بہ تمو چھ
پر ہتھ اکھ چیز یاد کورست تہ سہ چھ پر ہتھ کاتنہ
کتھ زانان۔

ذٰلِكُمۡ اللّٰهُ رَبُّكُمۡ ۗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ خَالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ ۗ فَاَعْبُدُوۡهُ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيۡلٌ ﴿۳۳﴾

بہ چھ تہنہ اللہ (تعالیٰ) یس تہنہ پروردگار (تہ)
چھ۔ تس ہوا چھنہ کاتنہ معبود۔ سہ چھ پر ہتھ
کاتنہ چیز یاد کرن وول۔ لہذا کرو تمو ستر عبادت
بہ چھ سہ پر ہتھ کتہ (چیزس) پوٹھ نگران۔
نظر چھنہ تس تام واتھہ ہیکان مگر سہ چھ نظران
تام سہ واتان بہ چھ سہ مہربانی کرن وول (تہ)
حقیقت زان وول۔

لَا تُدۡرِكُهُ الْاَبۡصَارُ ۗ وَهُوَ يُدۡرِكُ الْاَبۡصَارَ ۗ
وَهُوَ الْغَلِيۡظُ الْخَبِيۡرُ ﴿۳۴﴾

تہنہ س پروردگار ہند طرفہ چھ دیلہہ آمشر۔ اد
نیچوڑ (تم، زانہ)۔ تس آسہ (تسہ یہ کار) چھنہ
(نابیر) خاطر تہ نیچوڑ ہجر (پرورد) تس کسبہ

قَدْ جَاءَ كُمۡ بَصٰرٌ مِّنۡ دُونِكُمْ ۗ فَمَنۡ
اَبۡصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۗ وَ مَنۡ عَمِيَ فَعَلٰىهَا ۗ وَ
مَاۤ اَنَا عَلٰىكُمۡ بِحَفِيۡظٍ ﴿۳۵﴾

سہ بیٹھ انسان ہیکہ نہ پسند علم کہ زور خدایس و چھتھ۔ مگر اللہ (تعالیٰ) چھ پنہ
نقد سبتی انسانس نزدیک ہتھ پنہ دیدار کرناوان۔

(تسند یہ کار) پانچے بار۔ یہ تو چھس نہ تہنڑ
حفاظت کرن وول۔

تہ تیتھے پانچھ چھ اُس رنگہ رنگہ طرفو آپہ چھری
پہچھری اتان۔ (تیتھ تہن پچھ تہجت سپد) بیہ
تیتھ تم (یہ) ون نہ تہ تہجت پورمت (یعنی
پرتھ بوزنومت تہ تہجت پور کر ہنڑ) بیہ تیتھ
اُس یہ علمہ والہ قومہ (کر فایدہ) باپتھ بیان کرو۔
یہ کینترھا پانچس پروردگار ہنڈ طرفہ تہ تہ پچھ
نازل کرنہ یوان چھ تہ تہج کر پادوی۔ تس وراپی
پچھنہ (بیہ) کاتہہ معبود تہ تہ پچھ مشرک کتہ تہجت۔
بیہ اگر اللہ (تعالیٰ) تہ تہ تہ ہے تہ تم کر ہن نہ
شرک تہ اسہ کوزکھ تہ تہ تہن پچھہ محافظ مقرر
تہ نہ چھکھ تہ تہن پچھہ نکران۔

بیہ سہ ولو تو ہر تہن بدرد یمن تم اللہ (تعالیٰ)
ہس وراپی (دعا ہن مشر) آلو دوان چھہ۔ تہ ورن
تہ دشمن تہنتھ جہالتہ کر باعثہ اللہ (تعالیٰ) ہس
بدرد۔ پچھہ پانچھ اسہ پرتھہ اگر قومہ باپتھہ
تہنڈر اعمال خوبصورت کر تھہ گاوی تہ۔ پتہ پچھہ
تہن پسنس پروردگارس کن پچھہ تہ تہن تہ پچھہ پچھہ
سہ تہن تہج خیر کر یہ تم کران اُس۔

بیہ پچھہ تم اللہ (تعالیٰ) ہنڈر پوتہ تہ قسم کھیہ تہ
نہ اگر تہن ہنڈ کاتہہ تشاہدہ پتہ تہ تم کرن تہتھ
منور قبول۔ تہ ورن (دو متن) نہ نشاہ تہ (تہ) چھہ
اللہ (تعالیٰ) ہس ہنڈ تہ سہ چیز تہ یس تو ہہ
باو، نہ یسیدہ تہ (نشاہ) ہن تہ تہم (لوکھ)
ان نہ (توتہ) ایمان۔

تہ اُس پچھہ وکھ تہنڈر دل تہ تہنڑ چھہ امر ہنڈ
نہ تہو اون نہ تہتھ (دو تہیہ) پچھہ گو ڈنچہ لہ ایمان
تہ تہ ترا وکھ تہنڈر سرکشین مشر تہ وول۔

وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيْتِ وَرَلِيْقُوْلُوا
دَرَسْت دَرَلْبِيْتَه لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۱﴾

رَاتِيْعَمَا اُوْحِي رَايِكَ مِنْ رَرْتِكَ لَآ اِلَهَ
اِلَّا هُوَ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۵۱﴾

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اشْرَكُوْا، وَا مَا جَعَلْنٰكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا، وَا مَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِيُوْكِيْلٍ ﴿۵۲﴾

وَلَا تَسْتَبُوْا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ فَيَسْتَبُوْا اللّٰهَ عَدُوًّا يَّغْيِرُ عِلْمَهُ
كَذٰلِكَ رَزَقْنَا كُلَّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلَى
رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿۵۳﴾

وَاقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ
لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، قُلْ
اِنَّمَا الْاٰيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَا مَا يَشْعُرْكُمْ
اَنْهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۴﴾

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَةً تَلْهُمُ وَابْصَارَهُمْ كَمَا
لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّا نَدُوْهُمْ
فِيْ طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۵۵﴾

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا إِلَيْهِ أَوَّامِنًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

بیسے ہرگاہ اسی تمہیں پیٹھ ملائیک نازل کرہو تو مہر دہ کرہن تمہیں سبتو کلام تو پرچہ کانہہ چیز کرہو اسی تمہیں برونیٹھو کہہ اتاد۔ تو تہر انہو ہن نہ تم اللہ (تعالیٰ) ہند بیٹھہن وراہی ایمان۔ بلکہ چھہ تمہو منتر واریاہ جابل۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شٰٓئِطِيْنَ الْاَرۡسۡ وَالۡجِنِّ يُوحِیۡ بَعۡضُهُمۡ اِلٰی بَعۡضٍ زُخۡرِفَ الْقَوَلِ غُرُورًا وَّلَوۡ شِآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوۡهُ قَدَّزَهُمۡ وَّمَا يَفۡتَرُوۡنَ ﴿۱۸﴾

بیسے اسی اسے بیٹھہ پاٹھو انسانو تو جتو منتر بتو مچر پرچہ اکیس نبی ہندو دشمن بناوی مہر۔ تمونتر چھہ کیشہ کیشن دوکوہ دنر باپتھہ (تہند بن دن منتر) بدخیل تراوان۔ یوسہ خالی ٹاو باوچ کتھہ چھیہ اسان، تو ہرگاہ چون پروردگار بیٹھہ ہے تو تم کرہن نہ تھکنو! اوکو کرکھہ تم تہ تہند اپر تہ نظر انداز۔

وَلَيَتَصَغٰیۡ اِلَیۡهِۭ الْذٰلِیۡنَ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِالْاٰخِرَةِ وَّلَیۡبَرِضُوۡهُ وَّلَیۡفۡتَرُوۡۤا مَا هُمۡ مُّفۡتَرُوۡنَ ﴿۱۹﴾

تہ خدا (تعالیٰ) ہن چھہ بیہ اوکو یوڑھمت (بیٹھہ زن قیامتس پیٹھہ ایمان نہ ان والہن ہندو دل (تہند لو اعمالو کئی) بیٹھہ نے کتھن کن تم تہ بیٹھہ تم یہ (یعنے ایڑا) پسند کرن ہن تہ بیٹھہ تم پستہن اعمالن ہند تیجہ وچہن۔

اَفَعٰیۡرَ اللّٰهِ اَبۡتَغٰی حَکۡمًا وَّ هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ اِلَیۡکُمُ الْکِتٰبَ مُفۡصَلًا وَّالَّذِیۡنَ اَتٰیۡنَهُمُ الْکِتٰبَ یَعۡلَمُوۡنَ اَنَّهُ مُنۡزَلٌ مِّنۡ رَبِّکَ بِالْحَقِّ فَلَا تَکُوۡنَنَّ مِنَ الْمُخۡتَرِیۡنَ ﴿۲۰﴾

(تہ ویکھ) کیا ہر تھاندنا اللہ (تعالیٰ) اس وراہی بیاکہ کانہہ فاصلہ کرن وول؟ بیٹھہ زن تو تو ہسہ پیٹھہ ٹاکار کتاب سوز منتر چھیہ۔ تو کین اسے کتاب دتر منتر چھیہ تم چھہ زنانن زسہ چھیہ پترہ سان چائس پروردگار ہند طرفہ نازل کرنہ آمہر۔ لہذا مسہن تہ جگرہ کرن والہو منتر۔

وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدۡقًا وَّعَدۡلًا، لَا مُبَدَّلَ لِکَلِمَتِہٖ ۚ وَ هُوَ السَّمِیۡعُ الْعَلِیۡمُ ﴿۲۱﴾

چائس پروردگار منتر کتھہ (تہ) روز حقہ تہ افہامہ سان پڑو سیدتھہ تہ کیا ز، تہنزن کتھن چھہن کانہہ بدلوان وول بیہ چھہ سہہ جان پاٹھو بوزن وول تہ زبر پاٹھو زانن وول۔

وَ اَنۡ تَطۡعَ اَکْثَرُ مَنۡ فِی الْاَرۡضِ یُضِلُّوۡکَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ۚ اِنۡ یَّبۡتَغُوۡۤا اِلَّا

بیسے اگر تہ بتر آتہ پیٹھہ ہن والہو منتر واریاہن ہنزن کتھن ہنر پاروی کرکھہ تہ تم کرنے تہیہ اللہ (تعالیٰ)

الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۱﴾

ہنر و تہ نش گمراہ۔ تم چھو صرف گمانچ پاردی کران بیہ چہ تم قیاسی کہتہ کران۔

إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۲﴾

جون پروردگار چھ زبر پاٹھو زمان تس بیس تسنر و تہ نشہ ڈران چھ تہ سے چھ تمہن تہ جان پاٹھو زمان یو ہدایت لڑیت چھ۔

فَكُلُوا مِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾

لہذا اگر توہر تہدین نشان پٹھ اپسان انان چھو اوہ کوزیتہ پٹھ اللہ (تعالیٰ) سند ناو ہینہ آمت آسہ تہ منز کھینو۔

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ عَلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۴﴾

تہ توہر کیا چھو (گومت)؟ توہر چھو نہ تمہ منز کھوان بیہ پٹھ اللہ (تعالیٰ) سند ناو ہینہ آمت چھ اسمہ باوجود نہ تمہو (اللہ تعالیٰ من) چھ توہر بروٹھ کرنہ تہ سورسہ کھینہ و پڑھناوتھ بیان کوزمت بیہ تمہ تہندہ باچتہ حرام کوزمت چھ۔ ماسواپہ ابکہ نہ توہر سپرو مجبور ا تہ واریاہ (اکھا چھ کوز پڑھلمہ و رآلی یقینا چنہو ناہتر مطابق (لوکن) گمراہ کران۔ چون رب چھ بے شک حد نمبر نیرن والہن زبر پاٹھو زمان۔ بیہ گمہنچہر ظاہری شکہ (نشہ) تہ امچہ حقیقتہ (دوہڑو) نشہ بچو۔ ہم لاکھ گوناہ کھاوان چھ تمہن بیہ تمیک بیہ تم کھاوان چھ بے شک بلہ دہن۔

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأَثِمِ وَبَاطِنَهُ، إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثِمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۵﴾

بیہ مہ کھینو توہر تمہ منز بیہ پٹھ اللہ (تعالیٰ) سند ناو ہینہ آونہ۔ تہ یہ عمل چھیر بے شک نافرمانی۔ تہ شیطان چھ یقینا چنہنہن (دوستن ہندین دن منز (تیمو خیال) تراوان روزان۔ بیہ زن تم توہر سرتی شون۔ تہ ہرگاہ توہر تمہن ہنر فرمانبرداری کر و تہ یقینا سپرو توہر مشرک۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ إِلَّا فِي سُلْطَانِ الْإِنْسَانِ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿۱۶﴾

تہ بیس شخص مومہ آسہ پتہ آسہ سہ اسہ زندہ کوزمت تہ تہندہ خاطر آسہ بیہ گامش مقرر کوزمت بیہ کر ذریعہ سہ لوکن منز چھیران حقوران آسہ سہ چھاس شخصہ ہندی پاٹھو (آسہ پھان)؟ بیہ سہ سہ حال بیہ آسہ زبر آسہ انہ گمہن منز (پیومت تہ) تمہو منز آسہ نہ

أَوْ مَنْ كَانَ مِيثًا فَأَخْبَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

گنہ دوز تہ (نمبر) نیلان۔ یتھے پٹھو چھہ گا قرن
ہندہ ٹاٹھ تہندہ اعمال شوہ دار بناوتھ لوہہ آہتی۔
بیہ چھہ اہر پرہتہ اہس بستی مشر اہکی بڑی بڑی
تجریم یتھی بناوہوتی (یلینے تم چھہ پیڑ بد اعمال رپڑ
شکلہ مشر دھان) سیمیک نتیجہ یہ چھہ آسان نہ تم
چھہ تھہ (بستی) مشر (نسیبین خلات) تروہ یہ کران
مگر تکرہ چھہ تم پسنینہ زون خلات تروہ یہ کران۔
وہ فی گوہرتن چھہ نہ فکر تکران۔

بیہ نیلہرتن ہنس کاہنہ نشان یلان چھہ، تہ تم چھہ
ذمان ز یوتانی نہ اہر تھتے کلام دنہ بیہ بیس اللہ
(تعالے) ہندین پیغیبرن دنہ آمت چھہ، اُسو الوہ
برگز تہ ایمان۔ اللہ (تعالے) چھہ (ساروہے کھوتی)
جاد زانان، نہ سہ کتب تھاو پیڑ پیغیبری۔ بیکو
لوکو گوناہ کورنت چھہ بہن واتہ اللہ (تعالے) ہند
طرفہ ضرور ذلت تہ کر لوٹھ عذاب، اہر باعشہ ز تم
چھہ (نسیبین خلات) تروہ یہ کران۔

بیہ نیس اللہ (تعالے) ہدایت دیک اراد کران چھہ
تسد سپنہ چھہ اسلام باچھہ مشر راوان تہ نیس
گمراہ کرنک اراد کران چھہ تسد سپنہ چھہ تنگ
کران۔ زن تہ چھہ سہ تھنرس کن کھسان آسان
(تہ) یتھے پٹھو چھہ اللہ (تعالے) بہن لوکن
پٹھہ ہم نہ ایمان انان چھہ، عذاب تاہل کران۔
توہ یہ چھہ پانس پرور دکاہ ہنر سہوتہ، اہر چھہ نصیبت
رہن والہن ہندہ باچھہ نشانہ واش کد تھہ بیان کرکو ہوتہ۔

تہندہ ٹاٹھ چھہ تہندس رہہ ہندس دربارس مشر، سلاقی
ہندہ مگر تیار۔ تہ یہ کثیرہا تم کران چھہ تمہ کو چھہ
تہندہ مددک۔

بیہ (کرو یاد) سہ وہہ نیلہرتہ بہن سارنہ جمع کر
(تو پتہ ویکھ) اسے چنہ لوہ! توہہ اُسو د انسانو
مشر واریاہ (پانس سوتو رلاوتھ) نہتو تہ تہندہ انسان

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
أَكْبَرًا مُّجْرِمِينَهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا
يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا
يَشْعُرُونَ ﴿۳۶﴾

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ
نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ
رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ
رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿۳۷﴾

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ
صَدْرَهُ لِلدِّينِ ۗ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا
يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۗ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ
الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۸﴾

وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ
فَضَّلْنَا الْآيَةَ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۳۹﴾
لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ
وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۰﴾

وَيَوْمَ يَخْشَرُهُمْ جَمِيعًا ۗ لِيَمْعَشَرَ
الْحَيِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ
وَ قَالَ أَوْلِيُّهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا

مددگار و نر، نر اسے سانہ پروردگار! اسے مقرر چھ
 کثیر و کثیر بنش فایده سمیت تہ اسی چھ پنشن شدہ
 مددس و آتی ہو، ایس تریہ سانہ خاطر مقرر کوزت اوتہ
 سہ فرماوند چھ تہند بھکانہ شدہ منتر رُوڑو توہر
 اگس ز پھس مددس نام مایویہ ایگر نہ خدایہ سنہز
 مرمعی بیترہ بدل کیہند۔ چون رب چھ بے شک
 حکمتہ وول (تہ) سبھا زانن وول۔

یتھ پاٹھو چھ اسی کیہندہ ظلم کیہنن ہندک دوست
 بناوان تمہ کامہ ہند باعشرہ یوسہ تم کران چھ۔

اسے چون تہ انسان ہند ٹولہ! کیا توہی مشر آسہ نا
 تہندک رسول توہر بنش؟ ہم توہر میانی آسہ پڑتھ
 ہوزناون اسی و تہ آڑو کہ دوہ کہ ملاقاتہ نشہ اسی
 و توہر خبردار کران۔ ہم ون نہ اسی چھ پاس خلاف
 (پانے) گواہی تارن۔ تہ دنیاوی زندگیہ تراور تم
 فرہس منتر تہ تموتار پاس خلاف (پانے) گواہی
 نہ تم اسی کاقر۔

یہ (بیچیمین ہند سوزن) اوس اسہ سبہ نہ تہند
 پروردگار ہیکر ہے نہ شہرن ظلمہ سان تیاہ کر تھ، نیلہ
 تنگ روزن و آل غفلتس منتر آسہن۔

بیہ چھ پر تھ شخصہ ہند (یا توہر) خاطر تہند لو
 اعمالو مطابق درجہ مقرر۔ تہ چون پروردگار چھندہ
 تمہ نشہ غافل یہ ہم کران چھ۔

بیہ چھندہ چون پروردگار کانہ محتاج بیہ چھ سہ
 رحمتہ وول۔ اگر سہ بیترہ تہ توہر کردہ ہاک تہ چھکو
 اکہ بیہ توہر کہ سہ منتر استاد کرک ہوہ چھنو (تھے پانے)
 ایس سہ بیترہ تہ تس بناو تہند (ہاک کر نہ) پستہ
 تہند جانشین۔

نیہہ اکتہ (ہند توہر ستر و عدو کر تہ یوان چھ سہ روز
 ضرور (پڑ) سپد تہ توہر ہیکر نہ کتہ پاٹھو تہ اسہ
 عاجز کر تھ۔

اشْتَمْتَمَّ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَ بَلَّغْنَا
 آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْت لَنَا، قَالَ النَّارُ
 مَثُوبَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا
 شَاءَ اللَّهُ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵﴾

وَ كَذَلِكَ نُؤَيِّنُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ
 بَعْضًا لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۶﴾

يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ
 رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَ
 يُنذِرُونَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا، قَالُوا
 شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَ عَزَّ ثَمَّ الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا وَ شَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ
 كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۱۷﴾

ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ
 الْفَرَى يَظْلِمُونَ أَهْلِيهَا غُفُلُونَ ﴿۱۸﴾

وَ لِكُلِّ دَرَجَةٍ عَمَلُهُمْ وَ مَا
 رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾

وَ رَبُّكَ الْعَنِي دُو الرِّحْمَةِ، إِنْ يَشَأْ
 يُذْهِبْكُمْ وَ يُسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ
 مَا يَشَأُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ
 قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿۲۰﴾

إِنَّ مَثُوعِدُونَ كَلِمَةً مَا أَنْتُمْ
 بِمُعْجِزِينَ ﴿۲۱﴾

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۱﴾

ترہ دن، اسے میانہ قوم! توہم کرو پتھن طرقتس پٹھ
عمل، بہ تر کر (پتھن طرقتس پٹھ) عمل - پتھ کرید
توہم جلدے معلوم نہ سیمہ لومک (یعنے ونیر ہک)
انجام کہندس حقس مشرچھ سیدان کہتھ پھید سیر نہ
فللم چھتہ (نہ سیمہ) کامیاب مگر تھان۔

وَجَعَلُوا إِلَهَهُ مَعَآ ذَرَأًا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُهُ يُزْعِمُهُمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ إِلَهُهُ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۳۲﴾

بہ چھ تھو تھہ زراعتہ مشر تہ تھو چار وایو مشراہیم
تھو (خدا تعالیٰ ہن) پایو کرکڑی تھو چھ اکھ حصہ اللہ تعالیٰ
سند مقرر (کرتھ تھووت) پتھ چھ تھ پتھ تھ تھ تھ تھ
دنان نہ لوت گوو اللہ تعالیٰ) تھہ خاطر تہ لوت گوو
سانہن شرکین تھہ خاطر (پتھ چھ پتھ دعوی کران نہ)
یس تھہن شرکین تھہ (حصہ) چھ اس تھ چھہ
اللہ تعالیٰ) ہس واتان تہ یس اللہ تعالیٰ) سند
(حصہ) چھ اس تھ تھہن شرکین واتان۔ تم
کو تھہ یچھ فاصلہ چھ کران۔

وَكَذَلِكَ دَرَجَاتٍ لِّكَفِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُ هُمْ لِيُزِدُوهُمْ دَرَجَاتٍ لِّيَسُوْا عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ فَذَرْهُمْ وَيَفْتَرُونَ ﴿۳۳﴾

یتھہ پٹھ اوس مشر کو مشر وار یا ہن تھہن بوشرکو
تھہن ہلاک کر نہ موکو تہ تھہن دین تھن پٹھ شک اور
کر نہ خاطر تھہن دین اولاد ہن تھہن کرن شوہر دار
کرتھ تھووت۔ تہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ) تھہ تھہ ہے تہ
تھ (مشرک) کر ہن نہ تھہ کھ لہذا تم تہ تہ تھہن
اپز تہ کر تھہ نظر انداز۔

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۴﴾

بہ چھ تھہ پتھ تھہ تھہن بئیا دس پٹھ دنان نہ فلانی
چارووسے تہ فلانی زراعت (کھنوں) چھ منع - تھن
ہیکر صرف سے کھیتھ یس متعلق اسی ونو۔ بہ (چھوان
نہ) کھیتھ چار وایو چھ تھہ نہ تھہن تھہ چھتھ (سوار
یا بار با پتھ) حرام کر نہ آمہر تہ کھیتھ چار وایو چھ تھو
نہ تھہ چھہ تھن پٹھ (ذبح کر نہ ویر) اللہ تعالیٰ)
سند ناوہوان۔ تھ (یعنے اللہ تعالیٰ) ہس) پٹھ
(تھہن یہ قول تہ فعل) چھہ بانر تھہ لاکہہ کر نہ کر (آسان)
سہ دپہ تھن تھہ اپز کھ یس تھ بنا وان چھہ، طرور
سزا۔

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَ مَحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مِّمَّتَهُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۶﴾

یہ سچے تم زمان تر یہ کینترھا یمن چاروین ہنرن
یُرِن منز چھ تر چھ نخلص سانبن مردن ہندر
باچھ تر سانبن آنتین پپھ چھ حرام کر تر آنت
وو فی کوو اگر سہ سورج اسہ تر تم (ساری) چھ
تھ منز شریک - سہ دیہ ضرور یمن تہنتر کھ
ہندر سزا - یاد تھا وو، نہ سہ چھ حکمتہ دول تر سہا
زانن دول -

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا أَمَّا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۷﴾

تم لوکھ چھ کاٹر لین والی سپرے ہتی یو پینر اولاد
بے وقوفی سان زاننر رو سنتے قتل کرری ہتی چھ - تر
یہ کینترھا اللہ (تعالے) ہن یمن دیت نت اوس
تر چھ ہمو اللہ (تعالے) ہس پپھ ایز نوو راوتھ
(پانس پپھ) حرام کووت تر تم چھ عمرآہ کا ہتی
تر تم چھ ہدایت لین والو منز (بے ہتی) -

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّتٍ مَّعْرُوشٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشٍ وَ النَّخْلَ وَ الرَّزَّازَ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَ الرَّبِيعِثُونَ وَ الرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ أَنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ لَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُشْرِفِينَ ﴿۱۸﴾

سے خدا چھ - نیمو نکر وکھن پپھ استاد سپدن والی
بارغ تر دکھو وراوی استاد سپدن والی بارغ تر کھنر
تر زراعت یمن ہندر منز بیون بیون چھ ، بیہ نرتون
تر وان پاد کرری ہتی چھ تھ سورس منز تر تم چھ پانر
والی (ہوی تر) تر (کینترن رنگن منز چھ تر) تر
ییلر یمن کلین مہو لگن تر توہر کھنیو تہندر مہو -
تر فصل لونہر تر مہو والہر (کو دہہ کرر تہند) یعنی
خدا یہ سہد) حق ادا تر اسرافس مہو مہو کام بکلیاز
سہ چھنر اسرافس کام ہنر والہن لیند کران -

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَ فَزَّاءٌ كُلُّوا مِنْهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۹﴾

تر چار والو منز چھ بار چار والی تر تر لوکھن تر چھ
اللہ (تعالے) ہن یہ کینترھا توہر دیتت چھو ، توہر
کھنیو تہر منز تر شیطا تر ہندن قدمن سدی مہو رلاو
قدم - سہ چھ بے شک تہند ماکار دشمن -

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الصَّانِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ

(تکو چھ) آٹھ جوہر (پاد کرری ہتی) تہر لوہر منز تر تر
ترھا لوہر منز تر - تر دن یمن تر کیا تہر چھانر تر

حَرَمَ أُمَّ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اسْتَمَلْتُمْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ كَيْتُؤُنِي بِعِلْمِهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷﴾

وَمِنَ الْأَيْلِ الْأُنثَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ الْأُنثَيْنِ ۖ قُلْ إِيَّاكَ كَرِهَ أُمَّ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اسْتَمَلْتُمْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَضَعَكُمُ اللَّهُ فِي بَهْدِهِ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۷﴾

حرام کر کے ممتو کہنے نہ ماؤں کے کہنے میں چیز مادن ہندو شری بانو (پانس منتر) ولہتہ تھومت چھہ۔ (سہ چھن حرام کورمت) اگر تو ہی پیز یارک چھو تہ میںہ وونو (یہ کہتہ) گنہ علمہ جہہ بنیاد پیٹھ۔

بہ (چھو تھو) وونو منتر نہ تہ گینو منتر نہ (پاد کر دہرت) نہ ونگھ کیا تھو چھادہ نوے نہ حرام کر کے ممتو کہنے دہ نوے ماؤں کے کہنے میں چیز مادن ہندو شری بانو (پانس منتر) ولہتہ تھومت چھہ (دیکھو) تو ہی اسی وا تہ وقتہ موجود میںہ تہ ہد اللہ (تعالیٰ) مہن امیک حکم دہرو وونو (اگر نہ تہ) ادر کس ہیکہ تھو ہند کھوتہ جا دہ ظلم آہستہ میں اللہ (تعالیٰ) ہس نہ زانتہ ماہتہ او کونہ اپیز لاگتہ تھو نہ لوکن کر زانتہ ورائی گھراہ۔ یقیناً چھتہ اللہ (تعالیٰ) ظلم لوکن و تہہ ہوان۔

تہ وون ہمن نہ یہ کینتھا میںہ کن تازل کرنہ آمت چھہ ہر تہ چھس نہ تہ منتر تس شخصس پیٹھ میں کانتہ چیز کینون ییشہ کانتہ چیز حرام لبان مورہ یا کونہ رتہ یا سور باز ورائی (سور باز) او کونہ نہ سہ چھہ ناپک یا (چھس) تسق (حرام لبان) یعنی سہ چیز یٹھ پیٹھ خلیس ورائی بہ کانتہ ہند ناو آسہ ہینہ آمت۔ مگر میں شخصس (یہ کھینس پیٹھ) مجبور سپر تہ سہ آسہ نہ (شرعیاتس) بھتہ پینہ وول یا حد ہینہ نین وول۔ تہ (سہ تھاون یاد نہ) چون رب چھہ پڑی پٹھو سٹھا بخش مار (تہ) پھیری پھیری رحم کرن وول۔

بہ ہم لوکھ یہودی چھہ اسہ اوس ہمن پیٹھ ہر ہتھ کانتہ چھہ وول جالوزہ حرام کورمت۔ تہ گاد (تہ دانس) تہ تہرس (تہ تھادوس) منتر اسی اسہ

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِهِمْ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَوْ هَلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَايِعٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۷﴾

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا

أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِحَسْبِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمُ الَّذِينَ لَا يُدْرِكُهُمُ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۰﴾

تمن پٹھ، تمہن دہ نونی ہندی چرب حرام کُری ہتی صرف نہ سہ (چرب) ایس تہندہن پلشتن تہ اندرین پیٹھ اسپر یا ایس کُری آڑی جہ سیتی سپاہتہ اسپر۔ پلاوس اسپر تہنہن نافرمانی کتی تمن سزا دہیمت تہ اسی چہ یقیناً پُز یادی۔

فَإِنْ كَذَّبْتُمْ فَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَأَنْتُمْ كَذِبَةٌ ﴿۵۱﴾

پتہ اگر ہم تریہ ایوانے تہ ترون تمن نہ تہندہ پروردگار جتھ کھلہ ڈولہ رحمتہ دول تہ تسد عذاب دیکر نہ مجرم لوکن لشتر دور کرنہ پتہ۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَوْلَا أَنْتُمْ لَآتَيْنَاكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ فَاصْبِرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۲﴾

یکو شرک کوزمت چہ، (تم،) وئن ضرور نہ کر اللہ (تعالیٰ) بیٹھہ ہے تہ نہ کر ہو اسی (زانیہ) شرک تہ نہ کرہن سانی جد اجداد تہ نہ کر ہو اسی کا نہہ چیز حرام۔ ہم تمن برونتھ (گذرے ہتی) چہو تمہو (تہ) اسی بیٹھہ پاتھو (سانی وحی) ایڑاوشتر تھتہ و قس تمام تہ تمہو تہ نہ سون عذاب۔ ترون تمن تہہ نیش جھا کا نہہ تیتھہ علم (ایس توہی اسپر خاموش کرنہ خاطر پیش کرتھہ بیکیوں؟) تیلہ کُری سہ سانہ خاطر پیش۔ توہی چہو نہ گمانہ وراہی کُری چیزچ پادوی کران تہ توہی چہو صرف اندازہ سیتی کتھ کران۔ ترون تمن (تہنہن بے عقل کتھ چھینہ ونان) نہ اثر کرن واجز دلیل چھینہ اللہ (تعالیٰ) ہندی ہے قبض مشر تہ ہر گاہ سہ بیٹھہ ہے تہ توہر سارہنہ دیہ ہیو ہلایت۔

قُلْ قَلِيلٌ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ يُخْبِرُكُمْ أَنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۵۳﴾

ترون تمن، نہ پتھ گواہ انیکو کہ نادہتھ، ہم پہ گواہی دن نہ اللہ (تعالیٰ) ہن چتھ یہ (بیٹھہ فلانہ فلانہ) چیز حرام کوزمت پتہ اگر تم تڑھ گواہی دن تہ تمن سیتی رلیتھ، دن نہ تہ نہ گواہی، تہ تمن لوکن ہننک تھاپش ہنر پادوی تہ کُری نہ تہ، یو سانی آہے ایڑاوشتر چہ تہ ہم لوکھ پتہ بیٹھہ زانیہن دکھن، پیٹھ اپمان چھنہ انان تہ بیہ چہو تم پتھن پروردگار ہندی شرکپ (تہ) بناوان۔

۵۱

قُلْ تَعَالَوْا آتِلْ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ
عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ إِنَّكُمْ تَرُدُّوهُم
إِلَىٰ آبَائِهِمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۵۷﴾

تر و ان (تمن) ز رولو بر بوز ناوو توہم تہ پرتھہ یہ
تہندی برن توہم پیٹھ حرام کورنت چھہ (تند حکم
چھہ) ز توہی مہ کر لویں تس سستی کاہنہ شریک
تہ مابس ماجہ سستی کرو احسان تہ مابس سید تہ
کہ خوف کتہ مہ کر لویکھ پنہر اولاد قتل۔ اسی چھو
توہم تہ رزق دوان تہ تمن تہ۔ بیہ مہ محترھو
بدرین (بکل) نزدیک۔ نہ بکو مشرتنمین (بدرین)
(تہ) نہ کھنٹھ (بدرین) بیہ یہ ز ر سہ زوئیس (قبل
کرن) اللہ (تعالیٰ) ہن منع کورنت چھہ مہ کر لویں
(شرعیہ) کہ یا قولونہ کر (اجازت و راقی قتل اللہ
تعالیٰ) چھہ امہ کتھ ہند توہم تاکیدی حکم دوان
یہ ز ن توہر (بدرین) بیٹھ رورہ۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعِدُوا لَهُمْ وَأَلْوَكَا نَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ
اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿۵۸﴾

بیہ (چھہ) اللہ تعالیٰ یہ حکم دوان (تہ) توہی مہ محترھو
تیبہ ہندیس ماس نزدیک بے احتیاطی سان یونام
نہ سہ جوانی واہر بیہ اسی انصاف سان مین تول پور
(پور) دوان۔ اسی جینہ کاہنہ شخصس تیبہ طاقتہ
کھوتہ چاد حکم دوان۔ بیہ (یہ) سیدہ توہی کاہنہ
کتھ، ووفو تہ انصاف ہنیو کھام اورن سہ شخصس
(سین متعلق کتھ و سہ آسہ امہر) پنہر آشناویہ
کونہ آسہ۔ تہ اللہ تعالیٰ سہ عہد (تہ) کرو پور
سہ چھو توہم امہ کتھ، ہند تاکیدی کر لویں نہ توہہ
سیدہ نصیحت مابس۔

وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿۵۹﴾

بیہ چھہ بے شک یہ میانی سیز و تھ، لہذا می و تہ
چکو تہ بین بین و تن پتہ مہ لگو تیلہ بتو تم توہم
تسرتز (یعنی خدا بر سرتز) و تہ ہتہ اور پور (ڈالہتہ)
سہ چھو توہم امہ کتھ (کتھ) ہند اور کتھ تاکیدی کر لویں نہ
توہی سیدہ تقویٰ پراون والی۔

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَىٰ

بیہ سیر نیکی پراوشر چھہ، تس پیٹھ (نعت) پور

لہ کاہنہ شخصس چھہ پر اجازت ز ر سہ نہر شرعیہ یا قولون پنہر شخصس مشرتز مجرم قبل کرن چھہ ہر حکم سچ کھام۔

الَّذِينَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ
هَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَلَّاهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
يُؤْمِنُونَ ﴿۱۹﴾

۱۹

کرتہ، با پتہ تہ پیرتہ اکر کتھ ہنز و تیرھنے کرتہ
خاطر تہ ہدایت دہ تہ رحم کرتہ کر عزمہ اُس اسہ
موسیٰ ہس کتاب دژ ہتر میتہ زن تم پسنس
پروردگار ہندس طاقاس پیٹھ ایمان انہ ہن۔

وَ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عِلَّاكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿۲۰﴾

بیہ یہ (قرآن) پتھ ترھ کتاب پیسہ اسہ نازل کر ہتر
چھینہ (تہ یہ) چھینہ برکتہ واجبی، او کو کرہ اوج
پاوری تہ تقویٰ پراو میتہ توہر پیٹھ رحم کرتہ پیسہ۔

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا الْكِتَابُ
طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا، وَإِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿۲۱﴾

(میتہ زن تہ سپرنہ) نہ توہر ڈونو (کرتہ وہ ہ) نہ
اسہ بروٹھ اُس صرف دہن بجا ترن پیٹھ کتاب نازل
کرتہ آہتر تہ اُس اُسی جنہ ہند پر نہشتہ پور قابل۔

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ
لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً، فَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ
صَدَفَ عَنْهَا، سَنَجْزِي الَّذِينَ
يَضِلُّونَ عَنِ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ
بِمَا كَانُوا يَضِلُّونَ ﴿۲۲﴾

یا (پتہ کتہ ہ) ڈونو نہ اگر اسہ پیٹھ کتاب نازل کرتہ
پیسہ سے تہ اُس لبر ہو یقینا تہ ہند کھوتہ جاد ہدایت
نی تو تہ ہندس پروردگار سہ طرفہ چھینہ توہر ہس
تخو ڈیل تہ ہدایت تہ رحمت آہتر۔ لہذا (یاد تقوو
نہ) نیجو اللہ (تعالیٰ) ہند کر آیہ اپراو تہ جنہ
(پیٹھ ایمان انہ) ہنتر روڈ پتہ۔ تہ ہد کھوتہ ظالم
کس اُس؟ اُسی ڈونو ضرور جنہ یک سامن آمین
(پیٹھ ایمان انہ) ہنتر پتہ روزان چھ، تہ ہند
پتہ روزنہ موکھ کڈر عذابک سزا۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ
أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ،
يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ
نَفْسًا رَّيْمًا نَهَا كَمْ تَكُنْ أَمَدَتْ مِنْ
قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، قُلِ
انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۲۳﴾

تم چھ صرف اتھ کتھ پیارن نہ جنہ ہنش یہ میں
ملایک یا پین جن پروردگار یا پین چائس پروردگار
ہند کر کینہ ہنشانہ۔ نیمہ وہ ہہ چائس پروردگار ہند
کینہ ہنشانہ ظاہر سدن، کالنہ نفس نیجو تہ
بروٹھ ایمان اسہ نہ اونمت یا پسہ ایمانہ کباعہ
آسمن نہ برتر حاصل کورست (تہ وہ ہ) دینہ نہ ہند
ایمان انہ فایدہ۔ تہ وکتھ نہ توہر پیرو، اُس
تہ چھ یقینا پیارن۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا بَيْنَهُمْ وَكَانُوا

یہو لکو جن دین چھلہ چھلہ کور تہ لوگہ لوگہ سپد

۱۹ یعنی یہودیہ نصاری۔ یہ اوس مشرک ہند خیال و گرنہ انجیل چھنہ شرعیہ پتہ کتاب

چون چھن بہن سوتو کاٹھہ تعلق، تہنہند معاملہ پچھ
 صرف اللہ (تعالیٰ) ہندس اتھس منز اچ سہ دیہ
 بہن جمع خبر یہ کثیرھا تم کران اسی۔

یوہنکی کر ہنڑ چھیدہ تمہ (ہنگی ہند) کھوتہ آسہ تہنہند
 حق داہنہ گون۔ تہ یوہدی کر ہنڑ چھیدہ بہن پیہ
 صرف تیوتے سزا دہن تہ بہن پیہہ پیہ نہ ظلم کرنہ۔

تہ ون بہن ز میہ چھیدہ میاڈی پروردگارن لے شکر
 سیزوتہ کن رہیری کر ہنڑ، تہنہس دپنہس کن یس
 گنہ، ہجر وراڈی چھ۔ یعنی ابراہیم ہندس دپنہس
 کن یس پزرس پیہہ تقایم اوس تہ سہ اوس تہ شکر کو
 اندر۔

تہ ون بہن ز میاڈی نماز تہ میاڈی قربانی تہ میاڈی
 نہنگی تہ بیون مران چھ اللہ (تعالیٰ) ہندی خاطر
 یس سارہنہ عالمن ہند پروردگار چھ۔

(تہ) تس چھنہ کاٹھہ شکرپ تہ میہ چھ امیک
 حکم دہنہ امت تہ بہ چھس ساروہے منز گودھ ڈنیک
 فرما تہ دل۔

تہ ون کیا بہ شہاڈنا اللہ (تعالیٰ) ہس وراڈی
 (کاٹھہ بیکہ) پروردگار ہندس حیثیتس منزہ نیلہ
 زن سہ پرتھہ اکہ چھنہوج پرورش کرن دول چھ
 تہ پرتھہ کاٹھہ نفس یہ کثیرھا کماوان چھہ تمیک
 (وبال) چھہ تسو پیہہ پھوان تہ کاٹھہ بورسمن واجو
 (ہستی) ہیکہ نہ دویمہ (ہستی) ہند بورسبتھہ پرتہ
 آسہ و توہہ پنسنس پروردگارن کنے پھسپرتھہ
 مگر شصن۔ پرتہ دیوہ سہ توہہ تمہ کتھہ ہنڑ خبریتھہ
 منز توہو اتخلاف کران اسی و۔

تہ سہ چھہ تیمو توہو دنیاہس منز (گودھنکمن لوکن
 ہندی) تقایم مقام بناو کہوتی چھو تہ توہہ منز چھن
 کیشنن کیشنن پیہہ او موکوہ درجن منز برتری ڈر
 ہنڑ نہ تمی یہ کثیرھا توہہ دیہت چھو تھہ منز

شَبِيحًا كُنْتُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُمۡ ۗ اِنَّمَا
 اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنۡزِلُہُمۡ بِمَا
 كَانُوۡا يَفۡعَلُوۡنَ ﴿۳۰﴾

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِہَا
 وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَى اِلَّا
 بِمِثْلِهَا وَ هُمۡ لَا يُظَلَمُوۡنَ ﴿۳۱﴾

قُلۡ اِنۡنِیۡ ہَدِیۡتِیۡ رَبِّیۡ اِلَى صِرَاطٍ
 مُّسْتَقِیۡمٍ ۙ دِیۡنًا قَدِیۡمًا مَّا مَلَّۤ اَبۡرَہِیۡمَ
 حَیۡثُ قَامَ ۙ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشۡرِکِیۡنَ ﴿۳۲﴾


قُلۡ اِنَّ صَلَاتِیۡ وَ نُسُکِیۡ وَ مَحِیۡاِیِیۡ وَ
 مَمَاتِیۡ رِبِّیۡ رِبِّ الْعٰلَمِیۡنَ ﴿۳۳﴾

لَا شَرِکَ لَہٗ ۗ وَ بِذٰلِکَ اٰمِزُتُ وَ اَنَا اَوَّلُ
 الْمُسْلِمِیۡنَ ﴿۳۴﴾

قُلۡ اَعَزَّ اللّٰهُ اَبۡغِیۡ رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ کُلِّ
 شَیۡءٍ ۙ وَ لَا تَکۡسِبُ کُلُّ نَفۡسٍ اِلَّا عَلَیۡہَا ۙ
 وَ لَا تَزُرُّ وَاۡرِثَۃً وَ ذَرَّ اٰخِرٰی ۙ ثُمَّ اِلَى
 رَبِّکُمۡ مَّرۡجِعُکُمۡ فِیۡنُنۡبِتُکُمۡ
 بِمَا کُنۡتُمۡ فِیۡہِ وَ تَحۡتَلِفُوۡنَ ﴿۳۵﴾

وَ هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَکُمۡ خَلَیۡفَ الْاَرْضِ
 وَ رَفَعَ بَعۡضَکُمۡ فَوْقَ بَعۡضٍ دَرَجٰتٍ
 لِّیَبۡلُوکُمۡ فِیۡ مَا اَنۡشَاۤءُ اِنَّ رَبَّکَ
 سَرِیۡعُ الْعِقَابِ ۙ وَ اِنَّہٗ لَکَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۳۶﴾

کر تہنتر آزمائش - چائس پروردگار مند سزا چھ
 بے شک جلد یوں تر سہ چھ یقیناً سہا بخش ہر
 تر چھری چھری رحم کرن دول۔



سورة اعراف ۱۔ یہ سورہ چھ گلی تر بسم اللہ بہتہ چھ آتھ نہتہ تر ستھ آتھ بیس چھس تر و تھ کر و تھ

دبر چھس، اللہ (تعالیٰ) مند ناو بہتہ (پر لکن) یس
 حد رؤس کرم کرن دول (تر) چھری چھری رحم کرن
 دول چھ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

بر چھس اللہ سارو بے کھو تر جاو زمان دول تر پڑویر
 اکھ عظمت واجو کتاب یوسہ تر یس کن تازل کرنہ آہر
 چھنہ (تر یس چھتہ تر یہ پاو بناو میتر) لہذا چائس
 سپس مہ سپرن امر کو کا نہتہ تنگی پاو (امر کو تازل
 کرنک غرض چھ یہ تر) تر کر کھہ امر کو ذریعہ اہزن
 واکر یسہ والہ عذابہ لہتر) ہشیار - بیس چھنہ یہ کتاب
 مؤمنن کرکھ اکھ یاد پاوون واجو کتاب۔

الْمَصَّ ②
 كِتَابٌ اُنزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي
 صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرًا
 لِلْمُؤْمِنِيْنَ ③

اُسو چھ یس لوکن زمان تر (کلام) تو بہر کن
 تہنتر پروردگار بند طرفہ تازل کرنہ آمت چھ پھ
 کرو پاروی - بیس تس خدائس، ورا یس یکم (تہنتر
 خیال) بیس کار ساز چھ تہنتر پاروی مہ کرو، اماہ
 پوز تو بہر چھو تر کہنی لغت رٹمن۔

اَتَّبِعُوا مَّا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ
 لَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ، قَلِيْلًا
 مَّا تَذَكَّرُوْنَ ④

بیس چھ واریاہ بستی تر تھہ یکم اسہ ہلاک کر یسون
 عذاب آو تمہن نش رات گیت مند ر منتر یا یلیہ تم
 دو پھرن آرام کران اوس۔

وَ كُمْ مِّنْ قَرِيْبَةٍ اَهْلَكْنَهَا فِجَاءَهَا
 بِاَسْنَابِهَا اَوْ هُمْ قَارِئُوْنَ ⑤

لہذا یلیہ تمہن نش سون عذاب آو تمہ وقتہ اوس
 تہنتر زینو پھہ صرف یہ کتھ تر اوس اوس یقیناً ظالم

فَمَا كَانَ دَعْوُهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بِاَسْنَابِ
 اِلَّا اَنْ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ ⑥

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ
لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۰﴾

او کوئی پرشہو اُسی ضرور (تمن لوکن تہ) یمن
کن رسول سوزنہ آہو اُسی تہ اُسی پرشہو رسولن تہ
ضرور۔

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَ مَا كُنَّا
غَائِبِينَ ﴿۱۱﴾

پتہ کرو اُسی ضرور تمن بروٹھ کتہ پسنہ علمہ مطابق
حقیقت بیان تہ اُسی تہ اُسی تہ نو منہ تمن لوکن نش
غائب (ہمیشہ اُسی تہندہ حالات و چھان)۔

وَ الْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ ۗ فَمَنْ
تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۲﴾

یہ تہ (یعنی قیامتہ کر) وہہ چہ تمام اعلان ہند
قولن اکہ ثبات سپز مشر حقیقت۔ ہندہ وزن گوڑی
درائے تم لوکہ سپن باسرا (لوکن مشر ثابیل)۔

وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا
كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿۱۳﴾

تہ پھندہ وزن لوتی درائے تہ (زبانو) یتو لوکہ
چہ پسنہ زون ہندس معاملس مشر کاٹ لین
والی (تہ ہتو چہ پتو زو گائس مشر تراوی ہتو) یہ
چہ او کوئی سپد ہت نہ تہ اُسی سانہن آین (ہندہ
معاملس) مشر ظلمس کام، ہوان۔

وَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ
أَنزَلَ فِي سَمَوَاتٍ مَّاءً لِيَهْبِطَ
فِيهَا مَعَايِشٌ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۱۴﴾

یہ اوس اہہ توہہ زمپن مشر ضرور طاقت بھتہمت
تہ آتہ مشر اُسی تہندہ خاطر (رنگہ رنگہ) روزگار کر
سامانہ مقرر کرے ہت۔ اما پوز توہی چھو تہ کہہن شکر
کران۔

وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَلْنَا
لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّٰجِدِينَ ﴿۱۵﴾

یہ کرانو اہہ توہی (گوڑی کچر واجہہ شکلہ مشر) پاد
یتہ پتہ (تہندہ حالہ مطابق) توہہ صوڑر بخشا ویاو
پتہ ویاو ملائکین نہ آدمہ سوز اطاعت کرو اتھ پیچہ
ملائکو تہ کرنا یہ (آدمہ سوز) اطاعت مگر ابلیس کر
نہ۔ سہ بنیو نہ اطاعت کرن والہو اندر۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۗ
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ
وَ خَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿۱۶﴾

(اتھ پیچہ) وون نس (خلاین) نہ میانہ حکمہ باوجود
کھو مقویاکہ تہ سبجہ کر نہ نشہ باز؟ تہو دیت
جواب نہ یہ چھس اُیس (آدمہ سوز)
کھو تہرت۔ تہ چھتہ میانس فطرتس مشر
نار مقوومت تہ تہدس فطرتس مشر چھتہ
اُدر میٹرہ ہند صفت تھومت۔

لہ یتہ پٹھو کرال اُدر میٹر پرچہ کانہہ شکلہ دتھ بانہ بناوان چھہ۔ یتہ پٹھو چھہ (جاری)

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ
تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ
الضَّالِّينَ ⑩

(اللہ تعالیٰ! ہن) فرموا (اگر یہ کتھ چھینے تے) تے
نیریں نیر (جننے) منتر تے کیا ز چاڑے خاطر چھینے
منا سب ز تے ہیکہ اتھ منتر سیکرے کام - بیچتے نیر
تے چھاکھ ذیل لوگو منتر!

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ⑪

تے روئے (اے میاں پروردگار) میں دیتے دوہا
تمام مہلت بیچتے تم تھوڑے دنوں میں۔

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ⑫

(اللہ تعالیٰ! ہن) دیتے نس جواب تے چھ (چاڑے
منگے مطابق) مہلت دے دیواں۔

قَالَ فِيمَا آغُوبْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ
صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ⑬

تے روئے - بیکیاں تے چھتھس بہ ہلاک کوڑت اد
کوئی سہمہ بہ بہمن (انسان) بند خاطر چاڑے
سیز تے پیٹھ۔

ثُمَّ لَا يَجِدُ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَاعْتِمَانَهُمْ وَعَنْ
شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ⑭

پتے ہیکہ بہ بہمن نش بہمن بڑوٹھ کوئی تے، تے بہمن
نہ کوئی تے، بہمن کوچھ کوئی تے، تے بہمن کوہو روئی
کوئی تے (بیچتے تم ورغلاوگہ) تے تے لہ بہ بہ تے بہمن
منتر واریاہ شکرانو کرن والے۔

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ
تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ
أَجْمَعِينَ ⑮

(اللہ تعالیٰ! ہن) فرموا، نیچے چاڑے نیر گرتھ
چاڑے پیچہ ہمیشہ مذمت کرتے تے تے روزگہ درگاہ
منتر گرتھ تھنہ آمت - تم (تے) ہیکو (انسانو)
منتر چاڑے پاروی کرن (بہ چھس بہمن زمان نو)
توہہ سا روہے سستی بزن بہ جہنم۔

وَيَا دَا مِ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ⑯

میں اے آدم! (بہ چھس تے دنان ز) تے تے
چون سستی بوج روئے جنس منتر ادویتے تے تے
نیچے ہو، کھینے (تے چینیو) تے بیچے (منع کرے آبتس)
کھینے نش گرتھ تے تے، تے تے تے تے تے تے تے تے تے تے
اتھ پیٹھ ترو شیطان میں (دوڑنی آدمس تے تے تے تے)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا

بقیہ حاشیہ:- ادر نیچے ہنر فطرت تھون وول انسان پر تھہ قسمکی اخلاق، بیچتھہ بہکان - تادی

فطرت وول ہیکہ نہ کائسی ماتحت روئے تھہ۔

۷ یعنی تہنہ روئے بیبارس تمام د میں مہلت۔

۸ اتھ کھس چھ مراد تم احکام یوں منتر کی ترو کا پویش آدمس تے تسنہ ذر تے مع کرنے آمت اوس۔

وَدِرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِيهِمَا وَقَالَ مَا
نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ⑩

سنو با جس دلس) منتر وسواس میٹھ تر یہ کیشترھا
تہندو بلو عالیو منتر بہن لیشتر کھٹھتھ تھونہ آمت اوس
سہ کرہے نون۔ تہ وون نکھ پیٹھ کھلہ لیش پھٹھ
تہندی پروردگارن توہد صرف اڈو سوکھ منع کوزمت
ز میٹھ توہی دونوسے بونہ ملایک، یا توہر دونوسے
بونہ ہمیشہ زندگی۔

وَقَاسَمَهُمَا إِنْ كُنتُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ⑪

بیہ وون (شیطان) بہن قسم کرر کرر نہ بہر چھس
توہد دونونی کیٹ رت کا پچھ ون۔

فَدَلَّيْهُمَا بِغُرُوبِهِ فَلَمَّادَا قَالَا الشَّجَرَةَ
بَدَّثَ لَهُمَا سَوَاءً لَّهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفِينَ
عَلَيْهِمَا مِنْ دَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا
رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ
وَأَقْبَلْ لَكُمَا مِنَ الشَّيْطَانِ لَكُمَا عَدُوٌّ
مُبِينٌ ⑫

پتہ کرن تم دونوسے فریب دتھ پنتہ مقامہ لیشتر
دور۔ اڈ پیٹھ، تم دونوسے وے ابر (ٹھک کررہ
آمت) کھلہ پیٹھ کیشترھا ترہتہ نیو تہ تہندو بلو عالیو
(منتر یہ کھٹھتھ اوس تھ) گولو بہن پیٹھ نسیر تہ
تم لگو جنہ کر پارا وک سامانہ لہ پانس ولنہ تہ بہن
دونونی کوز تہندی پروردگارن آلو (تہ وون نکھ)
کیا میہ اوسونا توہد دونونی ابر کھلہ لیشتر ٹھاک
کوزمت تہ یہ اوسونا وونمت نہر شیطان چھو توہد
دونونی ہند دشمن؟

فَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ
لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ⑬

تمو دونوسے وے وون۔ اے سانہ پروردگار! ابر
کوز پنتہن نون پیٹھ ظلم تہ اگر تہ ابر بخنکھ نہ
تہ ابر پیٹھ رحم کرکھ نہ تیلر سپو اسی توہد قصان
سکن والو اندہ۔

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُشْتَقِرٌّ وَمَتَّاعٌ إِلَى
حِينٍ ⑭

فرمون یعنی اللہ تعالیٰ بہن) توہی بہر وکھم نیٹہ
توہر منتر سپدن کیٹھ کیشترن ہندی دشمن تہ تہندہ خاطر
اوسر نیٹھو ز سپنس منتر روزن جاے تہ کیشترس
کالس تام اوسر و فایدہ سکن (مقدر)۔

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَ
مِنْهَا تُخْرَجُونَ ⑮

پتہ فرمونکھ نیٹھو ز سپنس منتر روزو توہی زندگی تہ
نیٹھو منتر مسرو تہ اسی اندہ بیو توہی کڈ تہ لہ

۹

لہ یعنی تم لگو توہر تہ استغفار کررہ۔

لہ امر آیہ تلوہ چھو تہابت نہر کانہہ انسان ہیکر نہر ز مہرتہ نمبر نہر تھہ آسمانس پیٹھ لڑھتھہ۔ تھہ پاپو
خلفی سان حضرت عیسیٰ علیہ السلام تہ حضرت ادیس علیہ السلام ہس متعلق خیال کررہ یوان چھ۔

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٠﴾
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

اے آدم، شدو اولادو! اسر چھ توہر کیت اکھ
 بیٹھہ لباس پاؤ کورمت یس نہنزن کھنڈھ تھان
 واجنن جاین کھان چھہ بیہ چھہ پاراو (کرنگ
 موجب تر) تر تقویٰ کب لباس (تر) چھہ سارو
 کھوتہ بہتر لباس۔ یہ (باسک حکم) چھہ اللہ
 (تعالیٰ) سندو محکو اندر بیٹھہ توہر نفیحت ہو۔

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥١﴾
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

اے آدم، شدو گونرو! بیٹھہ توہر خیران (اللہ تعالیٰ)
 سوز و تریش (ڈالو) بیٹھہ توہر تہند مول روچ
 جنتہ منز کجایہ۔ تمہن دونو نیو توہر تہند پوتک
 تھپہ۔ بیٹھہ زن، تمہن نش تہند کھنڈھ تھان
 والو چھہ نرو راوہے۔ سہ تر تہند قبیلہ چھو توہر
 تر پیٹھہ وچھان، سیتہ پیٹھہ توہر تم وچھان
 چھو کوہ نہ۔ اسر چھہ شیطان کافر ہندی دوست
 بناو رہی۔

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٢﴾
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

بیہ نیلہ تم (کافر) کانہہ چھہ کام کران چھہ تر
 دنان چھہ (نر) اسر اسی بیڑ جد اجداد اٹھو
 پیٹھہ لگو رہی تر اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ اسر اہر
 کے حکم دیت مت، تر وکھہ اللہ (تعالیٰ) چھہ
 زاہ کچھ کھن ہند حکم دوان۔ توہر چھو اللہ
 (تعالیٰ) ہس متعلق تمہ کتھہ انہر پانٹو دنان کبہ
 توہر زانان چھو تر۔

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٣﴾
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

تر وکھہ میڈا ربین چھہ میںہ انصانک حکم دیت مت
 بیہ یہ نر پرچھہ مسہر نش اوسو پین توہر درست
 کران تر اللہ (تعالیٰ) سوز عبادت تہندے حق قرار
 دوان اوسو تھی آلو کران۔ بیٹھہ پانٹو توہر دس
 تہمت اوسو، بیہ چھہ توہر اکہ دوہر تھو حاسر کن۔
 اہس قرعین دیت تر ہدیت مگر بیکہ اکھ فریق چھہ
 بیٹھہ پیٹھہ مگر اسی واجب کام ہتر چھہ (یعنی سہ چھہ
 مگر اسی ہند مقدار سپر توہر مت) تمہو چھہ اللہ (تعالیٰ)
 تراوتھہ شیطان پنو دوست بناو رہی تر تمہ بیٹھہ

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٤﴾
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

يَبْنِيْ اٰدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۳۶﴾

خیال کران نہ تو چھ ہدایت لو بہت۔
اے آدم ہندو نیچو! پرستھ مسجد تزدیک ابرو
پارو (کرکو سامان) پانٹوان بیہ کھینو تہ چیلو
اما پوز اسراف مہ کرو۔ بیکیانہ سہ (اللہ تعالیٰ)
چھہ مصرفن پسند کران۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اُخْرَجَ لِحِبَابِكُمْ ۗ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نَفْصَلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۷﴾

تر وکھہ نہ اللہ (تعالیٰ) سندیہ پارو میں تمکو
پستین بدن ہند خاطر کوڑمت چھہ، کھو چھہ
حرام کوڑمت؛ یتھہ پاٹھو رزقہ منز پاک پاکیزہ
چیز تہ (کوچھ حرام کرے ہوتی)۔ تر وکھہ ہم
(پاک چیز) چھہ (دراصل) یتھہ دنیاہس منز
(تہ) ملوہن ہوتی تہ قیامتہ دوہہ آسن صرف
ہینہ اوت ہوتی۔ یتھہ پاٹھو چھہ اسی پتہ نشانہ
علمہ والہن لوکن ہند خاطر داش کدہتہ بیان
کران۔

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَا مَا بَطَّنَ وَا الْاِثْمَ وَا الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَا اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَا اَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۷﴾

تر وکھہ میانی ہرور دھارن چھہ صرف بد اعمال
اد تہ فو آسن یا کھیتہ آسن، تہ گوناہ تہ نا سچ
سرکش، حرام کر ہتہ۔ بیہ یہ کتھ نہ توہی ٹھہراویون
کانہہ ہیتھہ و ہر اللہ (تعالیٰ) ہس سہتی شریک
ہینو ہند با ہتھہ تمکو (یعنی اللہ تعالیٰ ہن) کانہہ
ڈپل آسہ نہ نازل کر ہتہ، بیہ یہ کتھ تہ (ہین
حرام قرار ڈر ہتہ) نہ توہی لاگو اللہ (تعالیٰ)
ہس پچھہ تڑہ ایڑ اٹھ پچھہ توہی زانانے چھونہ۔
بیہ چھہ پرستھ قومو با ہتھہ (اند وانگ) اکھ وقت
گنہتھہ۔ او کوہی میلہ ہتھہ (اند وانگ) وقت
واتر تہ تم نہ ہین تہ ہتھہ اکھ ساعت ہتھہ
روزتہ تہ نہ ہین (اکھ ساعت) ہر ونٹہ ہتھہ۔

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۗ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَفِدُّوْنَ ﴿۳۸﴾

اے آدم ہندو فرزندو! یو دوسے تو ہریش توہم
منہر پیغمبر بناوتھہ سوزنہ ہین، ہتھہ پاٹھو نہ تم آسن

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ اِنَّمَا يٰٓاْتِيْكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَفْقَهُوْنَ عَلٰىكُمْ اٰيٰتِيْٓ ۗ فَمَنْ اٰتٰقَ وَا

۷ یعنی پاکیزہ دل تہ ہریم ہتھہ تہ پاکیزہ شک لا کتھہ ابرو مشہدن منز اڑان۔

أَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُونُ ﴿۳۹﴾

تو بہ برونیٹھ کتہ میاں فی آیہ پڑھتہ بوزر ناوان تہ بیم لوکھ تقویٰ پراون تہ اصلاح کرن ، تمن آسہ تہ (آئینہ با پتھ) کتہ قبیمک خوف تہ نہ آسن تم (پتہ مہ کتہ کتھ پیٹھ) عملین ۔

وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۴۰﴾

بیہ تم لوکھ بیم سائین آین انکار کران چھ تہ بیم چھ تکبر کرتھ ، تمونہ روتے گردانی کران ، تم چھ جہنمی ۔ تم روزن تھہ (جہنمس) منفر ایس ز پتھس مدرس تام پیٹھ ۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَدْعُوهُمْ أَن قَالُوا آيِنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۴۱﴾

لہذا (وڈی توڑ) تہند کھوتہ ظالم کس ہیکہ آسٹھ یس اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ اپز (توتھ) افترا کران آسہ ؟ یا تیکو اللہ (تعالیٰ) ہندو آیہ اپز اودہ ہوتو آسن ؟ تمن لوکن روز مقرر کرکڑ مہ سزاہ منفر پین حصہ واتن ۔ یوت تام زریلہ تمن بش سانی ملایک زو کڈنہ موکھ واتن تہ تم ونکھ زہ تم (شریک) کتہ چھو مین توہی اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی آلو کران آسہ ؟ تمہ وقتہ دن بیم لوکھ جواب زہ ، تم گئے اسہ بش غاب تہ تم دن پتھس پانس پیٹھ پانس شہادت زہ تم آسہ انکار کران وین منفر شابل ۔

قَالَ إِذْ خُلُوا فِي آمِهِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِبِّ وَالْأَنْبِيسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَاكُرُوا فِيهَا جَمِيعًا ۗ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَصَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ۗ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾

ادونہ (تمن اللہ تعالیٰ) گتھو ! گتھتھ ٹر لو جہنم کس نارس منفر تمن امن سوتی بیم توہ برونیٹھ چنو تہ انسانو منفر گڈرے مٹر چھیہ ۔ نیلہ کاتہ بہت (نارس منفر) داہل سپر تہ (پانس برونیٹھ) بلینہ (بیٹے جٹاڑ) کر لعت ۔ یوت تام زریلہ ساری اتھ (نارس) منفر داہل سپر تھ موکھ تہ یو منفر پتھ (داہل سپرن واجو جماعت) وہ پانس برونیٹھ میرا جٹاڑ متعلق ۔ اے سائہ پروردگار ! کیو لوکو کرکڑ آسہ گمراہ لہذا ڈر بین جہنمس منفر کہو یا گمراہ جاد عذاب ۔ (اتھ پیٹھ) فرماؤ (اللہ تعالیٰ) سارے چھ جاد عذاب میلان مگر توہی چھوڑ ناوان ۔

وَقَالَتْ أُولَهُنَّ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۷﴾

تہ (اتھ پیٹھ) ورنہ تو مشر گوٹہ بیک قوم پاس پستہ
بینہ واپس تو اس، تو اسے آسو نہ اسے پیٹھ کاٹھ بڑی
(نہ تو اسے گرتھ و کم عذاب دینے میں) لہذا تہ ہوسینہ
اعمال کو عذاب۔

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاجِعَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿۸﴾

تم لو کہ تمہو سارا آپ اپڑاوی ہوتے چھو تہ کبر کرتھ
چھاکھ تمہو نشتر رو سے گردانی کر ہتھ۔ تہندہ باہتھ
میں نہ آساہکی دروازہ میلہ تراونہ تہ تم سپدن نہ
جنس اندر داخل۔ یوت تام نہ وونٹ اثر
سہتر نہ پاوی کئی لہ۔ تہ آسو چھ مجھ میں تھ
پاسھ جزا دیوان۔

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۹﴾

(تہ) تہندہ باہتھ آسہ و تھرن تہ جھنے تہ تمہن پیٹھ
آسن وڑنی تہ امی (جھنہ) مشر۔ تہ تھ پیٹھ پاسھ
چھ آسو ظلمن جزا دیوان۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا وِزْرًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰﴾

بسہ کیو لو کہ ایمان اون تہ کیونیک عملہ کر مشر چھینہ
(تمہن روزن یاد نہ) آسو چھنے کوہ زوس پیٹھ تہندہ
ہیکہ کھوتہ چاد ذہر واری تراون۔ تم لو کہ، چھ جنسی
(یعنے جنس گرتھن واری) تھہ مشر گرتھن تم ہمیشہ
روزان۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَيْلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ أَنَا نَهْرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ ۗ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا بِآلِحَاقٍ ۚ وَتُؤَدُّوْنَ أَلَانَ الْجَنَّةِ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

تہ آسو تمہو جنسیو ہندو سیدو مشر الہ اگر ہند
حقہ سورے حد تہ کدورت کدوتھ تہ نہر آسن تہندہ
قبض تہ اختیار تہل لہ پکان تہ تم ون سارہ
تقرض ہند حقدار چھ اللہ (تعالے) ہے۔ سیکو
اسہ اپنچ (یعنے جنسی) و تھہ ماوتہ اگر اللہ (تعالے)
اسہ اپنچ (تھہ ماوتہ) نہ آسو ہیکہ ہو تہ نہ ہے
تہ (اپنچ) و تھہ لبتھ۔ سانس رہہ ہند چھیر
آسو بے شک پوز ہتھ اسہ نش آہتہ۔ تہ تمہن

لہ یعنے تہندہ جنس مشر داخل پہلن بسہ نامکن بوزنہ۔ الا تمہن پیٹھ کر اللہ (تعالے) رحم۔
لہ سیرہ آسہ تہل چھ ثابت سپدن نہ قرآن کریم مشر میں آسین مشر جنس متعلق تجری میں تھہہ الا تھہ
یوان چھ تہ تہ پی مطلب نہ تم نہر آسن جنسین ہندس اختیار تہل۔

پیسہ تمہارے ہاتھ پہنچے تو تم نے یہ پچھلے سے جنت نیکی تو ہے
 وگرت پھو بناو نہ آؤ جو اعمال کو کچھ تو ہے
 بجا انان اُسو۔

تہ جنتی لوگ دن جہنمیں آلو تہ و تنکھ اسہ سترس
 و عدس اُنی پروردگارن کورمت اوس سترے لوب
 اسہ پوز۔ کیا تو ہے تہ پچھو اسہ و عدس تہندک
 پروردگارن تو ہے سترے کورمت اوس پوز
 لوبت۔ اتمہ پیٹھ و ن (جہنمی) اوہ (اوہ)
 اتی دیہ اکھ اعلان کرن وولا تمں درمیان زور کربکھ
 (تہ و ن) زہین ظالمن پیٹھ اوس خدایہ ہنزلقت۔
 یم (لوگن) اللہ (تعالیٰ) ستر و تہ نشہ پچھ رمان
 اُس تہ اتھ و تہ اندر اُسو سترے ہنزلقت تہ سترے
 اُس تہ تم پتہ پتہ و اجبہ (زندگی) نشہ سکر۔

تہ بین دہ لونی (یعنی جنتیں تہ جہنمیں) منز اسہ
 اکھ ٹھور تہ اعراض پیٹھ اس کینہہ لوگھ یم سارے
 تہندو پچھن ہندو نشاوتلہ اس پر پرناوان
 تہ تم کرن جنتیں (و پچھتہ) آلو تہ و تنکھ تو ہے
 پیٹھ اوس سلامتی۔ تم (یعنی مخاطب جنتی) اس تہ
 و تہ جنتس منز و اہل سپرک ہو۔ مگر جنتس منز
 مرز صنگ (تو تہ اس ضرور تھاوان۔
 تہ پیلہ تمں (جنتیں) ہنر نظر جہنمیں کن پھرناوہ
 ین تہ تم و ن اسے سارے پروردگار! اسہ متہ بناو
 تہ ظالم قومہ منتر۔
 تہ اعراض و اہل لوگھ و ن کینہہ (جہنمی) لوگن بین
 تم تہندو پچھن ہندو نشاوتلہ پر پرناوان اُس
 زہ و اتنوو و تو ہے تہندو تعدادن کانہہ فایدہ تہ نہ
 تہندو (تو دعویٰ ہو) جہنمیں ڈاکھس پیٹھ تو ہے
 سکر کران اُسو۔

وَ تَادَىٰ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ
 أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا
 فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا
 قَالُوا نَعَمْ فَإِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
 لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۷﴾

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
 يَبْغُونَ نَهَا عَوْجًا وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ
 كَفِرُونَ ﴿۸﴾

وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَ عَلَى الْأَعْرَافِ
 رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَ تَادَىٰ
 أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَن سَلَّمَ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ
 يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَحُونَ ﴿۹﴾

وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ
 النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَثَلَهُمْ
 الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾

وَ تَادَىٰ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ رِجَالًا
 يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ
 عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ
 تَشْتَكِبُونَ ﴿۱۱﴾

أَهْوَأَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ
اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ
عَلَيْكُمْ وَلَا أُنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿۵﴾

(پتہ و ن جنتین کن اشارہ دیکھ جہنمیں کیا ہم چھا
تے لوگہ یمن متعلق توہی قسم کرکے و نان اسی
و نہ اللہ تعالیٰ) کر نہ زہیے یمن سیدو جنتک
معاہدہ؟ (پتہ فراو اللہ تعالیٰ یمن جنتی لوکن
یم جنتس اثر نہ باپتہ پیار و ن اساد آسن نہ اگرو
توہی اترو جنتس منتر! تے تہ آسرو توہی
(آیندس متعلق) کاہنہ خوف تہ نہ کردو توہی گذرے
متہ نہ تک کاہنہ واقعہ دل ملول۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
أَنْ أَقْبِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ، قَالُوا لَآ إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا
عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿۱۱﴾

تہ جہنمی لوگہ و ن جنتین کن مخاطب سپدہ نہ اسہ
کن تہ سوزی تو تریشہ و اما۔ بیہ یہ کیشہا توہی
اللہ تعالیٰ) ہن دیتت چھو تہ منتر دیتو اسہ تہ
کیشرہا اتھ پیٹہ و ن جنتی اللہ تعالیٰ) ہن بھہ
یم دو نو سے چیز کافرن پیٹہ حرام کرکے ہتہ۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَ لَعِبًا وَ
غَرَّبُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا، قَالِيَوْمَ
نُنسَبُهُمْ كَمَا نُسَبُوا لِقَاءِ يَوْمِهِمْ
هٰذَا، وَ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۱۱﴾

(تہم کافر) یکو بین و ن ان تہ گدن بنوومت
اوس تہ دنیاوی زندگی اسی تم دوکس منتر تراوہ
تھاوہ ہتہ۔ لہذا (اللہ تعالیٰ جھہ یمن و نان)
نہ اسی تہ تراوہ کہ تم از کہ وہ ہتہ پاتھی بھہ
پاتھی۔ توہی نہ وہ کہ سمکنتک (خیل) بلکل
تراوہ تہ صحت اوس۔ بیہ اسہ باعہ نہ تم اسی
سانین آین داد کرکے انکار کران۔

وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَلْنٰهُ عَلٰى
عِلْمِ هٰذِي وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۴﴾

بیہ چھو اسہ یمن اکھ سبھا عظمہ و اجبو کتاب در ہنتر
یوہی اسہ علم کس دوکس پیٹہ و اش کرکے بیان کرکے
چھینے (اتھ سانس منتر نہ) سو چھینے کوہن کوہن ہنتر
خاطر ہایت تہ رحمت۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، يَوْمَ
يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ
مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ شَرْسُلٌ رَّبِّنَا بِالْحَقِّ،
فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَاءٍ فَيَشْفَعُو لَنَا اِذْ
نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، قَدْ
خَسِرْنَا اَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا

کیا ہم لوگہ چھا ان، بیہ کتاب ہنتر (پیٹہ کرکے و ن
منتر کتھن ہنتر) حقیقتہ (ہندس فلہر سپدس)
پہلان؟ بیہ وہ ہنتر حقیقت واضح سپد
ہنتر لوگہ یو (اسہ) ہنتر یہ تراوہ ہنتر اوس، و ن،
سانس رہہ ہنتر پیغیر یہ و نان اسی تہ اسی یوہ
و نان۔ لہذا کیا سانی چھا کیشہ سفرش کرن والی

كَانُوا يَفْتَكِرُونَ ﴿۷﴾

﴿۷﴾

یہ ساری سفارش کرن ؛ یا (یہ چھ ممکن نہ) اسی
 کیو بیہ دنیا میں کن پھیلتے رہنے ؛ تو اسی یہ
 کینترھا (بد) عمل کران اسی تمہ بدل ہو دویمہ
 (نیک) عمل کرے۔ تم لوگھ (بہند پیٹھ کتہ ذکر
 سڈرت چھ) چھ یقینا خسار تل گامو۔ (تو پیڑ
 زو تہ چھ ہمو خسار مشر تراور ہتر) تو یک کتہ
 تم پنہ دلہ بناوتھ دنان اسی، راو (یقینا) تمن (از)۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ الْكَيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۷﴾

تہند پرورگار چھ یقینا اللہ (تعالیٰ) نیو آسمان
 تہ زمین شین و تلن مشر پاڈ کرک ہتر چھ۔ پتہ
 (یہ کرکھ) سڈسہ سفیو طلی سان (حکو متہ کس)
 تخمس پیٹھ قایم۔ سہ چھ راڈ دوہس پیٹھ ولان
 یوسہ تھہ جلدی سان رٹو بیٹھان چھیلہ بیہ
 آفتاب، تہ زون تہ تارکھ چھ تمو تھہ پاٹھ
 پاڈ کرک ہتر تہ تم چھ ساری تہندس حکمس تل
 (کتہ تنخواہ و راوی انسانہ ہتر) کامہ کران۔ بوڑوا
 پاڈ کران تہ چھ تہنرے کام تہ قولون بناون تہ
 (چھ تہنرے کام) اللہ (تعالیٰ) چھ سہا برکرتہ
 دول یس سارہے عالمن ہند رہین وول چھ۔

أذعوا ربكم تضرعاً وخفية ۗ إنه لا يحب المعتدين ﴿۸﴾

تو ہر منگو دعا پستنس پروردگارس زاری سان
 تہ تہ ترھو پر ترھو پایہ پاٹھ تہ۔ بلا شک سہ
 چھنہ حد نمبر تیرن والہن پسند کران۔

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ وَإِذْ عُوهُ حَوْقًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹﴾

بیہ مہ کرو زمینس مشر تھہ اصلاح (سپرنہ) پتہ
 فساد تہ تس (خالیس) منگو کھوڑک کھوڑک تہ طلعہ
 سان۔ اللہ (تعالیٰ) ہنر رحمت چھ یقینا محسن
 نزدیک۔

۱۔ یعنی نظام شمسی چھ یہاں پکان بوڑنہ یون نہ زن چھ آفتاب زونہ تہ زون آفتاب
 رٹنہ خاطر آگھ آگس پتہ تیز رفتاری سان دولان نیو کس نتیجہ مشر دوہ تہ رات
 پاڈ سڈان چھ۔
 ۲۔ سخر امیک معنی گوو کلفنہ عملاً بلا اجرتہ یعنی تنخواہ یا وظیفہ بغار کام کرنی (اقراب)

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بَشِيرًا أَبْغِي
يَدَيَّ رَحْمَتِهِمْ، حَتَّىٰ إِذَا أَكَلْتُمْ سَحَابًا
ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا
بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ تَحْتِ
الْأَشْجَارِ، كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۵۰﴾

میرے چہرے سے عیسٰی ہوا میں پنہنہ رحمتہ بروٹھ نہو شخیر
دینہ خاطر سوزان چھہ توت نام نہ میلہ تم (روڈ سوتی)
مکوب اوڑ ستان چھہ۔ اسی چھہ تھہ ہکھ دتھہ اکیس
مورہ نکس کن پکناوان پتہ چھہ تمہ اندر اسی آب
والان، پتہ چھہ اسی تمہ آب سوتی پرتھہ تھہکو مسیوم
پاؤ کران۔ بیتھہ کتھ چھکھ اسی مورہ کڈان بیتھہ
زن توہی نصیحت کرلو۔

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ
رَبِّهِ، وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا
نَجَسًا، كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَشْكُرُونَ ﴿۵۱﴾

تہ رت ملک (تیمیح زمین رڈ آب تہ) تمیک وڈپلو
چھہ تہندس پروردگار ہند حکمہ سوتی نیوان، تہ سہ
ملک، تیمیح زمین خراب آب تمیک پیداوار چھہ رڈی
نیوان بیتھہ پاٹھو چھہ اسی شکر گزار قومہ باپتھہ پیڑنہ
بتانہ واش کڈتھہ بیان کران۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۵۲﴾

اسی چھہ نوح ضرور رسول بناوتھہ تہندس قومس کن
سوزمت اد (تیمیح سہ تمن بش او تہ) وونکھ
اے میانہ قومہ! (کیوں لوگو) اللہ (تعالیٰ) ہنر
عبادت کرو، اس سوا چھہ تہند کا نہہ معبود۔ یہ
چھس توہہ پیٹھہ بڑ دہک عذاب تازل سڈس
کھوڑان۔

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۵۳﴾
قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَا كِرِّي
رَسُولٌ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۴﴾

تہند قومہ کیوں نہو زیمیدو وون، ہتسہ! اسی
چھتھہ تہ نہہ وانہ گمراہی منز (ہندہ امت) وچھان۔
اتھ پیٹھہ وون قومہ (نوحن) اے میانہ قومہ!
میدہ منز تہ کا نہہ گمراہی (ہنر کتھہ) چھہ لبہ لیوان
بلکہ چھس بہ تمام عالمن ہندس پروردگار سوتہ
طرفہ رسول (بندہ امت)۔

أَتَلْعَلَّكُمْ رَسَلْتُ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾

تہ توہہ چھسو سینس پروردگار ہنر شنیچھہ
واتساوان تہ قومہ کیت چھس رت کا پھان تہ
اللہ (تعالیٰ) ہندہ دہ مہہ علمہ سوتی چھس تہ
کیہنہ زانان یہ نہ توہی زانان چھو۔

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَ كُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ
عَلَىٰ رَجُلٍ مِثْلِكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَ

کیا توہی چھوا اتھ کتھہ پیٹھہ تعجب کران نہ توہہ
بش چھہ تہندس پروردگار ہندہ طرفہ توہی منز

لَتَتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۱﴾

اگس فردس پیٹھ اگھ نصیحت بوڑت کلام نازل
تہندت تہہ زن سہ توہہ ہنشار کرکے و۔ تہہ تہہ توہہ
متقی بنو تہہ تہہ کسو تہہ توہہ پیٹھ رحم کرتہ ؟
(اما پوز) تو کوڑ پتہ (تہہ) تہہ انکار ، اڈا سہ بیت
تس تہہ تہہ سہ سہ باجن اگھ ناو ہنہ ذریعہ نجات
تہہ اسہ پھانداوی تہہ لکھ (اگھ) ، یکو ساہن آہن
انکار کرایو ۔ تہہ اسی اگھ اؤن توہہ ۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
فِي الْفُلِّ وَاعْتَرَفْنَا لَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿۳۲﴾

بہہ سوزلو یقینا اسہ (توہہ) عاڈس کن تہہندت بوہ
ہوڈ (رسول بناوتہ) ۔ تہہ وون ، اے میانہ توہہ اگھ
لوکو ! اللہ (تعالیٰ) سہ عبادت کرو ۔ تس ہوا
تہہندت تہہندت بہہ کاہنہ معبود ، اڈا توہہ چھونا تقویٰ
پراوان ؟

وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمْ هُودًا قَالَ يُقَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ
غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۳﴾

(تہہ وقتہ) وون تہہندت توہہ کو کا فر سردارو (اے ہوڈ)
اسی چھتہ تہہ شک بے وقوفی مشر (ہنہ آنت)
ہان ۔ بہہ چھتہ تہہ اسی یقینا اڈا یار لو اندر زمانہ ۔
تہہ (یعنی ہون) وونکھ ۔ اے میانہ توہہ (کوہ)
لوکو ! میانہ مشر چھتہ بے وقوفی ہنہ کاہنہ تہہ تہہ
(ہنہ یوان) ۔ مگر (بہہ ضرور نہ) بہہ چھس ساہن
عالم ہندس پروردگار ہند طرفہ رسول ۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ
إِنَّا نَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ ۖ وَإِنَّا لَنَنظُرُكَ
مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿۳۴﴾

توہہ چھسوہہ پنہنس پروردگار سہ پیغام واتناوان
تہہ بہہ چھس تہہندت کا پتہ وون (تہہ) امانت دار ۔
کیا توہہ چھو یہ عجیب زمانہ نہ توہہ مشر چھس اگھ
شخص پیٹھ تہہندس پروردگار ہند طرفہ نصیحت کہتہ
نازل سہ مشر ؟ تہہ زن سہ توہہ پیٹھ وادعائہ
ہنہ ہنشار کرکے و ۔ بہہ پادو یاد یلہ تہہ (خلایہ)
توہہ نوحہ ہند توہہ پتہ (تہہندس) جانشین بناوکر
نو تہہ تہہندت جسم ہون سہا دورہ ۔ اڈا کو کرکے اللہ

قَالَ يُقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ ۚ لَكِنِّي
رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿۳۵﴾

أَبْلَعُكُمْ رَسُولِ رَبِّي ۖ وَإِنَّا لَكُم نٰصِحٌ
أٰمِينَ ﴿۳۶﴾

أَوْعَجَّيْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ
رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ، وَإِذْ كُرُوا إِذْ
جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِّن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ۚ
زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً ۚ فَادْكُرُوا
إِلَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۷﴾

(تعالیٰ) ہنترِ نعمتِ یادِ میتھ زن توہم کامیاب
مخصوص۔

تمو و ونس (اسے ہودا) کیا تر چکھا اسہ نش اسے
آمت نہ اسو کرو اللہ (تعالیٰ) کہ تراہتھ شہنر
عبادت؟ تر بین ہنتر عبادت سانی جداجداد کران
اسو، تم تراووکھ - اہ نیمہ چیز ہنتر اسہ کھوٹر
ناوان چکھا اگر تر پزبور چکھا، تمیلہ ان سہ (اسہ
نش!)۔

تمو وونکھ تہندس پروردگار ہنتر طرف چھہ توہہ
پہچہ عذاب تر غضب نازل (متر شہک فامسل)
سپوت۔ کیا توہم چھو اتہن ناوان متعلق میہ ستر
بحث کران ہم توہہ تر تہند لو جدو اجدادو تجویز
کرو متو اسو؟ اللہ (تعالیٰ) ہن کر تر تہند خاطر
کاہہ دلیل نازل۔ لہذا پیارو توہم تر (میانہ باپچہ
عذابس) تر ہر تر روز توہہ ستر (تہند باپچہ)
عذابس پیارون (تر تو چھو کسہ ہنتر وومید چھہ
پور سپلان)۔

آخر دیت اسہ تس تر تہند ستر باہین ہنتر
رحمتہ ستر نجات۔ تر پو لوکو سائین آین انکار
کریو تر ایمان ان والہن تر اسو نہ شابل سپر
ستر اسہ تر لڑ تہند مول (تام)۔

بیہ (سوزاو) اسہ (قوم) شووس کن (تر) تہند بو
صالح رسول بناوتھ (تمو وون (تہن) اسے میانہ
قوم (پو لوکو) اللہ (تعالیٰ) ہنتر عبادت کرو
تس ہوا چھہ بیہ کاہہ تہند معبود۔ توہہ نش چھہ
تہندس پروردگار ہنتر طرف کہ کاہہ دلیل آہتر۔ (تر
سہ چھہ پتر) یہ چھہ اللہ (تعالیٰ) ہنتر وونتر
یوہہ تہند باپچہ نشا نہ کس رنگس منز چھہ۔ او کس
یہ تراوون (میتھ) نہ اللہ (تعالیٰ) ہنتر ہتر اثر
منز کھوان (چھوان) چھہ تر اسہ مہ واتنا و کاہہ

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ
مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا
تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝۱۰

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ
وَ غَضَبٌ ، أَتَجَادِلُونَنِي فِيْ اَسْمَاءِ
سَمَّيْتُمُوها اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ
اللّٰهُ بِها مِنْ سُلْطٰنٍ ، فَاَنْتَظِرُوْا لِیْ
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِ ۝۱۰

فَاَنْجِبْنٰهُ وَاَلَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا
وَ قَطَعْنَا رِيبَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَ مَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝۱۰

۱۰

وَالَّذِيْ تُمُوْدُ اَخَاهُمْ ضَلِحًا ، قَالَ يَقُوْمُ
اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ،
فَدَجَّ اَيْتَكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ، هٰذِهِ
نٰقَةٌ اَللّٰهُ لَكُمْ اٰيَةٌ فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ
فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ
فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۰

وَإِذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ
عَادٍ وَابْتَوَاكُمْ فِي الْأَرْضِ فَتَّخَذُوا مِنْ
مَنْ سُهُولَهَا قُصُورًا وَتَتَّخِطُونَ الْجِبَالَ
بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا الْآيَةَ الَّتِي كُنْتُمْ
تَتَّخِطُونَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

تکلیف (اگر توہم تہ کوڑو تہ) توہم رُڑو کور لوٹھہ تہ۔
بیہ کُرو یاد بیلیہ تمو (خداین) توہم عاد قوم پتہ (تہندہ)
جانشین بناؤد نو۔ تہ زمیں مفر بنوون تہندہ ٹھکانہ
(تہہ پٹھو) نہ توہم اُسی و اسر کین مادان اندر قلعہ
بناولان تہ کوہن مفر اُسی و بہر دتھ گر بناوان۔ او
کئی کُرو اللہ (تعالیٰ) بہتر نعمت یاد تہ زمیں
اندر مہ کُرو زانہہ ما تہہ فساد۔

قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ
قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ أَمَنَ
مِنْهُمْ أَنْ يَطِيعُوا أَنَّ صُلِحًا مُرْسَلٌ
مَنْ رَبِّهِ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ
مُؤْمِنُونَ ۝

تہندہ قوم اندر پھو پڑو سکبر کرناو (تمو) وون (اتھ
پٹھ) جن لوکن یو صالح ہند قوم مفر ایمان انیاو
مگر کمزور اُسی نہ توہم چھوا (پڑو پٹھو) زانان نہ
صالح چھہ پنہن پرور دکاو ہند طرفہ رسول بہتمو
وون اُسی چھہ تہہ تعلیم پٹھہ یوسہ ہتھہ سہ سوزنہ
آمت چھہ، ایمان انان۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي
أُمْنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝

تمو لوکو پھو سکبرس کلام ہتھایہ وون (اتھ پٹھہ نہ)
ہتھہ (تعلیم) پٹھہ توہم ایمان اوتمت چھو اُسی چھہ
تہہ سکبر۔

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ
رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُضْلِحُ آئِنْتَنَا بِمَا تَحَدُّثَا
إِنْ كُنْتِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

پتہ تڑو تمو (بوشس مفر ہتھہ) وون تہہ بکر تار
تہ پنہن پرور دکاو سند صحیح کرکھ نافرمائی تہ
وون تھہ اے صالح! بیلیہ عذابک تہ اسر ستر و عدو
کران چھکھ۔ اگر تہ (پوز) پنہن چھک تیلدان سہ
اتھ پٹھہ رُڑو تم بیلو تہ تم رُڑو پنہن کران مفر
کوٹھو وارر پٹھہ۔

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي
دَارِهِمْ جِثْمِينَ ۝

پتہ دراو صالح تم تراوتھہ بیلیس طرفس کن تہ
وون (جن) اے میانہ قوم (کو لوکو) امیہ واناو
و توہم پنہن پرور دکاو سند پیغام تہ تہندرت کاچھہ
چہ کتھہ ونے مو توہم۔ مگر توہم لوکھ چھو نہ رت
کاچھہ زمین پسند کران۔

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَنَصَحْتُ
لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ۝

بیہ لوط تہ (سوزاو اسر تہندس تومس کن رسول
بناوتھ) بیلیہ تمو گرتھہ پنہن تومس وون، کیا
توہم چھوا تڑھ بے حیائی کران یوسہ توہم بروٹھہ

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّا أَنْتُمْ
الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقْتُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

ساروہے قوم اندر کاشی کڑھڑاس نہ۔؟
 توہی چھو زمانہ تراوتھ مردن نش شہوتہ کبر اراد
 یوان؟ بلکہ (اہل کتھ چھینہ یہ نہ) توہی چھوسہ
 نمبر نین دول قوم۔

اتھ پیٹھ وون تہندک توہن پی (اسے لکوکو!) لوط
 تہ تہندک سیتی باجو کڑلکھ پنیہ شہر مشہر۔ ہم چھ
 تھو لکھ ہم پیہنی پانپڑگی تھیکنا وان چھ۔

اد اسہ دیت تس تہ تہندک سیتی باجن تہ (گر)
 باژن، تہنہ آشنہ وراہی نجات۔ سمہ (تہنہ آشنہ)
 عیہ پتھ گڑھن والہن مفر۔

تہ اسہ دول بہن پیٹھ (مبزلہ سیتی کنین ہند) اکھ
 رلود۔ لہذا وچھتہ (تہ) نہ مجرین ہندا انجام کیتھ پند؛

بیہ (سوز) اسہ مدین لہ کن تہند اکھ بوے شعیب
 تہ (رسول بناوتھ)۔ تمہ وون (رہن) اسے میارہ
 قومہ (کیو لکوکو) اللہ (تعالیٰ) سنہ عبادت
 کڑو۔ تس وراہی چھنہ تہند بیہ کاشہ معبود تہندک
 پرور دکاہر سندر طرفہ چھ اکھ ٹاکاہر نشاہ امت (یعنی
 پانہ شعیب علیہ السلام) اوکزی پڑو توہ نہ میںہ
 تول آسودہ نوے پڑو دوان تہ لوکن مہ آسوتہندک
 چہنہ تہند حقہ کھوتہ کم دوان تہ زسپس اندر مہ
 کڑو تھہ اصلاح گڑھنہ پیہ فساد۔ اگر توہی لٹون
 چھو تہ یہ چھ تہند خاطر سہماہے رت۔

بیہ مہ آسو پرچھ وتر پیٹھ (اسہ نیپتہ) بہان نہ
 یس اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ بہان انہ، سہ کھوڑا دیون
 اللہ (تعالیٰ) سنہ وتر نش تہ لٹون چھ تہ
 رلود تھہ (خداہ سنہ وتر) مفر، سہر پادو کر پج

اِنَّكُمْ لَتَاْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ
 النِّسَاءِ ۗ بَلْ اَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿۷﴾

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا
 اٰخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ لَآئِهِمْ
 اِنَّا سٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿۷﴾

فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ ۗ لَمَّا كَانَتْ
 مِنَ الْغٰیِبِيْنَ ﴿۷﴾

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۗ فَاَنْظُرْ كَيْفَ
 كَانَ عٰقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۷﴾

وَالِى مَدِيْنٍ اٰخَاهُمْ شَعِيْبًا ۗ قَالَ يَقُوْمُ
 اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ
 قَدْ جَاءَ تِكْمٌ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
 اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسُدُوْا فِى الْاَرْضِ
 بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ
 كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۷﴾

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُوْنَ
 تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنۢ اٰمَنَ بِهٖ
 وَتَبْخَعُوْنَهَا عِوَجًا ۗ وَاِذْ كُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ
 قَلِيْلًا ۗ فَكَتَبْنَاكُمْ ۗ وَاَنْظُرْ وَاَكَيْفَ

لہ مدین شہر اوس فلسطین کس جنوایس کن تہ مجاز کس شماس کن یتھ مفر حضرت ابراہیم
 ہندس آکس نیچس مدین ہندک اولاد روزان آس۔

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝

وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ أَمَنُوا
بِالَّذِي أُزِيلَتْ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ
يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ
بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

کوشش کران۔ بیہ پروا یاد دینے تو ہوس کے مسکو
تہ خدایں ہر راہ و تلوہی تہ ہمیشہ تھاوو نظر
قل نہ فساد کرن والین ہند انجام کیا چھ پیدان۔
بیہ ہر گاہ تو بہ مشرکانہ جہاثر تھ پیٹھ اپمان
اؤنمت چھ یہ ہتھ بہ سوزنہ آمت چھس تہ کانہ
جماعت چھ سو نیمر اپمان اؤنمت چھنہ اڈ صیر
ہیو کام یوت تام ز اللہ (تعالے) اسے (مؤمن
تہ کانہ) مشر فاصلہ کر۔ تہ سے چھ سارو
کھوتہ رت فاصلہ کرن وول ۷

تہند قوم اندر ہم متکبر اسی سپر ہوتہ۔ تو مشر وون
بڑو لوگو۔ اسے شعیب! اسی خصوتہ تہ تہ بیہ تم تہ
یو خریہ پیٹھ اپمان اؤنمت چھ پنہنہ ملک مشر کھوتہ
نہ کچھ تہ چھ تھ بیہ سانس مذہب مشر، تھ پیٹھ
وونکھ تہ ہر گاہ اسی کھتہ ناپند تہ کرو اڈ کیا
تہ پتہ تہ کڑی وا؟

(حقیقت چھ یہ نہ) اگر اسی تہ پتہ ز اللہ (تعالے)
ہن چھ اس تہ نشہ نجات دیت۔ تہندس مذہب
کن بیہ پھیر تہ پتہ (تمیک) معنی آس نہ یہ
نہ توہی چھ پڑ یاد بلکہ آس نہ یہ نہ) در حقیقت
اوس اس اللہ (تعالے) ہس اپز لاگتہ تھومت تہ
وون اپمان انہ پتہ) اللہ (تعالے) بند منشاء
واری تھ اگہ دیکس مذہب) کن سون پھیر تھ
ین چھ سارہ اختیار نیمبر۔ سون پروردگار چھ پتہ
چیک پوہ علم تھاوان۔ اسی چھ اللہ (تعالے) ہس
پیٹھ تول کران (تہ ونان چھ) اسے سارہ پروردگار
اس تہ سانس قومس درمیان کر تہ پزس پیٹھ فاصلہ
تہ تہ چھکھ سارو پے فاصلہ کرن والہو کھوتہ سہٹھا
رت (فاصلہ کرن وول)۔

بیہ ہم تہندس قومس مشر کانہ اسی تہندو زہو وون۔
اگر توہی شعیب، سوز پادری کرو تیلہ سپو تو فلان

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن
قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ لَشُعَيْبٍ وَ
الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ
لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا
كَآرِهِينَ ۝

قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا
فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّمْنَا اللَّهُ مِنْهَا
وَ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَّعُوذَ فِيهَا اِلَّا اَنْ
يَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَ سَمِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ
عِلْمًا عَلَی اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا اَفَتَجْ
بِئْمَانًا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ
خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ
لَئِن اَتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَا

لَخَسِرُونَ ﴿۱۰﴾

فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ فَأَضْبَعُوا فِي
دَائِرِهِمْ جُثَمَيْنِ ﴿۱۱﴾

۱۱

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَعْتُوا
فِيهَا ۗ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا
هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۲﴾

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولِي وَنَصَحْتُ
لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۱۳﴾

۱۳

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا
أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿۱۴﴾

ثُمَّ بَدَلْنَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ الْبَرَكَاتِ
حَتَّىٰ عَقَبُوا ۗ وَكَانُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا
الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ۗ
هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾

ذَلُوا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۶﴾

أَفَأَمِّنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ
بِاسْتَبْرَاءٍ نَّأْتَاهُم بِمُؤْتٍ ﴿۱۷﴾

تخن واپو اندر۔

اتی رُڑُ تم اگر بسلی تہ تم رُڑدی پسنین گرن اندھ
کو ٹھہرو و اگر پپتہ۔

تم یو شعیب اپڑایو (گئیہ تھو تباہ ز) زن تہ
تم پسنن ملکس اندر زانہہ بسو مہ تی اُسی نہ۔ تم
یو شعیب اپڑایو تم سیدر گلاڑ لین واپو مفر۔

اتھ پپتہ پھر تم (شعیب) تم کُن تھر تہ دراو
یہ زنان اے میان قومہ (کھو لوکو) ! مینہ واتنا کو
توہ پسنن پروردگار سندر پیغام تہ توہ کرسے مو
نصیحت۔ مونی تو ووڈی ہر کتہہ پاتھو کر مشر
قومس پپتہ انوس۔

بیہ سوز تہ اسہ گئیہ بسنی کن کانبہ رسول (مگر بیٹھ
کنو سندر) اسہ رُڑ تھہ مشر بسن و آل سختی تہ
معیتس مشر بیٹھ زن تم عا جزی تہ زاری کرن۔

پتہ بلوو اسہ معیت آراس بسنی یوت تام زریلہ
تمو ترقی کر تہ ہونکھ وین تہ دوکھ تہ سوکھ اوس
سانن جدن اجلان تہ (پیش) یوان روزان۔ (یود
وے اسہ تہ پیش بیہ تہ کانبہ لوکتھا چھتہ) اس
اسہ رُڑ تم ہنگہ منگہ (عذابس منز) تہ تمن
اوس تہ فکر تران (زریٹھہ کیا ز سید)۔

بیہ اگر تمن بسنن ہندک روزن و آل ایمان اپن ہن
تہ تقویٰ پراو ہن تہ اسی تراو ہو تہ ہند خاطر آسمانو
کنو تہ زمینہ کنو برکتن ہندک درواز و قھو۔ اما
پوز تمو اپڑاؤ (نہی) ، اڈ اسہ کڑی تم رہتہ بلو
اعمالو کنو عذابس مشر گرفتار۔

کیا مین بسنن ہندک روزن و آل (یعنی مگر تہ
اتھ اندر میکھ روزن و آل لوکھ) چھا اسہ کتھ
رنگر امنس مشر آہتی ز سون عذاب بیہ تمن رات
کیٹت ییلہ تم شو ٹگتھ بندر آسن؟

أَوَامِنَ أَهْلِ الْقُرَىٰ إِنَّ بَأْسَ رَبِّهِمْ بَأْسُنَا
ضَعْفَىٰ وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿۱۱﴾

یا بین نبیتین منتر روزن واکل لوکھ چھا امہ کتھہ نشہ
انس منتر آہتر؟ تر سون عذاب پیہ تم کاجس
پیٹھ سیبلہ تم گن دان آسن۔

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۲﴾

کیا تم چھا اللہ (تعالیٰ) بندہ تدبیر نشہ محفوظ
گاہتر؟ (اگر ترشہ کتھہ چھینے) تر یاد تمھاون فرخا
لد قومہ ورا لی چھینے کاہنہ قوم اللہ (تعالیٰ) بندہ تدبیر
نشہ قابل آسان۔

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتُدُّونَ أَلَدًا مِنْ
بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۳﴾

کیا تم لوکن یکم تمہ کو اصل روزن والیو پتر زہنکو
واریت پیہ یہ، ورتناہ امہ کتھہ عقل؟ تر اگر اسی پترھو
تہندو گو نہ ہو موکو ہیکو تم پیٹھ تر عذاب تبارل
کرتھہ تر تمہندین دن تر ہیکو موہرتھہ غیر سستی
تم حدایتہر جیر کتھہ بوزتھہ ہیکن تر۔

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ
أَنْبَاءِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا
كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ
عَلَىٰ قُلُوبِ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۴﴾

یکم چھینے ترشہ نبیتہر مینہر خبر اسی ترشہ یوزناون چھی
تر تمہن نش اسی جہندکر رسول بشارتہ ہتھہ آہتر مگر
تمہ اون تر (تھہ پیٹھ تر) ایمان تکیا تر تمہ اوس
اولے انکار کورمت۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ پیٹھہ پانکو
کافرن ہندین دن پیٹھہ موہر کران۔

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۚ وَإِن
وَجَدْنَا لَأَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِينَ ﴿۱۵﴾

بیہ لہونہ اسہ تمہنر واریہ پسنہ ہیکو پابند ہیکو لہونہ
تمہنر واریہ عہد پھراون واکل۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَآلَائِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۚ
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۶﴾

پتر موزاہر تہو (ٹیو) پتر موسیٰ پیٹھہ نشا تر تھہ فرعونس تر تہندین
سردارن نش۔ تہو کورتن (نشان) اہتر فلک۔ ورا۔ اوکو وچہ ترشا
کرن والین ہند انجام کیا سپد؟

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرَعُونَ رَبِّي رَسُولٌ مِنْ
رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿۱۷﴾

بیہ وون موسیٰ ہن اے فرعون! بیہ چھیس سارہ
عالمن ہندس پرور دکاہر ہند طرفہ رسول۔

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَىٰ اللّٰهِ إِلَّا
الْحَقُّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ مِنْ رَبِّكُمْ
فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرٰءِيلَ ﴿۱۸﴾

بیہ چھیس امہ کتھہ ہند حقدار تر اللہ (تعالیٰ) ہنس
متعلق ویر تر پتر کتھہ ورا لی کہنی۔ بیہ چھیس تہہر
نش تمہندس پرور دکاہر ہند طرفہ اکھ نون نشانہ
ہتھہ آرت لہنا بن اسرائیل سوزکھ میہ سوتہ۔

تمو (فرعون) وولس اگر تہ کا منہ نشا نہ بیٹھ آمت
چھک تہ تہ چھک بلا شک پڑیور تیل کر سہ تون!
اتھ پیٹھ تروو تمو (موسیٰ ہن) پین عاصہ (زمیں
پیٹھ) تہ سہ ہیون وھان وھان اکہ تاکہ سرف
بوزنہ یں -

پتہ کوڈ تمو پین اتھ نمبر تہ سہ اوس وھین والہن
بکیت سہ سفید -

اتھ پیٹھ وون فرعونہ ہند قومہ کیو سردارو - یہ پیٹھ
گتام بڑ علمہ وول جوڈوگر -

یس قومہ تہندہ علمہ مشز کڈن بیترھان چھو لہذا
قومہ کیا مشورہ چھو (تہندہ حقہ) ووان ؟

(اتھ پیٹھ) وونکھ (سردارو) موسیٰ ہن تہ تہندہ
بایس دیو اکینٹھا) موہبت تہ تمام شہرن مشز
سوزن لاکھ پارہ والہ -

(بیٹہ زن) تم پر پتھ کانہہ واقف کار بودوگرس تریہ
نش اٹن -

تہ (یہ اوس امر کوششہ ہند نتیجہ نہ) تمام جوڈوگر
گئے فرعونس نش جمع تہ تمو وون (تس) ہر گلہ امہ
زبون تہ کیا امہ میلا کینہہ انعام (تہ) ؟

اتھ پیٹھ وونکھ تمو (فرعون) کیا نہ ؟ بسہ
سپرو توہر تہر علاو میانی نکھ بہن واجو جماعت (تہ) -
تمو وولس ، اے موسیٰ ! تہ تراو کھا گوڈ ، کہہ اُسکر
(گوڈ) تراونک تہرات ؟

موسیٰ ہن وونکھ ، توہر تراوو (گوڈ) - اڈ سینہ
تمو (پس نہ لور تہ زب) تراو تہ لوکن ہشٹن
اچھن پیٹھ کورکھ فریب تہ تم کھوڑ تارکھ تہ اکھ
بوڈ فریب کور تمو (لوکن برونکھ کینہ) پیش -

اڈ کر امہ موسیٰ ہن ووجی ز تہ تراو پین عاصہ

قَالَ اِنَّ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَاْتِ بِهَا
اِنَّ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۷﴾

فَاَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۸﴾

وَ تَزَعَّ يَدَہٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاۗءُ
لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿۹﴾

قَالَ الْمَلٰٓئِئِمْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا
لَسِحْرٌ عَلَیْمٌ ﴿۱۰﴾

یُرِیْدُ اَنْ یُّخْرِجَکُمْ مِّنْ اَرْضِکُمْ
فَمَاۤ اَتٰنَا مَرْوٰنٌ ﴿۱۱﴾

قَالُوْۤا اَرْجِعْ وَاٰخَاۗءَ وَاَزْوَاجِکَ
فِی الْمَدَآئِنِ خٰشِعِیْنَ ﴿۱۲﴾

یٰۤاَتُوْکَ بِکُلِّ سِحْرِ عَلَیْمٍ ﴿۱۳﴾

وَ جَآءَ السّٰحِرُوْۤا فِرْعَوْنَ قَالُوْۤا اِنَّ لَنَا
لَا جَرَ اِیْنَ کُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِیْنَ ﴿۱۴﴾

قَالَ لَعَمْرَۗءِ اِنَّکُمْ لَمِنَ الْمَقْرَبِیْنَ ﴿۱۵﴾

قَالُوْۤا یٰمُوسٰی اِنَّمَاۤ اَنْتَ ثَلٰثِیْ وَاِنَّمَاۤ اَنْتَ
تَکُوْنُ نَحْنُ الْمُلٰتِقِیْنَ ﴿۱۶﴾

قَالَ اَلْقُوْۤا فَلََمَّا اَلْقَوْۤا سَحَرُوْۤا اَعْیْنَ
النّٰسِ وَاَسْتَرْهَبُوْهُمۡ وَاِذَا هُمْ
یَسْحَرُوْنَ عَظِیْمٍ ﴿۱۷﴾

وَ اَوْحٰیۤاِلٰی مُوسٰی اَنْ اَلْقِ عَصَاکَ

(بیلہ تمو تر کوز) تہ (دوچھان دوچھان توک بیکھن
بولن نہ) سہ چھہ بودگرن ہند فریب نیکھن کھن۔
اتی سہد حق نون تہ یہ ہم بودگر کران اسی تہ گوز
تا بود۔

اڈ آپہ ہم (بودگر) زیر تہ بیہ گے ڈسپل۔

تہ پیسے ہم (بودگر) فرماہواری کران شجوس منز۔
تہ ہیونکھہ ون اسی چھہ سارنہ عالمن ہندس پروردگار
پیچہ ایمان انان۔

(یس) موسیٰ تہ یاروہہ مند پروردگار (چھہ)

فرعون وونکھہ کیا توہہ اوٹوا اوس پیچہ اپمان تمہ
برونچے نہ بہ دہ ہو توہہ اجازت؟ (بولن ہم
نگان) یہ چھہ اکھ سازش یوسہ توہہ ساروہے
رہتہ شہرس منز بناو مہتر چھو بیٹہ بیہ شہر
مغز نیکلو ساری روزن واک کڈایکھ۔ اچھا، جلدہ
سیدو توہہ (ایک انجام) معلوم۔

ہم تر لو توہہ توہہ تہ کھور (پتہ) خلاف درزی
(کر نہ) موکھ۔ پتہ کھلو توہہ ساری کبا کوٹس۔

تو وونس (پتہ کیا گوز) اسی تہ چھہ پنس رہس
کے مرٹھن ہالی۔

تہ چھکھہ اسہ پیچہ صرف او موکھہ وولیوت نہ اسہ
چھہ پنس پروردگار سندن نشان پیچہ اپمان
اؤنمت، بیلہ ہم اسہ ہنش آپہ (تہ اسی چھہ دعا
کران نہ) اسے ساتھ پروردگار اسہ پیچہ کر چھہ
نابل تہ اسہ د مسلمان آسہ کس حالتس منزوات۔

بیہ وون فرعون ہند توہہ منز (کیتہ ترو) نہ چھو (س)
نہ کیا تریہ چھتھا موسیٰ تہ سند قوم (سپل) ترو
نہ سائس مکس منز کران فساد تہ تریہ تہ چانہ
مبودن ترھن تراوتھہ؟ تمو (فرعون) وونکھہ،
اسی کروکھ ضرور تہندہ گبر تہل تہ تہنہ زنہ

فَاذَاهِي تَلْقَفْ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٥٨﴾

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

فَغَلَبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿٦٠﴾

وَأَلْفَيْ السَّحْرَةِ سَاجِدِينَ ﴿٦١﴾

قَالُوا إِنَّا مَتَابِرَتِ الْعَلَمِينَ ﴿٦٢﴾

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٦٣﴾

قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ
لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مِّمَّا تُكْمِلُونَ فِي
الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

لَا قَطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَجْلَكُمْ مِنَ
خِلَافِ نَمِّ لَا صَلْبَتِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

قَالُوا إِنَّا لِرَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿٦٦﴾

وَمَا تَنْقُمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا
لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفِرِّغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَوْفَقْنَا مُسْلِمِينَ ﴿٦٧﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذُ
مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وَيَذَرَكُ وَالْهَتَكَ ، قَالَ سَنُقْتِلُ
أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ، وَإِنَّا
فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿٦٨﴾

تھو وہ کہ نرنہ تہ اُسی چھہ ہتمن پیٹھہ قلاب ۔
 مونس ہن وون پنہن قومس (اتمہ پیٹھہ) ۔ اللہ (تعالیٰ)
 ہس رُوڑو مدد منگان تہ ہس ہنیو کام ۔ ملک تہ
 چھہ اللہ (تعالیٰ) سُنہ ، پنہنیو بندو منتر ہس ہس ہرہان
 چھہ تمیک وارث چھس بناوان ۔ (رت) انجام چھہ
 متقین ہنہر ہایتہ آسان ۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ
 اضِرُّوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ
 يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۝ وَالْعَاقِبَةُ
 لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۷﴾

تمو (یعنی مونس ہنہر قومہ کو لوگو) وون (تس) چہانہ
 ہنہر بروٹھہ تہ اوس اسہ تکلیف دہنہ یوان تہ ہنہر پیٹھہ
 تہ اسہ نش آرت چھک ہنہر پیٹھہ تہ چھہ اسہ تکلیف
 دہنہ یوان ۔ تمو (موسیٰ ہن) وونکھہ درجواب ، ہنہر
 پرور وگار کہ عنقریب تمہنہر ہس ہس منس تباہ تہ نکس
 منتر بناو کہ توہر ہنہر جانہن تہ ہنہر وچہہ ، زرتوہر
 کرچھہ کامہ چھو کران ۔

قَالُوْا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَ
 مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ
 اَنْ يُهْلِكَ عَذَابُكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ
 فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

اد روت اسہ فرعونہ سُنہ آل اولاد (دراکہ تہ مصیبتہ ہوتو)
 اور یوسیتو تہ مہو پیداوار چہ کی (تہ اولاد ہنہر
 مرہن) سوتی ہیتہ زن ہم نصیحت رتن ۔

وَلَقَدْ اَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْحَنِيْنَ ۚ
 نَقِصٍ مِنَ التَّمْرِ ۚ لَعَلَّهُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿۱۸﴾

اد ہیلہ ہتمن نوم شمالی ہنہر زمانہ ہنہر ہے تہ ہم اُس
 ونان یہ تہ چھہ سون حق تہ یودوے ہتمن مہینک
 زمانہ ہنہر ہے تہ (تھہ) اُس مونس تہ تہنہن سوتو
 باجن ہنہر خوشک نتیجہ زانان ۔ خبردار ! ہتمن ہنہر
 نخت (یعنی خوشبو سبب) چھہ اللہ (تعالیٰ) اس
 ہنہر رزہرتہ ووز گووہتمو منتر چھہنہ واراہ زانان ۔
 ہنہر وونس تمو لوگو ہیلہ تہ کانہہ نشانہ تہ اسہ ہنہر
 انکھہ ہیتہ زن تہ تمہہ کہ دوس اسہ فریب دکھ تہ اُس
 ہنہر ہرگز تریہ پیٹھہ ایمان ۔

فَاِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا
 هٰذَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيْرُوْا
 بِمُؤْسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ ۚ اَلَا اِنَّهُمْ طٰغِرُوْنَ
 عِنْدَ اللّٰهِ ۚ لٰكِنَّ اَخْلَافَهُمْ لَا
 يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۹﴾

اد سوز اسہ ہتمن چھہ طوفان تہ ہالو تہ زوہر توہانہ
 تہ رتھہ ۔ ہم اُس بیون بیون نشانہ توہہ کوزہتمو

وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِيْنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ
 لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۚ فَمَا نَحْنُ لَكَ
 بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۹﴾

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ
 وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالذَّمَ اٰيٰتِ

۱۔ جہاد چہ ہلوس ہوسے کہ وہمپون کہیم آسان میں فصل تہ کوی تباہ کر تھہ ہنہر چھہ ۔ ہم چھہ تعداد کوی چھہ ہنہر
 سبتہ نعلس پیٹھہ جہاد در سپلان ۔ ہتمن چھہ اردو ہنہر منتر ہنہر تہ انگر ہنہر پالمی locust ڈان ۔

مُفْصَلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
قَوْمًا مَّجْرِمِينَ ﴿۳۷﴾

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا
يَمْؤُوسَىٰ اِذْ لَنَا رَبُّكَ بِمَا ءَهِدَ
عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ
لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ۚ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ
بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۳۸﴾

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ
هُم بِالْعُوقَةِ إِذْ هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿۳۹﴾

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي
الْبَحْرِ بِآيَاتِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ
كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۴۰﴾

وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا
يُسْتَضَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا
الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ
رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ بِمَا
صَبَرُوا ۚ وَ دَمَرْنَا مَا كَانِ يَصْنَعُ
فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ ۚ مَا كَانُوا
يَعْرِشُونَ ﴿۴۱﴾

وَ جَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ
فَاتَّوَا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ آصْنَامٍ
لَّهُمْ ۚ قَالُوا يَا مَوْسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا
كََمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ
تَجْمَلُونَ ﴿۴۲﴾

إِنَّ لَهُوَالَاءَ مُتَّبِعَاتًا هُمْ فِيهِ ۚ وَ بَطِلٌ
مَا كَانُوا يَخْمَلُونَ ﴿۴۳﴾

مکبر تہ تم نے یہ مجرم قوم۔

بہے نیلے (زہ تہ) تمہیں پیٹھ عذاب نازل سید تہ
تم اسی کرکے دتھ دنان۔ اے موسیٰ! پتیس
پروردگارس منگ تم ساری وعدہ یاد پاوتھ یکم تمہو
خریہ سوتی کرکے ہوتی چھ۔ اگر خریہ اسہ نیش عذاب دور
کوتھ تیلے انو اسی خریہ پیٹھ ایمان تہ بنی اسرائیل
سوزو کہ خریہ سوتی۔

مگر نیلے اسہ تمہیں نیش عذاب تھہ وقتس تمام دور
کوزیس تہنہند مخاطب مقرر اوس تہ تمہو ہمیشہ سوتی وہو
خوفانی کرے۔

پتہ ہیوت اسہ تمہیں (تہنہنن شیطانن ہند) بدلہ تہ
تم چھا پڑتاو سندر س بیکیا نر تم اسی سانہن آین
اڑاوان تہ تمہیں سوتی اسی لاپرواہی ورتاوان۔

بہے بنو اسرئیل قوم یس گزراوس زمانہ یوان تمہ
ملکوکین مشرقی حصن ہند تہ تہ مغربی حصن
ہند تہ وارث بیتہ اسہ برکت ڈر ہنر اوس تہ چانس
پروردگار سید بنی اسرائیل سوتی کرکے امت برتہ
کھوتہ رت کلام (یعنی برتہ کھوتہ رت وعدہ) گوو
پڑے۔ او کوئی نہ تمہو کور (ظلمتس پیٹھ) سپر تہ فرعون
تہ تمہو قوم یہ کینشہا بناوان اسی تہ یکم تمہر مندور
استاد کران اسی تہ سورے ترہن اسہ تباہ کر تھہ۔

تہ اسہ تبارکی بنی اسرائیل سمندر س اپور۔ یوت تام
نر تم (پکان پکان) اکیس تھقس قومس نیش واتی
یکم پستین پوتیلین برونیو کینہ بندگی مشر آوری
اسی۔ تمہو دون (تمہو ویر) اے موسیٰ اسہ کتہ تہ
بناو تہ کینہ تھمو دیوتا یہ تھو میندی دیوتا چھ (موسیٰ
ہن) دون تکھ توہی چھو پڑی اکھ جاہل قوم۔

بیتہ کارس کن تم لگو ہوتی چھ سہ چھ پڑی پاٹھ تباہ
سپدن وول۔ تہ پر کینشہا تم کران چھ سہ سپر

سورے بیکار۔

(پتہ) وون نکھ کیا بہ ترھا تہنا تہندہ ہاتھ اللہ
(تعالیٰ) ہس ورا مئی کا نہہ معبود! میلہ زن تمو
توہہ سارہنے عالمں پیٹھ نفلت ہر مہر چھو۔

بیہ (کرو یاد) میلہ اسہ توہہ فرعون ہندہ خاندانہ
نشہ نجات دیتو۔ ہم توہہ سجت کر لوٹھ عذاب
واتانوان اسی و۔ تہندہ بن گرن اسی قہل کران تہ
تہنزن زنان اسی زہد تھانوان۔ تہ اتھ اندر اوس
تہندس پروردگار ہندہ طرفہ لوڈ احسان۔

بیہ کور اسہ موسیٰ ہس سبتی تر بن رازن ہندہ وعدہ
پتہ کر ہم (تہ رازن) بیہ داہ رلاوتھ کمل۔ ہتھ
پاٹھو سید تہندس پروردگار ہندہ مقرر کوروت وعدہ
تر تہبہن رازن ہنر شکہ ہنر پور تہ موسیٰ ہن
وون سینس باس ماروس زہ میانس قومس ہنر کر
زہ (میںہ پتہ) میاڈی نمایندی تہ تہندہ اصلاح تھور
زہ نظر تل بیہ مچو زہ ہنر فساد کرن والہن ہنر ورتہ۔

اد میلہ موسیٰ گنرتھ وقتہ مطابق مقرر جایہ پیٹھ
آو تہ تہندر پروردگارن کور تہس سبتی کلام اتی
وون (یعنی موسیٰ ہن) اے میاڈ پروردگار!
میںہ ماو (تہ پنن وجود) بیٹھ زن بہ تہر وچھتھ
تھو دتیس جواب، تہر ہیکھ ہن میںہ ہرگز وچھتھ
وہر گور باس کن وچھ اگر سہ پسنہ جایہ تھاکم رور
تیلہ وچھتھ تہ میںہ۔ اد میلہ تھو ہندہ پروردگارن
پہاٹس پیٹھ پنن جہو ہوو تہ سہ کورن چھلہ چھلہ
تہ موسیٰ پیو و بے ہوش گرتھتھ موسیٰ۔ پتہ میںہ
تس فرق ہس گے تہ تھو وون (اے پروردگار!) تہر
چھکھ پر پتھ عابہ نشہ پاک۔ بہ چھس تہیے کن
نمان تہ بہ چھس (بیٹھ زمانس ہنر) سارہنے اپمان
انن والہن ہنر گور بکس جس پیٹھ۔

(تخلین) وونس (در جواب) اے موسیٰ! میںہ چھے تہر

قَالَ آغَيْدَ اللَّهُ أَبْخِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ
فَضَلَّكُمْ عَلَى الْغُلُوِّينَ ﴿۳۶﴾

وَ إِذْ أَنْجَيْنَاكَ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسْؤُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يُقْتُلُونَ
أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَخِفُّونَ نِسَاءَ كُمْ
وَ فِي ذٰلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۳۷﴾

وَ دَعَوْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
أَتَمَّمْنَا بَعْثَ رَجُلٍ فَتَمَّ وَبَقَاتُ رَبِّهِ
أَذْبَعِينَ لَيْلَةً ۖ وَ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ
هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا
تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۳۸﴾

وَ كَمَا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَ كَلَّمَهُ
رَبُّهُ ۖ قَالَ رَبِّ أَرِنِي ۖ أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۚ
قَالَ لَنْ تَرَانِي ۖ وَلَكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ
فَإِنِ اشْتَدَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ
فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا
وَ خَرَّ مُوسَىٰ صَوِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ
سُبْحٰنَكَ تُبٰهُتُ إِلٰهِيكَ ۚ وَ أَنَا أَوَّلُ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۹﴾

قَالَ يُمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ

(یہیہ زمانہ کہیں) سارے انسان پیٹھ پستہ رسالت
تہ پستہ کلام کہ ذلیعہ تھنر بختمت۔ لہذا یہ
کیشہا تہیہ میدہ دیمت پتھے تہ رتھ چہرہ پاٹھ
تہ شکرانہ کرن والین منز سپد شامل۔

بیہ بیکھو اسہ تہنہر باپتھ کیشن پچن پیٹھ پنو تھو
تھم یکم پرتھ کتہ قسہ چہ نصیحتہ ہتھہ اسی تہمین
منز (تہ زمانہ باپتھ) پرتھ کتہ ضروری چہرک
تفصیل موجوداوس (تہ پتہ وون اسہ تس نہ) یکم تھم
تھم مغبوطی سان بیہ ون پسنس قوس تہ نہ تہم
رٹن اچہ تھنر تراہ مغبوطی سان۔ بہ ماووہ توہہ
جلدے بدکارن ہندگر۔

تہم لوکھ یوکانہ حق آہنہ درائی دنیاہس منز کہہ
کوڑمت چھ کرکھ بہ جلدے (پستہنو) نشانہ
(مخروم کرکھ) دور۔ او اگر تہ پرتھہ (ممکن)
نشانہ تہ مچھن تہم ان نہ تھن آہن پیٹھہ ایمان
بیہ اگر تہم سینز و تھہ مچھن تہ سو و تھہ پراون نہ
نہ شہبہ۔ دہجہ اگر گراہی ہنر و تھہ مچھن سو رٹن
یہ چھہ اہر کتہ نہ تہو اپراور سانی آہہ تہ تھن سوتہ
چھہ عفت ورتاوان۔

بیہ تہم لوکھ یو سانی آہہ تہ مر نہ پتک ملاقات
اپراور موتی چہہ۔ تہنہر ساری اعمال چہہ فصیح
گاہتہ۔ تہم لبین صرف (خلوصہ واجب) عملہ ہند
بدلو۔

بیہ بتو موسی ہندری قومن تہنہر (مغرس پیٹھہ گرتھنہر)
پتہ پستہن گہنن (گرتھہ) اکھ ووتھہ۔ سواون محض
اکھ بے روج جسم۔ یہیہ اندر فقط گاد ہنر مانگ
نیران اس۔ تہم سوچاہہ پتہن تہ نہ نہ تہ
چھہ تھن سینو کا نہہ عقل مندی ہنر کتھا کران تہ نہ

بِسْمِ رَبِّكَ وَسِعْلَامِي ۞ فَخَذُوا مَا آتَيْتُكَ
ذُكْرًا مِنَ الشُّكْرِ ۞

وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْبَاءِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخَذُوا
بِقُوَّةٍ وَ أَمَرَ قَوْمَكَ يَا خُدَّوَا
بِأَحْسَنِهَا سَأُوذِيكُمْ إِذَا لَفِيسَفِينَ ۞

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَإِنْ يَرَوْا
آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ يَرَوْا
الرُّشْدَ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا
عَنْهَا غُفْلِينَ ۞

وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ
الْآخِرَةِ حَمِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ
يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ
حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلِهًا خَوَّارًا ۚ أَلَمْ
يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ
سَبِيلًا ۚ وَ اتَّخَذُوا ظُلَمِينَ ۞

پچھتہ تم ہر سچ کا شہدہ تھے اور ان - تم بنو مومنین بنو
تہ گریہ مشرک بیٹھتے۔

اور یہی تم شرمندہ تھے کہ تم تو زنگیہ تم مسکراہی
منز پیتے۔ کہ تم وہ دن نہ اگر سون پروردگار اسے پیٹھ
پر ہم کر رہے ہیں اسے معاف کر رہے تھے اسے سپرد و نصیب
من واپس منفر۔

یہ یہی موسیٰ پینس تومس کن پلور شکہ تہ انوس
ہتہ واپس او تو وہ دن نہ میں پتہ یوسہ میانی نمازیدگی
تو ہم کر رہے سوسہ سپہا کچھ کیا تو ہم کوڑ واپس
پروردگار ہندس حکم کہ کس معامس منز و نرہ؟ اہ
مبارے و نہ موسیٰ کیا نہ او نہ و نیک سام؟ تمہ
وقتہ تھا و موسیٰ ہن و تہیہ کچھ پتہ، تہ پین بوس
ہونن مسہ رتہ پانس کن لبتہ انن، تو وہ دنن (اتھ
پیٹھ) اسے میانہ ماہر ہند گویہ! تو من زدوس ہر
کمزور تہ تیار اسے نہ تم کر ہن میں قبل - وہ دن ہر
د تہ دشمن میں پیٹھ اسنگ موقعہ تہ میں ہر
گنتر او ظالم لوگو منفر۔

(یہ بوزتھ) وہ دن (یعنی موسیٰ ہن) اسے میانہ
پروردگار! میں تہ میانس باپس بخش تہ اسے
دہنونی کر تہ پینس جمنس منز و نرہ تہ تہ چھک
رحم کرن واپس منفر سار و ہر کھوتہ بوز۔

(اتھ پیٹھ فرمود اللہ تعالیٰ ہن ہر) ہم لوگہ کیو (عبادتہ
خاطر) و نرہ تدر۔ ہن پیٹھ سپد بہندس
پروردگار ہند طرفہ غضب نازل تہ تہ پانچ
دنیاوی ذلت تہ۔ تہ اسی چہ اقترا کرن واپس تہ
ہنوس ترا واپس۔

ہیہ ہم لوگہ کیو ہر کار کر رہے تھے (ہم ترا و تھ)،
خدا میں کن چھہ تہ تہ تس پیٹھ او نکتہ ایمان - چون
پروردگار سپد بے شک امہ (تو ہر) پتہ سپہا بخش
وول (تہ) چھہ کر چھہ کر رحم کرن وول ثابت۔

وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ
قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا
رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۰﴾

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ
أَسْفًا قَالَ إِنِّي مِنِّيمْ خَلَفْتُ مُؤْمِنِينَ مِنْ
بَعْدِي ۖ أَعَجَلْتُكُمْ أَمْرًا بَعْضُكُمْ وَالْقَوْمُ
الْآلُوفَاءُ ۖ وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ
إِلَيْهِ ۖ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ
اسْتَضَعَفُونِي ذَاكِرًا ۖ وَيَقْتُلُونِي ۖ
فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَ آذِخْنَا فِي
رَحْمَتِكَ ۖ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۲﴾

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَّهُمْ
عَذَابٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿۱۳﴾

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا
مِنْ بَعْدِهَا وَ آمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۴﴾

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ
الْأَلْوَابَ ۖ وَفِي نُحُوتِهَا هُدىٰ وَرَحْمَةٌ
لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَذَّهَبُونَ ﴿۵۰﴾

پتہ نیلہ موسیٰ سنز رکھ بنا ہے یہ، ادر حجبہ تو درم
پچھہ بیہ (یعین پیچھہ الہی حکم لیکھتہ اسی) تہ تہند
خاطریم پنس پروردگار ستر خوف تھاوان چھہ اس
یعین (پچھن) ہندس لیکھو مہتس منز رحمت تہ ہدایت
مؤجود -

وَإِخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا
رِّمِيْقًا رِّبَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ
وَإِيَّايَا أَتُهْلِكُنَا بِمَا لَعَلَّ الشَّفْعَاءُ يَمْتَا ۖ
إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تُشَاءُ
وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۗ أَنْتَ وَرَبُّنَا
عَاقِبُونَ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ خَيْرُ
الْغَافِرِينَ ﴿۵۱﴾

تہ موسیٰ من ترادر پنس قومہ منز ستھہ نفر سائس
وعدہ کرنہ آمتس مقاس پیچھہ انتہہ ہاچھہ - پتہ نیلہ
تسن پیچھہ نیلہ او تہ تو وان، اسے میاں پروردگار
اگر تہ پیچھہ کہہ تہ تم تہ تہ منیتہ کر بھہ برونیے
ہلک - کیا تر چھکا احقن ہتر احمقازی ہند
کرتو نیگ سزا دتھ اسہ ہلک کرنہ پیچھہ ان؟ یہ
(یہ کیتھ ساید) سو اس صرف چاڑی اکھ آزمائش
یو (آزمائشو) ہند ذریعہ یم تہ پیچھہ ان چھہ کہ
تم چھہ کہ عزا قرار دان تہ یعین تہ پیچھہ ان حکم
تسن چھہ ہدایت دان - تر چھہ سون کفیل تہ دست
لہذا بخش اسہ بیہ کر اسہ پیچھہ رحم تہ تر چھہ کہ
بخشنہ والو اندر سار وہے کھوتہ بہتر -

وَكَتُبْنَا لَكَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا رِئِيسُكَ ۗ قَالَ
عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ فَسَأَخْتَبُهَا
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾

بیہ لیکھ تر سارہ ہاچھہ تہ تو میس اندر تہ نیکی تہ
آخری زندگی اندر تہ (لیکھ نیکی) اسی تہ چھہ تر یس اوتو
اتھ پیچھہ) فرمود (اللہ تعالیٰ ہن) ہر یس پیچھہ ان
چھس (تس) چھس پنن عذاب واتاوان ایسہ
حقار (تس) - تہ میاں رحمت چھہ پر چھہ چیزس تام واتھ
لہذا یہ لیکھ یہ ضرور تس لوکن ہند خاطر یم تقویٰ پر دان
چھہ تہ زکوٰۃ چھہ دان بیہ یک لوکھ سائس آین پیچھہ
ایمان انان چھہ -

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الْحَقَّ الَّذِي يَجِدُوهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ۖ

تم لوکھ، یم سائس بیسہ پیچھہ سنز پدوی کران چھہ
یس نبی چھہ بیہ اسی چھہ - یسہ ذکر تو اتس تہ انجیل
منز تسنہ بش لیکھتہ مؤجود چھہ - سہ چھہ تسن نیکی

سختن ہند حکم دوان تہ کچھ کتھونشہ ٹھاک کران تہ
ساری پک چیز چھ تہن پیٹھ حلال کران تہ تمام ناپاک
چیز چھ تہن پیٹھ حرام کران تہ تہندہ (گولہ) بارک
(پم تہن پیٹھ لڈتھ اسی تہ طوق لہ پم تہتہن گریزین
نالو اسی، چھ تہن نش دور کران۔ لہذا کیم لوکو تس
پیٹھ ایمان اوان بیہ واتووکہ تس طاقت تہ تس دیکھ
مدد تہ تھہ نورس پتہ دراسہ پکان، ایس تس سرتی تانزل
اوس کرنہ آمت، تے لوکھ سدن کامیاب۔

وَلَكُمْ (نہ) اسے لوکو! بہ چھس توہر سارہنے کن
اللہ (تعالیٰ) سند رسول یتیس آسمان ہنر تہ زینج
پادشاہی حاصل چھیہ۔ تس وراڈی چھنہ کاتہہ معبود۔ سہ
چھ زیندہ تہ کران بیہ چھ ماران تہ۔ لہذا ابو اللہ
(تعالیٰ) ہس تہ توندس رسولس پیٹھ ایمان۔ ایس
نبی تہ چھ تہ امتی تہ چھ۔ تہ ایس اللہ (تعالیٰ)
ہس پیٹھ تہ تہندن کلماتن پیٹھ ایمان انان چھ
تہ توہر کرہ تسنہز تالعداری یٹھ توہر ہدایت لہو۔
بیہ مؤمن ہند قومہ منہر چھ اکھ جماعت ترشہ تہ یکم
حقہ کہ ذریعہ ہدایت لبان چھ تہ امی ذریعہ چھ
(دنیاہس اندر) الفصاف کران۔

بیہ باگراور اسہ تم بہن تبیلین منہر (یکم وہ ذی ترقی
کر تھ قومہنے ہتر چھ) بیہ ییلہ تہندہ قومس تس
آب مونگ تہ اسہ کرہ مؤمن ہس کن فرضی، نہ
(گرشہ تہ) یین عامر ٹھامن (فلڈی) کہہ پلس،
(ییلہ تمز تہ کور) تہ تمہ اندر وزسہ بہ باہ ناگ،
پر چھ قومس زون یین یین یابول تہ اسہ کور تہن
پیٹھ اوکڑ ہٹل، بیہ کور اسہ تہن کیت تہنجہین
تہ (بیہ کرہ) باٹر پاد۔ (بیہ وٹکھ) بہ کینشہا
اسہ دیت مت چھ (تہ اندر) کھینو طیب چیز تہ

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۳۱﴾

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا بِالَّذِي لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي
وَيُمِيتُ مَا قَامُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
النَّبِيِّ الازْهٰبِي الَّذِي يُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَ
كَلِمٰتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۳۱﴾

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ
وَيَهٗ يَغْدُلُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

وَقَطَّعْنَاهُمْ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ آسِيًا طًا
اُمَمًا وَاَوْ حَيْثًا اِلٰى مُوسٰى اِذْ
اسْتَشْفَعَتْ قَوْمُهُ اِنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ
الْحَجْرَةَ فَانَّيَجْسَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ
عِثًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ
وَقَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ
الْمَنِّ وَالسَّلْوٰى كُلُّوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا
رَزَقْنٰكُمْ وَا مَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا
اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

تمو کور نہ اسر پیچھ ظلم بلکہ اسی تم پستین تر و ن
پیچھ ظلم کران۔

بیر (پاوو یاد) نیلر تهن (یعنی بنی اسرائیلین) اوتہ
آو ز بیچھ علائس مشر روزو تہ تیہ مشر بیتین من
پر شو و (تستین) کھیو۔ تہ (اسر سوتی) گرتھو
ونان (نر اسی چھ) بور لوترا واک التجا کران، تہ
تیر (برونٹھ کتہ کر شہر کر) درواز اُترو فرمانبردار
کران۔ ادر کروو اسی توہ تہ تہند کر خط معاف
تہ یور یا مٹھو فرمانبردار کران والہن دیوبیہ تہ العام۔
اتھ پیچھ ہتیر بنی اسرائیلو مشر ظلم کرن والہو
لوکو تھ کتھ یوہہ تهن ونہر آوتھ ادر بدل
کرتھ، اکھ بیکھ کتھ ونہر ادر کور اسر تهن پیچھ تہندو
ظلمو کئی آسمانہ پیچھ عذاب نازل۔

بیر (اے رسول!) پر تھو تو یمن (بنی اسرائیلین)
تھ بستی متعلق یوہہ سمندر کس بجس پیچھ اسی نیلر
زن تم دیہود) سیکس محکم حد نہر نزلن اسی،
نیلر زن تهن ہنر کاہر تہند سبتہ کر دہہ توجو فوجو
وہ تہتھ یوان اسہ، تہ تیہ دہہہ تم سبت کرن اسی
تہ، تم اسہ نہ یوان۔ تیچھ پاٹھو اسی اسی تہندو
نا فرمانو ہند باعہ تهن امتحان کران۔

بیر نیلر تمواندر اکہ جمار (بیلیس جمار کن) وون۔
توہو کیاز چھو تھ قومس نصیحت کران، یمن اللہ
(تعالیٰ) ہاک کرن دول چھ یا کر یوٹھ عذاب دہہ
دول چھ؟ تمو دیکھتھ جواب تہندس پروردگار س
نش معذرت پیش کرنہ باچھ (نر اسہ کر یاہ یمن لوکن
نصیحت) بیر تیچھ زن تم تقویٰ پران۔

ادر نیلر تمو لوکو سم نصیحت مشر او یوہہ تهن کرہہ

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
وَ كُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا
حِطَّةً وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تَغْفِرْ
لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۱﴾

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا
غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَظْلِمُونَ ﴿۳۲﴾

وَ سَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ
حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ
إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيْثُ كَانُوا يَوْمَ سَبْتِهِمْ
شُرْعًا وَ يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ
كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿۳۳﴾

وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ
قَوْمَنَا يَا رَبُّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى
رَبِّكُم وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۳۴﴾

فَلَمَّا تَسُوا مَا دُخِرُوا بِهِ آخَجْنَا

لہ بنی اسرائیلین ہند خاطر اس بوار دہہ کا نہ کام کر فی یا کا ڈرٹنہ منع کرنا مشر۔ تم اسی بوار دہہ
زال تراوان تہ آتھار دہہہ اسی زال نہر کران۔ یعنی خدا تعالیٰ اس تہ شرعیست سوتی اسی جیلہ بازی کران۔

آپتر اُسی تہ اسہ دیت تہن لاکن نجات ریم سچھ
کھتو نیشہ (لوکن) پتھ رٹان اُسی - تہ ریم لوکھ
فالم اُسی تہم کرک اُسی اُکس کر پٹس عدلس منز
گرفار تہ کیازہ تہم اُسی تہ اطاعت کران -

پتہ نیلہ تہو، تہو کھتو نیشہ یو نیشہ تہم پتھ رٹنہ
آہتی اُسی باز یہ بدل تہن مشر بیہ ہن تہ ترقی
کرفی ہپتر، اِد وون اسہ تہن سپرو ڈپل واندر
(بیہ پاو یاد) نیلہ چائی رین اعلان کوزہ سہ
کر تہن (یہودین) پتھ قیامتہ کس دہس تام
تہو لوکھ مقرریم تہن تکلف دہہ وائل عذاب دوان روز
(کیا پتہ سپدا تی کتہ سپد تہ؟) چون رب چھ یقینا
سزا دہن منز جلدی کران تہ سہ چھ بے شک سبھا
بخش ہار (تہ) پتھ کر پتھ کر رحم کرن وول (تہ) -

بیہ چھ اسہ تہم زمپس منز لوکھو لوکھو تسیرا وکر تہ
(دبھ) تہن مشر چھ (وون تہ) کیہنہ نیک تہ کیہنہ
بد تہ اُسی چھکھ تہم (گاہے) تہو حالاتو سستی تہ
(گاہے) ناکار حالاتو سستی پکھا وون روزان - سیتھ زن
تہم (پسنہو ظلیو نیشہ) بازین -

مگر لوکھو تہو بن اسرا پلو پتہ چھ کیہنہ بدل (بنی اسرائیل)
استاد گاہتہ - ریم (بظاہر) موسیٰ سنز کتابہ ہندک
وارث چھ مگر (تکرار) چھ تہم سیمہ فانی دنیہ ہر مال
حاصل کران روزان تہ (لوکن) چھ ونان نر اللہ
(تعالیٰ) بخشہ اسہ ضرور تہ اگر تہن نش کیہنہ بیہ
مال سیتھ ہیو پیسہ اِد تہہ چھ رپیچ کوشش
کران - تہن اوس ناہ (موسیٰ سنز) کتابہ اندر یہ
وعدہ سبتہ امت نر اللہ (تعالیٰ) ہس متعلق آسن
تہم صرف یلز ونان؟ تہ یہ کیہنہا بیتھ کتابہ مشر
چھ تہ چھ تہو پوزنت بیہ (چھ پتہ زانان) نر
مُزیمک گر چھ متقی بن ہند خا طہ رت - کیا
توہہ چھونا (یہ کتھ) فکر تران؟

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَنِ الشُّرَىٰ وَآخِذْنَا
الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَلِيْسٍ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۳۱﴾

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا
لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِيْنَ ﴿۳۲﴾

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ
إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ
الْعِقَابِ ۚ وَإِنَّهُ لَكَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۳﴾

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا ۚ
الضَّالِّحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ رَوَّ
بَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجَعُونَ ﴿۳۴﴾

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا
الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ
وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَإِنْ يَأْتِيهِمْ
عَرَضٌ مِّثْلُهَا يَأْخُذُوا ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ
عَلَيْهِمْ سَبْتًا ۚ قَالَ الْكِتَابُ أَنْ لَا يَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ وَذَرَسُوا مَا فِيهِ ۚ
وَالذَّارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۵﴾

وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۵۵﴾

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۵۶﴾

۲۱
۱۱

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿۵۷﴾

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۵۸﴾

وَكَذَلِكَ نَقُصُّدُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۵۹﴾

وَأَثَلْ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخْنَا مِنهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿۶۰﴾

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ

بِهِ يَوْمَ لُكَّهِ (موسلی ہنز) کتاب چہرہ مصیبت کثرت چہرہ تہ تمو چہ نماز قائم تھو مثر۔ اسی کرو نہ یقین اصلاح کرن والین ہند اجر ضایع۔

بہرینیل اسر پہاڑ حسن پیچہ استاد کوزہ زن تہ سہ اکھ سائبان اوس تہ تمو کوز خیال زمر چہ حسن پیچہ پیش تیار۔ (تہ اسر وزن) یہ کینزھا اسر تو ہر دیت مت چھو سہ رٹو چہرہ پاٹھو تہ یہ کینزھا اتھ اندر چہ تہ مھوو یلا پیچہ زن تو ہر متقی ہو۔

بہرینیل چاڑرین بن آدم ہندو پش تو منتر تہندر اولاد رٹو تہ تم بناون پسنبن زنون پیچہ گواہ (تہ پڑھک) ہر چھس ناتہندر پروردگار؛ تمو وٹس، اڈو، اڈو، اسی چہ (اسر کتہ) ہنز) گواہی دوان۔ (اسر کوز یہ اڈو کھ) نہ (یقین تہ سپہر) تو ہر وٹو قیامت کہ دہد نہ اسی تہ اسی اسر تعلیم ہنہر بلکل ناواقف۔

یاؤنو یہ نہ صرف اوس (سانہ زمانہ بردھ) سانہو جدو اجلا دہے اوت شہر کورمت تہ اسی اسی اتن پتہ اکھ گزور پستے کیا تہ کرکھا اسر تہندو کرکھ تو بدل ہلک، یکم اپز یارک اسی؟

تہ اسی چہرہ پتے پاٹھو آہے واتس کڈتھ بیان کران بہر (چہرہ دوسید تھاوان) نہ تم پھیرن پسنہو غلطیو ہنہر پوت۔

بہر بوز ناو لوکھ یکم تمس شخفہ ہندر حالات پڑتھ یئیس اسر پنہر نشانہ دتہ ہتی اسی۔ بہر گیا د سہ برکن عمرتھ تھو ہنہر شہینہ لہ۔ اڈو کئی روڈ اس شیطان پتے تہ سہ سپد گلہن منتر شامل۔

اگر اسی ہنہر تھو تہ سہ کرہن اسی تھو (نشانہ دکر

۱۔ بنی اسرائیلین ہندر سردار بنی اسر تہ کروی کوہ طوکس دانس تل اسلو۔

۲۔ مفسر چہرہ زمان نہ پتہ ایس منتر شخفہ ہندر مراد چہرہ بلعم با عوز ناک اکھ شخص مگر یہ چہرہ اکھ نیل نیس شخص پیچہ تہ یہ مثال برابر پیچہ سے بنہ بلعم باعور۔

إِلَى الْأَرْضِ وَآتَيْنَهُمْ هَؤُلَاءِ فَمَثَلَهُ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ
أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ
الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۵۵﴾

تھدی پایہ ، مگر سہ بیٹوں کو گتھتھتہ زمینس کن ملہ تہ
پستینن نما ہشن پتہ پتہ یوک ۔ اوکزی چھ تکر پتہ
حالت تمس ہونی ہنر ہش لیس (لایہ خہ طہ)
تہ کا نہر چہر تلکہ توتہ چہرہ مان روزان ، اگر تہ تروہن توتہ
چہرہ مان روزان ، یہ ہے حال چہرہ تومک یک سانی شانیہ
اپزلوان چہ ، اوکزی بوز ناوکہ تہ تم یک حالت تہ زن تم کتہ شہا چہ
تہ توج حالت چھینہ سبھا خراب یکو سانی آیہ اپزلوان
تہ تم اسی (امر کر توتہ عری) صرف پستینن ترون پتہ
ظلم کران ۔

سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَآنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿۵۶﴾

بمن اللہ تعالیٰ) ہدایت دیہ تھے چہ ہدایت لبین وارا
آسلن ۔ تہ بین سہ گمراہ کر تے لوکھ چہ گا پڑ لبین وارا
آسلن ۔

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيٌّ وَوَمَنْ
يُضِلِّ فَلَا وَلِيَّكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۵۷﴾

بہ چہ امر جن تہ انسان (رحمتہ با پتہ) پاؤ کر کر تہ
مگر نتیجہ چہ یہ سپلان) نہ تہ اندر چہ واریہ چہ
سقدار سپلان ۔ دل تہ چہ تمن مگر تہ تہ چہ تمن
بکر تران ۔ بہ اچہ تہ چھینہ تمن اما پوز تہ تہ
چھینہ تم و چھان ، کن تہ چہ تمن مگر تہ تہ چھینہ
تم بوزان ۔ تم لوکھ چہ گپن ہنر پتہ بلکہ تہ
کھوتہ تہ بدتر (اصلی کتہ چھینہ یہ نہ) تم یہ چہ
جابل مطلق ۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ
الْحِيْتِ وَالْاِنۡسِ ۙ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا
يَفْقَهُوْنَ بِهَا نُوْرًا وَّلَهُمْ اَعۡيُنٌ لَّا يُبۡصِرُوْنَ
بِهَا نُوْرًا وَّلَهُمْ اَاۡذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا
ۙ اُوۡلٰٓئِكَ كَانُوۡا لِنَعٰمٍ بٰلِغًا مِّنۡ اَضَلٍّ
ۙ اُوۡلٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿۵۸﴾

بہ اللہ تعالیٰ) ہندر چہ واریہ رتی صفت ۔
اد تہ تہ اسیو تہ ہنر ذریعہ تس دعا مانگان ، تہ تم
لوکھ ترو لوکھ یک تمدن ہفتن ہند حقہ غلط (تہ خیال)
کتہ کران چہ ۔ تمن بہ پستینن اعمال ہند ہنر ہنر
بہ یک مخلوق امر پاؤ کر تہ تہ تہ تہ ہنر ہنر چہ
جماعت تر تہ تہ یک حقہ کہ ذریعہ (لوکن) ہدایت
دوان چہ تہ حقہ کہ ذریعہ چہ (ذی میس ہنر) الفا
کران ۔

وَاللّٰهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا
وَذَرُوْا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ فِىۡ اَسْمَآئِهِۦ
سِجۡدًا مَّا كَانُوۡا يَخۡمَلُوۡنَ ﴿۵۹﴾

وَمِمَّنۡ خَلَقْنَا اُمَّةً يَّهۡدُوۡنَ بِالْحَقِّ
وَيَمۡنُ بِعَدُوۡنِ ﴿۶۰﴾

بیمہ تم لوگھ ہم سائین آین ایزاوان چھہ، اُسے لوگھ
تم وارہ وارہ لیتھہ (ہکست کن) تر شوہ و تو کتیم
بتن دیز چھنہ -

تہ بہ چھس (تامتھ) بتن موہت دوان، میون
تدیر چھہ واریاہ دور -

کیا تم چھنا یہ سوچان نہ تہندس صاحبس (یعنی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمس) چھنہ مشرہ؟ متہ
چھہ صرف اکھ تنہ وانہ ہشیار کرن دول -

کیا تم چھنا آسمان تہ زمینہ چہ پادشاہی پہنہ
سران سوچان؟ بیہ پرستھ تھہ چیزس پہنہ یس اللہ
(تعالیٰ) ہن یاد کوزت چھہ (بیہ اتھ کتھ پہنہ تیزا
ظاہر ما امہ تہنتر تباہی ہند وقت نزدیک آمت!
اد کتھ ہند دس اتن تم امہ تنہ کتھ پتہ ایمان -
تیس اللہ (تعالیٰ) گمراہ قرار دیہ تس چھنہ کاتھہ
ہایت دہ دول - بیہ چھہ سہ بتن تہنترن روہے
گردانین مشر سرگردان تراوان -

(اے رسول!) تریہ چھی (پیم چانز مٹاوت) قیامتس
متعلق پرشعان نہ سو کر پیہ؟ تہ ونکھ نہ تیک علم
چھہ صرف میانس پروردگارس۔ تہہ کر پتس و تلس
پہنہ فقط سے ظاہر (دو ڈگوز) سو اسہ بار گوب
آسمان مشر تہ تہ زمینس مشر تہ تہ تو ہدیش
واتہ صرف دوچھان وچھان - تم چھی تریہ قیامتس
متعلق پتھہ پانچھ سوال کران زن تہ تریہ تہہ
وقتہ کہ معلوم کر بوج کل چھہ - تہ ونکھ (سیاہ
خاطر چھہ یوتے سبھا) نہ تیک علم چھہ صرف
اللہ (تعالیٰ) ہس مگر وراہ لوگھ چھنہ تہ زانان -
تہ ونکھ (بیہ تہ) نہ پتہ تہو خاطر نہ چھس بہ
کتہ نفعک ما یک (تہ) نہ نو قصاکت - دو ڈگوز
(میںہ واتہ تی) یہ اللہ (تعالیٰ) تہنترہ تہ اگر بہ
مقاب زانہ ون اسہ تہ بہ سو تراوانا پرزرو

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾

وَأْمُرِ لَهُمْ بِإِن كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۳۷﴾

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي مَا بَصَّاجِيهِمْ مِّنْ
حِجَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا كَذِبٌ مُّبِينٌ ﴿۳۸﴾

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَ اَنْ
عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ لَدٰى قٰتِرٍ اَجَلُهُمْ ؕ
فِيْ اَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ هٰذَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۹﴾

مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ وَ
يَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۴۰﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ
مُرْسَلَتُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ
لَا يُجِئُ بِهَا لَوْحٌ قَتَمًا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً
يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِن اٰخَرُ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۱﴾

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا
مَا شَاءَ اللّٰهُ ؕ وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ وَ مَا مَسْنِيْ
السُّؤْمُ بِرَانَ اَنَا اِلَّا كَذِبٌ وَّ بَشِيْرٌ

لَقَوْا وَيُؤْمِنُونَ ﴿۳۱﴾

﴿۳۱﴾

اندر واریاہ پستہ خاطر - تہ میہ واتر ہے تہ زاہ
کا نہہ تکلیف - مگر تہ چھس صرف مؤمن ہند
باپتہ ہشیار کرن وول تہ غم شخیر دہ وول -

سے چھہ بیوہ توہی اکی زوہ اندر پاد کرک ہتی چھو تہ
تہ کی تمک چھن تس جوہ ہومت بیتہ سہ تس
کرن مال کر تہ قرار لہہ - اد بیلہ سہ تس ولہ یوان
چھہ تہ سو چھہ نوت ، یو ہوتان تہ سہ ہپتہ چھہ
(سو اور یور) پھیران اد بیلہ سو (ہنا) گوہ بان چھہ
دہ شوے (سرہ تہ زنان) چھہ پنسن اللہ (تعالے)
ہس یس تہند پروردگار چھہ ، دعا منگان زہ اگر تہ
اسہ اکہ اور دور ستر دکہ تہ اسی ہنو چانی ستر
کرن والی بندہ -

اما پز بیلہ سہ بہن اور دور شتر عطا کران چھہ تہ تم
دہ لوہے چھہ بہن اولادن شتر یوم بہن خدایں دتی ہتی
آسان چھہ ، تہندی (یعنی خدایہ ہندی) شریک ٹھہراونی
ہوان - تہ اللہ (تعالے) چھہ تہند شریک کرنہ ہنتہ
سبھا تھوہ تہ بالا -

تم چھا (بہن خدایہ ہندی) شریک ٹھہراوان یوم تہ
کہنی تہ پاد چھہ کران بلکہ چھہ پانہ پاد کرنہ یوان -
بہی چھہ تم بہن (شریک کرن والہن) ہند مدد
کرنک اکہ دانی تہ طاقت تھوان تہ نہ ہیکن پنہن
پانہ ہند مدد کر تہ -

بہی ہر گاہ تہ بہن (ایہن معبودن) ہدایتس کن ناد
دکہ تہ تم ہیکن تہ چانی پادوی کر تہ - چون بہن
ناد کرن یا ترھوہ پدہ کر تہ روزن چھہ تہند خاطر
ہشی کتہ -

بہن لوکن توہی اللہ (تعالے) ہس وراہی آلو
کران چھو - تم چھہ توہی ہویہ بتہ - اد توہی
روزی تو بہن آلو کران (تہ) مگر توہی پز یارک چھو
تیلہ نوکی تن تم تہندس آلوں جواب دتہ -

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ
حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَكَلَّمَا
أَثْقَلَتْ دَاعُوا اللّٰهَ رَبُّهُمَا لَمِنَ
اتِّمَّتْكَ صَالِحًا تَتَكُونَنَّ مِنَ
الشّٰكِرِينَ ﴿۳۱﴾

فَلَمَّا اتَّهَمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ
شُرَكَاءَ فِيمَا اتَّهَمَا فَتَعَلَى اللّٰهَ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۲﴾

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ
يُخَلَّقُونَ ﴿۳۳﴾
وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَ لَا
أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۳۴﴾

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا
يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ
أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿۳۵﴾

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ
أَمْثَلَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۶﴾

أَلَهُمْ أَزْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا نَأْمَ لَهُمْ
أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا نَأْمَ لَهُمْ أَعْيُنُ
يُبْصِرُونَ بِهَا نَأْمَ لَهُمْ إِذَا نَ
يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ إِذْ عَوَّاهُ لَكُمْ
ثُمَّ كَيْدُ ذِي فَلَا تُنظِرُونَ ﴿٥١﴾

إِنَّ ذَلِيلِي يَا اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿٥٢﴾

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا
يَسْتَلِطِعُونَ بِكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ
يَنْصُرُونَ ﴿٥٣﴾

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا
وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا
يُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾

خُلِ الْعَفْوَ وَأَمْزِ بِالْحَرْفِ وَأَعْرِضْ
عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

وَأَمَّا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعًا
فَاشْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ
طَرْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَكَرَّرُوا فَإِذَا
هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٥٧﴾

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ
لَا يُقْصِرُونَ ﴿٥٨﴾

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ

کیا تم چھاکھور یو سستی تم پکان چھو؟ یا تم
چھا اتھ یو سستی تم رمان چھو؟ یا تم چھا اچھ
یو سستی تم وچھان چھو؟ یا تم چھان کن یو سستی
تم بڑان چھو؟ تر دن تم نر پتھر ساری شریک
انہو کہ ناد دتھ پتھر کڑو ساری سبتھ میہ خلاف
منسوبہ (تیار) تر میہ مہر دیو کا نہر موبت۔

میون دوست چھ بے شک سہ (خدا) بیمر کمال کتاب
نازل کر مٹر چھینے۔ بیہ چھ سہ نیک بندن اتھ
رٹ کران۔

بیہ تم لو کہ میں تو ہی تمس ورا ہی آلو کران چھو تم
نہ چھ تو ہر مدد کرانگ تو فسق تھاوان تر نہ چھو تم
پنہن پان مدد کران۔

بیہ تم تو ہی تم ہاتس کن ناد دیو تر تم بچھہ لڑتھ
ہکان۔ بیہ چھہاکہ تر تم وچھان تر زرتھ چھہ تم شری
کن وچھان۔ کتھ چھینے یہ تر تم چھی ہ (شرینہ)
وچھان۔

(اے نبی!) عفو کر تر فطرہ مطابق کتھن ہند
آس حکم دوان تر جاہل لوکن ہند کنہ روز بھہ چھہ۔

بیہ تم شیطان ہند طرف تر یہ کانہہ تکلیف واتی تیلہ
مگ تر اللہ (قعالے) ہس پناہ یس سپٹھا بوزان
ول تر سپٹھا زان ول چھہ۔

بے شک تم لو کہ (چھہ ہایت لبان) یو تر وقتہ
تقوی پر ووییلہ تم شیطان ہند طرف پتھر ول کانہہ
خیال محسوس سپد تر تم گے ہتیار تر تمس آہی اچھ
متر نہ۔

بیہ تم (کافرن) ہند کر باہی چھہ تم مٹرا ہی کن لما
پتھر چھہ کنہ قہمگ چھو نہر کران۔

بیہ سیدلہ تر تمش کنہ نون ہتھانہ انکہ ہر

لَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَنبِئُكُمْ بِمَا يُوحَىٰ
إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۲﴾

اٹی چھی ونان ز ترئی کیاز اؤنتھ نہ سہ (نشانیہ) المبتدئہ؛
ثر ویکھ ز بہ چھس صرف سپنس پروردگار ہند طرفہ
پانس پیٹھ نازل سپدن واجبہ ڈھیہ ہنر پاروی کران
یہ ڈھی چھینہ تہندس پروردگار ہند طرفہ دلاؤ لو برتھ
تہ مؤمنن ہند خاطر چھینہ ہدایت تہ بیہ چھینہ رمت تہ۔
بیہ (اسے لاکو) ییلہ قرآن پر نہ پیسہ تہ سہ آسو
توہی روزان تہ ترصو بہ کڑتھ آسو روزان - بیٹھ زن توہی
پیٹھ رعم کرنہ پیسہ۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۴۳﴾

بیہ (اسے نبی!) تہ آسو زبن یین پروردگار سپنس
دس مشرعا جزی تہ خوفہ سان یاد کران روزان۔
بیہ (آسن سہ یاد کران) سہ تہ سہ تہ تہ لو تہ لو تہ
صحن تہ تہ شامن تہ۔ تہ زاہ سپدری ز نہ غفلت
کران والین مشر شابل۔

وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَتَضَّرَّعَا
وَأَنصِتْ إِذ تَأْتِيكَ مِنْ الْقَوْلِ بِآلِ غَدُوِّ
وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿۴۴﴾

یکم لاکھ پچاس پروردگارس نزدیک چھ (ہم) چھینہ
سپنس پروردگار ہنر عبادت کرنہ کرنہ پین پان
یوڈ زنان۔ بیہ چھ تہنر تسبیح کران روزان بیہ
چھ تہس برتھ کنبہ سجدہ کران روزان۔

إِنَّا لَنَذِيرٌ لِّكَ لَئِن كُنَّا لَنُحَذِّرُكَ
عَنِ عِبَادَتِهِمْ وَيَسْتَحِوْكَ وَكَأَن
يَسْجُدُونَ ﴿۴۵﴾

سورة الانفال مدنيہ وهي مع البسملة ست و سبعون آية وعشرون ركوعا

سورة انفال: یہ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ بہت چھ بیٹھ مشر شستھ آہ بیہ چھس داہ رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سند ناو ہتھہ اپران) بیس حد
رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر کر چھیر کر رعم کرن وول
(اسے رسول!) لاکھ چھی ترئیہ مال غنیمت متعلق
پر ترھان۔ تہ رون (ہمن) نہ مال غنیمت چھ اللہ
(تعالیٰ) تہ تہندس رسولہ ہندی۔ لہذا پر آوو اللہ
تعالیٰ سند تقویٰ تہ پانہ واڈی کرو اصلاح کر پرخ
کوشش تہ ہرگاہ توہی مؤمن چھو تہنہ کرو اللہ
(تعالیٰ) تہ تہندس رسولہ ہنر اطاعت۔

يَسْأَلُوكَ النَّبِيَّ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ
لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاَتَقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ مَّا وَاطَّيَعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲﴾

مؤمن چھ صرف تھے یہیں بروٹھ کہنے سے اللہ تعالیٰ
سزا دیکر کہنے سے تہندری طل کھوشن - تہ نیلہ تم
بروٹھ کہنے سے تہندری آپ پر نہین تہ تم ہراوان تہند
اپناں - یہ (چھ مؤمن تم) ہم پسند پروردگار
پیٹھ توکل کران چھ۔

(یہ تھے پاکھو چھ حقیقی مؤمن تم) ہم نماز چھ (شرطن
نظر تل تھاوتھ) ادا کران - یہ یہ دیکھتا، اہر
تم دیت مت چھ تہ منتر چھ خرچاوان -

پکے (پیٹھ کہنے و نتر آہری صفت تھاوان اولی) چھ
پزری مؤمن - تہند خاطر چھ تہندس ریس ریش
(تھند تھندری) درہم تہ بخشایشہ ہند سامانہ تہ
عزتہ وول رنق۔

یہ (انعام آسہ تم پیٹھ) امر باعثہ کنی تر تہ چھ کھا
چانی پروردگار ان خاص مقصد خاطر گر منتر کو دوت
تہ مؤمنو منتر اوس کھ فریق اتھ سپٹھ ہے ناپند کران۔

تم چھ تریہ سستی، حق نون گزھندہ پتہ تھہ پاکھو
بخت کران زن تہ (اسلام وچ دعوت دہ سستی)
چھ تم مولس کن پکناونہ لیوان تہ (یہ تھ کنی چھ
فکر تران ز) تم چھ (سہ موت اچھو) وچھان۔

یہ (پاؤو سہ وقت تر ہنس) نیلہ اللہ تعالیٰ
توہم دھلو جھاڑو منتر ایک و عدہ کران اوسو نہ سمہ
پیو توہم دہ - تہ توہم اوسو دہ پترھان نو سہ ہمت
یمن ریش ہتھارہ بچھہ گزھندہ و توہم دہ پتر تہ
اللہ تعالیٰ اوس پترھان نو سہ کر حق پسندہ محکو
دوسو پوہر تہ کاہرن تر تہ مول۔

یہ سہ پیٹھ پاکھو حق تاہم کر تہ باطل کر تباہ اہ
مجرم (لوکھ) کوہن آسن اتھ ناپندہ کران۔

یہ (پاؤو سہ وقت یاد) نیلہ توہم پسند پروردگار
فریاد اوسو کران - اتھ پیٹھ پوزر تہندری پروردگار

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ﴿٨﴾

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا
رَدَّ قَلْبَهُمْ يَنْفِقُونَ ﴿٩﴾

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴿١٠﴾

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ
بِالْحَقِّ وَإِن فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
لَكَرِهُونَ ﴿١١﴾

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ
كَانَ مَا يَسْأَلُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ
يَنْظُرُونَ ﴿١٢﴾

وَإِذْ يَجِدُكُمْ اللَّهُ إِخْدَى الطَّاغُفَتَيْنِ
أَنهَآ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَن تُغَيَّرَ ذَاتُ
الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ
أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ
ذَابِرَ الْكُفْرَيْنِ ﴿١٣﴾

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ
كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٤﴾

إِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ
لَكُمْ رَبِّي مِمَّا كُنْتُمْ تَسْتَجِيبُونَ

الصَّلٰوةَ مُزِدِّ فَيِّنَ ①

تہندک دُعا (تہ وونُن ز) بہ کروو توہہ سہہ
بدو ٹاکیو سیتی مدو۔ بہند شکرس پیٹہ شکر ہونہہ
کن پکان آسہ۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَ لَيَنْظُمَنَّ
بِهِ قُلُوبَكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ②

بہ آس اللہ (تعالیٰ) ہن یہ خبر محسن اکہ تو شجری
کنہ نازل کر ہتر میتہ امہ کر ذریعہ تہندک دل مطمئن
سیدک تہ مدد چھہ صرف اللہ (تعالیٰ) ہس نشی یوان
(ٹاکیو چھہ فقط اکہ علامت) اللہ (تعالیٰ) چھہ
یقینا سہہٹا غالب (تہ) حکمتہ دول۔

إِذْ يُغَشِّبِكُمُ السَّيِّئَاتُ مِنَّمَا تَسَاءَلُونَ
وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً
لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رَجَسَ
الشَّيْطٰنِ ۚ وَلِيُزَيِّنَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ۚ
وَيُبَيِّنَ لَكُمْ سَوَابِقَ آيَاتِهِ لِقَوْمٍ
كَافِرِينَ ③

(یہ نشان سپد تہہ وقتہ ظاہر) سیدہ خداے (پہنہ
طرف) امین تہ اطمننا پنج تو شجیر دنہ خاطر توہہ
پیٹہ تندر مفعول نازل کران اوس۔ تہ توہہ پیٹہ
اوس اوہہ مشر آب نازل کران۔ سیتہ زن توہہ
تہہ سیتی پاک کروو۔ تہ شیطا تہہ ہتر گندگی (یعنی
تسند خوف) کہ توہہ نش دور، بہہ میتہ تہندک دل
مغنیط کر تہ امہ (رؤد) دُسو در او تہندک قدم ہلہ
(یہ اوس سہ وقت) سیدہ چون پروردگار ٹاکیو تہ
دُسی کران اوس نہ بہہ چھس توہہ سیتی۔ او کہنی
بنائو لوکہ مومن ثابت قدم۔ بہ تراو کافرن ہند بن
طن مشرعب۔ لہذا (اے مومن!) توہہ گتہ سو
تہنزن گردنہن حملہ کران بہہ گتہ سو تہندس بندس
بندس ٹاس دلان۔

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلٰئِكَةِ أَيِّنَ مَحَكَمَ
فَقَشَبْتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَآئِلِينَ فِي
قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْبَ
فَاضْرِبُوا قَوْقَالَ عَتَا فِي وَ اضْرِبُوا
مِثْلَهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ④

یہ سید او کہنی نہہ تو چھہ اللہ (تعالیٰ) تہ تہندک
رسولہ ہتر مخالفت کر ہتر۔ او میں کاتبہ اللہ (تعالیٰ)
تہ تہندس رسولہ ہتر مخالفت کران چھہ (سہ گتہ
زانن نہ) اللہ (تعالیٰ) چھہ کر لویٹہ سزا دنہ دول۔
(اے لوگو! بوزو!) سیتہ چھہ آسان (اللہ تعالیٰ
سزا سزا) لہذا و چھہ اتہ سزا! تہ (یاد تھو

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَ
مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑤

ذٰلِكُمْ قَدْ وَفَّوْهُ ۚ وَ اِنَّ لِلْكَافِرِيْنَ
عَذَابَ النَّارِ ⑥

لہ یہ چھہ جنگ باریک واقعہ مومن ہند کہہ اوں سیکہ نادان میں رؤد پہنہ سیتی دلو۔ تہ کافرن ہند
کہہ آس نہ سیکہ بیکہ آس میتہ، توہہ کہہ وڑھہ رؤد سیتی رب میتہ پیٹہ ہنہن برکن آس گتہٹھان۔

نہ (کافرن چھ بڑی یا ٹھو تارک عذاب واتن وول۔
اے مؤمنو! نیلہ توہر کافرن کہ لشکر کس مؤمنس
مغر سمکھو۔ تہ زاہ مہ اسو اتن تھر ہاوان۔

تہ یس اکھ بیس مؤمن پیٹھ تہ لبتہ تھر چھر،
اسہ وراہی تہ سہ آسہ لرایہ باچھہ جاے بدلاوان
یاکنہ (مسلمان) جہاڑ کن آسہ (تھن ہندہ
مدد کر تہ خاطر) پتھ ہٹان، سہ پھیر اللہ تعالیٰ
سہ غضب ہتھ پوت تہ تہ تھکانہ آسہ جہنم تہ
روز تہ خاطر چھین سہ سہا خراب جاے۔

لہذا (تھا و یاد نہ) تم (کافرن) اسو و تہ توہر
ہاوی ہتھ بلکہ اسو تم اللہ تعالیٰ ہن مارو تہ
بیہ نیلہ تہ کنہ موٹھ لایے پتھ تہ لایے
پتھ تہ بلکہ لایے یہ سو اللہ تعالیٰ ہن تہ نیلک
تہ پتھ یہ سپد نہ تہ کوہ اسو مؤمن پیٹھ اکھ بوڑ
اصان تہ اللہ تعالیٰ چھ یقیناً سہا بوزن وول
(تہ) سہا زان وول۔

یہ کہتہ سپد تھ پٹھو (پتھ پٹھو اسہ و و تہ اکھ)
تہ اللہ تعالیٰ چھ بے شک کافرن ہند تہ سپر
کمزور کرن وول۔

(اے کہو کافرو!) اگر توہر فیکہ نشانہ منکان
اسو و تہ تی تو توہر تہش و اثر فتح، تہ اگر وول
تہ توہر باز ہو تہ یہ آسہ بے شک تہ ہند باچھہ رت
تہ اگر توہر (بد و اتلہ کن) واپس پھیر تہ اسو
تہ پھیرو (سزا دین کن) واپس۔ اڈ تہ ہن تہ
لوک کافراہ تہ زورا وار اسون، دیو تہ توہر
کاہہ قاید تہ اللہ تعالیٰ چھ مؤمن سہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ
الْأَدْبَارَ ۝

وَمَنْ يُولُوهُمْ يَأْمُرْ بِالْإِلْحَادِ
لِقِتَالِهِ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِتْنَةٍ
فَلَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ
وَمَا دُمَ جَهَنَّمُ وَ
بِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ
وَ مَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَ لَعَنَّ
اللَّهُ رَمِيَّ وَ الْيُسْبُلِيَّ
الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَاءٌ
حَسَنًا إِنْ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

ذَلِكَ وَ أَنَّ اللَّهَ مُهِمٌ كَنِي
الْكُفْرِينَ ۝

إِنْ تَشْتَفِنَهُمْ فَلَقَدْ جَاءَكُمْ
الْفَتْحُ وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَمَوْ حَيْزُكُمْ
وَ إِنْ تَعُدُّوا نَعْدًا وَ لَنْ
نُغْفِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتَكُمْ
شَيْئًا وَ لَوْ كَثُرَتْ وَ أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

لہ جنگ بدر کس وولس پیٹھ سہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتہ پٹھلی موچہ مشرتہ لایکھ تھان کن خدا تعالیٰ
نہ لکھ سہو چلو ہا و ساعہ تہ پتھ و او زیکہ و تہ یہ تہ کافرن ہنرا چھ گے بیکار۔ پتھ آسہ تہ تھ تھو کن اشارہ۔

اے مؤمنو! اللہ (تعالیٰ) تم کو ہندس رسولہ
سینتر اطاعت کرو تمہیں کو ہندس ہندس
کتے بھتہ۔ اتھہ حالتس منز نہ توہی اسی (تسند
حکم) بوزان۔

بیسہ ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
اسی چھ بوزان مگر تم اسی نہ بوزان۔

اللہ (تعالیٰ) ہس ہندس چھ ہندس کھوتہ تم بدتر تم
لاکھ ہم زری تم کھوتہ چھ ہندس ہندس ہندس
بیسہ اگر اللہ (تعالیٰ) ہس ہندس ہندس ہندس
تم ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
تم اگر ہندس (موجودہ حالتس اندر ہے قرآن) بوزان
ہے، تو تم ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
کر ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس۔

اے مؤمنو! اللہ (تعالیٰ) تم ہندس رسولہ ہندس
بوزان ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
بیسہ ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
کر ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس۔

بیسہ ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
صرف ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
(تعالیٰ) ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس۔

بیسہ ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
(ہندس ہندس) ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ
تَسْمَعُونَ ﴿١١﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ
هُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٢﴾

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمُّ
الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ ﴿١٣﴾

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ
وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٤﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ
لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ تَشْرُونَ ﴿١٥﴾

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦﴾

وَإِذْ كُرِّدَا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ
فِي الْأَرْضِ خَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ
النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَبْأَيْكُمْ بِنَضْرِبِهِ
وَرَدَّكُمْ مِنَ الطِّيبِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٧﴾

لے یعنی روحانی رنگ چھ زری تم کھوتہ

لے اگر آپ تل چھ ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
زندگی ہندس۔

یہ توہی شکرانہ کرو۔

اے مومنو! اللہ (تعالیٰ) تمہیں رسولِ رسولہِ سندِ نبی
مہ کرو! بیہ مہ کرو پستین امانت ہند خیانت
اتھ حالتس مفرز توہی چھو زمانان مانان۔

بیہ تھاوو یاد نہ تہند کمال تہ تہند ک اولاد بیہ
صرف لکھ آزمائش۔ بیہ یہ نہ اللہ (تعالیٰ) چھ
سہ ذات بیئیس منش بوڈ اجر چھ۔

اے مومنو! اگر توہی اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ
پراوو تہ سہ کر تہند باپتھ اگر بڑا امتیازک
سامانہ پاچہ تہ تہنتر کمزوریہ کردور تہ توہی
بخشوو۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ بوڈ فضلہ وول۔

بیہ (اے رسول سہ وقت پاوترتس) نیلہ کافر
ثریہ متعلق تدبیر کران اسی۔ چھ زن ثریہ (اہس
چاپہ) قلعہ بند کرہنے یا ثریہ قول کرہنے یا ثریہ
کڑہنے، ادرتہ تہ اسی تدبیر کران تہ اللہ (تعالیٰ)
تہ اوس تدبیر کران۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تدبیر
کران والہو اندہ ساروہے کھوتہ بہتر تدبیر
کران وول۔

بیہ نیلہ تمہ بروٹھ کتہ سانی آہیہ پرتھ بوزناونہ
یوان چھ تہ تم چھ ونان، (تھو! تھو!) اسر بوز
تہنتر کتھ۔ اگر اسی بیٹھو اسی تہ ہیکو بیٹھ
کلام بناوتھ (پیش کر تھ) یہ (قرآن) چھ صرف
پرانہن ہنتر کتھ۔

بیہ (پاوو یاد) نیلہ تمہ و نیاو، اے اللہ! اگر
چانہ طرفہ ہوہے (دین) حق چھ، تہ اسر پیٹھ
وال آسمانہ پیٹھ کتہ رُوڈ یا اسر بیہ کانہ سخت
کرنوٹھ عذاب۔

اہاہ بوز اللہ (تعالیٰ) ہیکرہے نہ تمہ تھہ حالتس
مفر عذاب دتھ نیلہ تر تمہ مفر موجود اوسکھ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸﴾

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فَشِنَّةٌ آتَى اللَّهُ عِنْدَهُ آجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۹﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰﴾

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبْتِلِئْتَهُمْ أَوْ يُكْفِّرُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ أَلْمَا كَرِيْبِنٌ ﴿۱۱﴾

وَإِذَا تُثُلَّ عَلَيْهِمُ الْآيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۲﴾

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ إِذْ آتَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۱۳﴾

وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ

وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۳۷﴾

تو نہ ہی کہے اللہ تعالیٰ، تم تنہا حالتس
منز عذاب دتھ بیلیہ تم استغفار کران آسہن۔

بیرہم کیاہ (موضتہ) چھہ (ہران)۔ نیہر کہو
اللہ تعالیٰ، تم عذاب دیہ نہ اسر باوجود
نہ تم چھہ (لوکن) عزتہ واجتہ مسجد (یعنے خانہ
کعبہ) نشہ ٹھاک کران بیرہم چھہ دراصل
تھکو متولی، تھکو (اصلی) متولی چھہ صرف متقی
مگر یو (کافرو) مشر چھہ واریاہ یہ کتھ زانن
تہ تہا کعبس نش تہنتر نماز کیاہ چھہ بیرہم شکر
نہو تہ شر پسر ورائی ہ لہذا (اسے بے دینو!)
پستہ کھکر باعتہ وچھو عذابس منہ۔

یو کفر کورمت چھہ تم چھہ یقینا پتو مال اللہ تعالیٰ
ہنتر و تہ نشہ لوکن پتہ رتہہ باچھہ خرچ کران۔
تم گرتھن رتھہ پاتھو ہم مال خرچ کران پتہ
آخرس بز (یہ خرچ) تہند خاطر حسرتک موہب
تہ تم بین متلوب کرتہ۔ بیرہم یو لوکو کفر کورمت
چھہ تم بین سو نبر اوتھ جہنم کتہ نہہ۔

یہ تہ زن اللہ تعالیٰ، خبیثس طعیس مقابل
ممتاز کرتہ خبیث چیرن ہندین کینترن حصن
تھا و کینترن پیٹہ پتہ بناو سارہن اکھ انبر
تہ آتی دیہ سہ (سورسہ انبر) جہنم منتر
برتھہ۔ (بلوزو) یکے (لوکھ) چھہ گارڈ لین والہ۔
تہ زن کافرن زاکر تم بازین تہ یس (تقنور) تہند
دسو برونتھ گومت چھہ (سہ) بیرہم معاف
کرتہ تہ اگر تم بیرہم (تہنہ کرواتن کن) چھیرن
تیلہ برونتھ من لوکن سوتی (یس) سنت گذریوت
چھہ (سے معاملہ سپدہن سوتی)۔

بیرہم روزو بین (کافرن) سوتی تھگ کران یوت تام
نہ جبرک نیب نشاہ روزن نہ ہاتے۔ تہ دین سپدہ سہام
اللہ تعالیٰ، ہندی خاطر۔ تہ اگر تم پتہ روزن اہ

وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ
يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ
مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، إِنْ أَوْلِيَاؤُكَ إِلَّا
الْمُتَّقُونَ وَلَئِنْ أَكْثَرْتَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا
مُكَاوَدَةً وَتَضْيِئَةً، فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۹﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا
ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ
يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
يُخْشَرُونَ ﴿۴۰﴾

لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ
يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ
فَيُزَكِّمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي
جَهَنَّمَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۴۱﴾

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا
يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا
فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿۴۲﴾

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۴۳﴾

اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک تہندگی اعمال و چھان۔
 تہ اگر تم تھمر پھرن تہ زانو ز اللہ (تعالیٰ) چھ
 بے شک تہندگی حامی۔ سہ چھ سارو بے کھوتہ رت
 حمایت کرن وول تہ سارو بے کھوتہ رت مددگار۔

بہ زانو ز یہ کینہ تھا تہ تہ ہر مالہ غنیمتہ منبر میلہ و
 تہ منبر چھ پانترم حصہ (۵) اللہ (تعالیٰ) تہ تہندگی
 رولوہ ہند خاطر تہ (رٹوس سستی) نزدیکی تعلق تھاوان
 والہن ہند خاطر تہ یلمین تہ مسکین ہند خاطر بیہ مسافرن ہند
 خاطر ہرگاہ توہی اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ ایمان انسان
 چھو بیہ تھہ پیٹھ تہ یہ اسہ پننس بندس پیٹھ پیزس
 تہ اپزس منبر فاصلہ کرن والہ وہ ہر تانزل کورمت اوس
 نیہ دوہہ دونے شکر جمع گاہتہ اسی (تہ تھہ پیٹھ
 کرو عمل) تہ اللہ (تعالیٰ) چھ پرچہ کتہ چیزس
 پیٹھ تودت تھوان۔

تہہ دوہہ) نیلہ توہر (چھو کس میلانہ کس) سپارکس
 اندس پیٹھ اسی و تہ تم اکافر اسی اپاری مس اندس
 پیٹھ تہ تا ظہر اوس توہہ نش بو تہہ طرف تہ ہرگاہ
 توہی بتم سستی و عہہ تہ کڑی ہو تہ توہی کڑی ہو چھو
 کس) و تلس متعلق بتم سستی اختلاف عمر (خداین
 کڑی و توہر جمع) بیٹھ سہ سو کتہ پوہ کرے نیمہ
 کر کرنک توہ فاصلہ کورمت اوس (تہ یہ نشان آد
 اسہ کتہ تہ اوہن) بیٹھ سہ یس دپلہ سستی ہلک پڑت
 چھ، سیدن ہلک تہ سہ یس دپلہ سستی زندہ کورمت
 چھ، مگر صحن زندہ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً سوٹھا
 بوزن وول (تہ) وادہ زانن وول۔

(یہ واقعہ چھ تہہ وقتک) نیلہ اللہ (تعالیٰ) ہن
 پائس خابس منبر تہ تہ کم کرتہ لوہیانی۔ تہ اگر
 تہ تہہ (کافر) واریاہ اوہن بیہ ہن تہ توہی اوہ

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ
 مَوْلٰىكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ
 النَّصِيْرُ ﴿۱۰﴾

وَاعْلَمُوْا اَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
 فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِزِي
 الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسْكِيْنِ وَ
 ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ
 بِاللّٰهِ وَ مَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ
 الْفُرْقٰنِ يَوْمَ التَّقٰى الْجَمْعِيْنَ ؕ وَ
 اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۰﴾

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَ هُمْ
 بِالْعُدُوِّ الْقُصُوٰى وَ الرِّكْبِ اَسْفَلَ
 مِنْكُمْ ؕ وَ لَوْ تَوَا عَدُوْكُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِي
 الْمِيْعٰدِ ؕ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ
 مَفْعُوْلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنَ مِنْ هَلٰكٍ عَنْ بَيِّنَةٍ
 وَ يَحْيٰى مَنْ حَيًّا عَنْ بَيِّنَةٍ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ
 لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰﴾

اِذْ يَرِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْ مَنْا مَكَ قَلِيْلًا
 وَ لَوْ اَرٰكُمْ كَثِيْرًا لَّفَشَلْتُمْ وَ
 لَتَنَادَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ

لَئِنَّ عَلَيْنَا مِثْلَ الَّذِيْنَ

ہو حضور کمزوری تہ اتھ معاملس (یعنی جنگ کس حقس)
مشرکتر ہے و توہر جگہ (ز جنگ کروا کہتہ نہ) مگر
اللہ (تعالیٰ) ہن رُحیو و (توہر) سہ چھہ دن تہا ہنہر
کتھہ زبر پاٹھو زانان۔

بیر (پیاوو یاد) بیلیہ سہ نمین (کافرین) تہنہنہر نظر
مشرکتر ہے و توہر کمزور ٹاون اوں۔ تہ توہر اوٹو تہنہنہر
نظر مشرکتر ٹاون بیچہ زن اللہ (تعالیٰ) سو کتھہ
پڑو کر بیلیک توہر فاصلہ کورمت چھہ تہ اللہ (تعالیٰ) ہس
کن بین سارے کتھہ پھیرتھہ نہہ۔

اے مومنو! بیلیہ توہر (کافرین ہندس) کتھہ فوجس
بچھہ نکو تہ ثنابت قدم روزیو! بیر اسی ہن اللہ
(تعالیٰ) سہٹھا یاد کران بیچہ زن توہر کامیاب سپو۔

بیر اسی اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس رسولہ ہنہر اعانت
کران روزان، بیر سہ اسی پانہ وانی اختلاف کران۔ (یوہ
وسے تہ کتھہ) بیلیہ کتھہ روز دل تہ تہنہر زور روز کم گرتھان
بیر روزو صبر کران، اللہ (تعالیٰ) چھہ صبر کرن واپن
سہتو۔

بیر سہ ہنہر امن لوکن ہندس پاٹھو بیم سپنہو گرو مشر
لوکن (پینہر بوہوری تہ دہنی غیرت) ٹاونہر خاطر
کبہر کران دراسے۔ بیر بیم اللہ (تعالیٰ) ہنہر و تہ
ہنہر (لوکن) پتھہ زمان چھہ۔ اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ
چھہن لوکن ہندس اعمال تہاہ کرنک فاصلہ کورمت۔

بیر (پیاوو یاد) بیلیہ شیطان کافرین تہنہر اعمال
رتی کتھہ کتھہ تہ وونکھہ ز از ہیکر تہ لوکو مشر
توہر پتھہ کانہہ غالب پتھہ، تہ ہر چھیس تہنہر تھہر
ڈوٹھہ۔ پتھہ بیلیہ دھونے شکر اکہ اہس بیچہ کتھہ تہ
سہ پھینور پوت کھوری تہ وونکھہ ہر چھیسو توہر
بے زار۔ ہر چھیس تہ کتھہ تھار چھان پتھہ توہر وچھان
چھو۔ ہر چھیس اللہ (تعالیٰ) ہس کھوڑان تہ اللہ
(تعالیٰ) سہر عذاب چھہ سخت آسان۔

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّمْيِيمِ فِي
أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي
أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا
كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ
تُرْجَعُ الْأُمُورُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمْ
فِتْنَةً فَاقْبَلُوهَا أَذْكَرَ
لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْتَدُونَ

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا
وَإِنْ تَفْشَلُوا فَتُفْشِلُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بَطْرًا وَإِنَاءً النَّاسِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ
لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي
جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَ آيَاتِ
الْفِتْنِ تَوَلَّوْا عَلَىٰ
أَعْقَابِكُمْ وَقَالَ لِي بِرِيَءٍ
مِّنْكُمْ لِي نَلْمَاكُمْ إِذْ
أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

بہ (یا دو یاد) نیلے منفق تو (تم) پہنچیں دین
منز بیاری آس، ومان آس نہ پیم مسلمان چھہ ہیندک
دین مغرور کرک ہوت۔ حالیکہ میں اللہ (تعالیٰ) ہس
پہچہ توکل کران چھہ سہ چھہ وچھان نہ اللہ (تعالیٰ)
چھہ سبھا غلبہ وول (تہ) سج حکمت وول۔

یا گرشو و توہی سو و ز نینہ نیلہ بلایک کافر
ہند روح قبض کران چھہ تہ تہندین بچھن تہ تھن
پہچہ چھہ ماس لایان گرشھان تہ (یہ چھاکہ ومان گرشھان)
اکہ و ز و نہ عذابک سہر وچھو۔

یہ (غلاب) چھہ تہندبو اتھو پتھ کن کر نہ آستین
کرتوت ہند تھہ۔ یہ زانو نہ اللہ (تعالیٰ) چھہ نہ
پستین بدن اکہ ڈاڈی تہ ظلم کران۔

فرعون ہند قوم کہ طریقہ مطابق یہ تہن لوکن ہند
(طریقہ مطابق) پیم تہن بروٹھ گذرے ہوتو چھہ (پہ)
تہند حساب کتاب) تمو ساروے اوس اللہ (تعالیٰ)
ہندین آہن انکار کورمت اوکو رٹی تہم اللہ (تعالیٰ)
ہن تہندبو گھنہ ہو موجب۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ یقینا
بوز طاقت وول (تہ) سخت سزا دہ وول۔

یہ (سید اوکو) نہ اللہ (تعالیٰ) نیلہ کتہ قومس
پہچہ نعمت نازل کران چھہ تہ سو نعمت چھہ بدلوان
(توت تام) یوت تام تہ سہ قوم پتہہ دلچ حالت
بدلاو۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ یقینا سبھا بوزن وول
(تہ) واراہ زانن وول۔

(اے سبکو! تہند حال تہ آس) فرعون ہند قومکو
تہ تہن بروٹھ تہن لوکن ہندک پاٹھو یو پتہنس
پرور دکا ہندین آہن انکار کورمت اوس۔ او کرک
اسہ تہ تہندبو گھنہ ہو مکھ ہلک (تہ تہندک العام
آپہ تہن اتھہ ہینہ بکیار تہو پھیرہ خلیس مجتہ) تہ
اسہ پھاٹو نوو فرعون سہ قوم (سمندرس) بکیار
تہم آس ساری ظالم۔

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّهُمْ أَجْرُهُمْ وَ
مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾

ذَلِكُمْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَكَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
الْمَلَائِكَةَ يُضْرِبُونَ دُجُوهَهُمْ وَ
أَذْبَابَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ
الْحَرِيقِ ﴿۱۱﴾

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيَاتِكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ
لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۲﴾

كَذَّابٍ أَلْفِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ
بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿۱۳﴾

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغْتَبَرًا تَحْمَةً
أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَذِّبُوا مَا
يَأْتِيهِمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۴﴾

كَذَّابٍ أَلْفِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
فَآخَذَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَأَغْرَقْنَا
أَلْفِرْعَوْنَ ۚ وَكُلًّا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۱۵﴾

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾

اللہ (تعالیٰ) اس نزدیک چھو تم (الوگہ) گینو کھوتہ تہ بدتر پیو (خلایہ ہندین آین) انکار کورتہ تم چھو تم ایکن اتان۔

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿۵۲﴾

تم لوگہ یکن سستی تریہ عہد کورتہ ، مگر تم چھو پرستہ فوہ یکن عہد پھڑاوان۔ تہ (خلایہ ہند) تقویٰ چھنہ پراوان۔

فَمَا تَتَّقَتَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرٌّ بِهَمَّ مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ ﴿۵۳﴾

اد برگاہ تہ لڑایہ مشر بہن پیٹھ قولو بکھ تیلہ تر ناؤگہ تہندہ دسی تم تہ پیم بہن پیٹھ (بیہ شکر) چھو بیٹہ تم نصیحت لین۔

وَمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيفَاءً فَاتَّبِعُوا لِنُيُوسِهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِضِينَ ﴿۵۴﴾

بیہ ہرگاہ تہ کتہ تو مس نش عہد پھڑاؤگہ خط تھاواں آسکھ تیلہ کرتہ تہندہ عہد تھتہ پاٹھی ختم تیلہ سستی بہن فکر تہ تہ وہ ذی چھو تو ہوس دہنوسے (ڈرک پسنہو پابند یو ہتہ) آزاد۔ اللہ (تعالیٰ) چھنہ خیانت کرن والین پسند کران۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿۵۵﴾

بیہ سکا فرمہ کرن زاہ یہ خیال نہ تم چھو (پسنہو تہ علو سستی) بروٹھ پکڑو متی۔ تم ، نیکن نہ نہہے (تہ مؤمن) عاجز کورتہ۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطٍ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ الْآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۵۶﴾

بیہ (اسے مسلمانو! توہر پزیرو تہ) توہر کڑو بہن (الرن والین) ہند خاطر میں طاقت جمع ایواتہ توہر ممکن سپرو۔ (ملکی انتظامیہ کڈریعہ تہ) بیہ سرجان پیٹھ فوجی چھاوہ بناوہ سستی تہ۔ (توہر) فوجی چھاوہیو (ہند ذریعہ چھو کہ توہر اللہ (تعالیٰ) ہندک دشمن تہ پیڑی دشمن کھوتہ ناوان۔ بیہ ، توہر ورازی تم (دشمن) تہ پیم بہن (سرحد کڈ دشمن) اپارٹہ چھو۔ توہر چھو کہ تہ تم زانان ، اما پوز اللہ (تعالیٰ) چھو بہن زانان۔ بیہ یہ توہر اللہ (تعالیٰ) ہنر و تہ خرچ کڑو سہ دیو توہر تمیک پور پور پور تہ توہر سستی بیہ نہ نا انصافی ہند معاملہ کرنہ۔

۱۰ اللہ آسین مشر چھو تمہر روم تہ کسری اپانہ ہندین فوجن کن اشارہ۔

بیر اگر تہنتر دوسرے (دوسرے سوچتے) تم (کافر) صاحب کن بایل سپدن تہ (اسے بغیر!) تہ تہ سپد صاحب کن بایل بیہ کر اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ توکل۔ اللہ (تعالیٰ) چھ یقینا سہما دسا بوزن وول (تہ) واراہ نزان وول۔

بیر اگر تم ارادہ آسن تھوان تہ پتہ دلے تریہ دوکھ۔ تہ (یاد تھو تہ) اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک چانہ باپتہ کافی۔ سے چھ بیگو تہ پتہ بندہ سوتی تہ مؤمنن بندہ دسی مضبوط کوز رکھتہ بیہ گنڈن تہ بندہ دل پانہ وانی (یوت تام زمعہ) گئے چانہ عاتقہ بدل پین غون مار تہ خاطر تہیلہ اگر تہ تہ سورے کیہ تہ یہ زمپنس اندر چھ تہ پیٹھ خرچ کر کبھ توتہ ہیکہ کبھ تہ تہ بندہ دل پیٹھ پانہ گنڈتہ۔ مگر اللہ (تعالیٰ) ہن کوز تم اندر پانہ وانی (تہ تریہ سوتی تہ) محبت قائم۔ سہ چھ بے شک غالب (تہ) بوز حکمتہ وول۔

اسے نبی! اللہ (تعالیٰ) تہ تم مؤمنن ہم چہا فی پانہ کار سپد سوتی چھ، چھ چانہ خاطر کافی (ہیم) محابف چھ تہند پر وائے سر کر

اسے نبی! تہ روز مؤمنن (کافرن سوتی) لڑنہ باپتہ ویز ویز زور سان تھریک کران۔ اگر توہہ مشر وہ ثبات قدم روزن وانی (مؤمن) تہ اسن تہ تم سپدن دون ہن (کافرن) پیٹھ غالب تہ اگر ہمتہ (ثبات قدم روزن وانی) آسن تہ تم سپدن اہس ساس کافرنس پیٹھ غالب تہ کیا زہم چھ تہیہ اھ تو ماہ ہم سران سوچان چھنہ (تیلہ زن لوٹن سرہتہ سوچتہ پتہس ایماس پیٹھ قائم چھ)

وہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہن توہہ پیٹھ بور (ہنا) لوڑ رومت تہ زومت چھن تہ ووز چھ توہہ مشر کمزوری (یعنی ووز چھنہ ساری مؤمنن حد درجہ مؤمنن سپدے تہ)

وَإِنْ جُنْحُوا لِلسَّلَامِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَ
تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿۱۰﴾

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ
حَسْبَكَ اللَّهُ ۗ هُوَ الَّذِي آتَاكَ
بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾

وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ ۗ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ
قُلُوبِهِمْ ۗ لَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۗ
إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى
الْقِتَالِ ۗ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۗ وَإِنْ
يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا
مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَفْقَهُونَ ﴿۱۰﴾

أَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ
فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ
صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۗ وَإِنْ

لہذا پڑھو گاہ تو ہر مقررہ شہادت قدم روزن والی (مؤمن) آریں تو تہ سپدن تم، دون تہن (کافرن) پیٹھ غالب۔ تو ہر گاہ تو ہر مقررہ ساس شہادت قدم روزن والی مؤمن آریں تو تہ سپدن تم اللہ (تعالیٰ) سندر حکمہ دون ساسن (کافرن) پیٹھ غالب۔ تو اللہ (تعالیٰ) چھ شہادت قدم روزن والین کوں

سنتو۔ کانسہ شہادت شہادت نہ زرس بناو تو تا ز قیدری نوتاو نہ سسٹس مشر خون ریز جنگ کر (ہر گاہ تو ہر با قاید جنگ وراوی قیدری ریز جنگ تیلد) تو ہر پیو دنیاوی مان ہندو طالب گنتر راونہ۔ سید زن اللہ (تعالیٰ) تہند با پتھ آخر تہ نغش سیر صان چھ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بوڈ غلبہ وول (تہ) بچہ حکمتر وول۔

(بیر) اگر اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ کانہ ما کار حکم بروٹھ آسے ہے نہ آمت تہ یہ کینترھا تو ہر (قیدری ہند) قیدری روٹھ ادسو تم بکو واہے و تو ہر بوڈ غلبہ۔

(تہ) کیانز قیدری کر اجارک حکم چھ بروٹھ نازل سپدنتم (اڈ یہ کینترھا تو ہر مل غلبہ مشر میلرو تہ (اہلی حکمہ مطبق) آسے (سہ) حلال تہ طیب سہ کھتیو بیہ پراوو اللہ (تعالیٰ) سند تقوی۔ اللہ (تعالیٰ) چھ سہٹا بخش وول (تہ) پھیری پھیری رسم کرن وول۔

اسے نبی! یم لوکھ تو ہر اتھ (جنگی) قیدری بنتھ چھ بتس وون ز ہر گاہ اللہ (تعالیٰ) تہند ہن دن مشر چکی وچہ۔ تہ یہ کینترھا تو ہر نش (تاوان جنگہ کس

يَكُنْ مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَّخْلِبُونَ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۵۰﴾

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَعْكَوْنَ لَهُ أَشْرَىٰ حَتَّىٰ يَتَّخِذَ فِي الْأَرْضِ مَكْرِدَةً ۚ وَعَرَضَ اللَّهُ ذَنبًا ۚ وَاللَّهُ بِرِيدِ الْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۵۱﴾

لَوْلَا كَذِبُكَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا آخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۵۲﴾

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۵۳﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيَاتِكُمْ مِنَ الْأَشْرَىٰ إِنَّ يَخْلِبُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا آخَذَ مِنْكُمْ

لہ یعنی دشمن ہند جہاز حملہ کرتے پتہ پتہ میلے نہیں ہیں دفاع کرنے کو کہ خون ریز جنگ کرن پیٹھ تیلہ ہکیو تو ہر جنگی قیدری جاوے۔ بیہ چھہ کتہ طورس مشر قیدری تہ غلام بناوڑی جائیز۔

وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵۱﴾

نیکس مغز) ہینہ آمنت چھ تمہ کھوتہ رت دیو توہہ بدل - بیہ کر (تمہ علاو) تہندک گوناہ تہ معاف تہ اللہ (تعالے) چھ سپہا بختن وول (تہ) پھیر کر پھیر کر رحم کرن وول۔

وَأَن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۲﴾

بیہ اگر تم (راگزشمنس پیٹھ) تریہ سستی خیانت کرنک ارادو کرن تہ تمہ برزٹھ چھ ہتمو اللہ (تعالے) ہس سستی تہ خیانت کوزمت - پیہ تہ ذی توہ تم تہندک اتھس مشر تہ اللہ (تعالے) چھ سپہا زانن وول (تہ) بوڈ حکمتہ وول۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْدَادًا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَا يَتَّبِعُهُمَن شَيْءٌ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا ۚ وَالَّذِينَ اسْتَنَصَرُوا لَمْ يَكُن فِي آلِهِم مِّنَ النَّاصِرِينَ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۵۳﴾

تم لوکھ بیو ایمان او نمت چھ تہ یو ہجرت کرے مشر چھیہ (تہ اللہ (تعالے) سنز و تہ مشر چھکھ پستنو تہ و (سستی) تہ مالو سستی جہاد کوزمت تہ تم لوکھ بیو (ہجرت کرن والہن پستہن کرن مشر) جاسے ڈر مشر چھیہ - بیہ چھکھ (ہتمن) مدد کوزمت - ہتمو مشر چھ کیشہ کیشرن ہندک جانی دوست تہ تم لوکھ بیو ایمان او نمت چھ تہ ہتمو کر تہ ہجرت - ہتمن سستی جانی دوستی کرن چھ تہ ہتمن کالم، یوت تام تہ تم ہجرت کرن، تہ اگر تم توہہ دینہ کر حقہ مدد منگہ تو تو توہہ چھ ہتمن مدد کرن فریض مگر تہ قوس نجات تہ ہتمن تہ توہہ درمیان کانہہ معاہدہ آسہ - تہ اللہ (تعالے) چھ تہندک اعمال وہیمان -

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِشْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿۵۴﴾

بیہ یو لوکو کفر کوزمت چھ تم چھ پاؤ وازا اکھ اگر ہندک یار - اگر توہہ تی کیشہا کرے تہ بیگ اسہ حکم دیت مت چھ تہ زمپنس اندر سپہ اکھ بوڈ ہتم تہ فساد پاؤ۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْدَادًا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ لَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۵۵﴾

بیہ تم لوکھ بیو ایمان او نمت چھ بیہ یو ہجرت کر مشر چھیہ تہ بیو اللہ (تعالے) سنز و تہ مشر جہاد کوزمت چھ - بیہ یو (ہجرت کرن والہن) پستہن کرن مشر جاسے ڈر مشر چھیہ بیہ چھکھ

دین (تمن) اتھ روٹ کوڑت۔ تے چھ پڑی مومن۔
 تمن سپر گھ بنہن معافی تہ حاصل تہ عزتہ
 دول رزق تہ میپکھ۔

تہ یم لاکھ (اڑک وقتہ) پتہ ایمان ان بیہ کرن
 ہجرت تہ بیہ کرن توہ سستی لڑتہ جہاد تم تہ ین
 تمہنر جہاد سستی زانہ تہ اللہ (تعالے) ہنرکتہ
 موجب چھ کیہہ رحمی اشناو کیشنر مقابلہ جہاد
 نزدیک آسان۔ اللہ (تعالے) چھ یقینا پر چھ
 کانہہ چیز زبر یا طو زانان۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَذَا جَزَاءٌ
 جَاءَهُمْ مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ۗ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَضُونَ
 فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدِيْنَةُ مَكَّةَ وَرَبِّي بَاطِنٌ وَرَسْمٌ وَعَشْرُونَ آيَةً وَسِتَّةٌ وَعَشْرُونَ كَوْنًا

سورة توبہ: میرے رسول، چھ مدنی تہ پتہ چھ لاکھ ہفتہ تہ کترہ آیہ بیہ چھس شرہ رکوع۔

اللہ (تعالے) تہ تہندس رسولہ ہند طرفہ چھ (دین
 آین ہنر) تمن مشرکین (ہند الزامہ) نشہ بڑی گڑھنک
 اعلان کرتہ یوان ایمن سستی توہہ شرط گوندت اوکو
 (تہ تمہنر سپر جیت تہ ہم ہارن)۔
 پنا نچہ ملک عربس منز ثرون دین چھہ تہہ وچھوتہ
 زانو ز توہی ہیکون ہ اللہ (تعالے) ہارنا و تھہ بیہ
 یہ (تہ ہارن) ز اللہ (تعالے) تراو کافرن رسوا
 کرتہ۔

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ
 عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰﴾

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
 وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ عَيْرٌ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكٰفِرِينَ ﴿۱۱﴾

اللہ (تعالے) تہ تہندس رسولہ ہند طرفہ چھ تمام
 نوکن حج اکبر کس دوہس پیہہ اعلان (کرتہ یوان) ز
 اللہ (تعالے) تہ (یتھہ یا طو) تہند رسول تہ چھ
 مشرکین (ہندو ساروہے الزامو) نشہ بڑی گڑھنک۔
 (تہ مکہ چھ فتح سپرست) لہذا اگر توہی (یہ نشاہ

وَإِذْ أَنْتَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ
 يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ ۗ وَرَسُولُهُ ۗ فَإِنْ تُبْتُمْ
 فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا
 أَنَّكُمْ عَيْرٌ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ

لہ براءتہ نفلس چھ تہ معنی لاکھ گووہ بزار مرصن دویم گووہ الزامہ نشہ آزاد مرصن۔
 نیت ہن چھ دویم معنی جاہ مناسبت۔

الَّذِينَ كَفَرُوا يَعَذَابُ اللَّهِ ۝

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ثَمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ
شَيْئًا وَلَمْ يُظَاكِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَدًا قَاتِلْتُمُوهُمْ
عَاهِدَهُمْ إِلَىٰ
مَدِيْنَتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ ۝

فَإِذَا أَسْلَمَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ
فَاتُّلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَ
أَحْضِرُوهُمْ وَاقْبُدُوا لَهُمْ
كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

وَأَنْ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
اسْتَجَارَكَ فَآجِرُهُ حَتَّىٰ
يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَهُ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْلَمُونَ ۝

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ
عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ
رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا
لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ

صحیحہ) توبہ کرو تو یہ آسہ تمہیں خاطر کرتے۔
تو اگر توبہ کرے تو پھر چھوڑ دینا توہمہ کیلئے
ہرگز اللہ (تعالیٰ) ہر توبہ سے - یہ دوسرے کفار کی خبر
نہ تمہیں خاطر ہے کہ کروٹھ غلاب (مقدر)۔

وہی گوئے مشرکوں اندر ہیں سب توہمہ سے
کوہت چھو، پتہ کر نہ، جو معاہدہ چھڑا
(بیکل کاہنہ) حرکت توہمہ نجات کوڑکھ نہ کاہنہ
اتھروٹ۔ توبہ کرو تہند عہد برابر اتھن
(عہد) ہندس (گنہگتھ) معیادس تام (تو
تمہ کوڑکھ ملکہ مشرک - اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک
متقین لول بران۔

یہیہ تم زور رچھ گدن بین مشرک (عربہ بین کاہن
سب توہمہ چھو، پتہ کر نہ، جو معاہدہ چھڑا
اوس گمر پتہ تہ بیہور نہ اتھن معاہدس کن رغبت
یہیہ زن تم اس امر بروٹھے مسلمان سب توہمہ
تو مشرکین ہنریہ خاص جماعت سیتین تہ لیون
(دستین) گروون قتل توہمہ زووکھ توہمہ
قلعن مشرک) بند توہمہ خاطر بہو پرتھ زاگر
روز نہ چہر چاہ (کوس) پتھ روڈ اگر تم توبہ کرن
تہ نماز قائم کرن توہمہ زکاۃ دن سیدہ تراوہمہ
تہنر و تھ سب توہمہ - اللہ (تعالیٰ) چھ یقینا بوڈ
بختن وول (تو) چھری چھری رحم کرن وول۔
بہ اگر مشرکوں اندر تریہ کاہنہ پناہ منگی تہ تس دپناہ
یوتام سہ اللہ (تعالیٰ) سہ کلام بوڑ، پتہ و اتاوان
سہ سب توہمہ چہر چاہ تام۔ تکیا نہ سہ چھ تہنہ
قوم بس (حقیقت) چھہ زانان۔

اللہ (تعالیٰ) تہ تس رسول کہتہ پاٹھو بہکن مشرکین
سب توہمہ عہد پمان کر تھ، اتھو مشرکوں وراہی بین سب توہمہ
مسجد حرامس ہنش توبہ عہد کوہت اوسو۔ لہذا یوتام تم
(توبہ معاہدہ) سینس عہدس پتھہ قائم روزن توبہ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ①

تہ روز و رات میں سستی معاہدس پیٹھ قائم اللہ تعالیٰ
چہ (عہد پھڑاؤ نہ رہے)۔ بچن والے پسند کران۔

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا
فِيكُمْ إِلَّا ذَمًّا يَرْضَوْنَكُمْ
يَأْفَؤْهِمْ وَأَتَابِي قُلُوبُهُمْ ذ
أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ②

(اگر تمہیں کین مشرکین) کتھ پانگو (پسے کاٹھہ رایت
دہن) سکیا ز اگر تم توہہ پیٹھ غالب گزھن تم کرن
تہ زانہ تہ تہنہز گنہ اُستثنای یا معاہدک پرواے
تم چھو توہہ پسند دہنہ (چھو کتھو) سستی خوش
تھاوان۔ حالانکہ تہندک دل چھو (تمن کتھن) انکار کران
تہ یو مشر چھو واریاۃ عہدو پیمان پھڑاون والی اسن۔

إِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ③

تمو چھ اللہ تعالیٰ بندو ایو بدل اکھ دوسر پاسے
مول زومت تہ تنہز و تہ نشہ چھاکھ لوکھ) ہتھ
رُو دتہ۔ تہندک اعمال چھ بے شک سٹھا پچھ۔

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا ذَمًّا وَ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ④

کاتھہ مؤمنہ بند حقہ تہ چھنہ تم اُستثنای ہند معاہد کران
تہ نہ کتھ عہد پیمانک۔ بیہ چھ تم صلہ نمبر پیرتھ
کھاتھو۔

فَإِن تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ
آتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا نَكُمْ فِي الدِّينِ وَ
لُفْضِلْ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤

اد اگر تم توبہ کرن، تہ نماز قائم کرن تہ زکوٰۃ دن۔
تیلہ چھو تم دپس اندازہ تہندک بائی۔ تہ اُس چھو (پنہ)
آپ علیہ والہ توہہ خاطر واش کڈی کڈی بیان کران۔

وَإِن تَكْفُرُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ
عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ
فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ
لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ⑥

بیہ اگر (پیم لوکھ) پسند عہد پیمانہ پتہ پتہ قسم
چھڑاون تہ تہندس دپس متعلق پامو دن تہ نہ
ٹرن اد (یقین) کھڑکین سردارن سستی کرو لڑائی
یچھ دن تم بد ڈالو نشہ بازین سکیا ز تہند پتہ سن
ہند پچھتہ کاٹھہ اختیار۔

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
وَ هَمُّوْا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ
بَدَّؤُكُمْ أَكْذَابًا اتَّخَشْتُمْ لَهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ⑦

اے مؤمنو! کیا توہی کرو ناتھ قومس سستی جنگ
یو پیٹھ قسم پھڑاؤ تہ پیغمبر (تہندگ مشر)
کڈنک کڈنک قافلہ تہ توہہ سستی (جنگ کرنک) کڈر
تموے ابتدا کیا توہی چھو اتھن کھوژان؛ ہگڑا
توہی مؤمن چھو تیلہ زانہ ز اللہ تعالیٰ) پچھ امہ
کتھ ہند جاہ حقدار نہ توہی کھوژو تس۔

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ
بِأَيْدِيكُمْ وَ يَخْزِيهِمْ وَ يُنْصِرْكُمْ

اتھو عذاب تہ بیہ کر بکھ سزا۔ تہ توہہ دکی و اتھن

پیچھے غلبہ ہے تمہرے سستی دیر مومن تو تم کہیں دین (پہلے) ہے
تو خوف نہش (نجات)۔

بیر کر تہندین دین ہند غنمہ دور ہے اللہ (تعالیٰ)
یس پیچھے پیشواں چھ (اس پیچھے) چھ فضل کران۔ ہے
اللہ (تعالیٰ) چھ سہمازان دول (ہے) بوز حکمت دول
کیا تو ہی چھوا خیل کران نہ تو ہی بیو تھے تراویہ؟ مولک
ونیک تام کرے ہے اللہ (تعالیٰ) ہن تم لوگ نہ
بیو تو ہی منتر جہاد کوزمت چھ (ہن مقابلہ بیو نہ جہاد
کوز) ہے ہم اللہ (تعالیٰ) ہس ہے تہندس رسول
ہے مومن مقابلہ کافر سستی ترور ترعبیر سانہ سانہ
تھاوان چھہ ہے اللہ (تعالیٰ) چھ تہندین اعمالن
ہند زبر پاٹو واقف۔

(یقین) مشرک چھہ کانہ حق و اتان نہ اللہ (تعالیٰ)
ہنتر مسجد کرن آباد۔ ینہ تم پینن تران پیچھے
(پانہ) کفر چھ گواہی دول چھ۔ کے لوگ چھ ہنتر
اعمال برباد ہے ہے تم گرتھن انکس ز پٹس
مدتس تام نارس منزے روزان۔

اللہ (تعالیٰ) ہنتر مسجد ہے چھ سے آباد کران یس
اللہ (تعالیٰ) ہس ہے آخر ہے کس وہ ہس پیچھے ایمان
انان چھ بیو چھ نماز قائم کران، بیو چھ زکواہ دولان
بیو چھہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی کانس کھوزان
لہذا عنقریبے ہن پیچھ لوگ کامیابی کن ہنتر۔

کیا تو ہی چھوا حاجین تریش چاونی ہے خانہ کعبہ
آباد تھاوان تس شخہ ہندر (یعنی تہنتر کامہ
ہندر) پاٹو زومت؟ ینہ اللہ (تعالیٰ) ہے آخر
کس وہ ہس پیچھے ایمان اون بیو کوزن اللہ (تعالیٰ)
ہنتر و تر جہاد۔ ہم (دوڑے ڈرے) چھہ اللہ
(تعالیٰ) ہس ہنش (ہرگز) ہوی۔ ہے اللہ (تعالیٰ)
چھہ نظام توس نہ ہے کامیابی کن ہنتر۔

(تم لوگ) بیو ایمان اون ہے بیو ہجرت کر ترابیر

عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوقَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۷﴾

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، وَيَتُوبَ
اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿۸﴾

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ
اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ
يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ
وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَدَلِيلًا، وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۹﴾

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا
مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
بِالْكُفْرِ، أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۱۰﴾

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَسْ
إِلَّا اللَّهَ تَدْفَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا
مِنَ الْمُتَّخِذِينَ ﴿۱۱﴾

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَالْعِمَارَةَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
الْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ، لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ، وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۲﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَ

جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۱۰﴾

کوزکر اللہ (تعالیٰ) سزور و جہاد، پسینو مالو تہ جانو
سستی۔ تم چھ اللہ (تعالیٰ) ہس نش (رجس) مشر تقرر
پر اوتھ تہ تے لکھ چھ کامیاب سیدن والہ۔

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ
رِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا جَنِّمٌ
مُّقِيمٌ ﴿۱۱﴾

تہند پروردگار چھ اتن پسنتہ تھد شائہ واجتہ رحمت
خبر روان - بیہ (پسنہ) رضامندی تہ تحقیق
جنت ہنز تہ یکن مشر تہندہ باچتہ ہمیشہ روز و روزی
نعت آسہ -

خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا رِثَانًا اللَّهُ عِنْدَكَ
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۲﴾

اتن مشر گزھن (بتم) بسان (یاد تھا و ز) اللہ
(تعالیٰ) ہس بش چھ یقینا سہماہ بوڈ اجر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
أَبَاءَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِن
اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ فَوَدَّ أَنْ يَدْنُقَهُمْ
الْقَلْمُونَ ﴿۱۳﴾

اے مؤمنو! پیڑی جدا جدا تہ بانی مہ بنا دیو لکھ (پیڑی
حقیقی) دوست، اگر تم ایمانہ مقابلہ کفرس سہتر جلا
محبت کران آن تہ توہر مشر ییم لکھ اتن سستی
پڑھ دوستی کرن تم آن بے شک ظالم۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَ إِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَ أَمْوَالٌ يُقْتَرَفُ مِنْهَا وَ تِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ جِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرِهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿۱۴﴾

تہ ون (مؤمن) نہ ہرگاہ تہندہ جدا جدا تہ تہندہ
نیجی تہ تہندہ بانی تہ تہندہ آئینہ تہ تہندہ (بیہ)
آشناو تہ تم مال ییم توہر کمادہ ہتی چھو،
تہ تم تجارت یکن ہندہ تھارہ تہ توہر کھوژان
چھو، تہ تم مکان ییم توہر پسند کران چھو، توہر
اللہ (تعالیٰ) ہند، تہ تہندہ رسو لہ ہند کھوتہ
تہ تہندہ و تہ جہاد کرن کھوتہ جادہ لکھی چھو سیدہ سارہ
توہر، یوت تام اللہ (تعالیٰ) پین فاصلہ نون
کدہ تہ اللہ (تعالیٰ) چھتہ اطاعتہ نمبر نین
و اہس تومس نہ ہے (کامیابی ہنز) دتھ ہاولن۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ
فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَ ضَاقَتْ
عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ
دَلَيْتُمْ سُذُورًا ﴿۱۵﴾

اللہ (تعالیٰ) من چھو واریا من موقع پیچہ توہر
مدد کوزت (خاص کڑتھ) تھنن (کہ جتگہ)
کہ وہ ہر سیدہ توہر گرنیز مشر جادہ آسہ کہنہ
حکمر کر یوو۔ پتہ آوو نہ سہ (جادہ آن)
توہر گنہ بکار۔ تہ زمین گنیہ کھلہ ڈلہ اہستہ
(تہ) توہر پیچہ تنگ تہ توہر پھیر و تھرا وان

بجہ -

تہ اللہ (تعالیٰ) ہن کھر پینس رسولس تہ مؤمنن پیچھ
المہین نازل۔ تہ تمھو لشکر کن نازل پم تہ توہی دچھان
اُسو وکھ۔ بیہ دین کفارن عذاب تہ کفارن ہند جزا
پچھ پی۔

تہ اللہ (تعالیٰ) چھ پیچھ سزا پتہ، ایس پیچھ بیڑھان
چھ، رحم کرن تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپھا بخش دول
(تہ) چھیر کر چھیر کر رحم کرن دول۔

اے مؤمنو! مشرک لوکھ چھ بے شک گنہگار (تہ ناپاک)
لہذا مر بین تم میں دُریہ پتہ مسجد حرامس ایضے
خانہ کعبہس نزدیک تہ ہرگاہ توہر عزیز پی ہند خطر آسہ
و تہ اللہ (تعالیٰ) ہرگاہ بیڑھ تہ سہ بناو دو توہر
پستہ فضلہ سستی ضرور مالدار۔ اللہ (تعالیٰ) چھ
یقینا سپھا زانن دول تہ بوڑھ حکمتہ دول۔

پم لوکھ اللہ (تعالیٰ) ہس پیچھ ایمان چھہ انان تہ
نہ آخر تہ کس دہ ہس پیچھ، تہ نہ پیچھ تھہ حرام گنہگارن
یہ کیبتہ اللہ (تعالیٰ) ہن تہ کہند کہ رسولن حرام کورمت
چھہ بیہ چھہ یوز دین پراوان۔ ایضے تم لوکھ کین کتاب
دین آمتہر چھہ بہن سستی کرو (توت تام) جنگ
یوت تام تہ تم پستہ مرضی سستی جزیہ تہن تہ یوت
تام نہ تم توہر ماتحت ہین۔

بیہ چھہ یہودی ونان نہ عزیز چھہ اللہ (تعالیٰ) سہ
نیچو تہ نصرانی چھہ ونان نہ مسیح چھہ اللہ (تعالیٰ)
سہ نیچو، یہ (کہتہ) چھہ صرف تہ ہند زبانی لاف۔ تم چھہ
(صرف) پالس برنٹھو مین کفادن ہنن کہتن ہند
نقل کران۔ اللہ (تعالیٰ) کرن تم ہلاک، تم کہتہ پاٹھو
چھہ (اصلیتہ ہنہ) (دور گڑھان)؟

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى
رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنْزَلَ
جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِينَ
كَفَرُوا، وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ⑩

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى
مَنْ يَشَاءُ، وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَمَلِهِمْ هَذَا، وَ إِن خِفْتُمْ عَيْلَةً
فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، إِن
شَاءَ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑫

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَ لَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن
يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ ⑬

وَ قَالَتِ الْيَهُودُ عَرَبِيٌّ ابْنُ اللَّهِ وَ
قَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ،
ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، يُضَاهُونَ
قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ،
قَاتِلْهُمْ اللَّهُ لِيُؤْتِيَهُمْ قُكُوتٌ ⑭

لَا تَخْذُوا أَوْلِيَاءَهُمْ دُونِ اللَّهِ وَيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَالَى الَّذِي خَلَقَ مَا تُعْبُدُونَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا
 وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۰﴾

متو چھ اصحاب تہ رصبان اللہ تعالیٰ) ہس ورآئی پیتر
 پروردگار بناؤ کہ ہوتو۔ پیتھے پانچو مسیح ابن مریم تہ
 حالانکہ بہمن اوس صرف یہ حکم دینہ آمنت نہ تم کرن
 اگس خدایہ ستر عبادت بیئیس ورآئی کانہ معبود چھستہ
 سہ چھ تہندہ شکر ہشتہ پاک۔

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ أَن يُمِيتَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۱۱﴾

تم چھ بیٹھان ز اللہ تعالیٰ) سندر کرن تم پینہ
 دہنہ (کہو چھو کہو) ستر تھہستہ۔ مگر اللہ تعالیٰ)
 پتھ پین نور پور کرنہ ہوا ڈومیر پر پتھ کتھ ہشتہ انکار
 کران۔ اڈ کافر ن کوتاہ تہ برنگرتن۔

هُوَ الَّذِي آذَنَ لَكُمْ بِالْحُدُودِ
 الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُنْظِرَ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾

سے چھ نیچو پین پیغبر ہدایت تہ پوز دین ہتھ سوز
 پتھ زن (باتے) سار نے دین پتھ تھ غالب
 کر اڈ مشر کن مگر تن یہ کتھ جادے بر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرٌ
 مِّنَ الْأَخْيَارِ وَرَاضِيَ بِنُكْحُونِ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَا طِلِ وَيَصُدُّونَ
 عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
 أَلِيمٍ ﴿۱۳﴾

اے مؤمنو! واریاہ اصحاب تہ رصبان چھ لوکن ہندر
 مال ناسقہ کھوان تہ اللہ تعالیٰ) ستر وتہ
 ہشتہ چھ (لوکن) پتھ ٹان۔ بیہ تم لوکہ (تہ) کم
 سون تہ رہ چھ خزان بران چھ تہ تہ چھنہ اللہ
 تعالیٰ) ستر وتہ خرچ کران۔ بہن دیو کر ٹھہ غرابچ
 خبر۔

يَوْمَ يُخْضَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
 فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَابُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
 وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾

(یہ عذاب سپر) تمہ دہ ہدیلہ تھہ (سور تہ تھہ
 سولس تہ رہ پس) پتھ جہنمک نار بر بہرا ونہ پیہ
 پتہ جن تمہ (سور تہ تہ رہ پیہ) ستر بہت دین
 ڈوکن، لرن تہ تھرن پتھ داغ دہن (تہ آتی
 پیسکھ ونہ ز) یہ چھ سہ چیز یس توہی سبیلن زون
 بکیت خزان منتر سون بران اوسو۔ لہذا کم چیز توہی
 سون براون اوسو تہند ستر تہ ہو۔

لہ اخبار: امیک فاحد چھ جبر یا خبر مطلب چھ یہودی عالم دین۔
 لہ رصبان: امیک واحد چھ راہب مطلب چھ عام طور عیسائی درویش۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمَةٌ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقِيَمَةُ فَلَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۰﴾

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَدَيَحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤَاظِمُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سَوَاءٌ أَعْمَلُوا بِهِمْ وَدَالَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰﴾

بے شک چھ ریہن ہنرگزہند اللہ (تعالیٰ) ہس نش باہ ریہتھ آسان۔ یہ چھ اللہ (تعالیٰ) سہد قوون۔ تہ وہ ہر پیٹھ ییلہ تہو آسان تہ زمین یاد کرے ہستی چھ۔ میو رہتہ منتر چھ نرور عزتہ والہ ریہتھ (دوسرہ لیوان)۔ یہ چھ مفیظہ دین۔ لہذا (پہرے نہ) یکن ریہن منتر مہ اسو پستہن زون پیٹھ نلم کران۔ تہ ساری بے مشرکن سستی کر دہنگ یقہیا طہ تم ساری سہتھ توہہ سستی جنگ کران چھ بیہ تھادو یلا نہ اللہ (تعالیٰ) چھ متیقن سستی۔

نسیء وہ چھ صوف کفر کر زمانچ جادتی۔ یہہ سستی کافر لوکھ گمراہ روزان چھ۔ تم چھ تھہ اگر ڈریہ حلل گنزلوان تہ دویمہ ڈریہ یہ چھس حرام عظیمہوان یٹھ تم ریہن ڈریہ چھ مقرر کرہ آمرتہ گرنیز برابر کرن تہ بہن ریہن مطابق کرن یکن اندر جنگ کرن منع بٹھ (تہ پانہ کر مشر تبدیلی ہند باعترہ یس اختلاف سپد مت چھ سہ کرن پڑا)۔ تہندین اعمالن ہنر خرابی چھید (شیطانہ ہند طرف) جن خوش شکل کر تھہ داہہ آمرتہ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ کافر تومس کامیابی ہنر دتھ ہاون۔

۱۔ مومنو! توہر کیا چھو گومت؟ ر یہیلہ توہہ دنہ چھو ملوان نہ اللہ (تعالیٰ) ہنر و تہ جنگ کرہ ہو کوکھ نہرو (ساری سہتھ) تہ توہر چھو سپنس وطنس (سستی محبت اہتھ تھہ) کن نمان۔ کیا توہر چھوا آمرتس مقابلہ ڈی بیج زنگ پس کران؟ (ہر گاہ ترشہ سنورت چھید تسیلہ تھادو یاد نہ ڈی پہر چہ زہدگی ہند ساما تہ چھہ آمرتس مقابلہ محسن اکھ ادلے چہر۔ اگر نہ توہر (ساری سہتھ اللہ تعالیٰ ہنر و تہ) لڑا تہ خاطر نہرو سہ دی و توہر اکھ کر لوٹھ عذاب۔ تہ توہر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۱۱﴾

إِلَّا تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ

شَيْئًا، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۱﴾

بیل ابنہ بیاکھ اگھ قوم اڈ توہم ہیکو نہ تس (یعنی اللہ تعالیٰ ہس) کاشہ نوقعان وائتائتھ۔ تہ اللہ تعالیٰ) چھہ پرستہ پچہزس پیچھ (یعنیہ کہ کرنک سہ ارادہ کر) قدرت تھون دول۔

اگر توہم اُمس رٹولہ سہ مدد کرو نہ اڈ (یلا تھالہ نہ) اللہ تعالیٰ) ہن چھہ تس تہر وقتہ تہ مدد کورتہ سیدہ سہ کابرو دھو مفر اُمس طورتس مفر کجاوہ بیلہ تہ دولتہ گوجہ مفر اُمس تہ سیدہ سہ پستس سوتی باچس (ابوبکرس) دنان اوس نہ مسہ برہم۔ اللہ تعالیٰ) چھہ یقینا اسہ سوتی لہذا کوز اللہ تعالیٰ) ہن تس پیچھہ پین کچن تا نزل۔ بیہ کوزن تس تھتھو لشکر و سوتی مددیم تہ توہم و پچان اُسی ولکہ۔ تہ ہمن کون ہنرکتہ کرن وُسی پایہ ہجو کفر کورت اوس تہ اللہ تعالیٰ) ہنرے کتھ چھہ سبھا تھہ پایہ سیدتھ روزن تہ اللہ تعالیٰ) چھہ بُوڈ علمہ دول تہ حکمتہ دول۔

اے مومنو! توجھو جہاد خاطر نہرو، اڈ توہم سلح سامانہ وراڈی اُسی تو یا سلح سامانہ ہتھ، بیہ پستھو مالو تہ پستھو جافو سوتی کرو اللہ تعالیٰ) ہنر و تہ جہاد۔ بیہ اسہ تہہر کیت سبھا بہتر اگر توہم زانان چھو۔

اگر وُل وُل میلن دول فایدہ آسہے یا تھوٹ سفر آسہے تیار نہیرہے۔ ہم لوکھ تریہ پتہ پتہ مگر ہمن آو منزلیہ دور لینہ۔ ایا پوز (تم ووزی چانہ واپس بیہ پتہ) اللہ تعالیٰ) ہنر دہے کرک کرک ورن نہ ہر گاہہ ہیکتھ آسہے تہ اُسی نہیر ہو منور تہہر سوتی۔ پستھن ترون چھہ پایم لوکھ) ہاک کرن تہ اللہ تعالیٰ) پیچھہ زانان نہریم چھہ ایز یارک۔

اللہ تعالیٰ) ہن کوز چانہ طعلی ہتھہ بداتھ ختم تہ تریہ

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَغْيًا أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الثَّغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْرُجْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَانْزِلِ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۱﴾

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَالْجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّفَّةُ وَ سَيُخَلِّفُونَ بِاللَّهِ لِيُؤَسِّطَ لَنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۲۱﴾

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ إِذْ نَتَّ لَهُمْ

۱۔ یعنی ہجرت کر وقتہ۔
۲۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ﴿۷﴾

دست سے عزت مگر آخر تری کیا نہ دڑاتھ کین (اجازت
ملن ولین) پتھ روز تک اجازت (تری پڑ ہی جن
نیرس پیچھ دار کرنی) یوت تام یوزون واک تری نش
ظاہر سیدین تہ شہ نراتہ کھ ایزارک تہ (پانے)
یم اللہ تعالیٰ) ہس تہ آخر تہ کس وہ ہس پیچھ
ایمان انان چھہ تم پیچھہ پینبو مالو تہ زوو سوتو
جہاد کرتہ رہتہ۔ پچک اجازت منگان۔ اللہ تعالیٰ) چھہ
حقین زبر پاٹو زانان۔

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ
بِالْمُتَّقِينَ ﴿۸﴾

پتھ روز تک اجازت چھہ صرف تم منگان یم اللہ تعالیٰ
ہس تہ آخر تہ کس وہ ہس پیچھہ ایمان چھہہ انان تہ
تہندین دن اندر چھہ شک پاؤ گاوتی۔ اوے چھہ تم
پینبو شکو کتی مجھے اور تہ مجھے یور اسان۔

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاتَّابَتْ
قُلُوبُهُمْ فَمَنْ فِي ذٰلِكُمْ
يَتَرَدَّدُونَ ﴿۹﴾

بیہ گرتن (جنگس) نیر تک پونہہ ارادہ آسہے تیلہ
کرین تم تہ خاطر کانہہ تیاری تہ۔ مگر اللہ تعالیٰ
ہن کوزہ تہند (جنگس) نیرن پسند۔ لہذا تمھارن
تم تہنری جایہ بہتاوتھ۔ تہ جن آویہ ونہہ (یعنے
تہند پو کا فر دستو دوٹھ) نہ یم لاکھ بہتھ روزان
چھہ تینے سوتو روزو توہر تہ بہتھ۔

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ
عُدَّةً وَلَكِن كَرَاهَى اللَّهُ اتِّبَاعَهُمْ
فَتَبَطَّوهُمْ وَقَبِلَ اللَّهُ مَا كَانُوا
الْقَاعِدِينَ ﴿۱۰﴾

اگر تم توہہ سوتو رلیتھ نیرین تہ تہ خرابی پاؤ کرنہ
ورایہ کر ہونہ توہہ کانہہ اتھ روٹ۔ بیہ دورناون
تم توہہ دربان پینو گری (فساد کرتہ خاطر) (تہ توہہ
منز قبتہ پاؤ کر پرخ کرین خاطر تہ توہہ منز تہ چھہ
کینہہ تھو (لاکھ موٹو) یم تم تام واتناون خاطر
کتھہ یوزان چھہ۔ تہ اللہ تعالیٰ) چھہ ظالن زبر پاٹو
زانان۔

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُواكُمْ إِلَّا
خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَافَكُمْ
يَبْغُونَكُمْ الْفِثْنَةَ وَفِيكُمْ
سَمْعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾

تمو اوس امر بروٹھ تہ قبتہ (نوزلان) یوزھمت تہ
چانہ باپتھ اسیکھ حالات رنگہ رنگہ بدلوک ہتہ۔ یونام
نہ حق آویہ تہ اللہ تعالیٰ) مند قاملہ سپڈ نون
تہ تم اسماہ قاملہ ناپسند کران۔

لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِثْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ
قَلْبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ
وَوَهَّرَ أَمْرًا لِلَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۱۲﴾

بہ چھ ہجرتوں میں کیے (مناقی) تھو تو ہم دن چھ
 نہ اسے دیو (پچھ روز تک) اجازت تہ اسے مستہ
 تہاڑی تو (جنگل گھرنہ چہ) آزمائشہ منتر - (پہ)
 تھوہ بوزہ (نہ) ہم لاکھ چھ ہجرتوں میں ہر روز چھ
 آورے ہجرت - تہ یقیناً چھ ہجرتوں کا فرنگ تباہ کرن دول
 اگر تہیہ کا نہہ قایدہ واتی تہ ہجرت چھ بدلیان - تہ اگر
 تہیہ کا نہہ مصیبت یہی تہ ہم چھ دنان - اسے اوس
 بروٹھے پیش پہن دہین دہین ہند انتظار کورمت
 تہ ہم چھ خوشی سان تھہ چھرتہ نیران -

تہ دن ہجرت، اسے تہ چھ تی (تکلیف) واکن یہ
 اللہ (تعالیٰ) ہن سانہ خاطر مقرر کر تھہ تھوومت
 چھ - سہ چھ سون کار ساز تہ مؤمنین ہجرت ہم
 کرن اللہ (تعالیٰ) ہسے پیٹھ تول -

تہ دن (ہجرت) نہ توہی چھ نہ دہیو جانہرو منتر
 اگر ورائی سانہ خاطر گنہ کتھہ پران تہ اُسے چھ
 تہندہ ہاچھہ صرف اللہ کتھہ پران نہ اللہ (تعالیٰ)
 واتناوہ توہر پسنہ طور یا سانہو اتھو عذاب - لہذا
 توہی تہ پرانہو، اُسے تہ پیارو توہر سہو -

تہ دن ہجرت، اگر خوشی سان خرچ کرکے تو یا ناخوشی
 سان - توہر ہنش پہن نہ کئی مولتس منتر (تہندہ صحتہ)
 قبول کرہ - سکیا نہ توہی چھو اطاعتہ تلہ ہیر نیران
 دول قوم -

بہ کئی (چیزن) چھ تہندہ صدقہ قبول کرن تھوہ
 کورمت ماسوہہ اہر کتھہ نہ ہم چھ اللہ (تعالیٰ)
 سہ تہ تہدیر رولہ سہ انکار کران تہ نماز اُسے کاہلی
 سان ادا کران تہ خلیہ ہجرت و تہ اُسے ناخوشی سان
 خرچ کران -

لہذا تہندہ مال تہ تہندہ اولاد نہ تہاڑی نہ تہیہ
 تعییس منتر - اللہ (تعالیٰ) چھ صرف یہ ہیر سان
 تہو (مالو تہ اولادو) دُسی دہ ہجرت یہہ دُسیس

وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ اِذْ ذُنَّبْنَا وَ لَآ
 تَفْتِنُنَا اِلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَا وَا
 جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ۝۱۱

اِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَاَسْئُرْهَا وَاِنْ
 تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ فَاَقْبَلْهَا وَاَقْبَلْهَا
 اَمْرًا وَاِنْ قَبُلْ وَاَيْكُلُوا وَاَهُمْ
 قَرِيْبُوْنَ ۝۱۱

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا
 هُوَ مَوْلَانَا وَاَعْلَى اللّٰهِ قَلِيْبُوْنَ
 الْمُؤْمِنُوْنَ ۝۱۱

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلَّا اِحْدَى
 الْحُسَيْنِيْنَ وَاَنْحُنُ كَتَرَبَّصُ بِكُمْ
 اَنْ يُصِيبَكُمْ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ
 عِندِهِ اَوْ يَأْتِيَنَا بِقُرْبٰنٍ وَّاَبْصُوْا اِنَّا
 مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ۝۱۲

قُلْ اَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَنْ
 يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ وَاِنَّكُمْ كُنْتُمْ
 قَوْمًا فَاسِقِيْنَ ۝۱۲

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ لَقَفْتَهُمْ
 اِلَّا اَنْهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَا
 يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كَسَالٰى وَا
 يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كَرِهُوْنَ ۝۱۲

فَلَا تُخْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ
 اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي
 الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاَتْرَهَقْ اَنْفُسَهُمْ

وَهُمْ كَفِرُونَ ﴿۵۱﴾

مشرک غلاب - بیہ زہر تہندہ زو نیرن تہتہ وقتہ
زہتم آسن منکر ہے -

وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِثْكُمْ
وَمَا هُمْ بِمِثْكُمْ وَلَا كُنْتُمْ قَوْمٌ
يُفْقَرُونَ ﴿۵۲﴾

بیہ چہرہ تم بیتہ کتہ پیچہ اللہ (تعالیٰ) ہنزد رہے
تاوان زہتم چہرہ تو ہی مشرک، حالانکہ تم، چہنہ تو ہی
مشرک۔ بلکہ چہرہ تم اگہ ترہہ جماعت یوہہ سببت
بزدل چہیہ -

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا مَّغْرِبًا أَوْ مَدْخَلًا
لَّوَلَوْ اِلَّا بِهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ﴿۵۳﴾

اگر تم کا نہہ پینہ رخ جائے یا کھلے روزنہ بایتہ
گھوچہ یا پتہ روزنہ خاطر کا نہہ ٹھکانہ لین تو تم
گڑھن تھہر پھرتہ کتہ دوان -

وَمِنْهُمْ مَّن يَّتْلَمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ
فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ
يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَشْخَطُونَ ﴿۵۴﴾

بیہ چہرہ تمو مشرکینہ (منافق) تہتہو یم صدق
متعلق خریدہ ہنرہ لاکن چہ - اگر کیو صدقو مشرکینہ
ہتمن تہ دہ پیہ تیلہ چہرہ تم رافعی سپدان -
تہ اگر تمو صدقو مشرکینہ ہتمن دہ پیہ تہ تہ تم

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
رَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
سَيُؤْتِينَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
رَسُولَهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿۵۵﴾

چہرہ کیم ناراض گڑھان -
بیہ اگر تم اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس رلوہ سہندس
عنایت کرنس پیچہ خوش سپدان تہ یہ ونہ من زہ
اللہ (تعالیٰ) ہے چہ سائہ خاطر کائی داکر اسہ
تعلی سپد تہ اللہ (تعالیٰ) دہ اسہ پسنہ فضلہ
سوتو، تہ (بیچہ پاکو) تہد رسول تہ - اسی
تہ چہرہ پسنس اللہ (تعالیٰ) ہس کون من والی
ادہ یہ سپد ہے تہندہ خاطر سبھا جان -

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَاللَّهِ أَكْبَرُ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۶﴾

صدقہ چہرہ صرف فقیرن تہ مسکین ہندہ خاطر بیہ
جن ہندہ خاطر یم تم صدقہ سونراونہ خاطر مقرر
کرنہ آمتو چہرہ بیہ ہتمن کتہ تہندہ بل (پانسہ
سوتو) رلاونی مدعا آسہ - بیہ یچہ پاکو قیدین
تہ قرضدارن کتہ (بیہ ہتمن کتہ یم) اللہ (تعالیٰ)
ہنزد ورتہ (جنگ کران چہرہ) بیہ مسافرن کتہ - یہ
چہرہ اللہ (تعالیٰ) تہد مقرر کوننت قرمن تہ

یہ یعنی ہم لاکھ سخیوں کے لیے اس سے متعلق تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ضرورت آسے تو تہندہ
گڑھہ کرن - یہ مطلب چہرہ کفار گڑھن دیار دتہ مسلمان کرنہ۔

اللہ (تعالیٰ) چھ سیٹھا زان وول (تر) بوڈ
حکمت وول -

بیس چھ تھو منتر کئیہ بتھو (منافق) تر یکم نیس
ڈکھ دولن چھ تر ونان بھو نہ سہ چھ (کئیہ) کن بلہ
ٹر وکھ نہ سہ چھ تہند خاطر جانر بوزنگ کن
تھاوان - سہ چھ اللہ (تعالیٰ) بس پیٹھ اپمان
انان بیس یکم توہر منتر مؤمن آسن بہن (ہند بن
وعدن) پیٹھ (تر) چھ پڑھ تھاوان بیس چھ مؤمن
ہند خاطر رحمت ہامت تر تم لاکھ یکم اللہ
(تعالیٰ) ہندس رسول ڈکھ واتاوان چھ، بہن کیت
چھ کر لکھ عذاب -

تم چھ توہر نعتش کرتے پاتھ اللہ (تعالیٰ) سہن
درہے کران - حالہ اگر یکم (منافق) پڑی مؤمن
آسن تر اللہ (تعالیٰ) تر تر تند رسول تر چھ
جادر عقدر نہ تم بن نعتش کرتے -

بہن چھنا پے نہ میں کانہ اللہ (تعالیٰ) تر تہندس
رسول پڑھتے کراں چھ تہند خاطر چھ جہنمک
نار (عقدر) سہ گڑھ تھہ اندر روزان - بیس یہ
چھ پڑ باہر رسوا بی -

منافق چھ (باہر خاطر) کھوڑنگ اظہار کران تر بہن
خوات گورہ نہ کانہ سور نازل سیدن - بس بہن
(تر مسلمان) تھو کھویش خیر دار کر بیہ تہند بن
دلن منتر چھینے - ٹر وکھ! کران گڑھو اسہ ہنا!
اللہ (تعالیٰ) کڑ بے شک سو کھہ نئے سیمہ (کر
ظاہر کرے) نشہ توہر (اُجھہ تا جھہ) کھوڑان چھو -
بیس اگر تر بہن پڑھاکھ (نو توہر کیاہر چھ پڑھ کھہ
کران ۱) اہر تم دنو (توہر) ضرور یوہے جواب (تر)
اس تر اسے صرف طعنے مولا کران - ٹر دیز بہن

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنَىٰ أُنْثَىٰ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُوْا مِنْ لَدُنْهُمْ مَن يَتَّبِعُ لِمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَآلِيهِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُضِلَّكُمْ وَآلَهُ وَرَسُولَهُ أَحَقُّ أَنْ يُضِلَّوْا إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنِ يُعَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿۱۷﴾

يَخَذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَغْفِرُوا إِذْ جَاءَ إِيَّاكُمْ مَخْرِبَةٌ مَا تَخَذَرُونَ ﴿۱۷﴾

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ يَا آلِهَةَ وَآلِيهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿۱۷﴾

لے لینے کو چھ کچ یا کنہ لہڈ چھ تر پرتھ کانہ ہنر کھہ چھ پڑھ کران -

جواب۔ زکیا تو ہی اسی والا اللہ (تعالیٰ) ہے، تندرین
آین تہ تندرین رسول سستی کھٹھہ مخولہ کران ؟
وہ فی مہ کرو کاٹھہ عذر۔ توہہ کورڈو ایمان اٹھہ کفر۔
(لہذا ایک سزا لیو) اگر اسی توہہ اندر اُکس
ڈریس معاف کرو تہ بیس اُکس جماڑہ دمو عذاب
او موکوہ نہ تم اسی مجرم (او یہ چھینہ سانی کلام)۔

منافق مرد تہ منافق زنانہ چیرہ پانہ وانی اللہ اُکس
ستی تعلق تھاوان۔ تم چیرہ بد کھتن ہند حکم دوان
تہ بڑن کھتن خلاف تعلیم دوان۔ تہ پینڑا تھہ چیرہ
(خدا یہ سزایوتہ خرچ کر تہ ہنس) پتھہ رٹان۔
تو تروو اللہ (تعالیٰ)۔ لہذا تراوی تم تہ اللہ (تعالیٰ)
ہیں۔ بے شک منافق چیرہ اطاعت نہ شہہ نمبر نین اولیٰ۔

اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ منافق مردان تہ منافق زنان
تہ کفارن سستی جہنمہ کر ناکر و عہد کورمت۔ تم
مگر تمہن اتھہ مفز روزان۔ سنے چھہ تہ بندہ (لوہر)
تو تہ پھرنہ) خاطر سپٹھا۔ امہ علاوہ چیرہ اللہ (تعالیٰ)
ہن تم (پسنہ درکاہ مفز) کڈ تھہ تہ تہ صستی تو
یہ چھہ تہ بندہ با پتھہ اکھ قائم روزان دول عذاب
(مقرر)۔

(اے منافقو! یہ عذاب آسہ) تمہن لوکن ہندہ
عذاب کر پٹھو پیم توہہ بروٹھ گڈرے ہتو چیرہ۔ تم
اُسو تہ بندہ کھوتہ جاوہ طاقتہ واری۔ تم اُسو جاوہ
مال تہ اولاد تھوان۔ لہذا ہتوتل پسنہ حصہ
مطابق قایمہ تہ توہہ سٹو پسنہ حصہ مطابق
قایدہ۔ پتھہ پٹھو توہہ بروٹھ لاکو پسنہ حصہ
مطابق قایمہ تہ۔ یہ کورڈو توہہ تھتو پٹھو
ٹھٹھہ مخولہ ریتھہ پٹھو توہہ لاکو ٹھٹھہ مخولہ کورمت
اوس۔ دنیاہس متعلق تہ تہ اُخرتس متعلق تہ
تہ بندہ اعمال گئے ضایع۔ تہ تم لاکھ سپدی توتھان
تمہن واری (یعنی تمہن سستی شامل)۔

لَا تَغْتَرِبُوا ذُوقُوا كَفْرًا ثُمَّ بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ إِنْ تَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ
مِنْكُمْ تُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا
مُجْرِمِينَ ﴿۱۰﴾

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ
بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ
يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ
فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ
الْفٰسِقُونَ ﴿۱۱﴾

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ
الْكُفَّارَاتِ تَارِكَةً خِيْرَتِنَ فِيهَا
هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ
لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۱۲﴾

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا
أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكْثَرَ
أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا
بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَ
خُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۳﴾

کیا تمہیں بتس وادبناہ تمہن لاکن ہنر خبر؛ یم
 تمہن بروئٹھ گڈرسے ہوتو چیر (یعنی) نوح تہ
 عاد (ہند قومچہ) تہ تمود (سند قومچہ) یس
 صالح (سند قوم اوس) تہ ابراہیمہ ہند قومچہ
 چیر، بیہ مذہبن کہن لاکن ہنر بیہ (لوطہ ہند
 قومچہ چین) دہر چیرہن آمرن بستریں ہندین
 لوکن ہنر (خبر) تمہن ہنس آسہ تہندو رسول
 کھلہ نشانہ ہتھ آہتی (مگر تم کو کور انکار تہ لو کہ
 سزا) اللہ (تعالیٰ) ہن کور تہ تمہن پیٹھ ظلم
 بلو کہ آسہ تمہن بینین نرون پیٹھ (پانے) ظلم کرن
 بیہ چیر نمون مرد تہ نمون زنانہ پانہ وانی اکھ اکر
 ہندو دوست، تم چیر نیک کہتن ہند حکم دوآن
 تہ بد کہتھن ہنس چیر پتھ رمان۔ بیہ چیر نماز
 قائم کران۔ بیہ چیر زکوٰۃ دوآن۔ بیہ چیر اللہ
 (تعالیٰ) تہ تہنس رسول ہنس اطاعت کران۔
 یم چیر ہتھو لو کہ نر اللہ (تعالیٰ) کر ضرور
 تمہن پیٹھ رحم۔ اللہ (تعالیٰ) چھ غلیہ وول (تہ)
 بوڈ حکمتہ وول۔

اللہ (تعالیٰ) ہن چیر نمون مردن تہ نمون زنانہ
 یقین جنن ہندو وعدہ کرے ہوتی یمن اند تہر
 پکان چھینہ تم روزن ہمیشہ ہتم منز۔ تہ ہمیشہ
 روزن والہن جنن منز۔ پاک روزن جاہن ہند
 (تہ چھ تھو وعدہ کورمت) تہ تمہر علو اللہ (تعالیٰ)
 ستر رضامندی چھینہ سار وہے کھوتہ بوڈ العام
 (یس جن میل) تمیک میلن چہ (سیٹھا) ہڈ
 کامیابی۔

اسے نبی! کفارن تہ منافقن ستر کر جو جہاد تہ
 جنن پیٹھ کرو (پونہ اتظام کر تھ) سختی (سان
 علیہ) تہند ہکاتہ چہ جہنم تہ سو چھینہ (روز تہ کر
 حساب) سیٹھا خراب جائے۔

اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۚ وَقَوْمِ
 اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَاصْحٰبِ مَدْيَنَ ۚ وَ
 الْمُؤْتَفِكٰتِ ۚ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
 بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ
 وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ
 اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ يٰۤاٰمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ
 الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيعُوْنَ
 اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
 اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
 جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
 خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسْكِنٍ مَّطْوِيْنَ فِيْهَا
 جَنَّتِ عَذِيْبٌ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۚ
 ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ
 الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَ
 مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَرِئَسَ الْمَصِيْرُ ۝

تم چھ اللہ (تعالیٰ) ہنزدہ سے کوان نہ تمو ڈوئی نہ
 کانہہ (بیچہ) کتھہ - بزہوسہ تہ تمو چھ کفرج کتھہ
 ڈوئی منتر - تہ اسلام ہنہہ چھ کفر کورمت - تہ
 (اسلامس جلالت) چھ کتھہ ترشن (کمزورہ) کتھن ہنہہ
 اراد کورمت بیچہ تم حاصل کرہہ ہیکن نہ - بیہ کر
 بتو مسلمان سیتو صرف امر موکھ دشمنی نہ اللہ
 (تعالیٰ) ہن تہ تہندہ رٹولن اسی تم پینہہ فضلہ
 سیتو مالدار بناوہ سیتو - لہذا اگر تم توبہ کرن تہ
 تی عرشہ تہنہہ خاطر تہ تہ اگر تم تھسہ چھرتھہ
 ترشن تہ اللہ (تعالیٰ) دیہ یکن ڈوئی میس اند
 تہ تہ اترس اندرتہ) کرلواٹھ عذاب - تہ بیہ
 بترا تہ پیچہ نہ آسہ کانہہ تہنہہ دوست تہ نہ آسہ
 کانہہ مدگار۔

بیہ چھ یو منتر (کیئہہ انسان) تہتو تہ پیم اللہ
 (تعالیٰ) ہس سیتو یہ عہد چھ کران نہ اگر نہ
 (اللہ تعالیٰ) اسہ پینہہ فضلہ منتر کینہہا
 دیہ تہ اسی کو ضرور تہنہہ وتہ صدقہ تہ اسی
 بنو ضرور نیک۔

تہ نیلہ تمو (خدایں) ہن پینہہ فضلہ سیتو مال عطا
 کور تہ تو کور تہنہہ وتہ سہ (مال) خرچ کرنس
 بخل تہ (پینہہ پرانین طرفین کن) پھیر واپس
 تہ (خداے تہ رٹولہ ہنزو کتھو ہنہہ) پھیر کتھہ
 گردانی کرہہ تھسہ۔

اد (نتیجہ سپد بہ نہ) تو کور تہنہہ ہن دن منتر
 نفاک سلسلہ تھہ دوہس تام تجاری نیلہ تم
 تس سیتو ملاقات کرن - نکلیا نہ بتو میں وعہ
 خدایں سیتو کورمت اوس بیچ کرہہ خلاف
 ورزی - بیہ امر کتھ نہ تم اسی ایز دنان۔

کیا ہن اوس ناپے نہ اللہ (تعالیٰ) چھ
 تہندہ کھٹتہ مشورہ (تہ زمان) تہ تہندہ

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ
 قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ
 إِسْلَامِهِمْ وَهَتُمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا
 وَمَا تَنقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَ
 رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَإِنْ يَتُوبُوا
 يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ وَإِنْ يَتُوبُوا
 يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
 مِنْ دَرِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۰﴾

وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَيْنَاهُ
 مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ
 مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۰﴾

فَلَمَّا آتَاهُمُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا
 بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۱۰﴾

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَى
 يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا
 وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿۱۰﴾

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ
 وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامٌ

الْغُيُوبِ ۝

تیرے واپس مشورہ (ترجیح) زمانہ - بیہوشی نہ
اللہ (تعالیٰ) چھ پورے پورے غائب چین کھن ہند
واقف -

یہ چھ (منافق) ہم مومنوں منہ خوشی سان
برونٹھ تیرے تیرے صدقہ دین والین ملانہ ترلمان
چھ بیہوشی تر ہم پسند (مختہ چیر) کس یہ
درائی (کاشہ) طاقت چھنہ تھولن - لہذا چھ (امر)
قربانی باوجود ہم (منافق) تمہن انا کران - اللہ
(تعالیٰ) دینہ تمہن (ہم تمہن شہید مخالف چھ)
امر مسخری ہند سزا تر تمہن واپس کر لیتے غلاب -

تر تہندہن طر مغفرت مگتہ یا متہ مگتہ (تمہن)
کیٹ چھ برابرے) امر تر تہندہن! پتہ سستہ لہ
تر مغفرت مگتہ تر اللہ (تعالیٰ) کر نہ زاہ تمہن
معاف یہ سپرد او کہی نہ تم کو اللہ (تعالیٰ) تر
تندس رسول انکار، تر اللہ (تعالیٰ) چھنہ اطاعت
تلمہ نین واپس قومس زاہ کامیابی ہنزوتہ ملوان -

(جہاد لہتہ) پتہ تراو نہ آہتر (منافق) چھ
اللہ (تعالیٰ) بندس رسول خلاف (کیٹہ) ہنہ
جایہ بہتہ روزن پیٹہ سبھا خوش تر ہمہ اوس
پستہ تر ووتہ پستہ مالو سستی جہاد کرن ناکار
زون مت - تر (اکھ اگس) اوسکھ وونمت
نہ ہتھس (شہدہ) گرس منہ مسہ نہرو
(کیوٹ لہتہ) جنگہ ٹا طر - تر وون (تمہن) نہ
جہنمک نار چھ (ہینہ گرمہ کھوتہ) جہاد سخت
کاش تمہن تر ہے نکر -

لہذا تمہن پز نہ ہم امن (پسندہ) اتھ فریب
کارای پیٹہ) کم پین تر پسندہ عملہ ہندس
جزہس پیٹہ وون جاہ -

پتہ اگر اللہ (تعالیٰ) تر یہ تمہن منہ اگس جہاد کرن
چھتہ انی تر ہم لوکھ مگتہ نے تر یہ (کسہ آہندہ)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ
لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ
مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ
خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ
يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا
فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا
لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

فَأَنْزَجْنَاكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ
فَأَسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ

جگہ باپتہ مرثعتک اجازت - تر وان بہن ز توہم
 آس و نہ نہ ہے تر (آئینہ) میہ سیتی (جنگس)
 مرثعتک اجازت تو زاہ تر لرو نہ توہر دشمن
 سیتی میہ ہمارہ رُو زتہ (مکیانہ) توہر آس و
 گوڈ بکر لٹ (پتہ) بہتہ روزن پتہ راضی کاہتر
 لہذا آسو (بروٹھ کُن تر ہمیشہ) پتہ روزن والہن
 سیتی بہتہ روزن -

بیہ اگر یکو مشرکانہہ مرثعتہ تر تس نہ آس نہ
 (جنازہ) نماز پران تر نہ آس نہ بہنتر قبر پتہ
 (دعا خاطر) استاؤ سپان - سیکانہہ تمو کوہر اللہ
 (تعالیٰ) تر تہنتر رسولس انکار بیہ چہ تم تہنتر
 حاس مشر مؤدر سیتی - نیلہ زن تم اطاعتہ ترش
 خارج مرثعان آس -

بیہ بہنتر مال تر بہنتر اولاد مہ تر آونے تر یہ
 تہنتر منز، اللہ (تعالیٰ) چہ صرف بیہ یشہلان
 تر تمو (مالو تر اولادو) دسی دیہ ستر بہنتر
 دنیاہس مشر عذاب بیہ یہ تر بہنتر زو نیرن
 تہتہ وقتہ تر تم آسن منکرے -

بیہ نیلہ کانہہ سوہر (بیہ کلمہ بہتہ) تازل سپان
 چہ - نہ اللہ (تعالیٰ) ہس پتہ اُلو ایمان تر
 تہنتر رسولس سیتی رُبتہ کرو جہاد تر تمو مشر
 چھی مالدار لوکہ تر یہ اجازت سکن، ہوان تر
 ونان چھی اسہ ترادی تو پتہ تہتہ تر آس بہنتر لوکن
 سیتی روزو ہم پتہ بہنتر والی آسن -

تم چہ اتھ کتہ پتہ خوش نہ تم سپان پتہ بہتہ
 روزن والہن قبیلن منز مشاہل اتہ بہنتر دن
 پتہ چہ مہر کر نہ آہتر - اما پوز بہنتر چتہ (پنہو
 بد اعمالو کنی) فکر تران -

مگر یہ رسول (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) تر
 تس سیتی رُو زتہ میو (خالیس پتہ) ایمان اؤنت

تَخْرُجُوا صِبْيًا بَدَاً وَ لَكُنْ تُقَاتِلُوا صِبْيًا
 عَدُوًّا ۱۰ لَكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ
 اَوَّلَ مَرَّةٍ قَاتِعُوْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ ۝

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا ت
 اَبَدًا ۱۰ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۱۰ لَكُمْ
 كَقَوْلِ الْبِائِسِ وَ رَسُوْلِهِ وَ مَا تُوَا ۱۰
 هُمْ فَيَسْقُوْنَ ۝

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ ۱۰ وَ اَوْلَادُهُمْ
 اِنَّ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي
 الدُّنْيَا ۱۰ وَ تَزَهَّقَ اَنْفُسُهُمْ ۱۰ وَ هُمْ
 كَافِرُوْنَ ۝

وَ اِذْ اَنْزَلَتْ سُورَةٌ اَنْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
 وَ جَا هُدًى مَّعَ رَسُوْلِهِ ۱۰ اَسْتَاذَنْكَ
 اَوْلُوا الطُّوْلَ مِنْهُمْ ۱۰ قَالُوْا ذَرْنَا
 نَكُنْ مَّعَ الْقٰحِدِيْنَ ۝

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ
 وَ طَبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا
 يَفْقَهُوْنَ ۝

لِحَنِ الرِّسُوْلِ ۱۰ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ
 جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ ۱۰ وَ اَنْفُسِهِمْ ۱۰

چھ تہ پیمو سینہو مالو تہ پینہو ہالو ہند ڈوس
 جہاد کورنت چھ - تہند باچہ چھ پرستہ کنبہ
 قہمک جانہ تہ تے چھ (پتو لکن) کامیاب
 سدن والی -

اللہ (تعالیٰ) ہن چھ تہند خاطر تھو جنت تیار
 کروی ہوتی پین اندر منہر پکان چھین - تم گڑھن
 ہمیشہ تم باغن منز روزان - یہ چھ سپٹھا عبط
 کامیابی -

بہ چھ مدنیس اندر پکھی جنگلن (تہ لو کنبہ
 گاسن) منز روزان والو لوکو منز چلبہ مگر لوکھ
 پتھ ونان زہتمن (تہ) گڑھ پتھ روزنگ اجازت
 دنہ پین - تہ تم لوکھ پیمو اللہ (تعالیٰ) ہس
 تہ تہندس رسولس (بروتھ کنبہ) ایزر دو نمت
 چھ تم چھ (اجازت وراثی) پتھ رڈی رتی -
 تہو منز پیم کافر چھ تم و اتہ بے شک کرویٹھ
 عذاب -

(مگر اے رسول) ہم پیزی پاٹھی کمزور چھ بہ
 بیمار چھ یا کین لوکن و تہ خرچ ڈوس یاب چھنہ
 تم پین نہ (پتھ روزنہ کنبہ) رتہ - سید زن
 تم دلہ جانہ اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس رسولہ ہند
 مخلص چھ - (پیم لوکھ چھ تمسن) تہ تمسن چھنہ
 کانہ الزام تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپٹھا بخش مار
 (تہ) پھپرک پھپرک رحم کرن وول -

تہ نہ (چھ) تمسن لوکن (کانہ الزام) پیم تریہ
 بش تمہ وقتہ آہہ سیدہ جنگل اعلان کرنہ آمت
 اوس - اوکوبز تہ تر کرکھ تمسن کانہ سوارس مہیا تہ
 تریہ دیت تھکھ جواب - زہ سیدہ بش چھنہ کانہ
 چیزیتہ پیٹھ بہ توہی سوار کرنا وول - تہ (یہ
 جواب بوزتھ) مے تم واپس تہ (امہ) غمہ ستر
 اوس تہنہزو اچھو کنبہ اوش ہران نہ افسوس

أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ذَٰلِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۹﴾

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ
 ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۴۰﴾

ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۴۰﴾

كَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى
 وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا
 يَنْفِقُونَ حَرَجًا إِذَا انصَحُوا لِلَّهِ
 وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ
 سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۴۱﴾

ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۴۰﴾

ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۴۰﴾

بمَن بَشٍ مُّجْتَنِبٍ كَيْفَ بِهِ تَمَّ (خدا پرست و توبه)
خروج کر بہن۔

الزام چھ صرف بمَن لوکن یم اللہ حالتس مشن
اجازت منگان چھ نہ تَم چھ مالدار آسان۔ تَم
گئے پتھ بہتھ روزن و امین قلمین سستی بہتھ
روزنس پیٹھ) اُصی۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہن کر
تہندن دن پیٹھ معہ ہر مگر (تَم چھ تھو نہ)
بمَن چھنہ فکر تران۔

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا
بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ
طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾

ییلہ توہر جنگ پیٹھ بمَن کن چھتھ یوان چھو تہ تَم
چھ توہر بش بیتھ (رنگر رنگہ) چلہ بہانہ کران۔ تہ
ون بمَن نہ چلہ بہانہ مہ کرو۔ اُسی کرو نہ ہرگز
تہندر چلہ بہانہ تسلیم۔ اللہ (تعالیٰ) ہن چھ
اسہ تہندن حالن ہنر خبر ڈر ہنر تہ اللہ (تعالیٰ)
تہ تہند رسول روزہ تہنہر عملہ زانان۔ پیٹھ بیو توہر
عاضر تہ غایب زانہ و ہنر خدایہ ہندس دربارس
منز چھتھ ہنہ۔ اُتی کرو تہ تہہ تہنہر عملن
ہندر اصلیتہ ہنہر زانیاب۔

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لَنَا لَوْ
لَكُم مَّا تَدْعُونَ اللَّهَ مِنْ أَجْرِكُمْ
وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
ثُمَّ تَرُدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فِي نَبِيِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

ییلہ توہر بمَن کن چھتھ بیو تہ تَم کرن توہر ہر
کہ اللہ (تعالیٰ) ہنہر دہے۔ بیتھ توہر تہنہر
کرو (اوپر چھو اُکی توہر دنان نہ) ہن کرو در
گدرہے۔ تہکیانہ تَم چھ گند تہ تہنہر ہکانہ چھ
تہندلو اعمالو بدل بروٹھ پیٹھ جہنم مقرر ہست
تَم کرن توہر بروٹھ کہہ قسم تاکہ توہر سپردہ بمَن
اُصی اہر گاہ توہر بمَن اُصی تہ سپردہ۔ تہ اللہ
(تعالیٰ) سپردہ اطاعتہ تہہ نیرن و امین لوکن اُصی۔

سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ
إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا
عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ ذَمَّ اللَّهُ
جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۵﴾

حامن (تہ جنھن) منہر روزن و اُلی عرب چھ
کُفُوس تہ مَنافقتس منہر (سارہنے عربن)
بروٹھ دراہتہ۔ تہ (جہالتہ کونی) چھ تہکو حقدار
نہ اللہ (تعالیٰ) ہن سپنس رسولس پیٹھ
تازل کورمت چھ تہکو حد پرہر نادون تہ اللہ

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن
تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى
عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۵﴾
الْأَعْرَابِ أَشَدَّ كُفْرًا وَرِفَاقًا وَأَجْدَرُ
أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ
رَسُولِهِ ؕ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵﴾

(تعالے) چھ سبھا زانن وول (تہ) بؤڈ حکمتہ وول۔

بیس چھ گھامن (تہ جنگلن منتر روزن والین) منتر کینہہ تتھو لوکھ تہ (پیم) خدایہ سنسر و تہ خرچ کوزمت مل (اکھ) چھوڑ زانان چھ۔ تہ تمہتہر باپتھ چھ (آسمانی) گردوشن پیار و تہ روزن۔

(بؤڑو!)۔ چھ گردوش بیسہ تہنہ پیٹھ، تہ اللہ (تعالے) چھ زبر بوزن وول (تہ) زانن وول۔

بیس چھ گھامن (تہ جنگلن منتر روزن والین عربن) منتر کینہہ لوکھ تتھو تہ بیم اللہ (تعالے) ہس تہ آخرتہ کس وہ ہس پیٹھ (بؤڑ) ایمان اتان چھوڑ (خدایہ تہ تہ) کیشہ حاکم کران چھوڑ (تعالے بند) تہ تہک پینغیر ہندین دوعامن ہند ڈریہ زانان۔ بؤڑو! یہ عمل سپر ضرور تہند خاطر (خدایہ ہند) قربتک ڈریہ۔ اللہ (تعالے) ولہ بہن منور ہنہ رحمتہ سوتہ بیکیا ز اللہ (تعالے) چھ سبھا بخش مار (تہ) چھپر کر چھپر کر رحم کرن وول۔

بیس مہاجرو تہ الفارو منتر بیم برہنہہ نیرن والہ چھ۔ بیس بتم لوکھ تہ بیم بؤڑ بؤڑ اطاعت کران بہن پتہ بیکو۔ اللہ (تعالے) سپر تمن راضی تہ بتم سپر تس راضی، تمہ چھ تہند باپتھ تتھو جنت تیار کرکے ہوتی، کین اندر منہر پکان چھپر۔ بتم مر تھن ہمیشہ بہن منتر روزن۔ یہ چھپر سبھا بڑ کا میا بی۔

تہ توہہ اندر کیمو روزن والہو (عرب) گامبو (تہ جنگلیو) منتر چھو مناقب تہ تہ مدہس منتر روزن والہو منتر تہ چھ (کینہہ لوکھ تتھو) بیم بغاقتس پیٹھ ڈاکرتھ چھ، تہ چھبھک تہ بتم زانن اسی کرو بہن دو یہ لڑ عذاب۔ پتہ بین بتم اگس بڑس عذابس کن چھپر تھ ہنہ۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمُ الدَّائِرَةُ السَّوَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ، سِذَّ خَلَّاهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰﴾

وَالشَّيْقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ذَلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ ﴿۱۰﴾

وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ذُو مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ سَلَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ وَسَنَعَدِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِيمٍ ﴿۱۰﴾

وَاخْرُؤْنَ اعْتَرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا
عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ سَيِّئًا، عَسَىٰ اللَّهُ أَن
يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱﴾

بے چہرے تہمتوں کی کہیں لڑکھ کیوں پستپن گم نہ ہن ہند
اقرار کور، متور لڑو نیک اعمال بے کینترن بدل
اعمال سنو یکم ناکار اسی عقرب کب اللہ
(تعالے) تمہن پیٹھ فضل۔ اللہ (تعالے) چھ
سبھا بخش بار (تہ) چھری چھری رحم کرن
وول۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾

(اے پیغمبر!) مہندبو مالومشر ہنیر (مین) صدقہ
یختہ تہتم پاک کر کہہ تہ تہنتر ترقی ہندی
ساما تہ کر کہ مہیا۔ بے روزگہ تہند با پختہ دعا
کران تکلیز چون دعا چھ تہند اطمینانک باعت
تہ اللہ (تعالے) چھ چانی دعا جاہ بوزن وول
(تہ سلامت) زان وول۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ
التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۳﴾

کیا تمہن چھتا پے تہ اللہ (تعالے) ہے چھ یس
پنہن بندن ہند توبہ قبول کران تہ تمہن صدقہ
ہوان چھ؟ (رسول چھنہ ہوان لہ) تہ اللہ (تعالے)
ہے چھ یس توبہ قبول کرن وول (تہ) پھر
چھری رحم کرن وول چھ۔

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾

بے رون (تمہن) ز پسنہ جاہ روز و کام
کران۔ اللہ (تعالے) تہ تہ رسول تہ مؤمن
روزن تہنزن کامن (ہنتر حقیقت) و چھن
تہ توبہ بیو ضرور حاضر تہ غائب زان و اس
خالیس کن چھ تہ تہ تہ سہ و تہ تہ تہن
عملن ہنتر حقیقت۔

وَاخْرُؤْنَ مُرْجُونَ، لَأَمَّا اللَّهُ لَأَمَّا
يُعَذِّبُهُمْ لَأَمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ،
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۵﴾

تہ بے تہ چھ کہیں لڑکھ یکم خدایہ بندن حکمس
پیار و فی تھونہ آموتہ چھ (تہ) چھ اختیار
نہ (تہ) تمہن عذاب کر یا تہند توبہ قبول کر

لہ صدقات چھ خداتعالے بندن عرب تہ نادار بندن پیٹھ فرج کر ہوان، نہ چھ تہس پیٹھ تہ نہ آموتہ کارولس
پیٹھ فرج ہوان۔

لہ یعنی تہ تمہن متعلق خداتعالے حکم نازل سپرہ تمہن متعلق بے نہ کاہنہ کاروائی کرنہ۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَازًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَرِضَاةً لِّلْمَن حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ، وَلِيُخَلِّفَنَ اِنْ اَرَادْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى ، وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّهُمْ كٰذِبُوْنَ ۝۱۱

تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ زمان وول دتہ) حکمتہ وول۔
 بیہ تم لوکھ یو کہ مسجد (مسلمان) نو نقصان
 واتاوتہ، تہ کفرک تبلیغ کرنہ تہ مؤمنن منفر تفرقہ
 پاد کرنہ خاطر بناؤ مشر چھہ بیہ امر عرضہ
 ز لیس شخص اللہ (تعالیٰ) تہ تہدیس رسو اس
 سوتہ جنگ کرتھہ بیوٹھت چھہ تہنہر با پتھہ پیہ
 زانن جاے دوسو یاب کرنہ۔ تم کرن ضرور قسم
 (نہ) یہ مسجد بناوتہ تلہ اوس سون ارادہ صرف نیکی
 کرنہ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ گواہی دوان نہ تم چھہ
 بے شک اپز دوان۔

لَا تَقُمْ فِيهِ اَبْدًا لِمَسْجِدٍ اُسِسَ
عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ
تَقُوْمَ فِيْهِ ، فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ
يَّتَطَهَّرُوْا ، وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ ۝۱۲

(اے نبی!) تہ مہ سپد (زاد) اتھ (مسجد)
 منفر (جماعت کرنانہر با پتھہ) استاد۔ سم
 مسجد شیمیح بنیاد گوڈ دوہہ پیٹھہ تقواہس پیٹھہ
 تھوتہ آمتر چھہ، چھہہ ہادہ تقدر نہ تہ سپدکھ
 تھہ اندر استاد۔ تھہ اندر چھہ تھتھی لوکھ (بیہ)
 والہ) یک تمنا چھہ کران نہ تم مٹھھی پور پاک
 سپدہ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ پور پور پاکیزگی
 پرلون والہن پسند کران۔

اَفَمَنْ اَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوٰى مِنْ
اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَنْ اَسَسَ
بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ
بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ، وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۳

سہ شخص یس پننہ عمارتک کن اللہ (تعالیٰ)
 ہندس تقواہس تہ رضامندی پیٹھہ کھالان چھہ، چھا
 ہادہ رتہ؟ کہنہ سہ یس پننہ عمارتک کن رہہ
 نہر تھہ گرتھہ وین مس پیٹھہ کھالان چھہ یس رسان
 چھہ آسان پتہر چھہ سہ پیٹھہ سم عمارت ہوتھہ جہتھس
 منفر سدان تہ اللہ (تعالیٰ) چھہہ ظالم قومس
 (کامیابی ہنر) و تھہ دوان۔

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ الَّذِي بَنَوْا رَيْبَةً
فِي قُلُوْبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ،
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝۱۴

سم بنیاد یوسہ، تمو کھا ہوتھہ آس روز ہمیشہ تہنن
 وانجن کوران بجز یہ نہ تہنہر دل سپدن چھہ چھہ
 (تہ تم مرن) تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ سبھا زمان وول
 (تہ) بوڈ حکمتہ وول۔

لہ من بقو بناو کہ مشہد الواعبر راہب بند و نہر مطابق سیتہ منفر تم مسلمان خوات سادہ کران آکر۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَزَاءً فِي التَّوَارِثَةِ وَالْآلِ الْخَيْرِ وَالْقُرْآنُ الَّذِي نَزَّلَ فِي بَيْتِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱﴾

اللہ (تعالیٰ) میں چھ مؤمنین ہندو نے زور سے تہنند کر مال (بیچہ و عداں پیٹھ) مگر بیچہ و عداں ترستن میلہ جنت (تکلیف) تم چھ اللہ (تعالیٰ) ستر و تر جنگ لڑان اڈ (یا تر) چھ تم پینین دشتمن مارتحہ ترھنان یا چھ (تم) پانہ مارنہ یوان - یہ چھ اکھ بتیجہ و عداں یس تس لہ پیٹھ لآزم چھ (تر پر و عداں چھ) توالت تر انجلیس (منز تر بیان کرنا آمت) تر قرآنس منز (تر) تر اللہ (تعالیٰ) سندر کھوتہ کس چھ جاڈ پین و عداں پور کرن وول - ؟ لہذا (اے مؤمنو!) پینس آتھ سوڈ ہس پیٹھ پیدو خوش یس توہہ کورمت چھو تر میہہ چھینہ سو بڑ کامیابی (تیکمیک مؤمن و عداں دسہ آمت چھ)۔

الَّذِينَ بَوَّأُوا بِالْحَمْدِ وَالسَّاعِدُونَ الرَّاٰكِبُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲﴾

(یہ لوگھ) توہہ کرن وائل چھ، عبادت کرن وائل چھ، (خدا یہ سندر) حمد کرن وائل چھ (خدا یہ ستر و تر) سفر کرن وائل چھ، رکوع کرن وائل چھ، سجدہ کرن وائل چھ، رترن کتھن ہند حکم دتر وائل چھ تر ناکار کتھو لنتہ پتھ رتن وائل چھ تر اللہ (تعالیٰ) ہندو حد رترھلون وائل چھ بتھین مؤمن دتر نھ شجری۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۳﴾

نبیس تر مؤمن شوہر ہے تر تر مشرکین ہند خاطر منگہر ہن (تم) مغفرت اڈ تم کوہہ آسن نزدیک اُستادہے - امر پتہ ترستن ننیوؤ تر تم چھ جہنمی۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَّاهُ ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۗ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿۱۴﴾

تر ابراہیم سندر پینس مال سندر حقہ مغفرت منگن اوس صرف امر باعترہ تر تم اوس تس ستر و عداں کورمت - اماہ پوز پیلہ تس ننیوؤ تر سچھ اللہ (تعالیٰ) سندر دشتن تر سچھ سچھ و عداںش پور پاپٹھو دستبردار۔ ابراہیم اوس سچھ ہے تر دم دل تر کاٹل۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾

تہ یہ حجۃ اللہ (تعالیٰ) بندس شانس جلاوت نہ کاہنہ قوم یہ ہدایت دین پیڑ گمراہ ٹھہراونہ یوتام نہ سہ ہمن برونہ کبہ ہم (کتبہ) بیان کریمو ہنہ ہمن بچن بز۔ اللہ (تعالیٰ) چہ پرہہ کاہنہ چیز زانان۔

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخْفِي وَيُخَبِّرُ، وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۲﴾

آسمان (ہنر) تہ زمیچ بادشاہت چھیلے شک اللہ (تعالیٰ) ہنر۔ سہ چہ زندہ تہ کران تہ (سے) چہ (مارن تہ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی نہ چہ کاہنہ تہند دوست تہ نہ کاہنہ مددگار۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْحُسْرَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۳﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن حجۃ نیلیس تہ مہاجرین تہ انصارین پیچہ بوہ فضل کورمت (یعنی ہمن لاکن پیچہ) کیو تسنر (یعنی نمی ہنر) پاروی تہ ساعتہ کرہ ییلہ لکھک وقت اہن ییلہ نمو مشر اکہ ذہرک دل ہنا ششکس مشر ہینہ آمو آمو اسہ اپہ کور تہ ہمن (گمزدون) پیچہ تہ فضل۔ سہ چہ ہمن (مومن) سترہ یقیناً محبت کرن وول (تہ) چھپرک چھپرک رحم کرن وول۔

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴﴾

یہتہ پانچو (کور تہ) ہمن ترنونی لہ تہ (فضل) ہم بیچہ تراونہ آمو آمو، یوتام نہ ییلہ ہتراتہ کھلہ ڈلہ اسہ تہ ہمن پیچہ تنگ سپز تہ تہندک پیچہ نفس تہ بنے ہ ہمن پیچہ بور۔ تہ تہو کور خیال نہ اللہ (تعالیٰ) ہند فضلہ ہنہ بچہ خاطر چھنہ تس وراہی بیہ کاہنہ چناہ۔ تہ تہنہز حالت نوچتہ کور اللہ (تعالیٰ) ہن ہمن پیچہ فضل، ییتہ ہم تہ توبہ کرن۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک چھپرک چھپرک توبہ کرن وول (تہ) چھپرک چھپرک رحم کرن وول۔

۱۱ یہ تریہ مؤمن صحابہ جنگ تبوکس مشر غلطی سرتو پتہ روزہہ گیاے۔ یعنی عبد اللہ بن کعب۔
مرادہ بن ربیع عامری تہ بلال بن اُمیہ واقفی رضی اللہ عنہم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا
مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۱﴾

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مَن حَوْلَهُمْ
مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ
اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا
نَجَسٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
لَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا
يَنَآلُونَ مِن عَدُوِّئِهِمْ إِلَّا كَمَا كُتِبَ لَهُم
بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيئُهُ
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۲﴾

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً
وَلَا يَقْطَعُونَ دَائِيًّا إِلَّا كَمَا كُتِبَ لَهُمْ
لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً
فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۴﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ
يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ
غُلظَةً ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿۱۵﴾

وَإِذَا مَا أَنزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَّن

اے مومنو! اللہ (تعالیٰ) سے تقویٰ پراوو تو میری
یارین (ہنر جہاد) سوتی سپرو سٹابل۔

مدینہ والین تو امن اندر کچھ کامن (تہ جنگن)
منز روزن والین (عربن) پڑھے نہ اللہ (تعالیٰ)
سند رسول (کنے زون) تراوتھ یا نہ پختہ روزن تو
نہ پڑھیکہ تہند ژوانتہ لاپروا سپدھہ پستہن ژوان
ہنر مکر ہنیز۔ یہ (فصلہ) چھ او کوی (کرہ یوان)
نہ اللہ (تعالیٰ) ہنر وتہ چھہنہ امن تریش گچھ
تکلیج یا بوجھ ہنر کانہہ گڑ پیش یوان۔ تو نہ چھ
تم کتہ وتہ یکان یس کافرن نکلہ کھالہے تو نہ
چھ تم دشمنس پیچھ کانہہ فتح لبان، پیچھ بدلہ
تہند خاطر نیک عمل لیکھنہ یوان اسہے نہ۔ اللہ

(تعالیٰ) چھہنہ احسان کرن والین ہند اجر ضایع کران۔
بہ چھہنہ تم (اللہ تعالیٰ) ہنر وتہ کانہہ لوگٹ
یا بوڈ، بو خرچ تہ کران تو نہ چھ کانہہ وادی ط
کران مگر (سوتی) چھ (یک نیک کامہ تہندہن
اممان منز) لیکھنہ یوان۔ پیچھ زن اللہ (تعالیٰ)
تہنزن عمل ہند بہترین بدلہ دیہ۔

بہ مؤمن ہند خاطر اوس نہ یہ ممکن نہ تم نیرہن
سوم ساری (رکتہ و پنج تعلیم حاصل کر نہ باپچہ)
اڑکیاڑ سید نہ یہ نہ تہننیر پر پختہ جہاد منز نیرہے
اکھ اکھ لوگجا۔ پیچھ تم پور پانگمی دین، پیچھہ من نہ
والیس پیچھہ کرہن پستہن تومس (سے دہنی ہنر خبرہا)
پیچھہ زن تم (گرا ہی ہنر) کھوژن، پیچھہ من۔

اے مومنو! امن کھدن سوتی کرو جنگ یک تہہہ
نکھ تکلہ روزان، چھو۔ بہ مرٹھن تم تہہہ مشد
پوختہ کی تہ دربر تریشی۔ بہ زاکوز نہ اللہ (تعالیٰ)
چھہ متقین سوتی۔

بہ پیلہ کانہہ سورہ نازل پلان چھہ نہ تمو منز بہہ

يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وَهُمْ يَسْتَشِيرُونَ ﴿۳۶﴾

کمیٹہ (مناقب) و نمان نہ امر (سورن) تو بہ منتر
مگر سندن ایمان ہر روز؟ لہذا (تھو یاد نہ) ہم
لوگہ مؤمن چھ تہندک ایمان چھ امر (سورن) ہر لوگہ
ہو تہندس بڑو بخشس ایمان کس نتیجس منتر) تہ تم
چھنہ غوثیہ سوتی و پرن کتہ۔

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا
وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۷﴾

بیہ (تم لوگہ) پیندن دن منتر بیارک چھ، امر (سورن)
چھ تہنتر (گوڈ پنچ) ناپاکی پیٹھ بیہ من ناپاکی کھا جتر
یوت تام نہ تم من رنجس حالتس منتر نہ تم آسن کافر۔

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ
مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ
يَذْكُرُونَ ﴿۳۸﴾

کیا تم چھنا و چھان نہ تم چھ پر تہ وری بیہ کو یاد ہو
لہ آرمیش کرتہ یان، تو تہ چھنہ تم تو بہ کران تہ
نہ چھ نصیحت رمان۔

وَلَا ذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ
إِلَى بَعْضٍ، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ
انصَرَفُوا، صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۳۹﴾

بیہ نیلہ کانہ سورہ نازل سپلان چھ تہ تمو منتر
چھ کمیٹہ لوگہ بین کن و چھن ہوان۔ سیتہ زن زان
نہ کانہ شخصس ما چھو تو بہ و چھان؟ پتہ چھ
ہم (لوگہ تسلا کرتہ مجلس منتر) گرشان۔ اللہ تعالیٰ
ہن چھ تہندک دل چھرک ہو تہ۔ یکبارہ تم چھ تہتر
لوگہ ہمین فکر چھنہ تران۔


لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ ذَرُّوا ذُرِّيَّتَهُمْ ﴿۴۰﴾

(اسے مومنوں!) تو بہ نش چھ تہندک تو کہ اکہ انسان
رسول بینتہ امت۔ تہند سختی منتر ہینہ یں چھ تس
ناگوار گرشان تہ سہ چھ تہند با پتہ برزرا کچھان۔
بیہ چھ (سہ) مؤمنین سوتی محبت کرن وول (تہ) سہھا
رحم کرن وول۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۴۱﴾

اگر ہر گاہ تم چھ تہ گرشن تہ تہ ویکہ نہ اللہ تعالیٰ
چھ میتہ کیت سہھا۔ تس ورا کی چھنہ کانہ معبود۔ تہ
چھس تسو پیٹھ تو کل کران تہ سہ چھ عرش عظیمک
رب۔

۳۸



سورة یونس - یہ سورہ مجہولی ہے۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ ہمت تہ دادا آئیہ میرے چہس کاہ رکوع۔

(یہ چہس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہمتہ پران یُس
 سہو رُوس کرم کرن وول (تہ) چہسہرہ چہسہرہ رحم
 کرن وول چہہ۔

یہ اللہ چہس ووجہن وول۔ یم (نیمہ سورہ کر آیہ)
 چہہ کابل تہ حکمتہ بڑتر کتابہ ہندو آیہ۔

کیا لوگوں بش آسایہ حارانی ہنتر کمتہ؟ ز اسہ کرمتو
 اندر ایکس شخصس پیہہ یہ ووجی تابل نہ لوگہ کرکہ ہنید
 تہ یکو لوگو ایمان اونمت چہہ جنس و بشارت نہ تہنید
 باچہ چہہ تہنیدس پروردگار ہندس دربارس منفرد
 پانچو تہ پڑشید پانچو تہ) اگہ کابل درجہ۔ تہ کافرو
 وول نہ یہ (شخصس) چہہ شک تہ وانہ دوکھ باز۔

پڑو پانچو چہہ تہنید پروردگار اللہ (تعالیٰ)۔ یمو
 آسمان تہ زمین شین وقتن منتر پاد کرکہ پتہ۔ بیوٹہ
 سہ عرشس پیہہ تشریف تھاوتہ۔ سہ چہہ پرچہ
 کمتہ ہند استقام کران۔ تہنید اجازتہ وراہی کابنہ تہ
 چہہ (تس بروٹہ کتہ کانسہ ہند) سفارش در

د ا سبتہ ہیکان)۔ (بوزو) یہ اللہ (تعالیٰ) چہہ (پیہہ)
 کتہ ونہ آوتو صفات حقون وول تہ سہ چہہ تہنید
 پروردگار او کتہ کرکہ توہو تہو ہنترے عبادت کیا
 توہو رُوننا (یکو کتہو باوجود) توہہ لفظت ہ

تس کن چہہ توہہ سارہے پھیرتہ عرشن۔ اللہ
 (تعالیٰ) سُنَد چہہ (یہ) و عدلیس پور سپدہ
 روزن وول چہہ۔ بے شک سہ چہہ مخلوق پانو
 کران پتہ چہس چہیرتہ نولن۔ یمہ یکو لوگو ایمان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

الرَّسُوْلُ تِلْكَ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ الْحَكِیْمِ ①

اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحٰیْنَآ اِلٰی
 رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرِ
 الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صَدِقٍ
 عِنْدَ رَبِّهِمْۙ قَالَ الْکٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا
 لَسِحْرٌ مُّبِیْنٌ ①

اِنَّ رَبَّکُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی
 عَلَی الْعَرْشِ یَدْبُرُ الْاَمْرَۙ مَا مِنْ شَیْءٍ
 اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْ نَبَّہُ ذٰلِکُمْ اللّٰهُ رَبَّکُمْ
 فَاَعْبُدُوْهُۙ اَفَلَا تَذَکَّرُوْنَ ①

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعًاۙ وَعَدَّ اللّٰهُ
 حَقًّاۙ اِنَّهٗ یَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُهٗ
 لِیَجْزِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَاَعْمَلُوا
 الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِۙ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا

لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ
بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾

اُون پر جو کر نیک (تر متاسب حال) کامر بہتمن دیہ
اجر منتر پوڑ حصہ۔ تہ یو لوکو کفر اختیار کونہ تہند
چہتر خاطر آسہ کر کیکون آب، بیہ آسہ آک کر لوٹھ
عذاب تکلیف تہم آسہ کفر کران (گڑھان)۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ
الْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، مَا خَلَقَ اللَّهُ
ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

سے چہتر بیجو آفتاب ذاتی گاش (بہتہ بنومت چھہ)
تہ زون نور (بہتہ) بناو منتر چہتر تہ اگر انداز مطابق
بچھن اکو منزل بناوکر تہی۔ سیتھ توہہ وورکین
ہنر گونہ تہ حساب معلوم سپدو۔ یہ (سلسلہ)
چہ اللہ (تعالیٰ) ہن یزیر (تہ حکمتہ) سان
پاؤد کورمت۔ سہ چہ پیم آیہ علیہ والین لوکن ہستہ
خاطر تفہیلہ سان بیان کران۔

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿١٢﴾

راتھ تہ دوہ پتھہ بروٹھ بیس منتر تہ یہ کینترھا
اللہ (تعالیٰ) ہن آسمان تہ زمیہ منتر پاؤد
کورمت چھہ (تتھ اندر) چہ متقی لوکن ہستہ
خاطر پڑی پاٹھ واریاہ نشانہ۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأَنَّنُوا بِمَا
الَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غُفْلُونَ ﴿١٣﴾

پیم لوکھ اسہ سبوتی طاقات کر پوج وہ مید تھاوان
چھہ تہ پتھہ دنیاوی زندگی پیٹھ چھہ راضی سپد
تہ تہ اتھو پیٹھ چھہ تھو اطمینان لوہمت۔ تہ
بیہ پیم لوکھ سانو نشانو ہند کینہ فائل سپد تہ چہ
بے شک چھہ اتھن سارہن ہند ٹھکانہ بہتہ
کھایہ ہند باعہ (دوزخن) نار۔

أُولَٰئِكَ مَا دَأَبَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

یو لوکو ایمان اون بیہ کر کچھ نیک (تہ متاسب
حال) علیہ بہتمن دیہ بہتہ پروردگار بہتہ ایمانہ
کر باعہ (کامیابی ہنر و تہ کن) ہدایت تہ
آسایشہ والین جنتن منتر آسن تہنہ (ہندس
اختیار) تل نہر لکان۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِأَيْمَانِهِمْ ۗ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ
النَّعِيمِ ﴿١٥﴾

بہتمن (جنتن) منتر آسہ (تھایہ ہندس دربارس
منتر) بہتمن گڈارش۔ اسے اللہ (تعالیٰ) انہ
چھاکھ پاک۔ تہ اکھ اکر ہند حقہ) بہتہ دعا
آسہ یہ زسلامتی آسن (توہہ پیٹھ ہمیشہ خاطر)

دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحٰنَكَ اللَّهُمَّ
تَجِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ ۗ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ
أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

۱۶

تہ ساروہے پیتر وون رتم (بڑا ہبٹ) اللہ
(تعالیٰ) ہے چھ سارہے تفریق ہند تقدار
یس سارہے عالم ہند پروردگار چھ۔

تہ ہرگاہ اللہ (تعالیٰ) لوکن پیٹھ (تہندین
اعمال ہنر) ہدی (ہند نتیجہ) اتن ہند
وٹھہ وٹھہ مال ہنر ہنکو پیاٹھی، اول اول
پشراوہے تہ اتن ہند (زندگی ہند اندوانگ)
معیاد آسہے اتن پیٹھ (ڈچھ کر) پلور کرہ
آمت (مگر تکیار آسہ کور تہ پیند) اور
کوز چھکھ آسہ رتم لوکھ یکم ساتھ ملاقاتیج وہمید
چھنہ تھاوان، اتھ حالتس منتر تراوان، نہ رتم
چھ پینتہ سرکشی منتر اور پور پھیران۔

بہ بیلیہ انسان تکلیف چھ واتان تہ سہ چھ لہ
رورہ تہ تہ بہوں تہ تہ وہتھون تہ آسہ اولو
کران پیتر بیلیہ آسہ تہ ہنر (سختی) تس ہنر دور
کران چھ تہ سہ چھ (تھہ پیاٹھی اندر اندر) نیران
زندہ کنہ تکلیف (کر دور کرنا) خاطر یس تس
ووتت اوس، اوسہ تہ آسہ زانہ اولوہ کورمت
یتھہ پیاٹھی چھ سارہے ہنر نہبر نیران والہن، یہ
کینرہا رتم کران کراوان چھ (تہ) خوبصورت کرہ
اونہ آمت۔

اسہ چھ بلاشک توہہ بروٹھ (تہ قومو پیتر) قوم
ہاک کرہ ہتہ۔ بیلیہ توہہ ظلم کورمت اوس تہ
اپمان اوسکھ تہ اوتت (امر باوجود نہ) اتن ہنر
آسہ تہندہر پیغیر نئی رتہ نہ ہتھہ آہتہ۔ آسہ
چھ مجرم لوکن یتھہ پیاٹھی بلہ دولان۔

پیتر بتاوری و اسہ توہی زمینہ منتر اتن پیتر (تہندہر)
جانشین۔ یتھہ زن آسہ وچھو نہ توہی کرہہ عملہ
چھو کران۔

بہ بیلیہ اتن سنی روشن آہ پرتھہ بوزناونہ

وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ
اشْتِغَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ
أَجَلَهُمْ، فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَزُجُونَ
لِقَاءَ تَارِي فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۵﴾

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا
لِجَنَابِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا
كَشَفْنَا عَنْهُ غُضُّوهُ مَرَّكَانَ لَمْ
يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ، كَذَلِكَ ذَرِينَا
لِلْمُشْرِكِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَمَّا ظَلَمُوا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا،
كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۵﴾

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ
بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

وَإِذْ أَنْتَلْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ

الذین لا یزجون لفاءنا اثبت بقضان
غیر هذا اذ بدلہ اقل ما یكون لینی
ان ابدلہ من تلقائی نفسی ج ان
اتبیع الا ما یوحی الی ج اری اَخاف
ان عصیت ربی عذاب یؤذ عظیم ۱۰

یوان چھ تہ یم لکھ اسرستی ملا تا پنج وہ مید
چھتہ تھاوان ، تم چھ زمان نہ (اسے محمد)
تہ ان امہ وراہی کاہنہ بیکہ قرآن یا بدلوان یوان
تہ وان (تم نہ) یہ چھتہ میانی کام تر بہ بدلوان
یہ پستہ طرفہ - بہ (تہ) چھس تمہ چی یاروی
کلان یہ کثیرشا، میہ پیٹھ وحی (سستی حکم نازل)
کرتہ یوان چھ تہ اگر بہ پینس پروردگار سنز نافرمانی
کرتہ تر بہ چھس اکہ بڑ (خطرناک) دو بہ کس
عذابس کھوژان - (تر میہ گوڑھنہ سہ پتہ رٹن)
تہ وان (تم نہ) نہ ہرگاہ اللہ (تعالیٰ) سنز (بہ)
مشیت اسرہے (تر امہ بدل بین بیکہ کاہنہ تعلیم
دین) تہ بہ بوز ناو نہ سہ تو بہ برو تہ کتہ
پرتھ تہ نہ کرتہے وسے تو بہ امہ (تعلیم) ہنہ
خبردار - چنانچہ میہ چھ امہ برو تہ واریاہ کال
تو بہ مفرگدومت سلہ کیا تو بہ چھو نا تمہ پتہ
تہ عقلہ کام ، ہوان ؟

قل لو شاء اللہ ما تلوثہ علیکم ولا
اذا رکم بہ فقد لیثت فیکم عمرا
من قبلہ ، اقلآ تعقلون ۱۱

وہو ذی (وہی تو تو ہی نہ) میس اللہ (تعالیٰ) ہس
مانشہ لاگتہ تھو یا تندک نشان اپزاو ، تسند
کھوتہ جاوہ نظام کس اسرہ ؟ (الغرض) یہ چھتہ پتہ
کتہ نہ مجرم لکھ چھتہ کامیاب سپدان -

فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا
اذا کذب بایتہ ، انہ لا یفلح
المجرمون ۱۱

تہ یم لکھ) چھ اللہ (تعالیٰ) تہراوتہ تہہ چہرہ
بندگی کلان میس نہ ہن تو تصان واتاوان چھ تہ نہ
چھکھ نفع واتاوان - بیہ چھ وان (نہ) یم
(سانی معبود) چھ اللہ (تعالیٰ) سندس دربار
متر سانی سفارش در - تہ وان (تم نہ) کیا تو بہ چھو
اللہ (تعالیٰ) ہس تہ ، تہ (یعنی سہ کتہ) وان
بیہ متعلق نہ چھ آسمان متر (لبہ نیک) تس

ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم
ولا ینفعہم و یقولون ہوا لاء
شفعاؤنا عند اللہ ، قل اتنتہون
اللہ بما لا یعلم فی السموت و لا فی
الارض ، سبحنہ و تعلی عما
یشرکون ۱۱

لہ سہ چھ تو بہ مترکہ عمرہ گذار متر تو بہ زانو میا در اخلاق ، میہ ہوان انسان بیکیا ناس متعلق اپڑوتہ ؟
تہ یعنی تہ نیک ، فہم ناس پو سوکتہ سپرتہ کتہ پائل نیک ؟

علم تہ نہ (چھ) زمپنس منتر (تمہ کہ موجود
 آسٹ کانہ پے پتاه) سہ چھ پاک تہ بہند
 شریک ٹھہراونہ رستہ چھ سہ سپٹھا تھوور۔
 بیہ (ساری) لوکھ اسی اکے جماعت (بینقہ)
 پتہ کور بہنو پانہ وانی اختلاف (پانہ) تہ یوسہ کتہ
 چائس سہ ہند طرفہ بروٹھ (وہچہ شکلہ منتر) آہتر
 چھینہ۔ ہرگاہ سو (نٹھ) آسہ ہے نہ تہ یہتہ
 کتہ) منتر تم اختلاف کران چھ تمہ کہ حقہ آسہ
 ہے بہن درمیان (ڈبھ کر) ٹا صلہ (مادر کر)
 آمت۔

بیہ چھ تم ونان نہ اہس (رٹولس) پیٹھ کیاہز
 آونہ تہندس پروردگار ہند طرفہ کانہ نشان
 نازل کرنہ؟ تہ ون (تمن نہ) پرتہ کانہ غاب
 (چہ کتہ ہند علم) چھ اللہ (تعالیٰ) ہے حامل
 او کونہ پیارو توہی (تہ) چھس تہہ
 سوتی پیارن والہو اندہ۔

بیہ بیلیہ اسی لوکن کتہ سختی پتہ یوسہ تم وائر
 منتر آسہ (ہنا پنسن) رحمتک منر وچھاوان
 چھکھ تہ پیٹھ چھ سانہن نشان متعلق بہند
 طرفہ کانہ (نہ کانہ عدالتی) تدبیر سپن ہوان
 تہ ون (تمن نہ) اللہ (تعالیٰ) سند تدبیر چھ
 (اتھ مقابلہ) سپٹھا جلد (کارگر) سپان (تہ)
 توہی یک تدبیر (تہ) کران چھو سانی سوزنہ
 آوتی (ملاک) چھ تم لیکھان روزان۔

سے (خداوند کریم) چھ یس توہمہ (توفیق
 دتھ) خوشی تہ سمندر منتر سفر کرناوان چھو یوت
 تام نہ بیلیہ توہی ناول (تہ بادبانی جہازن) منتر
 (سوار) سپان چھو تہ تم چھ پاک تہ موافق ہواہ
 ذریعہ تم (لوکھ) ہوتہ تہ پکان آسان تہ تم چھ بہن
 پیٹھ فخر کران (تہ ہنگتہ منتر) چھ تم پیٹھ اکھ

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً
 فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
 رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ
 يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۰﴾

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ
 رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا
 إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿۱۱﴾

وَلَا إِذَا دَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ
 ضَرَاءٍ مَسَّهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي
 آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَشْرَعُ مَكْرًا إِنَّ
 رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿۱۲﴾

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ
 بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا
 رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ
 كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
 دَعَاؤُا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؕ لَئِن

أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَكُنَّا مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۷۰﴾

تیز (تہ تند) واویلون تہ پرتھ اندھ چھ تہن پیٹھ
 (لہرن پیٹھ) لہر (ولہر) یوان تہ تم چھ تزان یوان
 نہ تم آے وہ ڈی مہبتس مشر مہبتس تہ پتھس
 موقعس پیٹھ چھ تم (پنڈ) اطاعت خدایہ بندہ
 خاطر بنائیس کران تس آلودون (تہ ونان چھ نہ
 اے اللہ!) ہرگاہ تریہ اسر نیبہ مہبتس تہ نجات
 دستھ تہ اسی سید و ضرور چاہن شکر گزارن
 (ہندس درس) مشر (داخل)۔

فَلَمَّا أَنْجَلْنَاهُمْ إِذْ هُمْ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ
 بِغَيْرِ الْحَقِّ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَثْنَاكُمْ
 عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 ثُمَّ لَابَيْنَا مَرْجِعَكُمْ فَنُنِذِرْكُمْ بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۷۱﴾

اد بیلہ سہتمن (امر خداہر تہ نجات دوان
 خوشکی پیٹھ واتانوان) چھ۔ تہ تم چھ تہتھے
 زمینہ مشر ناتی بغاوت کرنہ یوان۔ اے لوگو! تمہند
 صرف دنیاوی زندگی بہر مشر ہیو پس یہ تہتہن
 نفس پیٹھ (وبال بختہ)۔ پتہ آسہ تہتہنر والپس
 اسی کن۔ اد یہ کینتر حازن، توہر کران رُودر و
 اُسو۔ اُسو کروو توہر تہر نش زانی یاب۔

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ
 أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
 نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
 وَالْأَنْعَامُ، حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
 زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ
 قَدِرُونَ عَلَيْهَا، أَتَاهَا أَمْرٌ نَاكِيلٌ
 آذَنَاهَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ
 بِالْأَمْسِ، كَذٰلِكَ نَقُصُّ الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۷۲﴾

نیبہ دنیاوی زندگی بہر حالت (تہ) چھ تہ
 آذو پاٹھو یس اسر اوہر مشر دول پتہ رپووتھ ستر
 زمینہ ہند وہ پزلو میبہ اندر انسان تہ چار واری
 کھولن چھ۔ یوت تام ز بیلہ زمین (امر درس)
 جیلنہ تہ شولنہ ج تہ پاراونہ آے تہ اہمکو
 مانکو زون تہ تم چھ (وہو) ایکس ففلس
 پیٹھ توڑ لبتھ تہ اتی آواتھ پیٹھ روتیلہ یادہ بلہ
 (غذیس متعلق) سون حکم تہ اسر نی سم لونی
 متہ کھہکو پاٹھو بناوتھ زنتہ اتہن یو اوس (دی)
 نہ (کینہ)۔ الغرض ہم لوکھ سوچیس کام، یوان
 چھ تہند باپتھ چھ اسی تہتھے پاٹھو (پنڈ)
 آہ واش کڈتھ بیان کران۔

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، وَيَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۷۳﴾

یہ چھ اللہ (تعالیٰ) سلامتی ہندس مدرس کن
 ناد دوان تہ یس پسند کران چھ، تس چھ ایکس
 سینر و تہ پیٹھ پکناوتھ (اصل منبر تس تام واتانوان)۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادًا وَلَا
يَرْهَقُهُمْ ذُنُوبُهُمْ قُلْ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۰﴾

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ
سَيِّئَاتِهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَذَابٍ كَاتِبًا
أَغْشَيْتَ دُجُوهَهُمْ قِطْعًا مِنَ
الْأَيْلِ مَظْلَمًا، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۱﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ
لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ
شُرَكَاءُكُمْ ۖ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ
شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ رَبَّانَا نَاعْبُدُونَ ﴿۵۲﴾

فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ
إِن كُنَّا عِبَادَ رَبِّكُمْ لَفُوقِلِينَ ﴿۵۳﴾

هُنَالِكَ تَبْلُغُوا كُلَّ نَفْسٍ مَّا
أَشْرَفْتُمْ دُرُودًا إِلَى اللَّهِ
مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَصَلَّ
عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۵۴﴾

ہم لوگوں ہند خاطر یہو نیکو کاری پر او اسے
سار وے کھوتے رت انجام - بیہ (تمہ پتہ تر)
جاد جاد (العام) - تہندین بھقین پیٹھ نہ پیہ
(ذیچ) گرد چھاوہ نہ نہ (آسن ہمن پیٹھ)
رُسواہی (ہندو نشانہ) - ہم لوگ چھ جنتکی
بسکین (تر) تھہ مشر مشر ہمن ہمن روزان۔

بیہ یہو بیدہ کرے مشر آسن، تہندہ خاطر
اسے بیدہ ہند بلہ تھہ (بیدی) برابر تہ ہمن
پیٹھ اسے رُسواہی ہنز گرد کھڑ مشر تہ کانہہ تہ
آسن نہ ہمن اللہ (تعالیٰ) ہس (یعنی تہندہ جاد)
نہہ بجاون وول (تہ رو سے سیاہی آسکھ
تہہ) زنتہ تہندین بھقین پیٹھ راتہ ہمن
واریاہ انہ گڑ چھلہ تراوہ آ مشر چھینہ ہم لاکھ
چھ ناپہ (کھرس مشر روزان) واول تھہ مشر
مشر ہمن ہمن واریاہ ہس کاس تام روزان۔

بیہ (اسے لوگو! سہ دہہ کر لیں یاد) بیہ دہ ہہ
اُسے ہم ساری سو نہرا وولکھ - پتہ یہو شرک کھ
(مت آسہ) ہمن وولوا اُسے (نہ دور روزو) ہنہ
جاد (اساد) توہی تہ تہ تہندہ (ہنہ بناوہ ہمتی
خدائی ہندہ) حصہ وار (تر) اپتہ تراوہ
اُسے ہمن مشر پانہ واولی (تر) دور بر تہ ہندہ
(بناوہ ہمتی خدائی ہندہ) شرک وحق (ہمن
نہ) توہی اُسے وول (ہرگز) سائی ہندہ کران۔
لہذا توہی تہ اسہ درمیان چھ (پانہ) اللہ
(تعالیٰ) کافی گواہ - اُسے اُسے تہندہ ہندہ

نش سٹے بے خبر
(اد) پرچہ کانہہ شخص سوچتہ تہہ تمیک مشر یہ
تمہ (پسنہ ہاتھ) وولمت آسہ، تہ ہم بین
تہندہ پزیرس نابک اللہ (تعالیٰ) ہس کن چھ
انہ - تہ یہ کیشہا ہم (پسنہ طرف) دائرہ ان

قُلْ مَنْ يَبْرُزُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ
 الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
 الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ
 اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۷۰﴾

اُسے تہ (سورے) گزشتہ تمہیں مُشیتہ -
 تہ و ن (تمہیں زبوں!) آسمان تہ زمیں منز کس
 چھو توہم رزق و ن ؛ یا (پہ ز) کن تہ اچھ کھنک
 اختیارس منز چھ ؛ تہ کس چھ (اکہ) موہ ر
 (چینر) منز زبند (چینر) کڈان تہ زبند (چینر)
 منز چھ موہ ر (چینر) کڈان ؛ تہ کس چھ (کین)
 سارہنے کاہن ہند تہ سیر کران ؛ اتھ پٹھ و ن تم
 ضرور زہ اللہ (تعالے چھ کران) لہذا و ن (تمہ)
 توہی کیا زہ چھو تہ (تیلر) تقوی پر و ن ؛

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعَدَ
 الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَإِنِّي تُصْرَفُونَ ﴿۷۱﴾

سے چھ (تہند حقیقی پرور دگار۔ تہ حق تہ اوتھ گمراہی
 سو اہ کیاہ چھ (سماہل سپتھ ہکان) ؛ لہذا
 (وڈ تو تہ سہی ز) کہتہ پٹھو چھو توہی (بین)
 بین) اندن کن (پھرو تہ یوان)۔

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى
 الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۷۲﴾

یختہ پٹھو یکو لاکو نافرمانی پر او ہتر چھہہ تمہ پٹھ
 چھ پٹھس پرور دگار ہند فرمان پور ہد مت زہ تم چھہہ
 ایمان انان -

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَإِنِّي تَوَفَّكُونَ ﴿۷۳﴾

تہ و ن (تمہ) تہندو (تھہر او کہ تہو) شرکیو منز
 چھا کا نہہ (تہنتہ تہ) یس گوڈ نچہ لٹ پاد کران آسہ
 (تہ) پتہ آسہ تہ دو بار تہ (پاد) کران - تہ و ن
 (تمہ) زہ اللہ (تعالے ہے) چھہ (یس) گوڈ نچہ
 لٹ تہ پاد کران (چھہ تہ) پتہ چھہ تہ دو بار تہ (پاد)
 کران - لہذا (وڈو زہ امہ با و ہود) کو کن چھو تہہ

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى
 الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۚ أَفَمَنْ
 يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ
 لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يَهْدِيَ ۚ فَمَا لَكُمْ تَكْذِيفٌ
 تَخْتُمُونَ ﴿۷۴﴾

پھرو تہ یوان ؟
 تہ و ن (تمہ) پتہ تہ کیا تہندو (بتا و ہتہو) شرکیو
 منز چھا (تہنتہ تہ) کا نہہ یس (لوکن) پڑس کن
 و تھہ ہوان آسہ ؛ (تمہ) کیا ہکن اتھہ سوالس جواہ
 (تہ) و ن (تمہ) پانے زہ اللہ (تعالے
 ہے) چھہ (یس) لوکن حقس کن رہنالی کران چھہ لہذا
 سہ (خدا) یس پڑس کن و تھہ ہوان چھہ سہ چھا

پاروی ہند جاہی حقدار ؛ کینہ سہ (بلی خلد) نہیں
 پانز تہ چھنہ و تھ لینہ یوان امہ (صورتہ) ورائی
 نر تس پیہ و تھ باونہ ۔ اڈوئی تو توہ ہر کیا ہ
 چھو (گومت) ؛ توہی کھتو فاصلہ چھو کران ؛
 بیہ رتھو اندر چھو واریاہ یکم (پسنہ) وہمہ ورائی
 (بیہ کینہ چیز تہج) پاروی چھنہ کران (بیلہ زن)
 وہم چھنہ پڑس مقابل کینہ کٹام دون ۔ یہ کینہ شہا
 یکم (لوکھ) کران چھہ ۔ (تہ) چھہ اللہ (تعالیٰ) بیشک
 نریر پاتھو زانان ۔

وَمَا يَتَّبِعُهُ أَكْثَرُهُمْ أَلا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ
 لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۱﴾

تہ اللہ (تعالیٰ) ہس ورائی بیہ کانسہ ہندہ طرفہ
 یہ و تھران اپڑی پاتھو بناون چھنہ (ممکنہ)
 سپتہ ۔ بلکہ چھہ یہ تمیک (یعنی تمہ الہی کلکھ)
 تصدیق (کران) یس اہر بروٹھ (موجود) چھہ ۔ تہ
 (الہی) کتاہ (منز یہ کینہ شہا موجود آس گرتھہ
 بہن کتھن) ہنر (چھہ) تفصیل (بیلن کران تہ)
 اتھ اندر تہ چھنہ کاتھہ شک نہ یہ چھہ تمام عالمن
 ہندس پروردگار ہندہ طرفہ ۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ
 يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ
 مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۲﴾

کیا تم چھا و نان نہ اسی (مفخص) چھہ یہ (پنہ)
 طرفہ (دایرومت) ؛ تہ دن (تھن نہ) ہرگاہ توہر
 (اتھ و تنس منز) پڑ یارک چھو تہ اتھ ہوا یعنی
 اہر کین سورن ہئی) ائی تو صرف اکے سوہر
 (مقابلس منز) تہ اللہ (تعالیٰ) ہس ورائی یس
 (تہ توہر ناد و تھ) اُتھہ ہیکلیون سہ اُنیون (پنہ)
 امداد باچھہ) ناد و تھہ ۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا
 بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَإِذْ عُوا مِنَّا اسْتَطَعْتُمْ
 وَمِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۳﴾

(ماہ پوز تہند یہ خیال چھنہ درت) بلکہ چھہ رتھو
 (حقیقتہ پاتھو لکھ) تہ تھہ چیز اپڑوومت تہ تمیک
 تھو پور مجہم تھ بیلے اوس نہ کورمت تہ سراس تہج
 حقیقت تھن پتھہ و نہ واشکاف پدے ہتر ، یکم
 لوکھ تھن بروٹھ اسی رتھو (تہ) اوس تھہ پاتھو
 اپڑوومت ۔ پتہ و چھتہ نہ تھن نطالمن ہند انجام

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا
 يَا تَهُم تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الظَّالِمِينَ ﴿۳۴﴾

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهِ وَ مِّنْهُمْ
مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ؕ وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِينَ ﴿١٠﴾

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي
عَمَلِي دَعَاكُمْ عَمَلِكُمْ ؕ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا
أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُونَ لِآيَاتِكَ ؕ أَفَأَنْتَ
تَسْمِعُ السَّمْعَ وَ لَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ لِآيَاتِكَ ؕ أَفَأَنْتَ
تَهْدِي الْعُمْيَ وَ لَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٣﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَ لَكِنَّ
النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٤﴾

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا
إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ
بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ حَسَرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِلِقَاءِ اللَّهِ وَ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٥﴾

وَإِنَّمَا نُزِّلْنَاكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ
أَوْ تَتَوَقَّيْتُكَ فَالْيُنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ

کیا سپدے یا ؟
تو یہو مشر چھ کینہہ تھو یکم اتھ پیٹھ ایمان ان
تو کینہہ چھ تھو یکم اتھ پیٹھ ایمان ان نہ - تو
پولن رب چھ فساد کرن والہن زبر یا مٹھ زانان۔

بہ ہرگاہ تم تریہ اپڑاونے، شو دن (ہتمن نہ) میانی
عمل آسہ (خود) میانہ باپتھ (مفید یا مضر) - تو
تہنتر عمل (آسہ) تہنہد باپتھ (مفید یا مضر) یہ
کینہہ شا بہ کرن چھس تہ (چہ ذمہ واریہ) ہنتر
بچھو توہی بڑی - تو یہ کینہہ شا توہی کرن بچھو تہ
(چہ ذمہ واریہ) ہنتر چھس بہ بڑی۔

بہ چھ یکم اندر (کینہہ تھو) یکم چھس (ومن
بر وقتہ) کن تھولن چھ۔ تو کیا تہ بوزناو ہکھا
تھو زری (ہنتر کتھ) اگر تہ عقلہ کام (ہی)

پولن آس نہ ؟
بہ چھ یکم اندر کینہہ تھو (تہ) یکم تریہ کن
(مڈے گنڈتھ) وچھان (روزن) چھ - (ا د ر)
کیا تہ لوکھا انہن و تھ یود و س نہ تہن (ہنتر کتھ)
حکاش آسہ ؟

اللہ (تعالیٰ) سندشان چھ تہنہہ نہ (چھنہہ
لوکن پیٹھ یقینا کینہہی ظلم کرن بلکہ چھ لوکھ
پستنہن زون پیٹھ (پانے) ظلم کرن۔

بہ تہنہہ وہہ نہ تہن ہتھس حاس مشر سونہارو
نہ (تہم آس نہ بیان) نہ زنتہہ تہم آس نہ ڈہک
اگر تہ بہ واری (ڈھیس مشر) روڈو ہتھ۔ تہم
کرن (اہر دہہہ پانہ وائی) اکھ اکر ہنتر زان۔ (یاد
تھو نہ) یکم لوکھ اللہ (تعالیٰ) ہنتر دربار
مشر پیش سدنک (وعدہ) اپڑوو تہ تہم بنے
یہ نہ ہدایت قبول کرن والو تھو تھل نو تھانے۔

بہ تہنہہ (یعنے تہنہہ غلابہ کر سونک) اکر
تہن ستر وعدہ کرن چھ ہرگاہ اسی تہنک کانہہ

اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿۱۰﴾

حصبہ (چاندن موجدی مندر سوزتھ) دوسے
(تہ تہ تہ و چھکھ) ، تہ ہر گاہ اُس تہ (امر
بروشٹے) وفات دوسے تہ (تہ سیدی
مسرہ پتہ اریح حقیقتہ معلوم تہ) بہر حال
(او کو زہ) تمن چھ اسہ کن چھ تہ یں (تمن
تہ پتہ تہ اریح حقیقتہ) معلوم - تہ (یاد تھو
ز) یہ کینرھا تم کران چھ - اللہ (تعالے) چھ
تہ زہر پانچ زمانان -

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ
قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

بہر پر تہ کتہ قومہ خاطر چھ اکھ (نہ اکھ) رسول
(یہ لازمی آسان) ادریلہ تمنہ رسول یوان چھ
تہ تمن در میان چھ انصافہ سان فاصلہ کرتہ یوان
تہ تمن پیٹھ چھنہ کانہہ ظلم کرتہ یوان -

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۱۲﴾

بہر چھ تم زمان (زہ) اگر توہر پتہ زہ یاد کر چھو تہ
یہ وعدہ کر سہ (پور) ؟
تہ ون (تمن زہ) بہر (تہ) چھس نہ اللہ (تعالے)
سندہ مشیتہ ور آری (پانہ) پستہ حقہ (تہ) کتہ
نہ قصاص پیٹھ تہ نہ کتہ فائیس پیٹھ اختیار
تھوان - (آ) امانہ بلوز یہ چھ صحیح زہ) ہر تہ
کتہ قومہ (کہ عذابس لایق سہنہ) خاطر چھ اکھ
معیار کتہ آسان - نیلہ سہ یوان چھ تہ (تمہ)
وقتہ) نہ چھ سہ (قوم) کانہہ تہ (تمہ تہ)
پتہ روزتھ (بچتھ) ہیکان تہ نہ چھ برو شتھ
چیتھ (سہ) امر تہ خلاصی تہ (ہیکان) -

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا
مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۱۳﴾

تہ ون (تمن زہ) وڈی تو (تہ سہی زہ) ہر گاہ سندہ
عذاب رات کیت یا دہلہ (توہر پانہ) وچھان
وچھان (توہر پیٹھ سہ تہ مجرم لوکھ کتہ کتہ
ہیکان تمہ تہ تہ ؟

قُلْ إرَاءَ يَتْمِرَٰنَٰتِكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتًا
أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ
الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۴﴾

پتہ نیلہ سہ سہ (توہر اڈی وا) تمہ وقتہ) تہ
پیٹھ ایمان ؟ (تیکت ہیکر نہ کانہہ فائیس
آرتھ - تمہ وز پیو توہر و تہ زہ) وہ (چھو)

أَتَمَّرَٰنَٰتًا مَّا وَقَعِ اٰمَنْتُمْ بِهِ ۗ وَاللَّٰنَ وَ
قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۵﴾

ا ! (تو ہی ایمان انان) ؛ حالانکہ تو ہی رودرگو
 (تمہ کس پیش نام) تمہ کہ جلدہ بیک مطالبہ کران۔
 پیتو، یو لوکو ظلم کورمت آسہ بہمن پیہ ونہ (نہ
 ووز) نہ ہو تو ہی قایم روزن دول عذاب۔ تو بہ
 چھوا پس نہ عملہ وراڈی بیہ کنہ چیزک جزا دہ یوان؛

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا
 عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ لِآيْمَانِكُمْ
 كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۷﴾

بیہ چھی ہم ثنیہ پیر شھان (نہ) یہ (عذاب) سپدی
 (پزی پٹھو) واقع ؛ نہ ون (بمن نہ) او او!
 میہ چھو پینس پروردگار ہنہ ڈوسے (نہ) نہ
 چھ بے شک واقع سپن دول تو ہی بیکون
 نہ (خلا یہ کرنہ نشہ) عاجز کرنہ۔

یونس ۱۰

وَيَسْتَنْثِيُونَكَ أَحَقُّ هُوَ أَمْ لِيَ
 ذَرْبٍ لَّئِنَّ لَكَ لَحَقًّا بَدَا مَا
 آنتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۳۸﴾

بیہ ہرگاہ پرچہ بتقس شخصس بیہ ظالم بتیومت
 آسہ، تہ سورے کیہنہ میلہ ہے یہ زمینہ اندر
 موجود چھ، نہ کرہے نہ تہ دتھ تہ پین نفس
 نیلہ تراوانوس منز کوتاہی۔ تہ نیلہ ہم عذاب
 وچین تہ ہم تھاون (پنہ) مند چھ کھنہ، تہ
 بہن منز بیہ الفاقہ سلن فاصلہ کرنہ تہ بہن پیہ
 پیہ نہ (کبھی تہ) ظلم کرنہ۔

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ
 لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا
 رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَذُفِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

بوزو! یہ کیہنہا آسمانس تہ زمینہ منز (موجود)
 چھ، تہ چھ یقینا (سر) سلم اللہ (تعالیٰ)
 سندے تہ اللہ (تعالیٰ) سند وعدہ چھ بیشک
 پور سپن دول۔ مگر تمو منز چھنہ واریاہ (لکھ)
 زانان۔

الْآلَانَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْآرِضِ
 الْآلَانَ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾

سہ چھ زندہ کران تہ مارن تہ، تہ تسو کن بیو
 تو ہی چھ پرچہ نہنہ۔

هُوَ يَخْفَى وَيُعِيتُ وَلَا يَبْهتُ تَرْجَعُونَ ﴿۴۱﴾

اے لوگو! تو ہی نش چھ تہندس ربہ ہنہ طرفہ
 بیشک اکھ (ترشہ کتاب آمہر یوسہ سر سلم)
 نصیحت (چھنہ) تہ سو چھنہ شفا (دہ و اجز بہن)
 سارنہ (دادہن) ہم سپن منز آسان چھ تہ ایمان

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ ثَمَكُمْ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا
 فِي الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ
 لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۲﴾

لہ یعنی کر تہ ممکن بیہ تہ بیکہ ہے مگر تہ بیکہ نہ سپدی۔

ان والین کرش چھینے ہدایت تہ رحمت۔
 تہ ون رہمن نر اللہ (تعالے) ہند فغلبہ تہ
 رحمتہ سوتی چھ (پہ سورسے کہینہ)۔ لہذا اٹھو پیٹھ
 پیر رہمن شادیاہ مناون - یہ (مال) تم سونبروان
 چھ تہ رہنتہ چھ یہ (نعمت کتہ کور) جاد بہتر۔
 تہ ون رہمن نر) کیا تو بہ چھوا پتہ کتہ (تہ کتہ
 وز سوجتہ) وچھپشہ - نر اللہ (تعالے) ہن چھ
 تہندہ باپتہ (آسمانہ پیٹھ) برزق نازل کورمت۔
 پتہ چھو تو بہ تہ اندر (کہینہ) حرام تہ (کہینہ)
 حلال قرار دیتت - تہ ون رہمن نر) کیا تو بہ
 چھوا اللہ (تعالے) ہن (امر کتہ ہند) اجازت
 دیتت مت۔ کہہ تو ہی چھو اللہ (تعالے) ہس (صرف)
 ہنرشہ لاگتہ تھاوان؟

بہ یم لؤکھ اللہ (تعالے) ہس ایز لاگتہ تھاوان
 چھ، تہندہ کیا خیال چھ قیامتہ کس دوہس
 متعلق؟ بیشک چھ اللہ (تعالے) لؤکن (سپتھ)
 سہ بڑی) الغام بخشن ول مگر تہو اندر چھ ولایہ
 (لؤکھ) یم شکر چھنو کران۔

بہ آسہ تہ (زانہ) کتہ کامہ منز (آور آسان۔
 بہ آسہ تہ یہیر (کتاہ) اندر کانہہ حصہ قرآنک
 پران تہ بہ آسہ تو تو ہی (ساری لؤکھ) کانہہ
 (بیاکھ) کام (سہ) کران۔ مگر یہیلہ تو ہی (یکو
 سار وہے صوثرزو اندر پسنہ کامہ منز لوہر)
 رغبتہ سان آورک آسان چھو۔ اسی چھو تو بہ وچھان
 آسان، تہ زمینہ یا آسمانہ اندر چھینہ کانہہ (کس)
 درس سنب چپز (تہ) پائس پروردگارس ہنس
 کھتہ آسان - تہ نہ چھ کانہہ (ذہ کھوتہ) لوکٹ
 یا بوڈ چپز یس (پر تہ کتہ حقیقتس پیٹھ) کاشس
 تراون واجتہ اگس کتابہ منز (چھکاوتہ تہ موہود)
 آسہ نہ۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ
 فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۱۰﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ
 رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا
 قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمَّ عَلَى اللَّهِ
 تَفْتَرُونَ ﴿۱۰﴾

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
 الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو
 فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 لَا يَشْكُرُونَ ﴿۱۰﴾

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتَلَوْنَاهُ
 مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا
 كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ
 وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ
 مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ
 مُبِينٍ ﴿۱۷﴾

الَّذِينَ آذَيْنَا بِهٖمۡ ۖ لَا يَخۡفُونَ عَلَیۡهِمۡ وَ
لَا هُمۡ یَحۡزَنُونَ ﴿۳۶﴾

بُوڑو! ہم (لوگ) اللہ (تعالیٰ) سے کسی بوز مجت
تھاوں واڈ چھہ بہن پپٹہ نہ چھہ کانبہ خوف
(غالب) آسان تہ نہ چھہ تم عمرہ آسان -
(یعنی تم لوگ) کیو ایمان افن تہ تقویٰ روڈو اہر
مہیشہ) رترھراوان -

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۳۷﴾

بہن ہند خاطر چھہ (چھہ) دنیاوی زندگی منتر
(تہ خلیہ ہند طرفہ) خوشخبر (بناک مقام مقرر)
تہ آخرتہ چھہ (زندگی) منتر تہ - اللہ (تعالیٰ) ہند
فرمان منتر چھہ (ہرگز تہ) کانبہ پھیر گہر (سیدتہ
ہیکان) - بیسہ چھہ (سو کامیابی یوسہ) عظیم الشان
کامیابی (چھہ) -

لَهُمۡ الْبُشۡرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ
فِي الْآخِرَةِ ۗ وَلَا تَبۡدِیۡلَ لِكَلِمٰتِ
اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفُوۡرُ الْعَظِیۡمُ ﴿۳۸﴾

بیسہ ستر تریہ بہنزر (کانبہ منافع) کتھ غلپن کری
(کمیاز) غلبہ چھہ کابہم پٹھو اللہ (تعالیٰ) ہسہ
حاصل (تہ) سہ چھہ زبر پٹھو بوزن دول (تہ)
جان پٹھو زان دول -

وَلَا یَحۡزَنُكَ قَوْلُهُمۡ اِنَّ الْحِزۡةَ
بِیۡلَہِ جَمِیۡعًا ۗ هُوَ السَّمِیۡعُ الْعَلِیۡمُ ﴿۳۹﴾

بُوڑو! (مخلوقا تہ اندر) یس (اکہ فرد تہ آسان
اند (بسنہ یوان) تہ زمین منتر (موجود) چھہ -
(سہ پرچہ اکہ) چھہ اللہ (تعالیٰ) سندس - تہ
ہم لوگ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی (بین چہین)
آلو دولن چھہ تم چھہ (دراصل خدایہ ہندین)
شرکین ہنزر پاروی کران (بلکہ چھہ حق یہ نہ) تم
چھہ صرف (پستہ) و ہسبج پاروی کران بیسہ
چھہ تم بے بنیاد اندازن کام ہوان -

اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِی
الْاَرْضِ ۚ وَمَا یَتَّبِعُ الَّذِیۡنَ یَذۡعُبُوۡنَ مِنْ
دُوۡنِ اللّٰهِ شُرَکَآءًا اِنۡ یَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا
الظَّنَّ ۚ وَاِنۡ هُمۡ اِلَّا یَحۡزَنُ صُوۡنَ ﴿۴۰﴾

سے چھہ (الشریک ہستی) بیسہ تہندہ باچھہ راتھ
او کوز (بج) بتاوتہر چھہ نہ توہو لٹواتھ منتر
آرام تہ (اتھ مقابل چھن) وہہ (کامہ کار باچھہ)
مکاشدار (ہنومت) ہم لوگ (پڑکتھ) یوزان
(تہ تمہہ نشہ فایدہ ستان) چھہ - تہندہ خاطر چھہ
یقیناً اتھ نظامس منتر کھو یا نشانہ -
تمو (کافرو) چھہ (نیوت تام) و ہنومت (نہ)

هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمۡ اٰیٰتٍ لِتَشۡکُرُوۡا
فِیۡہِ ۗ وَ النَّہَارَ مُبۡصِرًا ۚ وَاِنۡ فِیۡ ذٰلِکَ
لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّسۡمَعُوۡنَ ﴿۴۱﴾

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَاكۡدًا سُبۡحٰنَہٗ ؕ هُوَ

الْغَيْبِ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا، أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن (تہ) چھ (پسنہ) خاطر اولاد پانتا ورتو (نیلیہ زن) امر کچھ نشہ چھن (اکر) سہ (پاک گنتر اولان - سہ چھ سہٹھا (سہ) بے نیاز، یہ کینترھا آسمان اندر (لبہ یوان چھ) تہ پہ کینترھا زمپنس منز (موخوڈ) چھ، چھ (سورے) تندرے۔ امیک (یعنی اسہ) عواکٹ (چھنہ) توہہ نش کاٹہہ تہ ثبوت۔ (اڈ) کیا توہی چھوا اللہ (تعالیٰ) ہس کن سہ (کلام) منسوب کران بیچہ متعلق توہہ کاٹہہ تہ علم چھوہہ؟

تہ ون (تہن زہ) بیم (لوکھ) اللہ (تعالیٰ) ہس ایز لاگتہ تھوان چھہ ہم چھنہ ہرگز کامیاب پھان۔

قُلْ إِنَّ الْكٰذِبِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكٰذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۲﴾

وہی میں منز چھہ (تہند) حقہ کینترن وہ ہن بندہ باچہ (نفع حاصل کرن - پتہ آسہ) تہن اسی کن چھہ تھہ یون - پتہ اسہ باعہہ زہ ہم چھہ کفر کران (گرشمان) اسی باوہ تہن سجت عذاب (یعنی تمیک منز)

۱۲

مَتَّامٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنزِلُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۳﴾

بہ بوز ناوکہ تہ ہم نوح مند حال (تہ) تکلیز تہ (تہ) وناوہ پسنس قومس (تہ) اسے مایہ توہہ! ہرگاہ توہہ میون (خداہ مند دہیت) رتہ تہ اللہ (تعالیٰ) بندلو بشانوہی میون توہہ (تہند) فرض (یاد پاوان ناگور (گرشمان) چھوہ تیلہ تھاوہ یاد نہ صرف چھس بہ اللہ (تعالیٰ) بندس ذاتس پیٹھ بھوہہ تھوان - توہی سونبر اولوکھ پنزہ بناوہہ ہتو شریک تہ پنن معاملہ (یعنی تھہ متعلق ساری پوختگی ہندہ سامانہ تہ) تہ علاوہ بزرگ توہہ نہ تہند معاملہ گرتہ نہ توہہ پیٹھ (گنہ رنگ) شک آور روزن - پتہ کروہہ میہ پیٹھ نافذ تہ میہ بہ دیو (کینہی) مولت۔

پتہ تہ ہرگاہ توہی چھوہہ تھہ منز چھنہ میون کاٹہہ نوقصان (بلکہ تہندے چھہ) تکلیز مسیہ

وَاثَلْ عَلَيْهِمْ نَبَاؤُنَا الَّذِي اذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ يَقُومُوا لِيَوْمِهِمْ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذٰكِيْرِيْ بِآيٰتِ اللّٰهِ فَعَلٰى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوْا اٰمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا اِلَآئِيْ وَلَا تَنْظُرُوْنَ ﴿۱۴﴾

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اٰجِرٍ، اِنْ اٰجِرِيْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاَوْزَتْ اَنْ

اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

مومگو نہ توہم (تھ بدل) کا نہہ اجر۔ میون
اجر پھیند اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی بیہ کانسہ نش
تہ میہ چھہ حکم جزہ آمت زہہ بیہ (تسدلو) کارل
فرمانبردارو اندر۔

فَكَذَّبُوهُ فَانْتَبِهْ وَرَمَىٰ مَعَهُ فِي
الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً وَأَعْرَفْنَا
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاظْهَرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَذَكِّرِينَ ۝

اتھ پیٹھ تہ ایزو سہ رتو، اہ۔ بچو اسہ سہ بیہ تم
(تہ) ہم ناہ منز قس سبتو (سوار) اُس۔ تہ تم بتاؤ
اسہ بروتمو من لوکن ہندو وارث، تہ یو لوکو ساہ
نشاہ اپراؤ (تہ اُس) تم پھانداو اسہ (اُس) اہ
کمز وچھو (نہ) ہم لوکہ (تمہ عذابہ نشہ) بانجر کرنہ
آمتو اُس۔ تہند انجام کیٹھ سید؟

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ
فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا
لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ
كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ۝

اہ سوزی اسہ تس پتہ بیہ (تہ کبڑیا) رسول تہندس
قوس کن تہ تم آہ (تمن نش گاہشری نشاہ ہتھ
تہ تمو لوکو اولن نہ ایمان اسہ سبہ نہ یہ (پزرا)
اوس رتو (اسہ بروٹھ) ایزوومت۔ اُس چھہ حسہ
فسیر نیرن والین ہندین دہن پیٹھ بیٹھ کنز موہ کران۔
پتہ سوز اسہ تمن پتہ موی تہ ارون پتہ نشاہ ہتھ
فرعوس تہ تہند توہم کین برین لوکن کن۔ اہ رتو
پرور کبھر تہ تم اُس (برونٹھ پیٹھ) اکھ مجرم
قوم۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝

اہ نیلہ سانہ طرفہ تمن نش پزراو تہ تمو دوان نہ
بہ چھہ ضرور (تعلقات) تہ ہتھ تہمن وول اکھ فریب۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا
إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

موسیٰ ہن دوان (تمن اتھ پیٹھ نہ) کیا توہم چھوا
حقس نسبت (ہتھ پٹھو) دان؟ (بیہ سہ تمہ
وز) سبیر سہ توہم نش آمت چھہ۔ کیا یہ چھہ فریب
(یا یکسا فریب اُتھ؟) نیلہ زن فریب دہن (ا) کامیاب
چھو سپان۔

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا
جَاءَكُمْ ۚ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ
السَّاجِدُونَ ۝

تمو وونس کیٹھ چھکا اسہ نش (ا) کوز) آمت نہ ہتھ
کتھ پیٹھ اسہ پتہ جدا جدا لہو تہ چھو تہ لوکھ اسہ
تمہ نشہ؟ تہ توہم دونوں سپدو ملکس منز بحسہ
تھیل! عمر اُس الزہ نہ توہم (دونوں) پیٹھ ہرگز

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْلَمَنَّكَ عَمَّا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمْ أَلِكِبْرِيَاءُ
فِي الْأَرْضِ، وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِثْنُوْنِي يَكُلْ سَحِيْحًا عَلَيِّهِ ۝۱۰

اپیان -
تہ فرعون وون (پسین لوکن نر) توہر اٹھن مینہ
بش (ساری ملک) پر چتہ اکھ کابل زاز کار سچہ کر

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ ۝۱۱

اڈیلے سچہ کر آئیہ تہ موسیٰ ہن وون تمن (نر) یہ
کینشہا توہہ تراون چھو، تہ تراوو۔

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهٖۤ اِلَّا السِّحْرَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِلُّعَمَلًا الْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۲

اتھ پیٹھ بیلیہ ہمو (یہ کینشہا تمن تراون اوس) تراوو
تہ موسیٰ ہن وون (نر) یہ کینشہا توہہ لوکو پیش
کورمت چھو (تہ) چھہ پور پور قریب (تہ) اللہ
(تعالے) کرنتھہ ضرور نالوو۔ اللہ (تعالے) چھنہ
فسادین ہندے کار زانہہ وٹ کسہہ وون۔

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖۤ اَلْوَكْرِهٖۤ الْمَجْرُمُوْنَ ۝۱۳

بیہ چھہ اللہ (تعالے) پسینو گھماو ڈوہ پزرقاہیم
کران۔ اڈو مجرم (لوگ) کرکرتن (یہ کسہہ) ناپندہہ۔

فَمَا اٰمَنَ لِمُوسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ ذٰۤى مَلَأْتَهُمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۱۴

پیہ تہ اون تہندے قومہہو کینشہوہے نوجوانس پیٹھ
اپیان۔ باہتے لوکو کرکرتہ موسیٰ ہنز فرمانبردارکے۔
فرعون تہ پسینہ قومہہ کین بڑہن لوکن ہندہ پیہہ ستر
نر (پینہ) سہ لاگہ تمن کتہ مقبیس۔ تہ فرعون اوس
بے شک ہز بری کران وول بیہ اوس حد نمبر نیرن
والہو منتر۔

وَقَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۝۱۵

بیہ وون موسیٰ ہن (پسین قوس نر) اسے میانہ
قومہہ (کو لوکو) ہرگاہ یہ کسہہ (درست) چھینہ نہ توہہ
چھو اللہ (تعالے) ہس پیٹھ اپیان اونمت تہ ہرگاہ
توہر (اتھ سوتے تہندے) بیڑی فرمانبردار (تہ) چھو
تہ تسر پیٹھ کرے توکل۔

فَقَالُوْا عَلٰى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۶

اتھ پیٹھ وون ہمو (نر) اسر چھہ اللہ (تعالے) ہس
پیٹھ توکل کران۔ اسے سانہ پروردگار! اسر مہ
بناو ہین ظالم لوکن ہندہ خاطر (باعث) فتنہہ
بیہ بجاو اسر پسینہ رحمتہ سوتے کافر لوکن (ہندہ
ظلمہ) ہنتہ۔

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝۱۷

بیہ سوز اسر موسیٰ تہ تہندس باہس کن وھی نر توہر
کرے مہرس منز کینہہ جایہ پسینہ قومہہ کر (روزنہ)

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى وَاٰخِيْهِ اَنْ تَبَوِّاْ لِقَوْمِكُمْ مَّا يَمْضَرُّ بِبُيُوْتِكُمْ وَاَجْعَلُوْا

بِیُؤْتِكُمْ قَبْلَهُ ۚ وَاقْبِمُوا الصَّلَاةَ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۰﴾

خاطر مغفوس۔ تہ تو ہی ساری بتا دو پیٹھی (پتی) مگر
اکہ اُس کُن بختہ کرتے تہ (من من من) اُسو برتی
پاٹھو نماز ادا کران۔ میرے (کرکھ) پہ موی تہ نہ اسے
موسیٰ! تہ در مؤمن (کامیابی ہنزا بشارت)۔

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ
وَمَلَآئِكَ زِينَةً ۖ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ ۚ
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ۖ وَاشْدُدْ عَلَى
قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَصْرُوا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۳۱﴾

میرے دون موسیٰ ہن، اسے سائے پروردگار! تہ یہ
چھتہ فرعونس تہ تہند توہ کین برین لوکن (نیو)
دنیاوی زندگی ہنزا زینت (یعنے تمکی سامان) تہ مال
دقتہ تھاوہ موی۔ مگر اسے سائے پروردگار! تہ تہ
چھ پہ نیران نہ تم چھ چانہ و تہ نش (لوکن)
ڈالان۔ لہذا اسے سائے پروردگار! تہ ہند مال کز
تہ بر باد تہ تہندین دن پیٹھ تہ کر تہ سزائزل
تہ تہیک تہ تہ یہ نیران گرشہ نہ نیت تام نہ تم کر لوٹ
عذاب و حین تم عرشہن نہ ایمان اتہ۔

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ
فَاسْتَقِيمُوا وَلَا تَتَّبِعْنَ سَبِيلَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾

(اتھ پیٹھ) فرمودنکھ (اللہ تعالیٰ ہن) تہند دعا
آو قبول کر تہ، لہذا توہی دہلوے ماوو استقامت
تہ ہم لوکھ علم چھن تھالان۔ تہنر و تہ ہنر
پاروی کر تہ زلو نہ ہرگز۔

وَجَاوَرْنَا بِسَبْعِي إِسْرَاءَ يَلَّ الْبَحْرَ
فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا
وَعَدَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ذَرَكُهُ الْغَرَقُ ۖ قَالَ
أَمْنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتَ
بِهِ بَنُو إِسْرَاءَ يَلَّ ۖ أَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ﴿۳۳﴾

میرے ساتری اسر بنی اسرائیل سمدرس (پور) تہ فرعون
تہ تہند فوج لاریو نافرمانی تہ تہلمہ (چہ و تہ) کہتہ
جنس پتہ۔ یوستانی نہ سہ (تہند فوج آس) پھنہ
چہ بلا پہ روٹ۔ تہ تہو (یعنے فرعون) دن نہ
تہ چھس ایمان انان نہ نیس (اقتدار واجبہ
ہست) پیٹھ بنی اسرائیلو ایمان اؤمنت چھ تس
سوا چھنہ کانہہ تہ معبود تہ ہر چھس (پتہ)
فرمانبر داری کرن والہو منہر (بنان)۔

أَلَنْ ۚ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ ۚ وَكُنْتَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿۳۴﴾

(اسر ووس) کیا؟ (تہ چھکا) ووز! (ایمان انان)
نیلیر زن تہ گور نافرمانی کرتے تہ تہ اوسکھ فادو
اندہ۔

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لَتُنَكُونَ لِمَنْ
خَلَقْتَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

لہذا از چھی تہ مکی چانس بدس (پتہ کُن تھوہ
اکہ اڑنوک) نجات دوان سیتہ زن تہ تہند خاطر

عَنْ آيَتِنَا لَخَفَلُونَ ﴿۱۰﴾

۱۰
بیم تریہ پتہ پتہ پتہ والہ چھہ اکھ نشان بلکہ تہ لوکو
اندر چھہ واریاہ انسان سانو نشانو نشہ بلاشک
بے خبر۔

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً
صِدْقِي وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ فَمَا
اِخْتَلَفُوا أَحْتَىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ
رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱﴾

بیم اس ابنہ بنی اسرائیل بلاشک بوؤ بوؤ ہایق
(پر پتہ رنگ) رزقہ واجز جاس ڈر ہتر۔ تہ پرتہ
رنگہ) خوش بوؤ چیز (تہ) اسو تمن وڈ ہتر۔
پتہ تھہ وقلس تام نہ تمن نش او مصحح علم
تمو کوڑ نہ (کنہ کتہ متر) اختلاف۔ اسہ کتہ ہند
حقہ پتہ منز ہم اختلاف کران چھہ، بے شک
چون پروردگار کر قیامتہ کر دوہہ فاصلہ۔

فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
فَسْئَلِ الَّذِينَ يُفَرِّغُونَ الْكِتَابَ مِنْ
فَمِثْلِكَ ۖ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۲﴾

(اسے قرآن پرن والہ!) اڈ ہکاہ تہ نینہ
(کلام) کہ باعشہ یس اسہ تریہ کن تازل کوڑت
چھہ کنہ شکس منز (ہینہ آمت) چھکھ تہ
تہ کر تمن لوکن نش ڈریاقت بیم تریہ ہر ونڈ
تہ یہ کتاب پران چھہ (تہ تریہ سپدی معلوم نہ)
بلاشک چھہ (اکھ) شامل صداقت پچاس پروردگار
ہند طرفہ تریہ کن آہتر۔ لہذا ہر بن تہ شک
کرن والہو اندر۔

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۳﴾

بیم ہر بن تہ تمو (لوکو) اندر ہرگز۔ یو اللہ
(تعالیٰ) ہندہ نشان اپڑاؤر ہتو چھہ۔ تہ
سپکھ تہ نوتصان تمن والہو اندر۔
ہین لوکن متعلق پچاس پروردگار ہتر (یعنی
تہد طرفہ بلا کچہ) خبر آہتر چھہ ہم ان نہ
ہرگز اپمان۔

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّقْتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتٍ
رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۴﴾

۱۴ یہ آہ چھہ قرآن کریم کہ صداقت اکھ بوڈ ثبوت۔ کینہہ کاپے چھہ گوڑت نہ ہر قوم ہتر لاش
چہ اتھ آہتر تہ ووذ چھہ سمو ہر کس مجاہب گرس منز تر ہتر تھہ تمہو تہ آہتر۔
تہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتو تہند اختلاف اک فاصلہ سپد قیامت کر دوہہ۔
تہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسو شک تہ شبہہ کر نہ نشہ ہلا۔ لہذا یہ خطاب چھہ
قرآن مجید پرن والہ بن ہین لوکن ہندہ خاطر۔

بہ ہرگاہ جہنم نش پر پتھ کتہ قسکو نشا نہ تہ پین
تیلہ تہ اش نہ تم تہہ وقتس تام ایمان یوت
تام نہ تم کر لویٹ عذاب و حین۔

بہ کیازینے یہ نہ یونس بند قومہ ورائی (بیکہ
تڑھ) کاٹھہ بستی یوسہ (سر سٹلم) اپمان اہے؛
تہ تمیک ایمان اتن دیہ ہے تس نفع؟ ییلہ
تمو (یعنے یونس بند قومہ کہو لوکو) ایمان اون
تہ اسہ کور جہنم نش) ییہ دنیاوی زندگی منتر
(تہ) رسوائی بند عذاب دور تہ جہنم کور اُکس
وقتس تام (پر پتھ رنگلک) سامان عطا۔

بہ ہرگاہ اللہ (تعالیٰ، ہدایتہ کس معاملس مترا
پینی مرضی جاری کر ہے۔ تہ (سیتر) لوکھ زینس
پیٹھ موجود ہے تم اتو ہن سر سٹلم ایمان (لہذا نیلہ
خلائے تہ مجبور چھتہ کران) تہ کیا تہ کر کہا لوکھ (تہتر)
مجبور نہ تم بن مؤمن؟

بہ چھتہ اللہ (تعالیٰ) بندہ دتہ ہتہ اذہ ورائی کاٹھہ
شخص اختیار نہ ازہ اپمان۔ تہ سہ (اللہ) چھ
پن غضب جہنم لوکن پیٹھ (تازل) کران یم عقول
آستہ تہہ کام چھتہ مہوان۔

تہ ون (جہنم تہ) و چھو (تہ) آسمان تہ زمینہ
منز کیا (تغییر) چھ (سپدان) تہ کتہ قسکو
نشا نہ (تہ) اہ انکو اُس تہ یا ہتیار کرن واجہہ
خبر اُس تہ (تم) چھتہ جہنم لوکن قاید و اتنا وان
بیم ایمان نہ انس پیٹھ واڈ کر تہہ آس۔

اہ کیا تم جہا جہنم بروٹھ گذریمین لوکن ہندین دہن
ہولو دہو ورائی بہ کتہ چیزس پیارن؟ تہ ون
جہنم (نہ) اہ کیاہ! (اگر سے نموتہ و حین چھو
تہ) تیلہ پیارو توہو (تام) بہ تہ جھس بے شک
تہ ہر سوتو پیار و حین منتر۔

تہ (تیلہ سہ عذاب پیر تہ) اُس بجا وکھ (تہ وقتہ)

وَلَوْ جَاءَ ثَمُهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً أَمِنَتْ فَتَفَعَلَهَا
إِيمَانًا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا
كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخَذْيِ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۝

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ
كُلَّهُمْ جَمِيعًا إِفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَمِّنَ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ ۝

فَلِإِن نَّظُرُوا مَا دَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضِ وَ مَا تُغْنِي الْآيٰتُ وَ النُّذُرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَاتِ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنْتَظِرُوا إِلَيَّ
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ۝

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ

حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾

پنجر رسول تہ یحیٰ لوکو تمہن پیٹھ ایمان اونمت آسہ
 تم ساری ہتھ - یقینے پاتمہر چھہ سانہ ذمہ (پانہ
 پنن تقایم کورمت) اکھ حق تر آسہ چھکھ نمون ضرور
 بجاوان -

تر ون تر اے لوکو! ہرگاہ توہر میانس دپنس
 متعلق کنہ قسم کس شکس منز بھوہر تہ (بوزونہ)
 اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی مین (معبودن) ہنر توہر
 عبادت کران چھو بہر چھس تہ تمہن ہنر عبادت
 کران - بلکہ بہر چھس اللہ (تعالیٰ) ہنر عبادت
 کران یس توہر وفات دی و، تہ میہ چھہ حکم

دتر آمت تر بہر بہر ایمان انن والہو اندر - میت
 بیہ (چھہ میہ یہ فرمان واتناونک تہ حکم دتر آ)
 تر (اے بوزن والہو!) پرہتھ کنہ ہجر ہنر پاک
 رورہتھ کر تر پنن توتہ ہمیشہ خاطر دینہر باہتھ
 (وقف) تہ تر مہر بن مشرکو اندر -

تہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی مہ دتر (کنہ چیزن)
 آلو، یس تر نہ چھہ (کانہہ) نفع واتناوان
 تہ نہ چھہ کانہہ نفعان واتناوان، تہ ہرگاہ تر نہ
 (ہتھ) کورہتھ تہ تھ صورتس منز یکھہ تر یقینت
 ظلمن منز گنراوتہر -

بیہ ہرگاہ اللہ (تعالیٰ) تر نہ کانہہ تکلیف واتناوی تہ
 تس وراہی چھہ کانہہ سہ دور کرن وول (ہنہ ہکان)
 تہ ہرگاہ سہ چانہر باہتھ کانہہ ررہر ہنر تہ تس
 فعیل ہتھ رن وول (تہ) چھہ (ہرگز) کانہہ
 (ہنہ ہکان) - پسنہو بندو منز یس سہ پسند
 کران چھہ تس چھہ (پنن فعیل) واتناوان تہ
 سہ چھہ سٹھبے بخش ہار (تہ) چھہر چھہر رحم
 کرن وول -

تر ون (تمہن تر) اے لوکو! توہر ہنر چھہ تمہنر
 پروردگار ہنر طرفہر حق آمت - اوکو (وہوہر)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ
 مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ
 الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِرِ وَاُؤْمِتْ أَنْ
 أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱﴾

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲﴾

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ
 وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
 مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳﴾


وَرَأَى بِيَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
 لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنَّ يُرِيدُ بِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
 لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴﴾

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ
 مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا

يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١١﴾

یَسْ كَانْتَهَا (تسند بیان فرمودت) ہدایت
 پراو تہ سہ چھ پستہ زبو (کہ فایدہ) خاطرے
 ہدایت پراوان تہ یس تمہ وتہ بنش ڈلہ تہ تسند
 ڈلن (تہ) اسہ تہندس زوہے پیٹھ (اکھ وہل)
 تہ ہر چھس نہ تہند کا نہہ ذمہ وار۔
 بیہ یہ کینترھا تہ ی کن وحی کرنہ یوان چھ تہ
 کر تہج پاری تہ صبرس بیہ کلام، یونام نہ
 اللہ (تعالے) فاصلہ دیہ۔ تہ سہ چھ سارہے
 فاصلہ کرن والہو کھوتہ جہا رت فاصلہ کرن وول۔

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ لَكَ وَإِصْبِرْ ۚ حَتَّىٰ
 يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٢﴾



سورة ہود - یہ سورہ چھ نکئی تہ بسم اللہ ہتھ چہ اتھ اکھ تہ تہ ترووہ ایہ بیہ چھس واہ زکوع۔

يَسْمُو اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ ﴿١٣﴾

یس (ہر چھس) اللہ (تعالے) مند ناو ہتھ (پران) یس
 حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رحم
 کرن وول چھ۔
 بہ اللہ چھس موحین وول (یہ) کتاب چھیر تہ
 نہ اہو آیہ چھ حکم کرنہ آہوتہ تہ بیہ چھیر ہم واش
 کدھ بیان کرنہ آہوتہ (تہ پے) چھ حکیم تہ خیر
 (خداہ) ہند طرفہ۔
 (بیہ) چھ اتھ تعلیمہ پیٹھ مشتبہل نہ توہر مہ کروی
 اللہ (تعالے) ہس وائی (گائسی) ہنز عبادت۔
 بلاشک بہر چھس خداہ ہند طرفہ تہند خاطر اکھ
 ہشید کرن وول تہ اہم خبر دیو وول (بنادھ سوزنہ
 آمت)۔
 بیہ یہ نہ توہر منگو پستہس پرور دگارس بخشش
 تہ تسو کن کروی (نوز) ربوع۔ سہ کرک و توہہ
 (او) اہس مقرر معیادس تام رتی پاتھو ساناہ
 عطا تہ امر علاو کر پرہتھ اہس فضیتہ و اہس

الذات ركبت احكمت ايتة ثم
 فصلت من لدن حكيم خبير ﴿١٤﴾

اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ۚ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ
 نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ ﴿١٥﴾

ذٰ اِنْ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا
 اِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا ۗ اِلَّا
 اَجَلَ مُّسَمًّى ۗ ذٰ يُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ

(شخص) پنن فعل عطا۔ اور ہر گاہ تو ہر چہیرو
تہ بہ چھس بے شک توہہ پیٹھ اکہ بیڑ (خطرناک)
دیکر عذابہ (کہہ بہنہ) نشہ کھوڑان۔

اللہ (تعالے) ہس کن چھو توہہ (سارہنے)
واپس چھپتھ گترشن تہ سہ چھ پدہتھ چیزس
پیٹھ کابل رنگس منز قدرت تھون وول۔

بوزو! یقیناً چھہ تم پینتر سہیرو او
کو چھران روزان تر نس نش روزہ ہن
ثہا یہ۔ بوزو! یہیہہ وقتہ تم پینتر پلو ورتھ
تراوان چھہ (تہ تمہ وقتہ تہ) یہ کینترھا تم کلہتھ
تھاوان چھہ تہ یہ کینترھا تم تون کلان چھہ، سہ
چھہ تہ زانہ (آسان)۔ سہ چھہ بے شک سہین
ہنتر کتھہ (تہ) زبر پاتھر زانان۔

یعنی چھہ زمپنس منز ترہہ کا نہہ زو ذات ہنتر سہ
رزق اللہ (تعالے) ہس میہ آسہ نہ۔ سہ چھہ
تسہر عارضی روزن جاے تہ تسہر ہمیشہ روزن
جاے تہ زانان۔ (یہ) سورہے (کینتر) چھہ اُکس
وضاحت کرن واجہہ کتاب منز (موجود)۔

ہیہ سہ چھہ ہینو آسمان تہ زمین شہین وقتن منز
پاؤ کرر متو چھہ۔ ہیہ چھہ تسہر عرشہ آسہ پیٹھ۔
ہیتھ زن سہ تہہند امتحان کر (ز) توہہ منز
کو ہنتر عملہ چھہ جاؤ رتہ تہ یہ چھہ پترہ دار
کتھ نہ ہر گاہ تہ (تہن) ونکہ (ز) توہہ ہیو مرنو
پتہ ضرور تسلیم تہ ہیو لوکو انکار کورٹ چھہ، تم
دین (قسم کرر کرر) یہ دعوی چھہ صرف اکھ

فَضَلَهُ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُؤْرِكِبِيهِ ۝

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا
مِنْهُ، أَلَا حِينٍ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ،
يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ، وَمَا يُغْلِبُونَ، إِنَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى
اللَّهِ رِزْقَهَا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَّهَا، وَ
مُسْتَوْدَعَهَا، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،
لِيَبْلُوكُمْ، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وَلَئِنْ
قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا
سِحْرٌ مُبِينٌ ۝

سہ یعنی اللہ تعالے ہس نش۔

سہ عرشس مراد چھہ حکومت یا حکومت کررکے اصول۔ قرآن کریم چھہ آس وھی مراد توان یعنی اللہ
تعالے ہنتر حکومت چھہ وھی ہنتر ذلیعہ دنیا ہس منز قائم۔ اللہ تعالے چھہنہ مادی وجود تھاوان نہ
تسہر تحت آسہ کا نہہ بادشاہ ہنتر چھہنکر پاتھر۔

فریب۔

بیہ (بجو پہ تہ پترہ دار کتہ نہ) ہر گاہ اُسی بیہ عذاب اُکس گنڈتہ مُدلس تام بہن نش پتہ پتہ تہ تہا وون۔ تہ رتم وون ضرور (زہ) کوس کتہ پتہ پتہ رکاوٹان۔ بوزو! یہیہ وقتہ سہ (عذاب) بہن پتہ پتہ بیہ، سہ بیہ نہ بہن نش دُور کرنہ، تہ بیہ عذایس پتہ پتہ رتم محول کران اُسی سہ بیہ بہن وون۔ بیہ اگر اُسی انسانس پتہ طرفہ (کتہ قسبح) رحمت (یعنی تمیک منہ) تہ ہنا وون۔ (تہ) پتہ، ہوا اُسی سہ تمس اتہ تہ سہ پتہ سبٹہ ہے نا وومید (تہ) احسانک منکر سپان۔

بیہ ہر گاہ اُسی کتہ مصیبتہ پتہ بیس تس وومت اُسی (کانہہ بڑ) نعمت (یعنی تمیک منہ) سہ تہ ہنا وون سہ پتہ وون، ہوان نہ میاڈ (سُدی) تکلیف بجہ میہ نش (وون) دُور گاہتہ۔ بے شک پتہ سہ سبٹہ ہے تہ عو کہ ہاون وول (تہ) فخر کرن وول۔ تہو لوکو ورا ئی یک ہر کرن تہ نیک عملہ بجا ان تہے (صابر لوکھ) پتہ بہن ہند خاطرہ بخشائیش تہ (سبٹا) بوڈ اجر (مقدر) پتہ۔

لہذا (شاید پتہ کافر تہ نش یہ توقع کرن نہ) تہ سپکھ تمہ (کلاہہ) منہ یہ تہ پتہ پتہ موحی کرنہ ہوان پتہ کپنہ جعبہ (لوکن وائنا وون بدل) ترا وتہ تہ بہن نس پتہ تیار (مگر تہ ہیکہ نہ نہ شیبہ سپتہ) تہ (تم بجو پتہ توقع تہا وون نہ) بہن ہند امہ اعتراضہ کتہ گر تہ چون دل تنگ نہ اُسیس پتہ کونہ ووتہ کانہہ خزانہ یا اُسیس پتہ کونہ آو کانہہ ملک تہ پتہ صرف (ہشیر تہ) خبردار کرن وول تہ اللہ (تعالیٰ) پتہ پتہ کتہ ہند کار ساز۔

کیا تم چھا وونان (نہ) اُسی پتہ یہ کتاب پتہ طرفہ بنا و پتہ؟ تہ وون بہن، ہر گاہ توہی (اتہ) وونش اندر) پتہ یارک پتہ توہی تہ اُلو بہی داہ

وَلَيْنَ أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوعًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۗ إِنَّهُ لَكَفُورٌ كَفُورٌ ﴿١٠﴾

وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسَّئَةٍ لَّيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۗ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾

إِنَّمَا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٠﴾

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَصَاحِقٌ فِيهِ صَدْرُكَ ۖ إِنَّ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠﴾

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ ۖ وَإِذْعُوا مِنِّي ۗ اسْتَطَعْتُمْ مِنِّي دُونَ اللَّهِ ۗ إِنْ كُنْتُمْ

صِدْقَيْنِ ﴿۱۷﴾

سُوپر پینہ طرف بٹاؤتھ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہس
ورائی تیکر سُنڈ (تہ پینہ امداد خاطر اَتک)
توہ طاقت آسہ و، سہ اُنیون ناد دتھ۔

لہذا ہر گاہ تم تہننڈ (یہ) کتھ قبول کرن تہ۔ تیلہ
زُاؤرازیہ (کلام) توہ پیلہ نازل کرنہ اُمت
چھ (تہ) چھ اللہ (تعالیٰ) ہندس خاص طمس
جاسے دتھ۔ بیہ یہ زرتس ورائی چھنہ کانہہ تہ
عبادتس لایق۔ لہذا کیا توہی بڑ وا کابل فرمانبردار
(کتہ نہ) ؟

فَالَيْمَ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا
أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۷﴾

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا
نُوفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَا لَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا
لَا يُنْخَسُونَ ﴿۱۷﴾

یکم (لوگ بیہ) دنیاوی زندگی (ہندس سامانہ) تہ
امیکٹ پارو (پنن) مقصود بناون۔ تمہن دمو
اُس تہندس اعمال (شمر ہتھ) بیچو (زندگی) منز
پوڑ پوڑ۔ تہ تمہن پیہ تہ اتھ اندر دکیہ تہ (کم ہنہ
پیلے چھ تم (لوگ) یکن ہند خاطر اُنترس منز (دوڑنہ
نہ) نار ورائی (بیہ) کیتھ آسہ تہ۔ تہ یہ کینرھا
تمو بیچو (دنیاوی زندگی) خاطر کورمت آسہ
سہ گرتھ تہ سورسے بیکار تہ یہ کینرھا تم کران
روزان آسن، تہ سید تباہ۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا
النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

لہذا کیا سہ (شخص) ایس پننس پروردگار ہند طرفہ
اُنکس گمانہ سُرک دلیہ پیلہ (تاکیم) چھ۔ بیہ پنپس
پتہ تہ تہند طرفہ اک گواہ بیہ ایس تہند فرمانبردار
آسہ (تہ) تہ تہس بروٹھ تہ چھ موسیٰ ہنر کتاب (دوڑنہ
پوسہ تہند تہا پد کران اُس تہ) یوسہ (تہند کلام
بروٹھ) لوکن ہند خاطر امام تہ رحمت اُس (ہنکیا
اُنکس ایز دعویٰ کرن وایس ویو آستھ) تم (موسیٰ

أَقَمْنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْتِهِ مِن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ
شَاهِدًا مِّنْهُ وَمَنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ
إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ
مَوْعِدًا ۚ فَلَا تُلْكَ فِي مَذْيَبَةٍ مِّنْهُ ۚ
إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۷﴾

لہ تہ آیہ مطابق چھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس تہ تہ کس دعویٰ ہس پیلہ تہ تہ گواہ دا، تم دلائل
تہ معجزات یکم ہتھ تم پانہ آسے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہنر کتاب توراس منتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلمن متعلق واریاہ پیشگوئیہ، یہ کیو پتہ بیہ امت محمدیہ منتر تہند پو پارو کار و منتر اکہ تہ تہ مانور
تیکر ہندس الہامات تہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند دعویٰ ہک تصدیق کرن۔

ہندی بڑی پاروکار) ائن تس پیٹھ (اکر دہہ
 ضرور) ایمان تہ یجو مخالف مجازو اندر یس
 کاترھا انکار کران روز، جہنم چھ تئند وعبر دین
 آمت ٹھکانہ۔ لہذا (اے مخاطب!) تہ میرا
 اتھ متعلق کتہ (قہر کس) شکس منز۔ یہ چھ بے
 شک حق۔ (تہ) چائس پروردگار ہندی طرف چھ۔
 ووزی گوو واراہ لوکھ چھنہ ایمان انان۔

بہ کس چھ (یا بیکر آمتھ) تئند کھوتہ جاد فللم
 یس اللہ (تعالیٰ) ہس ایز لاگتھ تھاو۔ پتھر لوکھ
 پن پنسن پروردگارس بروٹھ کتہ پیش کرنہ تہ ساری
 گواہ دین (نہ) ہم چھ تم لوکھ یجو پنسن پروردگارس
 ایز لاگتھ تھوو۔ بوزرو! ہمین ظلمن پیٹھ چھ اللہ
 (تعالیٰ) ہنز لعنت۔

(ہم چھ تم لوکھ) ہم اللہ (تعالیٰ) ہنز وتر نشہ
 (لوکن) پتھ رٹان چھ۔ بہ چھ تھہ منز تجسر
 یاد کرن ہیشھان تہ یے لاگھ چھ پتہ ہینہ واجبہ
 دگر) ہندی (ساروہے کھوتہ بڑی) منکر۔

ہم (لوکھ) ہمکن نہ ٹکس منز (اہلی سلسن)
 کمزور کتھ۔ تہ نے چھ اللہ (تعالیٰ) ہس وراکو
 تہند کاتہ دوست آسان۔ ہمن چھ دو گیون
 عذاب دینہ یوان (دو ہیہس اندر تہ تہ آخرتس
 اندر تہ)۔ نہ چھ تم (کیہنہ) بوزتھ ہیکان تہ نہ
 چھ (کیہنہ) وچھتھ ہیکان۔

یے لوکھ چھ یجو پننہ زوگھٹس منز تراوکی تہ
 یتیم (مطلبہ) خاطر ہم (اللہ تعالیٰ ہس) ایز
 لاگتھ تھوان آس سہ روز ہمن نش (اتھ تلسہ
 گتھتھ) راوان۔

یہ چھ پتھہ وار (کتھ) نہ آخرتس منز آسن تھ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
 أُولَٰئِكَ يُجْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ
 الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ
 أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
 وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
 كَافِرُونَ ﴿۱۰﴾

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُجْرِبِينَ فِي الْأَرْضِ
 مَا كَان لَّهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن آٰلِيَاءَ
 يُضَعَّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا
 يَشْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَ مَا كَانُوا
 يُبْصِرُونَ ﴿۱۱﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
 وَ صَلَّٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۲﴾

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ

الْأَخْسَرُونَ ﴿۲۷﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷﴾

(سارو پے کھوتے) جاوے خواہ ستمن والے۔

پیمو لوگو ایمان اون بیہ کر تمونیک (تہ مناسبت
حال) علمہ تہ پینس پرور وگارس کن تے یہ۔
تم چوہ لآزمین جنتی۔ تم گرتھن تھہ جنتس منز
روزان۔

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْحَىٰ
الْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۲۸﴾

بین دونوں فریقین ہنرمالت چھہ ایکس اُرس تہ
گاشدار سبزر، تہ زُرِس تہ رتی پاتھو بوزن والے
سبزر ہش۔ بین (دون) ہنرم حالت ہکیا ہش
اُستھہ؟ کیا تو تہ تہ، چھو تا تو ہہ ہکر تران؟

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذِ ابْنُ كَعْبٍ
يَسْتَفِيضُ بِأَيْدِيهِمْ يَوْمَئِذٍ أَلَيْسَ لَنَا
بِأَعْيُنِنَا جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَفِّرُ بَعْدَ ذَٰلِكُمْ
وَيَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ وَأَنَّهُ كَإِذَا صَرَسَ
قِرْبَاتٍ يُصْرَسُ أَفَلَا يَظُنُّ إِيَّانَا أَن نَحْمِلَ
وِزْرَهُ إِنَّا جَنَابٌ مُّبِينٌ ﴿۲۹﴾

بیہ سوزلو اسہ نوح تسندس قوس کن (پہنغیربت و تھہ،
یتھ پیٹھہ تمون و تیاو) نر وار بوزو! یہ، چھس
توہ کن واش کڈتھ خیروار (تہ ہشیر) کرن وول
(بناوتھہ سوزنہ آمت)۔

أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمِ إِلْيَٰمٍ ﴿۳۰﴾

(یہ پیغام ہتھہ) نر تو ہو میر گرو اللہ (تعالے) اس
ورای (کائنہ ہستی) ہنرم عبادت۔ یقیناً ہو چھس
توہ پیٹھہ اگر بڑ تکلیف (دنو) والہ ڈہکر عذاب
(کرینہ) ہشہ کھو تران۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ
مَا نَرُكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَ مَا نَرُكَ
اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بِأَدْيٍ
الرَّأْيِ وَ مَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ
بَلْ نَنظُرُكُمْ كَذِبِينَ ﴿۳۱﴾

اتھ پیٹھہ وون (تس) تمو بڑو لوگو کیو تہند قومو
منز (تسند) انکار کورمت اوس (نر) اُس جھتھہ
نر بڑ پاس ہوس انسان ورای (کینہ تہ) زمانان
تہ نہ چھہ اُس دیو وچھان نر تمو لوگو ورای۔ کم
سر سڑی وچھنہ پاتھو اسہ منز سارو پے کھوتہ
اُسو پایہ (بوزن لیان) چھہ، کہ آسہ کائنہ چاڈی
پاروی اختیار کر مہتر۔ تہ اُس چھنہ پسنہ کھوتہ
جاوے ترینہ منز (گنہ تسبیح) کائنہ فضیلت

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ
مِّن رَّبِّي وَ أَنزَلْنَا رَحْمَةً مِّن عِنْدِهِ
فَعَمَيْتُمْ عَلَيْكُمْ ؕ أَنزَلْنَا مَكْمُوهًا وَ
أَنتُمْ لَهَا كِرْهُونَ ﴿۳۲﴾

وچھان، بلکہ اسہ چھہ یہ بیہتھہ نر بڑ چھہ اپزور۔
تمو وون، اے میا تہ قوم (تہ سٹا) وونو (تہ
سہی نر) ہر گاہ (ثابت سید نر) ہو چھس (پنہ
دعوئی، بچ بنیاد) پینس پرور وگارس سبہ طرفہ
(عطا سیدے مہرس) گنہ تھس زنتس پیٹھہ

(تھوں) تو تم جو چھ پسنہ دربارِ میہ پینڑ اکھ
سہٹا بڑ رحمت عطا کر مہتر تہ سو چھینہ توہہ نش
پوشیدے رُوڑ مہتر (تہ تہندہ حال کیا آسہ؟) کیا
اُسی ماننا وو وایہ (پر پزلون نشاہ) توہہ
زبردستی؟ او ہرگاہ سہ توہہ ناپسندہے کران
اُسیون؟

بیہ اے میانہ قوم! بہ چھس نہ امر باچتہ توہہ
کانہہ مال منکان، میون اجر چھینہ اللہ (تعالے)
ہس وراہی (بیہ) کانہہ نش۔ تہ بہ دمہ نہ تم
لوکن ہرگز کہہ کیو (میہ پپٹ) اپکان او کمت
چہ۔ ہم (تہ) چھ پسنس پروردگار سسکھن
وای۔ مگر تم ذلیل زانہ چھ میہ ہوتہ دیوان
نہ توہہ چھو جاہل لاکھ۔

بیہ اے میانہ قوم! اگر بہ تمہن کہہ دمہ تہ
اللہ (تعالے) ہندہ طرفہ (ہینہ والہ سزا بہ ہنہ
بچاوتہ خاطر) کس کر میون مدد؟ کیا توہہ چھو
نا (توتہ) فکر ترن؟

بیہ چھسو تہ بہ توہہ (ہیہ) وان (نہ) میہ نش چھ
اللہ (تعالے) ہندہ خزائہ تہ نہ (چھسو بہ) یہ
وانان، تہ بہ چھس علم غاب زانان تہ نہ چھس
بہ بہ وانان نہ بہ چھس ملک، تہ نہ چھس بہ
تمہن (لوکن) متعلق بین متہنہز اچھ حقارتہ چہ
نظر وچھان چھ، (ہیہ) وانان (نہ) اللہ (تعالے)
کر نہ تمہن نہ ہنہ کانہہ خار عطا۔ یہ کینہہا
تہندہن دن مشز چھ تہ چھ اللہ (تعالے) ہے
ساروہے کھوتہ (بہتر زانان۔ اگر بہ ہنہ
کتھ کہہ تہ) بہ سپہ بیشک تیلہ نظر ہن اندہ
شابل۔

تمو وون (نہ) اے نوح! تہ کورتہ اسر سہتر
بحث بلکہ زبردست کورتہ۔ وہ فی روز یشہ

وَيَقُولُوا لَا آسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَاءِ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْفِقُوا رَبَّهُمْ
وَلِكَيْتِي آرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ⑤

وَيَقُولُوا مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ
طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ⑥

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ
لَأَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ
وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ
لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ
الظَّالِمِينَ ⑦

قَالُوا يَنْتُحَرُّونَ فَجَادَ لَتَنَا فَكَثُرَتْ
جَدَانَا فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ

الصّٰدِقِيْنَ ﴿۳۷﴾

کتھ نہ ہرگاہ تہ پڑ یار لو اندر چکھ تہ میسر
(عذاب) ہنہ تہ اسہ کھوٹا ناوان چکھ سہ ان

اسہ پیٹھ -
تو وونمہ ہرگاہ اللہ (تعالے) ہے میسر تہ
انہ تھہ ، تہ توہی ہیکھون ہ (سہ تہ کہ اسہ
ہنہ) ہرگز عا جز کر تھہ -

بہ ہرگاہ ہر پینہ کنز توہہ کیت رت تہ میسر
تہ میون (توہہ متعلق) رت تہ پھن و اتناو و تہ
توہہ (اللہ تعالے ہند عذاب ہنہ) بکھنہ عا کانبہ
قاید ہرگاہ اللہ (تعالے) ہے) ہر تھان آسہ تہ
توہہ کر و ہاک ، او سہ پھ تہند پروردگار تہ
تسکین ہیر توہی واپس پھیر تھہ ہنہ -

کیا تم چھا وناں (نہ) اُمی چھہ یہ (عذابک و عسر)
پانے پانے دایرومت ؟ تہ و ن امن اگر میہ یہ
پانے دایرومت آسہ تہ یہ خطرناک جرم پیسیہ
(ضرر) میہ پیٹھ (وبال ہنہ) تہ (تہند من
جرم ہند وبال آسہ تہ میہ پیٹھ تکلیز) ہم
خطرناک جرم توہی کران چھو تھن چھس ہر ہیزار -
تہ توہس کن اس (پیتہ) وحی کر تہ آہنہ - نہ
ہیو لوکو، ایمان اونمت چھہ تھو ورائی انہ تہ
چاہہ توہہ اندر (وہی) کانبہ (بیاکھ شخص تہ
پیٹھ ایمان - او کہو یہ کنبہ شہا) ہم کران چھہ تہ
کہو مہر تہ افسوس -

بہ بناو تہ سانبہ اچھن (بروٹھ کنبہ) تہ سانبہ
وحی مطابق اکھ ناو - تہ ہیو لوکو ظلم (کرناک
و طہر اختیار) کورمت چھہ تھن متعلق مہر مہ
سوتی (کانبہ) کتھ - ہم بین ضرر (تہ ضرر
آسہ) چھا ٹاویہ -

تہ سہ (نوح) اوس سانبہ کھکھ مطابق ناو بناوان تہ
یئہ تہ تہندہ قوم ہنہ کانبہ ہرین لوکن ہنہ جماعت

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيَكُمْ بِوَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ دَمَا
اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۳۷﴾

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ اِنْ اَرَدْتُ اَنْ
اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ
يُّغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ فَذٰلِكُمْ
تَرْجُوْنَ ﴿۳۸﴾

اَمْ يَقُوْلُوْنَ اَفْتَرٰهُ ؕ قُلْ اِنْ
اَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيْ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْءٌ
مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿۳۹﴾

وَاَوْحِيَ اِلٰى نُوحٍ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ
قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ
بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۴۰﴾

وَاَصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَاَوْحَيْنَا
لَا تُغَا طِبْنِيْ فِي الْزِيْنِ ظَلَمُوْا
اِنَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۴۱﴾

وَاِصْنَعِ الْفُلْكَ تَدَا كَلِمًا مَّرَّ عَلَيْهِ
مَلَا مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْا مِنْهُ ؕ قَالَ اِنْ

تیس کئی نیران اُس - تو سو اُس تس ہزل کران
 (یتھ پیٹھ) تمہ (دکن) وون زرا ہرگاہ (از)
 توہر (لکھ) اسر ٹانہ کران چھو تہ اُس (تہ)
 اسوہ (رگاہ) تہہہ، تیتھو زن (از) توہر اسر
 اسان چھو -

اد مرہی و توہر جلد معلوم ہر، سہ کس (یوفریق)
 چھ یس پیٹھ یتھ عذاب یوان چھ یس تس رسوا
 کر تہ (کس چھ) یس پیٹھ تھکر روس عذاب
 تانزل سپان چھ -

لوت تمام زریلہ سون (عذابک) حکم پیہ تہ
 ناگ وون تہ جاری پیدن (تہ) اُس وون زرا تھ
 (ناو) مفر کرکھ سوار، پیرتھ کتہ (قسمہ کھو
 جانوہ) منتر اکھ اکھ جوردی تہ بیتھ اہل (عیل
 تہ) اس ورازی میمر بند (ہلک پیدن) متعلق
 (یتھ عذابہ کر پیہ) بروٹھ (سون ناطق)
 فرمان جاری سیدمت چھ - بیہ کرکھ سوار) تم پیو
 تریہ پیٹھ اپان اونمت چھ، تہ تس پیٹھ اوس
 نہ کم کینرٹھا لوکو ورازی کالنبہ اپان اونمت -
 یس کران (یتھ طوفان او تہ) تمہ وون (بیتھ
 ستر باجن ز) یتھ مفر سپد سوار، امیک
 پکن تہ مٹھراون اسر اللہ (تعالے) ستر
 ناو چہ برکتر ستر - بے شک میون پروردگار
 چھ سہٹا ہے، کینش مار (تہ) پھیر پھیر
 رحم کن وول -

تہ سو (ناو) اُس بان ہندو پاتھو (تھن) لہرن
 مفر تم ہتھ پکان تہ لومن کوز (اتمہ حاس مفر)
 پنسن نیپوس آلو، یتھ سہ بیس اگس طرفس
 کن گوتمت اوس، تہ دو پیس میانہ گوہرا! اسر
 ستر سپد سوار تہ کافرن ستر مہ روز!
 تمہ ووس نہ ہر بہہہ رز کتہ باس پیٹھ (کترتھتھ)

تَشَخَّرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُهُمْ مِثْلَهُ كَمَا
 تَشَخَّرُونَ ﴿۱۱﴾

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ
 يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۱۰﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ قُلْنَا
 احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ
 أَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ۖ وَمَن
 أَمَنَ ۖ وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۱۱﴾

وَقَالَ اذْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبًا
 وَمُزْسِمًا ۚ اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰﴾

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ تَدَا
 نَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ
 يَا بُنَيَّ اذْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ
 الْكَافِرِينَ ﴿۱۱﴾

قَالَ سَادَىٰ إِلَىٰ جَبَلٍ يَّغْصِمُنِي مِنَ

الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ
اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا
الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿۱۰﴾

پسناہ ہتھ لیس میں یتیم آہہ نشہ بچاؤ۔ تمرو وولس
(زر) اللہ تعالیٰ ہند (یتیم عذاب کر) محکمہ
نشہ (ہیکر) نہ از کا نہ تہ (کانشہ ہند) بچاؤ
وول (دوستہ)، ہواپہ تس لیس پیٹھ سہ (پانہ)
رحم کر۔ تہ (اٹھو منتر) گئے آہچ لہر بہمن
دو نونی منتر باگ ٹھوڑ بیٹھ تہ سہ سپد آہس
پھاٹناونہ پینہ والہن منتر شاہل۔

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأِ
أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَ
اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا
لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾

تمہ پتہ آو (زمین) وتہ (زر) اے زمین! تہ
نہنگلو (دوڑ) پینہ آب تہ (آسانس تہ آوونہ
زر) اے آسمان! تہ تہ کر (پینہ رور) بند۔
تہ آب آو شرور پراونہ تہ (یہ) معاطہ آو ختم
کرنہ۔ تہ سوناو ٹھہرے یہ (گڑھتھ) جودی
(باس) پیٹھ تہ ونہ آو ز (اے عذابہ کہو ملکیا)
ظالم لوکن ہند خاطر کرو ہلکت (مقدر)۔

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ
أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ
الْحَكَمِينَ ﴿۱۲﴾

تہ نوحن ویت پننس ربن ناد۔ تہ وون نس
اے میانہ پرور دکاہر! میون جیو چھ پترک پانکر
میانہ عیالہ اندہ۔ تہ بچون وعہ (تہ) چھ سٹھا
پنہ۔ تہ شر چھکھ سار وپے فاصلہ کرن والہو کو تہ
جاد (جان تہ درست) فاصلہ کرن ول۔

قَالَ يَبُوءُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ
عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ
مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۱۳﴾

فرموون (یعنی اللہ تعالیٰ ہن) اے نوح! سہ
چھتہ ہرگز چانہ عیالہ منتر سکیا ز سہ چھ بے شک
ناکار عملہ کرن ول۔ لہذا تہ سہ منگ میںہ تہ تہ
دعا یتیم کہ حقہ شریہ (میانہ طرفہ) علم آہی تہ ونہ
آمت تہ تہ پھسے شریہ نفیحت کران زہ جاہلن
ہندک پانکر کرے تہ نہ زاہ کام۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ
مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَ
تَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۴﴾

ووقن (نوحن) اے میانہ پرور دکاہر! بہ چھس
اہر خاطر چون پناہ بیہر شان زہ شریہ کرے کا نہہ
تہ سوال تہ متعلق میںہ حقیقی علم آہہ تہ تہ

ہرگاہ تیرے میاں پیتم غفلت معاف کرکھ نہ تو رحم کرکھ نہ تو بہ سپہ (تیلیر) نوقصان تمن والہو اندر۔

(اتھ پیٹھ) او (س) ونہ (ز) اے نوح! تیرے سفر سائے طرف (عطا کرنے آمیز) سلامتی تیرے رنگے رنگے) برکت ہتھ یکم تیرے پیٹھ تیرے تمن امن پیٹھ یکم تیرے سستی چھینے (تازل کرنے آمیز چھینے) تیرے کینہہ جھٹاڑ چھینے تڑھہ بین اسی ضرور (دوڑھیک عارضی) سامانہ عطا کرو۔ مگر پیٹھ پیٹھ تمن پیٹھ سائے طرف کرلوٹھ عذاب۔

یہ (بیان) چھ غائب چھو اہم خبرو اندر کیو اسی تیرے پیٹھ وحی (ہندہ ذریعہ تازیل) کران چھو۔ نہ اوسہکھ تیرے یکم امیر بروٹھہ زنان تیرے (اوس) چھون قوم (زنان)۔ اچھو کہی تیرے حبس کام۔ (رت) انجام چھو بے شک تقویٰ کرن والین ہندے آسان۔

بیہ (سوزا اسیر) عاد (قومس) کمن رہتہند بوسے طوور (رسول بناوتھ) تمہو و نیاو تمن زراے میانہ قوم! توہی کرو اللہ (تعالے) سنزعبات تس وراہی چھینہ تہند کینہہ معبود۔ توہی چھو (تہندی شریک مقرر کرنس منتر) محض لانتر لاگن وال۔

اے میانہ قوم! بہ چھسو نہ توہم امیک (یعنے امیر کامہ ہند) کاٹھہ بدلہ منگان۔ میون اجر چھہ تس ہستی ذمہ سیمیر بہ یاد کوزمت چھس کیا توہی چھونا تیرے کڑھتہ (تیرے عقلم کام ہوان)!

بیہ اے میانہ قوم! توہی منگو پینس ریس بخشش پتہ کرلو تس کمن (پوڑ) رجوع سینیر کس تہجس منزسہ توہم تس راور اوڑر سوز تیرے توہم بخشو جادو جادو طاقت، تیرے مجرم ہتھہ مہ پھرو خدایہ ہند کہتہ ہتھ۔

قِيلَ يٰ نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اٰمَةٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَ اٰمَةٌ سَنُصَلِّيْهِمْ نَمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۳۱﴾

تِلْكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا اِنَّ قَاصِرِيْ بُرْجِ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۱﴾

رَاٰ اِلٰى عَادٍ اٰخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَقُوْمُوْا اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اِنَّ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿۳۱﴾

يَقُوْمُوْا لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِيْ رَاٰ اَعْلٰى الَّذِيْ فَطَرْنِيْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۱﴾

وَيَقُوْمُوْا اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿۳۲﴾

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا
نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ
مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۵۷﴾

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا
بِسُوءٍ فَقَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهُ وَاشْهَدُوا
أَيُّ بَرِيءٍ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۵۸﴾

مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُؤُنِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا
تُنظِرُونِ ﴿۵۹﴾

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا
مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا وَإِن
رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۶۰﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا
أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ، وَ يَسْتَخْلِفُ
رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ،
إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿۶۱﴾

تو وونس اسے ہود! تری اوتھتہ نہ اسہ رتس
(پسنہ دعویٰ ہک) کانہہ نتر وانہ ثبوت - تہ
اسی ہیکو کہ نہ (صرف) چانس ونس پیٹھ پینہ
معبود تراوتھتہ نہ فو اسی تریہ پیٹھ ایمان -

اسی چھنہ (تریہ متعلق) اسہ وراہی (کیئہ)
ونان نرسون کانہہ معبود چھے بد ارادہ ستر
تریہ پتہ لوگت - تمہ وونکہ بر چھسن اللہ تعالیٰ
اسہ کتہ ہند (گواہ مٹھراوان تہ توہی تہ روزو
گواہ - بر چھس تس بیزار یس کانرھا توہاکر
اللہ تعالیٰ سند) شریک مٹھراوان چھمون -

تس وراہی، (لہذا اگر بر غلطی پیٹھ چھس) تہ
ساری سمیتہ کرور میہ خلاف منسوبہ تہ میہ
سہ دیو کانہہ مولبت -

بر چھس اللہ تعالیٰ) ہس پیٹھ توکل کران
یس میون (تہ) پروردگار (چھ) تہ تمہند (تہ)
پروردگار چھ - (بہ چھس ونان ز (روے زمیں
پیٹھ) چھنہ کانہہ تہ زودار یس تمہ ہندس
قبضس تل آسہ نہ - یقینا چھ میون پروردگار
(مؤمن مدد کرنہ خاطر) سیز و تہ پیٹھ اتاد
(تہ پانس کن پینہ والہن چھ راچھ کران) -

لہذا اگر توہی میہ کتہ مٹھر چھرو تہ (تمہ منز
چھنہ میون کانہہ نوقصان، تکلیار) یوسہ (تعلیم)
وتھہ بر توہہ کن سوزنہ آمت چھس سہ چھو میہ
توہہ واتنا و مٹھر - تہ (اگر توہی مٹھر چھرو تہ)
میون پروردگار بناو توہہ وراہی کتہ بیس توہس
(بروٹھو مہن ہند) جاسٹین - تہ توہی ہیکو
تہ تس کیئہ (تہ) نوقصان واتنا و تھہ - بے شک

لہ ناصیۃ امیک لفظی معنی چھ شرمگ، مگ، ڈیکو وال - ھو آخذ بناصیتہا یعنی اللہ تعالیٰ
چھ تہن تہند یو ڈیکو کیو والو ستر رٹن وول یعنی ساری مخلوقات چھ اللہ تعالیٰ ہندس قبضس تل -

میوں پروردگار چھ پرستہ چپکے لڑ چھ در -
 بیہ سیکر (عذاب متعلق) سون حکم آوتہ اسر دیت
 (تہ وقتہ) ہودس (تہ) تہ یکو لکو تو س سرتی
 ایمان آوتت اوس، تہن (تہ) تہ عذابہ ہنتہ
 پینتہ دھامس) رحمتہ سرتی نجات تہ اسر بچاوی
 تہم اکہ کر پیٹھ عذابہ ہنتہ -

بیہ یم اسی (مغزور) عاد (سہ) یکو زانہتہ
 ماہتہ) پینتس پروردگار ہندین نشان انکار
 کر یاو تہ تندن رسون ہنز کر یا یکھ نافرمانی
 تہ پرستہ افس مہتہ پھرس (تہ) پڑ کس دشمن
 (شخصہ) سندن حکمن ہنز ایکھ پاری کرنی
 لا ہنز -

یہہ ڈو میس اندر (تہ) چھ لعنت تہن پتہ تھاونہ
 آموتہ تہ قیامتہ کر دوہہ (تہ) پیکھ پتہ تھاونہ
 بوڑو! عاد و اس بے شک پینتس پروردگار
 ہنز (یعنی تہن ابن احسان ہنز) ناشکری کر
 بوڑو! (اسی چھ عذابہ کین ملائین و نان نہ)
 عاد یعنی قوم ہود خاطر کرو لعنت (مقدر) -

تہ (قوم) ہودس کن سوزاو (اسر) تہ ہند بوے
 صالح، تہ وون (تہن) اے میانہ قوم! تو ہر کرو
 اللہ (تعالیٰ) ہنز عبادت، تہ سوا یی چھنہ کانہہ
 تہ ہند معبود۔ تہ تہلو تو ہر نہ پتہ پیٹھ (تہ)
 کوز تو تھدر عطا) تہ اتھ اندر کر کر تو تو آباد
 او کرنی منگو تو ہر تہ بخشش تہ تہ کن کرو
 پور پاپو رواج - بے شک میوں پروردگار چھ
 نزدیک (تہ) دعا قبول کرن دول -

تہ وونس اے صالح! بیہ ہرونہ اوسکھ تہ اسر
 در میان (آئینہ باپتہ) ووسیز ہنز جاے (زانہ
 یوان) - تہ چھکا (وونی) اسر (اسر عقلمہ تہ)
 داتائی با وون ہود) امہ کتہ ہنتہ پتہ رٹان نہ اسی
 کرو تہ چیز ہج عبادت تہ بیح عبادت ساؤ مال

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ
 آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ
 مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝۱۱

وَتِلْكَ عَادٌ جَعَلُوا بَابِئِ رَبِّهِمْ
 دَعْوًا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ
 جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۱۲

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِلَّا إِنْ عَادُوا كَفَرُوا
 رَبَّهُمْ ۚ أَلَا بُعْدَ الْعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۝۱۳

رَبِّ ائْتَمُوهُ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَفْقَهُ
 عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ۚ
 هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ
 فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ
 إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝۱۴

قَالُوا يَضِلُّ قَد كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا
 قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ
 آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا
 إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝۱۵

(تو جہاد اجداد) کران آہو تو چھہ ؟ تہ (بوزوے
تہ پوز چھہ یہ نر) بیٹھ کتھ کن تہ اسہ ناد
دوان چھاکہ ، تہ متعلق چھہ اسی اکیس بے قرار
کن و اس شمس مشنر (بیہی تہ) ۔

تمو وونکھ اے میانہ قومو ! وونو ہرگاہ بہ (پڑی
پاسو پسنہ دعویٰ پوج بنیاد) پسنس پروردگار
ہند طرفہ (عطا سپدی کہتہ نرہ وانہ شہوتس
پٹھہ (تھولن) چھس۔ تہ تمو چھہ میہ پسنہ دربارہ
اکھ (خاص) رحمت عطا کر مشنر۔ تیلہ (پہ کر تہ تہ)
ہرگاہ بہ تہنر نافرمانی کر تہ اللہ (تعالے) ہس
مقابلہ کس کر میہ مدد ؟ ادر تو ہی ہر را او نہ
میہ (تہ وزر) تباہی مشنر تراونہ وراہی (بیہ)
کتھ کتھ مشنر ۔

بیہ اے میانہ قومو ! یہ وونو (چھہ سو) یوسہ
اللہ (تعالے) ہن تہنہر با پتھہ اکھ نشان بنا و مشنر
چھہ۔ ادر اسی دلوتو ہی آزاد پھیر نہ بیٹھ کن یہ
اللہ (تعالے) ہندس زرمپس مشنر (پھیر تہ
تھو تھہ) کھنہ (چنہ) ۔ تہ اسی مہ وانناو
کا نہہ آزار۔ تہ رطو و قومہ اکھ جلد ہن وول
مذاب ۔

اتھ پیٹھ نرچہ تمو (تلوار ستر) تھس زنگہ۔ بیٹھ
پیٹھ تمو (ہمتن) وون۔ تو ہی سکو ترین دہ ہن
(نام) پسنہن گرن مشنر (پسنس حاصل سپدی
مہ ہتس سامانس) قایدہ ۔ یہ چھہ تیتھ و عدہ ہس
نہ اپڑ نہیر ۔

پتہ تیلہ سون (مذابک) حکم آو تہ اسہ پجو صالح
بیہ تم یکو تس ستر ایمان اؤمنت اوس ، پسنہ (خاص)
رحمت ستر پر تھہ کتھ بلایہ نشہہ ۔ تہ خاص کر تھہ تہ
دوچہ رٹوانی نشہہ ۔ بے شک صرف جوئے رب چھہ
طاقہ وول (تہ) علیہ وول ۔

قَالَ يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى بَيِّنَةٍ
مِّن رَّبِّيْ ذَاتِ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ
يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا
تَزِيْدُوْنِي غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿۳۱﴾

وَيَقَوْمِ هٰذِهِ نَاقَةٌ لَّكُمْ اٰيَةٌ
فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا
تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ
قَرِيْبٌ ﴿۳۱﴾

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ
ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعَدُوْ غَيْرُ
مَكْدُوْبٍ ﴿۳۱﴾

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ مِنَ
حِزْبِيْ يَوْمَئِذٍ لَّا اِن رَّبُّكَ هُوَ الْقَوِيُّ
الْعَزِيْزُ ﴿۳۱﴾

تہ میو ظلم کرناو بتم رڈ عذابن تہ تم گے پینسین
پینسین گرن منتر (عذابہ سوتو) پتھر لور تھ۔

زن تہ تم بے تھ (عکس) منتر زانہہ بے متی اسی
نہ۔ بوزو! (قوم) نمودن کرنا یہ پینس ر سیر
منتر (یعنے تہنہن اساتہ ہنر) نہ شکرے۔

بوزو! (عذابہ کن ملاکین او حکم دہن ز قوم) نمودن با پتھ
کرور لعنت (مقدر)۔

بہ اسی سانہ فرستادو بے شک ابراہیمس رنش
نوشنبر وانشا و منتر (تہ) وؤمنت اوس ہس ز سلام
اسن (سانہ طرفہ توبہ پیٹھ)۔ تہو وؤنکھ سلامتی
اسن (توبہ پیٹھ ہمیشہ با پتھ)۔ تہو وڑ نہ تہاے
تہ او اکھ بزموت وؤنہ پتھ۔

ادینہ تہو تہنہر اتھ و پتھو ز تھہ (کھپس)
تام چھہ و اتان تہ تہنہر (یہ) فعل زون عجیب
تہ تہر (فعلہ) تہہ کورن خطر محسوس۔ تہو وؤن
(اتھ پیٹھ ز) کھوڑ مہ! اسی تہ چہ قوم لوٹس
کون سوزنہ آوتے۔

بہ اسی تہنہر منتر (سنتی) وودنہ، اتھ پیٹھ
کایرے یہ سو (تہ)، اد وڑ اسہ تہنہر اطمینانہ
شاطرش اساتہ تہ اساتہ پتہ بے تہنہر زہ پتھ
نوشنبر۔

تمہ وون ہے کیا بتیوم بہر و ماہ پین؟ یینہ
زن بہر پتھ (مٹا منتر) چھس تہ یہ میون خاوند
تہ چہ بچس منتر۔ بے شک چہ یہ اکھ عجیب کتھ۔
تہو وؤن، کیا تہ چھکا اللہ (تعالے) منتر کتھ
پیٹھ تعجب کران؟ اسے یینہ گہر والہو تہہ پیٹھ
(تہ) چھہ اللہ (تعالے) منتر رحمت تہ تہنہر
(پر پتھ زنگہ چہ) برکٹ (تازل سپان، لہنہ تہنہر
با پتھ تہ مرٹھ نہ یہ کتھ عجیب آوتے!) یقینا سہ
چہ پیٹھ ہے تعریف، وول (تہ) تہنہر شاہ وول۔

وَ اَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ
فَاَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَمِينَ ﴿۵﴾

كَانَ لَمْ يَخْنَوْا فِيهَا، اَلَا اِنَّ تَمُودًا
كَفَرًا رَّابَهُم، اَلَا بَعْدًا لَتَمُودًا ﴿۶﴾

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ
بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا، قَالَ سَلٰمٌ
فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِوَجْهِ حٰنِيْذٍ ﴿۷﴾

فَلَمَّا رَاَ اٰيِدِيْهِمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ
نَكَرَهُمْ وَاُوْحَسَ مِنْهُمْ خٰفِيَةً، قَالُوْا
لَا تَخَفْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿۸﴾

وَاَمْرًا تَهَ قَائِمَةً فَضَحِكْتْ فَبَشَّرْنٰهَا
بِاسْحٰقٍ ۚ وَاَمِنْ وَاَرَاءَ اِلٰسْحٰقَ يَخْفُوْبٌ ﴿۹﴾

قَالَتْ يٰوَيْلَتِيْ اءِ اِلٰدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَاَهٰذَا
بَعْلِيْ سَيْخًا، اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿۱۰﴾

قَالُوْا اَلَا تَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمَتُ
اللّٰهِ وَاَبْرٰكَتُهُ عَلٰىكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۗ
اِنَّهٗ حَوِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿۱۱﴾

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّزَاءُ وَ
جَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ
لُوطٍ ﴿۱۰﴾

اور ییلے ابراہیمس گھبراہٹ ترُج تہ تس مچ ٹوٹن
تہ تمز، ہوت (تمز ویز) اسے سوتہ قوم لوطس
متعلق مجادلہ کرن۔

إِنَّا إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿۱۱﴾

ابراہیم اوس سوتہ ہے او بر گوبہر وول (تہ)
تذکرہ دل تھون وول تہ (اسے بروٹھ کسہ)
پھیرک پھیرک من وول۔

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا جَاءَتْهُ
جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَرَأَاهُم آتِنَهُمْ عَذَابٌ
غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿۱۲﴾

(اتھ پٹھ وون اسے تس) اسے ابراہیم اتر روز
پتھ امر (سفاثر) لستہ بکلیاڑ چانس پروردگار
سند (آخری) حکم چھ آمت تہ یمن کفارن ہنتر
حالت چھینہ ترشہ زہن پٹھ روز تہ من وول
غلاب پتھ۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءًا
بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا
يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿۱۳﴾

تہ ییلے ساف پیغام دتہ وائل لوطس نش آپہ تہ
تہندہ باعثہ پیدتس نم۔ تہ تمز کڑ ولس مشر
تنکی محسوس تہ وون ازیک دہہ چھ (سہماہ)
کر لوطہ باسان۔

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ
قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ
يَقَوْمِ هُوَ لَبِئْسَ بِبَنِيَّ هُنَّ آطَهْرُ لَكُمْ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي
أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿۱۴﴾

تہ تہندہ قوم آوتس کن (غصہ سان) دوران
دوران تہ (یہ اوس نہ گمہ ڈ نیک موقع) برٹھ
(تہ) اسے تم (لوکھ منہایت خطرناک) بدیہ کران۔
تمز (یعنے لوطن) وونکھ، اسے میانہ قومو ایکہ
چھینہ میانہ کورہ (یکہ تہندہن گرن مشر باگتہ)

۱۱ حضرت لوطؑ ہنتر ز کور اسہ تہ شہرس مشر باگتہ آ مشر (پیلش باب ۱۹ آیت ۱۱)
مسلمان مقبرو چھ غلط فہمی سوتہ بیتہ آیس یہ معنے کورنت ز حضرت لوطن
وون پنس قومس تر میانہن پڑھین پٹھ مہ کرو دست درازی۔ میانہ کور چھ
سائز پینے سوتہ کڑ تو پن شہوت پور۔ نغوذ باللہ۔ یہ چھ اگس نیلیس
پٹھ خطرناک توہمت۔ نی کجا اکھ شریف انسان تہ ہیکہ نہ پڑھ کتھ ووتھ
اصل واقعہ چھ یہ ز حضرت لوطؑ سند قوم اوس نہ ووپر لوکن مند پسنہن
ما من منزین پسند کران۔ حضرت لوطؑ ہندر پڑھو وچھتہ گوو تمن تنک۔ اتھ
پٹھ وونکھ حضرت لوطن میانہ کور چھ تہہنتر لوتہ، لہذا نیکیا تہ بیٹہ
ز وہ پرن سوتہ لبتہ کورہ توہر خلاف سائزس۔

آمشر چھینے (تمہ چھینے تہند باپتہ) تو تہند
 اور وہ سے بچاؤ نہ باپتہ (نہایت پاک) (دل
 تو پاک خیال) لہذا میرا او تو ہی اللہ (تعالیٰ)
 سند تقویٰ تو میانین پڑھیں بھی مس کورو
 میںہ نجل۔ توہر مشر چھنا کا نہہ (تہ) کاٹل
 (تہ شریف انسان) ؟

تمو وونس ز تر یہ چھتہ یقیناً معلوم کورمت
 نہ چاہن کورن متعلق چھنہ اسہ کا نہہ حق حاصل
 تہ یہ کیشہا) اسہ پشہاں چھ تہ چھکھ تر زمانہ۔
 تمہ وونکھ اکاش میںہ آسہ ہے توہہ مقابلہ (کسہ
 توہمک) قوت (حاصل تہ یہ کر کا تہند مقابہ
 وونو گوو اگر یہ چھنہ تہ یہیہ صورتہ چھینہ باپتہ
 نہ یہ تمہ اگس مضبوط چھینہ جا پکھنہ

تمو (پڑھو) وونس (اتھ پیٹھ) نہ اسے لوطا!
 اسہ چھ بے شک چانس پرور وگار سندر کور
 متی تہ اسہ چھ معلوم نہ تم واق نہ ہرگز تر یہ
 تام (تہنہ تہا ہی ہند وقت چھہ آمت) اور کز
 تر نہر (دیہتر) پین عیال ہتھ روتلی کتہ وز
 و ترہ سان تہ توہہ مشر گر تہ نہ کا نہہ (اکھ تہ)
 اون یون وچین (بندہ کور روزو توہہ کچھتہ)۔ دھ
 پوز پچا ز آشنہ چھینہ تر تہ نہ لیس (عذاب) تمہ
 پیٹھ آمت چھہ سہ چھہ بے شک لت پیٹھ تہ پینہ
 وول۔ تہند گنڈتھ وقت چھہ (دیکھا) صبح، تہ
 کیا صبح چھنا نزدیک ؟

اد میںہ سون حکم آو تہ اسہ کور تھہ (بستی اتک)
 پیٹھ تہ تھہ پیٹھ وول (ہو چھہ) میںہ کھمہ بن
 ہند پوس پیٹھ رود۔

ہم چانس پرور وگار ہندس تقدیرس مشر (تہند)

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنِيكَ مِنْ
 حَقِّهِ وَلَا تَكُنْ لَكُمْ مَأْرِيْدٌ ۝۱۰

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةٌ اَوْ اِوْدِيْ اِلَى
 ذٰلِكُمْ شِدِيْدٌ ۝۱۱

قَالُوا ايلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْا
 اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاهْلِكَ بِقَطْعٍ مِّنَ الْاَيْلِ
 وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا اَمْرًا تَكْتُمُوْنَ
 اِنَّهُمْ مُّصِيبُهَا مَا اَصَابَهُمْ ؕ اِنْ
 مَّوْعَدُهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ
 بِقَرِيْبٍ ۝۱۲

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا
 سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ
 سِجِّيلٍ ۝۱۳

مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَ مَا هِيَ

الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿۵۰﴾

﴿۵۰﴾ خاطرے (مقتدر) تہ نامزد) کرنہ امیر آسہ تہ بین ظالمن لئس (تہ) چھنہ یہ (عذاب) دور۔
 بیہ (سوز اسہ) مدینس کن تہنہد بوے شعیب (نہی بناوتھ) تمہ وون دین، اے میاہ قومہ! توہر کرہ اللہ (تعالیٰ) سنز عبادت۔ لئس وراہی چھنہ تہنہد کرنہو معبود۔ تہ بین تول مہ آسہ چھنہ کران۔ بہ چھسو توہر (دوڑ کین) یقیناً برتر حائر منز وچھان۔ بیہ چھس بہ (سستی) تہنہد حقہر اکر وراہی پھرن والہ دیکس عذابس کھوڑان۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِينَ ﴿۵۱﴾

یہ اے میاہ قومہ! توہر آسہ بین تول انصاف سان پور کران، بیہ مہ آسہ لوکن تہنہد چہسہ چھنہ ووان تہ فسادہ بنہتہ مہ پھالہ وون زمینس منز خرابی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِينَ ﴿۵۱﴾

اگر توہر (پڑی) مومن چھو تہ (پڑھ کرور) اللہ (تعالیٰ) سہد (توہر لئس) باقی ترومت (ماہل) چھہ تہنہد خاطر بہتر تہ یرکتہ وول۔ بیہ بہ چھس تہ توہر کیت را پھر (بناوتھ سوزہر آمت بہ چھس صرف اکھ نفیحت کرن وول)۔

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ لَإِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵۲﴾ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿۵۳﴾

تمو وونس، اے شعیب! کیا چاہی نماز چھیا ثریہ حکم ووان نہنیمہ چہسہ عبادت سانی جد اجداد کران (آہو) چھہ سہ ترا وون آسہ؟ یاسو کتھ (تڑھنو تراوتھ) نہ سینن مان متعلق آسہ یہ بہ تڑھو (تہ) کرور؟ (اگر تڑھہ کتھ چھیہ) تیلہ چھاکھ تہ بیشک سٹھ بہ عقلمند (تہ) زالون (انسان)۔ لہ

قَالُوا يَشْعِيبُ اَصْلُو نَكَ تَاْمُرُكَ اَنْ تَشْرُكَ مَا يَعْبُدُ اِبَادُنَا اَوْ اَنْ نَفْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَؤْا اِنَّكَ لَآَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿۵۴﴾

تمو وونکھ، اے میاہ قومہ! اکر وونو (تہ سہی) اکر (نماہت سپد نہر) بہ چھس (پسنہ دلوکی) پچ بنیاد) سنس پرور وگاہر بند طرفہ (بختہ امیر)

قَالَ يَقَوْمِ اَرَايْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَرَدَدْتُمْنِيْ مِنْهُ رُدًّا حَسَنًا وَ مَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفْكُمْ اِلٰى

مَا أَنهَلِكُمْ عَنْهُ، إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ
مَا اسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ،
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿۱۱﴾

کنہ شہرہ دلپہر پیٹھ (تھوان)۔ تہ تکر پچھ مسیہ
پسنہ وریاہ منفر رت تہ دس پر میون رزق
وہیت مت۔ (تہ پگاہ کیاہ جوب دیو خالیس رزوق
کنہ؟) تہ ہر چھس نہ میترھان نہ میتر کتھہ ہنہ
ہر تھہر پتھہ رلوہ (تہ ہنہ رزوہ توہر پتھہ تہ
ہر اکہر (پانہ) توہر جلاف تہہ کے دینے تھی
کتھہ ہنہ) اراد۔ ہر چھس نہ تہہ وراہی کنہر
میترھان میترہ (یعنی پتھہ حدس تام) اصلاح
میہ طاقت چھہ، تہ میون توفیق لبہن چھہ اللہ
(تعالیٰ) ہے (یعنی تہہدس فہلس تہہ رحمتس)
متر (والہر) تہہ پتھہ چھہ میہ توکل تہہ ہر
چھس پھہر پھہر کتھہ کتھہ کتھہ نہان۔

وَيَقُولُ لَا يُجْرِمَكُمُ شِقَاقِي أَنْ
يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ
أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، وَمَا قَوْمُ
لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿۱۲﴾

ہر اے میانہ قومہ! (و پتھہ زلو) یہتھہ
(تہہنہر) میہ ستر و شمن توہہ (اتھہ کتھہ پتھہ)
تہہ و نہ توہہ واتہ و تہہہ (ہیو) مصیبت
یہہ نوح ہندس قومس یا ہوہ ہندس قومس یا
صالح ہندس قومس پتھہ آیاہ تہہ لوطہ سند
قوم چھہ توہہ ہنہ (تہوت) دور (تہہ کتھہ)
ہیہ منگو توہہ پسنس پرور دگارس ہنہ شائش اتہ
پتہ کرورس کتھہ پلوہ پاتو ربوع۔ میون
پرور دگار چھہ یقینا پھہر پھہر کتھہ رحم کرن
وول (تہہ) سہہہ ہے محبت کرن وول۔

وَأَسْتَغْفِرُكُمْ وَأُذَوِّدُكُمْ
إِنَّ رَبِّيَ رَحِيمٌ ﴿۱۳﴾

تہو وولس، اے شعیب! یہ کتھہ شہر و نان صھیکھ
تہہ منفر چھہ واریاہ (جہہ) اسر فکری تران۔
تہہ اسو چھہ تہہ اسر منز اکھ گمزور انسان
زانان۔ تہہ اگر چون قبیلہ آسہ ہے تہہ تہہ اسو
کروتھہ تہہ کتھہ کنہ۔ تہہ تہہ چھاکتہ (خود ہنہ)
سانہ نظر تہہ کا نہہ عزتس لایق وجود۔

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا
تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا صَحِيفًا وَلَوْ
لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا
بِعَزِيزٍ ﴿۱۴﴾

تہہ وولکھ، اے میانہ قومہ! کیا میون قبیلہ
چھا اللہ (تعالیٰ) ہس نسبت تہہنہر نظر منہر

قَالَ يَقُولُ الرَّحْمَنُ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ،
وَأَتَّخَذَ ثَمُودَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْحَارِثِيَّةَ
وَأَبْرَاهِيمَ وَالْحَبَشِيِّ وَالْإِسْرَائِيلِيَّةَ
وَالْمُؤْتَمِرِينَ ۖ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ﴿۱۵﴾

بِمَا تَعْمَلُونَ مَحِيْطٌ ﴿۷﴾

جاؤ عزنس لایق؟ تہ مسہ (اللہ تعالیٰ) چھو
توہہ تھہر پتھہ کس تروومت۔ یہ کینٹھا توہی کران
چھو تہ چھہ میون پروردگار زبر پاتھی زمانان۔

وَيَقُوْمُ اعْمَلُوْا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنِّیْ
عَامِلٌۢ مَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ مَنْ يَّاْتِيْهِ
عَذَابٌ يُّٰخِزِيْهِ وَ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ
وَاذْتَقِبُوْا اِنِّیْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿۷﴾

بیہ اسے میانہ قوم! توہی روزو پستہ جاہ (پنی)
پاتھی (کامہ کران بہ (تہ) پتھس (پستہ جاہ پنی)
کام کران۔ جلدھے سپدو توہہ معلوم کرے کس
چھہ تیکس پتھہ رسوا کران اول عذاب یوان چھہ تہ
کس چھہ ایزویر؟ (تہ کس پیزویر) تہ توہی (تہ)
پیاریو (پسنس تہ میانس انجاس) تہ پستہ
روزو یقینا توہہ سستی (پتھس) پیاران۔

بیہ نیلہ سون (عذاب) حکم او تہ اسہ پکوو
رامہ عذاب نشہ (پستہ) خاص (رحمتہ سستی
شعیب تہ تم (لوکھ تہ) بیو تس سستی ایمان
اومت اوں۔ تہ بیو ظلم (کرکٹ) طلقہ اختیار
کومت اوں تم رڈی امو عذاب تہ تم سستی
پنہن (پنہن) گران منتر زمینہ سستی لاریتہ
تباہ۔

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ
اَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ
فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جِثْمِيْنَ ﴿۸﴾

زن تہ تم تمہن منتر (زاف) روزان (ہے)
اسی نہ۔ بوڑو! مدینہ باپتھہ تہ اس
(خلین) لعنت مقدر کرہ مپتہ۔ پتھہ پاتھی
تھوون ہند باپتھہ لعنت مقدر اس۔
تہ بے شک سوزا اسہ نموی پرتھہ قہمکو نشان تہ
پر ہلوزی دلیل پتھہ۔

كَانَ لَمْ يَخْنَوْا فِيْهَا اَلَا بُعْدًا
لِّمَذِيْنٍ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُوْدُ ﴿۸﴾

فرعون تہ تہند توہی کین برہن لوکن کس۔ مگر
تو کر (موسیٰ تروقتہ) فرعون ہند حکم پوری
تہ فرعون سہ حکم اوں نہ ہرگز درست۔
سہ پکیر قیامتہ کر دوہہ پسنس قوس برو تھہ
برو تھہ تہ تمہن والہ (جہنہ کس) نارس مشہ
پتہ اسہ سہ یار بل تہ پتھہ تہ مشہ وس
والی تہ۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰی بِآيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ
مُّبِيْنٍ ﴿۹﴾

اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ مَلَأِِيْهِ فَاَتَّبَعُوْا اَمْرَ
فِرْعَوْنَ ۚ وَ مَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿۹﴾

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
فَاُوْرَدَهُمُ النَّارَ ۚ وَ يَتَسَّ الْوٰدُ
الْمُوْرُوْدُ ﴿۱۰﴾

تہ بیتہ و ذی بیس منتر (تہ) آہ بیتہ بیتہ لغت
 اگا و کرنہ تہ قیا منکر دوہہ تہ (بیکھ پتہ تھوہ)
 یہ انعام یس منتن دتہ پیسہ چھہ سبھو ہے تاکارہ
 یہ چھہ (تباہ کاشن) بستین ہنر و خبرو
 منتر اکھ حصہ۔ اسی چھہ بہ تریہ بروٹھ کنہ بیان
 کران۔ تمو منتر چھہ کینہ (بستینہ و نیک نام)
 استاد (یعنی تہندک نشانہ چھہ موجود) تہ کینہ
 چھہ تباہ کاشن حالتس منتر (یعنی تہندک
 نیب نشانہ چھہ منہاونہ آوتی)

تہ اسہ کریاو نہ منتن پیٹھ کانہہ ظلم بلکہ اوس
 بتمو (پانے) پشبن ترولن پیٹھ ظلم کورمت
 اور سبیلہ چائس پروردگار تہند (عذابت) محکم
 آوتہ تہندو معبودو میں تم اللہ (تعالیٰ)
 ہس و راہی آلو کران اسی، دیت نہ منتن کہتی
 تہ قایدہ تہ تباہی منتر تراوتہ و راہی ہر راوک
 نہ تم، تمو (کنہ کتھ منتر)۔

چائس پروردگار ہنر تمچھہ چھینہ (حجرت پلور
 کرنہ پستہ) بیتھ پانہ آسان، سبیلہ سہ
 بستین اتھ حالتس منتر ٹان چھہ نہ تم آسن ظلمس
 چھہ ظلم کران۔ تہنر تمچھہ چھینہ سبھو ہے
 دگر دار (تہ) کر چھہ آسان۔

یس آخر تہ کس عذابس کھوٹان آہہ اتہند
 خاطر چھہ (خداہ ہندس) تھہ (رٹس) منتر
 یقیناً اکھ (عبرتہ وول) نشانہ (موجود آسان)
 یہ چھہ اکھ تہتھہ (سینہ وول) دوہہ تہنہ خاطر
 لاکھ سو نمبر اونہ پن تہ یہ آہہ تہتھہ دوہہ یس
 ساری لاکھ وچین۔

تہ اسی چھین سہ صرف اکیس گنہ تھہ معیادس
 تاسے پتھہ رٹان۔

سبیلہ وقتہ سہ بیمہ کانہہ شخصس ہیکہ نہ تہند

وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿۱۱﴾

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ
 عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿۱۲﴾

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
 فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ
 رَبِّكَ، وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَشَابَهُنَّ ﴿۱۳﴾

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَ
 هِيَ ظَالِمَةٌ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿۱۴﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ
 الْآخِرَةِ، ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ
 النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿۱۵﴾

وَمَا تَوْجِهُهُ إِلَّا لِاجْلِ مَعْدُودٍ ﴿۱۶﴾

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

فَمِنْهُمْ شَقِيحٌ وَ سَعِيدٌ ﴿۱۹﴾

(یعنی خلیہ برتر بند) اذ نہ ورا بی کہتہ گرتہ
پتہ سپدن (تمن منفر (کیئہ) بد بخت (ثابت)
بیہ آسن (کیئہ) خوش نصیب تہ۔

او ہم بد بخت (ثابت) سپدن تم مرخصن نارس منفر
(داعل) تنقہ منفر آسن (کنہ وقتہ) تہندہ (دگر
تہ) ز پتہ (یعنی لؤلؤ) شاہد (کسان) تہ کنہ
وقتہ آسن (تمن ہکر ہور لگان۔

تم مرخصن تنقہ منفر توت نام روزان یوت نام آسان
تہ زمین قایم چتہ۔ تمہ وقتہ ورا بی یہ چون پروردگار
یہ سیرتہ۔ چون پروردگار یہ بہرہاں چتہ تہ چتہ گرتہ
روزان۔

تہ ہم خوش نصیب ثابت سپدن تم آسن جنت منفر۔
تم مرخصن تنقہ منفر توت تمام روزان یوت تمام
آسان تہ زمین قایم چتہ۔ تمہ وقتہ ورا بی یہ چون
پروردگار یہ سیرتہ۔ (یہ) بخشش چینیہ (ترتہ)
یوسہ نہ (لانہ) ترہبتہ گرتہ۔

لہذا (اسے مخاطب) یوسہ عبادت ہم (لؤلؤ کران)
چتہ تمہ کس (ہائل آسن متعلق) ہمہ پیسہ
تہ کنہ شکس منفر۔ ہم چتہ ترہبتہ ہش عبادت
کران بہرہ عبادت (تمن) بروٹہ تہندہ جدا جدا
کران آسن تہ آسن و مو تمن (تہ) بے شک تہندہ
(پلور) پلور حصہ۔ بینیہ منفر (ہرگز) کیئہ تہ کم پیسہ
تہ گرتہ۔

بیہ آسن اسے بے شک (اختلاف ملانہ) با چتہ
موسیٰ ہس (تہ) کتاب (یعنی تولات) دتر بہتر
پتہ او (کنہ وقتہ پتہ) تنقہ متعلق (تہ) اختلاف
کرتہ تہ اگر سوہ (رحمتہ کر وعدہ واجز) کہتہ
یوسہ پٹانس پروردگار بند طرفہ بروٹہ نازل پتہ
مشر چینیہ۔ (ٹھہر) آسہ ہے تہ تہ تمن در میان
آسہ ہے (کرتام) فاصلہ کرتہ آمت۔ تہ وول تہ

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا
زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ ﴿۲۰﴾

خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَ
الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ؕ إِنَّ رَبَّكَ
فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿۲۰﴾

وَ أَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ
خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَ
الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ؕ عَطَاءٌ غَيْرَ
مَجْدُودٍ ﴿۲۱﴾

فَلَا تَنكُ فِي مَذِيَّةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هُوَ لَآءُ
مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤَهُمْ مِّن
قَبْلُ ؕ وَإِنَّا لَمَوْفُونَ لَهُمْ لَوْ صِيبَهُمْ غَيْرَ
مَنْقُوصٍ ﴿۲۱﴾

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ
فِيهِ ؕ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ
لَفُضِي بَيْنَهُمْ ؕ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مَنَّهُ
مُرِيِبٍ ﴿۲۲﴾

چھہ تم اتھ (قرآنس) متعلق (تہ) اُس بقیار
کرن اوس شمس منز (پہتر) ۔

چون پروردگار وسیع بے شک متن سارنے تہندک
اعمال (یعنی تہند پھل) پلو پلو پلو ۔ تم یہ کثیرھا
کلن چھو تہ پھو سہ زبر پانھو زمانک ۔

لہذا (اسے رسول!) تہ روز سیز و تہ پیٹھ قائم
(تہو پانھو) پتھ پانھو شریہ حکم و تہ آمت پتھ
تم (لوکھ) پتھ کیو شریہ سہتر روز تھ (اسہ کن)
رجوع کورمت پتھ (تہ) اسے نومنو) توہر
نہر زبو نہ زانہہ تہ حد ہبہر ۔ یہ کثیرھا توہر کلن
چھو سہ پتھو تہ و پھان ۔

بہہ جو زبو نہ توہو متن لوکن کن یوم ظلم (کرکٹ
و طہر اختیار) کورمت پتھ ۔ تہ و تہ و توہر
(تہ) نار (یعنی نار جہنم شریہ) ۔ تہ اللہ تعالیٰ
ہس و رابی آسہ نہ (تہر وقت) تہند کانہہ دوست
(تہ مدوگار) تہ توہر میلہ و تہ (کثہ طرف تہ) مدو
بہہ (اسے مخاطب!) تہ آہر دو بہکن دو نونی
طرفن تہ راز ہندن (وار یاہن تہ مصلحت) وقتن
منز نماز جان پانھو ادا کران ۔ بے شک چھہ نیکہ
بڈین دور کران ۔ یہ اللہ تعالیٰ سنہر تعلیم پھہ
یاد تھون و این ہند یا پتھ اکھ نپت ۔

بہہ ہینہ صبرس (تہ شریہ) کاسم تہ کیاز اللہ
(تعالیٰ) پتھو شیکو کارن ہند اہر ہرگز تہ ضایع
کران ۔

اد کیاز درایہ نہ تہو تو مو مشہر ہم توہر بروٹھ
اسی تہو عقلم واد (لوکھ) ہم (لوکن) ملک
منز فساد پاد کرہہ ہنہ پتھ رتہ ہن ۔ کثیرو
نوکو و رابی ہم اسہ (بڈیو ہنہ پتھ روزہ تہ
لوکن پتھ رتہہ کہ باعہہ) پچا وک تہ (باقی لوکھ)
یوم ظلم (کرکٹ) و طہر اختیار) کورمت اوس تم

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لِيُوقِيَنَّهُمْ رَبُّكَ
أَعْمَالَكَمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۲﴾

فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ
وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۳﴾

وَلَا تَزْكِنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۱۴﴾

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا
مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ
السَّيِّئَاتِ، ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴿۱۵﴾

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۶﴾

فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ
أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ
وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَ
كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۱۷﴾

سید تھہ (مال و جائیداد کس لذتس منز آوری) تھہ
منز، تمہن او سوڈگی بختنہ آہتر اُس تہ مجرم سید۔
تہ چون پروردگار چھتہ ہرگز تھہتہ نہ (مکھ چپن)
بیتین کر ظاہر سستی ہلاک امہ باوہوز نہ تمہن ہندہ
بست کین آسن اصلاح (واجبہ کامہ) کرن واد۔

بیہ اگر چون پروردگار پنتی مرضی تانڈ کرہے
تہ سارہنے لاکن بناوہے اکے جماعت تہ (کلیاڑ
تمو کوز نہ تہ تہ تم چھن تہ ہتر عقلہ پیٹھ
تراور متو) تم روزن ہمیشہ اختلاف کران۔

تمو وراہی کین پیٹھ چاڈ پروردگارن رحم کوڑمت
چھہ تہ تمکی خاطر چھن تم پادو کرکری متو، تہ
چانس پروردگار سند یہ فرماون سپد ضرور پور
(نہ) ہر پین جہنم بلاشک (تمو سارہوہے) چھو
تہ انسانو سستی (بیم اختلافک باعث بان چھہ)
تہ چون دل مضبوط کر نہ موکھ چھہ اُسی پیغمبرن
ہنر سالم اہم خبر شریہ بروٹھو کتہ بیان کران تہ
یتھ (سورس) منز چھہ تم سارہو کتہ شریہ
پیٹھ نازل سپر مشر پیمہ یزہر تہ حکمتہ سستی
برتھ چھہ، بیہ چھہ نصیحت کرن واجبہ، تہ
مؤمنن چھہ تہندہ فرضی یاد پاون واجبہ۔

بیہ ون تہ تمہن لاکن بیم ایمان چھہ انان نہ توہی
کرو پسنہ حالہ مطابق عمل۔ اُسی تہ کرو (پسنہ
حالہ مطابق) عمل۔

بیہ توہی (تہ) پیارو تہ اُسی (تہ) چھہ پیارن۔
بیہ آسمان دند تہ زمینک غاب چھہ صرف
اللہ (تعالیٰ) ہس حاصل تہ ساری معاملہ
چھہ آخر (انجام کرکری) تسو کتہ چھہ تھہ واپس
مترتھان۔ او کتہ کر تہ تہنرے عبادت تہ تسو
پیٹھ کر توکل تہ چون پروردگار چھہ ہرگز
تمو اعمالو لنتہ غافل بیم توہی کران چھو۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ
وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ ﴿۳۶﴾

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿۳۷﴾


إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَلَأْنَا جَهَنَّمَ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۳۸﴾

وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ
مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، وَجَاءَكَ فِي
هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۹﴾

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا
عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، إِنَّا عَمِلُونَ ﴿۴۰﴾

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۴۱﴾

وَاللَّهُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاَعْبُدْهُ وَ
تَوَكَّلْ عَلَيْهِ، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۲﴾



سُورَةُ يُوسُفَ : یہ سُوْرہ چھ کئی تہ بسم اللہ متبہ چھ آیتہ اکھ تہ تہ باہ امیر بیہ چھس باہ رکوع ۔

(بر چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنْد ناو ہتھ (پران)
یس حدہ رُوْس کرم کرن وول (تہ) پھپر کھپر ک
رحم کرن وول چھ ۔

بر اللہ چھس وچھن وول ۔ ہم چھ (پزرس)
کھشراون واجزہ کتاب ہندک آہ ۔
اسر کور پنہو مقصد زبر یا کھو و پشوان
وول قرآن نازل بیہ زن توہو (اتھ منز) قطعہ
(تہ سوچیں) کام بیہو ۔

اُس چھ شریہ نش (پرستہ کاشہ کھتہ) جاد زبر یا کھو
بیان کران ۔ تکبیار اسر چھ یہ قرآن شریہ کن (پزہ)
متر ملامال) موی ذکر تھ نازل) کورمت تہ امیر
برونٹھ اوکھ تہ (تمو تھپتھرو نشہ) بے خسر
لنکن منز شابل ۔

(تہ کر سہ وقت یاد) نیلہ یوسفن پنہن ما س
ونیاو زہ اسے میانہ سہر! (پزہ کر زہ)
میں چھ کاہ تارکھ تہ اختاب تہ زون (خوالس
منز) وچھو ہتر ۔ (تہ میں چھ یہ کھتہ تجیس لایق
زہ) میں چھ ہم پاس برونٹھ کز سجدہ کران
وچھو ہتر ۔

تو وولس میانہ ماطھ کوہر! بین (دیہ) خواب وڈ
زہ پنہن ہن باین ۔ نہ کرن ہم شریہ متعلق
ضرور کاشہ (مخالف) تدبیر ۔ شیطان چھ بے شک
انسانہ سُنْد نوئے دشمن ۔

بیہ (ہتھ کز شریہ وچھت چھتہ) ہتھ کز
دیس شریہ چون پرور کار تھو رتہ تہ (اہی)
کھن ہند دیس شریہ علم تہ شریہ پیٹھ تہ یعقوب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

الَّذِیْنَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ②

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ③

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ
بِمَا اَوْحَيْنَاْ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ ۙ وَ
اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغٰفِلِیْنَ ④

اِذْ قَالَ یُوسُفُ لِاَبِیْهِ یَا اَبَتِ اِنِّیْ
رَاٰیْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ الشَّمْسَ
وَ الْقَمَرَ رَاٰیْتَهُمْ لِيْ سٰجِدِیْنَ ⑤

قَالَ یُبٰیٰی لَا تَقْصُصْ رُءُیَاكَ عَلٰی
اِخْوَتِكَ فِیْ كِبٰیءٍ اِنَّكَ كِیْدٌ اِنَّ
الشَّیْطٰنَ لِلْاِنْسٰنِ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ⑥

وَ كَذٰلِكَ یُخْتَبِیْكَ رَبُّكَ وَ یُعَلِّمُكَ مِنْ
تَاوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ وَ یُعِثُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ
وَ عَلٰی اٰلِ یَعْقُوْبَ كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰی

سدرن سارنہ (حقیقی) اولادن پیٹھ کر پتہ
انعام (پتھ کئی) پور۔ پتھ کئی تمہ تریہ بروٹھ
چاٹن دون بن ایلاھیس تہ اسحاقس پیٹھ پور
کوردت اوس۔ چون پروردگار چھ یقینا سبھا زانہ
ون (تہ) حکمتہ وول۔

یوسف تہ تسدرن باین (ہندن واقعات) منز
چھ (بزر) ترھانڈن ولین ہند باپتھ بے شک
کئی یا تشار (موجود)۔

(یعنی تمہ وقتہ کین واقعات منز) بیلیہ تمہو لین
یوسف نہو باپو اکھ اکیس کن) وون (نہ) یوسف
تہ تسدرن بوسے چھ بے شک سائس مائس سائہ کھو
جادو ٹاٹھ۔ بیلیہ زن اسی اکھ باضابطہ مضبوط عمت
چھ۔ سون مول چھ (اتھ کتھ منز صاف) صاف
ظلمی منز (ہندن آمت)۔

(ادو کئی) یوسف کرلین (یا تہ) قبل تہ دیون
دور) کتھ بیلیس نکس منز دارتھ۔ (اگر یہ
کر تہ) تہندس مائی سند دھیان روزہ توہہ
کن مہل تہ (یہ مہل کرنس کھو تہ تک چھنہ
کانہہ باعث تکیا تہ) امہ پتہ (توہہ کر تہ) بیلیہ
توہہ (بیمہ) اکھ نیک جماعت بیٹھ۔

(اتھ پیٹھ) تمہ منز اکی وون والی وون نہ۔
توہہ مہ کرلین یوسف قبل تہ ہرگاہ توہہ
کینہہ) کرنے چھو تہ تیلہ تر اولون سہ کتہ
کرپرس کرپرس تہ۔ کتہ قافلگ کانہہ
شخصاہ (وچھیس تہ) بیلیس تہ (تہ مار سہ
بقارے سپر تہند مقصد پور)۔

(چنانچہ) تمہ وون (مائس شرتھتھ) سائہ بیمہ
تریہ کیا (تہ تہ) چھ (اسہ متعلق) نہ تہ چھ

أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَرَاسْحُقًا
إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ①

ع
۱۱

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ
لِّلسَّارِعِينَ ②

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا
أَيُّنَا مِمَّا نَحْنُ غَضَبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ③

يَا قَتْلُوا يُوسُفَ وَأَاطِرْحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ
لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ
قَوْمًا صَالِحِينَ ④

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ
فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ
السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فُجُولِينَ ⑤

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ
وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ⑥

تہ یوسف متعلق اسے پیٹھ پر تھپے کران۔ حالانکہ اسی چھ تہنکر (دل) خار خواہ۔

یکاہ سوزن سے اسے سوتی (سائس نمبر)۔ سہ کھینچ (چینی تہ) کھلے ڈالہ پانچویں گنہ تہ اسی کرو تہس راچھ۔

تو (یعقوب) وونگھ تہنہر یہ (پانس سوتی) زمین چھ بے شک میں غمگین کران تہ بہ چھس (اتھ کتہ تہ) کھوژان نہ تو ہی ماگڑھو اوس بنش لاپرواہ تہ اوس کھینے تن (کانہہ) رامہ ہونے (تہ) تہو ووس اسے باوجود نہ اسی چھ اکھ ڈرتہ مغبوط جماعت، ہرگاہ اوس رامہ ہون کھینچ تہ (خداہ سنہر درہ) تیلہ آسو اسی یقیناً کھائش مشہر سپنہ وال۔

اڈ تیلہ سے تہو پانس سوتی نیو تہ سہمتہ کوزکھ فاصلہ سے کتہ کرپس ڈوکس تہل تراونک (تہ ہپارک اسی تم بین اراد پور کران) تہ اسے سوز (ہپارک) تس کن وھی (ہند ذریعہ یہ خود شجر) نہ تہ (روزکھ بچتہ تہ اگر دوہہ) کرکھہ ہم امہ کامہ بنش آگاہ تہ بہن اوس نہ بہ نکر تران۔ تہ کاپن آہ تہ ودان ودان پشش ماس بنش۔

تہ وون ہس نہر، سانہ بابہ! (پہرہ کرک تہ) اسے ہوت گڑھتہ (گنن تہ) اکھ اوس بروٹھ کھہ نہرک دون تہ یوسف کھین اسی پشش سامان بنش تراوتھ۔ تہ (خداہ سند کرن سپد یہ نہ) سہ نیو (اک) رامہ ہونی کھتہ۔ تہ (اسی چھو بہ زانان) اہ اسی پز یارک تہ آسو تہی بی نہ (سانہ کتہ) پڑھ۔

تہ تہو انی تہنر گرتی (تس پڑھ انہر قاطر) پز رتہ متھتہ۔ (یوس جوچتہ) تو وونگھ (یہ کتہ پھنہ پز) بلکہ چھ تہنہر نفسو تہنہر

أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَدُّ وَ يُلْعَبُ وَرَأَاهُ لِحِفْظُونَ ﴿١٥﴾

قَالَ رَبِّي لِيخْذُنِيَّ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَ أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٦﴾

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا الْخَاسِرُونَ ﴿١٧﴾

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْعُجْبِ، وَ أَحْيَيْنَا لِيَمِيهِ لَتُنَيْتْنَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

وَ جَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٩﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، وَ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿٢٠﴾

وَ جَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا

تَصِفُونَ ۱۱

با پتھ اھ ترشہ (سچھ) کتھ خوبصورت کرتھ ہاومتر
(یوسف توہی کرتھ گاتو چھو)۔ وونر چھ زبر
پاٹھی صبر کرنے (میانہ خاطر مناسب) تہ یوسف
کتھ توہی باوان چھو تمہ (چہ پیش بند) خاطر
پنر اللہ (تعالے) ہے مدد ممکن۔ (تہ تسو
پسہ منگتہ تہ)۔

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ
فَادُلِيَ ذُلُوكَ، قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا عَلَّامٌ
وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا
يَعْمَلُونَ ۱۲

تہ اھ قافلہ او تہ تموسوز پین آب ان
دول۔ تم تروو داتھ کرپس پیٹھ ٹھرتھ پین
بکپہ (تہ نیلہ تس کرپس منتر اھ لڑکہ نظر
گھو) تہ تم وون (قافلہ والین) ہے
(قافلہ والہو!) خوشخبر (بوزو تہ وچھو) یہ پیٹھ
اھ لڑکہ (میہ لوبکت) تہ تمو (قافلہ والہو)
تھوو سہ اھ تجارتی مال زانتھ کھتھ۔ تہ یہ
کیشرھا تم کران اسی تہ اوس اللہ (تعالے)
زبر پاٹھی زانان۔

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۱۳

تہ امر پتہ نیلہ یوسف ہو بابو یوسف رشہ
بیکٹ بوز تہ) تمو کن (سہ پین غلام ووتھا)
کیشرھا کم (کاسہ) مونس یعنی کیشرن درہمن
(یکٹھ قافلہ والین) تہ تم اسی امر (معمول)
مولہ (پتھ بیکل بیہ مال)۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ
لَا مِرَاتِي أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ
يَكُنْفَعَنَّا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَكَذَلِكَ
مَكَتَ يُيُوسُفُ فِي الْأَرْضِ زَوْجِلْيَمَهُ
مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وَاللَّهُ غَالِبٌ
عَلَىٰ أَمْرِهِ، وَلَئِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ۱۴

تہ مصر (ہو روزن والہو) منتر تیمر شخص سہ علو
ہیوت تم وون پسنہ خاندانہ زام ہند روزن
جاس بناو عزتہ واجز۔ ووسید چھنیہ زہ (لڑکہ)
اسہ سانہ خاطر نفع دہ وول یا بناوون اسی پہ
(پین) نیچھوے۔ تہ بیتھ کتھ بخش اسہ یوسف اھ
مکس منتر تھرتہ بجر۔ بیہ (ہیت اسہ تس یہ
عزیمک مقام) او کتہ تہ میتھ زام تس خوابن
ہند تعبیر اصلیتک علم دمو تہ اللہ (تعالے)

ہس بیٹھ پستہ کتھ (ہندس پوڑ کرس) پوڑ
پوڑ طاقت۔ اماہ پوڑ واریاہ لاکھ چھنہ (بہ پڑر)
زاناں۔

تہ بیلیہ سہ پستہس قوتس (تہ مفیوی ہنر وانسہ)
ووت تہ اسہ بخشش نس قاملہ (کرکٹ شعور)
تہ (خاص) علم، تہ (اصلی) نیکو کارن چھ اسی
یتھ پانگو جزا دیوان۔

بہ بیئیس (زنانہ ہندس) مرس منتر سہ (روزان)
اوس تمہ یوتھ تہند دوس تہنتر مرضی خلاف (اکھ)
کار کرناون تہ تمہ کر (مکانگر) ساری دروانہ
بند تہ وون نس، (میہ کن) ولہ۔ تمہ
وونس (بہ چھس یہ کرنہ نش) اللہ (تعالیٰ)
سند پناہ (منگان)۔ بے شک سہ چھ میون پروردگار
توڑ چھ میانی روزن جاعے بڑ بناو ہنتر۔ کتھ
چھنیہ یہے نہ نطالم چھنہ کامیاب سپدان۔

تہ تمہ کور تس متعلق (پین) اراد پوڑ ختہ تہ
توڑ (یوسن) تہ کور تس متعلق (پین) نس
نش بچتھ روزنگ (اراد پوڑ ختہ) (تہ) اگر توڑ
پسنس پروردگار سہ گانتر نشاؤ وچھت آسہ
ہے نہ (تہ سہ ہیکہ ہے نہ بیٹھ اراد کر تھ)
یتھ کتھ (سپد) بیٹھ زن اسی نس نشہ پر تھ
اکھ) بڈی تہ بے حیائی (ہنتر کتھ) دور کروں
(تہ) سہ اوس بے شک سانہو مخلص (تہ پاک
کرنہ آمتو) بندو منتر۔

تہ تم دو شولے لارے بیر دروازس کن تہ تمہ
ترھینر او (اتھ لم لمہ منتر) تہنتر کرتی پوڑ کتھ
تہ (یتھ تم دروازس تام واقتہ) تمودو نو پوڑ
وچھ نس (زنانہ ہند) خاوند برس نش (اتار)
(بیٹھ پوڑ) تمہ وون (پسنس خاوندس) نیس
رشنس، چانہن گر کہن عتی بڈی (کرئی) بیٹھ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۲﴾

وَرَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ
نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ
لَكَ، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ
مَثْوَايَ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۲﴾

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ
رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ
عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ، إِنَّهُ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۲﴾

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ
دُبُرٍ، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ، قَالَتْ
مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا
أَنْ يُسَجَّنَ، أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۲﴾

تسند سزا (گرنہ) تہ امیر ورآئی (کہنہ آسن)
 ز سہ پیہ قادی کرنہ یا (پیہ تس) بیہ کاشہ
 کرلوٹھ غلاب (دینہ)۔

تمو (یوسفن) ووئس (کتھ چھنہ بیہ بلکہ) امیر
 بیٹھاو میہ اتھ میانہ مرضی خلاف (اکھ) فعل
 کرناون۔ تہ تہ (زنانہ ہندک) خاندانہ منتر و تر
 اک گواہن گواہی (تہ بیس زنانہ ہندک) پلو

چھ صحیح سلامت تہ بیس مہنوک سہن کر تہ
 چھ تازے تھنر او مہتر۔ لہذا (اگر امی سہن
 کر تہ بزو ٹھہر کتھ تہ بیس مہتر چھنہ تہ امیر
 چھ بوز ووئمت تہ بہ (مہنیو) چھ یقینا اپز پور
 تہ بوز وے بیس (مہنوک سہن) کر تہ پور
 کتھ تہ بیس مہتر آسہ تہ بیس (زنانہ) چھ اپز
 ووئمت تہ بہ (مہنیو) چھ یقینا پز پور۔

لہذا بیلہ تمو (ہندک خاوندن) تسنہ (یعنی
 یوسفن) کر تہ وچھ ز سہ چھنہ پتہ سہ طرفہ
 تھنیو مہتر تہ تمو وون (پسند آستہ) بیہ
 (بگڑ) چھ بے شک چانہ چالاک ستر (کاد پتہ)
 تہ ہ زنانہ ہنر چالاک چھنہ یقینا سہما (بڈ) آسان
 اسے یوسف! تہ وٹھ بیس (زنانہ ہنر شیطانہ)
 ہنر اچھ تہ (پتہ وون پسند زنانہ) تہ منگ
 پسند قصورچ معالی۔ یقینا چھکھ تہ نلو (تہ
 خطا کار) منتر۔

بیہ وون تمہ شہر چھو کینہرو زنانو (اکھ اکس کنہ)
 عز پزنی آستہ چھنہ بیس فلما اتھ تسنہ مرضی
 خلاف (بد) فعل کرناون بیٹھاوان (تہ) تسنہ
 عشقن چھنہ تسنہ بلکہ کن سون منتر معاے کر تہ
 اوسچھن سہ (اتھ معاوس منتر) منتر وانہ فطی پیٹھ
 وچھان۔

تہ بیسہ تمہ تہنر امیر وناونی ہنر خبر بوز تہ

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ
 شَاہِدٌ مِّنْ اٰہْلِہَا جَ اِنْ كَانَ قَمِيصُہٗ
 قَدْ مِّنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِّنْ
 الْکٰذِبِيْنَ ۝۱۴

وَ اِنْ كَانَ قَمِيصُہٗ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ
 فَكَذَّبَتْ وَ هُوَ مِّنْ الصّٰدِقِيْنَ ۝۱۵

فَلَمَّا رَا قَمِيصُہٗ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّہٗ
 مِّنْ کٰذِبِيْنَ اِنَّ کٰذِبِکُمْ عَظِيْمٌ ۝۱۶

يُوسُفُ اَعْرِضْ عَنۢ هٰذٰلِكَ وَ
 اسْتَغْفِرْ لِيْ لِذَنۢبِکَ بِاِنَّکَ کُنْتَ مِّنَ
 الْخٰطِئِيْنَ ۝۱۷

وَ قَالَ نِسْوَةٌ فِی الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ
 الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰہَا عَنْ نَفْسِہٖ
 قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرٰہَا فِیْ ضَلٰلٍ
 مُّبِيْنٍ ۝۱۸

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ

تمہ سوز بہن ناد (تہ ابن سال کرمہ) تہ تہند
 خاطر کوزن اکہ (غاص) ڈکودار مسد تیار (تہ
 نیلیر تمہ آہ تہ) تموشتر ویتن پر تہ افس کہینہ
 چیز کراونہ باچتہ اکہ اکہ) شرکہ پتج تہ (یوسف)
 وون (نر) نون بروٹھ کن نیر۔ اڈ نیلیر، تمو
 سہ وچھ تہ سہ وچھکھ (سبھاہ) تمہر شاپہ وول
 ہسان تہ (سہ وچھتہ عارتس پتہ) تہ وچھ پتہ
 اتھولہ تہ وونکھ (محض) اللہ (تعالیٰ) سبہ
 خاطر چھ (یہ شخص) کھوڑمت (بدکار کر تہ نشہ)
 پتہ پتہ ہرگز بشر۔ یہ (ہے) پتہ صرف اکہ
 عزتہ وول ملک۔

تمہ وون بہن (اتھ پتہ) یہ چھ تہ (شخص)
 نہیں متعلق توہر مینہ لعنت ملامت کر وشر چھہ
 تہ مینہ کریا یہ تہ اتھ تہنہ مرضی خلاف (اکہ بد)
 فعل کرنا وپنج کوشش ضرور۔ (امہ پوز) یہ
 رووتتہ پتہ تہ پتہ، تہ اگر افس سوکتہ کر
 تہ نیلیر خاطر ہر افس حکم کران چھس، تہ سہ
 یہ بے شک جیس لہر تہ یقیناً گڑھ سہ ذیل۔
 تمہ (یوسف) وون (یہ بوزتہ دعا کران تہ) میانہ
 پرور وکار! بیتہ کتہ کن سہ مینہ ناد کران چھینہ
 تہ نہست چھ مینہ جیل گڑھن جاو پند تہ اگر
 تہند (بد نتیجہ دار) تدہیر تہ مینہ نشہ دور کرکھ
 تہ خبر چھا ہر ماسپہ بہن کن مالدر تہ (یہ)
 سپہ بجاو اندر۔

اڈ تہند پرور وکارن بوز تہند دعا تہ تہند
 (بد نتیجہ دار) تدہیر کوزن تہ نشہ دور۔ بے
 شک چھ تہ یس سبھہ ہے (دعا) بوزن وول
 (تہ نوکن ہندہ حالات) زبر پتہ نون وول چھ۔

إِلَيْهِمْ وَاعْتَدَتْ لَهُمْ مِتْكَأً وَآتَتْ
 كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ
 أَخْرِجْ عَلَيَّهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ
 أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا
 هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿۳۷﴾

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، وَ
 لَقَدْ رَأَوْنَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَخَصَمْنَ، وَ
 لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرُوا لَيُشْجَعْنَ وَ
 لَيَكُونُنَّ مِنَ الضَّعِيفِينَ ﴿۳۷﴾

قَالَ رَبِّ السَّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا
 يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۚ وَلَا أَتَصَدَّقُ عَنِّي
 كَيْدَهُنَّ أَضْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنَّ مِنَ
 الْجَاهِلِينَ ﴿۳۷﴾

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ
 كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۷﴾

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ
لِيَسْجُتَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۳۱﴾

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيْنِ، قَالَ
أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِيتِي أَعْمَدُ خَمْرًا، وَ
قَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرِيتِي أَحْمِلُ فَوْقَ
رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، نَبَّئْنَا
بِتَأْوِيلِهِ، إِنَّا نُرِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۲﴾

قَالَ لَا يَأْتِيكُمْ طَعَامٌ تُرْزَقِينَ
إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ
يَأْتِيَكُمَا، ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي،
إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۳﴾

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْرَهِيمَ وَ
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، مَا كَانَ لَنَا أَنْ
نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ
اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۴﴾

يَصَاحِبِي السَّجْنَ، أَدْبَابُكَ مُتَّفَقٌ قَوْلَ
حَیْرُ آوِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۳۵﴾

اگر ہم ساری علامات و چھپتے پستے آوے تمہیں (تو تمہیں
کین سردان) چھپتے (مصلحت) بوز نہ نہ تمہیں پز
(بدنامی دوز کرتا پاتھ) سہ (یوسف) کیٹھ
کھر باپتھ ضرر تھاد کرن۔

بہ سیدو تھاد خاس منرتس ستی بہ نہ جوان
(تر) ڈاٹھل۔ یہو اندر اکر وونس (تر) بھپس
پٹن پان (خوابس منرتیہ حالتس منرت) وپھان
نہ بر پھس وچھ چہر تھد رس کٹھن۔ تروکرو وون
بر پھس پٹن پان (خوابس منرت تھد حالتس منرت)
وچھان نہ میہ چھپتے پستنس کس پٹھ تروچہ پٹھ
یکو منرت جانوار کھولن چھ (تر) یہو وونو وون
نہ (تر) وون اسہ بین (خابن) ہند تعبیر۔ اسر چھپتھ
تھ یقینا نیکو کارو اندر زانان۔

تھو وونکھ نہ وون کینک کھین توہہ ہنٹہ پینہ
بروشٹھ وونو بہ توہہ تمیک (یعنی خابک) تعبیر
یہ (خابن ہند تعبیر کرنج قابلیت) چھپتہ (میہ
منرت) اسہ بائٹہ نہ میٹا پروردگان چھہ میہ
علم بخشمت۔ میہ چھہ تمہن لوکن ہند دین تروٹ
یکم اللہ (تعالے) ہس پٹھ ایمان چھپتہ تھولن بہ
چھو تم آخرتس (تر) انکاری۔

بہ میہ چھو پستنس جدک اجدان یعنی ابراہیم
تہ اسحاق تہ یعقوب، ہند طریقی پاری اختیار
کر مہتر۔ اسر چھپتہ کانہ چیز تہ اللہ (تعالے)
ہند شریک ٹھہراونک حق۔ یہ (توحید چھہ
تھاپہ ہند میان) چھہ اسہ پٹھ تہ دین لوکن پٹھ
اللہ (تعالے) ہند اکھ فضل (تہندبو خاص فضل
منرت) اماہ پوز واریاہ لوکھ چھپتہ (تہندبن احسان
ہند) شکرانہ کران۔

اے میانہو قید خانہ کھو وونو پستو باجو! (اکھ
اکس ستو) اختلاف تھون وارل خدا چھا بہتر

کہے اللہ (تعالیٰ) میں کئے (تو) ساری غلیبہ
تھوں وول چھ ۵

تو ہی چھو نہ سے تراوتہ (کائنہ ہنر) عبادت
کران مگر کینتو (دھن) ناوو ورائی یک توہ
(پان) تو تہندو جد اجدادو بناوتھو تھا وک
موتو چھ (تو) بھین ہند باپتھ اللہ (تعالیٰ)
ہن (تہندس تائیدس منز) کائنہ حجت تہ تارل
چھتر کر ہنر۔ (یاد تھاوو) فاصلہ کرن چھنہ
اللہ (تعالیٰ) ہس ورائی بیہ کائنہ تمام۔ (تو)
تو چھ یہ حکم دیت مت نہ توہر مہ کرو تس
ورائی کائنہ ہنر عبادت - یوہے چھ صحیح دین
ووڈ گوو واریاہ لاکھ چھتر زانان۔

اے میانہ قید خانہ کہو دوہو یوسو ستر باجوہ! (ووڈ)
بوزو پستہ پستہ جوابت تعبیر) توہہ منز آسرا کہ
پنشن آفس شراب چاوان تو دویم یہ صلیب
وتھ مارنہ - پتہ کہین جانا وار تہند کہ پتہ (باز میتر)۔
(یوسو) بیتھ کتھ متعلق توہی پر شہان چھو تمیک
فاصلہ چھ کرنہ امت۔

تو (دوہو یو) منز وون (یوسن) تس یس متعلق
تو زون مت اوس نہ سے چھ رہائی لین وول،
(نر) پستہ آفس نش تو نہ میانی (تہ) کتھ۔
پتہ مشتراو شیطان تس (آزاد گامتس قیدس)
تندس آفس نش (سو) کتھ ملو تو نہ (یوسف)
رؤد واریاہن ورین قید خانس منز۔

تو (کینتر کلام پتہ) بادشاہن وون (پستہن دربارن)
ہر چھس (خابس منز) ستھ وینچہ وینچہ ٹاؤ ووجھان
بین ستھ ہو چھتر تو ہنر (ٹاؤ) کھولان چھبہ
تو (بیہ چھس ووجھان) ستھ (تار تہ سب) ہیلو
بیہ کینتہ ہوکو ہنر (ہیلو)۔ اے نہ چھو لاکو!
ہر گاہ توہی خابن تعبیر کران چھو تہیدہ ٹوہو مینتہ

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ
سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
أَمْرٌ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾

يَصَاحِبِيَ الشَّيْطَانِ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيَسْفِي
رَبَّهُ خَمْرًا وَآمَّا الْآخَرُ فَيُضْلِبُ
فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ وَذُضِيَ
الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ﴿۶﴾

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا
اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَإِنْسَهُ الشَّيْطَانُ
وَكُذِّبَتْ رَأْسُهُ فَالَكِلْبُ فِي السِّجْنِ بِضَعِ
سِنِينَ ﴿۷﴾

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَعَاتٍ
سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعَ
سُنْبُلَاتٍ خَضِرٍ وَأَخْرَجِي سِتِّ، يَا أَيُّهَا
الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ
لِلرُّبَا تَعْبُرُونَ ﴿۸﴾

میاں سیتھا خا بس متعلق صحیح حکم۔
 تم وونس (نر)۔ (یکم) چھ پریشان خیال ہندو
 غاب تہ اُس چھنہ یقین خاب ہنر حقیقت زمان
 اوتو (دو یو قیدو) مشر تو میو نظمی مس
 لمبہ تہ (میو) اکہ مدتہ پتہ (یو سہ کتہ یوسف
 سیتی پتھن سپر مشر مس، سو کتہ) تہ
 ہتس پتہ ون یو کروہ تہ ہر امر کہ حقیقتہ
 نشہ خبر وار۔ لہذا میہ سوزو تو ہی (ایچ حقیقت
 معلوم کرنہ خاطر)۔

تہ تو ون مرشہ یوسف نر (اے یوسف!
 اے بڑیا بڑ! امر ونو (امر خاکت تعمیر) سن
 وپن گاون چھید ستہ لہر (مگاو) کھوان۔
 بیہ ستہ سبز میلر تہ (تمن مقابل) چھ کینہ ہوگر
 ہتو (ہیلر)۔ میتہ زن بہ تمن لوکن نشہ مرشہ
 نر تمن سپر (خواہ کہ تعبیرک) علم۔
 تو وونس (نر) توہ کرو سن ورین برابر منہ سان
 کاشکاری لہذا (ہین ورین منر) یہ (کینہھا)
 توہی لوہو۔ تہ (سورے) مرشہ تمہ کین ہیلین ہتہ
 (یسنہ چھو نیسن) تھاون۔ ماہوایہ (تہ) کم کینہھا
 حصر کہ یہ توہی کینو۔

تہ پتہ پن سجت (تنگی تہ قہلو) ستہ وری یکم
 سہ (سورے اناج) کین یہ توہ ہر تمن کینت
 بروٹھ پٹے سوزتہ مقومت آسہ و تمہ کم کینہھا
 مقدر ورے یہ توہی پس انداز کرو۔
 تو پتہ پیہ اکہ (تیمہ) وری میتہ مشر لوکن ہند
 (واو) فریاد بوزہ پیہ۔ تہ تم سپدن (نحو شمال)
 تہ اتھ حالتس مغز دن تم اکہ اُکس ڈالہیلہ
 تہ (یہ تعبیر بوزتہ) بادشاہن ون تمن تہ

قَالُوا أَضَلُّوا سُبُلَهُمْ وَ مَا نَحْنُ
 بِبَادِلِ الْأَعْلَاءِ بِعِلْمَيْنِ ۝

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ
 أُمَّةٍ أَنَا أُنْتِظَمُ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ
 بَقَرَاتٍ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ
 وَ سَبْعِ سُبُلَاتٍ حُضِرٍ وَ أُخْرَ بَيْسَتٍ
 لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَعْلَمُونَ ۝

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاجٍ
 فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا
 قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ۝

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
 يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا
 مِمَّا تَحْصِنُونَ ۝

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ
 يُغَارُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصُرُونَ ۝

وَ قَالَ الْمَلِكُ اسْتَنْوِينِي بِهِ فَلَمَّا

تو ہی اُنہوں سے میری نش - اور بیلیہ (بادشاہ مند)
 شہچہ بنتہ وول تس نش او تو تمہو (یوسف)
 وول (تس ز) تر گرشہ پنس انس نش بیہ
 واپس تو تس پر رشہ نہ پکو زانو پتو اتھ تر چاہیہ
 تہنتر حالت کیا چھہ (وڈ کین) لے شک چھہ
 میون رب تہنتر منصوبہ تر بر پاتھو زماناں -

(یہ شہچہ بوڑھہ) تمہو (بادشاہن) وول یمن
 (زمانن ز) تمہہ (سہ) معاملہ کیا اوس بیلیہ؟
 تو ہر یوسف اتھ تہنتر مرضی خلاف (اکھ بد)
 فعل کرنا و پچ کوشش کرنا یو
 تمہو وولس تر سہ (یوسف) اوس اللہ (تعالے)
 سہ نہ خاطر (بدکاری نشہ) کھوڑمت (تہ)
 اسر سپدے یا پ نہ تس منتر کا نہہ تاکارگی
 (ہنتر کتھ) معلوم - (یہ بوڑھہ) عزیز نہ آشنہ
 وولن نہ پڑر چھہ وول وارنسیومت - بیہ
 اس تس اتھ تہنتر مرضی خلاف (بد)
 فعل کرنا و پچ کوشش کر مشر تر سہ چھہ بیشک
 پڑیا ربو اندر -

(تو یوسف وول تس پتہ ز) یہ کتھ پچھہ
 (میہ) او کہو وول مشر تر تس (عز پتہ) سپدہ
 خیر نہ میہ کور تہ (تہنتر) غیر موجود مشر
 تہنتر حقس خیانت - بیہ یہ نہ (میہ چھہ ایمان
 نہ) خیانت کرن والہن ہنتر تدبیر چھہ اللہ
 (تعالے) کامیاب کران -

بیہ چھس نہ ہر پنس نفس (پر پتہ کتہ)
 قہمہ چہ فطی نشہ) چھہ گنتران - بیکیا ز انسان)
 نفس چھہ ناکار کتن ہنتر محکم وول پتہ سبھا
 دلیر - امر ورائی تر یس پتہ میون پروردگار
 رحم کر - میون پروردگار چھہ (گنورین پتہ)
 پروردگار وول (تو) پچھہ کر پچھہ کر رحم کرن

جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ
 فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ
 أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَوُنَّ يُوسُفَ
 عَنِ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا
 عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ وَقَالَتِ امْرَأَتُ
 الْعَزِيزِ إِنِّي حَصَّصْتُ لَأَنَا
 رَأْدًا ثَمَّ عَنْ نَفْسِي دَرَاهِمَ لَمِيعَاتِ
 الصُّدُوقِ ﴿۱۲﴾

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ
 وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ﴿۱۱﴾

وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَبْرَأَةٌ
 لِّمَا كَادَتْ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲﴾

وول۔

تہ باوشہن ویت حکم زر سہ (یوسف) انہن
میرنش میتہ زن بر سہ پستہ (یعنی خاص کاہنوں)
باپتہ ثاران۔ نیلہ (یوسف آوتہ) تو (بادشاہن)
کرتس سوتو کتہ باتتہ۔ تہ (سہ) وچین پرپتہ
زنگہ قابل تہ (وونس زرتہ آسکھ اُرد (کہ
پٹہ) اسر نش عزتہ وول تہ مرتبہ وول بیہ
قابل اعتماد انسان (گنڈراونہ یوان)۔

(اتتہ پٹہ) وون (یوسف) زر میہ کزو ملکین خزان
پٹہ اسر مقدر۔ یکیار بر چیس بے شک (خزان ہنہ)
جاد بڑ حفاظت کرن وول تہ (اقتصادیاتک علم)
زیر پٹہ زان وول۔

تہ پتھن بختو اسہ (مناسب حالات یاد کرتہ)
یوسف (تتہ) ملکس منز اکھ اختیار وول عہد
سہ بیہ (کنہ) بیہ ہے (پستہ مرضی مطابق)
روزہ ہے۔ آسہ بیس۔ پتھان چہ (یتہ ذنیہ ہس
منزہ) چیس پستہ رحمتہ منز (حصہ) دوان۔
تہ آسہ چہ میکو کان بند اجر ضایع کران۔

تہ (نیہ دنیاوی اجر علاوہ) آئینہ (زندگی بند)
بدلہ آسہ ایمانہ والہن تہ اللہ (تعالے) سہ
تقوی پرلون والہن کیٹ (کتہ کور) کھتہ۔

تہ یوسفو بانی (تہ) آہ (تتہ) قوطہ کس زماش منز
تتہ ملکس منز (تہ) تہن دربارس منز گے جاہر
تہ تو پر بڑا ورم (وچھوئے) مگر، تو ہو کتہ
سہ پر بڑا ورم۔

تہ نیلہ تو تہنہ سامانہ ورم (واپسی خاطر تیار
کری تہ) (ہن) وون (نہ) تہن مال بندہ طرفہ
یس توہر اکھ بوے چھو سہ (تہ) اُنی زیون (بیہ
لہ پانس سوتو) میہ نش۔ کیا توہو چھو نا وچھان
زر بر چیس مینٹر بلورہ دوان تہ بر چیس (بیہ)
مہزان داری کرن والہو منز سارہ وپے کھوتہ رت۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اِتُّونِي بِهَاسْتَخْلِصُهُ
لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ
لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ ﴿۵۱﴾

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّي
حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿۵۲﴾

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ
يَتَّبِعُوْا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُّصِيبُ
بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ اَجْرَ
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۳﴾

وَلَا اَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿۵۴﴾

وَجَاءَ اِخْوَتُهٗ يُوسُفَ فَاَدْخَلُوْا عَلَيْهِ
فَعَرَفُوْهُ وَهُمُ لَهٗ مُنْكَرُوْنَ ﴿۵۵﴾

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهٰزِهِمْ قَالَ
اِتُّونِيْ بِاٰخِ لَكُمْ مِنَ اٰبَائِكُمْ ۚ اَلَا
تَرَوْنَ اَنِّيْ اُذِي الْكَيْلِ ۚ وَاَنَا خَيْرُ
الْمُنْزِلِيْنَ ﴿۵۶﴾

تہ اگر تو ہی سہ میہ نش افون و نہ تہ دراز زبو
نہ (میہ نش آسہ تہ توہ کیت تولتہ و تہ ہاتھ کپڑ
تہ توہی بیزبو نہ (تیلہ) میہ نکھہ۔

چو ووش آسہ کو ضرور کوشش کشد مول تس
متعلق ناو واپس تہ آسہ روزو بے شک (یہ کام)
کرتھہ۔

تہ تہو (یوسف) وون پنہن غلامن نہ میہ مال
تھاوو (واپس) پہنزن کنن مفز۔ شاید میلہ
بم واپس پنہن گر والہن نش گرشن تہ یہ
(احسان) مانن (تہ) شاید پن تم بیہ (امی کڑ)
واپس۔

او نیلہ تم پنہن ماس نش واپس گے تہ وکھ
(تس ز) اے سانہ بیہ! آسہ بچکھ (آئینہ ہاتھ)
انا جہ نشہ محروم کرکھ متو۔ او کوز سوزن (وون)
سون بوے (بن یا پن تہ) اسہ ستو نہ او
ہیکو آسہ بیہ اناج ہتھ۔ تہ آسہ کرو بلا شک تس
راچھہ۔

تہو وونکھ (توہی وون) کیا بہ ہیکہ نا یہ توہہ
حوالہ کرتھہ؟ یہ نہ ہتھ نہ امیک (تہ) نیر
سے نتیجہ بیس میون توہہ آسہ سند بوے حوالہ
کرنک دریاو۔ وون گووا (بہ چھن یہ توہہ حوالہ
کران مگر یہ پڑھ ہتھ نہ توہی نہ ہیکہ) اللہ
(تعالیٰ) ہے چھہ راجھ کن دول تہ سے چھہ سار
وے کھوتہ جاو رگم کن دول۔

تہ نیلہ تو پن سامانہ مشروو تہ وچکھ نہ تہ بند
مول چھہ تم واپس کرنہ آمت۔ تہ وون (تہ)
پٹھ پنہن ماس) اے سانہ بیہ! (اسہ کھوتہ
بڑا) بیکھ کوسہ خواہش ہیکہ ہو آسہ کرتھہ۔ (وچھو)
یہ چھہ سون مولہ رقم یہ (تہ) چھہ اسہ واپس کرنہ
آمت تہ (اگر سون بوے اسہ ستو بیہ تہ) آسہ
دو پنہن گر والہن خوراک سامانہ اُنھہ تہ پنہن

فَاِنْ لَّمْ تَأْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْدَ لَكُمْ
عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ﴿۱۶﴾

قَالُوْا سَنُرٰوِدُ عَنْهُ اٰبَاہٗ وَاِنَّا
لَفَاعِلُوْنَ ﴿۱۷﴾

وَقَالَ لِفَتٰیہِہٖ اجْعَلُوْا بِضَاعَتْہُمْ
فِيْ رِحَالِہُمْ لَعَلَّہُمْ یَعْرِفُوْنَہَا اِذَا
اِنْقَلَبُوْا اِلٰی اٰہْلِہُمْ لَعَلَّہُمْ
یَرْجِعُوْنَ ﴿۱۸﴾

فَلَمَّا رَجَعُوْا اِلٰی اٰبِیْہِہُمْ قَالُوْا يَاۤ اَبَانَا
مُنِعَ مِنَّا الْكَيْدُ فَاَرْسَلْ مَعَنَا اَخَانَا
نَکْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿۱۹﴾

قَالَ هَلْ اٰمَنُکُمْ عَلَیْہِہٖ اِلَّا کَمَا اٰمَنْتُکُمْ
عَلٰی اٰخِیْہِہٖ مِنْ قَبْلُ ؕ قَالَہٗ خَیْرٌ حٰفِظًا
وَّہُوَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ ﴿۲۰﴾

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَہُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتْہُمْ
رُدَّتْ اِلَیْہِہُمْ ؕ قَالُوْا يَاۤ اَبَانَا مَا نَبْغِیْ
ہٰذِہٖ بِضَاعَتْنَا رُدَّتْ اِلَیْنَا ؕ وَنَمِیْزُ
اٰہْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَاِنْ زَادَ کَيْدَ
بَعِیْرِ ؕ ذٰلِکَ کَيْدٌ یَّسِیْرٌ ﴿۲۱﴾

بابیس کرو (پرستہ رنگہ) راجھ تہ اکیس وونٹہ
سند بود انورہ۔ یہ مقلد (یوسف۔ اسہ پتھے میلہ)
پھینے بڑ نعمت۔

توڑ وونکھ بہ سوزن تہ یہ نہیے توہہ ستو لویانہ
نہ توہی میہ ستو اللہ (تعالے) سند قسم ہاوتھ
یہ پوہختہ وعدہ کریو نہ توہی انیون یہ منورہ میہ
نش (وایس) الاہ گاہ توہی (پانہ کینہ مشکیس
منزولستہ بیو۔ اہ بیلیہ رتوتس پین پوہختہ
قول دیت تہ توڑ وونکھ یہ کینہ شہا) اسی (وونڈ
کین) وناں چھ۔ اللہ (تعالے) چھ تمیک
بکران۔

بیہ وون توڑ (تجن) اسے میانہ گوہرو! توہی
اٹری رلوہ نہ شہر کرہ اکی دروازہ یکوٹے اندر بلکہ
اٹری زوہ بیون بیون دروازہ کونہ تہ بہ ہیکوہ نہ
توہہ اللہ (تعالے) اہس (یعنے تہنہ رتہ) نشہ
(کچاوتہ خاطر) کینہ تہ بکار پتھ۔ نا صلہ کرن چھ
(تکر) اللہ (تعالے) سترے کام۔ تسو پیٹھ
چھ مینہ توکل کورمت تہ سارنہ توکل کرن والہن
پنہ تسو پیٹھ توکل کرن۔

تہ بیلیہ تہ طریقہ مطابق بیلیک محکم تہنہر مالہ
تجن ویت مت اوس، تم (بمصر) اندر داخیل
سپدے پہ۔ تہس (یعقبوس) اوس تہ یہ طاقت
نہ اسہ ترکیبہ ستو ہیکہ ہے سہ تجن (نیچوہن)
خدائی تقدیر، نشہ کچاوتھ، مگر یہ اس یعقوبہ
سندہ وپیح اکھ منک یوسف توڑ (تیکھن) پلوہر
کڑ۔ تہ چونکہ اسہ اوس تس (یعقبوس) علم دیت
مت سہ اوس بوڑ علمہ وول۔ اماہ پوڑ واریانہ

قَالَ لَنْ اُرْسِلَكَ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوْنِ
مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنِيْ بِهٖ اِلَّا اَنْ
يُّحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا اَتَتْهُ مَوْثِقُهُمْ
قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۵﴾

وَ قَالَ يَبْنِيْ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ
وَ اَحَدٍ وَاَدْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ
وَ مَا اَغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِنْ
الْحُكْمُ لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَّ عَلَيْهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۵﴾

وَ لَعَدَدَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ
مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا
حَاجَةٌ فِيْ نَفْسٍ يَّعْقُوْبَ قَضَاهَا وَاِنَّهٗ
لَذُوْ عَلْوٍ لِّمَا عَلَّمْنَهٗ وَ لٰكِنْ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۵﴾

۱۲ حضرت یعقوب اوس یقین سپد مت نہ مصرس منزاناج با گراون وول چھ یوسف، لہذا تہو
کوز یہ تدبیرش یقین تہ بن یا مہن ہیکہ یوسف ستو اگ ملاقات کرکے موٹو لبتہ۔

لوکھ چھنتر (یہ حقیقت) زانان۔
 تہ (تیکھن) پیلو تم یوسفس بروٹھ کنہ حمبر
 سیدو تہ تموزہ پستس بایس پانس ریش جاعے
 تہ وون (تس تر) یقینا چھس بے چون (روومت)
 بوے لہذا یہ تم کران رودی موتی چھو تمہ کوزم
 مگرھہ (دووز) تہ ملین۔

پتہ پیلو تموزہ تہندسا مانہ وقہہ تم والیسی خاطر
 تیار کرکو تہ تموزہ تموزہ (پنن تریش چہنگ اکھ)
 ٹوزی پیلو (تہ) پستس بائی ستر مگرہ مشر
 پتہ (سید پتہ) کو تام پار یہ وائل (یعنی شاہی
 کارندن) کوز اعلان۔ اے قافلہ والہو! توہر
 چھو بے شک تروہ۔

تمو (یوسف نمو باہو) وون پسن (شاہی کارندن)
 کن بھہ کر تھ نہ توہر کس چہر چھو روومت۔

باسان؟

تمو وونکھہ، اسہ چھہ اناج مینگ شاہی پتہ شاہی
 روومت تہ ییس شغوس ستر شاہی تھہ) انہ تہ
 تہ (عام) اسہ اگس وونہ بارس برابر (اناج)
 تہ (پاریہ وائل وون پتہ تر) ہو چھس تمیک
 (یعنی الغامک) ذمہ وار۔

تمو وونس (نر) اللہ (تعالیٰ) ستر درہے۔ توہر
 پھو زانان نہ اسو آپہ پزایوت، او خاطر نہ
 نکس مشر کرو فساد تہ نے پھو اسی تروہ۔

تمو وونکھہ (نر) اگر توہر اپزایوت پتہ پدے و
 تہ تمیک سزا کیا اسہ؟

تمو وون (نر) تمیک سزا چھہ یہ نہ ییس شغوس
 ہند سامانہ مشر سہ (بانو) لہنہ پتہ، سہ اسہ
 (پانے) تمیک بدلہ۔ اسی (لوکھ) چھو فل ملین

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُسُفَ أَوْى إِلَيْهِ
 أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ
 بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ④

لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَاذِهِمُ جَعَلَ السِّقَايَةَ
 فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا
 الْجَائِدُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ⑤

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَهُونَ ⑥

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ
 جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ⑦

قَالُوا تَأْتِيهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا
 لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ⑧

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ
 كَذِبِينَ ⑨

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ
 جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ⑩

۱۲ صواع، پھو تھہ باس و تان یس تریش چہنہ باپتہ تہ چھہ استعمال سپان
 تہ پتہ بانو تہ چھہ اسان۔

یتھے کتو سزا دوان۔

لہذا تمھو (پاریہ واولی) ہیوت تہسیرس (لیجے یوسف
بش) بای ہنزو بوہرلو بروٹھ ہمن (باقین)
ہنن بوہرین (وہچین)۔ پتہ کورٹن تہسیرس بای
ہنزو بوہر مشر (وہچتھ) سہ (بانہ)۔ تہچاٹھ
کور اسے یوسف نہ خاطر (اکھ) تہسیر (تہسیر) سہ
ہیکہ ہے نہ بادشاہ ہنس تونو ہنس مشر (روزتھ)
پسنس ہائیس اللہ (تعالے) ہند تہسیر وراہی

رکاوتھ۔ اسیس ہتھان چھ تہس چھ درجات
ہند کران۔ تہ (حقیقت چھینہ تہسیر) پرتھ علمہ
وایس ہور چھ (تہس کھوتہ) جاد علمہ واجہ ہستی (موجود)
تہو (تہسیر ہایو) وون (نہ) ہراہ اسی تہسیر (موجود)
تہ (کیتھ تعجب چھینہ ہیکار) اسی ہند اکی بای تہسیر
تہسیر کھوتہ۔ اتھ پتھ تھو یوسفن (پتہسیر) وچ
کھتہ (پسنس ہنس مشرے کھتہ تہسیر ہنس
کورن نہ تہ واشگاف (وہو گوروس مشر) وونکھ
تہسیر (لوکھ) چھو ہڑی ہرچت تہسیر کھتہ تہسیر
ونان چھو۔ سہ چھ اللہ (تعالے ہے) بہتر زانان۔
تہو وون۔ اے سردار! اسیس چھ سہٹا ہر مول
تہسیر رنی تون اسیس ہل اسے مشر کانہہ اکھ
(دوہ سون مول یتھ کتو اسیس ہند ہند ہنہ بچہ)
اسی چھو تہسیر بے شک احسان کرن والہو مشر
مفتراوان۔

تہو وونکھ تہسیر شخصس وراہی ہنہس ہنس اسے
ہنہ سامانہ لوہ، کانہہ ہیکھ رتہ ہنہ چھ (اسی)
خدیہ سند پناہ منگان۔ اسیس تہسیر تہسیر
سپو بے شک ظلمو اندہ۔

اد ہنہ تہسیر (یوسفس) ہنس نا وہ میدے
تہ پانہ وراہی کھتہ کران گے (لوکن ہنس) تہسیر
تہو مشر وون (اد) ہڑی اکی (نہ) تہسیر چھو

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ آخِيهِ ثُمَّ
اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ آخِيهِ كَذَلِكَ
كَذُنَا لِيُؤَسِّفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ
فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
نَزَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأِهِ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي
عِلْمٍ عَلَيْهِ ﴿۱۳﴾

قَالُوا إِنَّ يَسْرُقَ فَبَدَأَ سَرَقَ آخَرَ لَهُ مِنْ
قَبْلُ فَاسْرَهَا يُوَسِّفُ فِي نَفْسِهِ
لَمْ يَبْذُهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ
مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿۱۴﴾

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا
شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مَّكَانَهُ
إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۵﴾

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا
مَتَاعًا عِنْدَهُ إِتْرَادًا نَّظْلِمُونَ ﴿۱۶﴾

فَلَمَّا اسْتَأْذَنُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا
قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ
فَذَاخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ

مِنْ قَبْلُ مَا فَزَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ .
فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي
أَيُّ أَوْ يَحْكَمَ اللَّهُ لِي ۚ وَهُوَ خَيْرُ
الْحَاكِمِينَ ﴿۵۱﴾

نا معلوم نہ تہندکر مال چھو تو ہم بوجہ خیرت و عہد
ہوتی تھی یس اللہ (تعالیٰ) ہس (یعنی تہندس
قسمس) سہو (تاکہ کڑھ) چھ۔ بیہ یہ نہ
(امیر) بروٹھ چھو تو ہم یوسفس سلسس منز
تہ لاپرواہی کرئٹھ۔ اوکھن یاتانی نہ میون
مول میہ (خاص طور پانٹھ) اجازت دیہ یا پانٹھ
اللہ (تعالیٰ) میانس حقس منز قاصلہ (کریج
کانہہ وقتہ) کڑ (نہ)۔ ہر میہ نہ ہرگز میہ ملکہ
منز تہ سہ (اللہ تعالیٰ) چھ ساروہے قاصلہ
کرن والہو منز مہیتر (قاصلہ کرن وول)۔
توہی کڑھو پستہس مایس کن واپس تہ (کڑھتہ)
وہو (تس نہ) سانہ بیہ! پانٹھ (لوکھڑ)۔ نیچو
چھ منز رٹو کڑھتہ تہ اسہ چھ تی (خسیہ)
وہنمت۔ مییک اسہ (ڈانٹ) علم چھ۔ تہ اسی ہیکہ
ہونہ (پسنہ) نظر ہتہ پوسئید، معالچ راجھ
کڑھتہ۔

لَا جُعُوا إِلَيَّ أَيْبِكُمْ فَقُولُوا يَا بَنَاتِ
ابْنَتِكَ سَرَقَ ۚ وَ مَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا
عَلِمْنَا وَ مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿۵۲﴾

تہ توہی کڑو (بے شک بستی ہندہ) اتن (لوکن)
ہش تہ (کڑھتہ) معلوم بین منز اسی۔ بیہ
تہ قافلہ ہش (تہ) ہتہ سہو اسی آہو چھ
تہ پڑھ کڑو زہو زہو چھ (اتھ کتھ منز)
پڑ یارک۔

وَسَّئِلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْحَيْزِ
الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۚ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۵۳﴾

توہ (بیقون) وونکھ (نہ یہ کتھ چھنہ درست
ہونہ یلان) بلکہ (میہ چھ ہونن تکان نہ) تہندکر
نفسن چھو توہ کانہہ کتھ نرہش شکل کڑھتہ ہونہ
ہس وونہ چھ میانہ خاطر ہی رودمت نہ ہر کڑ
رہی پانٹھ سپر۔ شاید اللہ (تعالیٰ) مانہ
اتن سارہنہ میہ ہش۔ بے شک چھتے یس
رہی پانٹھ زان وول (تہ) حکمتہ وول چھ۔
تہ توہ چھیر تہند کہہ بین ہتہ تہ (اند کن
کڑھتہ کورن دما تہ) وون اے (میانہ

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا
فَصَبِرْ جَوِيدًا ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ
يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ ﴿۵۴﴾

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ ۚ قَالَ يَا سَفَى عَلَى
يُوسُفَ ۚ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ

فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵﴾

خدا ہے!) یوسف سب سے بہتر ہے۔ یہ سب سے بہتر ہے۔
 بہتر ہے فریاد کران۔ تیرے غم کو باغشہ آئیہ
 تہنن اچھن مقرر اُتھر بکھرے۔ مگر سہ اوس
 پنن عم (ہمیشہ پننن ولس) اندرے دباوتہ
 تھاوان۔

قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُنُوۡا اِنَّ كُرْيُوۡسَافَ
 حَتّٰى تَكُوۡنَ حَرَصًا اَوْ تَكُوۡنَ مِنَ
 الْهٰلِكِيۡنَ ﴿۵﴾

تو وونس (نر) اللہ (تعالیٰ) ستر درے (اُس
 چھ بی زانان نر) توہی رُوڑو یوسف کتھ
 کران یوسف نر توہی ہمار گڑھو یا رحمتہ حق
 سپرو۔

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوۡا بَنِيَّ وَحُزْنِيۡ اِلَى اللّٰهِ
 وَاعْلَمُوۡا مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوۡنَ ﴿۶﴾

تو وونکھ (نر) ہر چھس پننن پریشانی ہند
 تیرے غم کو فریاد اللہ (تعالیٰ) ہے ہرے بروٹھ کتھ
 کران تیرے چھس اللہ (تعالیٰ) ہند طرف سہ
 علم تھاوان لیس نر توہی تھاوان چھو۔

يٰۤبَنِيَّ اِذْ هَبُوۡا فَتَحَسَّسُوۡا مِنْ
 يُّوۡسُفَ وَاَخِيۡهِ وَاَلَا تٰنۡيَسُوۡا مِنْ دَرَجِ
 اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يٰۤاِيۡسُ مِنْ دَرَجِ اللّٰهِ اِلَّا
 الْقَوْمَ الْكٰفِرُوۡنَ ﴿۶﴾

اے میا ہو گوبرو! گڑھو تیرے (گڑھو) تھانڈیون
 یوسف تیرے تھد بوس۔ تیرے اللہ (تعالیٰ) ہند رحمتہ
 نشہ مہ سپرو ناوو مید۔ (اصل) کتھ چھنی بی۔ نر
 اللہ (تعالیٰ) ہند رحمتہ نشہ تھتھ کافر لوکو وائی کاتھ
 انسان) ناوو مید گڑھان۔

فَلَمَّا دَخَلُوۡا عَلَيْهِ قَالُوۡا يٰۤاَيُّهَا
 الْعَزِيۡزُ مَسٰنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا
 بِبِضَاعَةٍ مُّزۡجٰجَةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ
 وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجۡزِي
 الْمُتَصَدِّقِيۡنَ ﴿۷﴾

لہذا جب آپ پر آئے (اپس سے بیہ) اس (یوسف) بروٹھ
 کتھ حاضر سپرو تیرے وونکھ (تس نر) اے سردار
 اس تیرے سانس (سارے) عباس چھو (سخت) سٹکی
 کاتھ تیرے اسر چھ (سبھا) کم رقم لہذا دیو توہی
 اسر احسان کر تھ سارے ضرورتہ مطابق اناج بیہ
 دیو خیراتہ پانٹو (کیشٹھا جاو جاو پھن تیرے)۔ اللہ
 (تعالیٰ) چھ خیرات دیو والین بے شک بوڈا جردون۔
 توہی وونکھ توہی چھو معلوم (پنن سہ سلوک) ہیس
 توہی یوسف تیرے تھننن بایس ستر کر یوو و۔ نر

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمۡ مَا فَعَلْتُمۡ بِيۡوَسُفَ وَاَخِيۡهِ
 اِذْ اَنْتُمۡ جَا هٰلُوۡنَ ﴿۷﴾

سہ عام ترجمہ کارو چھ امیک لفظی ترجمہ کورمت نر حضرت یعقوب سہ اچھ سفید۔ عربی لغت
 منز چھ امیک معنی اچھن ہند اشتر عترتی برنہ یں تیرہ آسان۔

توہر (پستہ کرتوتہ چہ ناکارگی ہتہ) اتزان اُسو۔
تمو وونس (ر) کیا یوسف ما چھو پڑی پاتھ توہی؟
تمو وونکھ او، بے جھس یوسف تہ یہ چھ میوں
بوسے۔ اللہ (تعالے) ہن چھ اسر پیٹھ فضل کانت
پڑکتھ چھیہ میہہ زلیس شخص تقویٰ پرارہ تہ تہ
کر تہ اللہ (تعالے) چھتہ تعین احسان کرن والہن
ہند اجر زاہ ضایع کرن۔

تمو وونس۔ اسر چھ اللہ (تعالے) ستر درے۔
اللہ (تعالے) ہن چھو توہہ اسر پیٹھ بے شک فقیت
ڈر مہر تہ اُسو چھ یقیناً خطا زرد۔
تمو وونکھ وونڈی سپر تہ توہہ پیٹھ کتہ قسح لا مت
تہ سرزنش لہ۔ اللہ (تعالے) بخشو توہہ۔ تہ
سہ چھ سار وے رم کرن والہو منہر جاو رم کرن
وول۔

توہی نی زو میانی یہ سرتو تہ یہ گرشہ میانس ماہس
برونٹھ کتہ تھاوڈی۔ تم گرشہن (امہ سرتو مسہ
متعلق) سار وے کتھو ہتہ واقف تہ تہند گرشہ
پن سوسے خاندان (تہ) میں لٹس اتن۔

یئیر (تہند) کارون (مصر پیٹھ) دراد تہ تہند
مال وون (لوکن ز) میہ چھو بے شک یوسف
خوشبوے یوان۔ سیتھہ توہی وونڈی میہ اپراون
ہنیو۔

تمو وونس تر تر چھکھ بے شک پستہ پرانہ غلطی
اند (بیہومت)۔

اویٹھ (یوسفہ اتھ پیچ) توخیر دہ وول (شخص)

قَالُوا يَا اِنَّكَ لَا تِلْكَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا
يُوْسُفُ وَهٰذَا اٰخِي زَكَوْنَ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ
اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا
يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۱

قَالُوا تَا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰتٰرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ
اِنَّ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ۝۱۲

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْنَكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَعْفُرُ
اللّٰهُ لَكُمْ رَدَّ هُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝۱۳

اِذْ هَبُوْا بِقَوْمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى
وَجْهِ اَيِّ يٰٓاٰتِ بَصِيْرًا ؕ وَ اَتُوْنِيْ
بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝۱۴

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاجِدُ
رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَيِّدُوْنِ ۝۱۵

قَالُوا تَا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۝۱۶

فَلَمَّا اَنَّ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقَاهُ عَلٰى وَجْهِهٖ

لہ لاتثرب علیکم الیوم۔ ہم لفظ وبتھ کور حضرت یوسفن سینین یان معاف تہیکے
لفظ وبتھ کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ فتح مکہ کہ دوہہ سارنے کہہ پن لوکن معاف۔ خاص
گرتھ سپنہن بترین دشمن تہ تہندرا اولاد تہ لہذا تہند معاف کرن اوں حضرت یوسفہ معاف کرتہ ہتہ سہلہ
تھہ پایہ۔

فَارْتَدَّ بِصَيْرًا ۖ قَالَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ ۖ
رَبِّيَ أَغْلَبُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

حضرت یعقوبس (نش) او۔ تم تو تھا و سو (کرتیں)
تس بروٹھ کنہ سیکر کنہ تس سارے کتہ بکر تر۔
(تہ جن) وؤن میہ دنیا و وناہ توہہ نہ ہر پھس
اللہ (تعالے) ہند طرفہ (علم حاصل کرتے پڑے پانچو
تہ کثیرھا) زماناں یہ نہ توہی زماناں چھو۔

قَالُوا يَا بَنَاتَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿۱۱﴾

تمو (حضرت یوسف نہو باپو) وؤن (حضرت یعقوبس
امہ وڑ) اے سائہ بہر! توہی گنگو سائہ حقہ (خالیں)
سائہ گونہن معانی، اُس پھ بے شک خطا ز۔

قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۱﴾

تمو وؤنکھ بہر منگہ ضرور تہندہ با پتھ پستس
پرور وگارس بخشائیش۔ بے شک پھسے (سے)
سپٹھا بخش ہر (تہ) پھیر پھیر رحم کرن وول
(چھ)۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ
أَبْوَاهُ وَقَالَ إِذْ خَلُّوا وِصْرًا ۖ إِنَّمَا
اللَّهُ أُمِينٌ ﴿۱۲﴾

پتہ سیدہ تم ساری یوسفس نش واتی تہ تمو وڑ
پستس مائس ماجر پانس نش جاعے تہ (سارنہ)
وؤن نہ اللہ (تعالے) ہندہ سترھتہ مفایق
اٹرو توہی ساری امنہ (تہ سلامتی) سان مصرس
مفر۔

وَرَفَعَ أَبْوَاهُ عَلَى الْحَرِيشِ وَخَرُّوا لَهُ
سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا بَنَاتِ هَذَا تَأْوِيلُ
رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي
حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ
السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ
أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۖ
إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ۖ إِنَّهُ هُوَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۱۳﴾

بہر بہرنا وک تمو بین مول موج سختس پیٹھ تہ تم
وٹھو (ساری) امہ کنو (خداہ سہد مشکرانہ کران)
سبیرس تہ تمو (یوسفن) وؤن، اے میانہ بہر!
یہ چھ بروٹھے (خواس مفر) وچھو مٹر مسیانہ
کتھ ہند تعبیر۔ میانہ پرور وگرن چھ بے شک
یہ (خواب) پلور کورمت تہ تمو چھ یقینا مسیہ
پیٹھ سپٹھا بوڑ احسان کورمت سیدہ تمو بہر قناد
خانہ منہر کورمت تہ توہی وائتا وک نو (کہ) جنگلہ
پیٹھ (میہ نش)۔ امہ باوجود نہ شیطان اُس
میہ تہ میانہ باین مفر مشرکی پاؤ کڑمہر
سیون پرور وگاریس سوتی سترھان پھتس سوتی
چھ سبھیر (تہ احسانک) ورتا وکران۔ بیشک

چھٹے (یس) زبر پانچو زنان وول (تر) حکمت
 وول (چھ)۔

اسے میانہ پروردگار! شریہ چھتھ میںہ حکومتک
 اکھ حصہ (تر) بخشومت تر خواہہ کہ تعبیرک تر چھتھ
 تریہ میںہ ہتا علم عطا کورمت۔ (اسے) آسمان
 ہند تر زمینہ ہند پاید کران والہ ایس) شرے
 چھکھ وڈیہس تر آخرتس (دوہونی) منز میون
 مددگار (میلہ تر میہ مرک ووقت وایتر) میںہ
 وڈر پست کمل فرمانبرواری ہنسر جائزہ منز ووقت
 تر صالح لوکن ہنسر جہاثر متی رلاوڈ زکم۔

(اسے ساتھ پیغمبر!) یہ بیان) چھٹھ خابہ چوپونخرو
 منزہ۔ یہ چھٹھ اسی تریہ پیچھ وحی (کریمہ ظاہر)
 کران تر میلہ ہتو (چاپنہ و دشمنو تریہ خلاف)
 تدبیر کران کران انجر پانہ واذکیکت کور تر تر
 اوکھ تر (تمہ و تہہ) تمن ایش (موجود)۔

تر اد شر (کو تاہ تر) بیٹھہ تر (ز ساری لوکھ
 کریمو ہدایت لیس) اکثر لوکھ انہ تر ہرگز ایمان۔
 بیہ چھکھ تر شر اتمہ (تبلیغس تر تعلیمہ) متعلق
 تمن کا منہہ بلکہ منگان۔ یہ چھٹھ سارہے عالمن
 (تر سارہے لوکن) ہند با پتھ سراسر شرف
 رحمتک باعث۔

بیہ چھٹھ آسمان تر زمینہ اندر سدھا نشانسہ
 (موجود) پیکو کریم لوکھ ہتھ پھران نیران چھہ۔

بیہ چھتھ ہتو منز واریاہ لوکھ ایمان انان بگر اتمہ
 حالتس منز تر تم چھو سبتی (سبتی) شرک تر کران۔

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي
 مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ نَدَاْتُكَ وَاِلٰيَّ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَقَّئِيْ مُسْلِمًا
 وَّالْحَقِّيْ بِالصَّٰلِحِيْنَ ۝۱۱

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَ
 مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَ
 هُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝۱۲

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ
 بِمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۳

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنَّ هُوَ لَآ
 ذِكْرًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝۱۴

وَكَآيِنٌ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝۱۵

وَمَا يُوْنُ مِنْ اَكْثَرُهُمْ بِاللهِ اِلَّا وَهُمْ
 مُشْرِكُوْنَ ۝۱۶

لہ یعنی یہ چھینہ اکھ پراڈ دیلا بلکہ اتمہ مغز چھہ پیشگوئی تر شریہ تر بیٹے ہتھو واقعات پیش تر چانی
 ہائی یعنی قریش میںہ من چاؤ تباہی مگر اللہ تعالیٰ وی شریہ فتح تر کرکھ تر نہیں بان حضرت یوسف
 پانچو معاف۔

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۸﴾

پہلے سے پہلے

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا آتَانَا مِنَ الْمُنْشَرِكِينَ ﴿۳۹﴾

تہ کیا ہم (لوگھ) چھا امر کہتہ نش (رحمہ آوتہ) بے خوف کا ہوتی، ترہمن بیہ اللہ (تعالے) ہندبو عذابو منتر کا فہر کر لوٹھ عذاب یا وچھان وچھان پیکھ سوگڑ (تہ نپسج بروٹھ پپھ خبر دہن آوتہ چھید)۔ تہ تمن لگہ نہ خبر تہ۔

تہ وکھ (ز) یہ چھ میون طریق بہ (تہ) چھس اللہ (تعالے) ہس کن ماد وون۔ تہ ریکو (پنر ولہ) میاڈ پاروی کر موٹر چھید۔ یہ تہ تم ساری چھ بصیرتس پپھ تقایم تہ اللہ (تعالے) پچھ (ساروے نقموشتر) پاک تہ یہ چھس نہ مشرکو اندر۔

بہ شریہ بروٹھ (تہ) چھ اسی (لوکن ہنتر بہائی باپتہ ہمیشہ) یعنی (دوسرہ چین) بستین منتر وون واڈ مردے سوزان رورہ متی، مین پپھ اسی وونو) وحی تازل کران اسی، تہ کیا ہم لوگھ پپھری ناہ زمپستہ منتر، میتھ زن وچھمن (ز) ہم (لوگھ) مین بروٹھ (نہین ہندو منکر) اسی تہ ہندا انجام کیتہ اوس سپرنت، تہ آخر تک گر چھ تمن لوکن ہندو خاطر یقینا جاو بہتر یو تقوی پرور۔ کیا توہر چھونا توہ (تہ) عقلہ کام، ہوان؟

بہ بیلیہ (اکہ طرفہ) پیغمبر (تمن نش) ناوہ مید گے تہ مین (منکران) گوو (دوسرہ طرفہ یہ) نیال پونہ نہ نہ مین چھ (وحی ہندس ناوس پپھ) اپنر کتہ ونہ یوان تہ تمن (پہنن) تام ووت (تہ) وقتہ) سون مدد تہ ہم اسی بچا وڈیہ پترھان ابرکھ (تم) آپہ بچا وونہ تہ مجرم لوکن نش چھنہ سون عذاب (ہرز) دور کر تہ یوان۔

مین (لوکن) ہنتر کتہ منتر چھ عاتقن ہندر خاطر

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَكَ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۰﴾

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۴۱﴾

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي

الْأَلْبَابِ، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۳﴾

عبرت (رنگ) نمونہ مولود)۔ یہ چھبہ ترشہ کتبہ (ہرگز) یوں (پاڑ پانے) گرنہ آمہڑ آسہ، بلکہ چھبہ (پہ) پستنس بروٹھو مس (یعنے خدائی کلام چہن پیشگوئیں، کابل رنگس منز پور کرن واجوز تہ پرچہ کتبہ ہنڑ سالم و شرنے بیان کرن واجوز یہ ہم لاکھ اچان انان چہ تہندہ خاطر چھبہ پست تہ رحمت۔

سُورَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ الْبِسْمَلَةِ اَرْبَعٌ وَاذْبَحُونَ اَيَّةً وَتِسْعَةٌ دُرُجَاتٍ

سورة رعد، یہ سورہ چھبہ کی تہ بسم اللہ ہتھ چہ آتھ زوئی نامی آیہ بیہ چھس شینہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

المّٰرء تِلْكَ اَيُّ الْكِتٰبِ الَّذِي اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲﴾

اللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَ هَاثِمًا اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِي لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يَدَّبَّرَ الْاَمْرَ يَفْصَلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ يَلْقٰءُ رَبَّكُمْ تَوَقُّنُوْنَ ﴿۳﴾

بہ چھس اللہ (تعالیٰ) سندرنا و ہتھہ (پرلن) یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) چھبہ چھبہ کرم کرن وول چھہ۔

بہ اللہ چھس زانن وول تہ وچھن وول۔ ہم چھہ کابل کتاب ہندہ آیہ تہ یس کلام تریہ پیٹھ چائس پروردگار بندہ طریقہ نازل کرنہ آمت چھہ سہ بہ چھہ بکل پوز، وہ ذی گوو واریاہ لوکھ چھہ اچان انان اللہ (تعالیٰ) چھہ سہ بیجو آسمان تھہو ورا ئیہ استاو کروی ہتھ چھہ ہتھ کن زن توہر وچھہ ہنہ چھہ (تہ) پیٹھ سپد سہ عرشس پیٹھ قائم تہ آفتاب تہ زون چھہ تھو (تہندس) خد متس پیٹھ لاکھ تھو ورت۔ (چنانچہ) پرچہ اکھ (اجرام فلکی) چھہ اکس گنڈنہ آمتس میعادس تام (پستہ گردنہ مطلق) کیوں۔ سہ (اللہ تعالیٰ) چھہ پرچہ معاملک انتظام کرن۔ (تہ) پیٹھ آیہ چھہ واتس کڈتھ بیان کرن بیٹھ زن توہی پستنس پروردگارس سماکتس یقین تھوو۔

تہ سہ چھہ بیجو زہن و ہرومت چھہ تہ اکھ منڑ

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا

رَوَّاسِيَّ وَآنْهَرَاءَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 جَعَلَ فِيهَا رِزْقًا لِّاِثْنَيْنِ يُغِشِي الْاَيْلَ
 النَّهَارَ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

پھن در بر سان مٹھرتھ روزن اول بال تہ (بیر)
 ڈر یو بتاؤر متی، بیر پھن اتھ مشر تمام (قسمہ
 کہو) میوو منبر دھنوںے قسم (نرتو ماہ) بتاؤر
 ہتو۔ سہ پھ راز دوہس پیٹھ و طرتھ تراوان۔
 یم لوکھ سوچان پھ تہند خاطر پھ (بے شک)
 اتھ (کتھ) مشر کہو یا نشان (موجود)۔

بیر چہ زمپنس مشر اکہ اُکس نکھہ نکھہ کثیر (قیما قسم)
 چھلہ تہ کہو یا طریقن ہندر دچہ بارگ تہ (کہو یا قسم)
 ہندر (زراعت تہ (زنب زنگہ) کھنرنگی (بیمو
 مشر کیہنہ) اکہ مزلہ مشر کھنرنگی نیرن اول گوہر
 (آسان پھ) تہ (کیہنہ) اکہ مزلہ اندر کھنرنگی
 نیرن والین جلاہ (اکہ گوہر کی آسان) پھ۔ یم اک
 آہ سوتو سکوتہ یان پھ تہ اُسی پھ (اسر باوٹو)
 مہولہ لحاظہ اہو مشر کھنرنگی (کھن) کھنرنگی
 پیٹھ تھور دووان۔ اتھ مشر تہ پھ ہمن لوکن
 ہندر خاطر اہم عقلہ کام ہون پھ کہو یا نشان
 (موجود)۔

وَ فِي الْاَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّزَاتٌ وَ جَنَّتْ
 مِنْ اَعْنَابٍ وَ زُرْعٌ وَ نَخِيْلٌ صِنَوَانٌ وَ
 غَيْبٌ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ وَ
 نَفِضٌ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ
 اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّحْقِلُوْنَ ۝

بیر اے مقلب! اگر تیری (میں پر برکین ٹکون
 پیٹھ) تعجب گرتھی تہ تہ (سہ پھ بجا، تکیا زہ)
 تہند (یہ) وٹن (نر) نیلہ اُسی مشر تھ میٹر
 سپو تہ اسر آسما پڑی یا ٹھو (بیر) گنوٹوس
 زٹس مشر مین ۹ پھ چارہ کھہ ہنر کھوتہ تہ
 جاو عجیب کتھ۔ یم پھ تم لوکھ میونس پرور و کار سند انکار
 کورمت پھ تہ یم پھ تم (لوکھ) میننن گردنن مشر طوق
 (تالی تراوتھ) آسن تہ یم (لوکھ) پھ (تہنی) تارہ دزن (اولی) تم
 مرتھن تھ مشر روزان۔

وَ اِنَّ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اِذَا كُنَّا
 تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍ اُولٰٓئِكَ
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ
 الَّذِيْنَ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ
 النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

تہ تم پھی تریہ منگ کران تر نیک بدلہ کھوتہ جاو
 بدلہ پھن ان پیٹھ بدلہ یعنی سزار۔ نیلہ نر ہمن

وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسِّيْئَةِ قَبْلَ
 الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ

لہ رَوَّاسِيَّ وَاَنْهَرَاءَ وَاَحْكَوَسَ رَاسِيَّةً ۚ سہ بگر (ANCHOR) لیس ناو اہس پیٹھ مٹھرتھ اتھ تھوان
 پھ۔ پھیا ٹھو چھ کوہ تہ بال زمپنہ اکہ اولہ نٹس بچاوان۔

برونٹھ چھ (بیچھن لوکن پیٹھ) ساری (تسمیہ) نہیںہی والی عذاب آہو۔ تہ چون پروردگار چھ لوکن بہتہ علمہ باوجود (تہ) بلاشک (سپٹھ) بختہ وول تہ (یختہ پانٹھ) چھ چون پروردگار یقیناً کروٹھ سزا دہ وول (تہ)۔

بہ بیو لوکو انکار کوڑنت چھ رتم چھ وان نہر اوس (تخصص) پیٹھ کوٹہ آو تہدیر پروردگار ہند طرفہ کانہہ نشانہ تبادل کرتہ ہیندہ زن تہ صرف خسر وار (تہ ہینار) کرن وول چھاکہ ، تہ پرستہ کتہ قومہ خاطر چھ (خداہ ہند طرفہ) اکھ و تہ اوتھ (سوزنہ آمت)۔

اللہ (تعالیٰ) چھ (ربّی پانٹھ) زمانان۔ تہ (تہ) یہ پرستہ کانہہ ماد (مشکس منز) تھان چھینہ تہ بہ شرک بانہ ناقص کرتہ تراوتہ ترہنن چھ۔ بیہ (تہ تہ) یہ رتم بڑاوان چھ ، تہ پرستہ کانہہ چیز چھ تہ نش ضرورتہ مطابق موجود۔

سہ چھ غائب تہ موجودک (دونونی ہند) زمان وول۔ بڑ مرتبہ وول (تہ) تھہ شانہ وول۔

یہ تہ بہ مشرکتہ کھنتہ تھوان چھ تہ سرتہ یس تہ تہ ظاہر کران چھ ، چھ (دونوی تہ علمہ کہ لمانہ) ہوی۔ بیہ سرتہ یس راتس کھنتہ روزان چھ تہ سہ یس دوہس پکان چھ۔

تہند طرفہ چھ بیس (پیتھیرس) برونٹھ کتہ تہ تہ اوس پتہ کتہ تہ (اکھ اوس سرتہ سرتہ) یس واجز (لاکین ہنز) اکھ جماعت (را چھ لوک) مقدر۔ یوسہ اللہ (تعالیٰ) ہند حکمہ تہنر را چھ کران چھینہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھینہ کتہ توپج حالت بدلاون یو تانہ تہ سہ (قوم) پتہ اندرونی حالت (پانہ) بدلاو ، تہ ییلہ اللہ (تعالیٰ) کتہ قومس متعلق عذابک فاصلہ کران چھ تہ سہ عذاب دور کرن

الْمَثَلْتُ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ
لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ، وَإِنَّ رَبَّكَ
لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ①

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ
آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ، إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ لِّكُلِّ
قَوْمٍ هَادٍ ②

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا
تَحْمِلُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ
عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ③

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ
الْمُتَعَالِ ④

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَ مَنْ
جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ
سَارِبٌ بِالنَّهَارِ ⑤

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مَنْ
خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ، إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
فَلَا مَرَدَّ لَهُ ، وَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
وَالٍ ⑥

کاٹھہ کا ٹرکاوٹج؟ بیرون (تمن ز) کیا
 اُون تہ کھاشدار چھا برابر (ہیکان اُستمہ)؛
 یا کیا اُنہ گوٹ تہ کاش چھا ہیوسے (ہیکان اُستمہ)
 بتو چھا اللہ (تعالے) ہندو تہمتو شریک بناوکر تہ
 یو تہندو پانگو (کینہ) مخلوق پاد کرکرتی چھہ نیہ
 کرنی (تہندو تہ بین ہندو) مخلوق تہندہ باچھہ
 مشتبہہ سپدہ ہوتہ چھہ۔ تہ ون تمن (تر) اللہ
 (تعالے) ہے) بھہ پرتھہ گنہ چیرک پاد کرن دول
 تہ سہ چھہ کابل مولتس منز بے شمال (تہ پرتھہ گنہ
 چیزس پٹھہ) پلور پلور اقدار تھاون دول۔

تہ ون آسمان پٹھہ کینہ آب پتہ درایہ (امر مغز)
 کشر کولہ پتہ (پتہ) گنجائیشہ مطابق تہ
 اُمی سالابن تہ پٹھہ کن کھسن وول پلوس تہ بیہ
 (دوہاتس) تم کاٹھہ گنہ یا گر سامنہ بناونہ باچھہ
 نارس منز شراوان چھہ تھہ منز (تہ) چھہ تمیک
 (یعنے سالابن) ہیو اکھ پلوس (آسان)۔ یقہ پانگو
 چھہ اللہ (تعالے) حق تہ ہابل (یعنے تہنتر فرق)
 بیان کران، پتہ بھہ پلوس اور پور چھکنہ۔ یہ تھہ
 تہاہ گر شھان تہ یس چیز نوکن تھہ ون وول
 آسان چھہ سہ چھہ زمپنس منز قرار کر تھہ رولن
 اللہ (تعالے) چھہ یقہ کئی سارہے کتھہ واش
 کڈتھہ بیان کران۔

یو پتہس پرور واکر سند ون مون تہندہ نطر
 چھہ کامیابی تہ یو تہندہ ون مون تہ (تہنتر حالت
 سپدہ پز) پو کیشھا تہ زمپنس منز چھہ اگر تہ
 سورسے) تہندہ آسہ ہے تہ بیہ تہ تہواتا تہ تم
 کرہن یہ سورسے مال دتھہ تہ (پانس غداب لٹہ)
 موکاو پنج کوششس۔ تہندہ خاطر چھہ بد انجامہ
 وول حساب (مقصد) تہ تہندہ ٹھکانہ چھہ جہنم
 تہ سہ چھہ روزہ خاطر سپٹھا ناکار (ٹھکانہ)۔

كَخَلَقَهُ فَتَشَابَهَ الْخَلْقَ عَلَيْهِمْ
 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ
 الْقَهَّارُ ۝۱۰

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ
 أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
 زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ
 عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ
 زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ
 وَالْبَاطِلَ ۗ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذٰهُبُ
 جُفَاءً ۗ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ
 فِي الْاَرْضِ ۗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ
 الْاَمْثَالَ ۝۱۰

لَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْاِحْسَانِ
 وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ
 مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهٗ مَعَهٗ
 لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوءُ
 الْحِسَابِ ۗ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَاَيْسَ
 الْاِمْنَادُ ۝۱۰

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳

یسی شخصیں زمان چھ زریہ (کلام) چھ جانس پروردگار ہنہ طرفہ شریہ کن نمازل کرہ امت، تہ چھ بیکل حق۔ کیا سہ چھاتس شخصس ہویہ (آرٹھ ہیکان) یس اوں آسہ ۹ (ہرگز نہ، ہیکیا زہ) عقلہ و آل چھو نفیحت رہان۔

تہو لوکھ یس اللہ (تعالے) سند دینے تس سستی کورمت (وہو پور کران چھ تہ سہ پو تہتہ و ہو چھنہ پھٹراوان)۔

تہ تم لوکھ یس تم تعلقات ہمیشہ قائم تھوان چھ یس قائم تھوان اللہ (تعالے) ہن حکم دیت مت چھ تہ پسنس پروردگارس چھ کورتن تہ بلا انجامہ والہ) حسابہ نشہ چھ خوف تھوان۔

بہ یس پسنس پروردگار سند رہنا ٹھا تہ تس منز شہادت قدمی نو مہتر چھ تہ نماز چھیکھ نفیس پاٹھ ادا کر مہتر تہ یہ کینٹھا اسہ تمس دیت مت چھ تمہ منز چھیکھ کھتھ (تہ) تہ تہر وانہ (تہ سارہ و تہ) خروج کورمت تہ (یس) نیکی سستی بدی دور کران چھ (روزان) تسنہ ہنہ خاطر چھ سنیہ کرک (مہترین) انجام (مقصد)۔

یسنہ ہمیشہ روزن جایہ ہندی باغ یکن مہتر تم (پانو تہ) دا نخل سپدن۔ بہ تہندو جدوا جلاو تہ تہنہرو آسٹھنو تہ تہنہد ڈری یارو منز تہ (تم لوکھ) یس نیکی پراو مہتر اسہ (سپدن تھہ مہتر ڈانل) تہ ملایک بین تمس نشہ پر چھ دروا پکو۔ (تہ وطن) تہنہد با پتھ چھ سلامتی ہیکیا ز تہو رووی و شہادت قدم۔ لہذا (دو نو و چھو ز تہنہد با پتھ) کیا رت چھ یس کرک انجام۔

یس یس اللہ (تعالے) سند دینے تس سستی پونہتر عہد پکھ اقرار پتہ پھٹراوان چھ تہ یس تعلق قائم کرک اللہ (تعالے) ہن حکم دیت مت

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۗ لَئِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُوا ۗ يُنْفِضُونَ الْمِيثَاقَ ۝

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

جَنَّتْ عَذْيٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

وَالَّذِينَ يَنفِقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ

أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ
الدَّارِ ۝۱۱

اوس تھہ چھہ بھتو کران تہ بترار مشر چھہ فساد
کران تہ بند خاطر چھہ (اللہ تعالیٰ بندہ طرفہ)
لعت مقدر۔ بیہ چھہ تہ بند خاطر اکھ بچھہ مگر
(تہ) مقدر۔

أَلَلَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ
يَقْدِرُ ۚ وَفَرَحُوا بِالْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا
وَ مَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا لَآئِلَآءٌ
مَّتَّاعًا ۝۱۲

اللہ (تعالیٰ) بندہ خاطر پسند کران چھہ (تس) چھہ
رزق کشاہکی بخشان بیہ (بیجو بندہ خاطر مشران
چھہ تہ بند خاطر) چھہ تنگ کران۔ تہ بیک (لوکھ)
چھہ بیہ ڈی ہجہ زندگی پھہ (سب) خوش سیدر
ہو۔ بوز و تہ بیہ ڈی بیج زندگی چھہ خوش
مقابلہ محض اکھ عارضی سامان۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ
عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ، قُلْ إِنْ أَلَلَّهُ
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ
أَنَابَ ۝۱۳

بیہ بکو لوکو (چون) انکار کوزمت چھہ تم چھہ زمان
نہ اوس پھہ کو نہ سید اسی بندس پروردگار بندہ
طرفہ کاشہ نشان نازل ہ کر وناکھ، اللہ (تعالیٰ)
بیہ بیہ مشران چھہ ہلاک چھہ کران تہ بیس (تس)
کن (مال دار آسہ تس چھہ پاس کن و تھہ داوان۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ
بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ ۝۱۴

یعنی یو ایمان اؤمنت آسہ تہ تہ بندر دل آسن
اللہ (تعالیٰ) بندہ یاد سوتو تسلاہ لبان (تجن
چھہ ہایت دوان)۔ اکر کو ترانو نر اللہ (تعالیٰ)
سند ذکر کرن سوتی چھہ دل قرار لبان۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يُطِيعُونَ ۝۱۵

یو لوکو ایمان اؤمنت چھہ تہ تہ چھہ نیک (تہ)
مشابہ حال) اعمال بجا ازی ہو۔ تہ بندہ خاطر
چھہ (سپٹھا) قابل رشک حالت تہ سار وپے
کھوتہ رچہ واپسی ہنر جانے (مقدر)۔

كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِيْ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوْا عَلَيْهِمُ الَّذِيْ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ
قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۝۱۶

امی (رجمک انجام لیہ) خاطر چھہ اسہ تر اوس
تتقص قوس مشر سوزمت۔ بیہ برو تھہ کھو یا
قوم (بیہ اول سنو و تہ وچھان وچھان) گذرے
ہو اسی، بیہ زن بیہ (کلام) اسہ تر کن کھو
کوزمت چھہ تہ بوز ناہ بکھہ تم سہ پتر تھہ۔
مکلیانہ تم چھہ رحمان (خدایہ) سند (یعنی تہ بند
فیضانک) انکار کران۔ تہ ون بیہ چھہ میون

پروردگار، تس سوا چھنہ کا ٹہہ معبود، تس پیٹھ
پیٹھ میہ توکل کورمت تہ تس کن چھہ پرہتہ
وقتہ میون رجوع۔

یہ اگر کاٹھہ تہتہ قرآن آسہ ہے یتیم کہ ذریعہ
(نشانہ کنہ) بال آسہن (پستہ جایہ و البتہ) کپناؤ
آہتہ۔ یا تمہ سوتو آسہ ہے تہترتہ جہد (جہد)
کہتہ آہتہ یا آسہن تمہ کہ ذریعہ مودر مہ بن ستر
کہتہ کہتہ آہتہ (تہ کیا ہم لاکھ انہ ناتھہ پیٹھ
ایمان؟ ہرگز نہ) بلکہ ایمان انک (فاصلہ جہد
پورہ پامٹو اللہ تعالیٰ) بندس اٹھس متہز کیا
یو (لوگو) ایمان اؤمت پیٹھ تمہن سیدنا (وونیک
تام) معلوم نہ ہگاہ اللہ تعالیٰ) سترتہ ہے
تہ سارہنے لوکن ویہ ہے ہارتہ؟ یہی (اے رسول!)

یو لوگو چون انکار کورمت چھہ تہتہترہ ہتھہ عملہ کنہ
روزہ تمہن پیٹھ ہمیشہ کاٹھہ (نتہ کاٹھہ) ہڈ ہلاک
یوان۔ یا روزہ تہتہس گرس نزدیک تا زل سیدنا
یوتام نہ اللہ تعالیٰ) سترہ (یتیم یعنی کہہ فتح سیدنا)
وعدہ واتہ۔ اللہ تعالیٰ) کہتہ ہرگز تہہ وعدہ ہلاک
تہ تہزہ بروتھہ من رسول سترہ) (اوس ٹھٹھ
مخولہ کہتہ آہتہ یہتہ پیٹھ میہ تمہن لوکن یو انکار
کریاو (کثیر وقتہ ہاتھہ) مہلت وڑہ پتہ کرک
میہ تم تباہ وونی وچھو میون سزا کیہہ کر لوتھو اوس۔

تہ کیا سہ (خدا) میس پرہتہ کاٹھہ شتھہ سہدن
اعمان پیٹھ نظر تھوچھہ چھہ (پرہتہ نا تمہن؟) تہ
تمو تہ چھہ اللہ تعالیٰ) سترہ کہو یا شریک (تہ)
بناوتھہ تھادو ہتہ۔ (تمہن) وونی، تہہ سہ لوی وونی
تمہن (بناونی خدایں) ہندو ناو۔ یا کیا توہم لوکھ
ونی واتس (تھلس) کاٹھہ تہتہ کہتہ یو سہ ہترتہ

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ
قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتُ
بَلَّغْنَا لَآمُرَ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِ
الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالِ الَّذِينَ
كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ
أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ
وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيعَادَ ﴿۱۳﴾

﴿۱۳﴾

وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ
فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ
أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿۱۳﴾

أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُل
سَمَوْهُمْ أَمْ تَنْبِتُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ
فِي الْأَرْضِ أَمْ يظَاهِرُونَ الْقَوْلَ بَل
رُتِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا
عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا

لہ یعنی تھان پیٹھ ہن عذاب تہ آخر وکن مسلمان ہندو لشکر تہندس گرس نزدیک یعنی
کہ سہ فتح۔

لَهُمْ مِنْ هَاكِذَا ۝۲۱

پچھتے ہوئے تو پچھتے ہوئے مگر سہ پچھتے (تسہ) زمانہ۔
کہ تو ہی چھو صرف اُسے سیتو، ہم کہتے کران ہا بلکہ
ہو لوگو نکار کوزمت پچھتے تمہیں چھتے تہنتر (پنتی)
شہل ہاڑی شولہ دار (شکلہ مفر) ہا ہا آہر
تہ تم چھو صبح و تہ ہنہ پتہ رتہ آہر۔ تہ ہمیس
اللہ (تعالیٰ) ہلاک کر تہن پچھتے کا تہہ و تہ ہاؤکھ
(ہیکان) ہنہ۔

تہن کیت پچھتے کہ عذاب ہنہ زندگی مفر (ہے) مفر
تہ اُخریک عذاب آہر بے شک ہم ہن تہ سجت
ہم آہر تہ تہن اللہ (تعالیٰ) ہنہ عذاب ہنہ کا تہہ
ہکان وول۔

تمہ جینج مثال ہنہیک پر ہنہ کارن و عہ و تہ آہر
پچھتے (پچھتے یہ تہ) تسہ (ہینے تمہ کہن کلہن ہنہن
شہلہن) تہل آہن کلہ ہکان تہیک ہو تہ آہر ہنہ
روہر وول۔ ہم تہیک شہل (تہ)۔ یہ آہر تہنہ
انجام ہکو تقویٰ بروو، تہ انکار کرن والہن ہنہ
انجام پچھتے (دو وزن نار)۔

ہم ہنہ لوکن آہر کتاب ڈر ہنہ پچھتے، تم چھتے تہ
(خدا کی کلام) سہو یہ تہ پچھتے نازل کر تہ آہر
پچھتے، تہن سہکان تہ تہن (مختلف) درہن منز
چھتے کیتہ تہو (تہ) ہم تہ کس کیتہس (حصص)
انکار کران چھتے۔ تہ و تہ مہ (تہ) پچھتے ہی حکم
و تہ آہر تہ کر اللہ (تعالیٰ) ہنہ عبادت تہ
تہ شریک تہ ہاؤن تہ کا تہہ) ہا پچھسو (تو ہا)
تہ کن آلو دوان تہ تہو کن پچھتے ہا (تہ) رجوع
کران۔

تہ ہتے پچھتے پچھتے آہر یہ (قرآن) آہر وائش کتہ
تہ کس مولس مفر ہاؤن کوزمت۔ تہ اے تہ طلب
اگر تہ تہ علم پتہ تہن تہن تہن تہن تہن تہن

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ
لَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقُّ - وَمَا لَهُمْ
مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝۲۱

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ، اُكُلُهَا
دَائِمٌ وَّظِلُّهَا، تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ
اتَّقَوْا ۝ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ۝۲۱

وَالَّذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ
بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْآخِرٰتِ مَنْ
يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ لَئِنَّمَا اَمْرٌ اَنْ
اعْبَدَ اللّٰهَ وَاَلَا اُشْرِكَ بِهِ، اِلَيْهِ
اُدْعُوْا وَاِلَيْهِ مٰبٍ ۝۲۱

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَّلَئِنْ
اَتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ، مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ وَّلَا

وَاقِي ۱۳

۱۱

ببین اکافرن) ہنزن ٹا ہشتاں ہنتر پاروی کرٹھ تہ
اللہ (تعالیٰ) ہس مقابلہ نہ (تہ) آسہ چون کا نہ دوست
تہ نہ (آسی) ثریہ کا نہہ بچاون وول۔

بیہ آسی اسہ ثریہ بروٹھ (تہ) یقینا کھئی یا
رسول سوزی موتی تہ تمن آسہ آشینہ تہ وثر منہ
تہ ذری یا تھہ تہ تہ کا نہہ پیغمبر ہنتر ٹا طراوس
تہ ممکن ترسہ اتہ ہے اللہ (تعالیٰ) سہنہ
اؤنہ وراہی (پسٹس تومس نش) کا نہہ نشا نہ
پر تھہ کتہ پروگرامہ ٹا طرا چھہ اکھ معیاد مقرر۔

اللہ (تعالیٰ) سہتہ چیزس بیہرٹھان چھہ نالہ وچھس
کران تہ (تھہ بیہرٹھان چھہ) تاہم چھس کران تہ
تسو نش چھہ (سارہے) مٹھن ہنڈ ٹوک
(تہ مول)۔

بیہ بیہیک (یعنی بیہ عذابہ کر سوزنک) اوسون
وہر ووان چھہ اگر آسی تمیک کا نہہ جھہ ثریہ تھی
سوزتھہ ثریہ دوسے (تہ تہ تہ وچھک تہتہ
انجام) تہ (ہرگاہ) آسی (تہ گر بروٹھ) ثریہ
وفات دوسے۔ (تہ ثریہ سپدی وفاتہ پتہ پتہ
اصلیت معلوم تکیاہ) چانہ ذہہ چھہ صرف (سون
حکم تہ پیغام) واتناون تہ تمن حساب ہنون چھہ
سانہ ذہہ۔

تہ کیا تہ وچھنا نہ آسی جھن ملک تہ کہو سارہے
اندو کتہ کم کران گرتھان تہ تاہلہ چھہ اللہ
(تعالیٰ) کران۔ کا نہہ چھہ تہ تہ تاہلہ بدلاون وول
تہ سہہ چھہ جلد حساب ہنہ وول۔

بیہ یک لاکھ تمن بروٹھ آسی تہ (تہ آسی) (ببین
تخلات) تہ سپر گری موتی (اما پوز تہتہ چلیو تہ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ
جَعَلْنَا لَهُمُ آذَانًا وَّأَعْيُنًا وَّأَنفُسًا وَّمَا كَانَ
لِرِسْوَالِ أَن تِيَّاتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ ۚ لِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ ﴿۱۱﴾

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۚ وَ
عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿۱۲﴾

وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي
نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿۱۳﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا
مِمَّا أَطْرَافُهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ
لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۴﴾


وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِئِنَّ
الْمَكْرَ جَوْعِيْعًا يَعْخَلُهُ مَا تَكْسِبُ

لہ یعنی ملک سہ چھہ وار وار فتح پیلان تہ بڑن خانان ہنڈ اولاد چھہ وار وار اسلام قبول کران مثلاً حضرت عمر حضرت علی
عمر بن عباس خالد بن ولید رضوان اللہ علیہم۔

كُلُّ نَفْسٍ وَّ سَيَعْلَمُ الْكُفْرَ لِمَنْ
عُقِبَى الذَّارِ ۝

کہنی (لہذا تدبیر کرن چھہ سابلہ اللہ تعالیٰ)
سندوسے اختیارس منتر۔ پرچھہ کانہہ شخصس
کیئہ (تہ) کران چھہ سہ (اللہ تعالیٰ) چھہ تہ
زانان تہ میں کافرن سپہر جلدے معلوم ز تہ
میں والہ گرگ (رت) انجام کینہہ خا طر چھہ۔
بیر کیو لوگو چون انکار کوزمت چھہ تم چھہ زمان ز تہ چھہ
تہ خلیہ سندر طر سوزنہ آمت۔ ترون تمن (تہ) اللہ
تعالیٰ) چھہ میہ تہ تو بہر دوسین سپٹھا لواہ۔ بیر چھہ
پاٹھ (تہ) شخص تہ لواہ) نہیں نش ابرہ المقدس) کتاب ہند معلم
آمت) چھہ۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا
قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝



سورة ابراهيم، یہ سورہ چھہ کی تہ بسم اللہ تہ چھہ آتھ ترونزادہ آہ بیر چھیس سٹھ رکوع۔

يَسُو اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

(بیر چھیس) اللہ تعالیٰ) سندن او بہتھا پران) بیس
حہر رؤس کرم کرن وول (تہ) چھیر ک چھیر ک رحم
کرن وول چھہ۔

بیر اللہ چھیس وچین وول۔ اکھ کتاب چھینہ (بیر)
یوسہ اسہ تہ پیٹھ او کو تہ نازل کر مہتر چھینہ ز تہ
اپہ اکھ ساری لاکھ تہندس پروردگار سندر حکمہ سبتی آتہ
گرہ منتر گدھہ کاشس کرن لینے غلبہ و اوس تہ
تقریبہ و اوس خدایہ سہز و تہ کرن۔

(سہ غلبہ وول تہ تقریبہ وول خدا چھہ) اللہ تعالیٰ
ہے، تہ) یہ کینشہا آسمان منتر چھہ تہ یہ کینشہا
زمینہ منتر چھہ، چھہ سورس تندس تہ (تند)
انکار کرن والہن کیئت چھہ اکھ کر لویٹھ عذاب (مقدر)
بیم (انکار کرن والہ) اُخرتس پیٹھ پیٹھ و تہ ہچہ
زندگی تھنر ووان چھہ تہ اللہ تعالیٰ) ہنتر و تہ
نشہ (بین لوکن تہ) چھہ پتھ رمان تہ تھہ چھہ

الَّذِينَ كَفَرُوا
النَّاسِ مِنَ الظَّالِمِينَ إِلَى الثُّورِ
يَأْذَنَ رَيْبَهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ ۝

اللّٰهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ
شَدِيْدٍ ۝

الَّذِيْنَ يَسْتَجِیْبُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
عَلَى الْاٰخِرَةِ ؕ وَیَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَیَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِی

صَلِّ بَعِيْدًا ①

ہجیرہ پر اوتھ (حاجیل کرن) بیٹھان۔ رتم لاکھ
چھ دؤر چھ گمراہی مفرز (ہینہ آہتر)۔
بیمہ پر پتھ اکھ رسول پتھ اسرہ تہند قومہ ہیر زبانی
مفرزے (وہی دتھ) سوزرت بیٹھ زن سہ
رتمن (سانہ کتھ) واش کڈتھ باو۔ پتہ (پتہ پتہ
کرتھ) بیٹیس اللہ (تعالے ہلاک کرن) بیٹھان پتھ
تس چھ ہلاک کران تہ بیٹیس (کامیاب کرن) بیٹھان
پتھ تس پتھ منزل مقصودس تام واتناہان تہ سہ
پتھ کابل پاتھ غالب (تہ حکمتہ وول)۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ
قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ①

بیمہ سوزاو اسرہ مؤسلی (تہ تریہ بروقتھ) سانی
نشانیہ پتھ (یہ حکم دتھ) نہ پین قوم اتن اہ
گتھ مفرز کڈتھ محاشس کن۔ بیمہ پاواتن اللہ
(تعالے) ہندکر انعام تہ تہندکر عذاب یاد۔ (گیارہ)
پلاشک چھ اتھ مفرز پتھ اکس پلورہ صہ کرن
واہس (تہ) پلورہ شکر کرن واہس کتہ کتہ پلورہ
(موجود)۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ
قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرْهُمْ بِآيَاتِهِ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ①

بیمہ (اے مخاطب! تہ کر سہ وقت تہ یاد) بیٹھ
موسیٰ ہن پسنس قوس و نیوا (نہ اے میانہ قومہ)
توہر کرو پسنس پانس پتھ اللہ (تعالے) سہ
(تہ وقتک انعام یاد بیٹھ تہ توہر فرعونہ ہند بو
سوتہ باجہوشہ اتھ حالتس مفرز پچاوسے و نہ
اسی و توہر سخت عذاب دوان۔ تہند ہن پتھ ہن
اسی مارن تہ تہند ہن زناش اسی زہر تھوان تہ
اتھ مفرز اوس تہند ہن پرور دکاہ ہند طرفہ (تہند
خاطر) بوڈ (بار) امتحان۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ
فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
نِسَاءَكُمْ، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ
عَظِيمٌ ①

بیمہ (اے قوم! وقت تہ یاد) بیٹھ تہندکر پرور دکارن
(نشین ہند دوس) اعلان کریا نہ (اے لاکھ)
اگر توہر شکر گنارینے و تہ بہ دمو و توہر
بیمہ تہ جاہ تہ اگر توہر ناشکری کرو تہ (یاد
تھو) بیون عذاب چھ بے شک سخت آسان۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
لَشَدِيدٌ ①

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرٌ حَكِيمٌ ①

ہیہ و نیا موسیٰ بن (پتہ بس قومس یہ تر)
اگر تو ہی تم ہم (باتے لوگہ) ہم زمینس مفرسبان
چھو (سر) سالم کفر پر اوو تہ (تہ مفر ہیکہ
نہ خدایہ سد کانہہ نوقصان ایتہ تکلیز) اللہ (تعالیٰ)

چھو یقینا بے نیاز (تہ) سبٹھ ہے تعریف و ول -
ہم لوگہ توہہ ہر و تھہ اسی لینے نوح سد قوم تر
عاد تہ تھو مدیہ ہم بہن پتہ اسی تمن متعلق و اثر
و نا توہہ اہر بہنوں و اجوز خیرہ (تم کے تھو
ناپو تہ تھیا طو آہ مساوتہ تر) اللہ (تعالیٰ)
ہس و راہی چھہ تمن (وہ فی) کانہہ (تر) زنان
(بیلیہ) تمن نش تہندی پیغمبر (ساد) گا شری
رستاہ ہتہ آہ تہ تھو مانہ تہ تہنتر کتہ تہ وونکھ
(تر) یہ (تعلیم) ہتہ توہی سوزنہ آوتی چھو تیک
(تر) چھہ اسی انکار کر تہ تھو تہ ہتہ کتہ کن
توہی اسر ناد کران چھو تھہ متعلق چھہ اسی اس
بے قرار کرن و اس شمس مفر (پیوستہ) -

تہندلو پیغمبر وون (تمن تر) کیا توہہ چھو اللہ (تعالیٰ)
ہس متعلق کانہہ شک ہیس آسمان تہ ہتر تہند
پاؤ کرن وول چھہ ہ سہ چھو توہہ امر موکھ آلو
کران تر ہتہ زن تہندلو گوہو مفر کیہہ بخشاؤ و
تہ اس گنترتہ میعادس تام دیو توہہ موہت - تمو
وونکھ (تر) توہی (تر) چھو اسی ہوک بشر توہی
چھو ہتر صان تر ہتہ چیز عبادت ساد جد
اجداد کران آوتی چھہ تہہ لستہ ڈالو اسہ - او کتہ
(اگر توہی اتھ معاملس مفر پوزس پٹھ چھو تہ)
اسر نش الو کانہہ گاشتر تہانہ -

تہندلو پیغمبر وون (تمن تر) یہ چھہ پوز تر) اگر
چھہ توہی ہوک بشر مگر (سوتی چھہ) یہ پوز تر)
اللہ (تعالیٰ) ہیس پٹھ پینہو بندو مفر ہتر صان
چھہ تس پٹھ چھہ (خاص) احسان کران تہ یہ

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ نُوحٍ ذَّعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ②

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخَّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَقَالُوا إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَنُونا بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ③

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ تَحْنُونَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلِكُمْ وَلَئِنِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ

عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۷﴾

کہتے چھتے سائیں اکتس مشر ز اللہ (تعالے)
سند مکہ و لای الو اسی تو بہ نش کا نہہ نشا نہ
تہ مؤمن پیر اللہ (تعالے) ہس پیٹھے توکل کرن۔
تہ اسہ گو مت کیاہ پچہ نہ اسی کرو نہ اللہ (تعالے)
ہس پیٹھے توکل پیلہ زن تمو اسہ سائہ (حالیہ
مطابق) و تہ لوری مشر چھتے تہ یس دکھ تو بہ
اسہ و تہمت چھو تہ پیٹھے مشر سو اسی یقینا ہر
کران پکان۔ تہ توکل کرن والہن پیر اللہ (تعالے)
ہس پیٹھے توکل کرن۔

تہ یس لاکو کھن پر وو، تمو وزن پستہن (زبان کین)
پتہین ز اسی کرو و ضرور تو بہ پستہ ملک مشر
یا بیو توہر (مبہور گرشٹھ) سائیں دہس مشر
والہس (تہ یس تکلیفونہ ہنیکو پچتہ)۔ تہ پیٹھے
تہندہ پرور دکارن ہن (زنون) پیٹھے وحی نازل
کر (ز) اسی کرو کہ تم ظالم یقینا ہلاک۔

تہ ہن (ہند ہلاکت) پتہ کرو و ضرور تو بہ تہ
مکس مشر آباد۔ یہ (وعدہ) چھ تہند حقہ یس
میانہ مقامہ نشہ کھوڑ تہ بیہ کھوڑ میانہ ہنہ
کرن واجنہن پیٹھو پتہن۔

یہ کور تمو (پستہ) کامیابی ہند خاطر دعا تہ نتیجہ
دلاو یہ (ز) پرتہ اھ بھو چھتے (تہ) پزرک دشمن
رود ناکام۔

تہ (دنیاوی عذاب) پتہ چھ (تہند خاطر) جہنم
(یعنے تمیک عذاب تہ مقرر) تہ تیس پیہ (تہ)
گر کپرون آب چاونہ۔

سہ چنیہ تہ وامہ وامہ تہ سہل سہل ہنیکہ نہ تہ
شکلہ و تہ تہ پرتہ جاہ (تہ پرتہ اندہ) پیہ تہ
پیٹھے موت تہ سہ مر تہ۔ تہ امر علاو تہ چھ (تہند
خاطر) اھ سمع عذاب (مقرر)۔

تہن لوکن ہنر مثال یس پستہن پرور دکار سہند

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ
هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصِيرَنَّ عَلَىٰ مَا
أَذِيتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۸﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ
لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي
مِلَّتِنَا فَأُوخِيَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ
الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾

وَلَنُصَلِّبَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ
ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَارِبِي وَخَافَ
وَعَيْنِي ﴿۱۹﴾

وَأَسْتَفْتِحُكُمْ وَإِنْ خَافَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيبٍ ﴿۲۰﴾

مَنْ ذَرَّاهُ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ
صَدِيدٍ ﴿۲۱﴾

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ
الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ
بِمُعْتَبَرٍ وَمَنْ ذَرَّاهُ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿۲۲﴾

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ

(یعنی تندرین حکمن ہند) انکار کورمت چھہ ، چھین
 یہ نہ تہندو اعمال چھہ تمہ سورکر پائٹو یس اگر
 تیز طرفانہ والہ دہہہ واون تہزی سان (وڈا وقتہ)
 ہنومت آسہ - یہ کیشترھا ، تمہ (پہنہ ہنس بینہ والہس
 وقتس رکیت) کومت چھہ تمہ مشو پیہ نہ کانہہ
 حصہ (تر) تہندیس اتھس مشو - پیہہ چھینہ تھہہ
 درنج تہا ہی۔

(اے مخاطب!) تریہ وچھتہ تانہ اللہ (تعالیٰ)
 ہن چھہ آسمان تہ زمین پرہہ تر دانائی سان
 پاد کڑی دتو ؛ اگر سہہ پیٹھہ تہ توہہ کرہہ و
 ہلک تہ (تہندہ بدل) انہ کانہہ بیاکھ نو پاد پیش
 تہ یہ کتھہ چھہہ اللہ (تعالیٰ) ہندہ خاطر کینہہ
 مشہل۔

تہ ہم ساری سپن اللہ (تعالیٰ) ہندس دربار
 مشو پتھہ استاہ - اڈ وڈن (تہہ اڈہہ) کمزور (زانہہ
 بینہ والی) کبہر کن والہن (تر) اسی تہ آس توہہ
 پتہ پکن والی - او کتو کیا توہہ ہیکو وا اللہ (تعالیٰ)
 ہند عذابہ مشو (وڈی کین) اسہ ہنہہ کیشترھا
 دؤر کرہہہ تم وشنہہ (درجواب) نہ اگر اللہ (تعالیٰ)
 اسہ ہدیت دیہ ہے تہ اسی (تر) دہہ ہنہہ توہہ
 ہدایت (مگر وہی کیا ہیکہ سپتھہ) سانی
 بے صبری ہاؤنی یاسون صہر کن چھہ (وڈی کین) اسہ
 خاطر ایوسے (تر) سانہ خاطر چھہہ ہچا و پانچ کانہہ
 تہ صورت۔

ہیہ بیلہ سورے معاملہ فاصلہ کرہتھ مہکھہ تہ
 شیطان وڈ (لوکن تر) اللہ (تعالیٰ) ہن اوس
 توہہ سرتو یقیناً اٹل ودر کورمت تہ میںہ (تر)
 اوس توہہ سرتو (اکہ) ودر کورمت مگر میںہ کور نہ
 سہ (وہہ) توہہ سرتو پورہہ - تہ میاڈ اوس نہ توہہ
 پیٹھہ کانہہ تھہہہ آ، میںہ کور و توہہ پانس کن آلو

أَعْمَالُهُمْ كَرَمًا ۖ لِأَشْتَدَّتْ بِهِ
 الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، لَا يَقْدِرُونَ
 مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ
 الصَّلُّ الْبَعِيدُ ۝

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ
 لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ
 اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ
 لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءَ عَلَيْنَا أَجْرُ غَنَاءٍ
 أَمْ صَبْرًا مَّا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝

۱۳

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ
 اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ ۚ وَعَدْتُكُمْ
 فَأَخْلَفْتُكُمْ، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ
 سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ
 لِي، فَلَا تَلُونَنِي ۚ وَلَوْ مَوَّأَأْتُمْ
 أَنفُسَكُمْ ۚ مَا أَنَا بِمُصْرِخٍ لَكُمْ

رَأَيْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ
قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾

تو توہر مون و میون و عن۔ او کہو مہ کرو (دوولی)
میں سلامت۔ بلکہ کرو پسین پان سلامت (دو کہن)
نہ ہیکہ ہر جہند فریاد بوڑھتہ تہ نہ ہیکو توہی میون
فریاد بوڑھتہ۔ توہہ یس زن ہر اللہ (تعالیٰ) سند
شریک اوہس بتاوتہ قوموت۔ میں چھہ بروٹھٹے
تہنہر تہہ کتہ ہند انکار کوزمت (اتہ پیٹہ پیٹہ
خداے فراوان امر قسمک شریک کرن والہن)
فلمن ہند مخاطر چھہ لے شک کر لوٹھ غلاب (مقدہا)
تہ یو لوکو ایمان اؤنت آسہ تہ تو آسن (نیک
تہ) مناسب حال علمہ کر مشر، تم بین تہندس
پرور دکاہر ہند حکمہ سستی تہتہن باہن مشر
دائیل کرنہ بین (ہندین شہلین) تل کولہ لیکان
آسن۔ (تہ) تم عرضہن جس (جنتن) مشر
لسان۔ بیہ آسہ تہہ تہند (اکھ اُکھ سندر باچتہ
یہ) دعا (نہ توہہ پیٹہ آسن) سلامتی۔

وَأَدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿۱۸﴾

(اے مخاطب!) تریز و تہتہنا (نہ) اللہ تعالیٰ
ہن کتہ پاٹھ چھہ اکہ پاک کلامج حالت بیان کر تہ؟
سہ چھہ اکہ پاک شلو پاٹھو آسان ییکو مول
(سفینلی سان) تقایم چھہ آسان تہ تہج (پر تہ
کا تہہ) لئڈ چھہ آسمانہ کس تھزرس تام (واثر
ہر آسان)۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿۱۹﴾

سہ چھہ پر تہہ وزر سنس پرور دکاہر ہند اذ تہ سستی بین
(سادر وار ہوہ ووان لے تہ اللہ تعالیٰ) چھہ
لوکن ہند مخاطر (تسن بکار بینہ واجہہ) سارے کتہ
ونان۔ تہتہ نہ تم نصیحت لین۔
تہ پیچھہ کتہ ہند حال چھہ پیچھہ شلو پاٹھو یس رہس

تَوَاتِي أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۰﴾

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ

لہ اتہ آیس مفر چھہ ونہ آمت نہ اسلامک شجرہ طیبہ (پاک گل) دیہ پر تہہ زمانس مشر
تازہ ہو لینے صرف یوہے مذہب چھہ تہ مفر خدا رہد تہ اللہ تعالیٰ ہس سوت کلام کرن وال لوکھ
پاؤ سپلن روزن۔

منز مزلہ کڈیہ (مزوتہ) ٹھنڈی آمت آسہ
(تہ) بیٹہ نہ (کئی تہ) سوکھ تہ قرار (حاصل)
آسہ۔

یکو لوکو اپمان اومنت چھ (تمن چھ اللہ تعالیٰ)
یہیمہ تمام روزن والہ (تہ پاک) کلامہ کہہ دوسر
(بیٹہ) دنیاوی زندگی منز تہ ثنابت قدمی
بخشان تہ آخرتس (یعنی تہ زندگی) منز تہ
(بخشاکہ) تہ ظلمن چھ اللہ تعالیٰ ہلاک
کران تہ اللہ تعالیٰ (یہ بہترہاں چھ) تہ
چھ کران۔

(اے مخاطب!) تریا وچیتھ نا (سنتھ) بمن
لوکن کن یو نا شکری کریتھ اللہ تعالیٰ بہتر
نعت بدلوتھ ترھو (تہ پانہ تہ گے ہلاک)
تہ پن قوم (تہ) وولکھ ہلاکتہ کس گرس منز۔
یعنی جہنم منز تہ گرسن اتھ (ناہ گجہ) اند
دانہل تہ سو جاے چھ (روز کجہ جہاں) سہٹھا
ناکاب۔

بہ چھ (تمو اللہ تعالیٰ) ہس برابر کہہ مزیکہ شریک
بتاوی ہتھ تہ زن (لوکن) تہ تہ و تہ ریشہ ڈان، تہ
ون (تمن نہ اچھا، کینترن دوہن) تہلو طامنی
فایہ۔ پتہ آسہ و توہرے تنک (جہنم کس)
نارس کن گرسن۔

(اے رسول!) تہ ون میانن جن بدنن بہمو
اپمان اومنت چھ نہ تم آسن نماز جان پانھوا
کران تہ یہ کینترھا اسہ تمن دیتھ چھ تمہ منز
آسن کھتھ پانھوتہ تہ تہ واپہ (تہ سانہ و تہ)
خرتج کران۔ اسہ بروٹھ نہ سہ دوہہ پیہ بیٹھ
اند نہ کانہہ (ہیون) کہن آسہ تہ نہ آسہ کانہہ
سہ دوستی۔

اللہ تعالیٰ چھ سہ (ہستی) سیکو آسمان تہ زمین

حَيِّثُهَا يَجْتُمُّتُ مِنَ فَوْقِ الْأَرْضِ
مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

يُعَيَّبْتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ
الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ
مَا يَشَاءُ ۝

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ كُفْرًا وَآخَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝

جَهَنَّمَ يَصَلُّوْنَ نَهَاءً وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ
سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيبَكُمْ
إِلَى النَّارِ ۝

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ بَوْمٌ لَا
يَشْعُرُ فِيهِ وَلَا يَخْلُقُ ۝

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

پاد کرکڑ ہوتی ہے تو اوپر منتر چھن رُود والہ
 تمہ ڈی تہند خاٹر میوونگی رزق پاد کوہمت
 بیہ چھن ناو اکیانوں وول (ہوا) مفت تہندس
 خدمتس پیٹھ لاگتھ تھومت - بیٹھ زن تم تہند
 حکم سمندرس منتر پکن رتہ (بیٹھ پاٹھ) دریاو
 (تہ) چھن اجرتہ ورائی تہندس خدمتس پیٹھ
 لاگتھ تھاور ہوتی -

بیہ آفتاب تہ زون (تہ) چھن تہندس خدمتس
 لاگتہ - تم (دو نوے) چھ تھاکر رُوس (پنہ) کام
 کران - تہ تمہ چھ راتھ تہ دوہ (تہ) مفت
 تہندس خدمتس پیٹھ لاگتھ تھاور ہوتی -
 بیہ یہ کینرہا تھ تو بہ موٹو تہ چھو ٹو تو بہ
 دیت تہ اگر تو بہ اللہ (تعالیٰ) ہند احسان
 گنہ رنی بیو تہ امن ہنر گرنہ بیکو تہ کرہتہ
 انسان چھ یقینا سبھ ہے ظالم تہ جادے
 ناشکری کرن وول -

بیہ (اے مخاطب! سہ وقت کریاد) بیبلہ
 ابراہمن (دعا کران) و نیاو (ز) اے میانہ
 پروردگار! یہ شہر (یعنی مکہ) بناون امہ
 واجہن (جائے) - بیہ ہر تہ میانی نیچو کر تھاکہ
 امہ کتھ نش دور ز اسی کرو اپرن معبودن
 ہنر عبادت -

اے میانہ پروردگار! ہتو چھ بے شک سبھا
 لوکھ گمراہ کرہتھ تھاور ہوتی - لہذا تہ میانی
 پاروی کر سہ (تہ) چھ میہ سبتو (واٹھ تھاون)
 تہ تیو میانی نافرمانی کر (تس متعلق تہ چھ میون
 پی عرض تر تس تہ بخوشی ز تکبار) تہ چھاکھ
 یقینا سبھ ہے بختن ہار (تہ) پھپرک پھپرک
 رحم کرن وول -

اے میانہ پروردگار! میہ چھ پستہ اولادو منتر

وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
 مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمْ
 الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ
 سَخَّرَ لَكُمْ الْوَالِئَهُمْ ﴿۳۶﴾

وَ سَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ
 وَ سَخَّرَ لَكُمْ الْبَلَدَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿۳۷﴾

وَ أَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ
 تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ
 الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿۳۸﴾

وَ إِذْ قَالَ رَبُّهُمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
 الْبَلَدَ آمِنًا وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
 الْأَصْنَامَ ﴿۳۹﴾

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلَن كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ
 فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ
 عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۴۰﴾

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ

غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا لِيقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً
مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ
مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۱۵﴾

کیئہ پچاس عزتہ ولس گرس لہ نزدیک ایتھ
اگس تڑھ وادی مشر بساؤر متی بیتھ مغز کاہتھ
زراعت بنان پھنہ۔ اے میانہ پروردگار!
(میں چھ یہ اور کئی کورمت) بیتھ زن تم نماز
زبر پیا کھ ادا کرن۔ لہذا تڑ پھرتا کہ لوکن ہندک
دل تم کون تہ تم روز تڑ رنگہ رنگہ میون
ہند رزق دوان۔ بیتھ زن تم (ہمیشہ چون)
شکرانہ کران روزن۔

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُخْلِيهِ
وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿۱۶﴾

اے ساتھ پروردگار! یہ کیشہا اسی کھنتھ
تھاوان چھ تہ یہ کیشہا اسی تڑ راوان پچھ
تڑ پچاکھ بے شک (تہ) سورے کیہنہ زانان
تہ اللہ (تعالے) ہس نش نہ پچھ کاہتھ
پچیز زمپنس مشر تہ نہ آسمانس مشر کھنتھ
روزتھ مکان۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى
الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي
لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۱۷﴾

پر تھ (تسمہ کنن) تفرین ہند حقدار پچھ
اللہ (تعالے) سیمو (میانہ) بچر با وجود
میدز پتوری) اسماعیل تہ اسحاق عطا کرک پت
پچھ۔ میون پروردگار چھ (سپٹھ ہے) دُعا
یوزن اول۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَ مِنْ
ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿۱۸﴾

(اے) میانہ پروردگار! بہ تو میانہ زری بیتھ
(ساری) بناؤکھ زبر پیا کھ نماز پران وال۔ (اے)
ساہ پروردگار! (اسپٹھ کر فضل) بیہ کر تہ
میون دعا قبول۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلَا
لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿۱۹﴾

(اے) ساتھ پروردگار بیہ وہ وہ حساب ہینہ
پچہ تمہ وہ ہر بختر نہ میں تہ میانس مابس ماجہ
تہ سارے مؤمنن۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ
الظَّالِمُونَ ۗ إِنَّهَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ

بیہ (اے مخاطب!) ہم ظالم (مکہ وال) یہ کیشہا
کران چھ۔ تمہ نہنہ مہ زان اللہ (تعالے) ہرگز

تَشْخَصُ فِيهِ الْاَبْصَارُ ﴿٦﴾

بے خبر۔ سچے بہن صرف تمہ دوہیں تمام
مولاہت دوان یتیم دوہہ (تہنہز) اچھ (حیرتہ
سنتو) در لہجہ آسن۔

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ
اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ اَفِيْدَةٌ لَهُمْ هُوَ اَعْمٰی ﴿٧﴾

پنؤ کھ تھوؤ رُتھہ آسن (تم) ترہرکتی دوان۔
(تہ) تہنہز نظر بین نہ (پھیرتھ) واپس تہنہز
دل آسن (آشورنہ) شہری۔

وَ اَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ
فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا اِلَى
اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۗ نَجِبْ ۗ دَعَوَتِكَ وَ
نَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ اَدَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ
مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ ذَوَالِ ﴿٨﴾

تر تر کرکھ تم لاکھ خبروار تم دوہہ ہنہ سیدہ
تمن پیٹھ سہ عذاب سیدہ ایسیک و ہر کرتہ امت
چھ (یو لاکو ظلم (یعنی تمیک و طیر اختیار)
کورت آسہ (تمہ وزیر) دن (ز اسے) سانہ
پرور دگار! سون معاملہ تروتن گنہ (سپیس)
نزدیکی معیادس نام پتھ۔ اسی کرو چاہہ طرفہ
آہنڑ دعوت قبول تہ (چاہن) رسون ہنڑ کرو
پاروی (یتھ پیٹھ بہن جواب میدہ نہ و ہر چھا
حجت پور گنہ صفت منہ کاٹھہ کسر باتے) تہ
توہہ اوسونا بروٹھ (کس پیٹھ) قسم کورت
نہ توہہ سیدہ نہ کتہ قسمک زوال۔

وَ سَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
اَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ
وَ ضَرَبْنَا لَكُمْ الْاَمْثَالَ ﴿٩﴾

یلیلہ زن توہہ چھ بہن لکن ہند کر گہر پنڑ گہر
بناؤ ہتہ۔ یو توہہ بروٹھ (پنہن زون پیٹھ
ظلم کورت اوس تہ توہہ اوسو کتہ زبر پاٹھونے
ہنڑ زتن سہتو کیتھ وزاوا اوس اسہ کورت
تہ اسہ چھ سارے کتہ تہنہز با پتھ و اسس
گدہتھ بیان کرکھ ہنڑ۔

وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللّٰهِ
مَكْرُهُمْ اِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ
مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿١٠﴾

تہ یو (لوکو) چھ پنڑ (ہر کاٹھہ) تدبیر وراوس
منہز اومت تہ مہنہ (پہتھ) تدبیر چھ اللہ
(تعالے) اس ہنہ (رُتھرتھ) تہ باسے تہنہز
تدبیر اوس تن یتھ نہ تمہ سہتو ڈول تن بال اتہ
پنہز جاہہ تم ایکن نہ چن کاٹھہ نوقمان

(ترجمہ)

اوپر (اے مخاطب!) تیرے مہ زائن ہرگز اللہ
(تعالے) پستوں رکھوں سزا دینے وعدہ بر خلاف
(معاملہ) کرن وول۔ اللہ (تعالے) چھہ بیشک
خالی (تہ بکارن) سزا دینے وول۔

(تہ سزا دینے ضرورینہ وول) یہیہ وہ ہے (یہ زمین
تہ آسمان بدلنا وول) بیاکھ زمین تہ آسمان قائم
کرنے میں تہ ہم (لوکھ) آسن اللہ (تعالے) اس
بروٹھ کتہ یس کتہ چھہ (تہ پر تہ چہ چہ چہ پٹھ چھہ)
پلور پلور علیہ تھوں وول۔

یہ تمہ وہ ہے تہ وچھہ ہیکھ تم مجھ زرخیز منتر
کتہ۔

تہ ہنر کرتہ آسن (زن تہ) تار کولچہ (کرم کل)
بنیتر تہ (جہنہ چہ) تار تھہ آسن تہ ہنر
بجین ولہ یوان۔

(یہ آسہ او موکھ) یہیہ زن اللہ (تعالے) پر تہ
شخص، یہ کینتر تھو (پستہ مخاطب) کورنت
آسہ تمیک اجر دیہ۔ اللہ (تعالے) چھہ بیشک
جلد حساب ہینہ وول۔

یہ (ذکر) چھہ لوکن ہنر (نہیت حاصل کرنہ)
خاطر کافی بیہ یہیہ کتہ کتہ (تہ) نہ تم ہن
(ہنر والہ عذابہ لنتہ پلور پلور) خبردار کرنہ۔
یہ امر موکھ (تہ) نہ ہن سپہ معلوم نہ اللہ
(تعالے) ہے چھہ صرف اکھ پوز معبود بیہ او
موکھ (تہ) نہ قتلہ وار (لوکھ) رن نہیت۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ
رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۱۱﴾

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ
السَّمَوَاتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ ﴿۱۲﴾

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ
فِي الْأَصْفَادِ ﴿۱۳﴾

سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ وَ تَغْشَى
وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿۱۴﴾

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ،
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۵﴾

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَ
لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ
لِيَذْكُرُوا الْأَنْبَاءَ ﴿۱۶﴾

چھکھ تیلہ (تمہ وقتہ چھتہ تمہن دکاقرن اکھ
 رثرہ تہ) مہہلت دہنہ یوان -
 یہ ذکر (قرآن) چھہ اسی تاویل کورنت تہ بیشک
 کرو اسی اسیح جفاطت -

بیہ عریہ برومٹھ (تہ) سوزایہ اسہ برومٹھو ہن
 (زمانہ کہن) لاکن ہنرن جمٹھن مفر رسول -
 تہ یس رسول تہ تمہن ہنرش یوان اول تم اسی
 تس نامہ ترمان -

یتھامٹھو چھہ اسی پہ (خندہ کرکک عادت) مجرم ہنہنہ
 ولن مفر سٹو راوان -

ہم لاکھ چھتہ بیتھ (قرآس) پیٹھ ایمان انان -
 ییلہ زن برومٹھو ہن ہنہن (یعنی تہنہنہ حقہہ
 اللہ تعالیٰ سہنہ) سنت چھہ گڈ ریومٹھ -
 بیہ ہرگاہ (مثالی) اسی تمہن پیٹھ (زازکاری
 ہنہن) کانہہ آسمانی و تھہ ییلہ (تہ) تراہ ہو
 تم ہسپہ ہن تمہ ستر (فایہ تیلہ) حقیقت
 زانہ تہ -

توتہ ونہ ہن تم (یس ز) سانبن نظرن پیٹھ
 چھہ منور پڑہ تراونہ آمت (ننتہ چھتہ ہنہنہ)
 بیلہ چھہ اسہ (الکون) پیٹھ (کانہہ) ہنہنہ آمت -
 بیہ چھہ بلاشک اسہ آسمان مفر (تارکن ہنہنہ)
 کھریا برج (شزل) بناوہ ہتہ تہ اسہ چھہ سہ
 وچھن والہن ہنہنہ خاطر ہنہنہ شکل ہنہنہ -
 بیہ چھہ سہ اسہ (تمہ زاید) پرہتہ اُکس
 ہنہنہ ہس (تہ) گڈتہ ترہنہ آہس (وجود ہنہنہ
 پلہنہ) رنتہ محفوظ کورنت -

مگر یس شخص ترور (الہی وحی ہنہنہ) کانہہ
 کتہ ہنہنہ (تہ تھہ اول بدل کر تھہ ہیلوا) تہ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
 لَحٰفِظُونَ ﴿۱۵﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ
 الْأَدْلَانِ ﴿۱۶﴾

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۷﴾

كَذٰلِكَ نَسْلُكُ فِي قُلُوبِ
 الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۸﴾

كَمَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ
 الْأَدْلَانِ ﴿۱۹﴾

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ
 فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿۲۰﴾

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا
 بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّشْحُورُونَ ﴿۲۱﴾

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ
 زَيَّنَّا لِلنَّظِيرِينَ ﴿۲۲﴾

وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيءٍ ﴿۲۳﴾

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ
 شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿۲۴﴾

تس پتہ چھ اکھ پر بزوں گاشہ لوہنگ لاکہ
یوان۔

تہ اسمہ چھ زمین و ہرومت تہ اتھ منتر چھ اسمہ
حکم پانزال استاد کرموتی تہ (بیمہ) چھ
اسمہ اتھ منتر پر چھ قہمکو مہینہ تولتہ چیز
(وہ پداوی موتی تہ) نوؤ راوی موتی۔

بیمہ چھ اسمہ اتھ منتر تہند باپتہ تہ بیمہ (پر چھ)
تہ (پادایشہ ہند) خاطر تہ بین توہی رزق
چھونہ روان لسنہ بسکا سامانہ پاد کرموتی۔
بیمہ چھ کاشہ چیز تہند تہیکو (اتھ رسی) خزانہ
اسمہ نش آسن تہ۔ مگر اسی چھ تہ اکہ گندہ اندازہ
سیدی نازل کران۔

بیمہ چھ اسمہ (ابی بخار تو سستی) بار دار ہوا (تہ)
سوزی موتی تہ اسمہ چھ (تہند ذلیع) اوہر منتر
رؤد دولت۔ پتہ چھو سہ توہہ جوہر تہ توہر
ہیکہ ہو تہ پانہ سہ رزھرو تھ (مگر اسمہ کہ ذلیع
چھ سہ اسمہ رزھرو تھ)۔

بیمہ چھ پزری پانٹو اسی زبند کران تہ (اسی چھ)
ماران تہ اسی چھ (سارہ ہندک) وارث۔

بیمہ چھ اسمہ اسی توہہ منتر برو تھ نیرن وادی (تہ)
زانان تہ اسی چھ (تہ پانٹو توہہ منتر) چھ
روزن وادی (تہ) زانان۔

تہ بے شک کر چون پر دو گارے متن جمع۔ سہ
چھ حکمت وول (تہ) سہما زان وول۔

بیمہ چھ اسمہ انسان وزوہ میثر یعنی کر ہنہ

وَالْأَرْضُ مَدْذُنًا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي
وَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْذُونَ ﴿۱۵﴾

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ
لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿۱۶﴾

وَرَأَى مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَ نَاخِرَاتِ آلِهَةٍ
وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿۱۷﴾

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَشْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ
لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿۱۸﴾

وَرَأَى لَنْحُونَ نُحِيٍّ وَنُؤْمِيتُ وَنَحْنُ
الْوَارِثُونَ ﴿۱۹﴾

وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُشْتَفِدِينَ مِنْكُمْ
وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُشْتَاخِرِينَ ﴿۲۰﴾

وَرَأَى رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ رَأً
حَكِيمَةً عَلَيْهِمْ ﴿۲۱﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ

لہ یعنی بید معارف قرآن کریمیں متعلق شبہات پھلاوان چھ خدا تعالیٰ سند طرف چھ
معجزانہ رنگس منفر بتقر حالات پاد سپدان یوسوتی منی لغن ہنز شرارت
ظاہر سپان چھید۔

حَمًا مَسْنُونٍ ﴿۱۵﴾

نرہہ ریشہ میں بیچ حالت بدلے مہتر آس ، پاد
کوزمت۔

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ
السَّمُومِ ﴿۱۶﴾

تہ (امر) بروٹھ اسی آسہ جن سخت ٹرھٹہ
ماروہہ ناپریشہ پاد کوزہ ہتہ۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ
بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَآ
مَسْنُونٍ ﴿۱۷﴾

بہہ (اے مخاطب اسے وقت پاد تہتس) بیٹیلہ
چاڈی پروردگارن ملائکن وشیاو (نہ) بہ چھس
وزوہہ میشر یعنی کرہبتہ رہہ ریشہ میں بیچ حالت
بدلے مہتر آسہ ، اگھ بشر پاد کرن وول۔

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ
رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سٰجِدِينَ ﴿۱۸﴾

اد بیٹیلہ بہ سہ مکمل کرن تہتس یعنی تہندس
دلس (مفہ تراو پین کلام تہ توہی ساری نمو
زبو تہ سہتو (اللہ تعالیٰ ہس بروٹھ کت) سجدہ
کرن سہ۔

فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُونَ ﴿۱۹﴾

بیٹہ پیٹھ سر سہلم ملائکو (تہ سہتو خدایس) سجدہ
کوز۔

اِلَّا اِبٰلِيسَ ، اَبٰى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ
السَّٰجِدِيْنَ ﴿۲۰﴾

ابلیس وراہی ، تمو کوز (محض خدایس) سجدہ
کرن والہن سہتو (رلہتہ) سجدہ کرہ ریشہ انکار۔

قَالَ يَا اِبٰلِيسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ
مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ﴿۲۱﴾

(اتھہ پیٹھ) فرموو (خداین نہ) اے ابلیس !
تہیہ کیاہ گنووسے نہ تہر چکھ نہ رلان (خدا تعالیٰ
ہس بروٹھ کت) سجدہ کرن والہن سہتو ؟

قَالَ لَمَ اَكُنْ لِّاَسْحٰدٍ لِّبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ
صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَآ مَسْنُونٍ ﴿۲۲﴾

تمو وولس نہ بہ چھس نہ بیٹہ نہ تہتس بشر
سندو پاٹھو کر فرمانبرواری یس تہیہ دہہ دہہ
میشر یعنی کرہبتہ رہہ ریشہ میں بیچ حالت بدلہ ہتہ
آس ، پاد کوزمت چھتہ ۔

قَالَ فَاخْرِجْهَا مِنْهَا فَاِنَّكَ رَٰجِيْمٌ ﴿۲۳﴾

فرموولس (اگر چون یہ خیال چھہ) تہ تہ نہر نیہ

سہ ہمہ ایک مطلب چھہ یہ زامیرن تہہ کبری لوکن چھہ ناری طبیعت آسان تن چھہ وول
ولزکھ کھسان تہہ ایمان دار چھہ نرم طبیعت آسان بیٹہہ کتہ خلق من عجل عربی محاورک
منے چھہ تہتس چھہ فطر تہس منہر جلد بازی داخل سہ بعضہ مفروضہ چھہ بیٹہ تہر کوزمت نہ خداین
وولن ملائکن آدس کرو سجدہ یہ چھہ قرآنی تعبیر خلاف امیک مطلب چھہ نہ آدم پوسنہ
پادالیشہ پیٹھ کرو آدس سہتو رلہتہ خدا تعالیٰ ہس سجدہ ۔

(یعنی نیبہ مقام پٹھوس بولن) تہ کیا نہ تہ
چھاکہ رد کرتہ آمت۔

تہ (یاد تھوز) جز ہس (تہ ستر ہس) دہس
تام روزہ تریہ پیٹھ (میانی) لعنت۔

تہ وون اسے میا نہ پروردگار! (اگر تہ میہ اولو
سزا دوان چھاکہ تہ تیلہ) دہ پیٹھ تہ دہس
تام موبت (تیلہ) ہم الو سہ زبند کرتہ) اتاہ
کرتہ بین۔

فرموس، تہ آسکھ موبت دہ آمتو اندہ۔

تہ گندہ وقاس تام (پیٹھ پیٹھ کتہ کتہ کرتہ
آہتر چھینہ)۔

تہ وون اسے میا نہ پروردگار! چونکہ تریہ
چھاکہس بہ گراہ ٹھہروست، بہ نادر موزر تہ کرتہ
دنیہ ہس منز (گمراہی) خوبصورت بناوتہ تہ تم
ساری کرکھ گراہ۔

مگریم چان تہ تہ تہ تہ بند چھ (تہ ہم میانس
فریس منز ہیکن نہ پیٹھ، تم نیکن)۔

(پتہ) فرموس، میں کن بیچ سینز وقتہ چھینہ بیہ۔

ہم میانی نیک بند چھ تمن پیٹھ آسہ نہ نہ
تہ چون قبندہ۔ آ، تم نفر ہم تریہ بہتر ہیکن یعنی

پانے گرتھن گمراہ۔ (تم چھینہ تمن منز شمار)
تہ جنہم چھہ بلاشک تمن سارنہ ہند (خاطر)

وہرج جاے۔

تہ چھ ستھ دروازہ (تہ تمکہ) پرچہ دروازہ،
خاطر آسہ ہیکن (کافرن) ہند اکھ گندہ حصہ۔

متقی (الاکھ) سیدن بے شک باعن تہ تاکن
(ہندین مقامن) منز دا نجل۔

(تمن پیہ ورنہ تہ) توہی اترہ سلامتی سان
بے خوف (وخطر) تمن منز۔

وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۳۱﴾

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۳۲﴾

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۳۳﴾

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿۳۴﴾

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ
فِي الْأَرْضِ وَالْأَغْوِيَّتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۵﴾

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿۳۶﴾

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿۳۷﴾

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ
إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿۳۸﴾

وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْءُودُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۹﴾

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ
مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿۴۰﴾

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۴۱﴾

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ﴿۴۲﴾

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلِيٍّ
إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿۵۰﴾

بہ تہنہ بن سپان مٹریس کپتہ (بیتر) تہ
آسہ سہ کڈو کہ اسی۔ تم آس بائی بائی ہبتہ
(جنتس مٹر روزان تہ) تختن پیٹہ (آس) اکھ
اگس بروٹھ کتہ (بہتہ)۔

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ بِئِهَا
بِمُخْرَجِينَ ﴿۵۱﴾

نہ آس تم یمن مٹر کا شہ تھکن تریان تہ نہ بن
تم تمو مٹر زائہہ کڈتہ۔

نَبِيِّ عِبَادٍ يَا أَيُّهَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۵۲﴾

(اے میانہ پیغمبر!) میانہ بدن دُخبر زہ
بر چھس سبٹہ ہے بختن ہار (تہ) چھہر کپھر
رحم کرن دول۔

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿۵۳﴾

بہ (یہ) زرمون عذابے چھہ (تکرہ) کر لوتھ
عذاب (آسان)۔

وَنَبِّئُهُمْ عَنِ صَيْفِ أَيْدِيهِمْ ﴿۵۴﴾

بہ در تمن ابراہیم سندن پڑھن متعلق تہ خبر
یہیہ تم تس تیش آہ تہ ووٹکھ (اُسی چھو لوہہ)
سلام کران) تہ تمو ووٹکھ (نہ) اسہ چھہ (تہتہ)
میںہ کتہ) کھوڑن پلان۔

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ
إِنَّا مِثْلُكُمْ وَجَلُونَ ﴿۵۵﴾

تمو ووٹس (نہ) تہ مہ کھوڑ، اُسی چھہ تریہ اگس
سبٹہ علمہ واپس فرزندہ سنز خوشخبر پیش کران۔

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ
عَلِيِّ ﴿۵۶﴾

تمو ووٹکھ (نہ) کیا توہہ چھو میانہ بُڈ گرشہ
پتہ تہ میہ خوشخبر ڈر مٹر؟ (اد وڈ تو نہ) کتہ
بنہ ہس پیٹہ چھو توہی میہ (یہ) خوشخبر دو ان۔
تمو ووٹس (نہ) اسہ چھہ تریہ پڑ خوشخبر ڈر مٹر
لہذا مہ گرشہ تہ نا وومید۔

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ
فِيمَا تَبَشَّرُونَ ﴿۵۷﴾

تمو ووٹکھ (نہ) یہ کتہ پانٹو مہکہ نا وومید گرشہ
تہ وڈر ڈل مہ توہی وڈی کس چھہ پنسنس پر وڈو گار
سندہ تہتہ تہتہ نا وومید گرشہاں؟

قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ
الْقَائِلِينَ ﴿۵۸﴾

(پتہ) ووٹن (نہ) اچھا) اے (خدا یہ سندلو)
فرستادو (سہ) تہنتر ضروری کام کیاہ چھہ
(یہیہ) خاطر توہی سوزنہ آوتی چھو)۔

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا
الضَّالُّونَ ﴿۵۹﴾

تمو ووٹس (نہ) اُسی چھہ اگس مجرم تو مس کن

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۶۰﴾

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ

مُجْرِمِينَ ﴿۵۵﴾

إِلَّا أَل لُّوْطٍ إِذْ أَسَّأْنَا لَهُمُ آجَمِينَ ﴿۵۶﴾

دہنہر ہاکتہ ہا پتھ (سوزنہ آہتہ -

امہ پوز لوط بندو پارو کارو ورائی (نر) اسی

بجا و لکھ رقم ساری -

آ، سبب آرتنہ متعلق چھ سون اندازہ زسہ

آسہ پتھ روزان والبو (تہ ہلاک ہدن والبو) مشنہ

اد بیلہ سانی سوزی ہتی لوط (تہ تمو) ہندن

پارو کارن نش آہ -

تہ تمو وون (دہن نر) توہی چھو (یتھ علاقس ہنرا)

وہ پیر (بوزنہ یوان) -

تہو وونس (اہل) کتھ چھینہ پیر اسی چھ شہ

ہنش (تمہ غذا پچ) خبر ہتھ آہتی ہتھ متعلق

پیم (لوکھ) شک کران رودی ہتی چھ -

تہ اسہ چھینہ ہنی ہنش پڑھ دار خبر ازی ہنر تہ

اسی چھ پڑی ہارک -

او کتی تہ میری ز (ہینیتہ) رات ہند ہتی میر ہیر

(گنہ ساتہ) پتہ ہر ہات ہتھ - تہ (پانہ) رڈرک

ہنن پتہ پتہ تہ توہہ مشن پتہ کاتھہ پوت پتہ پتہ

نظر دیہ تہ پوت گرتھنک توہ ہر حکم دہ یوان

چھو، توہی گرتھی زبو (توہی ساری) -

ہیہ وڈی اسہ تن یہ کتھ پڑھ سان ز پین لوکن

ہندہ مول بن صبح (سپہ و سنے) تہ ہتھ تہ ہنہ -

تہ تمہ شہرک لوکھ آپہ خوشیہ کران کران تن (لوٹس)

ہنش (امہ خیالہ زوہ فی چھ سہ رٹنک موقعہ میولنت

(یتھ پتھ) تمو دہنن، وون (نر) پیم لوکھ چھ

میانی پتہ می - توہی مہ کڑو میہ (تہ پیم کھوڑا وقتہ)

رسوا -

تہ اللہ (تعالیٰ) سہ تقویٰ پرا و تہ میہ مہ کڑو

ذہیل -

جمو وونس اسہ اوسے ناثرینہ پرتھ کاتھ وہ پیرس

إِلَّا أَمْرًا تَهُ قَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ

الْغَابِرِينَ ﴿۵۷﴾

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ بِالْمُرْسَلُونَ ﴿۵۸﴾

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكَرُونَ ﴿۵۹﴾

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ

يَمْتَرُونَ ﴿۶۰﴾

وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصِدْقُونَ ﴿۶۱﴾

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ

أَذْيَابَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَ

امضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۶۲﴾

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ أَنْ

دَايِرَهُمْ هُوَ لَاءَ مَقْطُوعٌ مُّصِيبِينَ ﴿۶۳﴾

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

بِسْتَبْشِرُونَ ﴿۶۴﴾

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صِيفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿۶۵﴾

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَكَانُوا خَٰشِعِينَ ﴿۶۶﴾

قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعُلَمِيَّةِ ﴿۶۷﴾

تو پرس پانس نش روزتہ دینہ استہ منع کورمت۔
تو وونکہ (نر) اگر (میںہ خلاف) توہہ کیہنہ کرنے
آسرو توہہ بیک کہ چھینہ میانہ کور (توہہ منتر یا کور
آمشر بیک چھینہ کافی منمات)۔

(اے سائہ نشبیہ!) چانہ زندہ گی ہنزدہ سب
(نر) بیک (چانہ مخالفت تہ) بھو بے شک (تہندک
پاٹو) پسندہ بدستی منتر گیان۔

اتھ پیٹھ رڈو توہہ (وعدہ والی) عذبن رتم
(یعنی لوط سد قوم) آفتاب کھسہ وٹسے۔

تھ پیٹھ اسر تھہ لبتی تلک پیٹھ کور، تہ جن
پیٹھ وول ڈر ہنر میشر بنے مشرن کنہن ہند
رؤد۔

اتھ (کتھ) منتر چہ زہر کی کھام ہستہ والہن
کتھ بے شک کھو یا نشا تہ۔

تہ سو لبتی (چھینہ کانہہ گنام جاے بلکہ) چھینہ
اگس بچہ پکہ وٹہ و تہ پیٹھ بلہ

اتھ (قبس) منتر چھہ مؤمنن ہند (کایدہ اعطار
بے شک کھ نشان (موجود)۔

بیہ "ایکھ" (والی تہ) آسو پوزی پاٹھو فہلم۔

او کئی وژاو اسر تہمن تہ (تھتھہ پاٹھو سنجت)
سزا تہ بیک وولوسے جایہ، چھینہ اگس (صاف تہ)
ننہ و تہ پیٹھ۔

حجر والہو (تہ) اپڑاوے یہ بلشک (سائی) پیغمبر۔

تہ تہمن (تہ) وژایہ اسر پیٹھ (پر تھہ قہمک) نشا تہ

قَالَ هُوَ لِآءِ بَنِي إِدْرِيسَ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿۱۵﴾

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
يَعْمَهُونَ ﴿۱۶﴾

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿۱۷﴾

فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ حِجَابًا وَمِن سَجْدٍ لِلَّهِ ﴿۱۸﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْتَوَسَّعِينَ ﴿۱۹﴾

وَلَا تَهَاكِبْ سَبِيلَ مُقِيمٍ ﴿۲۰﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْؤْمِنِينَ ﴿۲۱﴾

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ
لظالمين ﴿۲۲﴾

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ
مُّبِينٍ ﴿۲۳﴾

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ
الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۴﴾

وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا

۱۵۔ حضرت لوط ہنزیہ لبتی اس حجاز پیٹھ شام مورہن واجبہ و تہ پیٹھ۔
۱۶۔ ایک کھ چھ ولس ونان۔ حضرت شعیب سد قوم بیک مدینہ نزدیک اگس ولس منتر وژان
اسی۔

مُعْرِضِينَ ﴿۷۰﴾

بے نیکی پہنچ (ولہ) یہ سپردِ رحم سپردِ تمہارے
بجھو پھر۔

وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
أُمْنِينَ ﴿۷۱﴾

یہ اسی تم بان ہند کی کہنے اندر تڑپتے ہیں گھر
امنہ سان بناوان (تہ زندگی گزاروان)۔

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُضِحِينَ ﴿۷۲﴾

تہ صبح سپردوں (ہے) رُڑپ تم تھی (وعدہ اولیٰ)
عذاب۔

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۷۳﴾

یہ یہ (مال) تم سہ نبران اسی تمہی دیت تہ تم
(تہ وزر) کا نہ تہ فایدہ۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ
مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ
لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿۷۴﴾

یہ پھر اسہ آسمان تہ زمین تہ یہ کثیر تھا، تم
دونوں درمیان چھ، پزیرا تہ دانائی) سان پاد
کورمت تہ سہ (وعدہ واجزی) گھر چھین پزیر
پاٹھو پزیر واجزی او کئی آس تہ (تمہنزن زیا آئین
پیٹھ) سہھا معاف کران۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۷۵﴾

بے شک جان پروردگار چھ سہھا پاد کرن وول
(تہ) زبر پاٹھو زنان وول۔

وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْ
قُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۷۶﴾

یہ بھی اسہ تہ بے شک ستھ پھیر پھیر
پزیر تہ پزیر والی (آپ) تہ (سہھا بڈ) عظمت وول
قرآن دیت مت۔

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ
اخْفُضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۷﴾

یہ یہ اسہ تمہو اندر کیشن جمائون (عاشق نھک)
سامانہ دیت مت چھ تھ کن مہ وچھ اچھ پھیر
پھیر تہ تمن (منزرتبا ہی) پیٹھ مہ کھینہ نم
تہ مؤمن پیٹھ تھاو پزیر (شفقتک) آتھو۔
تہ وول یہ پھس اکھ نہ واپہ بیدار کرن وول۔


وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿۷۸﴾

او کئی ز (خدا تعالیٰ چھ ونان تہ) اسہ چھ
تمن (لوکن) ہند خاطر (تہ) عذاب مقرر کر تھ
تھوومت پھو (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم)
تھوومت سارن منزرتبا ہی) ذمہ واپہ باگراو
مشر آسہ۔

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿۷۹﴾

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝	(یعنی) تم (الوگہ) کیجو قرآن اپرن کھنٹ ہنتر (سومیرن) تمھروومت اوس۔
فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝	لہذا چاہنس پروردگار ہنتر درہے۔ اسی ہمو تمن سارنہنے جواب۔
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝	تمن کا ہن منتلق ریم تم کران اسی۔
فَأَصْدَأْ بِمَا تُوْمَرُوْا وَعَرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۝	لہذا ہنیمہ کتھ ہنتر (واتناونگ) تریہ حکم دینو یوان چھے سو ون (لوکن) واتن کڈتھ۔
إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُشْتَهْرِيْنَ ۝	تہ ہین مشرکن (ہنتر کتھ) نیشہ روزاندکن۔ اسی تمھروتھ تہ بے شک ہین مٹھٹھ مخولہ کرن والین (ہنتر شہر) ہنترہ ہچاوتھ۔
الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝	یم اللہ (تعالیٰ) ہس سوتو کہو یا ہیمہ معبود بناولن چھہ او تم کرن عنقریب (تمیک تہ) معلوم۔
وَلَقَدْ تَعَلَّمْ اَنَّكَ يَصِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُوْنَ ۝	ہیمہ چھہ اسی پڑی پاتھو زانان تریہ کینرہا تم دنان چھہ تمہ سوتو چھے تریہ دل تنگ گرتھان۔
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ ۝	لہذا تہ کر پسنس پروردگار ہنتر شکرانہ کران (تہنتر) سبح۔ تہ (تہنڈو) کابل فرما نمبر وارو منز بن!
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۝	ہیمہ روز پسنس پروردگار ہنتر عبادت کران یوتام تریہ موت (ہنک ساعت) ہیمی۔

لہ عام ترجمہ کارو چھہ "عیفین" لفظک ترجمہ "چھلہ چھلہ" کوڑمت مگر لغتس
منز چھہ ایک ترجمہ "اپڑ" تہ میس اسہ اختیار کوڑمت چھہ۔



سورة نحل - یہ سورہ پچھم کی ہے۔ بسم اللہ پہلے پڑھو، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی تعریف کے بعد پڑھو۔

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سدا و ہتھ (پران) یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر کر
رہم کرن وول پچھ۔

(اے منکرو!) اللہ (تعالیٰ) سدا حکم چھ پٹس
تیار اوکھو مہ کرو توہی (وول) امیر کو ورتھ
پیکٹ مطالبہ۔ سہ چھ پاک (ذات) تہ بسمہ
(کچھ) تم (کافر) بشرک متعلق ومان چھ۔ سہ
چھ تمونشہ سبھا تھو۔

سہ چھ ملائین پستہ اسر منکر کلام و تھ پستہ
بدن کن، پن سہ پسند کران چھ، تا زل کران
(تہ پستہ کرن ومان) نہ (لوکھ) کر لوکھ آگاہ نہ
یہیہ کتھ چھینہ درست نہ میہ سوا چھینہ کا نہ تہ
(پوز) معبود، اوکھو توہی بنا وول (مصبو)
پستہ (پستہ) بجاوک نہ لہیہ۔

تمو چھ آسمان تہ زمین پتہ (تہ دانائی) سان
پاد کر کو ہتی (تہ) سہ چھ تہندو بشرکہ بر تہ
خیالو پستہ سبھا تھو۔

تمو چھ انسان اکہ (ادنی) لظہ منکر پاد کر
پتہ چھ سہ (پستہ) پانس تیوت نوڈ زان، ہوان نہ
اسر متعلق چھ) سہ نہ واپ نہ وول گور بان۔

بہ چھن چار یا پاد کر کو ہتی تہ تم چھن تھو
بتا و ہتی نہ من منتر چھ تہند با پتہ و شتیرک
سامانہ۔ بہ چھ (بہ تہ) کو یا نایہ۔ بہ چھو
توہی تہند (یعنی تہند مازک) کہینہ حصہ کھوان۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

اِنِّیْ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ
سُبْحٰنَہٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ①

یُنزِلُ الْمَلٰٓئِکَۃَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِہٖ
عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ اَنْ اَنْزِلُوْا
اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنَ ①

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
تَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ①

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَۃٍ فَاِذَا هُوَ
خَصِیْمٌ مُّبِیْنٌ ①

وَ اَلَا نِعَامَ خَلَقْنَا لَکُمْ فِیْہَا ذُرِّیَّۃً
مِّنْکُمْ وَ مِنْہَا تَاکُلُوْنَ ①

سہ پیر پتہ چرب، والہ تہ لحمیات (PROTEINS) ہم ساری چھ و شتیرک سامان۔

بہ (امہ علاو) بیلیہ توہی تم کاسہ کھیادھ شامن
(پینتین گرن کن) واپس انان چھووکہ بیتھے پاکو
بیلیہ توہی تم صبح پتی کاسہ کھیادھ نہین پتہ
کاسہ چرائن کن) ،وان چھووکہ پتہ متھ منز پتھ
تہند باپتھ زینک پتہ بجرک سامانہ آسان۔

پتہ تم چھ تہند بور تہتھ متھ (دوکس) شہرس
تام پتہ ہتھ گزھان، یوت تام توہی پتی زوسختی
منز تراوتہ ورائی ہیکہ ہو پتہ (سہ) واتنا وتھ
تہند پرور وکار چھ یقینا (توہہ پتھ) جسا
شفقت کرن وول (پتہ) پھیرک پھیرک کرک وول۔
بہ چھ تھو گری پتہ کاتر پتہ خرد پتہ تہنہ سوار
باپتھ پتہ (بہ) شوہر پتہ شاپہ) خاطر (پاؤ
کرو پتہ) پتہ (آئینہ پتہ) کر سہ (تہند خاطر
سوار ہند ہریمانہ سامانہ) پاؤ۔ یک توہی (وتہ)
زانان چھو پتہ۔

بہ چھ (توہہ) دینچ سیور وتھ (ہاؤنی پتہ)
اللہ (تعالیٰ) ہند مہلہ پتہ (امیک ضرورت
چھ اوکونز) ،تمو (دینچ چھو ووت) منز چھ
کیپتہ ہجہ (آسان)۔ وہ فی گوہ ہر گاہ سہ (اللہ
تعالیٰ) پتہ مرضی نافذ کرہے۔ پتہ توہہ
سارنہ دیہے و ہدایتہ۔

سے چھ (اللہ تعالیٰ) سیکو اوہر منز آب ووت
چھوتی منز چھ توہہ چینگ آب پتہ دستیاب سدان
پتہ امی سوتو چھ تم کلہ بیتر (پتہ تیار) سدان
مین منز توہی (چاروائی) کاسہ کھیادھ

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ
حِينَ تَسْرَحُونَ ﴿۱۰﴾

وَتَحْمِيلُ أَثْقَالِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْبِ
إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿۱۱﴾

وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَتَكُونُنَّ هُنَّ
زِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۲﴾

وَعَلَى اللَّهِ قَضُ السَّبِيلِ لَمَّا
جَارُوا، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳﴾

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ
مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تَسْتَمُونَ ﴿۱۴﴾

لہ اتھ ایس منز چھ صاف پاکو ریل، ہوائی جہاز، سمندر کی جہاز پتہ موٹر بیتر سوار پتہ
متعلق پیشگوئی۔ لہ بیتھیا طم اللہ تعالیٰ ہن ذیوی سفر خاطر آسانی ہند۔
سامانہ پاؤ گری ہتھ چھ، بیتھ پاکو چھ رؤحانی سفر خاطر پتہ تمو پتہ ہتھ زمانس منز
انس کتو رؤحانی سامانہ پاؤ گری ہتھ۔

يُثَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالرَّيْثُونَ وَ
التَّخْيِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾

چھو (وگہ)۔
سے چھ تمہ دُسی تہندہ خاطر فصل تہ زیتون
تہ کھجور کئی تہ دھچ تہ (بیس) پرتھ قہیکو مہو
پاؤ کران۔ بہن لوکن ہندہ خاطر چھ اتھ منز
لیتیا اکھ (ٹاکا) ہشانہ (موجود) ، یکم بوزہ

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۸﴾

شوزہ کام ، ہوان چھ۔
بیس چھ تھو راتھ تہ دہہ تہ آفتاب تہ زون تہندہ
خدمتس پیٹھ لاکھتہ تھادو ہوتی۔ بیس (باپتے)
ساری (سیار تہ) تارکھ (تہ) چھ تہندہ تہندہ
خدمتس پیٹھ مقرر۔ یکم لوکھ عقلہ کام ، ہوان چھ
تہندہ خاطر چھ اتھ اندر بے شک کھو یا ہشانہ
(موجود)۔

وَمَا ذَرَأْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۹﴾

بیس یک مختلف قہمن ہندہ چیز تھو تہندہ خاطر
رہسپس اندر پاؤ کرکوتی چھ (اتم ساری چھو
توہر بکار ہوان) بہن (چیزن ہندس پاؤ کرکس)
منز (تہ) چھ بہن لوکن ہندہ خاطر ، بے شک
اکھ نشان (موجود)۔ یکم نصیحت رمان چھو۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَا كُلِّ أُمَّةٍ
لِّحَمَاطٍ رِيًّا وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حَبِيبَةً
تَلْبَسُونَ نَهَاجًا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ
فِيهِ وَتَلْتَبَتُّغُوا مِنْ قَضِيهِ وَكَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿۲۰﴾

تھو چھ سمندر (تہ تہندس) خدمتس پیٹھ لاکھتہ
تھوومت پیٹھ توہی تہہ منز (گاڑ ہند) تازہاز
کھنیو ، تہ بیس کڈو تہہ منز گہنہ (باپتہ سامان
تہ) یکم توہی (لوکھ) لاگان چھو۔ بیس (اسے
مخاطب!) تہ چھاکھ وچھان تھہ منز ناو آب
ترمان (تہ زورسان پکان) یکم او مہ کھ پکان
چھنیہ تہ توہی کرکوتی سمندری سفرط) بیس تھیزن
توہی تہندہ بیس کہنہ فضل (تہ) تھانڈو بیس
پیٹھ توہی (تہند) شکرنہ سبھا اوفو۔

وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ
وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لِّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾

بیس چھ تھو زمینس منز (توورن قائم تھونہ
مہکھ) مضبوط پانژال بناکوتی۔ امیرکزی زرسہ
یتھنہ تہہہ (پسنہ گردشہ ہوتی) چکرس منز
تراوڈو۔ بیس چھ (تھو تہندہ باپتہ) داریاہ

دُریاو (پکٹاوی ہوتی) تہ واراہ (تمشکی) ہستہ
وتہ (تہ بناوی مشر) بیٹھ توہی (سہل پانٹھی
پستہن منزل مقصودن تام) وتھ لبو۔

یہ (چھ امہ علاوہ تمہ) وتہ لبہ خاطر (واراہ تہاہ
تہ (تاقیم کرک ہوتی) تہ تارکو ہند ڈرلیج (تہ) بچھ
تم (لوکھ) وتھ لیان۔

اد (وڈی تو تہ سہی ز) کیا یس پاد کران چھ
سہ بیکیا تس ہیو آہتہ یس (کہنی تہ) پاد چھتہ
کران؟ کیا توہر چھونا تمہ پتہ (تہ) فکر تران؟
یہ اگر توہی اللہ (تعالے) ہند کر احسان گنراوڈی
ہیو تہ توہی بیکو تہ (زاہ) تہند احاطہ کر تھ
اللہ (تعالے) چھ یقینا سہا (ہے) بخت ہار
(تہ) چھہر کہ چھہر کہ رحم کرن وول۔

یہ یہ کینترھا توہی کھان چھو تہ یہ کینترھا
توہی تون کڈان چھو اللہ (تعالے) چھ تہ
(سورے) زانان۔

تہ اللہ (تعالے) ہس وراہی یمن (اپز بن مبولن)
تم ناد کران چھ تم ہسکن تہ کہنی (تہ) پاد
کر تھ (تہ امہ علاوہ چھینہ یہ کہتہ ز) تم چھہ پانہ
پاد کر تہ لیان۔

تم چھ (ساری) مودو، زہد چھینہ تہ تم
چھینہ (ہے تہ) زانان ز (تم) کرین (دوبارہ)
تہ۔

(اوپر تھو زہر پانٹھی یاد ز) تہند مبولو چھ
اکے مبولو تہ یم لوکھ آخرتس پانٹھی اپمان چھینہ
انان۔ تہند دل چھو (پزہر ہنتہ) انزان تہ
تم چھہ کرین کٹم ہسوان۔

یہ چھہ پڑھ لایق کہتہ نو پہ تم ثورہ پانٹھی
کران چھو (تہ) تہ یہ تم شہ وانہ کران چھو (تہ)
چھ اللہ (تعالے) زانان۔ سہ چھینہ کہہ کرن والہن

وَعَلِمْتَ ۙ وَاللَّجِيمُ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۵﴾

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۶﴾

وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۷﴾

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ ۗ وَمَا تُغْلِبُونَ ﴿۱۸﴾

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿۱۹﴾

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ ۗ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿۲۰﴾

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ قَالِذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿۲۱﴾

لَا جَزْمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ ۗ وَمَا يُغْلِبُونَ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿۲۲﴾

ہرگز پیستہ کران۔

ہیہ بیلیہ تمس و نونہ چھ پوان (تر) سہ اکلام) لیس
تہندک پروردگارن نمازل کوزمت چھ کوتاہ (شاندر)
چھ، تہ تم چھ دنان (یہ چھنہ خلیہ سند کلام بکے)
پیم چھ برو تھو ہن لوکن ہندک داستان۔
(امہ دوکھ وہی ہند) نتیجہ سیر پہ نہ تم تن
قیامتر وہ بہ پتو باری تہ پور پور تہ تم ہندک
ہارک تہ ہمیں تم علی بنار حمراہ کران چھ۔ پوزو! لیس
لور تم تلان چھ سہ سبھ ہے ناکار۔

پیم لاکھ تمس برو تھو اسی تھو (تر) اسی (پسنہ
زمانہ کہن پیئین تھلا) تدیر کرک ہوتی۔ نیہ کہی
اللہ (تعالے) تہنزن (تدیرن ہنزن) لرین
ہندین کہن نش (تہند تباہ کرہ نہ خاطر) آو۔
نیہ کہی تہندک پیش چھو کہی تمس پٹھ و تھ آہ
تہ (تند یہ) عذاب آو تمس پٹھ تمہ وتہ یو ہہ
تہ تم زانان اسی۔

پتہ کر سہ قیامتر وہ بہ تمس رسوا تہ و کھ
(نر ووز) کہتہ چھ میانی تم شریک پھند باعشہ
توہی (میانین نبین سستی) عداوت (تہ متر کرک)
تھاوان اسی و (تہ) یمن علم دہن اہت اسی
تم دن (تمہ وز) نہ از چھ کافرن بندتہ یقینا
رسواہی تہ مصیبت (نیہ دول)۔

(تمس کافرن) پھند کرک لاکھیک (عان) تمہ وقتہ
کڈان چھ بیلیہ تم پسنہن نرون پٹھ ظلم کرک
آسان چھو۔ تھہ پٹھ چھو تم (یہ تھہ) صلح
کر وچ کوشش کران (تر) اسی اسی تہ کانہہ
(تہ) ناکارگی ہنر کام کران (ا) ہیہ تمس و نونہ
نہ) تہ پٹھ (چھینہ) نہ (کھتہ) بکے (چھینہ
تھہ برکس تہ یاد تھو) یہ کیشہا توہی کران
اسی تہ چھ اللہ (تعالے) نہ بر پٹھ زانان۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ مَاذَا آتَزَكَلْ رَبُّكُمْ
قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۱

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ بِخَيْرِ
عِلْمِهِمُ الْآسَاءَ مَا يَزُرُونَ ۝۱۲

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ
بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۳

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ
أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ
تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ، قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْحِلْمَانَ الْخَزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى
الْكُفْرِينَ ۝۱۴

الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي
أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلْمَ مَا كُنَّا نَحْمَلُ
مِنْ سُوءِهِ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۵

لہذا سپرو توہی (ووڈی) جہنم کی دروازو کنو
تھ اندر ہمیشہ خاطر بھکا نہ بناوان دا نخل۔ مکیا ز
کبر کرن والین ہند بھکا نہ چھ سپٹہ ہے پچھ آسان۔
بیہ (سیلہ) بہن لوکن پچھ تقویٰ پروومت چھ
ونہ آونر تہندک پروردگارن کوتاہ (شاندار کلام)
چھ نازل کورمت دتہ، پتو وون (او او، کوتاہ)
بہترین (کلام چھ)۔ بیو نیو کاری (ہنر و تھ)
پراو تہند خاطر چھ بیہ ڈو نیس مشر (تہ) جانر
(مقدر) تہ آخر تک گہر (تہ) آسہ (تہند با پتھ)
بیہ ہن ترزت۔ تہ تقویٰ پراون والین ہند گہر
چھ یقینا سپٹہ ہے، رت (آسان)۔

(سہ گہر چھ) ہمیشہ روز نہ خاطر باغات کین مشر
تم دا نخل سپرن۔ بہن (باغن) بونی گتو آسن نہر
پکان۔ بہن (باغن) اندر یہ کثیر ہا تم پیشتر ہن تہ سبہ
بہن۔ (یاد تھادو) تقویٰ پراون والین چھ اللہ
(تعالے) بیتھے پانگو جزا دوان روزان۔

(تم متقی) بہن ہندک رُوح ملو یک قبض کران چھ
تھ حالتس مشر نہ تم آسن پاک دل، (یہ) و نان
ذنان تہند با پتھ چھ (ووڈی) سلامتی (سہ)
سلامتی، پسندو نیک (ملو بدلہ اُتو توہی) (ووڈی)
جنس مشر۔

ہم (کافر لوکھ) کتھ کتھ چھ امر ورا ی پیارن؟ نہ
ملو یک بہن بہن (آسمانی عذاب ہتھ) یا چائس
پروردگار شد (فصلہ کرون) حکم یہیہ۔ بیتھے پانگو
تھو لوکو کورمت ہم بہن برو تھ اسی تہ اللہ (تعالے)
ہن اوس نہ بہن پیٹھ کانہہ ظلم کورمت بلکہ ہم
اسی (پانے) پسین ترون پیٹھ ظلم کران۔

لہذا تہنزن عملن ہندک سزین رُت تم تہ تھ (عذاب)
چھ خیر پیٹھ (تم خند کران اسی تم و لو تم (تہ)
کرن تباہ)۔

فَاذْخُلُوا الْاَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكْبِرِينَ ﴿۵۰﴾

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ
رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ
أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ
وَلَنَعَمَ دَارُ
الْمُتَّقِينَ ﴿۵۱﴾

جَنَّتْ عَذِبٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿۵۲﴾

الَّذِينَ تَتَوَقَّأُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ إِذْ خَلُّوا
الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ
الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ
كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۵۴﴾

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا
وَإِذَا حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۵۵﴾

بہ یہو لؤکو بشرک (اختیار) کور تمو چھ (بیتہ) وکومت
 ز امر اللہ (تعالے ہی) بیترتھ ہے (تس وراہی
 مہ بین کالنبہ ہنر عبادت کرنہ) تہ نہ کر ہو اوس
 تس وراہی کرہ چیز بیج عبادت تہ نہ کرنہ سانی
 جدا جلد، بیتھ کئی تہ نے کر ہون اسی تہ نہ فرماہنہ
 وراہی کانہہ چیز (پانی پانے) حرام۔ یکم (لؤکھ)
 یکم بروٹھ (پنر کر دشمن) اسی تمو (تہ) اوس
 یہی کومت۔ کیا سنا (یکم) چھنا یوت تہ سو جان تہ
 پیغمبرن پیٹھ (خدا یہ سندر پیغام) واتناونہ وراہی۔

کیا قرہ واری چھینہ؟

بہ یہ چھ اسہ پر تھہ کوس منتر (کانہہ نہہ کانہہ)
 پیغمبر (یہ حکم دتھ) سوزمت ز (اسے لؤکوا)
 توہی کرہ اللہ (تعالے) ہنر عبادت تہ پر تھہ حد
 نیرن اوس ہنر روزو دور، اتھہ پیٹھ سپر
 تمو اندر کینہہ تھو (بر تہ ثابت) ز ہنر (بیت
 اللہ (تعالے) ہنر ہایت تہ کینہہ تھو ز ہنر پیٹھ
 سپر ہاکت لازم۔ لہذا توہی چھو (سار کر ہے)
 نکاس تہ وچھو ز (نسیین) اپزاون والہن ہند
 انجام کیتھ اوس سہرت۔

(اسے پیغمبر) اگر تر بین لؤکن، ہندہ صلا بیج
 سپٹھا توہش تھوان چھک۔ تہ (زان ز) یکم لؤکھ
 زانہہ مانہہ بین) گراہ کن آسن ہنر چھتہ اللہ
 (تعالے) ہرگز ہایت دوان تہ نہ چھ تہند کانہہ
 مدوکار آسان۔

بہ یہ چھ تمو اللہ (تعالے) ہندہ سپٹھا زور دار
 قسم کرہ ہتو ز، یس مسر، اللہ (تعالے) کرہ تہ تس
 (بیتہ زاہ) زہند۔ (مگر حقیقت) چھنہ بیچھیا ٹھو۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
 عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا
 آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ
 كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۳۱﴾

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ
 اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ
 فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ
 حَقَّقْنَا عَلَيْهِ الضَّلَالَةَ ۗ فَسِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿۳۲﴾

إِنْ تَخْرُسْ عَلَى هُدْيِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا
 يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ
 نَصِيرِينَ ﴿۳۳﴾

وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا
 يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِهِمْ بَلِيًّا وَعَدَا
 عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

لہ طاغوت، امام رعب اصغہاں یہو لیکھاں زہ عربی زبانی مشرق چھ طاغوت نیتو مچھیں
 تہ تس شخصس ومان یس لؤکن نیکی ہنر و تہ لیتہ ڈالہ۔

يَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

بہ چھ (اکھ تیتھ) وعلہ سیمیک (یعنے پور کرنک) سہ (اللہ تعالیٰ) فرہہ وار چھ۔ اماہ پوز واریاہ لؤکھ چھنہ (بہ حقیقت) زانان۔

(بہ دُبار ترنگ آسہ اوکتر) تیتھ سہ بہن پیٹھ سہ (پرز) نون کڈ تیتھ مفر تم (از) اختلاف کران چھ تہ بیو کفر (کرنک طریقہ) پرومٹ چھ۔ بہن سپہ معلوم، تر تم آسہ اپز یاد۔

کرتہ (تتس) چیزس متعلق سیمیک (یعنے کرنک) آسہ (اد کزو) ساڈی کام چھیدہ صرف یہ آسان تر آسہ چھ تھ متعلق ونان تر "سپد" تہ چھ سہ سپان۔

بہ بیو لؤکو اللہ (تعالیٰ) بند خاطر ہجرت کرتہ پتہ تر بہن پیٹھ او ظلم کرتہ، (اسہ چھ پسنہ) ڈانک قسم تر) آسہ دمو بہن ضرور وڈی مہن مفر برتر جماعے تہ آخر تک اجر (تہ) آسہ بہہ ہن تہ (سپٹھا) بوڈ۔ کاش بکم (میکر) زانہ ہن (بہ حقیقت)۔

بیم (ظلمک نشا تہ پتھ تہ) ثبات قدم رُود تہ (بیم پر تھ ساعتہ) پینس پرور وکارس پیٹھ بھروہ کران چھ۔

بہ آسہ آسہ تریہ برو تھ (تہ ہمیشہ) مردے پینمبر بناوتھ سوزان (تہ) آسہ آسہ بہن کن وحی کران۔ تہ (اسے منکرو) اگر توہی (بہ حقیقت) زانان چھو تہ۔ تیلہ اسہ (اللہ تعالیٰ) بند سوز کرتہ ذکر (کہن مانن) واسلہ پر تھو (تیتھ تو بہ اصلیت معلوم سپدو)۔

(اسہ آسہ تم) گاتری نشا تہ تہ (الہامی) تحریر و تھ (سوزی ہتی) بہ چھ تریہ پیٹھ اسہ بہ (کامل) ذکر تازل کوزمت تیتھ زن تہ سارہنے لؤکن سہ (الہی فرمان) واش کڈ تھ ویکھ یس (چاہہ دسی) جس کن تازل کرتہ آمت چھ۔ تہ تیتھ زن تم (تھ پیٹھ) سرن سوچن۔

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَ
لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا
كٰذِبِينَ ﴿۱۷﴾

لَمَّا قَوْلَنَا لَشَيْءٍ إِذَا آذَنَهُ أَنْ
تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۷﴾

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً ۗ وَ لَنَجْزِيَنَّ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ ۚ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ﴿۱۹﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي
إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿۲۰﴾

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
ۚ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾

بیم لولہ (ثریہ خلاف) ناکار تہ سیر کران آہو چھ
 اور تم جیسا امر کتھ نیش امنس مفر زہ اللہ تعالیٰ
 کر تم نیتھ مکلس مفر (ہے) ذلیل (تہ رسوا)
 یا سہ عذاب (پینچ خبر دہ آہتر چھینہ) بیہ تم (تہ)
 و تہ ایہ سہ نہ تم زانے آس؟

یا کر سہ تم تہ بندن سقرن مفر تباہ، لہذا (تم)
 تھولن یاد نہ (تم لین نہ) مرگز اللہ تعالیٰ ہس
 یہ کتھ بلور کر نہ نشہ) عاجز۔

یا کر سہ تم ہن ہنہ جھوڑی راولہ ہلاک تیکیا تہ بند
 پروردگار چھ پڑ کر پاطو (مؤمن پیچہ) سہا
 (ہے) شفقت کرن وول (تہ) پھیر کر چھ کر تم کرن
 وول۔

تہ کیا امر باوجود نہ تم چھ ذلیل سپان تہ اللہ
 (تعالیٰ) ہس برو تھ کتھ (عاجزی سان) نمان
 تم و جھنا (زہ تہ) یہ کینرھا اللہ تعالیٰ ہن
 (تہ بند باپتھ) پاد کورمت چھ تہ بندن ترھا یہ چھینہ
 ڈھن کو تہ کھو ورو طر کو کتھ تہ اور یور مرشان
 (لہذا پتھ پاطو بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ
 سایہ) تہ کافر روزن ذلیل گر تھتھ۔

بیہ یہ کینرھا تہ) آسمان مفر چھ تہ (بیہ) برانز
 پیچہ یوسہ تہ زو ذات (موجود) چھینہ۔ تہ (ساری) ٹوک
 تہ چھ اللہ تعالیٰ) بندس دربارس مفر تھتھ
 روزان تہ تم چھتہ بجر باوان۔

تم چھ پتس پروردگارس کھو تہ تہ روزان یس
 تم ن پیچہ غالب چھ۔ تہ تہ تہ کتھ ہنہ تم حکم
 دہ پوان چھ (نی) چھ تم کران۔

بیہ چھ اللہ تعالیٰ) ہن ہمیشہ پر تھ قومس
 (بی) فر موست (نہ) تو ہوسہ بتا و نہ نہ نہ نہ نہ
 سہ (یعنی معبود برحق تہ) چھ اکے۔ لہذا تو ہوس
 (کھوڑو) یسہ بیہ (چھسو بہ تو بہ زمان نہ) یسہ

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ
 يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ
 الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۶﴾

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِيلِهِمْ فَمَا هُمْ
 بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۷﴾

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ
 لَكَرِيمٌ ﴿۱۸﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ
 يَتَفَيَّؤُا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ
 سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿۱۹﴾

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا
 يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۲۰﴾

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ
 مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۲۱﴾

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ
 إِنَّمَا هُوَ إِلٰهُ الْوَاحِدِ قَائِلًا
 فَازْهَبُونَ ﴿۲۲﴾

کھڑو۔

یہ یہ کینٹھا (تہ) آسمان تہ زمیں تہ منہ (توہو) چھ۔ (تہ) سوکے چھ تسنیرے بلکیت، تہ اطاعت چھ یہ ہمیشہ تہ دے حق، تہ کیا توہی چھوا اللہ (تعالیٰ) ہس ورائی، بین، مستین پستہ بجاوک ڈرلیہ بناوان؛ بیہ بلوہہ نعمت تہ توہیہ سوتو سوتو چھو سوچو اللہ (تعالیٰ) ہندی طرفہ۔ اڈ نیلہ توہیہ (کاٹہ نکل تہ) تکلیف وائن چھو۔ تہ (تہ ورتہ) چھو توہیہ تہذکر ہے دربارس مغز فریاد کران۔

اڈ نیلہ تہ تکلیف وور کران چھو تہ توہیہ منہ چھ کینٹہ لوکھ اتھہ چینی (بین) پینس پروردگار سہ شریک بناوان ہوان۔

نتیجہ چھ یہ سپلان نہ یہ کینٹھا اسہ اتھہ دیت تہ چھ تم چھ تہہ انکار کران۔ اچھا! توہیہ بلو عارضی (تہ وقتی سامان) قایدہ تہ توہیہ کرو (امیک انجام تہ) جلد معلوم۔

تہ یہ کینٹھا اسہ اتھہ دیت مت چھ تہ منہ چھ تم اکھ حصہ (پیننہن) اتھہ (اپزہن معبودن) ہندہ خاطر الگ تعاولن، بین (ہندس اصلیتس) متعلق تہ (کینٹی) علم چھ تہ تعاولن۔ اللہ (تعالیٰ) منہ درے! یہ کینٹھا توہیہ (اپزہن کام ہوتہ) پانس نش وایران روڈی ہوتہ چھو۔ تہہ نسبت اسہ (اکر دوہہ) توہیہ بے شک پرتھہ گار۔

بیہ چھ تم اللہ (تعالیٰ) ہس کن کور منسوب کران (یاد تھو) تہ چھ (یترہو کھو تہ) پاک تہ (متبریح کتھ چھ یہ نہ) اتھہ تہ کینٹھا حاصل ہے تم یہ پرتھان چھ (یعنی پیڑی) تہ (اتھہ مقابل چھ تہ تہد حال یہ نہ) نیلہ تو منہ

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ
الَّذِينَ وَاَصْبَادًا فَخَيْرًا لِّلّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿۳۷﴾

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نُّعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ اِذَا
مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَاَلَيْسَ تَجْحُرُوْنَ ﴿۳۸﴾

ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضَّرَّ عَنْكُمْ اِذَا
قَرِيْبٌ مِّنْكُمْ يَدْرِىْهُمْ اِيْسْرَ كُوْنَ ﴿۳۹﴾

لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ فَتَمَتَّعُوْا
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۰﴾

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا
رَزَقْنٰهُمْ تَا لَلّٰهُ لَتَشْعَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ
تَفْتَرُوْنَ ﴿۴۱﴾

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهُ
وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ ﴿۴۲﴾

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ

(یہ) تر تہندِ خاطر چھ (جہنمک) نار (مقدر) بیہ
یہ در تم بین (تھہ مغز) تراویہ -

اللہ (تعالیٰ) ہنتر دے! اسے اسی تر یہ بروقت
سارے امتن کُن رسول سوزی ہتی۔ پتہ تاوکوتن
شیطان تہند کی (ہر) اعمال شوہ دار کڑتھ۔ لہذا
از پھو سے تہند و آلی (ہنہ موت) تہ (تم چھ تہس
پتہ پتہ پکان) تہند خاطر چھ اکھ (دگر دار)
غذاب (مقدر)۔

بیہ چھینہ اسے یہ کتاب تر یہ پیٹھ اوے تا دل کر ہنتر
تر نیقہ کتھ نسبت رتھو (پانہ و آفر) اختلاف (پاؤ)
کورمت چھ، پتھ (اول حقیقت کرکھ تر امتن پیٹھ)
رفون۔ بیہ (متر پھ) بیک (تھہ پیٹھ) اہسان ان
تہند خاطر آسہ یہ کتاب ہدایت تہ رحمت (بہم
کرن واجوز)۔

بیہ وول اللہ (تعالیٰ) ہنہ آسمانہ پیٹھ آب، تہ
تہ کہ ذریعہ کوزن مہر تھ گرشنہ پتہ زمین (نوسہ)
زہر۔ بیک لوکھ (پنر کتھ) بوران (تہ سو قبول
کر تہ خاطر تیار آسان) چھ۔ تہند خاطر چھ لہینا
تھہ اندر اکھ (سہٹھا بوڈ) نشان (موجود)۔

بیہ چھ تہند خاطر چھ چار پانہ اندر (تہ) بلا شک
نہت رٹیک ذریعہ (موجود)۔ (کیا توہی چھونا
و پھان تر) یہ کینر شا تہند ہن شکمن مشن
(گنہ ہنتر بڑتھ) آسان چھ تہہ مزینے گہہ تہ
رتہ مشنر باگ چھ اسی تہند چہتہ خاطر (پاک تہ)
صاف و وہ توہہ (بہم کڑتھ) دوان۔ لیس چہہنہ
والہن ہنہ ہاتھہ مسز دار (تہ) سہل پاٹھ ہنر و سن
لاہق (آسان) چھ۔

بیہ چھو توہی کھنرن تہ وچن شراب (تہ اہنادن
بیہ رت رزق) تہ حاسل کران) بیک لوکھ عقلم نام
ہوان چھ۔ تہند خاطر چھ اتھ مشن بے شک اکھ
(بوڈ) نشانہ موجود۔

تَالِيهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
فَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمٰلَهُمْ فَهُوَ
وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۷﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ إِلَّا
لِتَّبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَ
هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۸﴾

وَ اِنَّهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْبَا بِهٖ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿۳۹﴾

وَ اِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ
نُسِقَتْ لَكُمْ مَعًا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ
فَرْثٍ وَ دَوِّ لَبَنًا خَالِصًا سَابِغًا
لِّلشَّرْبِ اِنَّ ۙ ﴿۴۰﴾

وَ مِنْ ثَمَرٰتِ النَّخْلِ وَ الْاَعْنَابِ
تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿۴۱﴾

بہ کر چاڑی پر در و گارن ما پٹھ سکر کن موی نہ تر
 بناو (پتھر) گہر (لیسنے گھن) پہاڑن مغز تہ کھن
 پٹھ بہن مغز سیم (لوکھ دچھ کچن بیتر کتو)
 ڈکھی بناوان چھ۔

پتھر کھین پرتھہ قسمہ کہو ہونو مشنر (کم کم ہتھ) تہ
 پسنس رہہ بندن (وڈو مہ تہن) طریقن پٹھ کچھ
 سیم (چانہ خاطر) سہل (کرہ آہتو) چھ تہن (کرکن)
 ہند بوش کمو اندر چھو (تہند) چہنگ اھ چہر (انچھ)
 نیران یس مختلف رنگن ہند آسان چھ (تہ) تہتھ
 مغز چھ لوکھ ہند خاطر شفا (دکھ تاثیر تھون آہ)
 سیم لوکھ سوچس (تہ سمجس) کام ہوان چھ تہتہ
 خاطر چھ اتھ مغز کھی یا نشان (موجود)۔

بہ اللہ (تعالیٰ) سنبے چھو تو ہی یاد کرکے دتو تو
 پتھر چھ مئے تہند کہ روح قبض کران تہ تو بہ مغز
 چھ کھینہ (الناس) تھو تہ آسان نہ تم چھ عمر
 ہندس سبھا نا کار حالتس کن ہنہ ہوان۔ نیسہ کتو
 تم علمہ (وڈا آسنہ) پتھر (بہن) بے علم چھ
 سیدک۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک۔ سبھا زان
 دول (تہ) پر ہتھ کتو کتھ پٹھ (پڑا) پڑ تو درت
 تھوان۔

بہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہن تو بہ مشنر کینشن کینتو کھوتہ
 برزق مشنر ہر بر دتیت تہ بین لوکن فضیلت
 دنہ آہنر چھینہ تم چھینہ پین (اتھس مشنر آہت)
 برزق (کتو صورت مشنر) اتھن کن واپس دنس
 تیار بین پٹھ تہند ڈچھو اتھ تا بین چھ، نیسک
 نتیجہ یہ آسہا نہ تم سپد ہن اتھ مشنر برابر اتھ
 وار۔ اڈ کیا تم چھا (یہ حقیقت زانہ باوجود)

اللہ (تعالیٰ) ہنر نعمت ہند انکار کران ؟
 بہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہن تہند خاطر تو بہ مشنر
 لیسنے تہندی ہو کہ جذبات تھون واجہہ (آسنہ)

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي
 مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
 يَعْرِشُونَ ﴿۱۶﴾

ثُمَّ كَلِمَ مِنْ كُلِّ النَّمَلِ فَاذْهَبِي
 سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا
 شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ
 لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ تَارَةً
 مِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَذًىٰ لِّلْعُمُرِ لِيَكِي
 لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عَلِيمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿۱۵﴾

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي
 الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي
 رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
 فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ
 يَجْحَدُونَ ﴿۱۶﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَ

بتاؤ مشر تہ تمو چھ تہنن آہنن انش تہنن
عاطر نیچو کر تہ زرو پاؤ کر کو ہو۔ تہ تمو چھ توہ
ساروہے (تسمہ کہو) پیا کپڑ چپو مشر رزق بخت
کیا توہ (تہ) انہ نا تم اہس ہلاک پدن و اہس
چہنن پیٹھ ایمان تہ اللہ (تعالے) ہنن نعمتن
کرن تم ہلاک!

بہ چھ تم اللہ (تعالے) تراوتھ تعین و ہون ہن
عبادت کران۔ ہم آسمان تہ زمین مشر جن کیہنہ
تہ ونگ کانہہ اختیار چہتہ تھاوان تہ نہ ہوکن تھاوتھ
(لہذا اے مشر کو!) اللہ (تعالے) ہس متعلق ہن
بتاؤ (توہی پانی پانے) کہتہ۔ اللہ (تعالے) چھ
بے شک (سوئے کیہنہ) زانان تہ توہی چہو کر کوہن
(زانان۔

اللہ (تعالے) چھ (توہ فکر تار تہ موکہ) اہس تقس
ہن ہنن حالت بیان کران ایس علم آسہ (تہ) ایس
کہتہ کہتہ ہنن (تہ) طاقت (تہ) اختیار آسہ تہ
تھاوان۔ تہ ایس مقابلہ تس ہنن حالت تہ ایس
اہن ہنن طرفہ جان رزق و کیمت آسہ تہ سہ آسہ ہنن
پوشید پانہ (تہ) شہ واپہ (تہ) سارہ و تہ مشر
خرچ کران۔ کیا تم دولہے (تہ) کو بند ہکنا
ہوئی آسہ؟ (ہرگز نہ) پر چھ تعریف حق دار
چھ اللہ (تعالے) ہے۔ مگر تمو ہنن چہنہ وایاہ
(لوکہ) زانان۔

بہ چھ اللہ (تعالے) دوان بین شخصن ہنن حالت
(تہ) بیان کران۔ بین مشر اکھ (تہ) آسہ کول ایس
کہتہ کہتہ ہنن طاقت آسہ نہ تھاوان تہ سہ آسہ
پہنن اہس پیٹھ بے فایدہ بور۔ یوکن تہ اللہ
آخہ (تہ) سوز (سہ) کانہہ جانہرا نہ نہ (زہنہ)
(لہذا) سہ (شخصن) تہ بیاکھ شخصن ایس انصاف
کرنت حکم دوان آسہ تہ بہ آسہ سینر و تہ پیٹھ

حَفَدَةً وَ رَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ
أَفِيَا لِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ
هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿۱۴﴾

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ
لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
شَيْئًا وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۱۴﴾

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْاَمْثَالَ ۗ اِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبِدًا مَّمْلُوكًا لَا
يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَ مِّن رَّزْقِنَا مَنَارًا لُّقًا
حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرًا ۗ
هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ
اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا
أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلَىٰ
مَوْلَاهُ ۗ اَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ
هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۗ
وَ هُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۴﴾

سامان تہ اُکس وقتس تمام عارضی سامان (بناؤنگی ذریعہ بناؤنگی ہوتی)۔

تہ اللہ (تعالیٰ) ہن یہ کیشترھا پاد کورمت چھ تھہ مفر چھ تھو کھو یا سایہ ورنہ وادی چیز بناؤنگی ہوتی (ہین تل توہی آرام لبان چھو) بیہ چھن پہان منز (تہ) توہہ کرتہ پہنہ وچہہ بھاپہ بناؤنگی مشر۔ بیہ تمہ علاؤ چھ تھو تھہندہ ٹاٹھہ کھو یا توہہ چھ کرتہ بناؤنگی مشر ہم توہہ گرمی (تہ سردی) نشہ بچاوان چھینو تہ کیشہ کرتہ (یعنے زرہ) چھینہ ترشہ ہم توہہ تھہندہ (پانہ وادی) جنگہ (چہہ سختی) نشہ بچاوان چھو۔ بیہ پانہ چھو سہ توہہ پیٹھ یین (رؤٹانی) انعام (تہ) پلوہ کران تھہ دن توہی (تہندی) کابل فرمانبردار ہون۔

لہذا اگر تم (ووڈ تہ) چھیرن تہ (اسے نبی) تمہ کہ باعشہ پیہ نہ تریہ پیٹھ الزام بکلیاز) چانہ زمہ چھہ صرف واش کڈتھہ واتناؤن۔

تم چھ اللہ (تعالیٰ) سہ (یہ) انعام (زر پانہ) پر بزناوان۔ مگر توہہ چھ تھیک انکار کران تہ تمن اندر چھہ واریاہ پکھ کاہر۔

بیہ (سہ) وہہ تہ کٹرو یاد (ہینہ) وہہ اسی پرچھہ اکہ قومہ منز (اکہ) اکھ گواہ استاد کرون۔ پتہ پیہ تہ (تمہ) وقہہ (تمن) لوکن بیو کھڑا کرانک طرفیہ) پروومت چھہ (معانی یا تلافی ہند) اجازت ورنہ تہ نہ پیہ تھہندہ کانہہ عذر قبول کرتہ۔

بیہ بیو لوکو ظلم (کرانک طرفیہ اختیار) کورمت چھہ تم ییلہ سہ (ووہ ورنہ آمت) عذاب وچھن۔ تہ نہ (تہ) پیہ (تمہ) وقہہ (سہ) عذاب (تمن) نشہ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ضَلٰلًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابٍ مِّمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ فَاسْرَابٍ يُدْعٰى بِهَا سَرَابٍ لِّئَلَّا تُغۡرِبُوۡا فِيۡ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِّنۡۢ بَرۡئٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۳۷﴾

فَاِنْ تَوَلَّوۡا فَاِنَّمَّا عَلَيْنَاكَ الْبَلٰغُ الْمُبِينُ ﴿۳۸﴾

يَعْرِفُوۡنَ نِعۡمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنۡكِرُوۡنَهَا وَاَكۡثَرُوۡهُمُ الْكٰفِرُوۡنَ ﴿۳۹﴾

وَيَوْمَ نَبۡعَثُ مِنۡ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤۡدُّنَ لِلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَّلَا هُمۡ يُسۡتَعۡتَبُوۡنَ ﴿۴۰﴾

وَإِذَا رَأٰٓءُ الْاٰلِزِيۡنَ ظَلَمُوۡا الْعٰذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَّلَا هُمۡ يُنظَرُوۡنَ ﴿۴۱﴾

۱۔ بیٹھ آیس منز چھ صرف گرمی ہند ذکر مگر عربی قیادہ مطابق چھہ بیعتس موقس پیٹھ مقابلک چیز محذوف آسان (بحر محیط جلد ۵ صفحہ ۵۲۲)

کم کرنے تہ تہ پیسہ تمہن موہلت (سہ) دہے۔
 بیہ بیو لوگو (اللہ تعالیٰ ہندک) شرک بٹاؤ
 موتی چھ۔ سلیہ تم پینو (بٹاؤ موتی) شرک چھین
 تہ ون (ز) سانہ پرور و کار! ہم چھ سٹا (بٹاؤ
 موتی) شرک۔ یمن اسی تہ تہ آوتھ آلو دوان
 اسی۔ یقہ پچھ تم (بٹاؤ موتی شرک جلدی
 سان) تمہن ون (ز) توہی چھو بشیک اپڑا کر۔
 تہ تمہ وہ ہہ کرن تم (فالم اول اول) اللہ
 (تعالیٰ) ہس برونیو کنہ (پستہ) اطا فکک
 اظہار تہ تہ (سورے کیہن) یہ تم پانے دایران
 اسی، گڑھ تمہن (ہندو ڈہہنو) نشہ غاب
 بیو لوگو (پانہ تہ) کھڑ (کنک طریقہ) پرور
 چھ تہ اللہ (تعالیٰ) سنزوتہ نشہ چھکھ (بیہ
 لوکھ تہ) پچھ رڈ موتی۔ تمہن دمو اسی تمہ عذاب
 نشہ کھتہ ہئو بیاکھ عذاب۔ تیکیا زہ تم اسی
 (ہمیشہ) فساد (کر و پچھ کامہ) کران۔

بیہ (گرو سہ وہ تہ یاد) بیہ وہ ہہ اسی پچھ
 قوس اندر تمہن خلاف تمہے اندر اکھ گواہ
 استاد کرون تہ (اسے رول!) تہ اوتھ اسی یمن
 (سار نے) خلاف گواہ بناوتھ۔ تہ اسہ چھ یہ کتاب
 پر پچھ کا شہد کتھ واش کڈتھ بیان کرنہ خاطر تہ
 (سار نے) لوکن ہنر) رہنما خاطر تہ (تمہن پچھ)
 رحمت کرنہ تہ کابل فرمانبرداری پاناون والہن
 نحو شجری دہہ خاطر تہ پچھ تازل کر مہتر۔

بے شک اللہ (تعالیٰ) چھ عدک تہ احسانک
 تو (ہم) تہ آشناو چھ تم تہ (پستہن آشناون
 ہندک پاٹھو (زانک تہ) تتھے پاٹھو مدد) دیک
 محکم دوان، تہ (پر پچھ کتہ قسمہ پیر) بے حیائی
 تہ ناپست کتھو تہ بغاوتہ نشہ چھ پچھ رٹان۔
 سہ چھو توہر نصیحت کران یقہ زن توہر فکر ترو۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ
 قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُ نَا الَّذِينَ
 كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ۚ قَالِقُوا
 لِيَهُمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٥٠﴾

وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ بِالسَّلَامِ ۗ
 صَلَّى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴿٥١﴾

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ
 بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٥٢﴾

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
 عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ
 شَهِيدًا عَلٰ هَؤُلَاءِ وَتَرٰ لَنَا عَلَيْكَ
 الْكِتَابَ بَيِّنَاتًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَ
 رَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ۗ
 وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٤﴾

بیمہ (پینز و توہمہ زہ) اللہ (تعالیٰ) مسد (یعنی تس
سری کورنٹ پنن) و عہد قرار کرلو پلور۔ بیلیہ توہمہ
(تس ستری کاشہ) و عہد قرار کورنٹ آسرو، بیمہ قسم
مہ پھٹرا دو، تم پلو ختہ کرنہ پتہ بیلیہ توہمہ اللہ (تعالیٰ)
سنز درہے کر تھہ سہ (پنن ضامن بنومت چھو،
یہ کینٹھا توہمی کران چھو اللہ (تعالیٰ) پتھہ تہ پے ٹنک
زاناں۔

بیمہ تس زنا تہ ہوو مہ بنو بیلیہ پنن کتو مہ تس
دھرس سہ دور گزھنہ پتہ خٹھہ رتہ ہر تہ
کورنٹ اوس (پتہ پٹھو زہ) توہمی پتاوو پینز قسم
فریہ کہ ذلیعہ پانہ واڈی رسوخ براونک ذلیعہ
امر خوفہ زہ کاشہ قوم بیمہ کاشہ بیلیہ توہمہ مق بلہ
جاو طا قنور بنہ۔ اللہ (تعالیٰ) تہ چھہ صرف
وڈی کین توہمہ یمن دھامن) ہند ذلیعہ آز ماوان
تہ قیا مہر دوہہ کڈر تھن کسٹن ہنز سارہے
حقیقت توہمہ پتھہ ضررہ واش کڈر تہ سوز۔ یمن
متعلق توہمی پانہ واڈی اختلاف کران آسرو۔
ہر گاہ اللہ (تعالیٰ) پننی مرضی جاری کرہے تہ سہ
بناوہے توہمہ (سارہے) اکے جماعت مگر (سہ
چھہ تہ کران بلکہ) یس شخص (دھمراہی) بیترھان
چھہ تس چھہ سہ عمرہ کران تہ یس (ہدایت) بیترھان
چھہ تس چھہ سہ ہدایت ووان تہ توہمی یہ کینٹھا
کران روزان چھو تھہ متعلق بیو توہمہ (قیامتہ) پتھہ

پتھہ

بیمہ مہ بناو توہمی پینز قسم پانہ واڈی فریک ذلیعہ
نہہ ڈلرو (توہمہ) کھور تہ پتہ زہ آسہ (پلور)
معنوطی سان) درلومت تہ توہمی وچھو بیچھہ انجم۔
یکیا ز توہمہ رڈی و (پتہ پٹھو ہاتھ لکھ تہ) اللہ
(تعالیٰ) ہنز و تہ نشہ پتھہ۔ تہ توہمہ پتھہ سپد
اکھ ہوڈ عذاب (تاریل)۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذْ أَخَا هَذَا تَمْ وَ
لَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۷﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غَزْلَهُمَا مِنْ
بَعْدِ قُوَّةِ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ إيمَانَكُمْ
دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى
مِنْ أُمَّةٍ إِنْ مَا يُبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ د
كَيْبِتَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ﴿۷﴾

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ
لَكِنْ يَفْضَلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَلَتَسْلُتَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۷﴾

وَلَا تَتَّخِذُوا إيمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ
فَتَزَلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا
الشَّوَاءَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۷﴾

بیمہ ٹرولڈ تو ہی اللہ (تعالیٰ) بندہ (یعنی جس سے سزا
کڑی متی) وعدہ قرار کر بدلہ اونے (تو کے ہوا) مول
(یعنی کے لون وول چیز) اگر تو بہ عقل چھو تیلہ تر کر
تو فکر نہ یہ کینٹھا اللہ (تعالیٰ) ہس نش چھ تہ
چھ تہ بندہ خاطر بے شک (تمہ کھوتہ کتہ کور) جان۔
یہ کینٹھا تو بہ نش چھ تہ موکلہ تہ یہ کینٹھا اللہ
(تعالیٰ) ہس نش چھ تہ چھ ہمیشہ روزن وول۔
تہ (اسہ چھ پسنہ ڈانک قسم تر) بیم لوکھ
شابت قدم روڈی ہو چھ اُسو دیو متن بے شک
تہ ہنزو بہترین عملو مطابق (تہ ہنزو سارہ صالح
عملن ہند) بدلہ۔

یس کا فرشا مؤمن آسنہ کس حالتس منزنیک تہ
مناسب حال عملہ کر، مرد اُسوتن یازنان، اُسو
کرو بے شک تن اھ شوئر زندگی عطا۔ تہ اُسو دیو
جمن (سارہ نے لوکن) تہ ہنزو بہترین عملو مطابق
(تہ ہنزو سارہ صالح عملن ہند) بدلہ۔

(اے مخاطب!) سلیبہ تہ قرآن پرن ہیکھ تہ مردود
شیطانس (یعنی تہ بندہ شہر) رتہ (بچھ روزنہ خاطر)
شنگو تر تہ (ہمیشہ) اللہ (تعالیٰ) سند پناہ۔

(پز) کتہ چھی بے شک میہ نہ یہو لوکو اپمان اذمت
چھ تہ پسنس پروردگار (یعنی تہ بندہ پسنہ ہس)
پنہ چھ توکل تھوان۔ متن پنہ چھ نہ تہ سند
(یعنی شیطا تہ سند) کا نہہ زور۔

تہ زور چھ صرف جمن لوکن پنہ پھلا (بیم تن
سزا یارانہ لاگان بھو تہ بیم تہ بندہ باعہ ہشہرک
کران چھ۔

بیمہ سلیبہ اُسو کتہ نشانہ چھ جایہ کا نہہ بدل نشانہ
انان جمن تہ (اتھ منزکیا شک چھ تر) اللہ
(تعالیٰ) یہ کینٹھا تازل کران چھ (تمیک ضرورت)
چھ سہ (سارہ وہے کھوتہ) رتہ یا طو زانان۔ تہ
(تہ وزر) چھ (مخالفت) دنان تر تہ چھکھ جلساز

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ
وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
هُوَ مَوْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿۱۴﴾

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۱۵﴾

إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ
وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۱۶﴾

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ
وَأَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا آتٰت
مُفْتَرٍ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

(مگر حقیقت چھنہ پھینکیں) بلکہ تموشتر چھتہ واریاہ
علم تمھوان۔

تر و ن (بھقس اعتراض کرن واپس نہ) رُوح القَدْر
چھتہ یہ چائیس پروردگار سندر پر حق (تہ حکمت)
ہتھ تازل کورمت۔ سیتھ زن پیو لوکو ایمان اونت
چھتہ تمن کر سہ (ایمانس پٹھ) ہمیشہ خاطر قائم تہ
(بہ چھتہ تم) فرمانبردارن ہنر (بہ من) رہنمائی
خاطر تہ (تمن) نحو شجر دہ خاطر (یہ تازل
کورمت)۔

بہ چھتہ اسی بلا شک زمانان نہ تم چھو ومان (نہ
یہ چھتہ الہی وحی بلکہ) اکھ انسان چھتہ افس
پہنناوان۔ (اماہ یوز تمن چھتہ فکر تران) ایس
شخص کمن تم (اشاہ کران چھتہ تہ تہندہ ذہن
تس کن) مایل سپان چھتہ تہن زبان چھتہ اعجمی
تہ یہ (قرآنچ زبان) چھتہ (خوب) روشن (کر تہ
لون واجز) عربی زبان۔

بیم لوکھ اللہ (تعالے) ہندین نشان پٹھ ایمان
انان چھتہ تمن چھتہ اللہ (تعالے) ہدایت ودان
تہ تہندہ خاطر چھتہ دگر دار عذاب (مقدر)۔
اپز چھتہ تم لوکھ لاکھ تمھوان بیم اللہ (تعالے)
ہندین نشان پٹھ ایمان چھنہ تمھوان۔ تہ یکے
لوکھ چھتہ پوختہ اپز یارک آسان۔

بیم لوکھ (تہ) پستہ ایمان انہ پتہ اللہ (تعالے)
شد انکار کرن تمھو ورا بی بیم (کفرس پٹھ) مجبور
کرنہ آتمو آسن مگر تہندہ دل آسن ایمانس
پٹھ مطمئن (تم بین نہ رہتہ) آ، تم میو
(پنوی) سپتہ کفر خاطر پہلہ تراوی ہتہ آسن
تمن پٹھ سپد اللہ (تعالے) شد (سٹھا) بوڈ

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۱۶﴾

وَلَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا
يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي
يُلْحِدُونَ لِأَبْوَابِ عَجْمِيٍّ وَهَذَا لِّسَانُ
عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿۱۶﴾

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكٰذِبُونَ ﴿۱۷﴾

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ
أُكْرِهَ ۖ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۸﴾

عقوب (تازل) تہ تہند خاطر چھہ بوڈ ہا ہا غلاب
(مقدر)۔

تہ یہ سپد اوکزی زیتہ دنیاوی زندگی سبوتی محبت
کڑتھ دیت، تمواتھ اترتس پیٹھ متھزر بیہ (اگر
کوتی تہ زہ) اللہ (تعالیٰ) پیٹھ کفریہ راوان والہن
لوکن ہلایت روان۔

بیم چھہ تم لوکھ مین (تہند کفر کر با عتہ) تہند بن
ولن تہ تہند بن کن تہ تہند بن اچھن پیٹھ چھہ اللہ
(تعالیٰ) ہن موہر کڑ مہتر تہ کے لاکھ چھہ بیم بوڈتہ
غابل چھہ۔

(تہ) اتھ منتر چھتہ کانہہ شک زہ تم آسن اترتس
منتر (سار و رہے کھوتہ) جاو نو نقصان تھن اولی۔

تہ چون پروردگار چھہ بے شک ہن لوکن ہند خاطر
بیم تکلیف منتر تراوہ آئی توہ پتہ، تمواتھ کڑ، ہجرت
پتہ کور، تمواتھ جہاد تہ (پنہن وسر پیٹھ) روڈ
ثبات قدم چون پروردگار سپد یقینا امیر (شرطہ
کہ پور کر تہ) پتہ (تہند خاطر) سہا بختن دول
(تہ) چھہ کڑ پیٹھ کریم کرن دول (ثبات)۔

(تمہ جزبہ تہ خاطر سپدن آسہ خاص کڑتھ تمہ وہہا
بیمہ وہہہ پتہ (اکھ) شخص بیمہ پتہس زوس
متعلق مجاہدہ کران۔ تہ پتہ شخصن یہ کیشہا
کوڈت آسہ (تمیک اجہر) بیمہ نس پلور پلور
وہ تہ ہن پیٹھ بیمہ تہ (کوتی تہ زہن منظر ظلم کر تہ
بیم چھہ اللہ (تعالیٰ) توہہ فکر تار تہ موکھ اکہ
بستی ہند حال بیان کران۔ یہ تہ (پتہ زہ) امن
حاصل پتہ (تہ) اطمینان نصیب پتہ۔ پتہ طرفہ چھہ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝۴۰

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى
قُلُوْبِهِمْ وَاَسْمَعَهُمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۖ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝۴۱

لَا جَرَءَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمْ
الْخٰسِرُوْنَ ۝۴۲

ثُمَّ لَآن رَّبِّكَ لَئِيْذِيْنَ هَآجَرُوْا مِنْ
بَعْدِ مَا فِتْنُوْا اِنَّهُمْ جَآهِدُوْا وَاَصْبَرُوْا ۗ
اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۴۳

يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن
نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝۴۴

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
اٰمَنَةً مُّطْمَئِنَّةً يٰٓاْتِيْهَا رِزْقُهَا
رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَاْنٍ فَكَفَرَتْ

لہ یہ بستی چھہ مراد مکہ شریف۔ یہ کہیں رونک والہن اوس کھل ڈالہ رزق داتان مگر تمواتھ
اللہ تعالیٰ ہن نہ شکری۔ اگرچہ یہ آس منتر چھہ ماضی یک صیغہ بیان کر تہ امنت مگر کتہ
وز چھہ یقینس پیٹھ دلالت کر تہ خاطر ماضی حال چہ جاہ استعمال سپدن۔

(تہ) اسی آسہ امیر ہونے پر تم (ساری) چہن حرام
کرو ہو تو یمن ہند ذکر اسہ شریہ نش کورمت پتھ
تہ اسہ کرناو نہ (یکم حکم دتھ) تم پتھ فکرم
بلکہ اسی تم تم حکم پتھ راتھ (پتھن زون
پتھ پانے کلم کران۔

بہ دتھو یاد نہ (یکو لکو بے خبری مفر (کاٹھہ)
ناکارگی کر پتھ آسہ (تہ) اد تمہ پتھ کرن (تمہ
پتھ تم (توتہ) (پتھ غلطی ہند (اصلاح (تہ)
کرن ، تہندس حقس مفر سپد پتھن پروردگار
تم (شرط پتھ) کرتہ پتھ سپتھ ہے پتھن ہار تہ
پتھ پتھ کر مگم کرن اول (تہ پتھ)

بے شک ابراہیم اوس پر تھہ (کنہ) خیرک جمع کرن
ول تہ اللہ تعالیٰ) ہند عا ط پتھراختیار کرن اول
بہ اوس ہمیشہ خدایہ سنہز کمال فرمانبرداری کرن
ول تہ سہ اوس نہ مشرک کو مفر۔

تہندس انعام ہند اوس اوسہ شکر گزار تہ (ہند
ربن) اوس سہ ضرورت تہ اوس سیر و تہ کن
اوس تس رہنائی کر پتھ۔

بہ اوس اسہ تس بیتھ و ذی بہس مفر (تہ پتھ)
کامیابی عطا کر پتھ تہ اوس مفر (تہ) آسہ سہ
بے شک صالح لکو مفر۔

تہ (اے رسول!) اسہ پتھ تریہ وحی ہند ذریعہ
حکم دیت مت تہ کر کر (سانی) کابل فرمانبرداری
کرن و اوس ابراہیم ہند طریق پتھ پاروی۔ تہ اے
کپہ والہو! زماناں چھو اہر) سہ اوس نہ مشرک کو مفر۔
سبت کر (ڈہک و وبال) اوس سہ پتھ تراوہ
آمت بیو تہ متعلق اختلا ف
کر پتھ تہ چون پروردگار کر بے شک تم درین

مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ بِرَدِّ مَا
ظَلَمْنَاهُمْ وَلَئِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿۱۱﴾

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا
السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ
بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۲﴾

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا
لِئَلَّهُ حَنِيفًا، وَ لَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳﴾

شَاكِرًا إِلا نِعْمَهُ، اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۴﴾

وَأَتَيْنَاهُ فِي الذُّنُوبِ حَسَنَةً، وَإِنَّا
فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۵﴾

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶﴾

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ
اختلفوا فيه، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷﴾

قیامت میں دوہرے قاصد۔ تھکے کتبہ متعلق بیتہ متعلق
تم اختلاف کران آس

(اے رسول!) پینس پر دروگاہ سنزوتہ کن
و لوکن) ناد حکمتہ سان تہ رزہ نصحت ہیچہ تہ
رتم سوتو آس (تمہندین اختلافن متعلق) تہہ طریقہ
بحث کران، بیس سار وہے کھوتہ جان آسہ۔ چون
پر دروگاہ چھ بے تنک رتم تہ رتہ پانگو زانان
یک تسزوتہ رتہ ڈو سوتو آس تہ رتم تہ ریم
ہدایت لیان چھ۔

ہرگاہ تو ہی لوکہ (جادتی کرن والین) سزاسہ
دیو تہ سیزاہ توہہ پیٹھ جادتی کرنہ آہتر آسہ
توہی دیو (بیس) تیوتے سزاسہ۔ تہ (اسہ) چھہ
پینس ذابک قسم زہ (ہرگاہ توہی صبر کرو تہ صبر
کرن والین ہند حقہ آسہ تہ سہا رتہ۔

بہ (اے رسول!) خر ہیہ صبر کلام تہ چون صبر
کرن چھ اللہ (تعالیٰ) رتہ (مدد) سوتو (سپتھ
ہیکان) بیہ رتم (لوکن ہندس حالتس) پیٹھ مہ
کھینے نم۔ تہ یک تہ صبر تم کران چھ تمو ہند باعشہ
مہ کر تہ تکلیف محسوس۔

بہ تمو یاد زہ اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً رتم لوکن سوتو
آسان کیو تقویٰ کرنک طریقہ، پروومت آسہ بہ یک
نیو کار آس۔


أذْعُرُّ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۸﴾

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ لَهُوَ خَيْرُ الْمَصِيرِينَ ﴿۱۹﴾

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلٰٓئِقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۲۰﴾

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۲۱﴾

لہ یہ چھ اجتماعی حکم لہذا یہ چھینے کلوا پنج کلام زہ سو ہیہ جادتی ہند بلہ۔ نہ تہ کانسہ فردس
چھینے یہ اجازت نہ سہ ہیہ پانس پیٹھ سپزوتہ جادتی ہند پستہ اتھو بلہ۔ تس
پر کلومتس کن رجوع کرن۔



سورہ بنی اسرائیل - یہ سورہ چھ مکی ہے۔ سورہ اللہ ہے۔ چھ آیتیں ہیں۔ سورہ باہر بیس باہر رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِحَبْرِهِ لَيْلًا

مِنَ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَشْجِدِ

الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ

مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ②

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى

لِبَنِي إِسْرَائِيلَ لِيَلْزَمُوا مِن دُونِهِ

وَكَيْلًا ③

ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَع تُوْبِهِ إِنَّكَ كَانَ عَبْدًا

شَكُورًا ④

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ

لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ

عُلُوًّا كَبِيرًا ⑤

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ

عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَرِيحٍ فَجَاسُوا

خِلَالَ الرِّيَاطِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑥

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ

عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَرِيحٍ فَجَاسُوا

خِلَالَ الرِّيَاطِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑥

خِلَالَ الرِّيَاطِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑥

خِلَالَ الرِّيَاطِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑥

خِلَالَ الرِّيَاطِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑥

مفز (پور سیدن وول لہ)
 (تمہ پتہ) ویتو توہ اسہ (دشمنس پیٹھ) حملہ
 کرنک طاقت لہ ۔ تہ اسہ کور مالو تہ گبرو تہ تہند
 مدو ۔ بیہ کرک و اسہ توہی ہما تر ہند لحاظ اہوٹو
 مہ کھوتہ (چاڈ) ۔

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكِرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ
 آمَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ دَبْنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ
 أَكْثَرًا نَفِيرًا ①

(یوزو) ! اگر توہی میکو کار تہو تہ میکو کار پیٹھ
 واتا دوو پسنہن زونے قاید تہ اگر توہی ناکار
 علم کرہ (بیتہ کرہ) ہمن (پسنہن زون) ہندی
 غا طہ ۔ پتہ بیہہ دوو بیہہ وز ہند وعلہ (پور
 گزہنک وقت) او پیٹھ تم (یعنی تہندی دشمن)
 تہندی ہن عزتہ والہن لوکن سستی نامتاسب معا طہ
 کرن تہ (تہ پیٹھ پاٹھو) سیدن مسجد مفز دا خیل
 پیٹھ پاٹھو تم اتھ مفز موڈ پیٹھ لہ دا اہل اسہ
 سیدر ہو تہ پیٹھ پیٹھس پیٹھ تہ تم قبضہ کرن
 سہ تھون بلکل تہاہ (تہ تیر باد) کر تھ (تہ پیٹھ
 تہ سبہ پور) ۔

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ تَدْرُ
 لَنْ أَسْأَلَكُمْ فَلَهَاءَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
 الْأَخِرَةِ لِيَسُوءَ أَوْ يُجْهَلَكَ وَيَلِيذْخُلُوا
 الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ
 لِيُتَبَرَّذُوا مِمَّا عَلَوْا تَشْفِيرًا ②

ووڈ چہتہ یہ کتھ دور (بلکہ کان ممکن چہ) تہ تہند
 پروردگار کر توہ پیٹھ رحم تہ اگر توہی (بیہہ
 پسنس غلط طریقس کن) واپس پھیر کر و تہ اسہ
 تہ پھیرو (پسنس سزا دس کن) واپس تہ یاد
 تھو تر) اسہ چہ جہنم کافرن ہند غا طہ تاد
 خاتہ نوشت ۔

عَلَيْكُمْ أَنْ يَزْحَمَكُمْ جَدًّا لَنْ عُدْتُمْ
 عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ③

سہ شاہ بابل بنوکد نصر اوس اکھ جنگ جو بادشاہ ۔ تمہ کور فلسطینس پیٹھ حملہ تہ بیت المقدس
 کورن واراک تہ بنی اسرائیل تہہن تہہ کڈ تھ ۔ تمی زانہ چہ بنی اسرائیل ایران
 افتانتان تہ کشہر آہو تہ از تام چہہ بین ملکن مفز سان بسان (وپھو ۲۔ سلطین باب ۲۵)
 سہ کینتر کالہ پتہ کور ایرانکی بادشاہ تورن بابلس پیٹھ حملہ تہ بنوکد نصر ہندس خاندانس
 ورن شخت اسہ پتہ نین یہود بیہ فلسطین تہ بیت المقدس کورن آباد (تخمیاہ باب ۱۔ ۲)
 سہ واقع صلیب کہ ستھ وری پتہ رومانکی نصرانی بادشاہ ٹائٹس (TITUS) کور
 فلسطین ڈیبر لہ تہاہ تمہ پتہ گے یہود وہہ کھوتہ وہہ ذلیل ۔

یہ قرآن چھ یقیناً تھے (وتر) کن رہنمائی کران کو یہ
سارو ہے کھوتہ بجاو درست پھیلے۔ تو یم نمون
مناسب حال کام کران چھ بہن چھ نوحہ شجر دوان
نر تہندہ خاطر چھ (سبھا) یوڈ اجر (مقدر)۔
بیہ (چھ قرآن) یہ (تہ زمان) نر یم لوکھ
آنخلس پیچھ ایمان پھتہ آنان تہندہ خاطر چھ
اسہ کر یوٹھ عذاب تیار کورمت

بیہ چھ انسان شرس (تھی جوشہ سان) آلودوان
سبھہ جوشہ سان اللہ (تعالیٰ) اوس بندس خاری
کن ناد دوان چھ آسان۔ تہ انسان چھ سبھہ
ہے و تاوڈ (آسان)۔

بیہ چھ اسہ راتھ تہ دہہ تہ نشاہہ بناوڈ ہتی،
تھیا پھو نر لار ہندہ نشاکہ اثر لہ شرن اسہ
نہتاوتھ تہ وہک نشاہہ ہنو اسہ لاش عطا کران
وول یٹھ زن توہو خدایہ سد فہل تھانڈو۔
بیہ ہیکو (سہل پامو) وورین ہنر گرنہ تہ حساب
معلوم کر تھ تہ اسہ چھ پرتھ اکھ پینر زبر پانگ
واش کڈی کڈی بیان کورمت۔

بیہ چھ اسہ پرتھ اساہہ ہنر گردن منر تہنر
عمل لہ گن تھہ ہاوا تراو منر۔ بیہ تھاو اوس
قیامتہ دہہ تہنر (یعنی تہنر عملن ہنر)
کتاب کڈتھ تس بروٹھ کبہ یٹھ سہ (بیلک)
منر راتھ لہ۔

(تہ تس بیہ ونہ) پینر کتاب پر (پانے تہ
و پھن) از چھ ہون لہنہ تریہ حساب ہنہ
خاطر سبھاہ۔
(او کو تھاو یاد تہ) یس ہایت قبول کر تھ

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ آقَوْمٌ وَ
يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا ﴿١٠﴾

وَ أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١١﴾

وَيَذُرُ النَّاسُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ
بِالْخَيْرِ، وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجْوًا ﴿١٢﴾

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُتًا
آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِتَبْتَغُوا أَفْضَالَ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسَابِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ
فَعَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٣﴾

وَ كُلُّ إِنْسَانٍ أَلَزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ
وَ نَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
مَنْشُورًا ﴿١٤﴾

إِقْرَأْ كِتَابَكَ، كَفَىٰ بِتَفْسِيكَ الْيَوْمَ
عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٥﴾

مِنْ اهْتَدَىٰ قَائِمًا يَهْتَدِي لِتَفْسِيهِ، وَ

لہ یعنی آد کٹ۔

لا عربی لوفتہ مطابق طر (پرتہ) چھ تھہ علم زمان نیکیک انسانس عادت اسہ گومت۔

ہدایت لیکن چھ تیندی ڈاڑھ کہ فایہ خاطر تہ
ییس (سہ ہدایت زد کر تھ) گمراہ گمراہ، سندر
گمراہ گمراہن گمراہ تسی (یعنی تیندی ہے نفس)
خلاف، تہ کاٹھہ بور تین وول تہ نہ کاٹھہ بیئے سندر
بور۔ تہ اسی چھنہ ہرز (گتہ توئس پیٹھ) تو تمانا
عذاب سوزن یوتا تہ (تین کن) کاٹھہ پیغیر
سوزن ہون۔

بیہ نیلیہ اسی کاٹھہ بسقی ہلاک کرنک اراد کرو، تیلہ
چھ اسی (گوڈ) تہہ کن آسودہ حال لوگ (نیکی ہندا)
تاکم دوران، بیتھ پیٹھ، تم (پھر تھ) اتھ بسقی منز
نافرمانی (ہنر و تھ) پراوان چھ، اد چھ تھ بسقی
متعلق سون کلام پور سپان تہ اسی چھن سہ پلوس
پاٹھو تباہ کر تھ ترھکان۔

بیہ کرکے اسہ (ای تو تہ مطابق) نوح (سند قوم
تہ تم، بند (قوم)، پیہہ واریاہ نسل ہلاک تہ
چون پرور دکھ چھ پنہن بدن بدن گو نہن
ہنر (زبر پاٹھ) خبر تھون وول (تہ تین چھ)
جان پاٹھو وچھان۔

ییس تنفس (صرف) دنیا بیہن وول آسہ، تھتھو
لوگو منز، ییس اسی بیہن چھ اتھ پیٹھ
ڈن میہس منزے کیہنہ اتھ پیٹھی (ڈنیا وی)
فایہ دوران۔ تمہ پیہہ چھ اسی تیندی خاطر تھنہ
مقرر کران بیٹھ منز سہ مجرم سپد تہ دکر زد
ہنڈھ داخل سپان چھ۔

بیہ میو لوگو ایما تہ کس حالتس منزہ خرچ تو ہن
کر تہ تمہ خاطر لکھ تہ مطابق کوشش (تہ)
اد (یاد تھو) تھی لوکھ چھ یکن ہنر کوشش
ہنر قدر کرنہ پیہہ۔

اُسی چھ سارہنے مدکران تین تہ (یعنی دپسہ
والین تہ) تہ تین تہ (یعنی دنیا والین تہ) تہ

مَنْ صَلَّى فَإِنَّمَا يُغِضِلْ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
وَالرَّذَّةُ ذُرٌّ أَخْضَى، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا ۝

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا مِمَّنْ
مُنذَرِينَهَا فَقَسَقْنَا فِيهَا وَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ،
وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا ۝

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاقِلَةَ جَعَلْنَا لَهَا
فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا
لَهَا جَهَنَّمَ بِإِصْلَافِهَا مَذْمُومًا
مَذْمُورًا ۝

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ
مَشْكُورًا ۝

كُلًّا نُمِدُّهُمُ أَزْوَاجَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ مِنْ
عَطَاءٍ رَبِّكَ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝

یہ مدعا چھ پچاس پروردگار ستر ہشتاشر منبر
تہ پچاس پروردگار ستر ہشتاشر چھنہ (گنہ)
خاص مجاز ہنہ (پتھ رتنہ یوان۔

وچھ ایکھیاٹھ پچھ اسہ (دنیوی سامانہ ہندجاساہ)
تمو منبر کینٹن، کینٹن پچھ فضیلت وژ منبر
تہ آخرت آسہ پزری پاٹھ (بہ ہن تہ ابرو
درجات ہتھ تہ (تہج زندگی آسہ) بہ ہن جاہ
فضیلتہ واجہ (زندگ)۔

اگر کو (اسے مخاطب!) اللہ (تعالیٰ) ہس ستر
سہ بناون کاٹھہ بیاکھ معبود۔ نتہ بہکھ تر الزام
لاگناوتھ تہ (الہی) نصر تہ ہنہ محروم سیدتھ۔
پچاڑی پروردگارن چھ (اسہ کتھ ہنہ) تانیدی حکم
دینتہ نہ توہی مہ کروتس وراڈی کاٹھہ ہنہ
عبادت، تہ (بہہ بہ نہ پنہن) تاس مابہ ستر
کرورت سلوک۔ اگر تمو منبر کاٹھہ کس یا
دولونی چاہہ زندگ منبر تجر بہہ تہ (تہنہز کتھ
کتھ پچھ پنہی ناپسندیدگی ہونہ موکھ) اتن وڈ
نہ اف تہ نہ کرو نہ من مرنہز، تہ من ستر
کرو نہ (بہیشہ) نری سان کتھ۔

تہ رہہ کس جذبس تہ کرو نہ من بروٹھ کتھ
پہری ہنہ وطہر اختیار۔ بہہ آس (تمن ہندتھ
دعا کرنہ ورا ومان (تر اسے) میانہ پروردگار
بہن پچھ کرتہ مہرانی تکیا نہ تمواوس بہ لوکپاک
منبر نہ چھت پلہت۔

یہ کینٹھا (تہ) تہنہن دن منبر آسہ تہنہ
پروردگار چھ تہ (ساروہے کھوتہ) رتہ پاکو
زانان (تہ) اگر توہی نیک آسو تہ (یاد تھا و
نہ) سہ چھ پچھ پچھ کر ربوع کرن والہن
(کیٹ) سہہ ہے بخشہ وول۔

تہ قرابتہ ولس (اشاوس) تہ مسکپس تہ

انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿۱۷﴾

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ
مَعَهُمْ جُنُودًا ﴿۱۷﴾

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا
تَقُلْ لَهُمَا آيَاتٍ وَلَا تَنْهَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿۱۷﴾

وَإِخْفُضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿۱۷﴾

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ، إِنْ
تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْآدَاءِ
عَفْوًا ﴿۱۷﴾

وَأَتَىٰ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ

السَّيِّئِ وَلَا تُبَدِّذْ تَبْدِيدًا ۝

مسافرس دتند حق تہ اسراف مہ کر کونہ (تہ) زحس مشر!

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ،
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝بیشک اسراف کرن واد لولکھ چھ شیطان ہندو
بائی آسان تہ شیطان چھ پسنس پروردگار سند
سبھ سہہ ناشکر گزار۔وَلَمَّا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ ابْيَعَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ
رَبِّكَ تَرْجُوهَا قُلْ لَهُمْ قَوْلًا
مَيْسُورًا ۝تہ اگر تہ پسنس پروردگار سہز کا شہہ بڑ رحمت
خاوس کرنہ مہ کہہ تہ بیچ خریدہ وومید آسی
بمن آستانون نش دور ہیکھ (تہ تمہہ مورتس منز
چھ دور ہون، ہون، جانز مگر) توبہ گزہہ بمن سوتی نرمی
سان کتہہ کرنی۔وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوبَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعَدَ مَلُومًا
مَخْسُورًا ۝بیہ، نہ تھا ورتہ تہ پسن اتہ پسنہ گردنہ سوتی
گنہ تہ نہ تھا ورتہ سہہ پلورہ پانچو سیکل۔ نتہ
گر تہ کھ تہ ملاستک شکر تہ تھا تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ
گر تہ کھ تہ تہ تہ۔إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا ۝چون پروردگار تہ تہ پسنہ خاطر پسنہان چھ رزق
چھس ہر راولن تہ (تہ تہ پسنہ خاطر پسنہان چھ
رزق) چھس تنگ کران۔ بے شک سہہ چھ پسنہان
بندن (ہندو حالات) زانن وول (تہ) وچین وول۔
بیہ مہ کر لولکھ مفلسی ہندو تہ پسنہ اولاد قتل۔ بمن (تہ)
چھ آسی رزق دوان تہ توہہ تہ (چھو آسی رزق
دوان)۔ تم قبل کرنی چھ بے شک (سبھا) بوڈ اتر۔وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،
وَلَنْ نَّرُدَّهُمْ وَإِنَّا لَنَكْفُرُهُمْ
كَانَ خَطَا كَبِيرًا ۝بیہ نہ ہس مہ گزہہ نزدیک (تہ) سو چھینہ بیشک
اکہ تہ بے حیالی تہ سبھا ناکارہ و تہ۔وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا إِذْ كَانَ فَاحِشَةً، وَ
سَاءَ سَبِيلًا ۝وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ، وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لِرَبِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُبیہ یس زو (مارن) اللہ (تعالیٰ) ہن حرام کوہیت
چھ سہہ مہ کر لولن (شرعی) حقہ وراہی قبل۔ تہ یس تخن
مظلم (سپتہ) مارنہ بیہ۔ تہ تہس وائرس چھ

كَانَ مَسْئُولًا ⑤

اسر (بدلہ ہینک) اختیار دیتے اور کئی (چھ تہذیب
مخاطب یہ ہدایت تہ) سہ گزشتہ تہ (تھائیس) قبل کرنش
منز (ساتہ طرفہ مقرر کرتہ آمتہ) حد پیمیر نیرن
(اگر سہ حدیں اندر روتہ) تہ یقیناً آسہ تس (سون)
دو سوتی سوتی۔

وَلَا تَقْرُبُوا مَا لَآلَيْتُمْ إِلَّا بِآلَتِي هِيَ
أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَأَذْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ⑥

بیسہ پتیمہ ہندس ماس نکھ تہ سہ گزشتہ تمہ
طریقہ وراہی یس (پتیمہ ہند حقہ) جاہ جان آسہ تواری
زرسہ (بالغ گزشتہ) پسنہ مضبوطی ہنرہ والنہ
واتہ۔ بیہ (پنن) وعدہ قرار کرو پلورہ (تکلیف) پرچہ
وعدہ قرار نسبت آسہ بے شک (اگر نہ اگر وہہ)
پرچہ گار۔

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا
بِالْقِسْطِ أَسْ أَلْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ⑦

بیسہ نیلہ توہر (کائنہ کینہ) مہینہ دین ہیو تہ پلورہ
مہینہ آسو دوران بیہ (نیلہ توہر) دلیہ تہ
آسو دوران سیوڈ ترکر سوتی تولتہ یہ کتہ چھینہ سارہ
وہے کھوتہ بہتر تہ انجام کہ مخالفہ چھینہ سارہ
کھوتہ رتہ۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ
عِنْدَهُ مَسْئُولًا ⑧

بیسہ (اے مخاطب!) نیلہ کتہ ہند علم تہ آسہ تہ
تہج پاروی کرہ زہ (تکلیف) کن تہ اچہ تہ دل
یمن سارہ متعلق یہی تہ (تہ) پرچہ گار کرہ۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن
تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ⑨

بیسہ مہ کچھ ہنر اثر پچہ تھنری تالہ تھو کہ اوان تکلیف
تہکلہ نہ ہیکہ تہ ملکہ کس اتمس واتہ تہ نہ ہیکہ
(تہکلہ قومہ کن) سردارن تہ ہند ہیو تھو رتہ لبتہ۔
یو (حکو) منز چہ پرچہ ایچ (یعنی پرچہ عملہ نرا)
یکچہ صورت چائس ریس نش ناپندہ۔

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ
مَكْرُوهًا ⑩

یہ (شاندار تعلیم) چھینہ تمہ (تھک تہ تمہ) جانک
(اگر حصہ) لہہ چائی پروردگارن وحی ہند ذریعہ تہ

ذَٰلِكَ وَمَا أَوْلَىٰ أَلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ
الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

لہ یہ چھینہ انفرادی خطاب بلکہ یہ چھ حکومتس خطاب۔ مقبولہ ہند وراثت ہیکن نہ پائی
پانے بدلہ ہتہ بلکہ ہیکن تو تونوی چار جونی کرہ تہ پن بدلہ ہتہ۔
لہ جبال۔ ایک نظمی معنی چھ بال۔ ورگہ پلورہ چہ برہن لوکن تہ سردارن جبل وناں۔

قُلْتُ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ①

کن مؤز مہر چینیہ۔ بیہ مہ بناؤن تر اللہ (تعالیٰ)
ہس سہو کا نہہ بیاکھ معبود۔ نہہ بیکھ تر ملامت
کرتھ (تر) ہواری دتھ جہنم منتر تراوتہ۔

کیا تہند کرین چھو توہی نیچو پو (ہند نعمت) سہو
مخفوس کری ہوتہ تر تو چھا کینہہ ملایک (پانس کرپ
پستہ) کوہ بناو مہر، یقینا چھو توہی (یہ) ہر
(خطرناک) کتھ دنان۔

أَفَأَصْفُكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ
قَوْلًا عَظِيمًا ①

بیہ چھ اسی بیتھ قرآنس منتر (پریتھ کا نہہ کتھ) او
کئی پھیر کر پھیر کر بیان کر مہر۔ نہہ تم رٹن (امر
سہو) نفہمت۔ مگر سہ (قرآن) چھ رحمن (امر
باوہو) (کیرس تر) تفرس منتر ہر راوان۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ②

تروں نہہر گاہ تہند ونہہ مطابق تس (اللہ تعالیٰ
ہس) سہو (کینہہ) بیہ معبود (تر) آسہ ہن تر تھ
مور تس منتر تھانہ ہن ہم (مشرک بتن معبودن)
ہند اتھ رٹ سہو) عرشہ وارس (خدا یس) تمام
(واپن) کا نہہ و تھ ضرور۔

قُلْ لَوْ كَانَتْ مَعَهُ إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ
إِذَا لَا يَتَّبَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ③

سہ چھ مین (مشرکن) ہنرو ہر کر چھو کتھو نہہ پک
تر سپٹھ ہے بلا۔

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُقُولُونَ عُلُوًّا
كَبِيرًا ④

سٹوے آسمان تر زمین بیہ ہم بتن اندر (بن وارا)
چھ، چھ تہنر تسبیح کران تر (ڈنہک) پریتھ کا نہہ
چہر چھ تندو تعریف کران کران (تہنر) تسبیح
کران۔ مگر بتن (چہین) ہنر تسبیح تر و نہ
توہر فکر سہ چھ بے شک پرد پوشی کرن وول (تر)
سپٹھا (ہے) بخش وول۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ
وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ⑤

بیہ نیلہ تر قرآن پران چھکھ تر اسی چھ (کتھ وزیر) تر نیہ
درمیان تر بتن لوکن درمیان ہم آخر تس پیٹھ ایمان
چھہ تھون، اگہ پوشیدہ (تر عام نظر و تھایہ) پرد
پاؤ کران۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ
وَالْبَيْنِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
جِجَابًا مَّشْتُورًا ⑥

بیہ چھ اسی تہند بن وین پیٹھ کھو یا پرد تراوان بیٹھ
نہہ بتن یہ (پزر) فکر تریتھ ہیکہ، تر تہند بن کنن

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً
تَنْفِقُهُمْ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
وَإِذَا

كَذَّرتَ رَبَّكَ فِي الْقَدْرَانِ وَخَذَهُ لَوْاعِلًا
آذِبَارِهِمْ نَفُورًا ﴿۱۰﴾

تَخُونُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ
يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ
يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا
مَّشْهُورًا ﴿۱۱﴾

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴿۱۲﴾

وَقَالُوا إِذْ أَكْنَا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا
لَتَمْبُؤُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿۱۳﴾

قُلْ كُونُوا حِجَابًا أَوْ حِدِيدًا ﴿۱۴﴾

أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ
فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِينُنَا قُلِ الَّذِي
فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ
رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلِ عَسَى
أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿۱۵﴾

چھ اُسے زبرد (پاؤں کوڑمت)۔ یہی نیلیر تم قرآنس
منز پنن پروردگار میں کئے چھ، یاد چھی بن کران
تہ تم چھ نغرتہ سوتی پستہ تھر چھر تھر واپس گھر جان
(یہی) نیلیر تم (ظاہر پاٹھی) چانہ کتھہ بوزان آسان
چھ تہ نیلیر غرتہ تم چانہ کتھہ بوزان چھ آسان، اُس
چھ پچھ اصلیت زبرد پاٹھی زمانان تہ (یہی) نیلیر
تم چانہ وافی کتھہ پھر سارے کران چھ آسان (تیک
تہ چھ اُسے علم آسان تہ) نیلیر تم ظالم (اکھ اُس)
ونان چھ آسان (تر) تو ہی چھ اُسے فریسی منز
ولہ آمتس شغفہ سنرہے پاروی کرن (تہ تمہ
وقتہ تہ چھ اُسے بوزان آسان)

وچھ! تمہو کتھہ پاٹھی چھینہ شریہ متعلق کتھہ بناؤں
نیلیر کس نہیں منز تم چھ گمراہ گامتی تہ تم ہیکن
نہ (وہ) فی ہدایت محاصل کرتہ خاطر، کانہہ و تھہ لبتہ
یہی چھ تمہو (پستہ) وونمت (ترکیا) نیلیر اُسے (مترقا)
اڑی جہر سپدو تہ کیبہ وقت گرتھتہ بنو غلبتہ اڑی بن
ہند (تہ) بوس (تہ) اُسے میوا نو سر زندہ کرتہ
(تہ) کیا پڑی پاٹھی میوا اُسے کہ نو پیدا لیتہ ہنز
شکلہ منز تکلہ؟

تہ دن (تمن ز او) تو ہی سہے بڑ تو یا ششستر۔

یا بدل ترشہ کانہہ پیدا لیش (بڑ تو) لہ سہ تہ ہندن
دن منز تمہو کتھہ تہ سبت بوزنہ یوان اُسے (تو تہ)
بیو تو ہی دو بار زندہ کرتہ (پہ بوزتھ) ونن تم
مزور (تہ) کس اہ اُسے دو بار (زندہ کرتھہ و بوزن
منز؟) تہ دن (تمن ز) سے (خدا) بیو تو ہی
گھو ڈیکہ لٹ پاؤں کرکے متی اُسے و۔ اکتھہ پیٹھ

دن تم جان گرتھتہ تو ہر کن (وچھان) پیٹھ
کلہ تہ ونن (تر) یہ (زندہ کر بیچ گام) کر سپد
(نیلیر تم تیکلن ونن تہ) تہ دن (تمن ز) بلکل
ممکن چھ ترسہ (وقت) اُسے (وہ فی) نزدیک (آمت)۔

(یہ وہی گڑبہ تیرے دوہے پلڑے) نیبہ دوہے سے توہم
 ناد دیو توہمی مانو تہندو تعریف کران تہند حکم
 (تو فوراً سپردِ حاضر) توہم آسہ و باسان نہ
 توہمی آسہ و (دوڑیہس منتر) کہے کاس روڑی ہتہ۔
 بیہ ون تہ میانہ بدن تہتم آسن سہ کے کتہ ونان
 یوسہ (سارہسے کھوتہ) جاوڑ تہ آسہ (تکلیا ز)
 شیطان چھ بے شک بہن در میان فساد تراوان
 روزان۔ شیطان چھ انسانہ مند تہہ وانہ دشمن۔

تہند پروردگار چھو توہم (سارہسے کھوتہ) جہاد
 زانان۔ اگر تہہ بیٹہ تہ توہم پٹھ کریم تہ اگر تہہ
 بیٹہ تہ توہم دیو عذاب۔ تہ (اسے زلزل!) اسہ
 چھاکہ تہ تہ تہند ذہہ وار بتاوتھ سوزمت۔

بیہ یک (وجود تہ) آسمان تہ زمپنہ منتر (بسن
 وار) چھ بہن چھ تہند پروردگار (سارہسے
 کھوتہ) جاوڑ زانان بیہ چھ اسہ یقینا تہین اندر
 کیشنن، کیشنن (بہن تہین) پٹھ فنیلت دز
 مہتر تہ داووس (تہ) آس اسہ زلزلہ دز مہتر
 تہ ون بہن نہ بہن لوکن متعلق تہند دعویٰ چھ
 (تہتم چھتس (خدا لیس) ہوا خدای صفت
 تھوان (تم انیکھ ناد تھہ) پستہ امداد خاطر تہ
 توہم گڑبہ و معلوم نہ) نہ چھ تہم (تہند کانہہ)
 تکلیف توہم، نشہ دور کرنک اختیار تھوان تہ
 نہ (چھو تہم تہندس حالتس منتر) کانہہ تبدیلی
 پاوڑ کرنک (طاقت تھوان)!

تہم لوکھ بہن، تہم آلوکران چھہ تہم تہ چھہ پسنس
 پروردگار ہنتر تہوکی حاصل کرنہ خاطر کانہہ
 وسپلہ تہہاندان۔ (یعنی یہ چھہ و چھان آسان)

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ ۵
 وَ تَنْظُنُونَ اِنْ لَيْسَتْ اِلَّا قَلِيلًا ۵

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ اَحْسَنُ ۵
 اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ۵ اِنَّ
 الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۵

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ۵ اِنْ يَشَاءُ يَزِجْكُمْ
 اَوْ اِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ ۵ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ
 عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۵

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۵
 وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۵
 وَ اٰتَيْنَاكَ اٰوَدَ رَبُّوًا ۵

قُلْ اِذْعُوا الَّذِيْنَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ
 فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفِ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا
 تَخْوِيْلًا ۵

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَسْتَجُوْنَ اِلَىٰ
 رَبِّهِمْ اَلْوَسِيْلَةَ اِلَيْهِمْ اَقْرَبُ وَيَسْجُوْنَ
 رَحْمَتَهُ ۵ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ ۵ اِنَّ

۱۷ یعنی نیبہ کر کے لوکھ اسلام قبول کرن تہ کہ انقلاب سپد پاوڑ۔

۱۷ زبور چھینہ شریعہ کتاب اتھ منتر چھ اللہ تعالیٰ بس متعلق مساجات، دعا تہ نصیحت۔

عَذَابَ رَيْثِكَ كَانَ مَحْذُورًا ⑤

زکس چھ خدا میں جاؤ نزدیک (بیٹھ زن اسکتند
اتھ روٹ حاصل کرو) بیہ چھ تم ہمیشہ تند
رہنکو وہ سید وار روزان تہ تند عذاب نشہ چھ
کھوڑان روزان۔ چائس رہ سندر عذاب چھ بے شک
بیٹھ بیٹھ بش کھوڑان یوان چھ۔

تہ (روسے زمیں پیٹھ) ترشہ کانہہ بستی (اسہ)
تہ یوسہ اسی قیامتہ کہ وہ بہ بروٹھ ہلاک کروں
یا بیٹھ سبھاہ سخت عذاب وموتہ۔ یہ کتھ چھبیہ
(الہی) تقدیرس منز (بروٹھ پیٹھ) لیکتھ۔
اسہ بیکیا نشانہ سوزس منز امہ وراڈی کانہہ (کتھ)
پتھ روتھ تر بروٹھ مو لوکو اسی (تم نشانہ)
ایزاور ہنزی (تہ تمہن نش اوکھ نہ کانہہ قایدہ
تامت مگر یہ چھنہ کانہہ وجہ نشانہ سوزنہ نشہ
پتھ روزنگ) تہ زن گوو (بیلیہ) اسہ نمودرین
قومس اکھ وونہنی اکھ شتر نشانہ کنہ بخش۔ تہ
جمو کورس پتھ ظلم تہ اسی چھ نشانہ (بدانجامہ
نشہ) کھوڑن ناوتہ خاطرے سوزان روزان۔

بیہ بیلیہ ثریہ اسہ وناوے (ز) چائی پروردگان
چھ تم لاکھ ضرور ہلاک کرنک قاصد کورمت (توپتہ
تہ مکنہ تموقاید) تہ یس خواب اسہ ثریہ ناویاوس
سہ (تہ) تہ سہ کل (تہ) اوس اسہ لوکن بند
خاطر صرف امتحانک ذریعہ ہومت یس قرآنس
منزلعتی ٹھہراونہ آمت اوس تہ (امرہ باوجود ز)
اُسی چھاکہ تم کھوڑن ناوون (گڑھان) تمہ پتہ تہ چھ
سہ (سون کھوڑن ناوون) تمہن اُکس خطرناک بناوتس
منز بیڑ راوان۔

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا
قَبْلَ يَوْمِ الْيَوْمِ أَوْ مَعَذِبُوهَا عَذَابًا
شَدِيدًا إِذْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ⑥

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نَنْزِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ
كَذَّبَ بِهَا الْكَافِرُونَ ؕ وَآتَيْنَا ثَمُودَ
النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ؕ وَ
مَا نَنْزِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا ⑦

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحْسَطُ بِالنَّاسِ
وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آدَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً
لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي
الْقُرْآنِ ؕ وَ نَحْوُ فُهِمُ ؕ فَمَا يَزِيدُهُمْ
إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ⑧

۱۴ بیٹھ سورہ بنی اسرائیلس منز چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنہ تمہ کشفی تہ روحانی
سفرک ذکر بیٹھ اسرار و نان چھ تہ عربی لغتس منز چھ مجریس خاندان تہ مراد آسان۔
الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ ہس چھ یہود مراد یمن ہند ذکر بیٹھ سورس منز کرنہ اُمت چھ۔

بیمہ (سہ وقت تہ کریاؤ) بیلیلہ اسہ ملائکن و نیاو
 نہ توہی کرو آدس سستی (رُلہتہ) سبجہ تہ تمو
 کور (امہ حکمہ مطابق آدس سستی رُلہتہ) سبجہ
 مگر ایلین (کریاؤ تہ) تہ و نیاو (ز) کیا بہ کرا تہ
 (بیشتر) سستی (رُلہتہ) سبجہ یس تہ زہ نش
 پاؤ چھتہ کور منت ہ

تھو وون (اے اللہ! تہ ہے) وون تہ یو ہے چھا
 سہ یس تہ میہ پیچھ تھو ر دیمت چھتہ؟ (اس
 ہکھاہ پر فرما نہواری کر تہ؟) ہر گاہ تہ میہ قیامتہ
 کس دوس تام موہلت دتہ تہ (میہ چھ چانی
 واک قسم نہ) بہ کرکھ اُم ہندو (ساری) اولاد
 قبض، کم کینترھا لوکو وراہی (یک تہ پکاو کھ)۔
 (اللہ تعالیٰ ہن) فرمونس نیر (دور گزہ)!
 تیکار تہ کیت تہ تہ تمو منز یک چانی پاروی
 کرن (تہ کیت تہ) چھ سزا جہنم (تہ تہ چھ)

پہر پور بلہ۔
 تہ (اسہ وونس گزہ) یکو منز یس پیچھ چون زور
 چلہ سہ بن پستہ کر یکہ سستی جعل کر تہ (پانس
 کن)۔ تہ پنتر سوار تہ پیاد اکھ تہس پیچھ حملہ
 کر تہ تہ (تہند بن) مان تہ اولادن منز بن
 تہند شریک، بیمہ کر تہن سستی، اپزک، وعلہ
 (تہ او وچہ پنہن کوشش ہند نتیجہ) تہ
 شیطان یکم تہ وعلہ کران چھ فریبہ کر تہ
 چھ کران۔

یکم میاؤ بند چھ (تہن پیچھ) ہیکہ) نہ ہرگز
 چون غلبہ گزہ تہ۔ تہ (اے میاؤ بند!) چون
 پروردگار چھ (جانہ خاطر) کار سازی منز
 کافی۔

(بیمہ اے میاؤ بندو!) تہند پروردگار چھ
 سہ یس تہند خاطر سمندس منز ناو کپناوان

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ
 فَسَجَدُوْا اِلَّاۤ اِبٰلٰیۤسَ ؕ قَالَ ؕ اَسْجُدُوْ
 لِمَنْ خَلَقْتَ طِيۤنًا ﴿۱۷﴾

قَالَ اَرۡءَیۡتَکَ لِهٰذَا الَّذِیۡ کَرَّمْتَ عَلَیَّ
 لَیۡنَ اَحۡزَنَۜتِیۡنِ اِلٰی یَّوۡمِ الْقِیٰمَةِ لَا تَخۡتٰنِکَ
 ذَرِیَّتَہٗۤ اِلَّا قَلِیۡلًا ﴿۱۷﴾

قَالَ اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمۡ فَاِنَّ
 جَهَنَّمَ جَزَآءُکُمْ جَزَآءً مَّوۡفُوۡرًا ﴿۱۷﴾

وَاسْتَفۡزِزۡمِنۡ اَسۡطَٰطَٰتِہُمۡ بِصَوۡتِکَ
 اَجۡلِبۡ عَلَیۡہُمۡ بِخَمۡلِکَ وَرَجۡلِکَ
 سَاۡرِکُہُمۡ فِیۡ الْاَمۡوَالِ وَالْاَوۡلَادِ وَعِندَہُمۡ
 مَا یَعۡبُدُوۡنَ الشَّیۡطٰنَ اِلَّا عُرُوۡرًا ﴿۱۷﴾

اِنَّ عِبَادَیۡ لَیۡسَ لَکَ عَلَیۡہُمۡ سُلۡطٰنٌ
 کَفٰی بِرَبِّکَ وَکَیۡلًا ﴿۱۷﴾

رَبُّکُمُ الَّذِیۡ یُزِجۡنِ لَکُمُ الْفَلَکَ فِی
 الْبَحۡرِ لِتَبۡتَغُوۡا مِنْ فَضۡلِہٖ ؕ اِنَّہٗ کَانَ

بِکُمْ رَحِيمًا ﴿۱۰﴾

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهًا ۚ فَلَمَّا تَجَسَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ آعْرَضْتُمْ، وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا ﴿۱۱﴾

پھر یہ تُوہی تندر فنیس ترھا ترو سہ چھو بے
شک توہہ پیٹھ پھیری پھیری رحم کرن دول۔
بیہ نیلہ سمندر س منتر (طوفان میں کئی) توہہ
کلیف واتر و۔ تہ تس سوا (تم ہاتے وجود)
بین تُوہی آلو کران چھو، چھ (تہندبو ذہنو
بشتر) فاب گرھان۔ پتہ نیلہ سہ (اللہ تبارک)
توہہ پکاوتھ خشکی کن انان چھو تہ تُوہی چھو التندر
کتہ) روے مرؤانی کران۔ تہ انسان چھ سپٹھ
ہے ناشکر گزار۔

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِّفَ بِكُمْ يَأْتِ الْبَرْقُ أَذً
يُذِيسِلْ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا الْكُفْرَ
وَكَيْلًا ﴿۱۱﴾

کیا اچھو تُوہی (یہ زمانہ تر تُوہی چھو) امیرتھ
بشتر بلکل امنس منتر سہ (یاتر) دو براوی و
توہہ تشک پٹھس پٹھ (زمینس منتر) یا کر توہہ
پٹھ کتہ روڈلہ نازل تہ پتہ نیلہ تہ تُوہی
کاٹھ پین کار ساز (تہ چارہ گر)۔

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِينِدْكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى
فَلْيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ
فَيُغْرِقْكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۚ ثُمَّ لَا تَجِدُوا
لَكُمْ عَلَيْتَابًا بِتَوْبِعَا ﴿۱۲﴾

یا تُوہی چھو امیرتھ بشتر بے خوف ز سہ اذی توہہ
بیہ کتہ لٹ اتھ (سمندر س) کن پھیرتھ۔ تہ
توہہ پٹھ سوزاھ تیز واو تہ تہند کفر مو کھ
کری و توہہ عرق۔ اتہ) پتہ نیلہ تہ تُوہی اتھ
(عذابس) پٹھ اسہ خلاف پین کاٹھ مددگار۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَفَعْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَقَضَّيْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا ﴿۱۳﴾

بیہ چھ اسہ بنی آدمس (سپٹھا) شرف بخشمت
تہ تہند خاطر چھ خشکی منتر تہ سمندر سوار تہند
سامانہ پاؤ کوڑمت۔ تہ تمن چھ پاکیزہ چیز و منتر
رزق دیتت، تہ یک مخلوق اسہ پاؤ کری تہ
چھ تہو منتر چھتہ جاون پٹھ اسہ تمن (بنی
آدمن) سپٹھا فنیات و تہ تہر۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنثَىٰ بِمَا صَدَّقَتْ
فَمَنْ أُوذِيَ كِتَابَةً يَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ
يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿۱۴﴾

بیہ (کرو سہ دہہ تہ یاد) نیلہ دہہ اسی پتھ
اکھ جماعت تہند امام ہتھ ناد دتھ انون اچھ
یہندس و چھس اتھس منتر تہند (اعمالن تہر)

کتاب دنو پیو رتم پرن (بڑ شوقہ سان)
پیو کتاب - تہ تمن پیو پیو تہ اکھ ڈاڈی (تر)
ظلم کرنہ -

بیہ یس بیٹھ (ڈو میہس) منزاؤن روزہ مسہ
اسرہ اترس منز (تر) اوئے - تہ مسہ آسہ
(بیٹھے پاٹھی) پینس (طور) طریقس منز سارہ
کھوتہ جلد ڈولمت -

بیہ قریب اوس نہ تہ (کلام) کہ با عتہ یس
اسرہ تریہ پیو وحی کھوتہ نازل کورمت چھہ رتم
آوہ بنے تریہ (جاو کر پیس) عذابس منز بیٹھ
زن تہ تمن کھوتہ (اسرہ) کلام) بدل کاٹھہ
کلام پانے بناوتھ اسرہ کن منسوب کرہ کہہ -
تہ (اگر تہ تہ کر کہہ تنید) تھتھ صورتس منز
بناوہ بنے تریہ رتم یقینا (پین) جانی دوست
بیہ اگر اسرہ تریہ (قرآن) تھتھ) ثبات قدمی اسرہ
ہی تہ عطا کر مہتر تہ توتہ (سپدہ ہی بیہ نہ) تہ
آسہ کہہ (الہام) ورا تہ (تمن کن سپہاکم
مالدار -) اماہ پوز وہ ڈی تہ چھہ تریہ الہی
وصیہ صبح وتھ ٹاو مہتر -)

بیہ یو دوسے (یہ زن تہ تہند خیال چھہ تہ آسہ کہہ
اسرہ ایہہ ہنتر لکن وول) تہ تھتھ صورتس منز
م سکر تہ ہنا ووتھ تہ زندگی ہند بوڈ عذاب تہ
موتک بوڈ عذاب - (تہ) پتہ لبہ کہہ تہ تہ اسرہ
مقابل پین کاٹھہ (تہ) مددگار -

بیہ جی رتم تریہ بیٹھہ منکر منز کڈنکر زنگہ رنگہ
بہاوتہ کران روزان - بیٹھہ زن رتم تریہ کھوتہ تاوتھ
منکر منز نمبر کڈنے - اماہ پوز (اگر تہ سپد
تیلاروزن رتم (پاو تہ) کھپے کالس تریہ پتہ
(بچتھ تہ جلد گزھن تہا) -

یہ سلاک اسرہ سانہ تہہ سلاک مطابقی یس اسرہ

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي الْأُخْرَى
أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۱۵

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً ۖ
وَإِذَا لَا تَأْخُذُكَ ذَلِكَ خَلِيلًا ۝۱۶

وَلَوْ لَا أَنْ تَنْتُنَّكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝۱۷

إِذَا لَدَّئِنَّكَ ضَعْفَ الْحِيلَةِ وَضَعْفَ
الْمَعَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝۱۸

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ
لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ
خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۹

سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَ

لَا تَجِدُ لِسْتِنَاتِنَا تَحْوِيلًا ۝

ع

ثرینہ بروٹھ (گڈرے متین) پینین رسو لن
(ہندین قوم) سوتی کوزمت اوس تہ تہ بیکہ
تہ سائس گند سنوکس منز کا نہہ فریق۔
ثر آس آفتابہ ڈلنہ (کہ وقتہ) پیٹھ راتہ ہند
واہر ایگٹ گزٹھنس تام (بیون بیون ساعتن
منز) زبر پاطھ نماز ادا کران تہ صبحہ کہ وقتہ
(قرآن) پرن تہ (زان لازم) بے شک صبحہ
کہ وقتہ (قرآن) پرن چھہ (اللہ تعالیٰ ہندس
دربارس منز اکھ) مقبول عمل۔

اقِمْ الصَّلَاةَ لِذُلُوتِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ
الْأَيْلِ وَقِزَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قِزَانَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُودًا ۝

وَمِنَ الْأَيْلِ فَتَهَجِدْ بِهِ نَائِلَةً لَّكَ ۝
عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مَّخْمُودًا ۝

بہ آس راتس تہ تہ امیر (قرآن) کہ ذریعہ کیہ
کال شو نگہ پتہ شب بیداری کران۔ یس تریہ
پیٹھ اکھ ہر انعام چھہ۔ (تتھیاٹھ) چھہ پوز توقع
نوجون پروردگار کری تریہ حمد کس مقامس پیٹھ
استاد۔

وَقُلْ رَبِّ آذِنْ لِي وَأَدْخِلْ فِي صَدَقَتِي
وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صَدَقَتِي وَأَجْعَلْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ سُلْطَنًا نَّصِيرًا ۝

بہ ون (ز) اسے میانہ پروردگار! مینہ کرنیک
طریقس پیٹھ (دوبارہ عکس منز) دا ایل تہ نیک
ڈکر پتہ کن تراونہ کس طریقس پیٹھ گڈم (کہ
منز) تہ بہ کرن پانہ پستہ طرفہ میون کا نہہ
مددگارا تہ) گواہ مقرر۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

بہ ون سارنہ لوکن (زبس) پوز چھہ (وہوئی)
آمت تہ اپز چھہ تزلومت تہ اپز تہ چھہ
تروبتہ گزٹھن وول۔

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

بہ چھہ اسی قرآنہ منز واہر واہر سو (تعلیم) تازیل
کران یوسہ مؤمنن ہند خاطر شفا تہ رحمت بخشگ
موجب) چھہ تہ ظالمن چھہ صرف کلاس منز
ہر پر کران۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَافِرِ إِنَّا آعِزُّوهُ
وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ لَهُ سُلْطَنًا مُّبِينًا ۝

بہ ینیلہ اسی انناس پیٹھ انعام کرو تہ سہ چھہ

۱۷ یعنی سورے دنیا کر چاڑی تفریق۔

۱۸ اتھ منز چھہ حضرت ابوبکرس کن اشارہ کر تہ آمت۔

بہتو پھیر گزراں تہ دُور دُورے چھ روزان۔
تہ ییلد تِس کا نہہ تکلیف واہ تہ سہ چھ سپہ
سہ ناوو مید گزراں۔

ثُرُون (بہن نواسہ منتر) پر پتھ اکھ فریق (چھ
پنس (پنس) طریقس پتھ عمل کران۔ لہذا
(ترو پنس پروردگار سہ پتھ فاصلہ تکیا زہ) چون
پروردگار چھ تِس بہتر زانان لیس جساد
صحیح وتہ پتھ چھ (او کئی تسند فاصلہ کر پنا کر
سند پوز ضرور روشن)۔

بیہ چھی تم تریہ رؤس متعلق سوال کران، تہ و ن
(بہن نر) رُوح چھ میا بس پروردگار سپہ حکم
سنتی (پاؤ پٹت) تہ تو بہ چھو (تتھ متعلق)
علم منترے (حصہ) دین آمت۔

سہ اکر سو پتھو تہ پتھ پاٹھ لیس (کلام الہی)
اسہ تو بہ پتھ حوی (ہند ڈریہ نازل) کورمت
چھ سہ سکو (دنیا بہ پتھ) پتھ لیس بہ تہ
اتھ کامہ منتر پتھ خاطر اسہ خلاف کا نہہ کار ساز۔

امہ ورائی نر چائس رہہ سہنر (خاص) رحمت
اسہ (پوسہ اتھ واپس ازہ مگر یہ قرآن پیہ تہ
نہنا و تہ تکیا زہ) تریہ پتھ چھ چائس پروردگار
سند یقینا (سہما) بوڈ فضل۔

ثُرُون (بہن نر) اگر تمام انسان (تہ) تہ جن (تہ)
یہیم قرآنک جو رہ انہ با پتھ جمع سپن تہ تم
ہکن تہ (توتہ) امیک جوہ اہتھ۔ یوڈ وے تم
اکھ اکر ہند مددگارے (کوہ) بن۔

بیہ چھ اسہ پتھ قرآنس منتر بے شک پر پتھ اکھ
ضروری کتھ مختلف طریقو بیان کر مپتھ۔ پتھ
(تہ) پتھ واریا ہو لوکو (اتھ متعلق) کتھ (مع
وتھ اختیار کرن) ورائی پر پتھ کتھ انکار کورمت
بیہ چھ بہتو (پتھ) ووتمت (نر) اسی مانو تہ

وَنَّا بِجَانِبِهِمْ ، وَإِذْ آمَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ
يَكُفُّ ۝

قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِمْ ، فَتَرْبُكُمْ
أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ
أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا
قَلِيلًا ۝

وَلَكِن هُنَّآ لَنذَهَبَنَّ بِالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ
عِلْمِنَا ذَكِيلًا ۝

إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ، إِنَّ فَضْلَكَ كَانَ
عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝

قُلْ لَّئِن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ
عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
مِن كُلِّ مَثَلٍ لِّقَابِي أَكْثَرُ النَّاسِ
إِلَّا كُفُورًا ۝

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ

لَنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ⑩

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن تَجْوِيلٍ دَعْنَبٍ
فَتَقْجِرَ الْأَنْهَارَ خِلَافَهَا تَفْجِيرًا ⑪

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَت عَلَيْنَا
كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِنُوحٍ وَالْمَلَكَةِ
قَبِيلًا ⑫

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرِفٍ
أَوْ تَزُقِي فِي السَّمَاءِ وَلَوْ نُوْمِنَ
لِرُقَيْبِكَ حَتَّى نُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا
تَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ
إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ⑬

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَ
هُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ
بَشَرًا رَّسُولًا ⑭

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ
مَلَائِكَةٌ يَّمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَلَّزْنَا عَلَيْهِمْ
السَّمَاءَ مَلَكًا رَّسُولًا ⑮

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
إِنَّهُ كَانَ يَعْبُدُ خَيْبًا بِصِدْقًا ⑯

ہرگز چاند (کانہہ) کہتے یوتانی (تبیحہ سیدہ نہ نہ)
تر کہہ سائے با پتھ زمپینہ منزا کہ نگہ راہ تجارتی
یا آسی تریہ کانہہ کھنبر باغ تو دھبہ باغ تو
تر کہہ تھہ منتر پور پانھی (بیسلم) نہر تجارتی۔

یا بیٹھ پانھی زن چون دعویٰ چھہ تر وانہہ اسر
پیٹھ آسمانچہ پھلہ یا کرمن اللہ (تعالیٰ) تو
تہندہ ملایک (اسر) بروٹھہ کن اُنہہ استاد۔

یا آسی تریہ کانہہ سو نہ سندر گر۔ یا کھسکھ تر
آسمان پپٹھ تو آسی الفونہ چائیس (آسمان)
کھسکھ پیٹھ تو ایمان۔ یوتانی نہ نہ تر (ہیور
کھسکھ توہ) اسر پیٹھ کانہہ کتاب تازل کرکھ۔

یہ سو آسی (پانہ) پیر ہون۔ تر ون زمین (میون
پروردگار چھہ) پیرھو تھو نشہ (پاک۔ پیر) تو
پھس صرف بشر رسول الہ

تر تھہ ہائیس پیٹھ یس رہمن نشہ آمت چھہ،
تہم لوکھ چھہ ایمان انہہ نشہ صرف امر کہتھ
پتھ رُئی ہی زرتو وون (پینٹین دن منتر) کیا

اللہ (تعالیٰ) ہن چھا کہ بشر رسول بناوتھ نوزمت؟

تر ون (جمن نہ) اگر زمین پیٹھ ملایک (بسان) آہہ
ہن ہم زن زمین پیٹھ مطمئن یا کھ پکان پکان
آہہ ہن تیلہ کرہون آسی (تھہ صورتس منتر) ضرور

آسمان پیٹھ کانہہ ملایک (ہے) پیغمبر بناوتھ تازل۔
تر ون (جمن نہ) مینہ تو تہہ درمیان چھہ اللہ
(تعالیٰ) ہے گواہ سند شہیتہ کافی۔ سہ چھہ پینٹین
بندن تران وول (تہ) وچھن وول۔

۱۰۔ قرآن کریم چہ زبانی چھہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون نہ بشر رسول ہیکہ نہ آسمان
پیٹھ کھسکھ۔ تجارتی چھہ بہن مسلمان پیٹھ ہم امر باوجود یہ ایمان چھہ تھوون نہ سہج
کھوت آسمان پیٹھ تر لگ بھگ نہ ساس ہری گئیس آسمان پیٹھ دتہ، آخری زائس
منتر و سہ سہ تر مسلمان کر اصلاح۔

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ
يَضِلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ
وَ تَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى
وُجُوهِهِمْ عُمْقًا وَ بُكْمًا وَ صُمًّا
مَا وَرَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زُدْنَاهُمْ
سَعِيرًا ۝

یہ نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینے سے چھوڑ
ہدایت چھوڑ آسان ہے نہیں سہ گمراہ کرے تو تڑپ لیں
ہن نہ بس (یعنی اللہ تعالیٰ بس) مقابلہ تندر
کاٹھہ تہ مدوکار تہ قیا مٹر دوہہ کروکھ اسی
تم تہندو مقصدو (تہ نیتو) مطابق اونی تہ کلو
تہ زری آسہ کس حالتس منز جمع۔ تہندہ ٹھکا نہ
آسہ جہنم۔ بیلیہ تہ سہ (جہنمک نار ہنا) سوتن ہنیہ۔
تہ ہمن بیہ عذاب سہنت کرنہ۔ بیس (عذاب زہ)
وہو نہ نارک آسہ۔

ذَلِكَ جَزَاءُ هُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِأَيِّنَّا وَ قَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ
رُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا
جَدِيدًا ۝

یہ (نار) آسہ ہمن (ہنرہنے عملن) ہند جزا
تکلیارہ تموکوڑ سانہن نشان ہند انکار تہ وونکھ
نہ کیا بیلیہ اسی (مترتھ) اڑی جہ تہ بوس
گرتھو (تہ اسی بکوا نو سہ زندہ کرتہ؟ تہ اکر
بکوا پڑی پاٹھو اہس نو پیدایشہ ہنرہ شکلہ منز
تکلیہ؟

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ
يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا
لَا رَيْبَ فِيهِ فَاَبِ الظَّالِمُونَ إِلَّا
كُفُورًا ۝

کیا ہمن چھنا (ونیکام تہ) فکر توڑنت ہر سہ اللہ
نیو آسمان تہ زمین پاؤ کرکری ہو چھ، چھ اتھ
کھچھ پیٹھ تہ قدرت تھوان تر سہ کر ہمن ہوی
(بل لوکھ تہ) پاؤ تہ تھہ منز چھنہ کاٹھہ شک
نہ تمو چھ تہندہ خاطر اھ معیاد مقرر کوڑنت
(توتہ) چھ تمو ظالمو صرف ناشکری ہنرہ تہ پراؤتہ
تہ ون (ہمن زہ) اگر توہی میاس پرور دگار سہند
رحمتہ کین (آنہرہ رہتہن) خزان ہندی (تہ)
نابک آسہ ہو تہ توہی تھوہی کھہ (تم توتہ تہندہ)
خریج گرتھہ کہ توفیہ پتھہ رتھہ تہ انسان چھ بوڑ
کپوش۔

قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ خَيْرًا لِّنَ رَحْمَةِ
رَبِّي إِذًا لَّمْ مَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ
وَ كَانِ الْإِنْسَانُ قَنُورًا ۝

یہ اسی آسہ موسیٰ ہس نو پرہ زوہی نشاہ دڑہی
اڑ تہ پررھ تہ بنی اسرائیل (تم حالات) ایساہ
(موسیٰ) ہمن (مصر والہن) کن آیاو تہ فرعون
ونیاوتس (نہ) اسے موسیٰ! بچھتھ تہ بے شک

وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ
بَعَثْنَا فَبَدَّلَ إِسْرَاءَ يَلٍ إِذْ
جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ
يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۝

فریسیں منتر ولینہ آمنت زانان۔
 تمہو دیتیں جواب انرا تریہ چھٹے شک معلوم
 گوشت زریم (نشانی) چھ صرف آسمان ہندی تو
 زمینکی پروردگارن بعہرت بختہ و اول نشانی بناوٹھ
 نازل کرے ہو۔ تو اسے فرعونہ ! بہ چھس تریہ
 متعلق پڑھ تھاوان زرتھ سپدکھ (پنٹین بدرادان)
 منتر) حزرور ناکام تہ نامراد۔

اتھ پیٹھ کوز تہ تم (یعنے موسیٰ تہ تند قوم) ملک
 منتر کڑتھ تڑھتنگ اراد۔ تریک نتیجہ دراوہ زرت
 اسہ پھانٹاؤر آس سہ تہ تم ساری یکم تس سوتو
 اسی۔

بیسہ تمہ (یعنے تسند پھین) پتہ وون اسہ بنی
 اسرائیلن زرت، توہی لبوتھتھ (وعدہ وپاؤتس)
 ملکس لہ منتر کڑتھتھ آراہ سان)۔ پتہ بیڈل (مسلمان
 ہندو فاطر) دویمیل لہ ہند (عذابک) وعدہ
 (پلور سپدک وقت) بیہ تہ اسی انوہ توہی
 (ساری) توئن سونہرتھ۔ لہ

بیسہ چھ اسہ یہ قرآن پزرتھ (تہ حکمتہ) سانے نابل
 کوزرت تہ پزرتھ (تہ حکمتہ) سانے چھ پتہ نابل
 گوشت تہ اسہ چھکھ تہ صرف خہ شخبر وپہ وول تہ
 (غلابہ لبتہ) خیردار کرن وول بناوٹھ سوزرت۔
 بیہ چھ اسہ (اتھ) قرآن بنوشت تہ اتھ چھ اسہ
 حصہ کڑوہتہ (یعنے سورہ چھس بناوہ وستی) تیکہ
 زن تہ (سہل پانگو تہ) وارہ وارہ یہ لاکن پرتھ
 بوزر ناوٹھ ہیککھ بیہ چھ اسہ یہ کم کم کڑتھ نازل
 کوزرت۔

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ ذَرَابِنِ
 كَذَّبْتَكَ يَفِرَعُونَ مَثْبُورًا ﴿۱۷﴾

فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 فَأَعْرَفْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿۱۷﴾

وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ رَبِّيَ إِسْرَائِيلَ
 اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
 جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿۱۷﴾

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَهُ وَمَا
 أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۱۷﴾

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ
 عَلَى مُكْتَفٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿۱۷﴾

لہ یعنی ملک فلسطین۔

لہ بیہ آیس منتر چھ وعدہ الآخرة مسلمان متعلق بیان کرتہ آمنت (فتح البیان علامہ شوکانی)
 لہ اسہ پیشگوئی مطابق چھ یہود اذکر زمانہ فلسطینس پیٹھ قابضن گامتہ۔

قُلْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَوْلا تُوْمِنُوْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ
اَوْتُوا الْحِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُثَلَّ
عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلاَّذْقَانِ سَجْدًا ﴿۱۱﴾

وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ
رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿۱۲﴾

وَيَخِرُّوْنَ لِلاَّذْقَانِ يَئِبْكُوْنَ وَيَا
يَزِيْدُ هُمْ خَشُوْعًا ﴿۱۳﴾

قُلْ اِذْعُوْا اللّٰهَ اَوْ اِذْعُوْا الرَّحْمٰنَ
اَيَّامًا تَدْعُوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى
وَلَا تَجْهَرُوْا بِصَلٰتِكُمْ وَلَا تَخَافُتْ يَمٰهَا
وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿۱۴﴾

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ دَلِيْلٌ مِنَ الدَّلٰلِ وَاَكْبَرُهُ
تَكْبِيْرًا ﴿۱۵﴾


تَرْوَن (دہمن ز) توہی اُنی تو اتھ پیٹھ ایمان یا
متہ اُنی تو۔ یمن لوکن امہ (کہ نازل سینہ)
بروٹھ (الہامی کتابو یا صحیح فطر تہ کہ ذریعہ) علم
دہن آمت چھ۔ نیلہ دہمن بروٹھ کتہ (یہ) پر تہ
یوان چھ تہ تم چھ (یہ بوزتھ) پور پور فماتہ براری
پیراوتھ ڈیکہ وارو (یعنی سجدس مشن) پوان۔
یہ چھ وتان (نہ) سون پرور دگار چھ (پر تہ کتہ
حاجہ نشہ) پاک۔ تہ سائس پرور دگار سستہ
وعدہ چھ ضرور پور سپد تھ روزن وول۔

یہ نیلہ ییم ڈیکہ وارو (سجدن) وسنتھ
ودان گرشہان چھ تہ سہ (قرآن) چھ تہ تہنہ
زاری تہ عاجزی (یہ ہن تہ) ہرراوان۔

تَرْوَن (دہمن ز) اذ توہی (خدا لیس) اللہ
(وہنتھ) آلو کڑی تو یا رحمن (وہنتھ)۔ لیس (ناو
ہتھ) تہ توہی لیس آلو دیو (توہی) نیکو دتھ) تکلیا ز
ساری (پر تہ کھوتہ بری) ناو تہ صفت چھ تہ تہ
بہی مسی ز تہ تہ پیڑی دعا جاو بر بڑ منگان تہ
مسی ز (سبھا) لو تہ منگان۔ ٹیکہ آس اتھ
درمیانہ (درمیانہ) کاتھہ و تھ پرراوان۔

یہ وَن (سندسے) ذی بہس بوزناوتھ زہ
پر تھ کتہ تعریفک حقدار چھ اللہ (تعالیٰ) ہے۔
بیس نہ چھ اولاد تہ نہ چھ حکومتس مشن لیس
کاتھہ شریک تہ نہ ہیکہ لیس کاتھہ عاجز لیتھ
(تہ لیس پیٹھ رحم لرتھ) تہ دوست ہنتھ۔
(یکہ لیس تہ تہ دوست چھ سپان) مسی ز
تہ مد ہنتھ خاطر سپان) بہی آس تہ سجدس
برقی پانچ بیان کران۔

لہ قرآن کرہیں مشن چھ لفظ اذقان (ہونگتہ) آمت مگر، اسہ چھ ڈیکہ وارو
بامحاور ترجمہ کوزمت۔



سورہ کہف: یہ سورہ چھ مکئی ہے بسم اللہ چھ آیتہ کھف تہ کاہ آیتہ چھیس باہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(یہ چھیس) اللہ (تعالیٰ) سندن او ہوتہ (پر ان) یس
حد رکوع کرم کرن وول (تہ) چھ رکوع چھ رکوع رکوع
کرن وول چھ۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ
الْكِتٰبَ وَكَفَىٰ يُجْعَلُ لَهٗ عِوَجًا ②

پر ہوتہ کتبہ تعریفک تھلا چھ اللہ (تعالیٰ) ہے
نیو یہ کتاب پسند بندس پیٹہ تا نزل کر ہوتہ چھ
تہ اتھ مفر تھوون نہ کا نہہ چھ۔

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا لِّمَنْ لَّدُنْهُ
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ
الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ③

یہ چیز ستر شہرت تہ صحیح دتھ تا ون واجتہ تاوتھ
چھ (تھو یہ تا نزل کر ہوتہ) بیٹہ زن سم
(لوکن) تہند (یعنی خدایہ بندہ طرفہ) بیٹہ والہ اگر
سخت عذابہ نشہ آگاہ کر تہ ایمان ان والہن
لوکن، یم نیک (تہ ایمانہ کہ حالہ مطابق) کام
کران چھ، دیہ تھو شہرت تہ تہند با پتھ چھ (خدایہ
بندہ طرفہ) رت اجہر (مقدہ)۔

مٰكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ④

تم روزن ہمیشہ اتھ (اجر کس مقامس) مفر۔

وَيُنذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ⑤

تہ (یہ چھ یہ تھو او کو تا نزل کر ہوتہ) بیٹہ
(زن) سم (تم لوکن تہ) بیٹہ والہ عذابہ نشہ
خیر دار کر۔ یم یہ ونان چھ (نہ) اللہ (تعالیٰ)
ہن چھ (قللہ تفر) نیچو ہنومت۔

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَّ لَا يَبۡتٰهُمۡ
كِبۡرَتٌ كَلِمَةً يَّخۡذُرُوْنَ اَفۡوَاهِهِمۡ
اِنَّ يَفۡقُوۡنُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ⑥

تمن چھتہ اتھ متعلق کا ہنہ علم (حاصل) نہ (اوس
اتھ سلسل مفر) تہند بن بڑین (کا نہہ علم)
یہ چھتہ سبھا بڑ خط نیک کتھ ایوسہ تہند ہو
سمو مفر نیران چھتہ (بیکہ) تم چھ محض
اپز ونان۔

فَلَعَلَّكَ بَاطِلٌ خَافٍ يَّغۡفٰكُ عَمَّاۤ اَتٰتٰرِهِمۡ اِنْ
لَّمۡ يُوۡمِنُوۡا بِهٰذَا الْحَدِيۡثِ اَسۡفَا ⑦

اگر تم اتھ تھرت غلطیہ وائس کلامس پیٹہ ایمان
ان نہ تہ تہ تراو کھا تہند سم غمس مفر شہرتہ انسانوس
سپدہ کو پن پان ہا کتس مفر؟

یہ کینٹھا (روپہ) زمینس پیٹھ (موجود) چھ
 تہ چھ اسرے شک امیر کہ پاراوک (باغوش)
 بنومت۔ میٹھ زن اسی تمس امتحان ہجو (نہ) تمو
 منز کس چھ سار وپے کھو تہ بر کھام کرن وول۔
 بیہ یہ کینٹھا میٹھ زمینس پیٹھ (موجود) چھ تہ
 فنا کڑھ اسی بناو اتھ بے شک (اکہ دوہہ)
 واران سوٹھر۔

تہ چھیا خیال نہ کہف تہ رقیہ والی (لوکھ)
 اسی سانہ نشانو منز کانہہ تہ میٹھ عجیب (نشان
 پہنر مثال پتہ زاہ لبہہ ہیکہ تہ پتھ)۔
 یلیہ تم (کینہہ) نوجوان کھلہ ڈلہ گو پتھ منز پناہ
 گزین سیدر تہ (دعا کران) دونکھ (نہ) اسے
 سانہ پروردگار! اسر کر پستہ دربار منز
 (خاص) رحمت عطا۔ تہ سانہ خاطر کر سائس
 (پتھ) معاملس منز رہتائی تہ ہدایت کر سامتہ
 دستیاب۔

میٹھ پیٹھ اسر تم اتھ کھلہ ڈلہ گو فر منز (نیبرم
 حالات) بلوزنہ نشہ کینٹھن ورین ہتر خاطر محروم
 کر۔

پتہ تلی اسر تم (تمہ حالتہ منز) میٹھ زن اسی زانو
 نہ سیتس کاس تم (مسیح ہندک پارو کار تہ)
 روڈی ہتی اسی (تہنزو) دیو جٹارو منز کوہہ اکھ
 جماعت اسی تہ جادو رتھ تھ تھون واجز۔

اسی چھ (ووڈ) تہنزا ہم خبر بلکل مسیح پانچو تہ
 بش بیان کران۔ تم اسی کینہہ نوجوان نیو پستس

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا
 لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا
 جُرُزًا ۝

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرُقَيْبِ
 كَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجَبًا ۝

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا
 رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ
 لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِم فِي الْكَهْفِ
 سِلِّينَ عَدَدًا ۝

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنُعَلِّمَ أَيَّ الْحِزْبَيْنِ
 أَحْطَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ
 إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ

سہ کہف چہ عربی زبان منز گوچہ و نمان۔ روم کین گوڈ پیچہ صدی ہند بن نصاریں پٹیا و عالم
 رومی بادشاہو نشہ۔ پچیز خاطر گوچین CATA COMBS تہ زمین دوزکر کرن منز روزن یہ
 صورت روز تقریباً تریں ہن وریں جاری۔ آخر یلیہ رومی بادشاہ عیسیٰ سید اد
 دراسے یم لوکھ یوگو پھونٹہ نیمر۔ یمن گوچین منز روزن واکر نصاریں چھ اصحاب کہف۔

هُدًى ۱۰

پروردگار سپید (تحقیق) ایمان او نیت اوس
تہ تم اسی اسہ صداقتس منز (بیہ تہ) ہر لور کو تہ
بیہ نیلہ تم (پستہ و طہ منز نیرنہ خاطر) و تھو
تہ اسہ کر کے تہند کر دل مضبوط۔ اہ وون تھو (اکھ
اکس کن تہ) سون پروردگار چھ (سہیں آسمان
ہند تہ زمینک (تہ) پروردگار (چھ)۔ اسی کرو تہ
(زہ تہ) تس ورائی کاتبہ بیئیس معبودس آلو۔ نیتہ
بنو اسی پزر بنشہ دور اکھ کتہ دن وائل۔

یکو لوکو یعنی سانی قومن چھ سہ (معبود برحق)
تراوتھ (پستہ خاطر) بدل بدل معبود بناو تہ
تم کیاز چھہ تہندس تنوتس منز کانہہ تاکار لیلہ
انان؟ اہ (تمن کو تہ چھ فکر تران تہ) ایس شخص
اللہ (تعالیٰ) ہس اپنہ ہنر تھہ لاکتھ تھو تسہد
کھوتہ کس (بیاکھ) ہیکر بوڈ فللم اہستہ؟

بیہ (بیہ وقتہ) نیلہ توہی تمن نش تہ اللہ (تعالیٰ)
ہس ورائی نیلہ چیزج (تہ) تم عبادت کران
چھ (تمہ نشہ تہ) چھو لوہ روڈر تہ تہ توہی

یہو (ووڈی) بیتھ کھلہ دلہ مہاڑی جایہ پستہ
ہس منز۔ (ہرگاہ تہ کرو تہ) تہند پروردگار
کھولہ تہند خاطر پتہ رحمت (یعنی رچیتج
کانہہ وقتہ) بیہ کر تہند خاطر بیتھ (معاملس) منز
کانہہ سہو لیتک سامانہ مہیا۔

بیہ (اسے مخاطب!) تہ چھہن آفتاب و چھان
نیلہ سہ کھسان چھہ تہ سہ چھہ تہند کھلہ دلہ پستہ
چھہ جایہ ہند دو چھہ طرفہ ہنا دلہ نیران تہ
نیلہ سہ لوسان چھہ تہ تمن کھو وری کوی چھہ ڈلہ
نیران۔ تہ تم اسی اتھ گوچھہ منز اکیس کھلہ دلہ
جایہ روزان۔ یہ کتھ چھہ اللہ (تعالیٰ) سہند بو
(نصر تہ کھو) نشانو منز (اکھ نشانہ)۔ بیئیس اللہ
(تعالیٰ) ہدایتج) و تھہ ہاوسے چھہ صداقتس پستہ

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا
فَقَالُوا إِنَّا كُنَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَنْ نَذْعُوهُنَّ مِنْ دُونِنَا لَمَّا لَقْنَا
قُلُوبَنَا إِذَا شِطَطْنَا ۱۱

هُوَ لَآءِ قَوْمَنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِنَا
إِلَهَةً لَّا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَنٍ
بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا ۱۲

وَلِإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَمَّا خَلَقْنَا
الْبَشَرِ أَن لَا يَأْتُوا بِاللَّهِ
شُرَكَاءَ أَحَدًا ۱۳

وَتَرَى السَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَّارَةً
مِنْ مَوَاقِعِ الْمَسْجِدِ وَإِذَا
مَغْرَبَتْ تَرَىٰ فِي سَمَائِهِمْ
كُفْرَهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي
فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ لَعَلَّ الْبَشَرَ
يَلْتَمِذُونَ ۱۴

۱۳

آسان تہ نہیں سہ عمرہ کر شر لہ من تہ تہند
(زادہ) کانہ دوست (تہ) و تہ ہاوک۔

بہ (اسے مخاطب!) تہ چہکھ تم بیدار زمانہ میلہ
زن تم تہند بر چہ تہ اسی پھر ناووکہ تم ڈچن
کن تہ کھوور کن ملہ (تہ)۔ تہ تہند ہون (تہ)
روزہ (تہن سستی) پینتہ بڑھ و ہر و تہ آگنس
منز (موجود)۔ اگر تہ تہند بو حلاتو ہنہ خیر دار
سیدک تہ تہ پھر کہ ہنن نش تہنہ با پتہ تہند۔ تہ
تہند با عنہ پکھ تہ رعہ سستی آورہ۔

بہہ بیتہ پاٹھو تہ اسہ تم (بے کسی ہند حالتہ
منز)۔ اتہ پیٹھ لگو تم پانہ وانی (حار تہ سان)

اکہ اُکس سوال کرنہ (تہ) ہتو منز لوگ اکہ و نہ
ازہ) توہی کتس کاس جھوہیتین ہتہ رودر
ہتہ؟ (یکن کن یہ و نہ او) ہتو وون (تہ)
اُسی چہ (بیتہ) اُکس دہس یا دہس کتس
حصس رودر ہتہ۔ ہتو (یعنی دو کپو) وون
پتہس کاس) توہی (بیتہ) رودر ہتہ چہو۔ تہ
چہ تہند پروردگار (ہے) زہر پاتھو زمانہ۔ لہذا
(یہ چہکاون تہ او تہ) پینتہ یکم (پرانہ) روہ سپہ دیو
پینتہو منز کانہ اُکس تہ سہ سوزیون ہتہ شہرس
کن سہ وچہ (گڑھتہ) تہ ہتہ (شہرس) منز
کنہ اناج چہ سار و ہے کھو تہ جان۔ اد (تہنکو
سند اناج سار و ہے کھو تہ جان آسہ) تہس ہنہ
ازہ کینہ کھو تہ چہر بہہ کر سہ ہتہاری سان (لوگن
ہنہ) راز چہ کتہ معلوم کر پچ کوشش تہ توہہ
متعلق دیہ تہ ہرگز کانہہ (کانہہ) پے پتاہ۔
ہکسازہ اگر تم توہہ پیٹھ فلہہ بن تہ یقینا تہ ہنہو

وَ تَخَسَّبُہُمْ اَیْقَانًا وَ ہُمْ رُقُودٌ ۝ وَ
نُقَلِّبُہُمْ ذَاتَ الِیَمِیْنِ وَ ذَاتَ
الشِّمَالِ ۝ وَ کَلْبُہُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ
بِالنَّوْصِیْدِہِ لَوْ اَطَّلَعْتَ عَلَیْہِمْ لَوَلَّیْتَ
مِنْہُمْ فِرَارًا ۝ اَدَّ کُلُّہُمْ مِنْہُمْ رُغْبًا ۝

وَ کَذٰلِکَ نَعْصَنُہُمْ لِیَتَسَاءَلُوْا بَیْنَہُمْ
قَالَ قَائِلٌ مِنْہُمْ کَمْ لَیْسَتْہُمْ قَالُوْا
لَیْسَتْہُمْ یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمِہُمْ قَالُوْا
رَبُّکُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَیْسَتْہُمْ فَاَبْحَثُوْا
اَحَدَکُمْ یُوْرِقْکُمْ ہٰذِہٖ اِلَی الْمَدِیْنَةِ
فَلَیَنْظُرْ اَیْہَا اَزْکٰی طَعَامًا فَلِیَأْتِکُمْ
بِرِزْقٍ مِنْہٗ وَ لَیَتَلَطَّفْ وَ لَا یُشْعِرَنَّ
بِکُمْ اَحَدًا ۝

اِنَّہُمْ اِنْ یَظْہَرُوْا عَلَیْکُمْ یَاجْمُوْکُمْ

۱۔ اصحاب کہف پہند کہ جانشین یوزر کی عیسیٰ اقوام چہو تم بن اکہ دہہ دنیا ہس منز
ڈچہو کھوور کر پر پتہ علاقہس منز چہا لاوتہ۔

أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مَلْتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا
إِذَا أَبَدًا ﴿۱۶﴾

تو ہر تم کو لای لای مارتھ یا کرو (زبردستی)
تو بہ واپس پستنس مذہب منز داخل تہ تھ
صورتس منز ہیکو بہ توہی زبے کامیاب
مگر تھتھ۔

بسیہ بھو اسر پتھ پاتھو (تمو) تہندو ہو (حالاتو) نشہ
(لوکھ) خیر دار کڑی موتی۔ تھتھ تمن معلوم سید نہ
اللہ (تعالیٰ) سند و عہد چھ پور سیدتھ روزن وول
بسیہ (یہ تہ) نہ تھتھ (وہر دنہ آہتس) ساعلس
(پیش) منز چھنہ کانہہ تہ شک۔ (بسیہ کڑو سہ
وقت تہ یاد) بیلہ تم پستنس کامر متعلق پانہ
وادی کتھ باتھ کربہ لگی تہ تمو وون (اکھ اگس نہ)
توہی بناوو تمن (ہندس روزنہ کس مقاس)
پہلہ اکھ لڑ۔ تہند پروردگار اوس تمن (ہند
حال) ساروہے کھوتہ برتی پاتھو زانان۔ (آخرس)
یکو پستنہ کتھ منز غلبہ جامل کور تمو وون (نہ)
اسی ہے بناوو تمن (ہندس روزنہ کس مقاس)
پہلہ مش پے۔

تم (لوکھ) یکم اصلی حالہ نشہ بے پے بھ (ون
فاس متعلق قیاسی کتھ کران گراہ (تم) اسی تریہ
(نفر) بین سیتی تروہم تہند ہون اوس۔ تہ (گراہ)
ون (پہ نہ) (تم) اسی پانترتھ بین سیتی شینیم
تہند ہون اوس۔ بسیہ ون (تمو) منز کینہہ تھتھو
تہ نہ (تم) اسی ستھ (نفر) تہ بلہ تمن اوس تمن
سیتی تہند ہون۔ ترو وون تمن نہ (تہند نہ صحیح
گرنہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہے برتی پاتھو زانان
تہ کہ لکو وادی چھنہ تمن کانہہ زانان او کو
مہر کر تمن متعلق مضبوط بچہ وادی کانہہ بحث تہ
تمن متعلق مہر کر تمن اصلی حقیقت تمو منز کانہہ
نش معلوم۔

بسیہ کتھ متعلق (دعویٰ سان) ہرگز بہ اس ونان

وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيُفْلِحُوا
وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ
فِيهَا إِذْ يَتَنَكَّرُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ
فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ
أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى
أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿۱۷﴾

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ
وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ
رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ
وَأَثَمُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ
بِعَدَّتِهِمْ مَا يُخْلَعُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا
تُعَارَفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا
تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿۱۷﴾

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ ۖ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكِ

عَدَاۗٓءُ ۙ

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ذُو الْأَعْزَازِ رَبُّكَ إِذَا
تَسَيَّتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي
لِأَقْرَبٍ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۝

وَلَيْسُوا فِي كُفْرِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سَنَةٍ
وَأَزْدًا ذُو الْأَعْزَازِ ۝

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا لَهُ غَنِيْبٌ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَنْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ،
مَا كُفَرُوا مِنْ دُونِهِ مِنْ دَلِيلٍ رَدًّا لَا يُشْرِكُ
فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

وَأَنْتَ مَا أَوْحَيْتَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ
رَبُّكَ إِذْ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ يَوْمَ
تُجَدِّ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَىٰ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ
تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ
مَنْ أَغْلَقْنَا قَلْبَهُ عَنِ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ

(ز) یہ کہ ضرور لگاؤ پہ کام۔
آ، (صرف کرتے تھے) تھے تھے اللہ (تعالیٰ)
یہ تھے بیہ یلہ (کہتے وقت) تھے تھے گشتی تھے
تھے تھے پٹھ آسن پٹھ پٹھ (یعنی
تندو وعلہ) یاد کران بیہ آسن ونان (نرمینہ)
چھ (پوڑ) وومید نرمینون پروردگار (کر مینہ)
آخر کامیاب تھے) مینہ پکناوتتہ ورتہ پٹھ یوسہ
ہدایت لہنہ کہ حسابہ اندواتنس جاؤ نزدیک چھینہ
تمہ (وہ ہند) کھوتہ یوسہ مینہ تجوز کر مٹھ چھینہ۔
تہ (کینہہ لاکھ چھ پتہ ونان تر) تم اسی پتہ
کھلہ دلہ چھین جاہ مٹھ ترن ہنن ورن رڈوکر
مٹھ۔ تہ نو (وری) اسی تمہ (اتھ وقتس) بیہ
ہر رڈوکر مٹھ۔

تہ ون (ہنن تر) سیپس (کاسس گوچھ مٹھ) تم
چھ مٹھ رڈوکر تہ چھ اللہ (تعالیٰ ہے) رڈوکر
پاٹھ زانان۔ آسمان تہ زمپنک غاب چھ تندو
چھ مٹھ، مٹھ زبر پاٹھ وچھن وول تہ زبر پاٹھ
بوزن وول۔ ہنن (لوکن) چھتہ تس وراڈی کانہہ
تہ مددگار۔ تہ مٹھ چھینہ پننس محکس (تہ پنپنہن
فاسن) مٹھ کانہہ (پنن) شرکپ بناوان۔

بیہ چھاتس پروردگار ہنن کتابہ مٹھ بیس (حصبہ)
تہ پٹھ ووصی (ہند ذریعہ نازل) سپدان
چھ مٹھ پڑا (تہ پٹھ بوزناو لاکھ لاکھ) تہ مٹھ چھینہ
کانہہ تہ بدلوتھ ہیکن وول تہ مٹھ تراوتھ لاکھ
تہ تہ کانہہ تہ چھینہ جاے۔

بیہ تھاو پٹھ پان ہنن لوکن سستی (مٹھ) ہم مٹھ
تہ شامن پننس پروردگارس آلو دوان چھ (تہ)
تہنن رضامندی چھ ہنن شہان تہ ہنن چانہ نظر
ہنن پٹھ تراوتھ ہنن مٹھ نیرن (تہ ہرگاہ تہ تہ
کرکھ تہ) دنیادی زندگی ہنن زینت ہنن ہاکھ

هُوَ لَهُ دَكَانَ أَمْزُهُ قُرْطًا ①

﴿۱﴾

تہ تمہیں فرمانبرواری کرے نہ بیٹھی سُنَدِ دِلِ اَسْبِہ
پستہ یاد نشتہ غافل کورمت آسہ تہ تم کو آسہ پہن
توسی پاپہ ٹھاپش ہنر پاروی اختیار کر ہنر تہ
تسند معاطہ آسہ حد نمبر درامت۔

بیہ ون (لوکن تر) یہ پزر چھ تہندس پروردگار
سندہ طرہ (بنازل) سیدمت - او کو لیس بیٹھ
(اتھ پیٹھ) ابن ایمان تہ لیس بیٹھ (اتھ)
کرن انکار (مگر یہ حقون یاد تر) اسر چھ ظالم
ہندہ خاطر بے شک اکھ تار تیار کورمت بیٹھ
قلین (ووڈ تہ) تم گیس منر تھوڈو تہ چھ
تہ مگر تم فریاد کرن تہ تھ آہ سستی بیہ تہنر
داد رسی کر تہ لیس و پگلے بہتہ تراوی پاپو آسہ
(تہ) بھین والہ کھرس - سہ آسہ چہنہ پاپتھ اکھ
سپھا ناکار چیز تہ سہ (نار) چھ بیٹھ ٹھکانہ
آ، یو لوکو ایمان اوکت چھ تہ تمو چھ نیک
(تہ متاسب حال) علمہ کرے منتر (تم لہن یقیناً
بڑی اجر) یو رتہ کامو کرے منتر آسن اسی
چھتہ تہندہ اجر ہرگز ضایع کران۔

(او او) تہنہ لوکن ہندہ خاطر چھ ہمیشہ روزگار
بارغ (مقدر) - تم منر آسن تہندس پننر اتظامس
قل (نہر پکان) تہندہ خاطر بن تم منر سوہ تہ
ہند بن کرن ہندہ قسم کی ہو کہتہ بناونہ - بیہ لاگن
تم تراولہ پانگی تہ موڈ پانگی سبز پوشاک تم
جنتن منر آسن (تم) پاراوتھ شاہ نشین پیٹھ
ملکین کن (ڈوڈھ دتھ بہتھ) - یہ کوتاہ رتہ اجر

چھ تہ سہ چھ سپٹھ ہے رتہ ٹھکانہ
بیہ کر تہ تم بروٹھ کہتہ تم دون شخص
ہنر حالت بیان یو منر اکیس اسہ دھین ہندہ

وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۚ فَمَن شَاءَ
فَلْيُؤْمِنْ وَ مَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا
أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ
سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَعِينُوا يُوَفَّوْا
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ
يُسَّ الشَّرَابِ ۚ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ②

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا
لَأُنْصِفُهُمْ آخِرًا مِّنَ أَحْسَنَ عَمَلًا ③

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّتٌ عَذِي تَجْرِي مِن
تَحْتِهِمْ لَا تَنفُ يَحْلُونَ فِيهَا مِن
أَسَاوِدَ مِن ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا
خَضْرَاءَ مِن سُنْدُسٍ وَ اِسْتَبْرَقٍ
مُتَّعِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْشِ ۚ رِجْمَ
الثَّوَابِ ۚ وَحَسَنَتْ مُرْتَفَقًا ④

وَ اضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا
لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن آعْنَابٍ وَ

حَقَّقْنَاهُمَا يُتَخَلَّ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا
ذَرَعًا ﴿۲۷﴾

نہ بارغ لہ دتی ہوتی اسی تہ تم اسی اسیر کھنڈر
کھلو سوتو (پر پتھ اندر) ولبتھ تھاؤدی ہوتی۔ تہ
اسیر اوس بہمن (دولتونی بہمن بلکین) درمیان
کیبتھ فاصل تہ وو پدومت۔

كَلَّمَا الْجِنَّتَيْنِ اَتَتْ اٰكْهَمَا وَ لَمْ تَظْلِم
مِنْهُ شَيْئًا وَ فَجَّرْنَا خِلْمَهُمَا نَهْرًا ﴿۲۸﴾

تہو دونوسے وہے باغو دیت (پنن) پانن
مہو (رہتی پانن) تہ تھہ مشر تھو کھ تہ کیبتھ
(تہ) پیرگی۔ تہ بہمن درمیان اوس اسیر کھنڈر
جاری کر پتھ۔

وَ كَانَ لَهُ ثَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَ هُوَ
يُحَادِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ اَعَزُّ
نَفْرًا ﴿۲۹﴾

تس اوس سپٹھا میو (جابل) سپٹن امی کتو وون
تھو پتس سوتو باجس (تھیکتھ) کتھ کران کران
(زہوچھ) چانہ کھوتہ چھ میون مل تہ جاد تہ
(میون) دور تہ چھ جاد عزتہ وول۔

وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
قَالَ مَا اٰطُنُّ اَنْ تَبْسُفَ هَذِهِ اَبَدًا ﴿۳۰﴾

تہ سہ تراو (اک لہ) پتس زوس ظلم کران
پتس باغس مشر (تہ) وون (پتس سوتو
باجس تہ) بہ چھس تہ خیال کران یہ (میون باغ
کر) گرتھ زانہ نہاہ۔

وَ مَا اٰطُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَكِنَّ
رُدِّدْتُ اِلٰى رَبِّي لِاَحَدٍ خَيْرًا مِنْهَا
مُنْقَلَبًا ﴿۳۱﴾

بہ چھس تہ بہ خیال کران نہ سو (وعدہ دتہ آہتر
بڑ بادی ہنر) گرتھ (زانہ) بہنہ واجتہ تہ اگر
(فرض کرو) بہ پتس ریس کن واپس (تہ) ہنہ
بہ تہ بہ لبہ (تہ تہ) بے شک بہتھ کھوتہ
بہتر ٹھکانہ۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَ هُوَ يُحَادِرُهُ اَلْقَرْتِ
بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ نَّمُّ مِنْ
تُفْقَةٍ نَّمَّ سَوَّلَكَ رَجُلًا ﴿۳۲﴾

تہ سوتو باجی وون تس پر تھہ گار کران (زہ) کیا تہ
چھتھا تس (ہستی) انکار کورمت؛ بہتھ تہ (اول)
میشر ہنر (تہ) بہتھ نطفہ ہنر پاد کورکھ تہ ہنوکھ
تھو تہ پور انسان؟

لِكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَ لَا اَشْرُكَ بِرَبِّي
اَحَدًا ﴿۳۳﴾

(چون تہ چھ یہ حال) مگر (بہ چھس یہ دپان نہ)
حق تہ چھ یہ نہ اللہ (تعالے) ہے چھ میون

۱۔ باغو ہنر چھہ بنی اسرائیلین میلین وول مال دولت تہ اولاد مراد۔

۲۔ نہر چھہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنہ زمانہ مراد۔

پروردگار تہ بہ پھنس نہ کاٹھہ (تہ) پینس پروردگار
مشرک بناوان۔

بہ نیلہ تہ پینس باغس منتر آیاکھ تہ تریہ کیاہ
ووتھہ تہ؟ (نرتی سپد) یہ اللہ (تعالیٰ)
نیٹھہ (بکیانہ) اللہ (تعالیٰ) ہندی (فعلہہ)
سیتو چھہ پر تھہ کاٹھہ قوت (حاصل سپدان) ہرگاہ
تہ مینہ (ناچیزس) پینتہ کھوتہ ماس تہ اولادن
منتر کم پایہ ترانان چھکھ۔

اد بیکل ممکن چھہ نر میون پروردگار دیہ مینہ
جانہ بانہ کھوتہ کاٹھہ جاہ رت (باغ) تہ اتھ
(پانس باغس) پیٹھہ والہ اکھ نارہ ریٹھہ - نیٹھہ
کوتہ سہ اکھ نون تہ ننگہ میدان بنہ۔
یا ہوکھ اتھ آتہ پتہ بیکھ نہ تہ (اسے
اسلامہ کر ڈٹمنہ) اکہ تہ ہانڈنگ (تہ) طاقت
(ادتی سپد)

تہ تمیک سورے سو آوتباہ کرنہ تہ تہو (یعنی بانگر
ہلکن) ہتہ، پینو دونوے اتھ سترہ یہ حال وچھتہ
نرسہ (باغ) اوس پینہن ڈکن پیٹھہ ورسٹھہ امت تہ
مالہ کون یس تہو امہ (بانگر کر ووتھہ بلینہ)
باچھہ کورمت اوس تہ ورت، یوتن (نہاے کیا گوم!)
کاش! مینہ آسہے نہ پینس پروردگار سندرک بنومت۔
بہ (تہ ورت) رلے پہ نہ کاٹھہ جماعت تہ
تس سیتو یوہ سہ اللہ (تعالیٰ) ہس ورائی تہ
اتھ روٹ کرہے۔ تہ نہ ہیک تہو (تمیک کاٹھہ)
انتقاہے ہتھہ۔

پیتھین (ووتن) پیٹھہ چھہ اللہ (تعالیٰ) سندے
مدد (مفید) آسان، یس معبود برحق چھہ تہ

وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ
اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرَىٰ أَنَا قَلَّ
مِنَكَ مَا لَأَوْ وَكَذَا ﴿۱۸﴾

فَعَلَىٰ رَبِّي أَن يُّؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن
جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّن
السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿۱۹﴾

أَوْ يُصْبِحَ مَاءً وَهِيَ غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ
طَلَبًا ﴿۲۰﴾

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى
مَا آفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ
عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ
بِرَبِّي أَحَدًا ﴿۲۱﴾

وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتْنَةً يَّتَضَرَّوْهُ مِن دُونِ
اللَّهِ وَمَا كَان مِّنْتَصِرًا ﴿۲۲﴾

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿۲۳﴾

لہ غوراء: آپک شرنیتھہ زمپتہ منتر سون گرتھن - پتھہ آیس منتر چھہ آیس کلام الہی مراد۔
چنانچہ اسلام مینہ پتہ گورو ساری نے مذہبن منتر وھی تہ الہامک سلسلہ بند۔

سُءٌ جِدُّ بَدَلِ دَلَسٍ مُنْزَلِ (تہ) ساروہے کھوتہ رت
تہ (رتہ) انجاہو کہ (پاؤ کر نہ کر) حسابہ تہ
چھ ساروہے کھوتہ بہتر۔

بیہ کر تہ بہن بروٹھ کتہ سیمیر (دُیادی) زندگی
ہنر حالت (تہ) واش کڈتھ بیان۔ (زر سو چھ)
تمہ آکر پٹھو لیس اسہ اوہر منر وول پستہ
رلیووتھ سستی زمبیتہ ہند ووپن پے، پتہ
سنے پہ سو کڑیٹ بیتھ واوڑمٹھ ورا وان پھیلان
چھیل۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ پر پتھ کتھ پلٹھ
تہ قدرت مقنون وول۔

مال تہ گبر چھ سیمیر زندگی ہنر رونق۔ تہ ہاتھ روز
واجبہ نیک (تہ مناسب حال) کامیہ چھیل چہ اس
پروردگار س نیش بدلہ کہ لحاظہ (تہ) ہڑتہ وومید
ہند لحاظہ (تہ) جان۔

تہ (تمہ وہہ تہ نیرن تہند کر ہڑی نتیجہ ٹی) نیہ
دوہہ اسی یکم بال (پستہ جایہ پیٹھ) پکنا ووکھ تہ تہ
وچھیاکھ ساری زمبیکو روزن وادی (اکھ اُس سستی
جنگہ ٹاٹھ) نیر وڑی تہ اسی کروکھ تم (ساری)
جمع تہ تمونہ تراوان نہ کاٹھہ (تہ پتھ)۔

تہ تم بین صف گندو گندو چائس پروردگار رس
بروٹھ کتہ پیش کرتہ (تہ تم بین وینہ تر) وچھوہ
توہی چھو (تہ پٹھ پٹھو کمزوری ہندس حالتس منر)
اسہ دلس اہتو (بیتھ حالتس منر) اسہ اسی و
توہی گوڈنکر لہ پاؤ کر ہتہ (تہ توہی اسی و تہ
یہ وومید تھاوان) بلکہ تہند دعوی اوس نہ
اسی کرو نہ تہندہ باپتھ کاٹھہ وعدہ (پور گتھ چنچ
وز) مقصد۔

بیہ بیہ (تہندین اعمالن ہنر) کتاب (تمن بروٹھ

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَعْلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
كَمَاۤ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ
نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ
الرِّيْحُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰۤى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿١٥﴾

الْمَالِ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَ الْبَلْقِيْمَتِ الصّٰلِحٰتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
تَوَابًا وَّ خَيْرًا اَمَلًا ﴿١٥﴾

وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرٰى
الْاَرْضَ بَارِزَةً وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ تُغَادِرْ مِنْهُمْ
اَحَدًا ﴿١٥﴾

وَ عَرْضُوْا عَلٰۤى رَبِّكَ صَفًّا لِّقَدْ جِئْتُمُوْنَا
كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّن
نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿١٥﴾

وَدُوْعَ الْكِتٰبِ فَتَرٰى الْمَجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ

کتے (تھاویں۔ اڑکنی (اسے مخاطب!) شر
 وچھہکے تم مجرم کھوڑوڑی امریکنی یہ تھہ مشنر
 (لیکھتھ) آسہ، تہ تم ورن (تمہ وز) ہے
 (افسوس) سانی تباہی (چھہیہ بروٹھ کتہ استہا)
 یتھ کتہ (گومت) کیاہ پھہ؟ (نر) یہ نہ چھہ کاٹھہ
 لوکٹ کتہ ورتھ ناوے تراوان تہ نہ کاٹھہ بڈ کتہ۔
 بیہ یہ کتھ شہا، تم کو کورمت (آسہ) تہ لین تم پانس
 بروٹھ کتہ موجود، تہ چون پروردگار پھہتہ کالسر
 پھہ ظلم کران۔

بیہ (پاؤو سہ وقت تہ شر ہتس) بیلیہ آسہ ملائکن
 وشیانر توہی کرو آوس سوتی (ر لبتہ) شجہہ
 تھہ پھہ کورتمو (تہ تمہ حکمہ مطابق تس سوتی لبتہ)
 سجدہ۔ مگر ایلپسین (کورہ) سہ اوس جتو اندہ
 لہنڈ کور کور (پسنہ فطرہ مطابق) پسنس پروردگار
 سندر چکج نافرمانی۔ (اسے میا نہو بندو!) کیا
 توہی چھو ہونا بہ تراوتھ سہ (شیطان) تہ تمہز
 ڈریات (پتہ) دوست بناوان؟ بیلیہ زن تم
 تہندہ دشمن چھہ۔ سہ (شیطان) پھہ ظالم ہندہ
 باپتھ سبھہ ہے ناکارہ بدلہ ثبات سیدمت۔

مینہ نہ اسی تم آسمان تہ زمینہ ہنہر سید لیشہ
 (ہندس موقس) پھہ حاض کرک ہتہ تہ نہ اوسم
 (پانہ) تہندہ زو پاؤ کرہ کس موقس پھہ، تہ
 نہ ہیکہ ہا بہ گمراہ کرن والی (پتہ) مددگار بناوتھہ
 بیہ اکرہ سہ وہ تہ یاد۔ بیہ وہ بہ (خلیہ برتر
 مشرکن ورن) نہ وہ ذ انوکھ میاڈ (تم) شریک
 ناد ورتھ۔ لیکن (ہندس شریک اسنس) متعلق
 توہی دعوی کران اسی و۔ بیچہ پھہ تم تمس نادون
 مگر تم ون نہ تمس کاٹھہ، جواب تہ تمس (تہ تہندہ)

مَعًا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتِيَنَا مَالًا هَذَا
 الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا
 أَحْضَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ
 وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝۱۸

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ
 عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ
 أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِكُمْ عَدُوًّا بَدَلًا
 لِلَّذِينَ بَدَلُوا

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ سَاءَ مَا كُنْتُمْ
 تَتَّخِذُونَ
 الْهُضِيِّينَ عَضُدًا ۝۱۷

وَيَوْمَ يَقُولُ تَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
 زَعَمْتُمْ فَذَعَبُوهُمْ فَلَمْ يَشْتَجِبُوا لَهُمْ
 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۝۱۶

بناؤ مہربن شریکین (منز باگ کرو اسی اکھ
مھنور (استاد)۔
تہ مجرم وچھن سہ نار تہ زانن نہ تم چھ تھ منز
سندن والی تہ تم لین نہ تمہ رتہ پتہ تر پچ کانہہ
جائے۔

بہی چھ اسہ پتہ قرآنس منز لوکن بند باپتہ پر تھ کانہہ
(ضروری) کتھ بیون بیون تر این منز وڈی مہتر۔
تہ (نکلیا تر کہو نہ) یہ انسان (ہے) چھ
سار وپے کھوتہ جاڈ بحت کرن دول۔

لوکن ہنس نیلہ ہایت او تہ اتھ پیٹھ ایمان انہ رتہ
تہ پسنس پرور وگارس مغفرت منگتہ رتہ رتہ
تم (لوکھ) صرف اسہ کتھ پتہ تر ہمن پیٹھ تر لین
بروٹھو مہن لوکن ہنتر ہنس حالت۔ یا سپدن ہمن
بروٹھ کتہ عذاب استاد۔

بہی چھ اسی پتہ صرف تھ شخرد نہ والی تہ (عذاب
پتہ رتہ) خیر دار کرن والی بناوتھ سوزن۔ تہ یو
لوکو انکار کوزمت چھ تم چھ اپر کر ڈلیہ او
کتی جگر کران نہ امیر وکی کرن حق نابود تہ تم
چھ میاڈ نشانہ (تہ) میون خیر دار کرن نولہ نومت۔

تہ بہی کس ہیکر تھ شخصہ بند کھوتہ جاڈ نطالم
استھ میس تہندس پرور وگاہ بند لو نشانہ سستی
فکر تارنہ او (مگر) سہ گوو (توتہ) رتہ رتہ
بھو پھیر۔ تہ یہ کینترھا تہند لو اتھو (کماوتھ)
بروٹھ سوزمت اوس تہ ترھن تمی مشر آوتھ

اسہ چھ ہمن لوکن ہندین دن پیٹھ یقینا کھو یا
پرڈ تراؤ اتھ پتہ زن ہمن نیکر تر نہ۔ تہ
تہندین کنن منز (چھ) گوہر (پاڈ کوزمت)
تہ ہر گاہ تہ ہمن ہایتس کن آو دکھ تہ (تم
چھ تر یہ سستی تیوت حسد تھاوان نہ) تھ سوزس
منز کرن نہ تم ہایت (تہ) زاہ قبول۔

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ
مُؤَاعَدُونَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَلَيْهَا مَصْرُفًا ﴿۱۸﴾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ
كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ
جَدَلًا ﴿۱۹﴾

وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ
جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ
إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ أَوْ
يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿۲۰﴾

وَمَا نُزِيلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ ۚ وَيَجَادِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِالْبَاطِلِ لِيُنذِرُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا
آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُلُوعًا ﴿۲۱﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ
عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
وَقْرًا ۚ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ
يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿۲۲﴾

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ
بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
لَدُنْهُمْ مَوْعِدًا لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ
مَوْئِلًا ⑪

یہ یوں پروردگار چھ سبب ہے جنہیں وہ (تو
سبب ہے) رحمت (عطا) کرن والی۔ اگر سہ
تہندو (بد) اعمال کو جنہاں ہلاک کرن میں ہے
تو سہ کر ہے جنہاں ہلاک کرن عذاب نازل۔ (اگر
سہ چھ تہندو کرن) بلکہ تہندو خاطر چھ اکھ
گنہتھ معیاد۔ میں بروٹھ (نہ تم تلن عذاب)
تم لین نہ ہرگز کا نہ چھین باقہ۔

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ
جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ⑫

یہ تم بسببہ ہم اس تہندو ظلمہ کو ہلاک کر
مشر چھین (ہیکہ ہن تہندو باقہ عبرتک باعث
سببتھ) تو اس تہندو ہلاکتہ خاطر بروٹھ
پہیلے اکھ معیاد مقرر کورمت (یہتھ زن تم ہرگاہ
میں صحت تو توبہ کرن)۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لَا آتِيكُمْ مِنْ
مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْعِيَتْهُمَا ⑬

تو (سہ وقت تہ کرو یاد) میں موسیٰ ہن سینس
(سوتی با جس) نوبالسن و نیاد (نہ) ہر (یہتھ و تہ
پہیلے پکان چھس سٹھ پہیلے قایم روزنہ نشہ) ہر
ڈلہ تہ یوت تام ہر (تہن دہ لونی سمندر ہندس
سنگس پہیلے وا تہ نہ۔ یا روزنہ ہتہ بد ہن اورین
تام (بروٹھ بروٹھ پکان)۔

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا
فَاتَّخَذَ سَيْبِلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ⑭

لہذا میں ہم (دو لوس) تم (دو لونی سمندر)
ہندس سنگس پہیلے وا تو تہ تم گئے پنی گاڈ
(تہ) سٹتھ۔ یہتھ پہیلے تمہ (گاڈ) ڈرہ
وتھ سمندر منز پنز و تھ ہتہ۔

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَوْمِهِ إِتَيْنَا غَدَاءًا تَادُوا
لَنَا لَقَيْتَنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ⑮

اڈ میں ہم (تمہ جاہ نشہ) بروٹھ درے
تہ تم (یعنی موسیٰ ہن) وون سینس (رسیق)
نوبالسن (نہ) اسہ دکوج۔ اسی چھ بے شک

۱۱۔ اکھ سمندر گوو موسیٰ علیہ السلام سند دور تہ ہیا اکھ سمندر چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہند دور نبوت۔ یس قیامتس تام جاری روز تہ مجمع البحرین چھ سہ زمانہ میں موسیٰ
دور ختم گوو تہ بحری دور گوو شروع۔
۱۲۔ گاڈ چھ تعمیر عبادت آسان یعنی نیلہ بحری دور شروع پید تمہ وقتہ اس موسیٰ امہ منتر حقیقی عبادت ختم کا ہتہ۔

پسندہ سینیہ سفر کی تھکی ہوئی۔

تو، وونس (ز)، وونو (اوو) کیا سپر (۱) بیلیہ اسی
(آرام خاطر) ہتھ شیلہ پیٹو بیٹھی ہوئی اسی تہ
میں مے گاڈ (یعنی تندر خیل) مشہ تہ میں ہسراو
نہیر کتھ شیطانس ورائی کانس ز بہ تھاو تندر خیل
تہ تو ہنیر عجیب پاٹھی پتو و تھ سمندر منتر۔
تو، وونس (ز)، یوہے چھ سہ (تھام) یس اوسر تھاو
اسن اڈ پھیر کتھ پتو پڈر اکھ و پھان پوت۔

اڈ لوہ (تو) (تہ) ساہو (برگر پدو) بندو
منتر اکھ تہ تہ بند تہ میں اسہ پتہ دریاہ رحمت
(یعنی رچیج سیرت) بچشہ پتہ اس۔ بیہ اوس
اسر تہ پتہ درگاہ منتر (خاص) (تہ)
عطا کورمت۔

موسلی من وونس (ز) کیا بہ ہیکہ امہ (مقصد)
خاطر توہر سوتو پکیتہ؟ نہ یس علم توہر عطا
سیدمت چھو تہ منتر، بیچنا وو منیتہ کینہ ہایت
(وہ و اجبہ کتھ)۔

تو، وونس (ز) تہ ہیکہ تہ میں سوتو روز تہ ہرگز
صبر کتھ۔

تہ سینیہ کتھ ہندس علمس تہ ووناکھ تہ تھہ پتھ
کتھ پاٹھی ہیکہ تہ صبر کتھ۔

تو، وونس (ز) یوشہ خیل تہ میں یو توہر
صبر کرن وول۔ تہ بہ کپ تہ تہند کتھ کچج نافرمانی۔

تو (رؤحانی بزمن) وونس (ز) اڈ کیا؟ اگر تہ
میں سوتو پکاکہ تہ تہ پرتھو نہ تہ میں گتہ جنس
متعلق یوتانی نہ بہ پانہ تھ متعلق تہ یورس
باوتھ کرے۔

قَالَ آدَّيْت إِذَا دَوَيْتَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي
تَسْمِيْتُ الْحُوتَ رَوْ مَا أَنَسِيئُهُ إِلَّا
الشَّيْطَانُ أَنْ أذْكُرَهُ ۖ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ
فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۖ فَارْتَدَّا عَلَى
آثَارِهِمَا قَصَصًا ۝

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَّبِعَهُ لَحْمَةً مِنْ
عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ لَدُنَّا عَلَمًا ۝

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ
تُعَلِّمَنِي مَعًا عَلَّمْتَ لَشَدًا ۝

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا
أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ
حَتَّىٰ آخُذَ بِكَ لِمَنْهُ وَذَكَرْنَا ۝

فَانطَلَقَا نَادِحًا حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّافِينَةِ
خَرَقَهَا قَالَا اَخْرَقْتُمَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا
لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِمْرًا ۝۱۶

پتہ درآے تم دو لوگے (تہہ) یوتام نہ تم تاؤ کھڑے
تمو (خدا یہ ہندی ٹاٹھی) کوڑتھ ناؤ زور۔ تھ
پہٹ وونس تمو (موسیٰ ہن نہ) کیا توہہ کورا (اتھ
ناؤ) او کوز زور نہ توہی پھاٹاؤ لوکھ اتھ منز
(بہن وائی)؟ توہہ چھو بے شک (یہ) اکھ
ناکابہ کام کرمتر۔

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ
صَبْرًا ۝۱۷

تمو (خدا یہ ہندی ٹاٹھی) وونس نہ (یہ) کیا میں
ونیووسے نا (تہہ نہ) تہہ ہلکھ نہ میں
سیتو روزتھ چہرہ گز کرتھ؟

قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا
تُزَهِقْنِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا ۝۱۸

اتھ پہٹ وونس تمو (موسیٰ ہن نہ) توہی مہ
رٹو میں (وونی کین) تکیز میں اوس (تہہ ہدایت)
موتمت تہ توہی مہ کورو میانہ (بیتہ) کتھ
کئی میں پہٹ سختی۔

فَانطَلَقَا نَادِحًا حَتَّىٰ اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ
اَقْتَلْتُمْ نَفْسًا رَٰحِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ
جِئْتُمْ شَيْئًا نَغْرًا ۝۱۹

اد درآے تم دو لوگے (تہہ پہٹ) یوتام نہ تم
اکس لوکس سمکھ یہ تہ تمو (خدا یہ ہندی
بندن) تہن سہ لڑکہ مار تھ۔ تمو (موسیٰ ہن)
وونس (اتھ پہٹ نہ) کیا یہ پھنا پلاؤ نہ (توہہ تہنوا
وونی کین اکھ پاکباز تہ بیہ گوناہ) شخص کانسہ
ہندی (خونہ کد) بدلہ وائی (ناحقہ) مار تھ۔
توہہ چھو بے شک (یہ) سہٹا ناکابہ کام کرمتر۔
تمو (خدا یہ ہندی ٹاٹھی) وونس نہ (یہ) میں ونیووسے
نا تہہ نہ (تہہ ہلکھ نہ میں سیتو روزتھ ہرگز چہر
کرتھ۔

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
مَعِيَ صَبْرًا ۝۲۰

تمو (یعنی موسیٰ ہن) وونس نہ (یہ) اگر امہ پتہ میں
کرتھ متعلق توہہ پڑتھ تہ (بلاتک) میں
تھوڑو نہ توہی پاس سیتو (تہ توہی اوسو) اتھ
صورتس اندر) بے شک میانہ پتہ رایہ مطابق
عذکس حدس تام وائی ہتہ۔

قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا
فَلَا تُصَٰجِبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي
عُذْرًا ۝۲۱

پتہ درآیہ تم دو شوے (تہہ پہٹ تہ) یوتام نہ
تم اکھ بسٹی ہندی لوکس نش وائی تہ اتہ کین

فَانطَلَقَا نَادِحًا حَتَّىٰ اِذَا اَتٰیآ اَهْلًا قَزِيَةً
اِسْتَطَعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبُوآ اَنْ يُصَيِّفُوْهُمَا

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ
فَأَقَامَهُ، قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَخَذْتُ عَلَيْهِ
أَجْرًا ۝

روزن والین مؤنگ بو کهن مگر تمو کوز تهنر
پژده لاری نسته انکار - پیته وچه تمو ده شو یو اتھ
(بستی) مزارکھ دوس یوسه پیسہ و اجڑا س
تمو (خلایہ سندر بدن) سنہاج سو (دوس
تہ) تمو (یعنی موسیٰ بن) وولس (اتھ پیٹہ ز)
اگر تو یوسہ پیٹہ ہو تہ یقیناً ہیکہ ہو اچ کینہ
(تہ کینہ) اہرت ہتھ۔

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ
بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

تمو (خلایہ سندر کھٹو) وولس (ز) یہ چھینہ
تہ تریہ در میان جدالی (ہنر وز) - تھ کتھ پیٹہ
تہ صبر ہو کتھ تہ کتھ یہ چھستہ تہ وئی تہ کہ
حقیقتہ نسته باخبر کران۔

أَمَّا السَّفِينَةَ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ
فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝

ناوتہ اوس کینتن مسکین ہنر بیم دریاوس مزار
کام کران اوس تہ تمس اوس تھ (دریاو اپار) اکھ
(ظالم) بادشاہ یس پرستہ کاٹھ تاو زبردستی
(سان) تھپہ توان اوس - او کتھ یوزھ میہ ز
سہ بناون یہ قاب دار۔

وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ آبَاؤُهُ مُؤْمِنِينَ
فَخَشِينَا أَنْ يُزْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝

تہ لاکہ ہنر (یعنی تہ واقعہ اچ) حقیقت چھینہ
یہ ز تندر مول موج دہ لوس اوس مؤمن - اتھ پیٹہ
کھوڑی اوس (تو ہنر یہ حالت وچیتھ) تھنہ تہ
سپر زسہ دیاو (بوز گڑھتھ) تمس نافرمانی ہند
تہ کفرک لازم۔

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا دَرَبًا خَيْرًا مِنْهُ
رُحُومًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝

لہذا اسہ یوزھ ز بہند پروردگار دین تمس تندر
بدل پاکیزگی تہ رحم تہ الصاف کہ لحاظ کتھ جسد
رت (نیچو)۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي
الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَ
كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ
يُنْبِغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا
كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ مَا

تہ (سو) دوس اوس تہ شہر کین دون یتیم لڑکے
ہنر تہ تھ تلہ کتھ اوس تمس کیت خزانہ (دباوتھ)
تہ بہند مول اوس اکھ نیک (شخص) او کتھ
یوزھ چافی پروردگار تہ تم و اتن پستہ در پرچ
والسہ تہ (بوز گڑھتھ) کڈن پن خزانہ (پانہ)

فَعَلَّمَهُ عَنِ أَمْرِئِ ، ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ
تَسْطُرْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿۱۸﴾

مجانس پروردگار بندہ پر طرفہ چھ (تمن پیٹھ خاص) تم
(سپدست) تہ پیرکار) کور تہ میہ پستہ نفسہ کہ
محکمہ - یہ چھ تمن تمکن بشر حقیقتہ بیتہ پیٹھ تہ
صبر، یو لکھ تہ کرتھ۔

بیسہ بھی تم ثریہ ذوالقرنین متعلق تہ سوال کران
تہ ون (تمن تہ) پیر کر ضرورتس متعلق کیہنہ
ذکر توہہ برونیہم کینہ۔

اسہ اُس بے شک تس زمینہ پیٹھ حکومت عطا
کر مہتر تہ اسہ اوس تس پرتہ کتہ چہرک (یعنی
سہ حامل کرنک) سبب بخشومت۔
اد درو سہ اُکس وتہ پیٹھ۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ ، قُلْ
سَأَلْتُمَا عَلَيْنِكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿۱۹﴾

یوتانی ز سہ ووت آفتاب لوسہ چہ جایہ تہ تم
لوب بیتہ ز (زن تہ) سہ اُکس کر لیس نامس
منزل لسان چھ تہ تم و پچھو تنہ نش کیہنہ لوکھ
(بسان) اسہ وون تس اتھ پیٹھ تہ) اے
ذوالقرنین! ثریہ چھ اجازت ز تمن عذاب ز
تہ یا تمن سوتی حسن سلوک سان ورتا و کرتہ۔

تم وون (آ! پیر کرتی تہ) لیس ظلم کر تس تہ
دو اُس ضرور سزا۔ پتہ پیہ سہ پستہس پروردگار
کن واپس ہنہ تہ سہ وپہ تس سخت سزا۔

تہ لیس ایمان انہ تہ نیک (تہ متاسب حال)
عمل کر۔ تہند با پتھ چھ (خالیس نش تم بندو
اعمالو بدل) رت انجام (مقدر) تہ اُسی (تہ)
کرو تم بند خاطر ضرور پستہ حکمہ سوتی سہولیت
واجبہ کہتہ۔

پتہ درو سہ اُکس وتہ پیٹھ۔

إِنَّمَا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَّيْنَهُ مِنَ كُلِّ
شَيْءٍ سَبَبًا ﴿۲۰﴾

فَأَتْبَعَهُ سَبَبًا ﴿۲۱﴾

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا
تَخْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا
قَوْمًا فَلَنَأْيُذًا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْ تُعَذِّبَ
وَأَمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿۲۲﴾

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ
يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴿۲۳﴾

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ
جَزَاءً بِإِحْسَانٍ ، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا
يُسْرًا ﴿۲۴﴾

ثُمَّ أَتْبَعَهُ سَبَبًا ﴿۲۵﴾

لہ بلکہ اللہ تعالیٰ بندہ محکمہ سوتی کور میہ۔

لہ نورس (CYRUS) شاہ فارس۔

لہ یعنی کھیہ اودا کر من سمندر اینیک آب کر من آسہ کنو گوٹ بوزنہ یوان چھ۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا
تَاطَلُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن
ذُرِّيَّتِهَا سِثْرًا ﴿۱۱﴾

یوتام زریبلہ سے آفتاب کھنڈے چہ جایہ ووت۔
تو وچھ سے (آفتاب) تھین لوکن پیٹھ کھسان
بیمن ہند نہاٹھ نہ اسہ (بمن تہ) تھہ (آفتابیں)
درمیان کاٹھہ ٹھور اوس ہوت۔

كَذٰلِكَ ۙ وَ قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ
خُبْرًا ﴿۱۲﴾

(ٹھیک) بیٹھ پانٹھ چھ (یہ واقعہ) تہ اسہ چھ
تو سندن سارہنے حالات ہند خوب پے پتہ تھوت۔
پتہ دراوسہ اُکس وتہ پیٹھ۔

لَمَّا آتَبَعَهُ سَبَبًا ﴿۱۳﴾

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ
ذُوَيْهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
قَوْلًا ﴿۱۴﴾

یوتام زریبلہ سے وہن بالن منزباگ ووت تہ تو
وچھ ہن بالن آبار کینہہ تھہ لاکھ بکن مُشکلہ
سان تو سہز کتھ فکرِ تران اُس۔

قَالُوْا يٰۤاِنَّ الْقَرۡنَيۡنِ اِنَّ يٰۤاَجۡوِبَ وَ مَاۤ اُجۡوِبَ
مُفۡسِدُوۡنَ فِى الْاَرۡضِ فَهَلْ نَجۡعَلُ لَكَ
خَزَآئِجًا عَلٰٓى اَنَّ تَجۡعَلَ بَیۡنَنَا وَ بَیۡنَهُم
سَدًّا ﴿۱۵﴾

تو وون (نر) اسے ذوالقرنین! یا جوب تہ ما جوب
چھ بے شک بیٹھ ٹکس منز فساد پھلا لون روزان
لہذا کیا اُکلا لاکھ کروا تھہ ہا تھہ کینہہ خراج اٹھ
شرطس پیٹھ پیش؟ ز تو ہر بناوہ اسہ تہ ہن منز
باگ اکھ ٹھور؟

قَالَ مَا مَكَّنِّيۡ فِيۡهِ رَبِّيۡ حَتِيۡرًاۙ فَاَعِيۡنُوۡنِيۡ
بِقُوَّةِۙ اَجْعَلۡ بَیۡنَكُمۡ وَ بَیۡنَهُمۡ رَدًّا مَّا ﴿۱۶﴾

تو وون زہر اسہ (تسہ جہن کاہن) متعلق لیس
طاقت میاڈی پروردگارن میہ عطا کورمت چھ سے
چھ (دشمن ہند لو سامانو کھوتہ) سدھا بہتر۔
او کئی دیو توہی میہ پتہ نہ مقدمہ مطابق مسد
بیٹھ زن بہ توہر تہ ہن درمیان اکھ ٹھور بناوہ۔
توہی دیو میہ سش شہر ٹکڑ (چنانچہ سے ٹھور لاک
تید مرہنہ) یوتام زریبلہ توہ (بالن ہنزن) بکن

اَتُوۡنِيۡ زُبَرَ الْحَدِيۡدِ ۙ حَتِيۡ اِذَا سَاوِيۡ
بَیۡنَ الصَّدَقَتِيۡنِ ۙ قَالَ اِنۡفُخُوۡا ۙ حَتِيۡ
اِذَا جَعَلۡتَا نَارًا ۙ قَالَ اَتُوۡنِيۡۙ اَفۡرَعۡ عَلَیۡهِ
قَطْرًا ﴿۱۷﴾

(دولونی) مالن درمیان برا بڑی پاد کڑ۔ تہ
تو وون (بمن ز وون) پھکو (اتھ پیٹھ نار)
یوتام زریبلہ توہ تھہ (بکل) نار (دیو) کور تہ

۱۱ بلوچستان تہ افغانستان، پیم علاقہ چہ بحیرہ اسودس مشرقس کن۔ پیم علاقہ اُسو خوردن نفع کر تہ۔
۱۲ یہ دفاعی فہل آہی بحیرہ احضر تہ کوہ قافس منزباگ بناوہ امہ سوتو کوہ شمالی
علاقہ بکن وحشی قومن ہند بلوچ ہن علاقن کن و سن مُشکل۔

وَوَنُّ (تمن نہ وو فی) دیو میہ (وہلو وومت)
 ترام (انہ) بیٹھ زن بہ (سے) اتھ پیٹھ تراو۔
 لہذا (بیٹھ سو فعل تیار گئے تے) تم (یعنی
 یا جوج ماجوج) بلکہ تہ تہ پیٹھ کھسیتہ تہ
 نہ ہو لکھ تہ کا نہہ رُو د کر تہ۔

تم ذوالقرنین وون (اتھ پیٹھ نہ) یہ (کار)
 چھ (محض) میانس پرور وگاہ بند خاص اصابت
 سبتو (سیدمت) پستہ بیٹھ (عالمگیر عبدالبس
 متعلق) میانس پرور وگاہ بند وعدہ (پور سپنس
 پیٹھ) بیہ تہ سہ لہاو اتھ (مطرس)
 تہ بناو بس اکھ منیٹر ٹینگ تہ میانس رہ بسند
 وعدہ چھ ہنرور) پور سبتہ روزن وول۔

تہ (بیٹھ تہ کر پور گزھتک وقت بیہ تہ)
 تہ وقتہ تراو کہ اسی تم اکھ اُس جلاف جو شہ
 سان حملہ آور سپر فون تہ پوگس بیہ چھو کہ درہ
 ادر کو کہ اسی تم ساری کیجا۔

بیہ جہنم آون اسی تہ وہ کافرن بلکہ بروٹھ
 کن۔

(تم کافر) پہنہر اچھ میانہ ذکر (یعنی قرآن کریم)
 کنبہ (فقلت کس) پردس مشر آسہ تہ تم اسی
 نہ پور تہ ہیکان۔

(تہ کیا یہ سرے کینہرا وھینہ) پتہ (تہ) چھا
 تم لو کہ بیو نھر (کرک طریقہ) پروومت چھ (یہ)
 زانان نہ تم ہیکن میہ تراوتھ میانی بندہ مدگار
 بناوتھ۔ اسہ چھ کافرن ہنر پڑھی لازمی خاطر
 جہنم تیار کر تہ مقومت۔

تہ ون (تمن نہ) اسی دمو وا توہہ تمن لاکن متعلق
 خبر، یکم عملو ہندہ لحاظ ساروہے کھوتہ جاوگاٹ
 لین وارا چھ؟

فَمَا اسطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا
 اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿۱۷﴾

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
 رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿۱۸﴾

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي
 بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ
 جَمْعًا ﴿۱۹﴾

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ
 عَرْضًا ﴿۲۰﴾

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ
 ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿۲۱﴾

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا
 عِبَادِي مِنْ دُونِ آلِيَاءِ إِنَّا أَعْتَدْنَا
 لَهُمْ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿۲۲﴾

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿۲۳﴾

لہ یعنی یا جوج ماجوج کرن پانہ وازی ہنگ۔

الَّذِينَ صَلَّوْا سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿۱۹﴾

(یہم) چھ تم لوگھ (سہینتر) سارہے (کوسشش)
یہیہ دنیاہ چہ زندگی مشرے ضایح سپر مشرہینہ
تہ تم چہ (اتھ سترہ پتہ) خیال کران نہ تم چہ
رہر کام کران۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَلِقَاءِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿۲۰﴾

یہم چہ تم لوگھ یہو پسنس پروردگار ہندہ نشانہ
ہندہ تہ تس سترہ ملاقاتک انکار کورمت چہ، او
کوز چہ تہندہ (ساری) اعمال پتھر پتھہ (تہتھو)
دنیاہس مغز) رُودو متو۔ چناچہ قیا مشردہ ہر دو
نہ اسو متن کانہہ تہ وقتت۔

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا
وَآتَّخَذُوا آيَاتِي دُسَلِينَ هَٰؤُلَاءِ ﴿۲۱﴾

یہ اسو تہندہ بدلہ (یعنی) جہنم امر باعہہ کوز
تمو کوز کفر اختیار تہ میانی نشانہ تہ میانی
بناوگھ (پسنہ) ہر لوگھ نشانہ۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿۲۲﴾

یہو لوگو ایمان اوگمت چہ تہ تمو چہ نیک (تہ)
متاسب حال) عمل کر مشر۔ تہندہ ٹھکانہ اسرہ بیشک
فردوس ناوگھ جنت۔

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوًّا ﴿۲۳﴾


تم گرتھن متن اندر روزان (تہ) تم یہر شھن
زاہ تموشہ ترہینہ گرتھن۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَاتِ
رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتِ
رَبِّي وَلَوْ جَعَلْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿۲۴﴾

تہ ون متن (نہ) اگر (پرچہ اکھ) سمندر میانس
پروردگار ہنزن کتھن ہندہ (لیکھنہ) باچہ پہل
بڑہے تہ میانس پروردگار ہنز کتھ مہ کلمتہ
بروشٹ مہ کلہ پرچہ اکھ) سمندر ہر گاہ زن (تھہ)
مبلہ) ہر راوہر خاطر اسی بیہ تیوت (ہے آب
سمندر مغز) اُتھہ تراوہو۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُؤْتِي إِلَيَّ أَمْرًا
الْهُكْمَ إِلَهُ وَآحَدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا
لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ
لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿۲۵﴾

تہ ون متن (نہ) یہ چھس توہی ہو اکھ بشر (فرق
چھہ صرف یہ تہ) میہ کن چھہ (یہ) وحی (تارل)
کرتہ پلان تہ تہندہ معبود چہ اکے (حقیقی) معبود۔
لہذا یس شخص پسنس پروردگار سترہ ملاقات
وو میدتھاوان اسرہ تس پز نہ نیک (تہ متاسب
حال) کامہ کران تہ پسنس پروردگار ہندہ
عبادتس مغز مہ کران کانہہ تہ شریک۔



سورة مریم ، یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ بہتہ چھ اٹھ نمانتہ آیتہ بھیر چھس شیعہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(یہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سندا ناو بہتہ (پران)
یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) بھیر ک بھیر ک
رحم کرن وول بھتہ۔

كَلِمَاتٍ ①

اے عالم تہ صادق خدایہ ! تہ چھکھ وا تن وول تہ
ہدایت دہن وول یے۔

ذِكْرًا رَّحِمْتَ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِيًّا ②

(اتھ سورس منز چھ) چاہنس پروردگار سہند
(تمہ) رحمتک ذکر یوسہ تمہ پسنس بندس
زکریا ہس پیٹہ (تمہ وہ) کڑ۔

یسلہ تمہ پسنس پروردگار س لو تہ لو تہ آلو کڑ۔

اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ③

(تہ) وونن ، اے میانہ پروردگار ! (میانی
حالت چھیہ بے شک ترشہ نہ) میانہ سارہ
اڑو تہ تام چھیہ کمزور کٹا مشر تہ بچر کئی چھ
(میون) کلہ چھیتومت ، تہ اے میانہ پروردگار !
بہ رؤوس نہ نہ شیبہ تہ تہ شینہ دعا منگتہ کرباعہ
ناکام (تہ نامراد)۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ
اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ
بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④

بہ چھس بہ بے شک پسنس اشناون بش پسنہ
(مسر تہ پتہ) کس ورتاوس (کھوژان تہ میانی
آشقی چھیہ ناٹھ۔ لہذا تہ کر تہ میہ پسنہ جناہ
اکھ کاکھون (یعنی نیچواہ) عطا۔

وَرَبِّي خَفِيَ الْمَوَالِي مِنْ دَرَائِي
وَكَانَتْ أُمْرًا لِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ وَلِيًّا ⑤

یس میانی وراشت تہ رٹ تہ آل یعقوبک تہ آسہ
وآرت ، (یعنی یس دین تہ تقوی آسہ وراشتس منز
توزمت چھ تمیک) تہ اے میانہ پروردگار !
بناوی زین (پانس) مار کھسن لایق (وجود)۔

يَرْثُنِي وَيُرثُ مَنْ آوَل يَخْفَوْت بِهِ وَ
اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥

لہ کھلیص یعنی انت کا پ انت ہادی عالم یا صادق اے عالم تہ پز یار خدایہ تہ
چھکھ وا تن وول تہ ہدایت دہن وول یمن مقطعات منز چھ عبیدی عقیدن بشر تر دید مقصود۔

يُذَكِّرُنَا إِنَّا بِشَرِّكَ بِعِلْمٍ بِاسْمِهِ يَخِيلِي
لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

(اچھ پیٹھ فرموا اللہ تعالیٰ ہن) اسے زکریا!
اُسکی بھی تریہ اُکس گوبہر سنز خوش خیر دوان۔
(یس جوانی ہنر وانسہ واتہ تہ) توحی سندا ناو آسہ
(خدا یہ ہنر طرفہ) سیکھی۔ اسہ کور نہ تس
برونٹھ کانہہ امہ ناو سستی یاد۔

قَالَ رَبِّ اَنْىٰ يَكُوْنُ لِيْ هٰذَا وَاَنَا عَقِيْبٌ
مِّنْ اٰرَافِيْنَ عَاقِرًا وَاَقْدَبَلُغْتُ مِنَ الْكِبَرِ
عَتِيًّا ۝

(زکریا ہن) وون، اسے میانہ پرور وگار امیہ
کہتہ پاٹھو ہیکہ نیچو بیٹھہ بینل زن میانہ آشتہ
چھینہ مانٹھ تہ بہ چھس بجکس انفس ووجت۔

قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ
وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَاَمْ تَكُ شَكِيًّا ۝

(الہام ابن اول ملائکین) وونس (ز پیٹھ پاٹھو
تہ ونان چھکھ (امر واقعہ چھ) تھتھ پاٹھو (مگر)
چون پرور وگار چھ ونان ز یہ (کار) چھ میہ
کیٹ سہل تہ (وچھ، ز) میہ چھکھ تہ امہ
برونٹھ یاد کورمت حالانکہ تہ اوسکھ نہ لہنی تہ۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ۗ قَالَ اٰيَتُكَ
اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝

(یعنی زکریا ہن) اسے میانہ پرور وگار!
میانہ خاطر فرماو تہ کانہہ حکماہ۔ فرمونس،
چانہ خاطر چھ یہ حکم ز تہ مہ کر ترن ران
گنڈے لوکن سستی کہتہ ہاتھ۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحٰى
إِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ وَاَعْتَصِمُوْا
بِحَبْلِ الْحَمْرِ ۝

تمہ پتہ دراو زکریا محراب منتر تہ گوو پسنس
قوس نش تہ ہن وون لو تہ لو تہ نہ صبحن تہ
شامن روزو خدایہ سنز سبح کران۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا سَبِّحُوْا لِلّٰهِ حَمْدًا
مِّنْ لَّيْلِ وَّ نَهَارٍ ۚ وَكُلُوْا وَشَرَبُوْا
وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ سَبْحًا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَالْبَحْرَ وَالنَّجْمَ
السَّاطِرَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

(امر پتہ سپد سیکھی یاد تہ اسہ وون تس) اسے
یجھی! تہ رن (الکی) کتاب چہر تہ اسہ
اُس تس لو کچارس منزہ پینہ حکم سستی یاری
کر مہتر۔

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَرَحْمَةً ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ۝

(تہ یہ کہتہ اُس) سانہ طرفہ مہر ہانی ہندہ
(تہ شفقتہ کہ) رنگہ بیچہ (اُس تس) پاک کرنہ
خاطر تہ سہ اوس بوڈ متقی۔

وَبَدِّ اٰيٰتِہٖ لَعَلَّہُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

بیہ اوس سہ پسنس مابس ماجہ سستی نیک ورتاو
کرن وول تہ ظالم تہ نافرمان اوس تہ۔

وَسَلِّمْ عَلٰیہِ یَوْمَ وُلْدٍ وَّ یَوْمَ یَمُوْتٍ وَّ

بیہ بیلہ سہ زاو تیلہ تہ اُس تس پیٹھ سلامتی

يَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا ۝۱۱

تہ ییلہ سہ مر تہ پتہ ییلہ سہ زندر کر تہ تلمنہ
پسہ (تیلہ تہ آسہ تس پیٹہ سلامتی)۔
بہ کر تہ (تیمہ) کتابہ منز مریم (یس) ذکر
(یوان چھ سہ) بیان۔ (خاص کر تہ سہ کتہ نہ) ییلہ
سہ پشہو آشتناوونشہ مشرقی (طرس کن
اگس) جایہ گئے۔

وَإِذْ كُذِّبَ فِي الْكِتَابِ مَذْمُومًا إِذِ اتَّخَذَتْ
مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝۱۲

تہ تمہ تروو (پانس تہ) تمہن (یعنے آشناون)
منز باگ پردہ (یعنے تمہ ستر تعلق تہ کھنوں
پین پان) تمہ وقتہ سوز اسہ تس کن پین کلام
ان وول اکھ ملا پکھ (یعنے جبرائیل) تہ سہ
سپد تس برو تھہ کنہ اگس ارس ادرس انسانہ
سینر شکہ منز نمودار۔

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا وَإِذْ
أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ۝۱۳

دو پانس (یعنے مریم) بہ چھس تریہ نش جن
خایہ سہ پناہ منگان اتر تریہ منز کیتہ تقوی
چھہ۔

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ
كُنْتَ تَقِيًّا ۝۱۴

(تمہی ملکن) وون نس (اتھ پیٹہ) بہ تہ چھس
صرف پانس پروردگار ہند طرفہ شینچہ اتن
وول تہ تہ نہ بہ تریہ (دوجیہ مطابق اکھ
پاک گو بر دینے لہ) (یس جو انی ہنر وانسہ وارہ)
(مریم) وون نس مینہ کتہہ پاتھہ بنہ تہ پتہ
حالاکہ وونیکتام چھتہ مینہ کانسہ مہنوی
چھومت تہ نہ اسس بہ زاہ بدکار۔

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ بِهَا
لَكِ غُلَمًا ذَكِيًّا ۝۱۵

(ملکن) دوپ نس کتہ چھتہ تہ پاتھہ (تہ پاتھہ
تریہ وونہ، مگر) پتانی پروردگار وون یہ
نہ یہ (کرن) چھہ میانہ خاطر سہل تہ (اس
کرون یہ لڑاکہ او کو پاد) تہ سہ لوکن ہند
باپتہ اکھ نشان بناوون بہ (بناوون) پسہ
طرفہ رحمت (یعنے تمیک موجب تہ)۔ تہ یہ (معاملہ)

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي
بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝۱۶

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلِيمٌ هَدِيدٌ
وَلِيَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ
أَمْرًا مَقْضِيًّا ۝۱۷

چھ سانس تقدیرس منزطے پیدمٹ۔
اتھ پیٹھ مل مریمین یہ (بچہ پینس شکس
منز) تہ سہ ہتھ گئے اکس دور جایہ کن۔

اد (بیلیہ سو توئن واژ تہ) خلاصی ہندو دادر
اڈ سو مجبور کرٹھہ اکس کھنر کلہ کس گوڈس
کن (بیلیہ مریمس پڑھ پیٹھ نہ تس چھ شر
زہتہ وول تہ ڈرہ پچین پامن ہند (خیال

کرٹھہ) ووئن کاش بہ آسہ ما امہ برو پٹھ
موہتر تہ بہ آسہ ما مشراوہ آسہ۔

اتی ووئن تس (ملکن) وسونہ طرفہ آلودتھ،
ہتے! عم مہ بر! اللہ (تعالے) ہن چھ
وسونہ اندر کنز اکھ نگ جاری کوڑمٹ (اڈن
گرٹھ تہ پنن پان تہ پنن نہ کہ کرن پھلتھ صا)
تہ تمہ کھنر کلج لند رٹھہ دس پانس کن ووئن
سو چکھ تریہ کن تانہ بتانہ کھنر۔

لہذا (یم مہو) کھیہ تہ (نگہ منز) چہ (تیش
تہ) تہ (پانہ سران کرٹھہ تہ یکہ چھلتھ) شہلاو
پستہ اچھ اد ہرگاہ (اتھ وقتس اندر) تہ
کانہہ بشر وچھ ہن تہ وئس میہ چھ رحمن
(خدایہ) ہند خاطر (اکھ) دہہ نیاز یا طہ
دورمٹ لہذا از کر نہ بہ کانسہ انسان ستر کتھ
امہ پتہ اولن تمہ سہ نیچو پینس قوس نش سوار
پیٹھ تمو ووئس مریمے! تریہ ہن چھتھ سٹھا
ناکار کام کر مہتر۔

ہتے ماروہ ستر بینی! نہ اوس چون مول
ناکار انسان تہ نہ اس پانز موج بکا (زنان)۔

اتھ پیٹھ کوڑ تمہ تس (شرس) کن اشار۔ تھ
پیٹھ ووئس لوکو۔ اسی کتھ پاٹھ کرو کتھس

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا
قَصِيًّا ۱۷

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ
قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ
نَسِيًّا مَنْسِيًّا ۱۸

فَتَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْذَرِينَ قَدْ
جَعَلْتُ رَبِّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا ۱۹

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسْقِطُ
عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۲۰

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَرَبِّي عَيْنًا ۲۱
تَذَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ آخِذًا ۲۲ فَقَوْلِي إِنِّي
نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ
الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۲۳

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۲۴ قَالُوا
يَمْرِيءٌ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ۲۵

يَأْخُذُ هَرُونَ مَا كَانَ آبُوكَ امْرَأَتُوهُ
وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا ۲۶

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۲۷ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ
كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۲۸

سوتی کہتے ہیں (یو تام) منفرس منفرس
 وول شراوس

(یہ بوزتھ) ووننگھ (ابن مسرین) نہ بہ چھس
 اللہ (تعالیٰ) سئد بندہ تہ تھو چھہ میہ کتاب عطا
 کر مہتر تہ بہ چھس نبی بنوومت۔

تہ یستین تہ بہ آسہ تھو خدین چھس بہ بر کتر
 وول (وجود) بنوومت تہ بہ یوتانی زندہ چھس
 میہ چھن نماز تہ زکوٰۃ با پتھہ تاکید کورومت۔

بیہ چھس بہ پتھہ ماہہ سوتی نیک ورتا وکر وول
 بنوومت تہ بہ چھس نہ ظالم تہ بد بخت بنوومت۔

بیہ بیہ دوہہ بہ زلیوس تمہ دوہہ تہ سپز میہ
 پیٹھ سلامتی نازل تہ بیہ دوہہ بہ مسرتہ بیہ
 دوہہ بہ زندر کر تھہ تلہہ پتھہ (تمہ وقتہ تہ سپر
 میہ پیٹھ سلامتی نازل)۔

(وچھو) یہ چھہ (اصلی) عیسیٰ ابن مریم تہ یہ
 چھہ (تھو سئد اصلی) پوز قہبہ بیہ منفرتم (لوکھ)
 اختلاف کران چھہ۔

خدا یہ بندس شانس چھہ یہ بخلات نہ سہ بتا و
 کانسہ پتہ نیچو۔ سہ چھہ امہ کہتہ بشر پاک۔ سہ
 بیلیہ کہتہ کہتہ ہند ناملہ کران چھہ تہ توان چھہ (پتھہ
 کئی) سپرن تہ بتھہ کئی چھہ سپرن، ہوان۔

(پتہ کیاہ چھہ تس مدد با پتھہ نیچو بنا وک صروت)
 تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ میون تہ پروردگار تہ تہند
 تہ پروردگار۔ تھو ہنترے عبادت کرو بیہ
 چھہ سیز وقتہ۔

مگر مختلف جہات و کور پاتہ وانی اختلاف اتہ پزر
 ترو وکھ) لہذا پتھہ لوکو اکہ بڑ دوہہ حہنر
 سپرن ہنترہ انکار کور ہمن پیٹھ سپر عذاب نازل۔

قَالَ رَبِّي عَبْدُ اللَّهِ تَدَاثِنِي الْكِتَابُ وَ
 جَعَلَنِي نَبِيًّا ۝

وَ جَعَلَنِي مُبْرَكًا آتِنَ مَا كُنْتُ سَ و
 أَذْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَ الرَّكُوعِ مَا كُنْتُ
 حَيًّا ۝

وَ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا
 شَقِيًّا ۝

وَ السَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ
 يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۝ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي
 فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَاكِلِهِ سُبْحَنَهُ
 إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
 فَيَكُونُ ۝

وَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۝ هَذَا
 صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۝ فَوَيْلٌ
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوكُمْ فَتَأْتِكُمْ
الظُّلُمُوتُ الْيَوْمَ فِي ضُلَيْلٍ مُّبِينٍ ﴿۳۱﴾

یہ دوسرے دن سانس و ربارس منتر کا جز سیدن
تمہ دوہہ آسہ تمہن بوزن پو تو سپٹھا تیز تہ
نظر تہ آسکھ سپٹھا تیز۔ مگر تم ظالم چھ از
سپٹھا بار گمراہی منتر مہینہ آہتہ۔

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۲﴾

بہ کرکھ تہ تم تمہ دوہہ نشہ خبر دار نیہہ دوہہ
(افسوس تہ) ناوہ میدی چھاوتھ آسہ (یعنی
قیامت تہ دوہہ نشہ) نیلہ سارنہ کتھن ہند
فاصلہ سپد تہ یکم لوکھ چھ (وہ تہ) غفلت
اند (پہتہ) تہ ایمان چھتہ انان۔

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا
بِذٰلِكَ عٰقِلُونَ ﴿۳۳﴾

بیشک اسی آسو (ساری) زمین تہ وارث تہ
تمہن لوکن ہند تہ یکم اتھ پٹھ روزان چھ تہ
ساری لوکھین (پتولکن) اسی کن پھتہ انہ۔
بہ کر تہ قرآن کریم مطابق ابراہیم سند ذکر تہ
اوس بے شک بوڈ پڑیور تہ بہ اوس نبی۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُتُبِ إِنزِيلِنَا
صِدْقًا نَّبِيًّا ﴿۳۴﴾

(بہ کر تہ سند وقت تہ یاد تہ لوکن بروٹھ کتہ
تیکر بیان) نیلہ ابراہیم سپنس مائس و نیاوا
نہ اے میانہ بہہ! تہ کیا نہ چھاکھ تمہن چہرن
ہتر بندگی کران یکم نہ بوزان چھ، نہ وچھان چھ۔
تہ تہ چھ چون کا نہہ تکلیف دہر کر س پٹھ قوت
تھوان۔

إِذْ قَالَ لَأَبِينَا يَا بَنِي لِمَ تَعْبُدُوا مَا لَا
يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ
شَيْئًا ﴿۳۵﴾

اے میانہ بہہ! میں چھ اکھ خاص علم عطا
کر تہ آمت یس تریہ حاصل سپدمت پٹھ نہ
لہذا (اے باوجود نہ ہو چھس چون نیچو) تہ کر
میاڈی تابعداری بہ ماوے تریہ سٹیز و تھ۔

يَا بَنِي إِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ الْإِلَهَاق
لَمَّا يَأْتِكُمْ فَأَتِغِيثِي أَهْدِكَ صِرَاطًا
سَوِيًّا ﴿۳۶﴾

اے میانہ بہہ! شیطانہ ہتر عبادت مہ کر
شیطان چھ بے شک خدایہ رحمان سند نافرمان۔

يَا بَنِي إِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ الْإِلَهَاق
لَمَّا يَأْتِكُمْ فَأَتِغِيثِي أَهْدِكَ صِرَاطًا
سَوِيًّا ﴿۳۶﴾

اے میانہ مالہ! بہ چھس کھوتان نہ تریہ گو تھ
نہ خدایہ رحمان ہند طرفہ (نافرمانی ہند با عتہ)
کا نہہ عذاب واتن نیہہ کس پھس منتر تہ شیطانہ
سند دوست بنکھ۔

يَا بَنِي إِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ الْإِلَهَاق
لَمَّا يَأْتِكُمْ فَأَتِغِيثِي أَهْدِكَ صِرَاطًا
سَوِيًّا ﴿۳۶﴾

اتھ پیٹھ وونن (ابراہیم ہندو مال) اک ابراہیم!
کیا تریہ چھیا میانین معبودن سیدی نفرت
گہتر۔ ہرگاہ تہ باز آکھ تہ تہ بہ کتھ تہ
کنہ کنہ تہ (بہتر چھ تہ) تہ تہل کینہ کالہ
خاطر میا نہو نظر و ہنہ دور (تھ تہ بہ شرارت
منز کینہ کتھ گرتھ)۔

(اتھ پیٹھ) وونن (ابراہیم) اچھا میانہ طرفہ
روزنے ہمیشہ تریہ سلامتی ہند دغا ومان (یعنی
بہ چھس تریہ ہنش الگ سپدان) بہ منگہ پنسن
رہس چانہ خاطر ضرور معقرتک دغا، سہ چھ
مینہ پیٹھ سبھو ہے مہربان۔

تہ (اے میانہ مال!) بہ تراوو توہی تہ تم
ساری (وجود) یمن توہی اللہ (تعالیٰ) ہس
ورای نادوان چھو تہ صرف پنسن پروردگار
ہند دربار منگہ دغا۔ (تہ) بے شک بہ تہ بہ
پنسن پروردگار ہندس دربارس منز دغا کرتہ کہ
باعثہ بدلفیب۔

اد ییلہ (ابراہیم) تمو (پنسنو لوکو) ہنہ تہ تہ
یمن ہنہ تم اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی پوزا کران
اسی (ہن ہنش تہ) جڈا گوو تہ اسہ کور تس
اسحاق تہ (تس پتہ) یعقوب عطا۔ تہ تم ساری
بتاوی اسہ نبی۔

بیہ کور تمن اسہ پتہ رحمتہ منز اکھ (وافر)
جصہ عطا۔ بیہ کور اسہ ہنہ خاطر ہمیشہ تاہم
روزن وول تھد پاکت ذکر خیر مقرر۔

بیہ کر تہ قرآنہ مطابق مؤسی سند تہ ذکر۔ سہ
اوس سون ترورمت ہنہ تہ رسول (تہ) نبی اوس۔

بیہ کور اسہ (کوہ) طور کہ دوچھنہ طرفہ کتھ مؤسی
ہس ناد تہ سہ اؤن اسہ پتہ سپر باوان پاس
کھو۔

قَالَ اَرَاغِبْ اَنْتَ عَنِ الرَّهْبِيِّ يَا بُرْهَيْمُ
لَيْدِنْ لَمْ تَنْتَوِ كَا زَجَمَتِكَ وَ اَهْجَزِي
مَلِيًّا ۞

قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي
اِنَّهٗ كَانَ بِنِ حَقِيًّا ۞

وَ اَعْتَزِلْكُمْ وَا مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ
وَ اَدْعُوا رَبِّي بِعَسَى اَلَّا اَكُوْنَ بِدُعَاۗءِ
رَبِّي شَاقِيًّا ۞

فَلَمَّا اَعْتَزَلْتَهُمْ وَا مَا يَعْجُدُونَ مِنْ دُونِ
اللّٰهِ وَا هَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَ يٰعْقُوْبَ وَا
كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۞

وَ وَا هَبْنَا لَهُمْ وَا زَجَمَتَنَا جَعَلْنَا لَهُمْ
لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۞

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوسٰى اِنَّهٗ كَانَ
مُخْلِصًا وَا كَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۞

وَ تَادَيْتُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ
وَ قَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ۞

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا آخَاهُ هَارُونَ
نَبِيًّا ۝

بیمہ دیت اسیرتس (موسیٰ ہنس) پستہ رحمتہ
سوتو تئند بوسے ہارون نبی بناوتھ (تس)
سادہ ہا پتھ۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمٰحِيلَ إِذْ أَنزَلْنَا
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝

بیمہ تہ قرآنہ مطابق اسماعیلہ ہنترہ کتھ
سہ تہ اوس بے شک وعدن ہند پزلیور بیمہ
اوس رسول (تہ) نبی۔

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ
وَكَانَ مِنْدَرِبَةً مَّرْضِيًّا ۝

بیمہ سہ اوس پنہن گرہ کہن نماز پر تک تہ
زکوٰۃ (دنک) تکبہ کران روزان۔ بیمہ اوس سہ
پسنس ریس نزدیک ٹوٹھ (وہود)۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِذْ رِيسَ إِذْ أَنزَلْنَا
صِدْقًا نَّبِيًّا ۝

بیمہ کر تہ قرآنہ موجب ادریسہ سند تہ ذکر تہ
تہ اوس (اکھ) پزلیور نبی۔

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

تہ سہ اوس اسہ نہایت تھدس مرتیس تمام
واتمومت۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ وَرَمَّحْنَ حَمَلْنَا
مَعَ نُوحٍ وَرَدَّ مِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرٰهِيْمَ وَ
إِسْرٰءِيلَ وَرَمَّحْنَ هَدٰينَا وَاجْتَبٰينَا
إِذَا تُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمٰنِ
حَزْرًا سَجَدًا ۝

بیمہ اسی سر سالم تم لوکھ یمن پیٹھ خداین
شبیو مغز انعام کورمت اوس۔ ہتھو نبیو
مغز بیم آدمہ ہندی اولاد اسی بیم بیم
لوکن ہندی اولاد اسی بیم اسہ نوحس سوتو
ناو مغز بچاوی تہ ابراہیم تہ یعقوب سوتو
(اولاد اسی) بیم اسی ہتھو (لوکو) مغز یمن اسہ
ہدایت دیت تہ پستہ تھاطر شازری۔ نیلہ یمن
پیٹھ خدایہ رحمتہ سند کلام پر تہ یوان اوس تہ
تم اسی سبکہ کران تہ ودان ودان اسی
(زمینہ پیٹھ) پیوان۔

وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا
الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوٰتِ فَسَوْفَ
يَلْقَوْنَ عَذَابًا ۝

اد پتہ او یمن پتہ اکھ بیٹھ نسل یو نماز ضایع
کر تہ نفسانی تھابن منگر پتہ لہذا تم دان
جلدہ تھرا ہی ہندس مقاس تمام۔

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظَلَمُونَ شَيْئًا ۝

تس وراہی یس توہ کر تہ ایمان انہ تہ نیک
عمل کر۔ ہتھو (لوکھ) گزھن جنتس مغز اول
تہ یمن پیٹھ ہسہ نہ کاشہہ ظلم کر تہ۔

جَنَّتِ عَذْرَاءُ الْبَتِّي وَعَدَّ الرَّحْمَنُ
عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ، إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ
مَأْتِيًا ۝۱۷

(یعنی بہن جنتن منفر) ہم ہمیشہ روزانہ واد
چھ تہ یمن ہند (خدا یہ) رحمان پسنہن بدن
سیتو (تختس وقتس منفر) وعدہ کورمت پچھ
ییلہ تم وونہ تہننن نظر ن ترہا پہ چھ یقینا
چھ خدایہ سہد وعدہ پور سپد تھ روزانہ۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَ
لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝۱۸

تم بوزن نہ بہن (جنتن) اندر کانہہ
بے مطلب کتھ بلکہ صرف سلامتی (بہنہ تہ
امنہ چھ کتھ بوزن) تہ بہن (جنتن) منفر
مییلہ بہن صبحن تہ شامن برزق۔

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا
مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝۱۹

یہ چھ سہ جنت میمیک وارث اسی پسنہو
بندو منفر تم کروکھ ہم متقی آسن۔

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ
أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۝
وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝۲۰

تہ (ملا یکھ وین بہن ز) اسی تہ چھ صرف
تہندس رہہ ہند حکمہ وسان۔ تہ یہ کینترہا اسہ
برونٹھ کنہ چھ تہ یہ کینترہا اسہ پتہ کنہ چھ
تہ یہ کینترہا یمن دونوہی (پاسن) منز باگ چھ
سورے کینہہ چھ خدایہ سہد تہ تہند پروردگار
چھتہ مشراون وول۔

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا
فَاعْبُدْهُ وَ اضْطَلِبْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ
تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝۲۱

(سہ) چھ آسمان ہند (تہ) پروردگار تہ
زمینک تہ (پروردگار) تہ یہ کینترہا یمن
دونوہی منز باگ چھ (میمیک تہ پروردگار)۔
لہذا (اے مسلمان!) تمکو سترے عبادت
کر تہ تہندسے عبادتس پچھ روز ہمیشہ قائم
کیا تہ چھہنا تمکو ہند ہوک صفت تھون وول
کانہہ زانان ہ

وَ يَقُولُ الْاِنْسَانُ ؕ اِذَا مَا مِثْلُ لَسُوْفٍ
اُخْرَجْ حَيًّا ۝۲۲

تہ انسان روز ہمیشہ یہ زبان زریلیہ بہر
تہ پتہ پما بہ زندہ کر تھ تلمہ ؟

اَوْ لَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ
وَ لَمْ يَكْ شَيْئًا ۝۲۳

کیا انسان چھنا یہ دکھ یاد ؟ نہ اسہ اوک
سہ امہ بروٹھ تہ یاد کورمت تہ سہ اوک
نہ (تمہ وز) کینہہ چہر تہ۔

فَوَرَبِّكَ لَنَخْشَرَنَّهٗمُ وَ الشَّيْطٰنِیْنَ ثُمَّ

لہذا چائس پروردگار سہد قسم اسی (یعنی یس چون

لَنُخْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَنَّتِهِمْ ۝۱۱

پروردگار چھ) ملوکہ بیم لوکھ (بیمہ اکہ لٹ) تہ
شیطان تہ (ملوکہ تہ) بیتہ کروکھ رقم ساری
جہنمیں اندر اندر تہ پٹھو پٹھو حاضر زہتم آسن
کو ٹھین منز کڑ زہنتہ بہنتہ۔
بیتہ کروکھ اسی پرچہ اکہ لوکھ منز تہ
لوکھ بھون بیم (خدایہ) رحمانہ ہندو سچت
دشمن آد۔

ثُمَّ لَنُنزِلَنَّ مِنْ كُلِّ شِجْعَةٍ آيُهُمْ
أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝۱۲

بیمہ چھ اسی ربڑ پٹھو زانان زہتمو منز کس چھ
جہنمیں گرتہ حسس جاڈ لایز۔

ثُمَّ لَنَنْخَنُ أَغْلَمَ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا
صِلِيًّا ۝۱۳

تہ توہر منز چھ پرچہ شخص اٹھ (جہنمیں) منز
گرتہ من وول لہ۔ یہ چھ خدایہ سند تہ پٹھو پٹھو تہ
وعدہ یس حنور پٹھو سید تہ روز۔
اد متقی بجاووکھ اسی تہ ظالم تراووکھ اٹھ (جہنمیں)
منز کو ٹھین پٹھو وکر منی کر تہ۔

وَأَنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا وَإِرْدُهَا جَاءَ كَانَ عَلَىٰ
رَبِّكَ حَثَمًا مَّفْضِيًّا ۝۱۴

ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جَحِيًّا ۝۱۵

بیمہ بیلیہ جہنم ساری ٹاکا کہ آپ پٹھو پٹھو بوڑناوہ
یوان چھ تہ کافر چھ مؤمن کن ونان۔ (وڈی
توسہ) اسہ دوہو فرقہ منز کس فرقہ چھ
درجہ کہ لحاظ بہتر تہ سبکو باجو ہند لحاظ
جاڈرت۔

وَإِذَا تُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ
الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۝۱۶

بیمہ چھ اسہ جہنم بروٹھ واریا ہن زمان ہند
لوکھ ہلاک کر کر ہتہ بیم سامانہ ہند لحاظ تہ
ظاہری شان تہ شوکتہ لحاظ بہن لوکن ہند
کھوتہ جاڈ ربڑ اسی۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هُمْ
أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِءْيَا ۝۱۷

تہ ویکہ، یس شخص گھرا ہی منز (پنیومت)
اسہ۔ رحمان (خدا) چھ نٹس اُکس وٹس
تام ڈیکھ تراوان گرتہ ان۔ پوت تام نہ بیلیہ
بیتھن لوکن بروٹھ کن سہ عذاب بیمہ بیلیہ

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ
الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا
يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وَإِنَّمَا السَّاعَةُ ۝۱۸

لہ امر ایک چھنہ یہ مطلب نہ پرچہ انسان گرتہ جہنمیں۔ بلکہ مؤمن چھ بیتہ دنی میں
منزہ رنگہ رنگہ تکلیف و ہتروان تہ کافرن کہت چھ قیامتہ کہ دہک نار جہنم مقدر۔

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضعَفُ
جُنْدًا ۝۵۱

تمن سینو وعدہ کرنے آمنت اوس (یعنی یاد نیادی
عذاب یا تو میخ یوڑ یوڑ تباہی)۔ تمہ وقتہ
زائن تم زکس شخص سے جھ مکاتہ لحاظہ بدتر
تہ دوستن ہند لحاظہ کمزور۔

وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى دَرَجَاتٍ
الْبَقِيَّةِ الصّٰلِحِيْنَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝۵۲

پہلو لوگو ہدایت لوگت جھ اللہ (تعالے) بڑا
تمن ہدایتس منز تہ پتھ کن روزن اول نیک
اعمال جھ خدا یہ ستر نظر منز سارہ وہے کھوتہ
مہتر چیز۔ جزکہہ حسابہ تہ، تہ انجامہ کہہ
بصاہر تہ۔

اَفَدَرَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَ قَالَ
لَاؤْتِيْنَ مَالًا وَلَاؤَدُّوْنَآ ۝۵۳

کیا تریہ سوچتہنا زانہہ نس شخصس متعلق بیجو
سامن نشانن انکار کور تہ ووئنن ز مینہ سیپہ
بلاشک واریاہ مال تہ سدھا نیچورہ در تہ۔

اَطَّلَعَ الْغَيْبِ اِمَّا تَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ
عَهْدًا ۝۵۴

کیا تمہ جھ غاب (یعنی غائب حال) معلوم کور تہ؟
یا رحمان (خدا ایس) جھنا کانہہ وعدہ ہو حمتہ؟
تیہ سپدہ زانہہ۔ اسی تمہون تمہ ستر یہ کتھ
رژہر تہ تمہ سندر عذاب ز پھراوون۔

كَلَّا، سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ
الْعَذَابِ مَدًّا ۝۵۵

تہ بیہ (چیزس) پہ پھ سہ فجز کران جھ تمکو
سپدو اسی و ارب تہ سہ پیہ اسہ نش کنے زون۔
بیہ جھ تمہ لوگو اللہ (تعالے) ہس ورا کی سپھا
معبود بناوتھ تھادو ہوتہ۔ اتھ وہ میڈہ پپھ ز
تمہ بن تمن ہند خاطر عزیز تک باعت۔

وَنَرِيْهُ مَا يَقُوْلُ وَيَأْتِيْنَا قَرْدًا ۝۵۶

تیہ سپدہ ہرگز! تم معبود کرن اگر وہ ہس
تہنشن عبادتن انکار تہ تمن خلاف سپدن استاد۔

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لِّيَكُوْنُوْا
لَهُمْ عِزًّا ۝۵۷

تریہ پھ نا معلوم ز اسہ جھ شیطان بیلمہ تراوتھ
تھادو ہوتہ؟ نہ تم رورن کافرن ہس دوان۔

كَلَّا، سَيَكْفُرُوْنَ بِوَعَادَتِيْهِمْ وَ يَكُوْنُوْنَ
عَلَيْهِمْ صُدًّا ۝۵۸

لہذا مہ تہ تمن خلاف و تا اولی سان کانہہ قدم۔
اسہ جھ تہننز تباہی ہندکہ وہ گنزر رتھ تھادو کور۔
بیہ وہ اسی متقی زنبہ کرتھ رحمان (خدا یہ)
بندس دربارس منز سو نہر تھہ ہنو کہہ۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشّٰيْطٰنِيْنَ عَلٰى
الْكٰفِرِيْنَ تَوَدُّهُمْ اٰرَآءًا ۝۵۹


فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعَدُ لَهُمْ عَذَابًا ۝۶۰

يَوْمَ نَخْشِ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَ قَدًا ۝۶۱

وَأَسْأَلُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًا ﴿۵۷﴾ تہ مجرم، نمو کہ بہکھ روان جہنم کن۔
 لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿۵۸﴾ تمہ دوہرہ آسیر تہ کانسہ شفا تگ اختیار تہس
 ورا فی نیجو (خلایہ) رحمان سرتو عہدہ ہتہ
 تھومت آسیر
 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿۵۹﴾ بیہ چھہ یکم (لوکھ) ونان ز رحمان (خلایہ)
 چھہ نیجو بنومت۔
 لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿۶۰﴾ (تہ وکھ) توہر چھو اکھ سلہما سجت کتھ ونان۔
 تہہہ چھہ ز تہہہر کتھ ستو پین آسمان چھہہ
 گرتھتھہ تہہہ زین گرتھہ چھہہ چھہہ تہہہہ ہال
 پینہہ لوکھ سور گرتھتھہ (زمینہہ پتھہ)۔
 تہہہ کیازہ یکو لوکو چھہ رحمان (خلایہ) سندہ خاطر
 نیجو قرار دیتہہ۔
 وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿۶۱﴾ تہہہ رحمان (خلایہ) ہندس شانس چھہہ ہہہ خلاف
 زسہہ رٹہ کانسہ نیجو بناوتھہ۔
 إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اِنِّي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿۶۲﴾ تہہہ کیازہ ہرتھہ اکھ لیس آسمان تہہہہ زمیتہہ منز چھہہ
 سہہ چھہہ رحمان (خلایہ) ہندس دربارس منز غلامہہ
 ہندہہ خستہہہ حاضر ہیدن وول۔
 لَقَدْ اَخْطَاهُمْ وَعَدَّاهُمْ عَدًّا ﴿۶۳﴾ تہہہ چھہہ اخلاہہ، عمیر تہہہہ تھومت۔ تہہہہ تم
 ہچہہ گرتھہ راوتھہ تھادوہہ ہتہہ۔
 وَكُلُّهُمْ اٰتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿۶۴﴾ تم ہیدن ساری تہہہہہ خستس منز کنہہ کتہہ
 زڈی حاضرہ۔
 اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿۶۵﴾ بے شک تم لوکھ ہجو اپمان اوتمت چھہہ تہہہہ یکو
 نیک عمل کررہہ مشہہہ چھہہہ۔ رحمان (خلایہ) کر تہہہہہہ
 خاطر وڈا پادہہہ

۱۔ وڈا چھہہ عربی زبان ہ منز تہہہہ شہد ہر محبتس ونان لیس کلک پکھو دلس منز تھاسہہہ
 بیہہ۔ امیر خاطر امیر آہر ہکن تھتہہہ معنی سپدہہہ۔ ۲۔ اللہ تعالیٰ تراؤ موہین ہندن لہن
 منز پین محبت۔ ۳۔ اللہ تعالیٰ کر موہین سرتو محبت۔ ۴۔ موہین ہندن دلن اندر سپدہہہ سارہہہ
 بنی نوع انسان ہند محبت۔ ۵۔ موہین ہندو اخلاق وچھتھہ کرن ساری انسان اتھن (جاری)

فَأَنمَّا يَسْزَنُهُ يِلْسَانِكَ لِتُبَيِّرَ بِهِ
 الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ⑩
 لہذا اسے کوز یہ (قرآن) چاند زبانی منزه سہل بناؤ گد
 نازل ہوتے نہ بیہ کر دوسو تہر دیکھ متقین بشارت
 تہ امر کہ دوسو کرہن تہ لڑا یہ کوز قوم ہنبار۔
 بیہ ہنم ہر وقتہ گدرے ہنر کا تراہ جمانہ چھبہ
 یکہ اسے ہلاک کر۔ کیا تہ چھکا ہمو منہ کا لہ
 ⑪ اکر سند تہ بیان یا تہ ہنر سو تہ آواز بولان ہ



سورہ طہ - یہ سورہ چھ نکلی تہ بسم اللہ ہتہ چہ اتہ اہ ہتہ تہ شینیرہ آہ بیہ چھس اٹھ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 طہ ①
 مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
 لِتَشْفَى ②
 إِلَّا تَذِكْرًا لِّمَن يَخْشَى ③
 تَنزِيلًا لِّمَن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ
 الْعُلَى ④
 الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ⑤
 (ہر چھس) اللہ (تعالیٰ) سند ناو ہتہ (پران)
 یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر ک پھیر ک
 رحم کرن وول چہ۔
 اسے کابل طاقتہ والہ مرد! لہ
 اسے کوز تہ (پہ) قرآن تہ پیٹھ او کو تہ نازل ز
 تہ بیکہ کلپنس منہ۔
 یہ تہ چہ صرف (خلایس) کھو تہن وائس انسانہ
 ہند خاطر رہنمانی تہ ہایت (دو تہ خاطر)۔
 (قرآن) چہ تہ ہند طرفہ نازل کرتہ آمت
 نیو زمین تہ تھد آسمان پاد کرک ہتہ چہ۔
 (سہ چہ) رحمن (خدا یس) عرشس پٹھ پاد

بقیہ حاشیہ:- سستی محبت اچھ سبھا مثال چہ تہ تاریخ اسلام منہ موجود۔ شامک علاقہ فتح کرتہ پتہ بینہ
 مسلمان سہ علاقہ دشمن ہند و باو موکہ خالی کرن پو تہ مسلمانو کرک عیسائی تہ یہودی عین ہند
 ساری ٹیکس ہن وائس۔ الفائلک ہتہ سلوک و چھتہ گئے تم لوکہ حاران تہ وود وود کرک تہ
 خدا تعالیٰ ہس دعا نہ بیجو نیک دل حکمران کر تہ وول وول واپس یز۔

(فتوح البلدان بلاذری ص ۱۲۷)

لہ طہ چھ حروف مقطعات تو منہ امیک معنی چہ عربی زبانی منہ اسے مرد! یعنی تہ
 مرد نہیں منہ ساری مردانہ صفات آسن یعنی شجاعت سخاوت تہ بلند اخلاق قھون وول انسان۔

پاکو قائم پیدرت چھ -
 تمہ سنکے چھ تہ کیشترہا پہ آسمان تہ زمیہہ منز
 تہ پین دونو درمین چھ بیہ تبتہ پہ سترہجہ
 مینتر تل چھ -

ہرگاہ تہ زور سان تہ کتہ کرکھ (تہ امہ سستی پینہ
 تہ کانہہ فرقی) تکیانہ سہ چھ سرتہ زانان تہ
 یوسہ کتہ سہر کھوتہ جاو پوتہد آسہ (سوتہ چھ
 زانان) -

اللہ (تعالیٰ چھ سموات لیس) وراہی کانہہ
 معبود چھنہ (تہ) تس چھ واریاہ برتی صفت -

تہ (امہ کس نبوتس منز بھی اکر وان زہ) کیا تریا نش
 چھاموسی منز (تسند واقعہ ہج) خبر واژ مشر (کینہہ)؟
 دینے) بیلہ تمہ اکھ نارو چھ تہ تمہ وون پینہ
 گرکین (تہ تمہ جاہ) روزو قرارس۔ مینہ پتھ
 اکھ نارو چھمت۔ تمکین چھ بہ اہ توت گرتہ ہتھ
 تمہ نار منز توہ بہ کتہ تہ کانہہ تہ نگلاہ یا کر
 نارس پیٹھ (پسنہ خاطر کانہہ روحانی) ہریت
 حاصل -

اد بیلہ سہ تہتہ (نارس) نش ووت تہ تس او
 آلودہ ز اے موسیٰ!

بہ چھس چون پروردگار۔ لہذا تہ کر پسنہ
 دونوے نالانہ کھور نمبر۔ تکیانہ تہ چھکھ طوی
 چھ پک وادی منز۔

بیہ چھکھ مینہ تہ (پسنہ خاطر) تہ ورت لہذا
 تریہ کن یوسہ موسیٰ کرنہ یوان چھیدہ سہ بوز تہ وارہ
 پاٹھ (تہ تہ پیٹھ کرمل)۔

بے شک بہ چھس اللہ۔ مینہ وراہی چھتہ کانہہ
 معبود۔ لہذا تہ کر میانی عبادت تہ میانہ فر کر
 باپتھ کر نماز قائم۔

قیامت چھیدہ بے شک پتہ واجو بہ مارن سو (جلد)

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ①

وَ اِنَّ تَجَهَّزَ بِاَقْوَالٍ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ
 الْيَسْرَ وَالْخَفٰى ②

اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ
 الْحُسْنٰى ③

وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوسٰى ④

اِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِيْهِ امْكُثُوْا اِنِّىْ
 اَنْتُمْ نَارُ الْعٰلَمِيْنَ اَتَيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ
 اَوْ اِجْدَعَلِ النَّارِ هُدٰى ⑤

فَلَمَّا اَنْهٰهُنَّ وَاٰى بِمُوسٰى ⑥

اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاحْلَمْ نَعْلَمِيْكَ ۚ اِنَّكَ
 بِالنَّوٰى الْمُقَدَّرِيْنَ طُوٰى ⑦

وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ⑧

اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۚ
 اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ⑨

اِنَّ السَّاعَةَ اَتَيْتْهُ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ①

ظاہر تھی کہ ہر شخص اپنے نفس سے تہ بند ہو اعمالو

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا
وَأَتَّبَعَهُ هَوَاهُ فَتَزْدَى ②

مطابق بدلہ دینے
لہذا ایسے (شخص) قیامت سے پہلے ایمان چھینے
تھوون تہ پسنہن تہا ہنشن پتہ پتہ چھہ پکان پتہ
سہ قیامت سے پہلے ایمان اتہ ہنشن تہیہ پتہ رتہ۔
تہیہ کہو تہ ہلاک سپدک۔

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْؤُسَى ③

تہ (اسہ وون مویسہ ہس تہہ وقتہ تہ) اسے مویسہ!

قَالَ هِيَ عَصَايَ جِ اتَّوَكَّلْتُ عَلَيْهَا وَآهَشْتُ
بِهَا عَلَى غَنَوِي وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى ④

یہ کیا چھہ چائس دچھس اتھس منز ؟
(تہ وون) یہ چھہ میون عاصہ ہر چھس یہ دکھران
بیہ چھس اسہ سوتو پسنہن تہہرن کیت (کھن)
پن چھانان تہ اسہ علاو تہ چھہ اتھ منز میانسہ
خاطر بیہ کہو یا فایہ پلوشہ۔

قَالَ أَلْقَهَا يَمْؤُسَى ⑤

اتھ پیٹھ فرموو تہو (خداین) اسے مویسہ! یہ
عاصہ دن پتھر دارنہ۔

قَالَفَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ⑥

اچ تہو دیت سہ عا پتھر دارتھ تہ وچھان وچھان
بسیووسہ اکھ سرف یس دورن اوس۔

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ نَدَّ سَنُعِيدُهَا
سِيْرَتَهَا الْأُولَى ⑦

اتھ پیٹھ فرموس (اللہ تعالیٰ ہن) یہ رتن تہ
کھوتہ مہ۔ اسی دنن پہ بیہ پتہ اصل حالتہ کن
والس۔

وَأَضْمُمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ
بَيْنِيْضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةً أُخْرَى ⑧

بیہ وباون پن اتھ کر تھس تل۔ بیلیہ تہ پہ
نہیر کڈہن تہ سہ اسہ سفید مگر کتہ داو وراہہ۔
یہ آسی بیاکھ اکھ نشاہہ۔

لِنُرِيْكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ⑨

(تہ اسی کرو یہ او کہو) تہتہ تہ امہ کس پہچس
منز اسی تہیہ بڑی بڑی نشاہہ باو دے۔
تہ گرشہ فرعونس کن تہ کیا ز تہو چھہ سہ کنی
انتہار کڑہتہ۔

إِذْ هَبَّ رِيْحًا فَذَعَّوْنًا لَّئِن لَّا طَعَى ⑩

(اھہ پیٹھ) وون (موسیٰ ہن) میانسہ پرور وکارہ!
میون سپتہ مشراو ؟

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ⑪

وَيَسْزِلْنَ أَمْرِي ۝

تہ یس سزین میں پیٹھ تراونہ آمت چھ سہ پلوہ
کرن کر میاں با پتھ سہل۔

وَاحِلُّ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۝

تہ اگر میاں زلیو کا نہہ گند آسہ تہ سہ تہ مشرلوہ
یوت نہ لوکن تر میاں کتھ نکری۔

يُفْقَهُوا قَوْلِي ۝

تہ میاں ہوشنہو گر کہو منز کرن اکھ میون مددگار مقرر۔

وَاجْعَلْ لِّي ذُرِّيَةً مِّنْ أَهْلِي ۝

(یعنی) مارون یس میون بوے پتھ۔

هٰذُونَ آخِي ۝

تھو ہند ذریعہ کر میون طاقت مضبوط۔

اشْدُدْ بِهٖ أَزْرِي ۝

تہ سہ کرن میاں کامہ مشر شریک۔

وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۝

یٹھ زن اسی (دونوں) جاو جاو چاڑ تہج کرو۔

كَيْ نُسَيِّدَكَ كَثِيرًا ۝

تہ جاو جاو کرو چوں ذکر۔

وَتَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۝

تہ چکھ اسہ جان پا تھو وچھان۔

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝

فرمولس (اللہ تعالیٰ ہن) اے نموی! یہ تریہ
مؤنکت تریہ آوے تہ درہ۔

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ۝

تہ اسہ پتھ (امہ بروٹھ) اکھ لٹہ بیہ تہ تریہ پیٹھ
احسان کورمت۔

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۝

ییلہ اسہ چاڑ ماہر پیٹھ وحید ہند ذریعہ تہ
سوڑے کیٹہ تا زل کور یہ (تتھس موقس پیٹھ)

إِذَا وَحْيَنَا إِلَىٰ أُمَّتِكَ مَا يُوْحَىٰ ۝

تا زل کرن ضروری اوس۔

أَن آتٰذِ فِيمَا فِي السَّابُوتِ فَآذِ فِيمَا

(تمیک تفیل پتھ یہ) نہ یہ (موسیٰ) تھاون
صدوقس منز پتہ تراون یہ صدوق دریاوس منز

فِي الْيَمِّ فَلْيُلْهِمِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ

(امہ پتہ سپدن یہ نہ) دریاو و اتناون سائہ حکمو
تھ (صدوقس) بچس تام (یٹھ نہ) اتھ نہہ

يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَكَ وَالْقَيْثُ

سہ شخص یس میون تہ تھو سند (یعنی نموی مند)
تہ دشمن چھ تہ تریہ پیٹھ کور میں پس نہ طرفہ

عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّمِّي ۚ وَ لَتُضَنَّ عَلَىٰ

محبت تا زل (یعنی چاڑ خاطر کورم لوکن ہندہن
دہن منز محبت پاؤ) تمیک نتیجہ سپد یہ نہ تہ

عَيْنِي ۝

اکھ سائہن اچھن تل رچھتہ۔
(یہ سپد تہ وقتہ) ییلہ چاڑ بیہ (بچس سوڑو)

إِذْ تَمْشِي أُنْحَثَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ

سوڑو) پکان مرٹھان اُس تہ وان اُس نہ لوکوا

عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، فَرَجَّحْنَا إِلَىٰ أُمَّتِكَ كَيْ

کیا ہو، ولو وا توہر تمس زنا نہ بند پیتے یوسہ
 بیس رچہ؟ تہ میتہ کنی واتوؤکھ اسہ چہہر تہ
 تہ پسنہ ماجر نش۔ میتہ لکن نش اچھ شہلن
 تہ سہ بر نہ نم۔ تہ (اے موسیٰ) تریہ اوستھ
 اکھ شخص قتل کورنت۔ پیتہ دیتے تریہ اسہ تمہ
 عنہ نش نجات تہ تہ آز موووکھ اسہ بر تہ پاٹھ
 وار یاہن امتحان مشنہ تراوتھ (بیمہ پستہ)
 کسٹین ڈرین روؤکھ تہ مدین کین لوکن
 مشن۔ اے موسیٰ! پستہ (واتاں واتاں) ووتکھ
 تہ تہ عمر یوسہ ساہ کامہ لایق آسان چہنہ
 تہ میہ کوؤکھ تہ پسنہ زاتہ خاطر (روحانی تریہ
 دوان دوان) تیار۔

(ادو میلہ تہ تہ عمر ووتکھ تہ میہ وونے تریہ زینہ)
 تہ تہ چن بوے گڑھو میاں نشا نہ ہتہ تہ میون
 ڈکر کرن مشنہ مہ کڑو کا نہ لاپرواہی۔
 توہی دو نوے گڑھو فرعونس نش تہ کیا تہ تہ
 چہ نافرمانی پراوتھ تھا ویش۔

تہ توہی دو نوے کڑی زلو تس سبتی نرم تہ مودر
 کتہ۔ دلو تس فکر تہ یا سہ ہیسہ اسہ کھوژن۔
 دو نوے وہے کورس عرس۔ اے ساہ پروردگار
 اسی چہ کھوژن زہینہ (سہ) اسہ پیٹھ زیادتی کر
 یا ہینہ سہ اسہ پیٹھ جد گڑھتہ سختی کر۔

فرمودیکھ (اللہ تعالیٰ ہن) توہی دو نوے مہ
 کھوڑو بالکل۔ بہ چھسو توہہ سبتی۔ بوزان چھس
 (تمہندی دعا تہ) تہ وچھان چھس (تمہنہ حالت تہ)۔
 لہذا دو نوے گڑھو تس نش تہ تس ڈلو اوس
 دو نوے چہ چائس پروردگار ہندی رسول۔ لہذا
 بنی اسرائیل سوؤکھ اسہ سبتی تہ تمہن مہ در
 نکلیف۔ اسی چہ چائس پروردگار سہنہ طرفہ
 تریہ نش اکھ بوڈ نشا نہ ہتہ آہمی تہ (تریہ پھی

تَفَرَّعَيْنَهَا وَلَا تَخْزَن ۚ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا
 فَجَئِمْنَكَ مِنَ الْعَمَىٰ وَ قَتَلْتَ قَتْلًا
 فَلَيْسَتْ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَن ۚ ثُمَّ
 جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّمُوسَىٰ ①

وَأَضْطَجَعْتَكَ لِنَفْسِي ②

إِذْ هَبَّ آتُكَ وَ أَخُوكَ بِأَيْتِي وَ لَا تَنبِيئَا
 فِي ذِكْرِي ③

إِذْ هَبَّآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ④

فَقُوَّالَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّه يَمْدَكَ كِرًا
 وَيُخْشِي ⑤

فَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا لَنَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ
 عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ⑥

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمِعُ
 أَنْ يُبَيِّنَ ⑦

فَأَتَيْنَاهُ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولُكَ قَاذِبِينَ
 مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ وَ لَا تُعَذِّبُهُمْ
 قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَ السَّلَامُ
 عَلَيَّ مِنَ اتَّبَعِ الْهُدَىٰ ⑧

وان نزل (یس) شخصیں سائیس اُنی مہر (س)
ہدایتیں پتہ پیکر۔ تس پیچھ سپر (خدا یہ سبند
طریقہ) سلامتی نازل۔

اسر پیچھ چھیہ وہ وحی نازل کرنہ آہتر تر یس اکھ
تہ (خدا یہ سند نشانہ) ایزاو تہ تھر پھر اس
پیچھ سپر عذاب نازل۔

(اتھ پیچھ) وطن نکھ (فرعون) اے موسیٰ!
توہر دوہونی ہند پروردگار کس پتھ؟

(موسیٰ بن) وون نس۔ سون پروردگار چھ سہ
نیو پر تہ چیس (تہ کہ ضرور تہ مطابق) تان
عطا کرک ہتی چھ تہ پتہ چھن یمن (تان)
کام ہنک طریقہ تہ پتہ چھنوت۔

(فرعون) وون نکھ (اگر یہ کتھ چھیہ) تہ برؤٹو
ہن لوکن ہند حال کیا اوس؟ (یعنی تہ تہ اسی تہ
یہ کتھ مانان بہن سہو کیا سلوک سپر؟)

(موسیٰ بن) وونس بہن (برؤٹو ہن لوکن) ہند
تہ چھ میانس پروردگار (تہن سارہنہ
ہندہ حالات چھ تہو ہنر) کتابہ منفر رتھ تہ
میون پروردگار نہ چھ و تہ ڈلان تہ نہ چھ تس
مشیتہ گرتھان۔

(سے چھ) نیو تہند خاطر بہ زمین فرشتہ کس
سورس منفر بناوہتر چھیہ تہ اتھ منفر چھن تہند
باچھ و تہ تہ کھتر تہ آسانہ پیچھ چھن آب
نازل کورنت اڈ چھ اسر تہ آب کہ ذلیعہ
نیون۔ نیون قسم کہن و و پدن پون ہندہ جوہر
پاڈ کرک ہتہ۔

(لہذا) توہی تہ کھنہو تہ پنہو چارواہی تہ کھیا ولوکہ۔
اتھ منتر چھ عقلہ والہن لوکن ہند خاطر واریاہ نشانہ۔

اسر چھو توہی اسی (زمینہ) منفر پاڈ کرک ہتی تہ
اتھو منفر انوہ توہی واپس پھر تہ اسی منتر

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ
كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿۳۱﴾

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَىٰ ﴿۳۱﴾

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ
ثُمَّ هَدَىٰ ﴿۳۱﴾

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿۳۱﴾

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّينِ فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ
رَبِّينِ وَلَا يَنْسَىٰ ﴿۳۱﴾

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّتْ
لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَآَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن تَبَابِتِ
شَتَّىٰ ﴿۳۱﴾

كَلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ﴿۳۱﴾

وَنَهَا خَلْقَكُمْ فِيهَا تَحِيدُكُمْ وَمِنهَا
نُخِرْ جُكُم تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿۳۱﴾

- کڑو و توہی دو میر لٹ۔
 بیہ ہاوی اسہ تس (یعنی فرعونس) پینو پر پتہ
 قہیکر نشانہ مگر سہ رُود (رتو باوجود) اپڑاوس
 پیٹھ ڈرٹتہ تہ انکار گود کران۔
- ۴۸) اَبٰی ۴۸
 وَقَدْ اَرٰیْنٰہٗ اٰیٰتِنَا کُلَّھَا فَکَذَّبَ وَ
 قَالَ اٰجِئْتِنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا
 بِسِحْرِکَ یٰمُوسٰی ۴۸
- بیہ ہیوتن و تن (اے موسیٰ!) تہ پھکا اہ
 موکہ اسہ بش آمت؟ یٹھ نہ پشنو میچھو کھتھو
 ہنہر ذریعہ کرکھ اسہ سانہ ملکہ منہر۔
 (اگر یہ کتھ چھینے) تیلہ الو اسی تہ چارہ مقابلہ
 شیٹھ جود۔ لہذا اسہ در میان تہ پانس در میان
 کر اکھ (وقت تہ) وعدہ دینہ آمت مقام کھہر
 نہ پھیر و اسی تمہ بش پوت نہ پھیرکھ تہ پوت۔
 سو اہن (اکھ ترشہ) جائے (لیوسہ) توہہر تہ
 اسہ در میان برابر (اسہ)۔
- ۴۹) اَتَمَّ پِیْطَہ (وونکھ (موسیٰ ہن) نہ تہنہ (تہ سون)
 یکوٹ سپدنک دودہ اہن (تہنہ) بوڈ دودہ۔ تہ
 نیز کھنڈ آفتاب کھتھہ بین ساری لوکھ سونہر تہ۔
 اتھ پیٹھ گود فرعون تھہر پھرتھہ تہ بیم تدبیر
 تس بش ممکن سپدنہہ ہیکر ہن۔ تم کرن
 دستیاب۔ تہ پتہ آو (موسیٰ ہس کن)۔
 اہ موسیٰ ہن وون (ہن کن) اے لوکو! ہلاکت
 اہن توہہر پیٹھ۔ اللہ (تعالیٰ) ہس منہ نووڑا و و
 اپڑ۔ یٹھ نہ تہ سپدنہہ فی و توہہر عذابہ سستی
 پٹھتھ۔ تہ یس کاترھا (خالیس پیٹھ) اپڑ لاگتھ
 تھوان ٹھہ سہ چھہ ناکام سپدن۔
 یہ بوڑتھ لگی (فرعون تہ تمہ سندی سوتی باجر) پانہ
 واڈی ٹرونہ بیہ لگی ٹرونہ تدبیر کرتہ۔
- ۵۰) قَالَتْ لَہُمْ مُوسٰی وَیَلَّکُمْ لَا تَفْتَنُوْا عَلٰی
 اللّٰہِ کِذْبًا فِیْضِحَّکُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَ
 قَدْ خَابَ مِنْ اَفْتٰی ۵۰
- تمو وون بیم دو ہونے (بارہی موسیٰ تہ ہارون)
 چھہ صرف جو دگر۔ (بیم) یہ بیٹھہان چھہ نہ
 توہہر ٹھہن نو تہنہر ملکہ منہر کڈتھہ پسنہہ جاد
 کہ زور سوتی تہ تہنہر س تھہر پایہ مذہب کرن تہاہ۔
- ۵۱) قَالَتْ لَہُمْ مُوسٰی وَیَلَّکُمْ لَا تَفْتَنُوْا عَلٰی
 اللّٰہِ کِذْبًا فِیْضِحَّکُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَ
 قَدْ خَابَ مِنْ اَفْتٰی ۵۱
- ۵۲) قَالَتْ لَہُمْ مُوسٰی وَیَلَّکُمْ لَا تَفْتَنُوْا عَلٰی
 اللّٰہِ کِذْبًا فِیْضِحَّکُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَ
 قَدْ خَابَ مِنْ اَفْتٰی ۵۲
- ۵۳) قَالَتْ لَہُمْ مُوسٰی وَیَلَّکُمْ لَا تَفْتَنُوْا عَلٰی
 اللّٰہِ کِذْبًا فِیْضِحَّکُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَ
 قَدْ خَابَ مِنْ اَفْتٰی ۵۳

لہذا پتھر توہمہ تہ نہ توہمی تہ سوچو پتھی تدبیر
پتھر بیوی بکویٹ گرتھتہ کہ جماعتہ چہ شکلہ مشنہ
تہ از نیس (شخص) سرس روزئے آسکامیاب۔
(اتھ پیٹھ) وونکھ (تو کو یوم موسیٰ ہس مقابلہ
کرتھ خاطر فرعون سمبیراوی متی اسی) نہ اے
موسیٰ! یا تہ تراو تہ (یعنی ظاہر کرتھ تدبیر)
نتہ (ونکھ تہ تیل) تراو اسی تہ بروٹھ۔

(او) وون نکھ (موسیٰ ہن۔ رت گوئیہ) نہ توہمی
تراو (یعنی پتھ تدبیر کرو ظاہر) بہر حال
(تو نیس تدبیر کور) تہ کس تہ پتھ مشنہ آ پیہ
تہنہ نہ تہ تہنہ نہ لور موسیٰ ہس (تہن ہندہ
فریبہ کہی) تہ تہ بوزنہ نہ نہ نہ نہ وون آسہ۔
تہ موسیٰ کھوڑا اندر نہ کہی۔

(او) اسر کورجی (اے موسیٰ!) مہ کھوڑا کیاز
تہ رے روزکھ سرس۔

تہ یہ کینٹھا چانس وچھنس اتھس مشنہ تہ
تراو پتھر نہ ہنگلو تہ سورے یہ کینٹھا تہ
بنوومت پتھ (یعنی تمیک اول وانگن کڈنوں)
تہ یہ کینٹھا بنوومت پتھ نہ تہ پتھ نہ
بانگ ہنداکھ نہ تہ نہ ہنداکھ نہ
پتھ (خدا ہس مقابلہ) ہنیک نہ کامیاب پتھ۔

(او) تیل موسیٰ ہند عاصہ تراوہ پتھ فرعونہ ہند
اُنی متی) چالباز (پتھ گمرونی نہ آگاہ گئے تہ
تہ) آہ (پتھ نہمیر جہ آواز سدی) سجدس
وانہ نہ تہ نگ و نہ (اُسی چہ ہنوں تہ موسیٰ
ہندس پروردگاس پیٹھ ایمان انان۔

(اتھ پیٹھ) وون نکھ (فرعون) کیا توہمی چھو میانہ
حکمہ بروٹھ اُمس پیٹھ ایمان انان (معلوم پتھ
نہ) نہ پتھ تہند سرور تہ توہمہ یہ ہند بازہ
ہنچناو مشنہ چھو لہذا (امر نہل بازی بدل)

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوَصِفَاءً
وَكَذَآفَلِحَ الْيَوْمِ مَنِ اشْتَعَلَ ۝

قَالُوا يَمْوَسِيٰ اِمَّا اَنْ تُخْلِقَ وَاِمَّا اَنْ
تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقَىٰ ۝

قَالَ بَلْ اَلْقُوا فَاِذَا حَبَّالَهُمْ وَعَصِيَهُمْ
يُخَيَّلُ اِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِ هِمَّ اَنَّهُمْ
تَشَىٰ ۝

فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۝
فَلَمَّا لَا تَخِفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَىٰ ۝

وَالْقِي مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا
اِنَّهُمْ صَنَعُوا كَيْدُ سَجِيءٍ وَّلَا يُنْلِحُ
السَّحْرُ حَيْثُ اَتَىٰ ۝

فَالْقِي السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا اِمَّا يَدْرِتْ
هٰؤُوتَ وَاَمُوْسَىٰ ۝

قَالَ اَمْنَعْمَلَهُ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ وَاِنَّهٗ
لَكَيْدِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ
فَلَا قِطْعَنَ اَبْدِيكُمْ وَاَرْجَلَكُمْ وَاِنْ
خِلَافٍ وَّلَا وَاَصْلَبْتَكُمْ فِي جُدُوٰءِ

ترپ بر تہندک اتھ تہ کھور (پستہ) خلاف
ورزی ہند با عشہ - بیہ دمور (بر توہر) کھور
کلی گوڈن سستی گنہ تھ صلیب - تہ توہر سپر
و معلوم نہ اسہ منہ کس چھ جاو سخت تہ تر کمال
روزون عذاب وتھ ہکان -

تو ایسے فرعون ہندو بر تھو ہو سستی باجو یا
ہادوگرو وون (اتھ پیٹھ) اسی ہیکوے نہ تریہ
تمن نشان پیٹھ بر تری وتھ یکم (خدا یہ ہند
طرف) اسہ نش آہتی چھ تہ نہ تس (خدا اس)
پیٹھ بیہ اسی پاو کرک - لہذا یہ زور تریہ لائن
چھ تہ لگ، تہ ہیکہ صرت بیہ دوسیا پنج
زندگی ختم کر تھ -

اسہ چھ (وول) پنسن پروردگار سپٹھ ایمان
اؤمنت بیہ نہ سانی گناہ معاف کر تہ یہ
ووکہ بازی (ہند مقابلہ) تہ کر معاف بیہ
خاطر تریہ اسی مجبور کرنا بیہ تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ سارو بے کھوتہ بہتر تہ سارو بے کھوتہ
جاو مقابم روزن وول -

حقیقت چھینہ پہ تریس کا نہہ شخص پنسن
پروردگار نش مجرم ہند ششائس منز حاکم
سپان چھ تس چھ بے شک جہنم میلان - نہ
چھ سہ تھ منز صران (تہ) نہ چھ زند روزان
بیہ یس شخص تس (خدا اس) نش مؤمن اسپ
کس حالتس منز پیہ بیہ زن سہ سوت سستی
مقاسب حال عمل تہ کران آسہ - تہ بیہ پر تھ اکھ
شخص لبہ تھ درجہ -

اتم درجہ آسن (ہمیشہ روزن اولی باغ یمن
منز کو لہ پکان آسن اتہ) اتم گشمن متن اندر
روزان تہ پہ چھ تھ (یعنی تس شخص سندا)
مقاسب بلہ یس شوژر پرلوان چھ -

التَّخْلِيلُ ذُو لَتَعْلَمَنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا
آبَقِي ⑤

قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَكَ عَلٰی مَا جَاءَنَا مِنَ
الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا
اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِي هٰذِهِ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ⑥

اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا
وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّخْرِ ؕ وَاللّٰهُ
خَبِيْرٌ اَبْقٰ ⑦

اِنَّهُ مَن يَّاتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ
جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ⑧

وَمَن يَّاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحٰتِ
فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ⑨

جَعَلْتُ عَذٰبَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اِلَّا نَهْرٌ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزَاؤُا مَن
تَرَضٰى ⑩

بہ کرنا یہ اسے موسیٰ ہنس موی زمیڈ بسندہ
(یعنی پندرہ تو ہر گز) نکھ رات کیت انہ گٹر مفر
گڈتھ پتہ ہاوہن سمندر منفر اکھ وتھ یوہ
ہوچھ آسہ - نہ روزی ثریہ بیم ز کاتھہ (شخص)
رٹی پتہ کئی بیتھ تہ نہ کھوتر کھ تہ (سمندر)
تباہی نش - اتھ پتھ گوو موسیٰ پین قوم بیتھ
سمندر کن -

تہ فرعون دلاہ پتہ لشکر بیتھ ہن پتہ پتہ تہ
سمندر وول سہ تہ تہ ہندر سوتی باجر پلور
پور پردس تل -

تہ فرعون کور پین قوم گمراہ تہ ہدایت گ
طریقہ ہونکھ تہ -

اے بنی اسرائیل! اسے چھو تو بہ تہنہ
دشمنش بش نجات دیت مت بیم بیتھ
اسے تو بہ سوتی تہ پتہ طور کیر ڈچہنہ
طرفہ اکھ (دو طرفہ) وعہ
کورمت - بیم کرنا یہ اسے تو بہ پتھ من تہ
سلوئی نازل - (بیتھ تہنہ با پتھ خوراک
دستیاب گرتھہ) -

(بیم و نیاو و نر) یہ کینرھا اسے تو بہ دتیمت
چھو تہ منر کھینو پاک چہنہ - تہ اتھ (برزقہ)
رکس معاملس منر گرتھہ تہ ظلمس کام، نیز
بیتھ تہ تہ سپد نہ تو بہ پتھ سپد میون غنہ
نازل - تہ یس پتھ میون غنہ نازل سپلن چھ
سہ چھ (تھنر پتھ) وسی پوان -

تہ یس شخص تو بہ کر تہ ایمان انہ پتہ کر

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَسْرِ
بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى
الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَّ
لَا تُخَشٰى ۝

فَاتَّبَعَهُمْ فِى زَعُوْنٍ يَّجْتُوْدُوْا فَعَشٰىهُمْ
مِّنَ الْيَمِّ مَاعَشٰىهُمْ ۝

وَاصْلًا فِى زَعُوْنٍ قَوْمَهُ وَّمَا هٰذٰى ۝

يَّبٰىنِيْ اِسْرَآءِ يٰلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّن
عَذُوْبِكُمْ وَاَعَدْنَا لَكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ
الْاَيْمٰنِ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَاَلْسَلٰوٰى ۝

كُلُوْا مِمَّن طَيَّبْتُمْ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا
فِيْهِ فَيَحْبِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ وَاَمِّنْ يَّحْبِلْ
عَلَيْهِمْ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ۝

وَاِنَّ لَتَفَقَّارَ لِّمَنْ تَابَ وَاَمِّنْ وَاَعْمَلْ

لہ یہ وعداوس دو طرفہ یعنی خدا تعالیٰ ہن کوز وعہ نہ اگر بنی اسرائیل توراہ کین ممکن
پتھ عمل کرن تہ خدا تعالیٰ دہہ تمن برکت - مگر بنی اسرائیل پتھ روویہ وعہ لہذا اللہ تعالیٰ سپد
تمن ناراض - لہ اگر تمہک مؤذر شریر کاویتھ ترنجہن و ن نہ چہ - لہ باٹر

(پڑی پاٹھ کور پہ کار سامرین تہ تہندو پوستی باجو)
مگر تم اسی ناہ پاہ وچھان نرسہ ووتھہ پچھ
تہ تہنیز کتہ کتھ جواب دون تہ نہ پچھ کتہ کتہ
نوتھمان واتناوتھ ہیکان تہ نہ پچھ کتہ کتہ تاہید
واتناوتھ ہیکان ہ

تہ ہارون و نیاو (موسیٰ بندہ واپس سینہ تہ بروٹھ
تہن ، اے میاہ قوم! توہر بچھو اکی سبند
(یعنے وٹھ بندہ) ڈریہ آزمائیشہ منتر تراوتہ آہوت
تہ تہندہ پروردگار پچھ رحمان (خداے) نہہذا
میاہ فرمائیرواری کرہ تہ میون محکم مارو (تہ
بشرک مہ کرہ)۔

(مگر اکی اکبر کر قومن) وون (تس) یوتان موسیٰ
اسر کن واپس پیہ نہ اسی روزو اکی سبند
عبادت کران۔

(بیبلہ موسیٰ واپس آو تہ ہارونس کن) وون۔
اے ہارون! بیبلہ تریہ بین قوم گمراہ گتھان
وچھ یوتھ تہ تریہ کتہ کر لووے منع؟
نہ تہ پکڑ نہہ میاہن پدی آگس پیچھ؟ تریہ
کڑتھا میاہ پکچ عدول؟

(ہارون) وون تس۔ اے میاہ ماجہ ہند گورہ
میزہ مہ رٹھ میاہ ڈار تہ نہ رٹھ میاہ کلک مس۔
بے کھوٹاس اتھ کتھ نہ تہ پینہ وکھ نہ تریہ
چھتھ بنی اسرائیل منتر نفاق پاہ کورمت تہ
میاہ کتھ ہند تھووتھ نہ خیال (ز توک تنظیم
گتھہ برقرار روزن)۔

(اتھ پیچھ پید موسیٰ سامرین کن متا طلبہ)
وون تس اے سامری! چن کیا معاملہ پچھ؟
توہ وون میہ وچھ تہ کتھ تھاپہ نہ تہ کو لوکو
وچھت اوس تہ میہ کر کتہ کتھ اوس سؤل

أَفَلَا يَدْرُونَ أَلَّا يَزُجِعُهُمُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿١٦﴾

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ
يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٧﴾

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى
يَزُجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴿١٨﴾

قَالَ يَهْرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ
صَلُّوا ﴿١٩﴾

أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٢٠﴾

قَالَ يَبْنَؤُ مَا تَأْخُذُ بِإِخْيَاتِي وَلَا يَرْأِيئِي
إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ
بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢١﴾

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴿٢٢﴾

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ

اے مفسر پچھیکھان تہ سامرین اوس جبرئیل علیہ السلام وچھت تہ تہندس مگر ہند پڈر تہ اہن اکھ میشر (جاری)

قَبَضَتْهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي تَفْسِي ⑩

(یعنی موسیٰ) سنزرو کھتو مفر اختیار (تہ کینہہ کر کم نہ اختیار) پتہ (میلہ موق آو تہ) تمہ (پانناوی مشر کتہ) تہ ترہم تر او تہ تہ میا ذی دن اوس یو ہے چیز میہ رت کر تہ ہوت

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ يُخْلَقَهُ ۖ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ⑪

(موسیٰ ہن) وون نس، اچھا تر گتہ - ثریہ پتہ یہہ ڈنیہ ہس منز یہی سزا تر ہر روز یہہ (ڈنیہ ہس) منز پر تہہ اگس یہ ونان نہ (میہ) مہ لگو اتہ (یعنی ہر چھس موسیٰ ہن نوکر مٹھرومت) تہ (موسیٰ ہن وون ساہرس پتہ ترا چاہہ خاطر چہہ اکھ وقت گتہہ (یعنی سزہک) ا یس تر ڈالتہ ہیکہ نہ - بیہ وچہ پس نس معبودس کن بیٹیس بروٹھہ کتہ بہتہہ تہ تو ہنز عبادت کران اوسکھ - اسی زلون یہ تہ پتہ دہون سمندرس منز دارتہہ -

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَاسْمُ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ⑫

تہند معبود تہ چہہ صرف اللہ (تعالیٰ) بیٹیس ورا یی بیہ کاٹہہ معبود چہہ - سہ چہہ پر تہہ اکھ چیز زانن -

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۖ وَكَذَلِكَ نُنَادِيكَ ⑬

یہتہ پاتھو چہہ اسی ثریہ بروٹھہ کتہ پتہ ہن لوکن ہنز خبر بیان کران تہ اسہ چہہ ثریہ پتہ کتہ ذکر (یعنی قرآن) عطا فرمومت -

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ⑭

یس اسہ ہنٹہ پتہ پھر تس پیہیہ قیامتہ کہ وہہ اکھ بوڑ بارہ بورٹکن -

خُلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ⑮

اتہہ حالس منز روزن (پتھو لوکھ) واریا میں کالس تام تہ قیامتہ کہ وہہ آسہ یہ (بور) بیہ تہ کر لوٹھہ -

بقیہ حاشیہ:- موٹھ تلٹھ سہ ووڑھ گہنس تیار کوڑومت۔ قرآن مجیدس منز چہہ رسول لفظ آمت تہ اتہ چہہ مراد موسیٰ علیہ السلام۔ "آثر" چہہ عربی زبانی منز کلام کر نکیس طریقہس ونان۔ امیک مطلب چہہ یہ نہ سامرین وون زمیہ کر موسیٰ ہنز تعلیم اختیار پتہ میلہ وچہم موسیٰ چہہ غار حاجز میہ ترہوز تہنز تعلیم تر او تہہ۔

يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ وَتَخْشُرُ الْمُجْرِمِينَ
يَوْمَئِذٍ ذُرْقًا ۝۱۴

یومِ وہی پوکس چھو کہ دنِ یہی تہ تہ وہی
تو کہ اسی مجرم تہہ حالتس منز نہ تہنہر اچھ
آسن نیچو لہ۔

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا
عَشْرًا ۝۱۵

تم کرن پانہ وانی لوتہ لوتہ کتھ نہ تو ہی تہ چھو
صرف دہن (صدیقین بیتہ) دہنہس منز حاکم
رودی ہوتی۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ
أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝۱۶

اُسی چھو ہر تہ پانہو زمان تہ یہ تم دنہ سیدہ
تہو منز سار وے کھوتہ جاد تہندس مذہب
پٹھہ کین لہ وول (شخصاہ) دنہ نہ تو ہی چھو صرف
کے کیتھس کاس ٹھہرے ہوتی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي
نَسْفًا ۝۱۷

بہی تہی تہم پانہو ان متعلق پرتھان۔ تہ وں
تہن نہ میون پروردگار تہہنہ متن مولہ پراٹھہ
تہ ٹھکرتھ۔

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝۱۸

تہ تہن تہہنہ تراوتھ اُکس بتقتس سوترس
مادانہ کس صورتس منز۔

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝۱۹

نہ نہ تہ وچھاکہ تہ تہہ منز کانہہ ہجر تہ نہ
کانہہ تھنر۔

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ
الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝۲۰

تہ وہہ کین لاکھ آلو دنہ وائس پتہ پتہ۔ سیکو
ہنر تعلیمہ منز کانہہ ہجر تہ آسہ نہ۔ تہ رحمان
(خدائس) یعنی تہنہر آواز (مقابلہ گرتھن (انسان
ہنر) آواز تہل دہتھ۔ لہذا تہ بوزک نہ پھسرایہ
ورائی کہنہی تہ۔

يَوْمَئِذٍ لَا تَسْمَعُ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ

تہ وہہ دیہ نہ سفارش تس ورائی کانہہ نفع

لہ نیچو اچھو ہنر چھہ پتہ ثابت نہ اتھ آیس منز چھہ یورپی قومن ہند وکر ، سیکو
ہنر اچھ نیچہ چھہ آسان۔ امر پتہ کس آیس منز چھہ دنہ آمت نہ یورپی قومن ہنر
ترقی روز دہن شیکر لین یعنی ساسس وریس تام۔
لہ طہایق تہا۔ امیکت معنی چھہ شریف القوم یعنی قومک نہیہ مثلاً پوپ و غابہ۔
لہ سید قومن پٹھ تہا ہی چھہ تہ پانہو ان ہندک پانہو مضمبوط قوم تہ افراد گرتھن تہا
تہ پتہ کرن لاکھ خدا تعالیٰ ہندس پیغمبرس کن توجہ۔

لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝۱۱

یئو بند حقہ سفارش کرنک اجازت رحمان
(خدا) دیہ تہ یئو بند حقہ کتھ کرنہ سہ پند
کر۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝۱۲

سہ چھہ بتہ زانان یہ کیشہا بہن بروٹھہ بینہ
وول چھہ، تہ تہ تہ زانان یہ کیشہا بہن پتھہ
کن گزریومت چھہ تہ ہم ہیکہ ہن تہ پینہ علمہ
کہ ڈریہ کھو سہ (یعنی خدایہ سہ) احاطہ کر تھہ۔
بیہ ساری بڑی لوکھ ہن (تہ دوہہ ادبہ سان)
زندہ تہ قایم روزن ولس تہ قایم تھون ولس
(خدایس) بروٹھہ کنہ تہ یس ظلم کر سہ روزہ
ناکام۔

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَقَدْ خَابَ
مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝۱۳

بیہ یئو وقتہ کہ ضرورتہ مطابق عملہ کرک مشراسن
بیہ آسہ سہ مومن تہ ، سہ نہ تہ کھوڑ کنہ ہسمہ
کس ظلمس تہ نہ کنہ قسہہ چہ حق تبلیغہ۔
بیہ چھینیتھہ پانٹھو اسہ یہ کتاب عربی زبانی ہندس
قرآنہ کس سورتس منز نازل کر مشر۔ تہ اسہ
چہ اتھ منز پیر پتھہ کنہ تہ ہیکہ خبر وار کر نالان واکر
بیان واش کڈی کڈی ذکر کرک ہتہ یئو زن ہم
تقوی پراون۔ یا کر (یہ قرآن) تہندہ خاطر خدایہ
ہندہ) یادک سامانہ (نو سہ) پاؤ۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝۱۴

تہ اللہ (تعالیٰ) یس بادشاہ چھہ ، سہ چھہ تھدہ
شانہ وول تہ ہمیشہ قایم روزن وول۔ بیہ مہ ہینہ
تہ قرآن (یعنی بیچ ووصی) نازل سیدہ بروٹھہ
تہندہ حقہ و تا ولی کام بیہ روز (تہ ہونہ پانٹھویہ)
ونان ز اسے میانہ پروردگار ! میون علم ہر راو۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ
صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝۱۵

بیہ اوس اسہ آدمس امہ بروٹھہ (اگر کتھہ ہندہ)
تہا کسپ کوومت مگر تہس گووتہ مشیتہ تہ اسہ
پرکھوو واکر پانٹھو ز تہندس ولس اندراوس تہ
سون حکم پھڑ راونس متعلق کانہہ پونختہ ارادہ۔
بیہ (کرو بیتہ یاد نہ) بیلہ اسہ ملائکین وون ز

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وَلَا تَعْجَلْ
بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ
وَحْيُهُ، وَاقْلُ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝۱۶

وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝۱۷

وَأَذَقْنَا لِلْمَلِئِكَةِ إِشْجًا وَإِلَادًا مَقْسَدًا ۝۱۸

إِلَّا إِبْلِيسَ ۝ آبی ۱۱۱

آدمس (پاد کرہ کس شکرانس منتر) کرو (خلیس)
سجدہ تہا بلیس ورا کی کوز سار وے سجدہ
تو کور انکار۔

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَ
لِذَوِّكَ فَلَا يُخْرِجُكَ مِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ
فَتَشْفَى ۱۱۲

اتھ پیٹھ وون اسر (آدمس) اسے آدم! یہ (الیس)
چھ بے شک چون تہ چاہن سستی با جن ہند
و دشمن۔ او کوز پیٹھ توہہ دولونی (فریقن) پہ
جنہ اندر کرک و سنیمہ کس نتیس اندر پکھ تہ
(تہ چون ہر کاشہ سستی بوج) مصیبت منتر۔
بلاشک چھ اتھ (جنس) اندر چانہ با پتھ یہ
(مقدر) نہ تہ روزک نہ بوج پتھ ہوت (تہ نہ چانی
سستی با جی) اسر روزک نہ تہ نہ پتھ نون۔
بہ نہ روزک نہ تریشہ ہوت تہ نہ وک تاہہ۔

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۱۱۳

اتھ پیٹھ تروو شیطان تہندس ولس منتر و سواس
(تہ) وون نس اسے آدم! کیا بہ وہہ یا تریہ
اگر تہہ کلیک پلے لیس ہمیشہ سر سبز چھ بہہ
ترتھ بادشاہی (ہند پتہ وہہ یا) یوہ نہ زینہ
فنا کرتھ۔

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۱۱۴

فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ
أَدْرَاكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لَا يَبُولُ ۱۱۵

لہذا کیو دولوے وہے (یعنی آدمن تہ تو ہندو
سستی با جو) کیو و اسر کلمہ منتر کینہ (یعنی
منتر و چھہس) بیتھ پیٹھ کین دولونی ہنر کوزریہ
ہن پیٹھ ننے یہ۔ تہ تہ دولوے لگی پاس پیٹھ
جنہ چہ آرا پتھ ہند سامانہ (یعنی نیک اعمال)
ولہ تہ آدمن کر پتھس رہہ سہز نافرمانی لہذا
دول سہ سیز و تہ رتھ۔

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِمُهُمَا وَ
لَمِيقَاتِيخَصْفَيْنِ عَلَيْهِمَا وَنَزَقَ الْجَنَّةَ
وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۱۱۶

تہ پتہ زور سہ تو ہند پروردگارن تہ تس پیٹھ
تراون رچھ نظر تہ تس وون صحیح طریق کار۔
(تہ خداین) دو پنکھ توہہ دولوے (توہہ)
نہر و سنیمہ اندر سر سالم۔ توہہ منتر آسن کینہ
کیشرن ہند دشمن لہذا اگر توہہ نش میاد طرفہ
ہایت بہہ تہ لیس میاد ہا پتھ فرمانہ داری

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ۱۱۷

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ قَوْمًا يَارْتَابِكُمْ وَأَنْتِي
هَدَىٰ فَمَنِ اتَّبَعَ هَدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَ
لَا يَشْفَى ۱۱۸

کر سہ گزیدہ نہ نہ نہیں گمراہ تہ نہ پیسہ
ہرکتش منہز -
بہ یس شخص میانہ یاد پاوہ باوجود روگردانی
کام پیسہ تس میلہ تکلیف وا جو زندگی تہ
قیامتہ کہ دو بہ تہلہ ہون سہ اسی اون -

(پتھ پتھ) سہ ونہ - اے میانہ پروردگار! تریہ
کیا نہ ناقص بہ اون - حالکہ بہ تہ اوس رس
پاٹھی و پھتہ ہکان -

(اتھ پتھ) فرابوس (خدا تعالیٰ) تریہ نش تہ
ہے اسی ساڈا آہ آہو - ہم تریہ مشرأ و تہ
اُس تہ تریہ ہوتی لہذا تہ تہ یکہ از (خدا یہ
سوز رحمت باگراونہ کہ وقتہ) مشراونہ -

تہ یس خدائی قولونہ نمبر گزہان چھ - تہ پینس
پروردگار بندن آہن پیٹھ چھہ ایمان انان تس
عزتی چھہ پیٹھ سپان تہ (پہ تہ چھہ صرف دنیاوی
سلوک) امخرنگ عذاب چھہ امر کھوتہ تہ جاوہت
تہ تہ کال تام روزن وول -

یمن لوکن سیدنا (امر کتھ سوتی) ہلیتہ حاصل
نہ یمن بروٹھ گذرے مہ ہوتو قومو منہز کرک اسہ
داریاہ ہلاک ہم (الوگہ) چھہ تہ بندن گرن مشز
نشان پھیران - اتھ منہز چھہ قفلہ والہن لوکن
ہندہ باپتھ بڑو نشانہ -

تہ اگر اکھ کتھ چائس پروردگار بندہ طرفہ بروٹھ
آسہ ہے نہ گذرے مہز تہ مدت تہ آسہ ہے
نہ گندتھ تہ عذاب بندہ ہے (ہن قومن ہندہ
خاطرہ) ہمیشہ روزن (تہ اکیس زمیں مدتس
تام روزہ ہے جاری) -

لہذا ہم (الوگہ) یہ کینترھا ونان چھہ تہ کرتھ پیٹھ
صبر (تہ کیا ز چائس رہہ سہ سنت چھہ ہی ز
رحمہ سوتی گزہ کام ہینز) تہ آفتاب کھنہ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْمَى ﴿۱۶﴾

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيرًا ﴿۱۷﴾

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ﴿۱۸﴾

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ
بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ
أَبْقَى ﴿۱۹﴾

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ
الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴿۲۰﴾

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا
وَآجَلٌ مُّسَمًّى ﴿۲۱﴾

قَاضِيًا عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ وَ سَيِّئٌ بِحَمْدِ
رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلِ
غُرُوبِهَا ۚ وَ مِنْ أَنَائِ الْيَلِ قَسِيخٌ وَ

أَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿۳۶﴾

تو سہ گھنٹہ بروٹھ آس تہ تمہو بندس حمدس
سوتو تسنہر بیج تہ کران تہ راز ہندن مختلف
حصن تہ (بیٹھ پانچ) دہر کین سارے حصن
مفر تہ آس تمہ ہنرے بیج کران بیٹھ زن
تہ (تمہ سندر فہنل حاصل کر تہ) خوش سپدھ۔

تہ اسر پیم دنیاوی زندگی پارونگی سامان لوگو
مشر کینشن دتہ ہوتی چہ تہ مہ آس تھہ تمام
پسنہن اچھن ہنر نظر ز سہراوان۔ (تہ کیا ز
یہ سامان چہ ہن او موکھ دنہ آمت) ر اسی
کرو تہ سوتو تہنہر آزمائش تہ چانس پروردگار
سندر دیت مت زریق چہ سارے کھو تہ رمت
تہ پوشہ ون۔

بیس روز تہ پسنہن گرواہن نماز ہند تاکید کران
تہ تہ روز پانہ تہ تہ (نماز) بیٹھ تاکیم۔ اسی
چھی تہ تریہ بزق مکان بلکہ چھی اسی تریہ بزق
دوان تہ انجام چہ تقویٰ کیکے جاو رت روزان۔

بیس چہ تم ونان مرسہ کیا ز چھنہ اسر ہنش پکینس
پروردگار ہند طرفہ کانہہ نشان انان؟ کیا ہن
ہنش آوناہ تہ بیٹھ نشان بیٹھ زن گوڈ پینہن کتابن
مفر بیان سدر مت چہ؟

بیسہ اسی اسی (رسولس) بروٹھ تم کتہ
غلاب سوتو ہاک کر ہوکھ تہ تم ونہن اے سارہ
پروردگار تریہ کوہ سوزتہ اسر کتہ کانہہ رسول
(اگر تہ کر کھ) تہ اسی کیکہ ہونا چاہن نشان
پتہ پتہ اسر بروٹھ تہ اسی سپر ہو ڈیل تہ سوا۔

تہ ون پر تہ کانہہ شخص چہ پسنہ انجام کس
انتظار کران تہ تہ مہ سپر و جلدے معلوم ز کس
شخص چہ سینر و تہ پٹھ پکن والہو مشر تہ ہدایت
بین والہو مشر (تہ کس چہن)۔


وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِنَّمْهُمْ أَهْوَءَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ
وَأَبْقَى ﴿۳۷﴾

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا
تَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوَى ﴿۳۸﴾

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ
أَوْ لِمَ تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ
الْأُولَىٰ ﴿۳۹﴾

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ
لَقَالُوا إِنَّا لَنَالُوا آيَاتِنَا رَسُولًا
فَتَّحِيمة آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَنْ نُنزِّلَ
نَحْرِي ﴿۴۰﴾

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَتِّبٌ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ
مَن أَصْحَابُ الصِّدَاقِ السَّوِيِّ وَ مَن
أَهْتَدَى ﴿۴۱﴾



سورة انبياء : یہ سورہ چھ کی تہ لیسم اللہ پہنچے جہا اتھ اگھ تھ ترواہ آیہ بیہ چھیس سٹھ رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(یہ چھیس) اللہ (تعالیٰ) سُنَدنا و پہنچا پرلن) بیس
حدہ رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرگی پھیرگی رحم
کرن وول چھ۔

نہایت

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ
هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ②

لوکن حساب ہینک وقت چھ نزدیک و وومت۔
مگر تم چھ (توتہ) غفلتس منز (پیسیتو) تہ روگروانی
چھو کران گرشان۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ
مُخَدَّبٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ
يَلْعَبُوْنَ ③

متن نش چھنہ تہندس ربہ ہند طرفہ زانہہ کا نہہ
تہنٹس پاون وول نوو پیغام یوان مگر تم چھ
سہ یوزان تہ گرشان تہ تھ چھ کٹنہ تہ کران
گرشان۔

لَا هِيَّةَ قُلُوْبُهُمْ وَاَسْرُوْا النَّجْوٰى
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشْرٌ
مِّثْلُكُمْ اَفْتَاتُوْنَ السَّحَرَةَ اَفْئَتُمْ
تُبْصِرُوْنَ ④

تہندی دل چھ ففلتس منز پتھ۔ بیو لوکو ظلم کوہ
تم چھ اندر اندر مشور کران (تہ ونان چھ)
نہ (وچھان چھونا) یہ شغھس چھ تو ہی بیو
اگھ بشر کیا توتہ چھو تو ہی تہنٹن فریبی کتن
منز یوان؟ حالانکہ تو ہی چھو رتی پاکو زمان۔

قُلْ رَبِّيْ يَخْلُقُ الْقَوْلَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ⑤

(یکہ کتھ بوزتھ) وون (محمد رسول اللہ ہن)
میون پروردگار چھ زمان تمہ کتھ بیہ آسائش
منز (ونہ یوان چھید) بیہ تمہ تہ) بیہ زمپنس
منز (ونہ یوان) چھید۔ تہ سہ چھ بوڑ بوزن
وول (تہ) بوڑ زانن وول۔

بَلْ قَالُوْا اضْعَافُ اَخْلَافٍ بَل
اَفْتَرَسَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَايْتِنَا
بِاٰیَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَدْلُوْنَ ⑥

بلکہ تمہ (یعنی حق لغو) چھ یہ تمانی تہ وون
مت نہ یہ اکلام) تہ چھ پریشان خواب۔ بورو
تہ (پریشان خواب تہ نہ) بلکہ تمہ چھ زانہہ ماہتھ
بیہ کتھ پانے گری نمز۔ بلکہ سہ چھ شاعر
مزانہ تمون وول انسان (تیمو ہندس دس منز
رنگہ رنگہ خیال و و تھان روزان چھ) لہذا

تس پڑ نہ اس پر بس ابن کا شہ نشانہ بیتھ کتو
گوڈو کی رسول نشانہ بیتھ سوزنہ آہتی اسی۔
پہو بروٹھ تہ اوس نہ کانہ ایمان او کنت تمو
بیتھو منہز چیم اسہ ہلاک کریا یہ تہ او ابن ناہ ہم ایمان۔

تہ اسی اسی تریہ بروٹھ (تہ ہمیشہ) مہنوی
رسول بناوتھ سوزن تہ اسی اسی بتن کن و حی
کران تہ (اسے مکرو!) اگر تو ہی (یہ کتھ) چھو
نہ زانان تہ اہل کتابن پر تھتو۔

بیہ اوس نہ اسہ بتن رسولن تیتھہ جسم دیت مت
ترہم اسی ہن نہ کہن کھیوان تہ نہ اسی تم
پڑنہ پیٹو عمر لین واد لاکھ۔

تہ اسہ لیس وعدہ بتن سستی کومت اوس سہ ہوو
اسہ پور کتھہ تہ من دیت (دشمنو نشہ) نجات بیہ
تمو وراہی تم تہ من اسہ پڑتھہ تہ ہم حد ہبر نیرن
والی اسی ہم کڑی اسہ ہلاک۔

اسہ چھ توہہ کن اکھ تڑتھ کتاب تازل کر تہ
بیتھ منہز تہ بند بجرک سامانہ چھو۔ توہی چھونا
عقلہ کام ہوان۔

بیہ کا تزاہ تہ بیتھ چھہ ہم ظلم کران اسہ نہ
اسہ تمو تم ملکہ و تھہ تہ تمو پتہ کور اسہ اکھ
بیاکھ قوم پاد۔

او بیلہ تمو (ہلک سپدن والہو لوکو) سون
عذاب تریون تہ نگلی (تہ نشہ بچینہ با پتھ) دو
دو کر تہ۔

(ادوون اسہ) دو دو مہ کرو تہ تم چیزن کن بیو واپس
بیو وکی توہو آرائج زندگی گزاران اکر و تہ پٹن
گرن کن تہ (بیو واپس) بیتھ زن توہہ تہ مندرن
اعمالن متعلق پر تڑتھہ کار کر تہ بیہ۔

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ①

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي
لَهُمْ قَسَصًا لِّأَهْلِ الدُّرَىٰ ۚ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ②

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ ۚ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ③

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ ۚ وَمَنْ
نَشَاءُ ۚ وَآهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ④

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑤

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ كَانَتْ
ظَالِمَةً ۚ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا
آخَرِينَ ⑥

فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسْنَانِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا
يَسْكُضُونَ ⑦

لَا تَرْكُضُوا ۚ وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ
فِيهِ ۚ وَمَسْكَنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ⑧

امیک دیت تو یہ جواب - زہے افسوس! اسی
تہ رُودو (سارے ہے) اُنسہ (طلبہ کران -
تہ تم گئے یہہ کتہ زمان یوتانی ز اسہ بناوکر
تم مکھ بگی متہ فسکو پانگو میںیچ سارے رونق
تہاہ مگاہتر اُس۔

تہ اسہ چھتر آسمان تہ زمین تہ یہ کینترھا بین
دولونی درمیان چھ محض گند نہ ہنا کر تھ پاد
کڑوت - (بلکہ مینہنر پاد ایشتر منز اُس حکمت -
اگر اسہ کاشہ دل بہلائی ہند تماشے تجویز اسہ
ہے کرن تہ سہ کر ہون اُسی پانس نکھ تجویز۔

مگر اُسی چھ حق سبتہ باطلس پیٹھ دار تھ دوان
تہ سہ چھ تھ کلمہ پھاناوان تہ سہ (باطل)
چھ یکدم نزلان تہ توہہ پیٹھ چھ تہنزو کتھو
ہند مومکھ افسوس۔

بیسہ یکم وجود تہ آسمان منز تہ زمین منز
چھ ساری چھ توہ ہندی تہ یکم تس نش چھ تم
چھ تہ بند عبادتہ نشہ کبہر کر تھ تہ پھران
تہ نہ چھ (تمہ سوتی) تم تھکان۔

تم چھ راس تہ تہ وہس تہ سنج کران تہ
تم چھنہ تمہ نشہ پوت ہوان۔
تو لاکو چھا زمینہ مغز مہبؤد بتاوی متو؟ تہ
تم چھا (زور ڈار) پناو کران۔

اگر یکم دولونی (یعنی زمینہ تہ آسمان) مغز اللہ
(تعالیٰ) ہس وراہی بیہ تہ مہبؤد اسہ ہن تہ یکم
دولونے عترتہ ہن تہاہ یہ لہذا اللہ (تعالیٰ)
یس عرشک تہ پروردگار چھ، چھ تمام

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱۵﴾

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى
جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿۱۶﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لِعَيْنٍ ﴿۱۷﴾

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آيَاتٍ
مِنْ لَدُنَّا ۖ إِنَّ كُنَّا فاعِلِينَ ﴿۱۸﴾

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ
فَيَذَمُّهُ فَإِذَا هُوَ ذَاهِقٌ وَ لَكُمْ
السَّوِيلُ وَمَا تَصِفُونَ ﴿۱۹﴾

ذَلِكَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
مَنْ عِنْدَكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِكَ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿۲۰﴾

يَسْتَحُونَ الْآيِلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿۲۱﴾

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ
الْأَرْضِ هُمْ
يُنشِرُونَ ﴿۲۲﴾

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ
لَفَسَدَتَا ۗ فَسُبْحٰنَ
اللَّهِ رَبِّ الْعٰزِمِ
يَصِفُونَ ﴿۲۳﴾

لہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیاز سوز ہون اُکو دنیا ہس کن سہ تھاو ہون اُسی پانے نشہ۔
لہ یعنی اگر کہو تہ جاہ خدا اسہ ہن تہ تم بناو ہن بیون بیون زمین آسمان تہ پرچہ کتہ زمینہ
تہ آسمان اسہ ہن بیون بیون توہن تہ سارے کائینات گزہ ہے تہاہ۔

نقصو نشہ پاک بیہ ہمو (کتھو) نشہ تریم تم
ذنان چھ -

یہ کیشہا سہ کران چھ تہ متعلق چھنہ سہ
کانشہ کن جواب دہنہ آسان - حالانکہ تم (لکھ)
چھ جواب دہنہ آسان -

ہمو چھالتس ورائی معبود بناؤ ہمو؟ تر ونگہ
(ہے!) پنہنہ لیل اولو - یہ (قرآن) تو چھ
تم ہند خاطر تر شرف باعث یک میہ سوت
چھ تر تم ہند خاطر تر چھ شرف موجب
یک میہ برونگہ گدرے ہمو چھ - مگر یکو منہز
چھنہ واریاہ حق پرہز ناوان او کئی چھ امر نشہ
لوب، ہوان -

بیہ ترہ برونگہ ہتہ تر رسول اسہ سوزی ہمو
چھ اسی اسی ہمو منہز پرہتہ اکیس کن یہ
وہی کران تر حقیقت چھنہ یہ تر بہ چھنہ اکیس
خدا۔ لہذا کرو (صرف) میانی عبادت -

بیہ چھ (یک لکھ) دان تر رحمان (خدا) چھ
ہتہ ہونمت (تہنہ کتہ چھنہ درت) سہ
چھ پرہتہ کمزوری نشہ پاک - حقیقت چھنہ یہ تر
(بہن یک نیچو کران) تم چھ خدا یسندر
کیہ ہند بہن خدا ی ہند طرفہ عزت میولت چھ -
تم چھ خدا ی ہنہ کتہ نشہ اکھ لفظ تر جاہ دان
تر تم چھ تہنہ حکمن پتہ عمل کران -

سہ (خدا) چھ تہہ زانان بہ تم ہتہ پیش ہنہ
وول چھ تر (تہہ زانان) یہ تم ہتہ تراوتہ
آہو چھ، تر تم چھنہ کانشہ ہند خاطر
سفاش کران تس ورائی ہتہ سندر خاطر
خدا یں یہ کتہ پسند کر ہتہ آسہ تر تم چھ
تہنہ ہتہ ہتہ منہز روزان -

بیہ یس تر تم منہز یہ و ہ تر بہ چھنہ خدا یں

لَا يُشْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْعَلُونَ ﴿۱۷﴾

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُل
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا إِذْ كُرِمْنَا
مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي أَبَلْ آخُذُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۱۸﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ ﴿۱۹﴾

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ
بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿۲۰﴾

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ
يَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أِزْتَضَىٰ وَهُمْ
مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۲۲﴾

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ إِلٰهِي إِلٰهٌ مِّنْ دُونِهِ

كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٥٦﴾
 وَرَأَى مَعْبُودَ سَمْتِ تَرَاوُونَ أَسَى جَبْهَتَيْهِ مَفْرُوقَ أَسَى
 چھ نظر لمن یقے بدلہ دوں۔

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٧﴾
 کافر و چھنا میر ز آسمان تہ زمین دو نوے
 اسی بندے لہذا اسے مٹراؤ کہ تم تہ اسے چھ
 آبر سستی پر چھ زبند چہر زبند کورمت۔ ادر تم
 چھنا ایمان انان؟

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِجَالًا جِبَالًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٥٨﴾
 بیہ بناؤ اسے زمین تہ مٹرا پائزال یقہ تہ ترشہ
 کہتہ سید تر سو (یعنی زمین) بیہ یکم (یعنی زمین تہ)
 مٹرا روزن واط) ہتھ سہنت یسوس مٹرا ولہ
 بیہ بناؤ اسے زمین تہ مٹرا و تہ تہ یقہ تہ
 یکم لولکہ تہندہ ڈریعہ (تختلک ملکن تام) واتن۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٥٩﴾
 بیہ چھ اسے آسمان اکھ مضبوط پیش (یعنی حفاظتک
 باعث) ہوت۔ تہ توتہ چھ ہم تمہ کہو (یعنی
 آسماں مٹرا ہر سپدن والہو) بتا نو نشہ (یکم
 تہندہ فایدہ خاطر چھ) لوہ روزان۔

ذَٰهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٦٠﴾
 تہ تہ چھ تہو راتھ تہ دوہ تہ آفتاب تہ روزان
 پاؤ کرے ہوتی چھ۔ یکم ساری (آسمانی گزہرہ)
 چھ پست پستس مدرس مٹرا تھکہ روس وراں
 روزان۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَآئِنَ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٦١﴾
 بیہ تریہ برونتھ بخشش تہ اسے کانسہ انساں
 ہمیشہ زبندگانی۔ اگرزن تہ مرکہ تہ کیا تم روزنا
 ہار طبعی وانہ تمام زبندہ؟

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، وَ

لہ اللہ تعالیٰ ہن مٹرا رو پیندہ ہوتی سستی آسمان ادر سپہ زمین تہ پیٹہ رؤحانی زندگی نمودار
 سائیں دان چھ روزان نیلہ کانہہ نوونظاک شمس بنہ لگہ تہ گوٹو چھ امیک۔ ما در
 ارس پیندہ ہند کہ پاٹھ بند آسان پتہ چھ گردش سستی امیک ما در چھکنہ یوان تہ
 نو کر چھ وجودس یوان۔

لہ سببہ یسببہ: آہس مٹرا تھانہ واپسی یا ورن۔

تَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ
رَالَيْتُمَا تَزَجَّعُونَ ﴿۳۵﴾

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا
يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا ۗ أَلْهَذَا
الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۖ وَ هُمْ
يَذْكُرُونَ ۝

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ حَجَلٍ ۗ
سَآوِرِيكُمْ أَيْمَانِي فَلَا تَتَسَوَّجَلُونِ ﴿۳۶﴾

وَيَقُولُونَ مَثَلَى هَذَا الْوَعْدِ
أَن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۷﴾

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
حِينَ لَا يَكْفُوتُ عَنْ دُجُوهِهِمُ
النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۸﴾

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً
فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَشْتَعِطُونَ
رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۳۹﴾

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلِ
مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ
مَا كَانُوا بِهِ يَشْتَهَرُونَ ﴿۴۰﴾

قُلْ مَنْ يَكْلُوكُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ
بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ
رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۴۱﴾

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ
مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ

ناکار تو رہو حالاتو سوتو متہنژ آرمایش - تو
آرمیشو توہی اسی کن چہہ شہ انسہ -

بہ نیلہ ثریہ کافر و پھان چھی تو ثریہ چھی صرف
اکھ کوسی پایہ چیز زمانہ (تو ونان چھو) کیا لویہ ہے
شخص چھائس تہنڈن معبودن ہنڈ کزوریہ
گنڈراوان چھو؟ حالانکہ تم چھو پاہ رحمان
(خلیہ) ہنڈ ذکر ہنڈ انکار کران -

انسان منہ چھو بانہر ہنڈ ماد تھاونہ آمت
لہذا یاد تھاونہ او اوو توہہ پنڈو نشانہ - او
کئی مہ میسبو توہی باخبر کام -

تو تم چھو (یہ بوزھہ) ونان نہ ہر گاہ توہی
لوکھ (یعنی مسلمان) پنڈی یاری چھو تو یہ وعدہ کر
گرنہ لور!

ہر گاہ کفار سہ گز زانہ من نیلہ تم سینہ
بتھو ہنڈ تو سینہ تھو ہنڈ نار کھتہ ہیکن
نہ تو نہ بیہ کانسہ ہنڈ طرفہ من مدکرہ
(تو تم کہن تو سینہ ہم ہستی) -

مگر (سہ عذاب) سینہ من ہنڈ متہہ توہن
کر حاران لہذا تم ہیکن نہ سہ دور کر تھہ - تو
نہ بیہ من (کانسہ) مہ ہلت دہنہ -

بہ ثریہ بروٹھ ہم رسول گزرسے ہتھ چھو من سوتو
تو آپ سہ کر نہ مگر نتیجہ سید یہ نہ کیو من رسول
سوتو سہ کر پایہ تم اول ہنڈ وہے کتھو لور سوس
تم نسین سہ زمانہ اسی -

تر و ن نہ کس ہنڈ توہہ راتھ کیت یادوہہ
رحمان (خلیہ) ہنڈ رٹنہ ہنڈ ہنڈ (مگر حقیقت
چھیہ یہ نہ) تم چھو سینس پرور و کار سہنڈ
ذکر ہنڈ ہتھو کچھو گرنہ حان -

کیا تہنڈس متا سیدس منہ چھا کینہ (پنڈی)
معبود ہم من سہ عذاب ہنڈ بچاون؟ تم

وَمَا يُضْحَبُونَ ﴿۷۰﴾

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ
حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، أَفَلَا
يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ
أَطْرَافِهَا، أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۷۰﴾

(معبود) چھنہ پنہنن ترؤن ہنز تر راجھ کرہتھ
ہیکان تر نہ ہیکہ بہن اسر مقابلہ کانہہ ساتھ دتھ۔
حقیقت چھنہ یہ تر اسر اوس جن تر بہت پران
جمن اجادہن تر سہٹھا مال دولت دتھ تھومت
یوتام تر بہن پیٹھ گڈریو اکھ زلیوٹ زمانہ۔ لہذا
ہم چھنا وچھان تر اُسی چھ تہندس ملکس کن
برہ نہہ برہ نہہ پکان تر اندوکنہ چھن یہ
شزرکران پکان تر کیا (امر تلہ چھایسی پتھ
نیران تر) ہم پنا غلبہ ؟

قُلْ إِنَّمَا أُنزِلَ كُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا
يَسْمَعُ الصَّمُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا
يُنذَرُونَ ﴿۷۱﴾

تر ون بہن تر ہر چھسو توہہ وحیہ ہندہ ذریعہ
بہتیار کران تر (رزق پاتھو چھس زمانہ تر)
ییلہ (روتھانی) زرزق بہتیار کرتہ پن تر ہم
چھنہ آلو بوڑتھ ہیکان۔

وَلَيْن مَسْتَهْمُ تَفْحَةً مِنْ عَذَابٍ
رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا
ظَالِمِينَ ﴿۷۲﴾

تر اگر بہن عذابہ کر تشریح کانہہ تر صٹھ پیسہ
تر ہم ون ضرور اسر پیٹھ افسوس ! اُسی تر
اُسی ظلمہ کران۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ
الْقِيَامَةِ فَلَا تظَلُمُ تَفْسٌ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَتْ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ آتَيْنَاهَا، وَ
كُفَى بِنَارِهَا سِيبِينَ ﴿۷۳﴾

بیہ کرو اُسی تیا مثر دہہ تھو تولن سامانہ لینے
پور توہکو سامانہ پاد تر پیکو ہندہ ہامتر کتہ
زوس پیٹھ اکھ دائرہ تر ظلم کر نہ پیسہ نہ۔
تر اگر اُکس آسہرک وانس سنب تر (کانہہ گل)
آسہ۔ تر اُسی کرو تترہ حاضر تر اُسی چھہ
حساب ہہنن کتہ سہٹھاہ کافی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ
وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۷۴﴾

بیہ اوس اسر موسی ہس تر ہارونس (پُرس تر
اپرس مغز) فرق کران وول نشانہ تر اکھ گاش
عطا کورمت تر متقین ہندہ خاطر یاد دہانی ہنز
تعلیم بخشا و بہتر۔

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَ

ہم (حقیقی) ہم پنہنن رلبس غایبانہ (تر)

لے یعنی تہندری ملک چھہ وار وار مسلمان ہندس تبہنس تل یوان بیتھ کئی بچھ
تہندری اولاد تر اکہ اکہ اسلام قبول کران۔

هُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۵۱﴾

کھوڑان چھ تہ بیم جز کہیں تہ سبز کس گنڈتھ
و تلس تہ کھوڑان روزان چھ
تہ یہ (قرآن) چھ اکھ ترشہ یاد و آئی کرن و اجڑ
کتاب یخہ مفز سارہنے آسمانی کتابن ہندی
رثر و پرتھ آمتی پھلہ۔ اسہ چھ یہ نازل
کڑ مہتر۔ اڈ کیا توہی چھوا یترہ کتابہ ہندی
مکھر؟

وَهَذَا إِذْ كَرَّمْنَا بِكَ أَنْزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ
لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۵۱﴾

بہ اُس اسہ ابر بروٹھ ابراہیمس تسنہ صلیت
تہ قابلیت عطا کڑ مہتر تہ اُسی اُسی تسنہ و پوچ
حالت تہ جان پانگھ زاناں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن
قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿۵۲﴾

نیلہ تہ پینس مابس تہ پینس قومس وون ایم
کیا پوٹھ چھ بین بروٹھ کہہ توہی بہتھ روزان
چھو؟

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ
الْعَمَلَاتِئِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا
عَاكِفُونَ ﴿۵۲﴾

تو وون (تس) اسہ اُسی پینڑ جدا جہاد و چھو مہتر
تہ اُسی بہنہز عبادت کران۔

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ﴿۵۳﴾

تو وون (تسن ز) نیلہ اُسی و توہی تہ تہ تہندہ
جدا جہاد تہ اُکس تہ وائہ گمراہی منہز ہنہ آمتی۔

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۵۳﴾

تو وون (تس) تہ چھکا اسہ نش اکھ میز کہتھ
ہتھ آمت کہتھ تہ چھکا اسہ سستی مذاق کران؟

قَالُوا آجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ
اللَّعِينِينَ ﴿۵۴﴾

(ابراہیم) وونناکھ حقیقت چھینہ یہ نہ تہندہ
پروردگار چھ آسمان ہند تہ پروردگار تہ زمینک
تہ پروردگار۔ (سے چھ) بیگو بیم یاد کڑی مہتر
چھ تہ بہ چھسو اتھ کہتھ پٹھ توہی بروٹھ کہتھ گواہ۔
تہ تو وون (تسن) خدایہ ہنہز درہے! نیلہ
توہی تھر پھرتھ گتھو تہ بہر تہندہ پوہن
خلاف اکھ پوہن تہ تہبر۔

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَمَلٌ
ذِكْرٌ مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۴﴾

وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ
بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿۵۵﴾

لہ مبارک چھ لفظ بركتہ مفز درامت۔ بركتہ تیوتھ تلاوتیہ مفز اورک یوک روڈ جمع سپان
چھ لہذا مبارک چھ سو کتاب یخہ مفز سارہنے آسمانی کتابن ہندی علم جمع چھ۔

پتہ کر کے تو تم (پتہ) چھلے چھلے، تمومنز
بڑس (اُس) وراٹی بیٹھ نہ تم (اگر لہ
بیر) نش نش بین۔

اتھ پیٹھ وون، تموز سانہن معبودن سستی
کھو چھ یہ کام کر مہتر؟ بیٹھ کرن وول،
چھ پتہ پاٹھی نالو منتر۔

(ا) وونکھ (کینٹرو بیو لوکو) اسر چھ لکھ
توہان بیو سندا و ابراہیم چھ، بہنہ کمزوریہ
بیان کران بوڑمت۔

(ا) وونکھ (تومہ کہو سردارو، اگر یہ کتھ
چھین) سہ شخص اُنون سارنہ لکھ بروٹھ
کن شاید تم کرن (تس متعلق) کانہہ قاصلہ۔

تمو وون (پتہ) اسے ابراہیم! کیا یہ کام چھتا
سانہن معبودن سستی تریئے کر مہتر؟

(ابراہیم) وونکھ تر (انجر) کانہہ کرن والی
تہ چھین یہ کام ضرور کر مہتر۔ یہ سارو بے کھو تہ
بوڈ پوتل چھ بروٹھ کہ استاد، اگر تم کتھ کر تھ
ہیکن تہ تمن (یعنے اُس بڑس پوتلس تہ تہ
بین پوتلس تہ) پر تہتھ موچھو۔

اتھ پیٹھ پھیری تم سنہن سردارن لہ کرن تہ
وون کہہ نہ پڑ کتھ چھین یہہ نہ نال چھو توہی۔

تہ تم لکھ آہ پسنہو کلو واری پاوہ (یعنے لاجاب
آہ کرن) تہ تمو وون تر (اسے ابراہیم!)
تہ چھکھ زانان نہ ہم تہ چھین کتھ کران۔

(ابراہیم) وونکھ اڈ توہی چھوا اللہ تعالیٰ
ہس وراٹی تھہ چیز بیج عبادت کران یس نہ توہی
نفع ووان چھو تہ نہ چھو نوصان واتسا والہ

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَثِيرًا لَّهُمْ
لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿۱۱﴾

قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ
لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۲﴾

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ
لَهُ إِزْهِيمٌ ﴿۱۳﴾

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى آعِينِ النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۱۴﴾

قَالُوا إِنَّكَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا
يَا إِزْهِيمُ ﴿۱۵﴾

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ بَعْضٌ كَثِيرُهُمْ هَذَا
فَسَقَلُوهُم إِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ ﴿۱۶﴾

فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ
أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ﴿۱۷﴾

ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ ۖ لَقَدْ
عَلِمْتَ مَا هُوَ إِلَّا يَنْظُرُونَ ﴿۱۸﴾

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۱۹﴾

لہ آنفس امیک واحد چھ نفس بیبیک لفظی معنے چھ رُوح (زُؤ)۔ توہو
سردار تہ نہ مہو تہ چھ توہو رُوح آسان۔

أَقْبَلَكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۸﴾

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ فَعَالِينَ ﴿۳۹﴾

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَ سَلْمًا عَلَى
إِبْرَاهِيمَ ﴿۴۰﴾

وَ ارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ
الْأَخْسَرِينَ ﴿۴۱﴾

وَ نَجَّيْنَاهُ وَ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي
بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿۴۲﴾

وَ هَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ
تَأْفِكَ، وَ كَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿۴۳﴾

وَ جَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ
إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ آتَاءَ الزَّكَاةِ وَ
كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿۴۴﴾

وَ لُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ نَجَّيْنَاهُ
مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ
الْخَبِيثَاتِ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ
فَسَقِئِينَ ﴿۴۵﴾

وَ آذَخْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿۴۶﴾

وَ نُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا

(اُسی جی) تو میرے پیچھے افسوس کران، میرے تیس
پیچھے تیرے پیچھے سنو تو ہی اللہ (تعالیٰ) ہنس ورازی
عبادت کران چھو۔ کیا تو ہی جھوٹا عقلمند کام ہوگا؟
(اتھ پیچھے آتے بہن شرک تہ) و نئی لگے۔ یہ شخص
زالیوں تہ پسنین معبودن کرو اتھ روٹ لگے
توہہ کیہہ کرنک ارادہ کورمت چھو۔

اد وون اسیر۔ اے نار! تیرے گڑھے ابراہیم ہند
خاطر ہندرتہ، تہ میرے بن اُم ہند خاطر
سلاہتی ہند باعث تہ۔

میرے ہتھیار تہ سوتی بدسلوک کرن مگر اسیر کرے
تم ناکام۔

تہ اسیر ویت تہ تہ لوطس تہ تہ تہ زمینہ
کرن نجات یتھ مفر اسیر سارے جہان ہند
خاطر برکتہ تھا و مفر اسیر۔

میرے بخش اسیر تہ اسحاق تہ تہ زریکہ (دبلیس)
یعقوب تہ۔ تہ اسیر بنا و تم ساری نیک۔

میرے بنا و اسیر تم (لوگ ہند) امام۔ تم اسیر
سارے حکم بہن ہدایت دوان تہ اسیر کرن کن
نیک کام کرنج تہ نماز قائم کرنج تہ زکوٰۃ
دینج وومی تہ تم ساری اسیر ساری عبادت کرن
والی بند۔

میرے (بخش اسیر تہ) لوط (تہ) نہیں اسیر حکم تہ
عقل کور تہ علم تہ۔ تہ تہ ویت اسیر تمہ بستی
بشر نجات یوہ نہایت مگر کام کران اس۔ تم
(یعنی لوط ہند شہر کے لوگ) اسی لگے سپہاہ ناکار
قوم یعنی نافرمان۔

تہ اسیر کور سہ (یعنی لوط) پسند رحمتس مفر
فاجل۔ سہ اوس سانہو نیک بند و مفر۔

میرے (کرن یاد) نوح (یعنی تم) پیچھے (یعنی ابراہیم

بہند واقعہ) بروٹھ (اسیر) آلو و تراو تہ اسیر بوز
تو سندر دغا۔ لہذا اسیر دیت مس تہ تہ
تہندین لوگن تہ اکہ بڑے قدری ہشتہ نجات۔
بہ کور اسیر تنس تہ قوم کس متھلیس منزند
نیم سانی نشانہ ایرادی ہوتی اسی۔ سہ اوس سپٹھا
خراب قوم۔ لہذا اسیر کڑی رقم ساری غرق۔

بہہ اکرن یاد، داوود تہ تہ سلیمان تہ بیلیلہ
تہ دونوں اکہ کھیبتہ ہندس تنازس منزند نا صلہ
کران اسی تہ وقتہ بیلیلہ کہ تو کور کور متھلہ سہ
کھیبتہ اسی (یعنی سہ تباہ کر تہ کھیبتہ اسی) تہ
اسی اسی تہند تہ صلو گواہ۔

اسیر تور اہل معاملہ سلیمانس فکر تہ سارنہ اوس
اسیر حکم تہ علم عطا کورمت تہ اسیر اسی داوود اوس
سہو پہاڑی لوکھ تہ تہ جانا وار تہ کامیر لاکھ
تہ ساری اسی خدایہ ہنر تسبیح کران تہ اسی اسی
یہ سورے کیبتہ کرنس پیٹھ قدرت تھوان۔

بہہ اوس سہ اسیر تہند با پیٹھ اکھ لباس تہ بناون
ہیچنومت بیٹھ زہ تہند زو جنٹس منزند پچراو۔
لہذا کیا توہی بڑا شکر گزار؟

بہہ اوس اسیر واو تہ سلیمانہ ہند با پیٹھ قبول کر تہ
تھوومت تہ یس تہند حکم مطابق تہتہ زمینس تہ
کن چلن اوس بیٹھ اندر اسیر برکت تھوومت اسی
تہ اسی چہ سورے کیبتہ زانان۔

لَهُ فَتَجَمَّعَتْهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَذِبِ
الْعَظِيمِ ۝

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا
بِآيَاتِنَا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
فَاعْرِفْنَاهُمْ آجْمَعِينَ ۝

وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَخْكُمُونَ فِي
الْحَرْبِ إِذْ نَفَّثْنَا فِيهِمُ الْعُقُومَ
وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝

فَفَقَّهْنَاهَا سُلَيْمَانَ، وَ كَلَّا أَتَيْنَا
حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ
الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنَّا
فَاعِلِينَ ۝

وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ
لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، فَهَلْ أَنْتُمْ
شَاكِرُونَ ۝

وَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي
بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا،
وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ۝

لہ فتنم؛ لفظی معنی پچہ تہرہ مگر تہہ اسی منزند پچہ تہرن مراد ہمایہ ملکلو لوکھ یکم سلیمان
علیہ السلام ہندس منکس منزند داوود پیدتہ لوٹ مار کران اسی۔

تہ یعنی زرہ بکتیس جنٹس منزند انسانس حفاظت کران چہ۔

تہ یعنی حضرت سلیمان اوس بادبانی جہاز بناونک تہ چلاونک علم ایچھاونہ امت۔

تہ یعنی سرزمین فلسطین کن اسی حضرت سلیمانہ بحری بادبانی جہاز مال ہوتہ یوان۔

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُ صُؤْنَ لَهُ وَ
يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ
حَافِظِينَ ﴿۷۰﴾

بیمہ کسی کینیہ سرکش لڑکھ تھو پیم تسند خاطر
سمندر منفر دنگہ وولن اسی تہ تمہہ وراہی
تہ اسی بیمہ کامہ کران تہ اسی اسی تمہندہ با پتھ
نگرانی ہنر کام کران۔

وَإِيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيْنَ مَسِينِي
الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿۷۱﴾

بیمہ (کران تہ) الیوب (تہ یاد) نیلہ تمہی پینس پرورنگار
آلو کر تھ وولن زرمیانی حالت جھینہ یہ زہر تھیں
تکلیپین روٹمت تہ اے خدایہ! تہرے چھکھ

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ
ضُرِّهِ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ
رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَى لِلْعَبِيدِينَ ﴿۷۲﴾

سارہ ورسے رسم کران والیو کھوتہ جاہد رحم کران وول۔
لہذا اسہ بوز تمہی سوشن زاری تہ یس تکلیف تس ووت
اوس سہ کورس دور بیمہ ویت تس تسند اہل (عیال)
تہ بیمہ وپس تہو وراہی پینس طرفہ رسم کران بیمہ
تہ اسہ بنوویہ واقعہ عبادت گزاران ہندہ
خاطر اھ لھ نھتک باعث۔

وَإِسْمَاعِيلَ إِذْ أَدْرَسَ وَذَا الْكَافِرِ
كُلِّ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿۷۳﴾

بیمہ اسماعیل تہ (کران یاد) تہ ادرس تہ تہ ذوالکفل
تہ۔ پیم ساری اسی صہر کران وائل۔

وَإِذْ خَلَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ
الضَّالِّينَ ﴿۷۴﴾

تہ پیم ساری اسی اسہ پینس رحمتس منفر دامخس
کڑی متو۔ تہ تم ساری اسی نیکوکار۔

وَذَا النُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَافِرًا فَلَقَّتْ
أَنْ لَّنْ ثَمْرًا عَلَيْهِ فَنَادَى فِي
الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

بیمہ ذوالنون (یعنی یونس تہ کران یاد) نیلہ سہ
تھکہ منفر گونہ تہ ولس اندر اوسس پوریقین زراسر
کرون تہ سہ تنگ۔ او معین منفر کوز تمہی

۱۴ یعنی خلیج فارس ساحل پیچہ روزن وائل سرکش لڑکھ بیہند کارو بارہے
سمندر منفر دنگہ دتھ موختہ کھان اوس پیم اسی بحرین تہ مستط کس علاقس منفر
حضرت سلیمان ہند خاطر کام کران۔

۷۰ اے آن کن نقدر علیہ ؛ عام مفسرین چہ ترجمہ کران زہ حضرت یونس اوس خیال
کران زراسر بہرین تہ سہ رتھ۔ یہ معنی چھتہ اگس نبیس شایان شان۔
لغتس منفر چھہ قدر علیہ تنگ کر تہ کس معنی ہس منفر تہ استعمال کرنہ یوان
یعنی حضرت یونس اوس خیال کران زراسر واقعہ سوتی کر تہ میہ اللہ تعالیٰ لامنگ بلکہ
دیم جاہد عزت۔

سُبْحَانَكَ يَا رَبِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾

اسے آلو (تہ و نون) نہ تزیہ سوا چھتہ کا شبہ
معبود، تہ چھکھ پاک تہ ہر اوسس بے شک
ظلم کرن والو اندر۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وَ
كَذَلِكَ نُفَصِّحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱﴾

او کو بوز اسے تسد دُعا تہ غمہ نشت دیت تس
نجات تہ اسی چھہ یقہ پا کھر مؤمنن نجات دوان۔

وَكَهْرَبًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي
فَرْدًا إِنْ أَوَّاتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۱۲﴾

بہ زکریا تہ (کرن یاد) ینیلہ تمو پینش پروردگار
آلو کریاو تہ و نین نہ اے میانہ پروردگار!
میہ مہ تراو کن زون تہ تہ چھکھ و ارث سپن
والو منہ سار و ہے کھو تہ بہتر۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ
وَاصْلَحْنَا لَهُ وَجَّهُ، إِنَّهُمْ كَانُوا
يُسرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَذْعُرُونَ
رَغَبًا وَرَهَبًا، وَكَانُوا الْتَاخِشِينَ ﴿۱۳﴾

تہ اسے بوز تسد دُعا تہ تس کور کیکی عطا تہ تسنہ
آشہ کُر تسد خاطر صحت یاب۔ یکم ساری لوکھ
اسی نیکین مغز و زہ کران تہ اسے اسی مجبتہ
تہ بہر سان آلو دوان تہ سانہ خاطر اسی
لینری سان زندگی گزاران۔

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا
فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَ
ابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۴﴾

بہ سمہ زنان تہ (کرن یاد) بیگو پنہو شہرم رچہ
لہذا اسے کور تس پٹھ پن کیبہ کلام نازل تہ
سو تہ تسد نیچو تہ بنو دنیا ہر با پتہ کھ نشان۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿۱۵﴾

یہ تہنہز اُمت بہہیز ایک امت تہ ہر چھس تہنہ
پروردگار او کو کفر تو ہی میانی عبادت۔

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، كُلٌّ
إِلَىٰ تَارِحَعُونَ ﴿۱۶﴾

بہ تمو (یعنی نبیین ہندو مخالفو) چھ پنہ
دین مکہ مکہ (کر تہ پستہ حالہ مطابق کھ مکہ
اختیار) کورمت (حالا کھ) تم ساری چھ اسے
کن چھیرتہ انہہ میںہ والی۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا
لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۱۷﴾

او یس کا شبہ مناسب حال عمل کرتہ ہستی اسے
مؤمن تہ تہ تمو سنہز کوشش پیہ نہ رو کر نہ
تہ اسی قصود تمو ہندو نیک اعمال یکھتہ۔

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ
لَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۸﴾

بہہ ہر تہ کھ ہستی یوہہ اسے ہلاک کر ہنہ
چھینہ قمر خاطر چھہ یہ قاصد کرتہ اُمت نہ
تمو روزن والی میں نہ چھیرتہ ہتہ دنیا ہس اندر

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَ
هُمُومِنَ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۱۰﴾

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ
شَاحِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَوْمَئِذٍ كَذَّبْنَا فِي عَفْوَةٍ مِنَ هَذَا
بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱۱﴾

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ أَأَنْتُمْ لَهَا
وَارِدُونَ ﴿۱۲﴾

لَوْ كَانَ هُوَ آلَاءَ إِلَهَةٍ مَا دَرَدُوا هَاهُ
وَكَأَلٍ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿۱۳﴾

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا
يَسْمَعُونَ ﴿۱۴﴾

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا
الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿۱۵﴾

لَا يَسْمَعُونَ حَيْثُ سَمَّوْا وَهُمْ فِي مَا
اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿۱۶﴾

لَا يَخْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ
تَتَلَقَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ
الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۷﴾

یونان نہ ییلید یا جوج تہ ماجوجہ بند خاطر دروازہ
بیلہ تراونہ پیہ تہ تم تیلین دنیا ہس منز پر چتہ
بٹھ تہ پر چتہ سمندر چہ لہر پیٹھ تر ہالہ ماران۔
بیہ پیہ (خدا پر سجدہ) پوز وعہ نزدیک تہ
تمہ وقتہ روزن کافر (جانانی دوست) لوجہ
کڑو کڑو کوچھان تہ تم وزن۔ اسر پیٹھ انوس!
اسو روڈی بیتہ دوہس متعلق سبت غفلتس منز
پیٹھ، ایکہ اسو لوکھ تہ اسو ظالم۔

(تمہ وقتہ پیہ وقتہ نر) توہی تہ تہ یمن چرین
ہنز توہی اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی عبادت
کران اسو سر سالم بن جہنمک زالن توہی
ساری سپرو تہ منز داہل۔

الکریم (بنوئی خدا یمن توہی خدا قرار دو ان چہو)
پڑی پاٹھ خدا اسپہن تہ یم سپہن ہن
جہتس منز تہ یم ساری روزن بیژ کال تام
تہ منز پیٹھ۔

تمہ دن تہ منز کرکچہ تہ تم بوزن ہن تہ منز
(نکر تارن والو اندر کانبہ ہنز) کتھ۔

بے شک تم لوکھ یمن نسبت سانہ طرفہ نیک
سلوگک وعہ سپدنت چتہ تم یمن تمہ جہنم
بنتہ دور تھاوہن۔

تم بوزن ہن تمیک تمس نام تہ تم روزن تہ
(حالتس) منز ہمیشہ بیتہ تمہندک دل بیڑھان چہ۔

بحر پریشانی ہند وقت تہ کر ہن یمن غمگین۔
تہ یمن سمکھن ملایک تہ وٹکھ یہ چتہ تمہند
سہ وہہ نیمیک توہہ سنو وعہ کرہ امت اول۔

یہ ماجوج یعنی مغربی اقوام ییلید دوز میس منز پر چتہ مادانس منز غالب
سپن تمہ پیٹھ سپر مورہ قومنز بیداری پاہ۔ موجودہ تاریخ عالم چہ امر
پیشگوئی ہنز صد قچ گواہ۔

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِنُكْتِبَ كَمَا بَدَأْنَا أَدَلَّ خَلْقٍ نُعِيدُهُ
وَعَدًّا عَلَيْنَا، إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۵۱﴾

یومِ وہم اسی آسمان تھ پٹھو وُٹھتہ ہون۔
یتھ پٹھو ہر یہ بیکھ ہتس وُٹھتہ یوان
چھیلے۔ یتھ پٹھو اسر تہنہز پیدایش گوہ ڈینجہ
لہ شروع کڑ ہتس تھ پٹھو کرو بیہ
دوبار، یہ چھ اسر پانس پٹھ لازم کڑ تھ
تھومت۔ اسی چھ یتھ کرمک اراد تھاولن۔
بیہ چھ اسر زلوس منز کینہ لہچتر کرتہ پتہ
یہ لکھتہ تھومت نہ (مقدس) سرزمینکو وارث
آسن میاڈ نیک بندہ۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرُّبُورِ مِنْ بَعْدِ
الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الضَّالِّحُونَ ﴿۵۲﴾

یتھ (مفہوتس) منز چھ اکھ پیغام تہ تہ قومہ
با یتھ یس عبادت گزار چھ۔
بیہ چھکھ تہ اسر دُئیہہ ہا یتھ رحمت بنا و تھ
سوزمت۔

إِنَّ فِي هَذَا بَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿۵۳﴾
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۵۴﴾

تہ ون نہ میں پٹھ تہ چھ صرف یہ وحی سپان۔
نہ تہند چھ اکے خدا۔ اوکیا توہی ماڈی وا یہ
کتھ (کہن نہ)؟

قُلْ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِإِلَٰهِ النَّاسُ الْهَكْمُ إِلَهُ
وَأَجِدُهُ قَهْلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۵۵﴾

پتہ اگر تم تھ بھرن تہ تہ ون ہمن نہ میں
چھیلے تو ہر منز مؤمنس تہ کافر س (برابر خبر دتر
ہتر تہ ہر چھیس نہ زمانان نہ سہ کتھ تہنیک
تہہ سدی وعدہ کرتہ آمت اوس نزدیک چھا
کہن دُور چھیلے؟

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ
وَإِن أَدْرِيٰ أَقْرَبِكُمْ أَمْ بِبَعِيدٍ مَّا
تُوعَدُونَ ﴿۵۶﴾

خدا چھ تہ کتھ تہ زمانان تہ یہ توہی کھتہ تھاولن
چھو تہ تہ چھ زمانان۔

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ
مَا تَكْتُمُونَ ﴿۵۷﴾

تہ ہر چھیس نہ زمانان نہ سہ کتھ یوہ سہ پٹھ

وَإِن أَدْرِيٰ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَ


لہ السجّل ا طوار۔ نہ چھ کاغذ فر دبو سہ گول کڑتہ وٹھنہ یوان چھیلے پراٹس
زمانس منز اسہ کتابہ یتھ پٹھو بیکھ یوان۔
لہ الأرض: ارض مقدس یعنی پاک سرزمین (فلسطینک علاقہ)
لہ یعنی مسلمان اگر ارض مقدس یعنی فلسطین بیٹھان چھ تہ ہمن چھ صالح تہ نیک ہن لازم۔

مَتَّاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱﴾

کتبہ بیان سپر مپز چیمہ (سوما آسہ تہند
خاطر اگہ آزمائش تہ (تمہ سوتی) چہا اگس
مدتس تمام تہہ بہ فایدہ و اتناون نظر تمل (کمنہ)
ہمیشہ ہمیشہ خاطر)۔

قُلْ رَبِّ اِخْكُم بِالْحَقِّ، وَ رَبَّنَا
الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا
تَصِفُوْنَ ﴿۱۱﴾

(محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) فرمود (یہ
وحی پیش پیٹھ) اے میانہ پروردگار! تہ کر
حقہ مطابق فاصلہ۔ تہ سلون پروردگار چہہ رحمان
تہ (اے کافرو!) ایم کتہہ توہم کران چہو
بتن خلاف چہہ تسویش مدد منگنہ یوان۔



سورة حج : یہ سورہ چہ مدنی تہ اسم اللہ چہہ اگہ کتہہ آسہ یہ چہس داہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

(بہر چہس) اللہ (تعالیٰ) مندناو ہتہ (پران)
یس حدہ یوس کرم کرن وول (تہ) چہہ کر پچہہ
رحم کرن وول چہہ۔
اے لوگو! توہم پروردگار مند تقویٰ
تہ کیاہ (فاصلہ کرن وول) بنیل لہ چہہ سپہاہ
بوڈ چہہ۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ ۚ اِنَّ
زَلٰلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیْمٌ ﴿۱﴾

یہیہ دوہہ توہم سہ بنیل وچہون۔ پر چہہ کانسہ
دوہہ ماجہ مشہ سہ ینیس سوہ دوہہ دوان آسہ
تہ پر چہہ محو بہ کھور زنان کر مین حمل اولنگ۔
تہ تہر وچہو ہیکہ لوکھ زن آسن تم نشس
مغز۔ حالانکہ تم آسن نہ نشس مشہ۔ وہ ڈوڈو
اللہ (تعالیٰ) مند عذاب چہہ جاہ سہنت۔

يَوْمَ تَرَوْهَا تَذٰهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ
عَمَّا اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرٰى النَّاسَ سُكْرٰى
وَ مَا هُمْ بِسُكْرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ
شَدِیْدٌ ﴿۱﴾

یہ چہہ لاکو مشہ کیہہ تہتہو تہ آسان۔ ہم اللہ
(تعالیٰ) ہند حقہ زانہہ ورائی بحث چہہ کران

وَ مِنَ النَّاسِ مَنۢ يُجَادِلُ فِی اللّٰهِ
بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ كُلَّ شَیْطٰنٍ

لہ یعنی سہ آخری مصیبت یہیہ سوتی وڈی ہیکہ ساری نیاے اندن۔

مَرِيضٍ ①

(تر) پر تہہ حقہ نشہ دور تہ بھٹی پھری ہنر
پاروی چھ کران۔

(بوزوے تہ) بین (بھٹی پھری تہ حقہ نشہ
دور لکن) محبت چھ حاصلہ کر تہ امت نہ یس
(شخص) تہ پتھو لوکو منتر کانسہ سستی یارانہ
لگہ سہ (بھٹی پھری تہ حقہ نشہ) تہ حینہ گوشت
شخص کر تہ تر گراہ۔ تہ جہنہ کس غذا یس
کن تہ نہیں۔

اے لوکو! اگر تو ہی دوبارہ منہ میں متعلق شکس
منز چھو تہ (یاد تھو) اسہ اسی و تو ہی گوہ
میٹر نشہ یاد کر کر تہ اڈ لطفہ نشہ پتہ ترقی
دھہ اگر تڑھہ حائر نشہ یوسہ لڑتھہ تڑھہ
تھامیت تھاولن اس تہ پتہ تڑھہ حائر نشہ
نر سو اس اکیس ماز چھلہ ہش۔ کینٹرس کاس
تام تہ روز سو اکر پور پور ماز چھلہ ہنر شکل
تہ کینٹرس کاس تام اکر اڑنیچہ ماز چھلہ ہنر
شکل میتھہ نر اسی توہہ پیٹھہ (تحقیقت حال) تہ
راوو تہ یس چہرہ اسی سہ تھان چھن (سہ) چھن
شکر باننز منز اکیس مدلس تام ٹھہر اوتھہ
تھوان پتہ چھو اسی توہہ اکیس شکر سترہ شکلہ
منز نمبر کڈان۔ (پتہ چھو بڑاوان گڑھان)
ییمیک نتیجہ چھہ یہ آسان نہ توہی چھو پنہہ مفلوی
(ہنر و انسہ) تام و اتان تہ توہہ منز چھہ کیہہ
تھو آسان ییم پنہہ طبعی و انسہ و اتھہ مران چھہ
تہ کیہہ چھہ توہہ منز تھو آسان ییم پنہہ انتہائی
بجہر چہ و انسہ تام (تر) و اتان چھہ میتھہ نہ واریاہ
کیہہ علم حاصل کر تہ پتہ چھہ علمہ نشہ ہنرے
تڑھہ سیدان۔ بیہ چھہن تڑہین و چھان نہ
سو چھہ (کرتہ کینہ) پنہن سورے طاقت راوراوتھہ
تڑھہان۔ پتہ ییلہ اسی تھہ پیٹھہ آب

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّى كَفَانَهُ
يُضِلَّهُ وَ يُهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ
السَّعِيرِ ①

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ
الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ
ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن
مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ
لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ
مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا
أَشَدَّ كُفْرًا وَ مِّنْكُمْ مَّن يُتَوَقَّىٰ وَ
مِّنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَذًى لِّعَمْرِ
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَ
تَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَدَتْ وَ رَبَّتْ وَ
أَنْبَتَتْ مِن كُلِّ ذَوْبٍ بِهَيْجٍ ①

نازل کران چھ تہ سو چھینے چیلن تہ نون تہ
پھولن ہوان تہ پرچھ کتہ تسمک شوہ دار
فصل چھینے وہ پراوڑی ہوان۔

یہ چھ او کتہ سپان نر (کتی راو تہ بیہ نر اللہ
تعالے) ہے چھ قایم روزن واجزی تہ قایم تھون
واجزی ہستی بیہ چھ کتہ مؤدی متبن زند کران
تہ کتہ چھ پرچھ چیزس پیٹھ قوموت تھون وول۔

بیہ پرچھ چیز خاطر بیہ وقت گندھ چھ سہ روز
ضرور بیٹھ۔ اتمہ منز چھینے کانہہ شک تہ اللہ
تعالے (کتہ یقینا) دوبار تبن بیم قبرن منز چھ۔
بیہ چھ لاکو منز کینہہ تھو تہ آسان بیم اللہ
تعالے) ہس متعلق کلمہ وراوی تہ صدیقہ وراوی
تہ کتہ کاشری کتابہ وراوی بحث کران چھ
(اتمہ حالتس منز)۔

نر پیڑو روح چھ بدلوتھ آسان (یعنی کبرک
اظهار چھ کران) بیٹھ نر اللہ تعالیٰ) سنز
وتہ نشہ لوکن گمراہ کرن۔ یقینن لوکن کتر اہر
دنیاہس منز تہ رسوائی تہ قیامتہ کہ وہ بہ تہ
واتناوہ اوسو اتمن ورون عذاب۔

تہندبو اتھو یہ کینہہا (علمہ رنگی) بروٹھ کوروت
اوس۔ تہ کس نتیجس منز سپد یہ کتہ تھو بیہ
اتمہ سوتی سپد معلوم) نر اللہ تعالیٰ) چھینے پنپن
بندن پیٹھ ہرگز کتہ تسمک ظلم کران۔

بیہ چھ لاکو مغز (کینہہ) تھو تہ آسان بیم اللہ
تعالے) سنز عبادت صرف بینہ گار پاطھو کران
چھ۔ او اگر اتن کانہہ قایدہ واتہ تہ تم چھ تھ
(عبادتس) پیٹھ خوش سپان۔ تہ اگر اتن کانہہ
اذا واتہ تہ پس نہ بھتہ سیورسے چھ پھیر تھ
گرشعان۔ تم چھ دنیاہس منز تہ کالمس منز
پوان تہ آخرتس منز تہ، تہ یو ہے چھ نزلانہ

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُخَيِّ
الْمَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١﴾

وَ اَنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ وَّلَا رَيْبَ فِيْهَا ؕ وَاَنَّ
اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿٢﴾

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدٰى وَّلَا كِتٰبٍ
مُّنِيْرٍ ﴿٣﴾

ثٰلِيًا عَظُمَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيْلِ
اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِي الدُّنْيَا خٰزِيًا وَّ
نٰزِيَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذٰبُ
الْحٰرِيْقِ ﴿٤﴾

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَكَ وَاَنَّ اللّٰهَ
كَيْسٌ يُّظَلِّمُ بِلَعْبِيْدٍ ﴿٥﴾

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَّغْبُو اللّٰهَ عَلٰى
حٰزِفٍ ؕ اِنَّ اَصٰبَهُ خٰزِيًا طَمَآتًا
بِهِ ؕ وَاِنَّ اَصٰبَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ
عَلٰى وُجُوْهِمْ تَخٰسِرَ الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ ؕ
ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرٰنُ الْمُبِيْنُ ﴿٦﴾

کھاڑے۔
تم چھ اللہ (تعالے)، بس ورازی تھے چہرس ناد
دوان لیس نہ تمن نو قصان واتناوان چھ تہ نہ
چھکھ نفع دوان تہ میہے چھینہ حد وزچ گراہی۔
تم چھ تس شخصس ناد دوان میو مند نو قصان
تمو مند نفع نشہ جاو قریب چھ۔ بیہ آفر تہ چھ
سپھاہ ناکار تہ بیو ستر باجو تہ چھ سپھاہ بچھ۔
بے شک اللہ (تعالے) کر مؤمن یکم مناسب حل
عمل تہ کران چھ۔ تحقیق باعن مشر دا نزل یکن
(ہندن شہلین) تل منہر پکان چھینہ۔ اللہ (تعالے)
بے بیٹھ (نہ) چھ کران۔

یس شخصس بے یقین تھوان چھ نہ اللہ (تعالے)
کر تہ تس (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم)
زانہ مدو۔ نہ دنیا بس مغز نہ آخرتس مغز،
تہ تس پز نہ کھابن اکہ رز آسانس تام تہ
تھ پھ کھین، پتہ تڑن سولہ۔ پتہ وھین نہ
تمو مند تدبیر چھا سو کتہ ڈالان یو سہ تس تھ
کھالان چھینہ (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) تھ
آسانی امداد تہ کامیا بیہ)۔

بیہ اسر چھ بے (قرآن) تھے پاٹھو ٹنی ٹنی نشاؤ
بناو تھ نازل کورمت۔ تہ اللہ (تعالے) بیس
متعلق تہ اراد کران چھ تس چھ یقیناً صحیح وکھ لوان۔
بے شک یو لوکو (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
پہلے (ایمان اذن تہ تم لوکھ یکم بیہودی بنے بے
تہ صابی تہ نصرانی تہ یوسی تہ تم لوکھ بیو شرک
کور۔ اللہ (تعالے) کر قیامتس دو ہ بے شک
تمن درمیان فاصلہ۔ اللہ (تعالے) چھ یقیناً
پر چھ کو چہرک بکران۔

يَذْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَا مَا
لَا يَنْفَعُهُمْ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿۱۷﴾

يَذْعُوْنَ اَلْمَنْ صَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ تَفَعُّلِهِ ۗ
لَيْسَ الْمَوْلٰى وَا لَيْسَ الْعَشِيْرُ ﴿۱۸﴾

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَا
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا
يُرِيْدُ ﴿۱۹﴾

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ
فِي الدُّنْيَا وَا الْاٰخِرَةِ قَلِيْمًا
يَسْبَبْ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ
هَلْ يُدْهَبْنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيْبُ ﴿۲۰﴾

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۗ وَا
اَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿۲۱﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَا الَّذِيْنَ هَادُوْا
وَا الصّٰبِغِيْنَ وَا النَّصْرٰى وَا الْمَجْنُوْسِ
وَا الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِفِصْلِ
بَيْتِهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَرۡءَا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِِيْدٌ ﴿۲۲﴾

لہ تہ زمیہ پیٹھ بین تہ سرن، تسنہ خواہش کر تھ نہ زانہ پور۔

مفز (شمالے گاؤ، وڈنٹ بیٹیر) او کوئی پیر
 نہ توہی کھینبو (پانہ تہ) ہتھند ماہ تہ تکلیف
 اندر پھیلےس تہ نہ پھیلےس تہ کھیا ولون۔
 پتہ کرن پین مل دور تہ پنڈو نڈانہ کرن پور تہ
 پراہ مرگ ایسے خانہ کعبہ کرن طواف۔

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لِيُؤْفُوا
 نُذُورَهُمْ وَ لِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
 الْعَتِيقِ ﴿۳۶﴾

کہتے چھتے یہ نہ ایس شخص اللہ (تعالے) بہترن
 مقرر کرے مشرک عزتہ واجہن جان ہند تعلیم
 بجاناں چھ تہ یہ چھ تہندس پروردگارس نش
 تہند خاطر جان آسان، تہ اے موبنو! تہند
 باپتہ چھ (ساری) چارواہی حلال کرنہ آہو، تمو
 وراہی ہتھند حرام آسن قرآنس مفز بیان سپدست
 چھ، بہر حال پیر نہ توہی پچو پوتو پوزا
 ہند بشر کہ ہتھ بیہ (بیٹے پاتھو) پنڈی عبادت
 تہ فرما تہ وراہی صرف اللہ (تعالے) سہند
 خاطر محفوس کران۔ پچو اپز ونہ ہتھ۔ (تہ)
 توہی مہ بنا وون کاہنہ خدایہ سند شریک تہ ایس
 کانسہ اللہ (تعالے) سند شریک بناوان چھ سہ زن
 چھ آسانہ پیٹھ وری پچوان تہ جاناوار چھ ہس
 نصیہ دتھ نوان تہ واو چھ تس گنہ دور جاہ
 دوتھ وون۔

ذٰلِكَ هُوَ الَّذِي يُعَظِّمُ حُرْمَةَ اللّٰهِ فَهُوَ
 خَيْرٌ لَّكَ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ وَ اَجَلْتُ لَكُمْ
 الْاَنْعَامَ اِلَّا مَا يُثَلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوْا
 الرَّجَسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ
 الرَّذٰوِئِۃِ ﴿۳۷﴾

حُنْفَاءَ ۗ لِلّٰهِ غَيْرٌ مُّشْرِكِيْنَ بِهٖ ۚ وَ مَنْ
 يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَانَ كَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ
 فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوٰى بِهٖ
 الرِّيحُ ۗ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿۳۸﴾

حقیقت چھتے یہ نہ ایس شخص اللہ (تعالے)
 بندن مقرر کرے ہتھن نشان ہنر عزت کر
 (تہند) یہ (فعل) یہ وہ ہند تقویٰ مانہ۔
 (یاد تھو تہ) تمو قربانو ہتھ چھو توہس
 اکیس مدتس تمام نفع حاصل کرن چاہز۔ پتہ
 چھ لڈیم ہم خدایہ ہندس پر ایس گرس (خانہ
 کعبیس) تمام واتناونہ۔

ذٰلِكَ هُوَ الَّذِي يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا
 مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْبِ ﴿۳۹﴾

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعٌ اِلَّا اَجَلٌ مُّسَمًّى ۗ
 ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَّا الْبَيْتَ الْعَتِيقِ ﴿۴۰﴾

یہ پر چھ توہم باپتہ چھ اسمہ قربانی ہند اکھ
 طریقہ مقرر کورمت بیٹہ نہ ہم ہتھ چارواہن

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا
 لَّيْذُكُرُوْا اللّٰهَ عَلٰى مَا رَزَقْنٰهُمْ

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿۱۱﴾
 ﴿۱۱﴾ یمولوگو ایمان اؤتمت چھ لے شک اللہ
 (تعالے) روز تہندہ طرفہ بجاو کران - اللہ
 (تعالے) چھنہ یقینا پر چھ خیانت کرن واپس
 (تہ) انکار کرن واپس پسند کران -

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۱۲﴾
 اذین لیلذین یقتلون بانہم ظلموا
 (ہم لوکہ بین سہو (ناحقہ) جنگ کرنہ یوان چھ
 (ہم) تہ چھ (جنگ کرنہ) اجازت دہ یوان
 تہ کیا تہم چھ ظلم کرنہ آمت تہ
 اللہ (تعالے) چھ تہندہس مددس پیٹھ قوت
 تھوان -

(ہم) چھ ہم لوکہ (ہم) تہندہو گرواندر صرف
 تہندہس سیتے و متنس پیٹھ نہ اللہ (تعالے)
 چھ سون پروردگار، کا منہہ جایز وجہ آسنہ
 ورائے، کڈنہ آہیہ - تہ اگر اللہ (تعالے)
 تہو (یعنی کافرو) مفر کینترن کینترن ہند
 دوسو (شرارتہ ہنتہ) پیٹھ رٹہ ہے نہ تہ
 عیسائین ہندی گرجہ تہ یہودین ہنہز عبادت کا ہہ
 بیہ واریاہ قسمکی عبادت خانہ تہ مسجدین منہ اللہ
 (تعالے) سندناد جاد جاد ہنہ یوان چھ، بیہ ہن تباہ
 کرنہ تہ اللہ (تعالے) کر یقینا سندن مددس نس (یعنی
 تہندس دہس) مدد کر - اللہ (تعالے) چھ یقینا
 سبھا طاقت ور (تہ) قلوب -

ہم (یعنی مہاجر مسلمان) چھ ہم لوکہ نہ اگر اوسو
 (ہم) دنیاس اندر طاقت بخشو تہ ہم کرن نماز
 قایم تہ زکوٰۃ دن تہ نیک کتھن ہند دن حکم
 تہ ناکار کتھو رتن پتھ تہ سارہے کامین
 ہند انجام چھ خدایہ ہندس افس منہ -

تہ اگر (ہم) دشمن (تہ) تہیز ایزوان چھی تہ یو
 بروٹھ تہ اوسو (ہنہ نیو) ایزاوی ستر نوح
 ہند توہن تہ عادی ہندی توہن تہ نمود ہندی توہن تہ
 بیہ ابراہیم ہندی توہن تہ تہ لوٹ ہندی توہن

وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ
 حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۚ وَلَوْ
 لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
 بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتِ السَّمَاوَاتُ وَبِيعَ
 صَلَوَاتُكَ وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ
 اللَّهِ كَثِيرًا ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن
 يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۱۳﴾

الَّذِينَ إِنْ مَكَتْلُهُمْ فِي الْأَرْضِ
 آقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَ
 آمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
 الْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۱۴﴾

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
 قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿۱۵﴾

قَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ ﴿۱۶﴾

وَاصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ
فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۚ
كَفَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ
ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَ
بُيُوتٌ مُّعْتَطَلَةٌ وَقَصْرِ مَعِيشٍ ۝

أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ
لَهُمْ قُلُوبٌ يَّخْفَلُونَ بِهَا أَوْ إِذْكَ
يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى
الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي
فِي الصُّدُورِ ۝

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ
يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ
رَبِّكَ كَأَيْفٍ سَنَةٍ يَمَّا تُعَدُّونَ ۝

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَ
هِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۚ وَاللَّيْلِ
الْمَصِيرُ ۝

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آتَاكُمُ تَزْوِيرُ
مُيَدْنِ ۝

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

تہ -
بہ مدین کبر لولو تہ - تہ مؤمنی تہ اوس
ازاونہ آمت - لہذا منیہ وثر انکار کرن والین
کئیہ موبلت پتہ رزم آسہ لہذا (سوجو ز)
میون انکار کئیہ خطرناک اوس -

بہ کا ترا ہے بستیہ چھیہ یکم اسہ تہہ حالتس منز
ہلاک کرے پہ نہ رزم آسہ ظلم کرن تم چھ
از پسنین پسن پیٹھ پتھر پتھر بہ کاتیہ
کپر کچھ یکم لے تراوتہ ترہنتہ آرتی چھ
بہ کاتیہ تھدر تھدی قلا یہ چھ یکم تباہ
کا موت چھ -

کیا تم چھنا زمینہ مغز پکیہ وچھان میتہ نہ
تمن تھدی دل حاصل سپن یکم (دبہ کتھ)
زاتہ مہکن؟ یا تھو کن سپنکھ حاصل یکم
(تمہ کتھ) بوزتہ مہکن؟ تہ کیا نہ اصل کتھ
چھیہ یہ نہ انبو چھتہ اچھن پیٹھ آسان بلکہ
اڈی چھ دیل گتھان یکم سین مغز آسان چھ -
یکم لاکھ چھ عذاب منگس منز مومنا دل کرن اڈی
اللہ (تعالیٰ) چھتہ زانہ پن وعدہ اپز کرن -
تہ دکاٹہ) کانہہ دوہ چھ خدایس انش تہنز
گرینیز حسابہ ساتس ولس برابر آسان -

بہ کا ترا ہے بستیہ چھیہ یکم (گوڈ) تہ منیہ
موبلت وثر - ہلاکہ تم آسہ ظلم کرن پتہ
رچہ میہ تم تہ میہ کن چھ سارے چھیرہ تہن -

تہ ون اے لولو! بر چھس توہر کن صرف
اگس ہتیار کرن واد ہندہ حشیتہ آمت -

او کوز یکم ایمان ان تہ (تمہ کہ) مناسب
حال عملہ کرن اتن سپر (خدایہ سنہ) بخشش
تہ عز تہ وول رزق حاصل -

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُجْرِمِينَ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۷﴾

تہ تم لوگ جو سائین نشان متعلق جدوجہد
کرو (امیرغزنیہ) نہ تم کرن (اسے) عاجز تم
لوگ جو جہنم منہ سہن اول۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ
وَلَا نَحْيِي إِلَّا إِذًا تَمَّتْ أَلْفُ الشَّيْطَانِ
فِي أُمَّنِيَّتِهِمْ ۖ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي
الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۸﴾

بہ سوز تہ اسہ خزیہ برونیہ کاٹہ رسول تہ
نہ کاٹہ نبی مگر نیلیہ تہ تمہ اراد کوز شیطان
تراوی تہنیز یشہتہ چہ و تہ منہ مشکلات
پتہ یہ شیطان تراوان چہ اللہ (تعالیٰ) چہ
تہ تہنہاوتہ ترصان تہ ہم تہنہ پتہ نشانہ
آسان چہ تم چہ مقبوط کران تہ اللہ (تعالیٰ)

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً
لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۗ وَاللَّامِئِينَ
الْقَاسِيَةَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ
لَفِي شِقَاقٍ بَحِيدٍ ﴿۱۹﴾

چہ سہا زان وول حکمتہ وول
تہ چہ یہ سہان نہ ہم (مشکلات) شیطان
پاؤ کران چہ تم چہ ہم لاکن ہنہ خاطر کھوند
لنگ باوت سہان بین ہنہ دن منہ
بیارک آسان چہ تہ ہنہ دل سہت آسان چہ
تہ عالم لوگ چہ (پر پتہ خدای کتہ ہنہ) شدید
مخافت کرنس پتہ ہول تہنہ روزان۔

وَلِيَخْلَعَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ
فَتُخَيَّبَتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ
الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۲۰﴾

تہ (یہ سورے کینہ چہ او کوز سہان) بیہ نہ
تم لوگ ہم علمہ اول آسان چہ، زان نہ سہ
(یعنی قرآن) چہ چانس پروردگار ہنہ طرفہ لور لور
پزرتہ تہ پتہ ان ایمان تہ تہنہ دل منہ تہ
برونہ کتہ تہ اللہ (تعالیٰ) چہ مؤمن ضرور
سینر و تہ کن ہدایت بخش وول۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَزِيَّةٍ
مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً
أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ﴿۲۱﴾

تہ کافر روزان اتہ (قرآنس) متعلق شمس منہ
پتہ تہ و قس تام نہ (تباہی ہنہ) گز پتہ
ہنہ منگہ یا پتہ تم نش تہ دہک عذاب یس
پانس پتہ کن کینہ تہ چہ تراوان۔

۱۷ مفسر چہ کینہ نہ خدای کلام پران چہ شیطان چہ اللہ الہی کلام منہ لاوت کران وول
عیس علیہ السلام چہ تہ نبی عیسیٰ شیطان چہ تہ بیہ عقیدہ چہ مرسیا نبیین تہ رسول ہنہ تہک اگر یہ کتہ
صحیح اسہ تیلہ مرتبہ سورے الہی کلام مستحبہ۔

تمہ دوہہ آسہ سارے پادشاہی اللہ (تعالیٰ) سے منجز ہے۔ سہ کرمتن درمیان قاصدہ۔ لہذا مؤمن ایمانہ کہ حالہ مطابق عمل تہ کران آسہ تم روزن نعمتہ والین جنتن منجز۔

بہہ کافر تہ سامنہ آسہ ہندک منکر تہ چہ تم بہند خاطر رسوائی ہند عذاب (مقدر) چہ۔

بہہ تم لوکہ ایم اللہ (تعالیٰ) منجز و تہ منجز ہجرت کران چہ۔ پتہ چہ قتل کر تہ لوان یا پنی تھنہ چہ مران۔ اللہ (تعالیٰ) بخشہ بہن منہایت تھنہ انعام تہ اللہ (تعالیٰ) چہ انعام بخشش والو منجز ساروہے کھوتہ رت۔

سہ کر ضرور بہن تہ منجز جاہ منجز اول بیتھ تم پسند کرن تہ اللہ (تعالیٰ) چہ سبھا زانن وول (تہ) سبھا گاڑ جار تھون وول۔

یہ کہتہ چھینہ بیتھ پاٹو تہ یس شخص تہوتہ سزا دہے یوت تس تکلیف دہے آمت اوس، مگر تہ کر تھ تہ پیہ (تند و شمن) تس پیہ حملہ کر تھ تہ اللہ (تعالیٰ) کر ضرور تس مسد۔ اللہ (تعالیٰ) چہ بے شک سبھا معاف کرن وول (تہ) سبھا بخشش وول۔

یہ (جزبک تہ سزبک سلسلہ) چہ او موکہ جاری نہ ثنابت سپر نہ اللہ (تعالیٰ) چہ رازہ دوہس مغز اول کران تہ دوہس چہ رازہ منجز اول کران تہ اللہ (تعالیٰ) چہ یقیناً (دعا) سبھا بوزن وول (تہ حالات) سبھا و تھین وول۔

یہ (دعا بوزن تہ حالو نشہ باخبر روزن) چہ او کو نہ اللہ (تعالیٰ) چہ پنسن ذاتس منجز تاہم تہ دو تھین چیزن چہ تاہم تھون، بہہ او کو نہ بیتھ چیزس تم خدائس ورائی آلو کران چہ سہ چہ تباہ سپدن وول بہہ او کو نہ اللہ (تعالیٰ)

الْمُلْكُ يَوْمَ مَعِزِّتِلَّهِ يَخُكُّمُ بَيْنَهُمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي
حَدَّثِ النَّوْحِيِّ ④

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑤

وَالَّذِينَ هَا جَرُّوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
قَتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيُبَازِلُنَّهُمْ اللَّهُ رِزْقًا
حَسَنًا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ⑥

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وَإِنَّ
اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ⑦

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَبَ بِهِ
ثُمَّ بَغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ
لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ⑧

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُؤَلِّجُ النّٰمَازَ فِي النّٰمَازِ
وَ يُؤَلِّجُ النّٰمَازَ فِي النّٰمَازِ وَ اَنَّ اللّٰهَ
سَمِيعٌ بَصِيْرٌ ⑨

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا
يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ اَنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ⑩

ہے چھ ساروہے کھوتہ بالا تہ ساروہے کھوتہ
بوڑ۔

کیا ثریہ چھتتا وچھتتہ ز اللہ (تعالے) ہن چھ
آسمانہ پیٹھ آب وول مت، نیمیر سوتی زمپن
سزاسپن سپان چھیز؛ اللہ (تعالے) چھ
بے شک (پننہن بدن سوتی) مہربانی ہند
سلوک کرن وول۔ بیہ چھ (تہند بو حالو توشا)
سپٹھا باخبر۔

یہ کینترھا آسمان مشر چھ تہ یہ کینترھا زمپنہ
مشر چھ تہ سورے چھ تہندے۔ بیہ چھ اللہ
(تعالے) بے شک پسند وراہی سارہے وولن
ہند اتھو رٹہ نیشہ بے نیاز (تہ) تعریفن ہند
مالک۔

کیا ثریہ چھتتا وچھتتہ ز یہ کینترھا زمپنہ مشر
چھ اللہ (تعالے) ہن چھ تہ تہندہ کامہ پیٹھ
مزور وراہی لاگتہ تھومت تہ ناو تہ چھہ ہندس
مشر تہندہ حکمہ سوتی پکان۔ بیہ چھ تھو آسمان
رٹھ تھومت ز نیمیر سوتی حکمہ وراہی
کنہ زمپنہ پیٹھ وسی پسینہ۔ اللہ (تعالے)
چھ یقینا لوکن سوتی سپٹھا شفقت کرن وول
(تہ تھن پیٹھ) پھیر پھیر رحم کرن وول۔
تہ سے چھ نیمیر توہی زہند کرکرو پتہ مارو توہہ
پتہ کرکو بیہ زہند۔ انسان چھ پڑی پالمو بوڑ
نہ شکرہ کرن وول۔

اسہ چھ پرتہ امتہ باپتہ اکھ عبادتک طریق کار
مقرر کوزمت۔ نیمیر مطابق سہ پکان چھہ۔
لہذا اتھ طریقس (یعنے اسلاس) متعلق پز
نہ تھن ثریہ سوتی بحث کرن (تہ کیا نہ یہ چھ
خداہ ہند مقرر کوزمت) تہ تہ کر (تھن)
پننہن بس کن ناد تہ کیا نہ تہ چھکھ سینر

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اِلٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً رَفَتْضِيحُ الْاَرْضِ مُخَضَّرَةً ۚ اِنَّ
اِلٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٥٧﴾

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَ
اِنَّ اِلٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَمِيْدُ ﴿٥٨﴾

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اِلٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي
الْاَرْضِ وَ اَلْفُلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
يَاْمُرُهَا ۚ وَ يُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَ
الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ اِنَّ اِلٰهَ بِالنَّاسِ
لَرءُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٩﴾

وَهُوَ الَّذِيْ اَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ
ثُمَّ يَخْيِيْكُمْ ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ
لَكَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ
فَلَا يَتَاذَعْتِكَ فِي الْاَمْرِ وَاذْعَالِ رَبِّكَ ۗ
اِنَّكَ لَعَلَّ هُدًى مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾

وتر پڑھو۔

ادھر تم تریہ سستی بخت کرن تر ونگہ ز اللہ
(تعالے) چھ تہند لو اعمالو نیشہ زبر پیاٹو خبردار۔

اللہ (تعالے) کر (لو تہ تہ میہ درمیان) قیامتہ
کہ وہ بہ تمن کتھن مغز فاصلہ یکن مغز تو ہر
اختلاف تھاوان چھو۔

(اے محمد رسول اللہ!) تریہ چھے نامعلوم ز
اللہ (تعالے) چھ زماناں پر پتہ چیز یس
آسمانس تہ ز مینہ مغز چھ۔ یہ سورے کینہہ
چھ اکیس کتاب مغز لیکھتہ موجود تہ چھ پاتھر
(کاٹہ ٹونون محفوظ) کرن چھ اللہ (تعالے)
سندر خاطر سہل۔

بیہ چھ ہم لوکھ اللہ (تعالے) ہس وراہی تمن
چیزن ہنر عبادت کران یکن ہندر خاطر تمو کاٹہ
کویل نازل چھتہ کر ہنر بیہ یکن متعلق تمن کتہ
قبتک کاٹہ علم حاصل چھتہ تہ ظلمن ہند آسہ
تہ کوشنہ مدگار۔

بیہ یلیہ تمن برونیہ کتہ سانی ماکار آیہ پر تہ
یوان چھ تہ تہ چھکھ منکرین ہندن یقین پتہ
(صاف صاف) مشرکری (ہندر نشانہ) وچھان۔
لیہ چھ یوان ز ہم کرن تمن لوکن پتہ وونی
حلو ہم تمن سانی آیہ پتہ بوزناوان چھ۔ تہ
ون تمن) کیا بہ دمو وا توہہ نیمیر حالتہ کھوتہ
تہ اگر پتہ چاپخ خبر؟ (تہ) سہ چھ تہ ہنک
نار نیمیک اللہ (تعالے) ہن منکرین سستی
وعدہ کورمت چھ تہ سہ چھ پتہ ٹھکانہ۔

اے لوگو! اکھ کتہ چھو توہہ ونہ یوان۔ توہی
یوہو سہ دیانہ سان! توہی یکن اللہ (تعالے)
ہس وراہی ناد ووان چھو ہم ہیکن تہ اکھ چھ
تہ یاد کر تہ یوہو سے ہم امر خاطر سرسالم

وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

اَللّٰهُ يَخْتَمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فِيْ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۰﴾


اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ
ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۱۱﴾

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ
بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ
وَّ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ لِّصِيْرٍ ﴿۱۱﴾

وَاِذَا تُثِلَّ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ
تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
الْمُنْكَرَ، يَحْكٰدُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ
يَعْلَمُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا، قُلْ اَفَاَنْتُمْ كُمْ
بَشِيْرٌ مِّنْ ذٰلِكَ، اَلنَّارُ وَاَعْدٰهَا
اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَسَّ الْمَصِيْرُ ﴿۱۱﴾

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلٌ فَاَسْتَمِعُوْا
لَهُ، اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اٰجْتَمَعُوْا لَهٗ
وَ اِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا

سہ چھ تہند آقبہ ، وچھتہ کیا زبر آقبہ
چھ تہ کوتاہ جان مددگار چھ ۔



سورة مؤمنون : یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ بتھ چھ آیتھ اکھ تھ تہ کتوہ آیبہ بیہ چھیس تہیہ رکوع۔

<p>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ① (بہ چھیس) اللہ (تعالیٰ) سندن او بہتہ (پر ان) بیس حدہ نوں کرم کرن وول (تہ) چھیر کر چھیر کر رحم کرن وول چھ ۔</p>	<p>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①</p>
<p>دکابل (مؤمن) مؤمن واتی پننس سراس ۔ اتم (مؤمن) ایم پننہن نمازن منز عا جزی ہند طریقہ پراوان چھ ۔</p>	<p>قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ②</p>
<p>بیہ ایم فنسول کتھو نشہ بچتھ روزان چھ ۔ بیہ ایم (با تائید) زکواتہ دیوان چھ ۔ بیہ ایم پننہن شرمگاہن ہنر رآ چھ کران چھ ۔</p>	<p>وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ③ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ قٰعِلُونَ ④ وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُبٰتِهِمْ حٰفِظُونَ ⑤</p>
<p>ما سو اوہ پننہو آشنہو یا مہندی ماک تہندی دھنر اتھ سپدی ہتر چھہ ڈپو پتھین لوکن پیہ ہر کتہ تسبیح ملامت کرن ۔</p>	<p>اِلَّا عَلٰٓی اٰزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غٰیْرُ مَلُوْمِیْنَ ⑥</p>
<p>اوہیم امر وراہی کتہ بدل کتہ ہنر خا ہنر کرن تہ اتم لوکھ آسن زیادتی کرن واول ۔</p>	<p>فَمَنْ اَبْتَغٰی وَّرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ⑦</p>
<p>بیہ اتم لوکھ (یعنی دکابل مؤمن) ایم پننہن امانت تہ پننہن وعدن ہند خیال تمھوان چھ ۔</p>	<p>وَالَّذِیْنَ هُمْ لِاٰمَنَتِهِمْ وَّعٰہِدِهِمْ رٰعُوْنَ ⑧</p>
<p>بیہ ایم لوکھ پننہن نمازن ہنر رآ چھ کران روزان چھ ۔ یکے لوکھ چھہ اہل وارث ۔</p>	<p>وَالَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلٰوةِیْهِمْ یَحٰفِظُونَ ⑨ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ⑩</p>

لہ یعنی اتم زناہہ ایم جنگس مفر قیدی بناوتہ آسہ آسن ۔

الَّذِينَ يَرْتُؤُونَ الْفَيْدُوسَ لَهُمْ فِيهَا
خَلِيدُونَ ﴿۱۱﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ
مِنْ طِينٍ ﴿۱۲﴾

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مَكِينٍ ﴿۱۳﴾

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ
أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿۱۴﴾

ثُمَّ إِنَّا نَكَّمْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۵﴾

ثُمَّ إِنَّا نَكَّمْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبَعْتُمْ ﴿۱۶﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ وَ
مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿۱۷﴾

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ
فَأَشْكْتُمْ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَى
ذَهَابٍ بِكُمْ لَقَدِيدُونَ ﴿۱۸﴾

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ تَحْيِيلِ ۚ
أَعْتَابٍ ۚ لَكُمْ فِيهَا فَوَاحِشٌ كَثِيرَةٌ ۚ وَتُجَرُّ
مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۹﴾

ہم فرودوں کے وارث آسن تم گڑھن اتھ منز
ہمیشہ روزان

تہ اسر چھ انسان ادر میٹر ہندس ہرترس ہنو۔

پتہ تھوویہ افس قرار واجنہ محفوظ جایہ منز
نظن کر رنگہ۔

پتہ ڈر نفوس ترقی دتھ ترشہ شکل زرسہ بیویو
لارٹھ گڑھن وول وجود پتہ بناو اتھ لارٹھ گڑھن
و افس و ہڈوس اکھ ماز چھل۔ پتہ یدلاویہ ماز
چھل اسر اڑی جن ہنز شکلہ منز۔ پتہ کھول تھن
اڑی جن پتہ اسر ماز۔ پتہ کور پہ زمیں افس
شکلہ منز تبدیل۔ لہذا سبھت ہے برکٹ وول
وجود چھتہ خدا میں ساروہے کھوتہ رت
پاؤ کرن وول چھتہ۔

پتہ چھو توہی لکھ اسر پتہ من اول۔

پتہ بیو توہی قیامت دوہ تھلہ۔

بیہ چھتہ اسر توبہ پیٹو (ہن درجن ہند خا طہر)
نٹھ (روٹانی) و تہ بناو مشر تہ اسی رودی تہ
دینہ) مخلوق ہنہ تھل۔

بیہ چھتہ اسر آساہ پیٹو کر انداز مطابق آب دولت۔
پتہ چھتہ زمینہ منز صہر و مت تہ اسی چھتہ
والس ہنس پیٹو تہ قاور۔

پتہ بناو اسر تہندہ خا طہر تہ آہ سو تو باغ کھرن
ہندو (تہ) تہ دھن ہندو (تہ)۔ ہن منز چھ
تہندہ خا طہر واریاہ سو (پاؤ کر تہ آتو) تہ اتو
منز چھو توہی کھوان۔

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ
تَلْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِأَكْلِينَ ﴿۱۱﴾

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُضِيقُكُمْ
وَمَا فِي بُطُونِهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا مَتَاعٌ
كَثِيرٌ ۚ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۲﴾

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿۱۳﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۴﴾

فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ
أَنْ يَحْضِلَ عَلَيْكُمْ ۚ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا نَزَلَ
مَلَائِكَةٌ ۚ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا
الْأَوَّلِينَ ﴿۱۵﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتِّرَبِّصُوا بِهِ
حَتَّىٰ جِئِينَ ﴿۱۶﴾

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿۱۷﴾

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا
وَوَحَيْنَا قَادًا أَجَاءَ أَمْرُنَا ۚ فَارْتَقِنُورُ
فَأَسْلَمْتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَاجِرٍ اثْنَتَيْنِ
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

بہ (چھ اسہ تہنہنر خاطر) سہ کل تہ (پاد کورمت)
یس طار سپنا منز نیران چھ یس پانس اندر تہیل
ہتہ وو پلان چھ بہ کھنہن والین کیت سین ہتہ تہ۔
بہ چھ تہنہن با ہتہ چار وین منز بود یق۔ اُس
چھو توہر تہر چہر منز یس تہنہنر یس منز اسان چھ
چاروان۔ بہ چھ یمن چاروان منز تہنہن با ہتہ بہ
تہ واریاہ نفع تہ توہر چھو تہر منز کینہ کھوان۔
بہ امن (چاروان) تہ ناوان پچھ چھو توہر (سوار
کر تہ) تہنہن پوان۔

بہ سوز اسہ نوح تہنہن قومس کن۔ اہ وون تہر
اے میاہ قومہ! اللہ (تعالیٰ) ہنہر عبادت کرو۔
تس وراہی چھہ بہ کانہہ تہنہن معبود۔ توہر چھوانا
تہنہن تقویٰ پراوان ہ

اتھ پچھ وون تہنہن قومہ کو کافرن ہندو سردارو
یہ شخص تہ چھ توہی میو اھ انسان (تہ) یہ چھ
یہتر حال نہ توہر پچھ پراو فہیلت۔ اگر اللہ (تعالیٰ)
(پیغمبر سوز)۔ یہتر ہے تہ طامین کرہے تارل۔
اسہ نے چھ پنہن برنہن من بدن اجدان منز
تہ اسہ تہنہن کانہہ واقعہ پدان بوزمت۔

یہ چھ نقطہ اھ انسان نیس مشر امت چھ اہ
کو تہنہن انجاک کرو کیونتر کال انتظار۔

(اتھ پچھ) وون (یعنی نوح) اے میاہ
پروردگار! میون مدد کر تہ کیا نہ ہم لوکھ چھ
میہ اپراوان۔

لہذا اسہ کر تس کن وحی نہ (یوسہ) ناو (تیار)
کریمہ خریہ اسہ حکم دیت مت چھہ سم) بناوان
سامن اچمن برونچہ کہہ تہ ساء وحیہ مطابق۔
اہ سون حکم نیلہ پیسہ تہ زمپنگ ناگ وون

۱۱ یعنی زیتون کل، نیلہ کس میوس تہیل کڈنہ یوان چھہ تہ سہ کہہ تہ چھ کھنہ یوان۔

مِنْهُمْ جَدًّا لَيْسَ طَائِفًا فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا
إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۱۸﴾

تہ اتمہ (ناو) مفرز برز پر تہہ قہمہ کہو جانورو
مفرز (مین ہند اسی تہہ حکم دوسے) اکھ اکھ کور
بہہ پتہ اُستناو تہہ کوز کچھ سوار تہہ ورا تہہ مین
خلاف سون حکم برو تہہ پتہ تانزل سپدست پتہ
تہہ یو ظلم کورمت چہہ تہہ متعلق کوز تہہ سینہ
سوتو کانہہ کتہہ تہہ کیاز تہہ مین ضرور آس پھاناز
ادینیلہ تہہ تہہ پانڈ سوتو باجو ناو مفرز تہہ پانڈ مین
تہہ توہہ مفرز ورن پر تہہ اکھ نہ ساری تفریپ چہہ
اللہ (تعالے) ہند خاطرے نیو اسہ فابن
ہند قوم ہنہ نجات دیت۔

قَدْ أَتَى النَّبِيَّ الْعَذَابُ وَأَنْتَ كَتُمْتَهُ
فَقُلْ أَلَيْسَ الَّذِي تَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾

تہہ (ناو) مفرز وسہ ورن (ون نہ اے مسیانہ
پروردگار! تہہ وال مینہ (بہہ ناو مشر)
تہہ تہہ حالتس مفرز مینہ پتہ آسن جاو جاو
برکتر تانزل سپدن تہہ (مینہ کیاہ پتہ امر دعاہک
تہہ حاجت مینہ زن) تمام (بون) والن واپو
مفرز چون وجود چہہ سار وپے کھوتہ جان -
اتمہ مفرز چہہ واریاہ نشا تہہ تہہ اسی چہہ یقینا
بندن ہند امتحان ہنہ واری۔
پتہ کوزی اسہ تمو پتہ کہو یا قوم پاد۔

وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْ لِي مِزْلًا مَبْرُكًا وَ أَنْتَ
خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿۲۰﴾

تہہ اسہ سوز تہہ کن تہہ مفرز رسول (یہ
پیغام روان) نہ اللہ (تعالے) سہر عبات کور۔
تہہ ورا تہہ پتہ تہہ نہہ بیاکھ مہبود۔ کیا
توہی چھون نا پین پان تہہ تہہ ہلاکتہ نشہ پان
تہہ تہہ قوم مفرز جکو کفر کریاو تہہ مسرہ
پتہ خلیس سوتی ملا تہہ انکار کریاو، بہہ
بیم اسہ بہہ دنیا چہہ زندگی مفرز مالدار بناو
تہہ تہہ سردار و فون یہ تہہ چہہ توہہ مینو اکھ
بشر۔ یہ چہہ تہہ (کھنو) مفرز کھوان
بیم توہی کھوان چہو تہہ تہہ (چہہ چیزو)
مفرز چہہ چہوان بیم توہی چہوان چہو۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّرِءَافِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۱﴾

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۲۲﴾
فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا كَفَرْتُمْ بِهِ عِبْرَةً لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ ﴿۲۳﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَكذبوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرْتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ
يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿۲۴﴾

وَلَيْنَ اطَّاعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ لَأَتَّكُم
إِذَا لَخِيسُوا ۝۱۹

اگر تو ہی پانس ہوں اگس انسانہ سنز کتھ مارنو
تہ تو ہی سپرو گاٹو تلن والیو اندر۔

أَيَّعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ
تُرَابًا وَعِظًا مَا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ ۝۲۰

کیا سہ چھا تو بہ سستی یہ وعدہ کران ؟ نہ میلیہ
تو ہی مسرو تہ منیتر سپرو تہ اڑی جبر مہو تہ
تو ہی بیو (بیہ زندہ کر تھ) کڈ تہ۔

هِيَ هَات هَيْهَات لِمَا تُوعَدُونَ ۝۲۱

نیہ کتھ ہند تو بہ سستی وعدہ کر تہ یوان چھ۔
سو چھینہ عقلہ ہنتہ سپر ہے دور بیہ چھستہ
مانیخ کتھ۔

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ
وَتَحْيَا وَمَا تَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝۲۲

زندگی تہ چھینہ صرف سانی نیہ دُنیا، یح زندگی
اُسی چھ کتہ وز مسودہ حالتس منز آسان تہ
کتہ وز زندہ حالتس منز تہ اُسی یکو تہ زنیہ
مسترہ پتہ دوبارہ تملن۔

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
وَمَا تَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝۲۳

یہ تہ چھ (صرف) اکھ کتہ شخصس یس اللہ
(تعالیٰ) ہس پچھ اپز مانر تھ لاگان چھ تہ
اُسی مانن نہ ہرگز یہ (یعنے اُسی سنز کتھ)۔

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي ۝۲۴

تو روون (اتھ پچھ) اے میانہ پروردگار! کیو
لوکو چھس بر اپز وومت۔ لہذا تہ کر تہ میون مدد
(اگر) فرمودن (یعنے خداین)۔ ہم لوکھ گرشھن
کے کالو شتر مند۔

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصِيبُ حَتَّ نِدْمِينَ ۝۲۵

تہ تم رُو اُگر عذابن نیہج پوختہ خبر دینہ آوتہ
اُس۔ تہ اسر بنو تنن تھوٹ تہ (ملا یکن
دیت محکم تہ) فلانن ہند خاطر (کرو)
لعنت (مقدر)۔

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا
آخَرِينَ ۝۲۶

کانہہ قوم چھتہ پینس مدلس برو نہہ نیران
تہ نے ہیکہ تہ ہنتہ پتہ روز تھ (بچتہ)۔

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا
يَسْتَأْخِرُونَ ۝۲۷

پتہ سوزی اسر پیوز رسول پوتس پتہ۔ میلیہ
کتہ قومس ہن تہند رسول یوان اوس تم اُسی

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَاءٍ كُلَّمَا جَاءَ
أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ أَجَعَلْنَاهُمْ آخِذِينَ
بِقُبُورِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿۳۰﴾

تس ایزواوان۔ او کبھی اسی اسی تمہو منفر کینہہ
قوم کینیشن پیتہ سوزان گرشہان (یعنی ہلاک
اسی کران گرشہان) تہ اسہ تھاؤر تم ساری
(پتہ کاکو) افسانہ بناؤتھ۔ تہ (تمن متعلق دیت
ملیکن حکم نہ) بیکو لوکو ایمان اذن تہ تہتہ
خاطر (کرو) خدایہ ستر لعنت (مقدر)۔
امہ پیتہ سوز اسہ موسیٰ تہ تم سہ بوسے مارون
پیتہ ایشاہ تہ تاکاہ غلبہ دتھ۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَ أَخَاهُ هَارُونَ
بِآيَاتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۳۱﴾

فرعونس تہ تمہو بندین سردار کن۔ اما پوز
تمہو کور کبہر تہ تمہو پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
اد وون تمہو کیا اسی انوا پانس ہون دون
انسان پتہ ایمان حالانکہ تمن دہ لونی ہند
قوم چھ سانی غلامی کران۔

إِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِمِهِ فَاسْتَكْبَرُوا
وَ كَانُوا قَوْمًا عٰلِينَ ﴿۳۲﴾

اد تمہو اپڑاؤر تم دہ نوے (یعنی موسیٰ تہ مارون)
نتیجہ پتہ تہ تمہو پتہ ہلاک سپن والہو
لوکو اندر۔

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا
وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عِبُدُونَ ﴿۳۳﴾

تہ اسہ وڑ موسیٰ ہس (سہ کتاب) پتہ ساری
زمانہ چھ) پتہ تہ تم (تہ تمہو قوم) ہارت بن۔
بہر بنوا اسہ ابن مریم تہ تمہو ستر موج اکھ نشاہ
تہ اسہ دیت تمن دہ لونی ایکس تھڑتہ جہا
پتہ پتہ پتہ پتہ روزنس لایق تہ پکوزی آہر واجز
اس۔

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۳۴﴾

وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ ﴿۳۵﴾

وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّةً آيَةً وَ
أَوْنٰهُمْ إِلَىٰ ذٰبُوٓةٍ ذٰلِكَ قَرٰلِٔ وَ
مَعِيْنَ ﴿۳۶﴾

(بہر وون اسہ) اے رسولو! پاک چیزو منفر

يٰٓأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوٓا مِنَ الطَّيِّبٰتِ

لہ یعنی دنیاہس منفر روون تہ تہتہ نیب نشاہے ہاتھ۔

لہ تواریخ تہ چھ تہاوت نہ یہ تھڑ جائے اس کتہر۔ بائبل تہ یہودین
تہ بندین ہند تواریخ منفر تہ چھ واریاہ حوالہ امیک تہاؤد کران۔ محلہ انہر مو
خانہ ساری نگر منفر حضرت یوزا سفن یا نبی صابن روضہ چھ دراصل حضرت عیسیٰ
علیہ السلام نے قبر۔

کھینوو تہ مناسب حال عمل کرو (تہ) یہ چھس
تہ زمانہ یہ توہی کران چھو۔

بیسہ یہ تہنتر جماعت (یعنے نبین ہنتر) چھسہ
اکے جماعت تہ یہ چھس تہنتر پروردگار اور کنز
بناوو میں ہلاکتہ نشتر بچتہ خاطر پین اسپر۔
یتھ پٹھ کر تہو (یعنے گھارو) شریعت چھلہ چھلہ
تہ پریتھ فرقن یوسہ چھل پسنہ باچتہ پانتاوا
تتھ پٹھ لگو ناز کر تہ۔
اور تہ دامن اگس مدس تام پسن غفلتس منز
پتھ روزنہم۔

کیا تم چھاخیل کران نہ اسی چھہ متن مالہ تہ
نیچووی سستی مدد دوان؟

تمن نیکن منز وژہ وژہ بروٹھ پکناونہ خاطر
(سہ چھنہ کتھ) بلکہ تمن چھنہ (حقیقت حال)
بلکہ تران۔

تم لوکھ یمن پسنس پروردگار ہندہ بیہ ستر کر
ازان چھ۔

بیسہ تم لوکھ ہم پسنس پروردگار ہندہ این پٹھ
ایمان انان چھ۔

بیسہ ہم پسنس پروردگار ہندہ کالہہ شرکیہ چھنہ
بناوان۔

بیسہ ہم (خدا یہ سند بخشوست) مال (بروٹھ کن
حقارن) دوان روزان چھو تہ تہنتر دل چھہ
اتھ کتھ کھوژان روزان نہ تمن آسر
اکہ دوہہ پسنس پروردگارس نش واپس
گرتھن۔

یکے لوکھ چھہ نیکن منز وژہ کرن واد تہ یکے
چھہ تم یمن (نیکن) کن اکھ اگس بروٹھ
نیکن روزان چھہ۔

وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴿۱۸﴾

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۱۹﴾

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا
كُلٌّ حَزْبٌ بِمَا كَدَّيْتَهُمْ فَرِحُونَ ﴿۲۰﴾

فَزَهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۲۱﴾

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ
وَبَنِينٍ ﴿۲۲﴾

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا
يَشْعُرُونَ ﴿۲۳﴾

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ
مُشْفِقُونَ ﴿۲۴﴾

وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتِي رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۵﴾

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۲۶﴾

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَاوَا وَ قَلُّوا بِهِمْ
وَجِلَّةٌ أَلَّهُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۲۷﴾

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ هُمْ
لَهَا سَابِقُونَ ﴿۲۸﴾

وَلَا تُكَلِّفْ نَفْسًا وَاكْلًا وُسْعَهَا وَاكْدَيْنَا
كُتِبَ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا
يُظَلَمُونَ ﴿۱۷﴾

بہ چھبہ اُسی کئی زورس کاٹھہ کُام مٹھ تھوان
مگر تہندک طاقتہ مطابق بہ چھبہ اُسی نش اکھ اعمال
نامہ یس پُز پُز کتھ وان چھبہ تہ تہن پٹھ
بہ نہ کاٹھہ ظلم کرنہ۔

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا
لَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا
عَامِلُونَ ﴿۱۸﴾

مگر تہندک دل تہ چھبہ یٹھ تعلیمہ متعلق غفلتس
منز پیمیتی تہ امہ ورائی چھبہ تہندک بہ تہ سٹھا
(یکچہ) اعمال بیم تم کران چھبہ۔

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ
إِذَا هُمْ يُجْرَدُونَ ﴿۱۹﴾

پوت تام نہ نیلہ اُسی تمہ اندر آسن بسن وائل
لوکھ عذابس منز ٹران پچھاکہ تہ یکدم چھبہ تم
فریاد کرن ہوان۔

لَا تَجْعَلُوا الْيَوْمَ لَكُمْ مَوْتًا وَلَا
تُنصَرُونَ ﴿۲۰﴾

(تمہ وڑ چھبہ اُسی تمہ وان) از مہ کرو فریاد
ساز طرفہ واہ تہ تہ تہہ کاٹھہ مدد۔

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُنْفِلُ عَلَيْكُمْ فُكْرًا
مِّنْ آخْفَاءٍ لَّكُمْ تَنْكِيحُونَ ﴿۲۱﴾
مُشْتَكِرِينَ فِي سَعْيِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۲﴾

میاؤ آہ اُسی و تہہ پُرتھ بوز ناو نہ ہوان مگر
توہ اُسی و تمہ سستی لاپرواہی ہوان تہ بے ہود
کتھ کران تہ اتھ سستی کبر ہوان اُسی و پتہن
تھورن پٹھ پوت پھپھہ گرتھان۔

أَقَلَّمُوا يَدَبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَّا
لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۳﴾

کیا تمہ لوکو کوزنا یٹھ قولس (یعنے قرآنس)
پٹھ سوتج کچھہ؟ تمہن چھاسہ (وعسہ)
وہ آمت یس تہندک پتہ ہن جہن اجلان
اوس نہ وہ آمت؟

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ
مُنْكَرُونَ ﴿۲۴﴾

(بہ) کیا تمہ پربز لوو ناہ پین رسول نبیہ کہ
باعثہ تم امیک (قرآنک) انکار کران چھبہ؟

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِجَابٌ أَمْ جَاءَهُمْ
بِالْحَقِّ وَآخُتْرَهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُوا ﴿۲۵﴾

کیا تم چھانوان زتس چھبہ مشرہ؟ (مگر
تڑھ کتھ چھبہ) نیکہ چھبہ سہ تمہن کن حق
پتھ آمت تہ تمہ مشرہ چھبہ وریاہ لوکھ حق ناپند
کران۔

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ
فِيهِنَّ ؕ بَلْ آتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ

بہ اگر حق تہندک ناہن ہنر تابعداری کرہے
تہ آسمان تہ زمین بہہ بیم تمہن اندر بسان چھبہ
(ساری) گرتھہ ہن تباہ۔ حقیقت چھبہ بہ نہ

عَنْ ذَكَرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۵۱﴾

اُسی چھ بہن رشت بہتند عزیز تو سامان بہتھ
آؤتو تو تم چھ پستہ عزتہ کہ سامانہ رشتہ

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْجَبُ رَبِّكَ خَيْرًا كَيْفَ
وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقِينَ ﴿۵۲﴾

لُوب ہوان۔
تو چھکسا بہن کا نہہ جرمانہ منکان؟ (تہرہ کہتھ
ہیکہ نہ سیدتھ) تہ کیا ز پائس پروردگار سئند
دیت مت مال چھ سپہا رت تہ سہ (پروردگار)
چھ ساروے رزق دینہ والو کھوتہ رت۔
بیہ چھکھ تہ بہن سیزوتہ کن ناد دوان۔

وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۳﴾

بیہ ہم لوکھ اُترتس پٹھ ایمان چھہ انان ہم
چھ (پڑ) وتہ رشتہ دین وال۔

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّا كِبُؤُونَ ﴿۵۴﴾

اد ہرگاہ اُسی بہن پٹھ رحم کرو تہ یس ضر بہن
واتان چھ سہ کرو دور تہ ہم پکن پنہ روگرافی
منز بیہ ہن تہ بروٹھ۔

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ
لَلْجُؤِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۵۵﴾

بیہ چھ اسہ ہم سہنت عذابس منز گرفتار تھادو ہوتو
توتہ تے پہ تہ ہم پسنس پروردگارس بروٹھ کنہ
عاجزی سان تہ نہ وودھ بروکھ تس بروٹھ کنہ۔
یوتام ز بیبلہ اُسی بہن پٹھ سہنت عذابک
دروازہ پہلہ تروو تہ ہم بہن ناو مید سیدتھ۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَعَاذُوا
لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿۵۶﴾

حَتَّىٰ إِذَا فَتَخْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا
ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ
مُبْلِسُونَ ﴿۵۷﴾

بیہ چھ سہ خدای بیجو تہندہ جاطر کن تہ اچھ
تہ دل پاد کرک ہوتو چھ۔ مگر توہر بھو نہ سٹے
شکر نہ کران۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾

بیہ چھ سہ بیجو توہر زمیںس منز تیار ہوتو چھو تہ
توہر بیو تسو کن سو نہ ہونہ۔

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالَّذِي
يُخَشِّرُوكَ ﴿۵۹﴾

لہ خراج لفظک معنی چھ اسہ تاوان لینے جرمانہ کو رت مگر بیبلہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ بندہ تامل
وتہر پہ ایمیک معنی چھ عطیہ آسان تمیاز خدایہ سہند و تیمیتس مائس چھہ تاوان ونہ یوان
تمیاز سہ چھہ بدن ماتحت۔

بہ چھ سنے میں تو بہ زبرد کران چھو تر میں تو بہ
مارو۔ بہ چھ راتر ہند تر وہک پتھ بروئھدین
تہندر سے اختیارس منزکیا تو ہی چھونا عقلم کام
ہواں ؟

حقیقت چھینہ پہ زہتم چھ سہ سے کتھ فان یلوا
ہتمن بروئھم مو ونے پہ۔

تہو ونیاو تر کیا ییلہ اسی مرو تر میئر گرضو
تر اڑی جہ بنو، اڈیکو اسی بہ سکتہ ؟

امر بروئھ اوس امی کتھ ہند وعلہ اسہ سکتی تر
سانہن جہن اہلادن سکتی تر کرہ امت (مگر
تر سپد تر)۔ ہم تر چھینہ صرف بروئھم ہن ہنہ
کتھ۔

تر ون ہتمن، اگر تو ہی زمان چھو تر (وڈی تو تر
سہی) یہ سارہے زمین تر یہ کینہترھا اتھ منزچھ
کند چھ ؟

بے شک ون تم (امر کس جواہس منز) اللہ
(تعالیٰ) سند، اتھ پیچھ ون تر ہتمن) کیا تو ہی
چھونا گاہ جارک کام، ہواں ؟

(پتہ) ون تر ہتمن، تر سہ ونی آسمان
تر عرش عظیمک رب کس چھ ؟

تم ون تمی دہو (ہم ساری) چھ اللہ (تعالیٰ)
ہندو۔ تر ون ہتمن، کیا اڈ چھونا تو ہی
(نہس خدایہ ہندو کی تباہی ہنہ) بچچ کوکشش
کران ؟

(سیر) ون تر زکو ہندس فیہس منز چھینہ
پر پتھ چیزتج باوشاہی تر سہ چھ (سارہے)
پناہ دوان ؟ تر تہندس عدلس خلاف ہیکہ تر
بیاکھ کانہہ پناہ دتھ۔ ہرگاہ تو ہی زمان چھو
(تیلہ ہیکہ و بہ فکر تر تھ)۔

(پہم سوال پوزتہ) ون تم فورن اللہ (تعالیٰ)

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ
اِخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿۵۱﴾

بَلْ قَالُوا وَمِثْلَ مَا قَالِ الْاَوَّلُونَ ﴿۵۲﴾

قَالُوا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا
ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۵۳﴾

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا هٰذَا مِنْ
قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۵۴﴾

قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَاَمِنْ فِيْهَا اِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۵۵﴾

سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۶﴾

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَاَرْضِ
الْعَظِيْمِ ﴿۵۷﴾

سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۵۸﴾

قُلْ مَنْ يَّبْدِيْهِ مَآكُوتٌ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ
يُحْيِيْهِ وَا لَا يَجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿۵۹﴾

سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنىٰ تُشْحَرُوْنَ ﴿۶۰﴾

بندس (نفسِ مشرِ جھیلے) - اتھ پٹھ ون تہ
(تم) نہ پتہ کوڑکن جھو توئی برم دتھ ہنہ یوان؟
حقیقت چھیلے پہ نہ اسہ چھہ، تمہن بنش حق اومت
تہ تم چھہ جملہ صاف صاف منکر۔

اللہ (تعالے) ہن ہنور نہ کاٹھہ تیچو تہ تس
ستو چھتہ کاٹھہ معبود (اگر تہ آسہ ہے) تہ
پر تھہ معبود نیہ ہے پیڑی پاد کرکری متو چہسز
بیون کر تھہ تہ یو (معبود) اندر کرکری کٹھنہ
کینٹرن پٹھ ملہ۔ اللہ (تعالے) چھہ تہہ رتھہ
پاک یہ بیم کتھہ کران چھہ۔

سہ چھہ فابک تہ علم تھوان تہ حابزک تہ
(علم تھوان) ادریم، تم تسد شتریک بناوان
چھہ، متو تھہ چھہ سہ سٹھا قصود۔

تہ ون! اے میانہ پروردگار! ہرگاہ تہ میانہ
زندگی مشر تہ کینٹھا یا وکھہ بیٹیک، تمہن وعدہ
کر تہ یوان چھہ۔

تہ اے میانہ پروردگار! تہ بناوکر تہ نہ میہ
ظالم قوم مشر۔

بیہ چھہ اسی اتھ کتھہ پٹھ قومدورت تھوان نہ یہ
تمہن ستو وعدہ کران چھہ، تریڈ دموے تہ کاوتھہ بلہ

نہ کر تھنہر بیچھہ کتھہ تڑھو (ہوئی) کتھو ستو
دور بیم نہایت خوب صورت آہن۔ اسی چھہ
تھنہر کتھہ زبر پالمو زانان۔

بیہ ون تہ اے میانہ پروردگار! بہ چھس ستو
پھرن لوکن ہنرو شیطا بلو رتھہ چون پناہ منکان۔

بیہ اے میانہ پروردگار! بہ چھس چون پناہ
منکان تہہ رتھہ (تہ) تہ تم بن میہ بروٹھ کن۔
تہ تہہ وز تہ نیلہ، متو مشر کاٹھہ موت پہہ سہ

بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۱﴾

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ
مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَنْزَلَ إِلَهُ بِمَا خَلَقَ
وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ
عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۱﴾

عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿۱۲﴾

قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِييَنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿۱۳﴾

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴﴾

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ
لَقَدِيرُونَ ﴿۱۵﴾

إِذْ فَعَّ بِالنَّبِيِّ هِيَ أَحْسَنُ الشَّيْئَةِ
تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۱۶﴾

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ
الشَّيَاطِينِ ﴿۱۷﴾

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿۱۸﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ

رَبِّ الرَّجْعُونَ ﴿۱۱﴾

وہ اے میانہ پروردگار! میں نہتہ واپس پھیرتا
میں نہتہ واپس پھیرتا، میں نہتہ واپس پھیرتا۔
یہتہ نہتہ ہوتے جاوے یوں ہر تہاوتہ آمت چس
دینے دنیاہس مفر) مناسب حال عمل کر۔ یہ
سید نہ ہرگز۔ یہ چھہ صرف اکھ اُپس کتے
اوت یوں ہم دنان چھہ۔ یہ چھہ ہم نپڑ کو
اکھ ٹھوڑتھہ دوہس تام نیلہ ہم دو بار ہلنہ
ہن (بہر حال ہم ہن نہ زبہ کر تھہ زہنہ
دُنیاہس کن واپس انہن)۔

لَعَلَّيْكُمْ أَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّمَا تَرَكْتُ كَلًّا
إِنَّمَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن
وَرَأَيْتُهُمْ يَتَزَكَّرُونَ يَوْمَ
يُبْعَثُونَ ﴿۱۱﴾

اد نیلہ پوگس چھو کہ دنہ پیہ تہ تمہ دوہہ
روزن نہ تم دنہ بیان کتہ رنگہ چہ اُتھا و پیہ
ہاتے تہ نہ پڑھن ہم اکھ اُک ستر خبر آہر۔
اد ہیندہ دن گوبہ لگن ہم لو کہ آسن ہامراد۔

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ
يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿۱۲﴾

تہ ہیندہ وزن لوتی لگن ہم لو کہ ہن گاس
مفر (تہ پیڑ زو کرن تباہ) تہ جہنم ہن
روزن ہمیشہ۔

فَمَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۲﴾

نار والہ تہ ہیندن بھین کھس تہ ہم سپدن
اتھ مفر رو سے سیاہ۔

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۱۳﴾

ایسہ پیہ و تہ) کیا توہہ ہر ٹھوڑ کتہ اُسی ناہ
میانہ آہہ پرنہ لوان؟ تہ توہہ اُسی و ناہ ہم
ہنہ انکار کران؟

تَلَفَحَ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَ هُمْ فِيهَا
كَالِحُونَ ﴿۱۳﴾

ہم ون اے سانہ پروردگار! سانہ بدبختی آہہ
اسہ پیٹھ غالب تہ اُسی اُسی اکھ گراہ ہمت۔

أَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تُنزلُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ
بِهَا تُكذِّبُونَ ﴿۱۴﴾

اے سانہ پروردگار! اسہ کڈ تہ ہینہ (جہنہ)
مفر۔ پیہ اگر اُسی (زانہہ ہم گتہ ہن کن) ایسہ
پھیرو نیلہ اُسی نطالم۔

قَالُوا رَبَّنَا عَلَيَاتِ عَلَيْنَا شَقُوتُنَا وَ
كُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿۱۴﴾

(خدا) فرماو (دور سپرو تہ) جہنم گتھو
تہ میں سترہ مہ کرو کتھ۔

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا
ظَالِمُونَ ﴿۱۵﴾

قَالَ اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿۱۵﴾

إِنَّهٗ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ
رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذَاتِنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ
خَبِيرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۱﴾

کہتے چھینے یہ زمیائیں بدن منتر اوس الہ
دور تھیجھ یس دنان اوس نہ اسے سائے پروردگار
اسے چھ اپمان اونمت۔ لہذا تہ بخش تہ اسے
تہ اسے پیچھ کرتہ رحم تہ تہ چھکھ سارہ وے
رحم کرن والہو مغزہ رت۔

فَاتَّخَذُوا ثَمُودَ إِسْخَرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم
ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿۱۲﴾

مگر توہہ ترازی ورتم ٹھٹھس لایق۔ یوت تام
نہرتو مشروو (تہننر دل جسی ہند سامتہ بڑتھا)
توہہ میون یاد تہ توہی رودی ورتن ہمیشہ ہلان۔
تہندہ صبر کرنہ موکھ وپر بہ از ہنن (متاسب
حال) بدلہ۔ بے شک تم سپدن کامیاب۔

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا
أَنَّهُمْ هُمُ الْفَٰئِدُونَ ﴿۱۳﴾

پتہ فرماو سہ (یعنے خداے تعالیٰ) کترن
ورکین رودی ورتوہی زمینہ منترہ
تم ون، اسی چھ اوس دہس یا دہس کتہ
جسس زمینہ پیچھ رودی ورتوہی، تہ پرژھ کترن
والہن۔

فَلَكُمْ لِيَلْتَفِتْ فِي الْأَرْضِ عَدَا سَيِّئِينَ ﴿۱۴﴾

قَالُوا لَيْسَ لَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
فَسْئِلِ الْعَادِيْنَ ﴿۱۵﴾

پتہ فرماو (خدا تعالیٰ) اگر توہی دانائی
کام بیو تہ توہی چھو سبھا تیل ورتس رودی ورتوہی
کیا توہی اسی ورتان نہ اسے چھو توہی کتہ
مقصد ورازی یاد کرکے ورتوہی تہ نہ توہی بیو
تہ اسے کن پھیرتھ انہہ۔

قُلْ إِنْ لِّيَلْتَفِتْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنكُم
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

أَوْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۷﴾

اد اللہ (تعالیٰ) چھ سبھا تھد نشانہ وول،
بادشاہ، تہ قائم روزن وول، تہ قائم تھون
وول۔ نس ورازی چھتہ کانہہ معبود، سہ چھ
عزتہ والہ عرشک پروردگار۔


فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿۱۸﴾

بیہ یس کانہہ اللہ (تعالیٰ) ہس ورازی کانہہ
بیس معبودس او کر نیو سہز کانہہ وپل
اسے نہ، تہ تہ حساب چھ تہس پروردگار
نش۔ حقیقت چھینے یہ نہ کافر چھتہ زانہہ

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا
بِرْهَانٍ لَّهٖ بِهِ، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ
رَبِّهِ، إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ﴿۱۹﴾

کامیاب روزان ۔

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۱﴾
 بیہ و ن تہ ، اسے میانہ پروردگار! معاف
 کر تہ رُحم کر تہ تہ مچکھ سار و بے کھوتہ
 زبر رحم کرن وول ۔



سورة نور : یہ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ پچھ چھ اتھ پانزہ آیتھ ایہ بیہ چھیس نو رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

(ہر چھیس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہتھہ (پر ان) بیس
 حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر
 رحم کرن وول چھ ۔

سُوْرَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲﴾

(یہ) چھ اٹھ بیٹھ سورہ بیس اسہ نازل کورمت
 چھ تہ (بیٹھ پھیل مل کرن) اسہ فرض کورمت
 چھ بیہ چھ اسہ اتھ منتر پھیر گاتہری حکم
 بیان کرکے تہ بیٹھ نہ تہو بی نصیحت کرے ۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً سَدًّا لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا آيَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيْشِهَذَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۳﴾

زنا کرن واجز تہ زنا کرن وول (اگر تم پچھ
 الزام ثابت سپد تہ) تمو منتر دیو پر تہہ کس
 ہتھہ دے ۔ بیہ اگر تہو اللہ (تعالیٰ) ہس
 تہ آخر تہ کس وہ بس پچھ ایمان انان چھو
 تہ اللہ (تعالیٰ) سُنَد حکم بجا افس منتر گرتھ
 نہ تہو بہ بین دہوونی قہس ہنارن مجبرن متعلق
 عارین ۔ بیہ پز ز بین دہوونی بند سنا
 مؤمنن منتر اٹھ جماعت وچھ (اچھو) ۔

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحَرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴﴾

اٹھ زنائی مرد چھنہ زنائی یا مشرک
 زنائہ ورائی کانسہ منتر صحبت کران ۔ چھنہ
 زنائی زنائہ عرتی زنائی یا مشرک مردس ورائی
 چھنہ کانسہ تہ ہم صحبت سپدان ۔ بہر حال مؤمن
 پچھ تہ چھ یہ (کتھ) حرام ۔

وَالَّذِيْنَ يَزْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ

بیہ ہم لوکھ پاکدامن زنانن (بدکاری ہنر)

يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَوْ هُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
أَبْدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٠﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَ
أَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥١﴾

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ آذَٰنًا لَهُمْ وَلَا يَكُونُ
لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعَةٌ شَهْدَاتٌ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٥٢﴾

وَالْعَامِسَّةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٥٣﴾

وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ
شَهْدَاتٌ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٥٤﴾

وَالْعَامِسَّةُ أَنَّ عَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ إِنْ كَانَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥٥﴾

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ
اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿٥٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآلَا فِكِ عَضْبَةً
مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهَا شَرًّا لَّكُمْ ۚ بَلْ هُوَ

توہمت لاگان چھ تو پتہ چھتہ ضرور گواہ پیش
کران تہ (تہند سزا چھ پیہ ز) جن دیو
شہدہ ڈر - بیہ بہتہ شہادت مہ کرو نہتہ
قبول تہ تم لوکھ چھ (پسنہ امر فعلہ کر باعہتہ
اسلامی شریعتہ چہ) فرمانبرداری ہنتہ نمبر -

تہو وراہی ہم پتہ توہم کرن تہ اصلاح کرن ، اذ
اللہ (تعالیٰ) پتہ (یہ کرن پتہ) پڑی پٹھو سٹھا
بختن وول (تہ) پھیر پھیر کر ہم کرن وول -

بیہ ہم لوکھ پسنہن آشتین (بدکاری منز) انترہ
لاگان چھ تہ جن ہنٹ چھتہ پسنہ پانہ وراہی کانہہ
گواہ آسان ، تہ تہو منز گرتہ پرتہ شخص
ترہ گواہی دین یوسہ اللہ (تعالیٰ) سندن
قسم کھیتہ ضرور گواہین پتہ مشتہل آسہ تہ
(پرتہ گواہی منز) ونہ سہ یہ نہ سہ چھ
پڑیا پڑو منز -

تہ پانترہ مہ (گواہی) منز (ونہ) نہتہ پتہ
آسن خدایہ ہنزلعت اگر سہ اپنیا پڑو منز آسہ -

تہ تس آشتہ نہتہ (بس تسند خاوند بدکاری ہنز
توہمت لگہ) کر یہ کتہ عذاب دوز اللہ (تعالیٰ)
سندن قسم باوتہ دیہ سو ضرور گواہیہ نہتہ
خاوند چھ اپنیا پڑو -

تہ پانترہ (قسم کھین) ہتہ پٹھو نہتہ (تعالیٰ)
سند غضب سیدن تس (زنانہ) پتہ تازل
اگر سہ (مانترہ لگن وول خاوند) پڑو پتہ -

بیہ اگر اللہ (تعالیٰ) سندن فضل تہ تہنترہجت
توہم پتہ آسہ ہے تہ بیہ یہ آسہ ہے تہ نہ
اللہ (تعالیٰ) چھ بوڈ فضل کرن وول (تہ) بچہ
حکمتر وول (تہ توہم لوکھ سید ہو تباہی منز) -

بے شک یو اکھ بڑ توہمت لاجایہ ، تم لوکھ چھ
توہمی منز اکھ دور ، توہمی مہ نالو یہ (کتہ) پسنہ

خَيْرٌ لَّكُمْ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا
اَكْتَسَبَ مِنَ الْاَثْمِ، ذَا الَّذِي تَوَلَّى
كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۷﴾

خاطر یہیچھ۔ بلکہ سہ اوس تہنہد باچتھ سبھاہ
رت (تہ کیاز امر کہ باعثہ پہچو توہہ اکھ حکمتہ
بڑتہ تعلیم) تو منتر میاہ پر ہتھ شخصس پوت
تو گناہ کوزرت اوس، تمیک سزا، تہ لیس شخصس
تہ گہ بکہ بڑ جفک ذہہ دار اوس تس میلہ
سبھاہ بوڈ عذاب لہ

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ
الْمُؤْمِنَاتِ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَ قَالُوا
هَذَا فِكْ مُبِينٌ ﴿۱۸﴾

ییلہ توہہ یہ کتھ بوزایو، تہ کیاز کوزہ مؤمن مرد
تہ مؤمن زنانو پسنس توس متعلق نیک ظنون
تہ یہ کوزہ ووکتھ نہ یہ تہ چھ اکھ بوڈ اپڑ۔

لَوْلَا جَاءَهُ عَلَيْهِ بِاِذْبَعَةِ شُهَدَاءِهِ
فَاِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ
عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿۱۹﴾

بہ کیاز اُذ نہ بنو لُوکو (یہویہ اپڑ چھاومت
اوس) تھ پیٹھ ترور گواہ۔ لہذا ییلہ تو گواہ اُذ
تہ تہ اللہ (تعالے) بند قاصد موجب چھ تم
اپڑ یار۔

وَلَوْلَا قَضَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَقَضْتُمُ
فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۲۰﴾

بہ اگر اللہ (تعالے) سد فضل تہ رحمت دنیاہس
منز تہ آخرتس منز توہہ پیٹھ آسہ من نہ تہ توہہ
واتہہ و تہ کامہ بند باعثہ کوزہ تھ منز
توہہ پیتی آسہ و سبھاہ بوڈ عذاب۔

اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّكُمْ وَ تَقُولُونَ
بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ
تَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ
عَظِيمٌ ﴿۲۱﴾

امہ کوزہ تہ توہہ آسہ و سہ (کتھ) اکھ اکیس نش
زبون پیٹھ ہتھ، برونٹھ برونٹھ کینان تہ پینہو
آسہ سوتو لگو و سہ کتھ و تہہ نیمیک نہ توہہ
کاشہہ علم تہ اوس و (خدا تعالے) سید توہہ
پیٹھ ناراض) تہ توہہ آسہ و یہ کتھ معمولی
زانان حالانکہ سہ آس اللہ (تعالے) ہس
نش سبھاہ بڑ (کتھ)۔

وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا
اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا
بُهْتٰكٌ عَظِيمٌ ﴿۲۲﴾

بہ کیاز سید نہ نہ ییلہ توہہ سہ کتھ بوزایو، تہ
یکدم کوزہ وولو نہ یہ چھتہ سانی کام ز آسہ
تارہون یہ کتھ برونٹھ کن۔ اسے خدایہ تہ چھ

يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوذُوا بِالْمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵﴾

پاک یہ چھ سہا بڑا بہتان۔ اللہ (تعالیٰ) چھ تو بہ امرِ قبیح کتھ دو بار کر نہ نشہ ہمیشہ خاطرِ مٹاک کران۔ اگر تو ہی مؤمن چھو۔

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۶﴾

یہ چھ اللہ (تعالیٰ) تمہند خاطرِ پتہ حکم بیان کران تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سہا زانن وول (تہ) حکمتہ وول۔

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷﴾

یقیناً ہم لوکھ یہ پتھان چھ نہ مؤمنن منز تہین بڑی نشہ، تمہند خاطرِ چھ سہاہ کر لوتھ عذاب دنیا میں منز تہ آخرتس منز تہ، تہ اللہ (تعالیٰ) چھ زانان تہ تو ہی چھو نہ زانان۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۸﴾

بہ ہر گاہ اللہ (تعالیٰ) سند فضل تہ رحم تو بہ پیٹھ آسہ ہے نہ تہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ سہا مہربان (تہ) پھیڑ پھیڑ رحم کرن وول آسہ ہے نہ (تہ تو ہی ہی ہو تکلفس منز)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَئِنْ اللَّهُ يُرِيدْ أَنْ يَنْشَأَ دَالِقَةً ذَاتَ سُمُومٍ عَلَى نَجْدٍ مِثْلَ مَا تُرِيدُونَ ﴿۹﴾

اے مؤمنو! شیطانہ سہدن پدین پیٹھ مڑیکو تہ یس اکھاہ شیطانہ سہدن پدین پیٹھ پکان چھ تہ سہ زانن تہ شیطان چھ بڈین تہ ناپند پدہ کتھن ہند حکم دون۔ یہ ہر گاہ تو بہ پیٹھ اللہ (تعالیٰ) سند فضل تہ رحم آسہ ہے نہ تہ زانہہ تہ آسہ ہے نہ تو بہ منز کانہہ پاک باز۔ مگر اللہ (تعالیٰ) یہس یہ پتھان چھ تس چھ پاک باز بناوان تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سہا دعا بوزن وول سہا زانن وول۔

وَلَا يَأْتِيهِمْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَ

یہ تو بہ منز (دپس تہ ڈیہس منز) فضیلت حقون واول تہ وسعت حقون واول لوکھ مہ کینین

لہ یہ تو مس منز بلا تحقیق الزام بازی آسہ تہ تو ہمہتر لاگنہ یوان آسین تہ تمہ منز چھ بڈین ہنزاہمیت کم سپدان تہ جس منز چھ وارہ وار کم بڈیہ تسیلان۔

الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَيَعْفُوا
وَلْيَصْفَحُوا. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ
لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۷﴾

قسم ز اسی کرو نہ سینین امناون تہ مسکینن
تہ اللہ (تعالے) ہنیز و تہ منز ہجرت کرن والہن
مدد-بیہ پیز ز تم آسن معاف کران تہ در گذران
کیا توہی چھونا یہ شہان ز اللہ (تعالے) کر
تہندک خطا معاف ؛ تہ اللہ (تعالے) چتھ
سبھا معاف کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رم
کرن وول۔

إِنَّ الَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَحْضَنَاتِ الْغُفْلَتِ
الْمُؤْمِنَاتِ لِحُنُوفِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۸﴾

یم لاکھ تزھن پاکداسن زنانن تہہمت لاگان چھ
ہکمہ (بد ذاتن ہنیز شرار ز لستہ) غافل آسان
چھیہ تہ ایمان دار آسان چھیہ۔ (تمن و لوکن) پیٹھ
پیہہ و ذی میہس تہ آخرتس مفراعت کرتہ بیہ
آسہ تہند خاطر بوڈ غذاب۔

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾

تہہ دوہہ ینیلہ ز تہنیز ز پوتہ، تہ تہندک اتھ
تہ، تہ تہندک کھور تہ تمن خلاف شہادت دن،
تہندین تمن امانن متعلق یم، تم کران اسی۔

يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ ۖ وَيَنْهَهُمُ الْحَقَّ
وَيَحْكُمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۲۰﴾

تہہ دوہہ دہ اللہ (تعالے) تمن تہند صحیح
بدلہ تہ تم زنانن ز اللہ (تعالے) بیہ چھ کابل
پزر، تہتھ پزر ریس پنن پان پانہ نون کران چھ۔
خبیث کتھ چھیہ خبیث مردن ہند خاطر تہ
خبیث مرد چھ خبیث کتھن ہند خاطر تہ
پاک کتھ چھیہ پاک مردن ہند خاطر تہ
پاک مرد چھ پاک کتھن ہند خاطر
یم ساری لاکھ چھہ تم کتھو لستہ پاک یم (تمن)

الْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثِينَ ۖ وَالْخَبِيثُونَ
لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ ۖ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴿۲۱﴾

ذنان چھیہ، یم نے ہند باپتھ چھیہ بخشائش تہ
عزتہ وول رزق (مقدر)۔

لہ عام ترجمہ کار چھہ آیس یتھکن ترجمہ کران ز خبیث زنانہ چھیہ خبیث مردن
ہند خاطر تہ پاک زنانہ چھیہ پاک مردن ہند خاطر آسان ینیلہ ذنیہس
مفر یتھکن چھیہ بوزہ یوان۔ عربی ز بائی منز چھہ "خبیثات" پیچھ کتھن
تہ پیچھ کابن تہ و سنہ یوان۔ لہذا چھہ اسرہ ای مطابق ترجمہ
کوزمت۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا
تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤَدَّبَ لَكُمْ، وَإِنْ قِيلَ
لَكُمْ اذْجِعُوا فَاجْزِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ،
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ، وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٥٣﴾

قُلْ لِلَّهِ وَمَنِّيَن يَعْصُوا مِن ابْصَارِهِمْ
وَ يَحْفَظُوا أَفْرُجَهُمْ، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٥٤﴾

وَقُلْ لِلَّهِ وَمَنِّيَن يَعْصُضَن مِن ابْصَارِهِمْ
وَ يَحْفَظَن لَفْرُجَهُمْ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لِيُضْرِبَن بِحُمْرِهِنَّ عَلَىٰ
جُبُوبِهِنَّ، سَ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

اے مومنو! پسنبو گرو وراي بين گرن مفر مہ
اوسوا ازان يوت تام توہی اجازت، پنیو نہ، تہ
(اثر نہ برونٹھ)، متن گرن مفر روزن والین گرو
نہ سلام۔ یہ آسہ تہنہند خاطر جان تہ امیکہ نتیجہ
آسہ یہ نہ توہی تھوو (نیک کتھہ ہمیشہ) یاد۔

تہ اگر توہی متن گرن مفر کانہہ لہی ہن نہ تو تہ
مہ اٹرو، متن مفر یوت تام نہ توہہ (گرو والہو
بند کتہ) اجازت مینولت آسہ۔ تہ ہر گاہ
(کانہہ گرس مفر آسہ تہ) توہہ ونہہ پیو نہ روئی
کین گزھو واپس تہ توہہ پیرو واپس گزھن
یہ آسہ تہنہند باہتھ جاو پاکیزگی ہند موجب تہ
اللہ (تعالیٰ) چھ تہنہنہر کامہ زبر پاٹھو زمانان۔

تہنہند خاطر متن گرن مفر ازان چھنہ گنہہک
موجب یمن مفر کانہہ روزان چھنہ تہ تہنہند
سامانہ چھ متن مفر موٹو۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ
بتہ زمانان یہ توہی خاطر کران چھو بیہ بتہ
یہ توہی کھنہتھ تھوان چھو۔

تہ ون مومین زہم آسن پسنبہ اچھ ہون کن
تھوان تہ پستین جایہ سترن ہنہر آسن راجھ
کران۔ یہ آسہ تہنہند خاطر پاکیزگی ہند موجب
یہ ہم کران چھ اللہ (تعالیٰ) چھ تہہہ رتہہ ربی
پاٹھو خیر وار۔

بیہ ون تہ مومین زنان تہ زہم تہ آسن پینہ
اچھ ہون کن تھوان تہ پستین جایہ سترن
ہنہر آسن راجھ کران تہ پینہ پاراو مہ آسن
نون کران تہہہ (پاراو) وراي یس پاڈی پانے بے
احتیاد پاٹھو خاطر سیکان آسہہ تہ پسنبہ پوتہ آسن
پینن وچھن پیٹھو تراوتھ سہ تھایہ تھوتھ دووان

وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
 وَلَا تَشْكُرُوهَا فَتَلِيَّتْكُمْ عَلَى الْبِخَاءِ إِنَّ
 آذَانَ تَحْصُنَا لَتَسْتَبْغُوا عَرَضَ الْحَيَوَاتِ
 الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن
 بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۰﴾

تَمَن مَنز جَانِبِ رُوحِهِو تَمَن سِدِّي كَرُو مَكَاتِهِت
 تَمَن (اگر تَمَن نَش پُور مال آسَر تَمَن) لیس مال
 اللہ (تعالیٰ) مَن تَوْبِهِ دَبِیت مَت مَجْهُو تَمَب
 مَنز دِلو کَیْبَت مال (تَمَن تَمَنبَر آزادِی بِنَاو مَمکن)
 بیه مہ کَر یُوکھ تَوْبِهِ پَسَنہ کَنبَنز بد کَارِی پُٹھ
 مَجْهُور ہر گاہ تَمَن نیک رُوژن مِیژہان آسَن۔

یَقْتِ تَمَن تَمَنبَر اَمَر مَمَس دُنیاوی زَمَدِی ہند سَا مَن
 سَم مَس رُوو، اِدِیس کَا شَرہا تَمَن مَجْهُور کَر۔ تَمَن
 اللہ (تعالیٰ) چھ تَمَن (زنان) مَجْهُورِ پَسَتہ
 سَمہا بَخْشَن وول (تَمَن پِچھری پِچھری رَم کَرن
 وول) سَم کَر نِو تَمَن گَرَت)۔

تَمَن آسَر چھ تَوْبہ پُٹھ نَنی نَنی نَشانہ تَا زِل کَر
 مَمَر بیه بِل م لُکھ تَوْبہ مَرُوٹھ گُڈر مِکُوت پِچھ
 تَمَن مَدِ حَلت تَمَن چھ بِلان کَر مَمَر تَمَن مَمَقِن
 ہند خَا طَر چھ مِ لَفِچھ تَمَن کَٹھ تَمَن بِلان کَر
 مَنز۔

اللہ (تعالیٰ) چھ آسَن ہند تَمَن نور تَمَن پَنک
 تَمَن تَمَن نور تَمَن کَمفیت چھ مِ بیه زَن زَا کھ طاقِہ
 آسَر بَیٹھ مَنز کھ تَمَن آسَر (تَمَن) سَم تَمَنگ
 آسَر اُکس شِشُون فُونُوس مَنز (تَمَن) سَم
 شِشُون فُونُوس آسَر تَمَن مَنز پَر ہَز لان زَن تَمَن
 کھ نِیہ نِیہ کَرُون تَمَن آسَر (تَمَن) سَم تَمَنگ
 آسَر کھ تَمَن بَر کَر تَمَن وَا لہ کَلہ یَلنہ زَمَنون (کَر
 تَمَن) سَم تَمَن زَالنہ پِلان تَمَن سَم (کَل) نہ آسَر
 مَشْرِقی نہ مَغْرِبی۔ زَمَنہ وُز تَمَن تَمَن تَمَن زَمَن ہَمِیہ
 اِدِ نارتھ چھ مَمَت مَمَت تَمَن مَمَن تَمَن (بیه تَمَنگ)
 چھ وَا رِیا مَن نُورن ہَنز سَم مَمَن (معلوم سِپلان)۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا
 مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً
 لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۱﴾

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَثَلٌ نُورٍ
 كَمُشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، الْمِصْبَاحُ فِي
 زُجَاجَةٍ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
 يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ
 لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ، يَكَادُ زَيْتُهَا
 يُضْيِئُ، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، نُورٌ عَلَى
 نُورٍ، يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ، وَ
 يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۱﴾

لہ سَم کَل نہ آسَر مَشْرِقی تَمَن مَغْرِبی۔ اَمَ کَل س چھ مَنز تَمَن مَغْرِبی۔ اَمَ کَل س چھ مَنز تَمَن مَغْرِبی۔ اَمَ کَل س چھ مَنز تَمَن مَغْرِبی۔ اَمَ کَل س چھ مَنز تَمَن مَغْرِبی۔

اللہ (تعالیٰ) یمن پستہ نور با پتہ بیترہان
چھ (تمن) چھ ہدایت دیوان تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ لوکن بند خاطر (سارے ضروری) کچھ
بیان کران بیہ چھ اللہ تعالیٰ پر چھ اکھ چھ
رہی پانچ زانان۔

یم (شکر) چھ تعین گرن منز یمن تمزدیک
اللہ (تعالیٰ) ہن حکم بیت مت چھ تہ تمن منز
چھ خدایہ سند ناو بہن یوان (تہ) صحن تہ شامن
چھ تمن منز تسبیح کرہ یوان۔

کینہ مرو چھ یمن اللہ (تعالیٰ) سہتر ذکر نشہ
تہ نماز قائم کرہ نشہ تہ زکوٰۃ دینہ نشہ، نہ
چھ تجارت تہ نہ تہند سودا کنن حاضر کران۔
تم چھ تہ دوہس کھوتران بیہ دوہہ دن گزہ
تک پہلہ تہ اچھ گزہن چھ تہ۔

نتیجہ آسہ بیہ زر اللہ (تعالیٰ) دیر تمن تہندین
اعمالن ہند رہت کھوتہ رت جزا تہ تمن کرہ پستہ
فضلہ سوتی ہرہر (ماس تہ اولادن منز) تہ
اللہ (تعالیٰ) یس بیترہان چھ تس چھ حساب
ورای رزق دیوان۔

تہ تم لوکھ یو کھ کوہ بہندہر اعمال چھ کہہ بیابانی
سرکولہ پانچ یچہ تہ نشہ ہوت آب زانان چھ،
یوت تام زہ میلہ تہ تہ نشہ یوان چھ تہ سہ چھ
تہ کہنی لہان تہ اللہ (تعالیٰ) ہس چھ تہ
نش وچھان اچھ اللہ (تعالیٰ) تس تہند پور
حساب چھکولان تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سہا جلد
حساب چھکولان والہو اندہ۔

فِي بُيُوتِ إِذْنِ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَهُ وَيُذَكَّرَ
فِيهَا اسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ ۝

رَجَالَ، لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنِ
ذِكْرِ اللَّهِ، وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتِ
الزَّكَاةَ، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝

لِيُجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ
يَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، وَاللَّهُ يَزِدُّ
مَن يَشَاءُ بِعَدْرِ حِسَابٍ ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ
بَقِيحَةٍ يَخْشِبُهَا الظَّمآنُ مَاءً،
حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَ
وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابًا،
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

لہ خدای نور انک ثبوت چھ بیہ مرس منز تہ آسہ سہ لہر دنی بیہس منز تہ عزت
تہ سہ گہ روزہ ہمیشہ عبادتہ تہ ذکر الہی سوتی آباد۔

لہ صحراون منز چھ تا پہ سوتی نیہ، نیہ کرمان یکہ شاٹھ آہ، سہر بیوہ بوزنہ یوان
مگر تحقیقن چھ بیہ صرف گنہ نخلستانک یادریاؤک اکھ عکسے اوت آسان۔

یا چھ (تمن کافرن بند بن اعلان ہنر حالت) اتن
 ان گن ہنر ہش یکم اُکس شہس سمدرس پٹھ
 چھاوتھ آسان چھینہ بیتھ پٹھ ملکہ ووتھ وئی آسان
 چھ تہ تمن ملکن پٹھ چھ بیہ ملکہ ووتھ وئی آسان
 تہ تمن سارن پٹھ چھ اکھ او بر آسان یکم چھینہ
 تہ تمن ان گن آسان یکم اکھ اُکس پٹھ چھاوتھ آسان
 چھینہ ییلہ انسان پین اتھ کدان چھ تہ کوشش
 کرٹھ تہ چھنہ سہ تتھ وچھتھ ہیکان تہ نیم ہند
 خاطر اللہ (تعالیٰ) نور بناو تہ تن چھنہ کنہ کنہ
 نور میلان۔

کیا تہ چھکھتا وچھان تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سہ
 زیم آسان تہ زمین ہنر روزان چھ ہتم ساری
 چھ تہنرے سبح کران تہ (وڑ وئی) جاناوار
 چھ صف گنہ تہس بروٹھ کبہ حاضرتہ تمو
 ہنر چھ پر تہ اکھ (پسنہ پسنہ پیدائش مطابقت)
 پنر نماز تہ پنر سبح زنان تہ یہ کینر ہاتھ کران
 چھ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ تہ زبر پٹھ زنان۔
 بیہ آسان تہ زمین ہنر بادشاہت چھینہ اللہ
 (تعالیٰ) ہنرے تہ اللہ (تعالیٰ) ہبے کن چھ
 سارن پٹھ چھ گرتھن۔

کیا تہ وچھتھنا تہ اللہ (تعالیٰ) چھ اورن وار
 وار کبھ ووتھ اتان پتہ چھ تمن درمیان میل پٹھ
 کران پتہ چھ تمن تہہ ہر تہہ بناوان۔ پتہ چھکھ
 تہ وچھان تہ تمو اندر چھ رڈ وکن ہوان تہ
 سہ چھ او بر ہنر سٹھا بڑ باڈوک چیز والان۔
 یو ہنر کینہ ووتھ کر تہسکی آسان چھ اد چھ
 تتھ واتان بیتھ (توس) تام یئیرہ تہ بیتھ نش
 ہنرھان چھ (تہ ہنر) چھس بیتھ رمان۔ زرتہ
 وئی تہنر ورتھ ہنر پرلو کر کینہ اچھ ان۔
 اللہ (تعالیٰ) چھ رات تہ ووتھس (اکھ اُکس پتہ)

أَوْ كَلَّمْتِ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ
 مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ
 سَحَابٌ ظَلَمْتُ بِحُضَاهَا فَوْقَ بَعْضِ
 لِأَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْهَا وَمَنْ
 لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿۱۹﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتْ كُلُّ
 قَدَعِلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۲۰﴾

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ
 الْمَصِيرُ ﴿۲۱﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ
 يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا
 فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْقِهِ وَيُنَزِّلُ
 مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ
 فَيُصِيبُ بِه مَن يَشَاءُ وَيُضْرِفُهُ عَن
 مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقَم يَذْهَبُ
 بِالْأَبْصَارِ ﴿۲۲﴾

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۷۰﴾

گروش دوان ۔ اتھ منز چھ گاشاران ہنسہ
خاطر بڑ عبرت ۔

وَاللَّهُ خَلَقَ حُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۚ
فَمِنْهُمْ مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ بَطْنِيهِ ۚ وَمِنْهُمْ
مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّن
يَّمْشِي عَلَىٰ آذَانِهِ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۷۱﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن چھ پر پتہ کین وول جانور آبہ نشہ
پاد کوزمت او کینہ تہ چھ تھو یکم پستہ یڑ پیٹھ
پکان چھ تہ کینہ چھ تھو یکم (پستہن) دوان پدن
پیٹھ پکان چھ تہ کینہ چھ تھو یکم ترون پدن پیٹھ
پکان چھ ۔ اللہ (تعالیٰ) ۛ بیٹھان چھ تہ چھ پاد
کران تہ اللہ (تعالیٰ) چھ پر پتہ کتہ چہر س پیٹھ
قودرت تھوان ۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مُبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ
يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿۷۲﴾

اسر چھ مئی نئی نشانہ نازل کرکوتہ تہ اللہ (تعالیٰ)
یس بیٹھان چھ تس چھ سیزوتہ کن ہدیت دوان ۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ
وَآتَعْنَاكَ قَرِيبًا مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ
ذَلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۳﴾

بہ چھ ہم زمان ز اسر افون اللہ (تعالیٰ) ہس
تہ تہدس رسول پیٹھ ایمان ، تہ اسر کوز اطاعتک
وعدہ تو پتہ چھ تھو منز اکھ دور (پستہ اقرار نشہ)
پھیران تہ پیٹھ لوکھ چھ تہ ہرگز مؤمن ۔

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۷۴﴾

بہ بییدہن اللہ (تعالیٰ) تہ تہدس رسول کن
او کئی ناد چھ دہ پون بیٹھ ز سہن درمیان
فاصلہ کر تہ تھو منز چھ اکھ دور لوہ ہوان ۔
تہ اگر کانہ کتہ تہدس حقس منز اسر تہ ہم بہ
یکدم اطاعتک اظہار کران یوان ۔

وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ
مُذْعَبِينَ ﴿۷۵﴾

کیا تہدس دن دن منز چھا کانہہ بیارک ؟ کتہ ہم چھ
شکس منز پیٹھ یا ہم چھ کھوتان ز اللہ (تعالیٰ)
تہ تہدس رسول کر تھن پیٹھ ظلم ؟ تہ تھ چھ تہ ہرگز
بلکہ ہم چھ پانہ ظالم ۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى
اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَّقُولُوا
سَوَعْنَا وَآطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۷۶﴾

مؤمنن بییدہ اللہ (تعالیٰ) تہ تہدس رسول کن
ناد دہ پیہ ز سہ کر تھن درمیان فاصلہ تہ تہدس
جواب چھ یہ آسان ز اسر بوز تہ اسر مون ، تہ
تہکے لوکھ چھ کامیاب سپدن روزان ۔

وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ ۚ

تہ یکم لوکھ اللہ (تعالیٰ) تہ تہدس رسول تہ اطاعت

وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ ۚ

يَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۵۰﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن
آمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا
بِطَاعَةِ مَخْرُوفَةٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿۵۱﴾

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلَ
عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۵۲﴾

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونََنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۳﴾

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۴﴾

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي

کرن تو اللہ (تعالیٰ) بس کھوڑن تو تشد تقویٰ
کرن اختیار تم چھو بامراد سیدان۔

بہ چھو تم لوگ اللہ (تعالیٰ) بندگی پوختہ قسم
کھولان تو اگر تو تم حکم دیکھ تو تم نیرن یکدم
گرو منتر نمبر۔ دیکھو! قسم مہ کھیند سون
حکم چھو تو ہر طرف تہ اطاعتک یوسہ عام
پاٹھو اطاعت زانہ یوان چھین۔ اللہ (تعالیٰ)
چھو یقینا تمہ رتہ خیر دار یہ تو ہی کران چھو۔

تو ون اللہ (تعالیٰ) ہنر اطاعت کرو تو تندر
رسول ہنر اطاعت کرو۔ اور اگر تم پھیرتہ گنہن
تو اوس (رسول) پیٹھ چھین صرف سوسے دہر وارکی پ
تندر ذمہ تھاوتہ آمبر چھین تو توہ پیٹھ چھین سوسے
دہر وارکی یہ تہند مٹ تھاوتہ آمبر چھین تو اگر تو
تہنر اطاعت کرو تو ہی لبو ہدایت۔ تو رسول ہنر
ذمہ چھ صرف کتہ واش کڈتہ واتناونی اوت۔

اللہ (تعالیٰ) ہن چھ توہ منتر ایمان ان والہن
تو مناسب حال عمل کرن والہن سوتی وعدہ کور مت
زس بناوتہن زمینہ منتر خلیفہ بیتہ کئی تہن برڈھ
لوگ خلیفہ بناوہتہ ہن آس۔ بہ لیس دین تہ تہند
خاطمہ پسند کور مت چھ سہ کر تہند خاطر تہ مغبولی
سان قایم تو تہنر خوفہ چہ حالہ پتہ کر سہ تہند
خاطمہ آمنس منتر تبدیل۔ تم کرن میانی عبادت
دو کر چھیزس بناون تو میون شریک، تو ہم لوگ
اس پتہ تو انکار کرن تم بین نافرمانہ منتر کتہ روتہ۔
بہ کرو تو ہی ساری نماز قایم تو زکوٰۃ دلو تہنیس
رسول ہنر اطاعت کرو بیتہ نہ توہ پیٹھ دم کرہ

بہ۔
(بہ اے مخاطب!) زانہہ کرک زہ خیال نہ

الْأَرْضِ وَمَا دَهُمُ النَّارُ وَالَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿۵۱﴾
 کفار کران اسم ز مہبتہ مشر پسنو تدرہ پرو ستر
 عاجز۔ تہ تہندہ ٹھکانہ چھ جہنم تہ سہ چھ سبھا
 یکچہ ٹھکانہ۔

اے مومنو! پز یہ ز تم لاکھ یمن ہند کر مارک
 تہند کر ڈھینڈ اچھ چھ (یعنی غلام) بیہ تم یکم و نر
 بالغی و آڈ ہتر آسن نہ، تم آسن ترین وقتن مشر
 اجازت ہتہ اندریان۔ صبح چہ نماز بروٹھ، سیدہ دیکر
 وقتہ نیلہ توہی پز پلو نالہ کران چھو، سیدہ نمہ متن
 نماز پیتہ، یکم ترید وقت چھ تہند کر پردہ کر وقت
 یکم وقت پیتہ (اند پش گڑھنس پیٹھ) نہ چھ
 توہہ پیٹھ کاٹھہ گناہ نہ چھ تمہن پیٹھ کاٹھہ گناہ۔
 تہ کیاز اکثر توہہ مشر چھ کینہہ کینشن کش و زوز
 یوان گڑھان روزان۔ یتھے پٹھو چھ اللہ (تعالے)
 پینڈی حکم واش کڈتھ بیان کران تہ اللہ (تعالے)
 چھ سبھا علمہ وول (تہ) حکمتہ وول۔

بیہ نیلہ تہند کر شرکر بالغ گڑھنس تہ یتھے پٹھو
 آسن اجازت ہوان یتھ پٹھو تمہن بروٹھ (تہند کر
 بڑی) اجازت ہوان آس۔ یتھے پٹھو چھ
 اللہ (تعالے) پینڈی حکم تہند کر خاطر بیان کران بیہ
 چھ اللہ (تعالے) سبھا زان وول (تہ) حکمتہ
 وول۔

بیہ تم زمانہ یکم زن سجر گامشہ جمعید تہ نیتمرس
 لایق چھنہ تمہن پیٹھ چھنہ کاٹھہ گناہ ہر گاہ تم پینڈی
 پلوٹہ و اہتہ تھوان یتھ پٹھو تر پارو کران نہ
 نون۔ تہ تہندہ سچتھ روزان اسم تہندہ خاطر بہتر
 تہ اللہ (تعالے) چھ سبھا بوزن وول (تہ)
 زان وول۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
 الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ
 الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ
 الظَّهْرِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ
 عَوَارِثٍ لَكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا
 عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوَافُونَ
 عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ؕ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ؕ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۱﴾

وَاذْأَبَلَةً الْأَطْفَالَ مِنْكُمْ الْحُلُمَ
 فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ ؕ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ؕ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۱﴾

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَبْزُجُونَ
 زَكَاتًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
 ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجِينَ بِزِينَتِهِنَّ ؕ وَ
 أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ؕ وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۱﴾

يَا زَيْنِبُ لِمَ مَلَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ لِمَ
يَتَّخِذُ وَاوَدًا لِمَ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ
تَعْقِيْدًا ۝۱۰

سے (یعنی سوزات) تینو بندیں قبض منز آسمان
ہنر تہ زمین ہنر پادشاہی چھینہ بیہ تینو کا نہہ
تینو چھینہ بنومت تہ تینو ہنر پادشاہی منز کا نہہ
شریک چہ تہ بیہ تینو ہر تہ چیز پاد کورمت چھ
بہ چھن تہ خاطر کہ انداز مقرر کورمت۔

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ لَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَ لَا يَمْلِكُونَ
مَوْتًا وَ لَا حَيَاةً وَ لَا شُؤْرًا ۝۱۱

تہ تو لوگو چھ تمس (خلائق) وراہی معبود بناو تہ
تھاوہ ہتو ہم کبھی (تہ) پاد چھینہ کران حالانکہ
تم چھ پانہ پاد کر تہ یوان بیہ ہم پستہ ذاتہ
خاطر نہ چھ کتہ نوقصان دنس پٹھہ قودرت تھوان
نہ نفع دنس پٹھہ۔ تہ چھ ہم متو کہ مالک تہ نہ
زندگی ہندہ تہ نہ بہتہ زندہ گتہ صتھہ ووتھہ کی۔
تہ کافر چھہ ومان نہ یہ تہ چھہ صرف کہ اپز بیس
تہ بنومت چھہ تہ اتھ بناو تنس منز چھہ بیہ اک
قومن تمس اتھ روٹ کورمت اہ متو لوگو چھہ
(یہ کتہ کرتھ) سبھا بوڈ نظم کورمت تہ سبھا
بوڈ اپز وومت۔

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ
بِأَفْرَاسٍ وَ آعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۝۱۲
فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَ زُورًا ۝۱۳

بیہ چھہ تم ومان نہ یہ (یعنی قرآن) تہ چھہ پانہ
لوکن ہندہ قصہ ہم تہو (کاسمہ اتھ) لیکتاو کہ
متو چھہ۔ تہ وونی چھہ ہم صبحن تہ شامن اہس
بروتھہ کتہ پڑتھہ ہوزاوتہ یوان (تہ زان سہ برتہ
پاٹھو قرآن لیکھ)۔

وَ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَلْكَتَبَہَا فَبِہِی
تُمَلِّ عَلَيْهِمْ بَكْرَةٌ ۝۱۴ وَ آصِيْلًا ۝۱۵

تہ ومان نہ یہ (قرآن) تہ چھہ تہو (خلائق) تا نزل
کورمت بیس آسمان تہ زمین ہندہ رازن ہند
رازی کار چھہ سہ چھہ سبھا بخش مار (تہ) پھیر
چھیرہ رحم کرن وول۔

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ
وَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّه كَانَ غَفُورًا رَحِيْمًا ۝۱۶

بیہ چھہ ہم ومان نہ تینیس رسوئس کیا چھہ گومت۔
نہ سہ چھہ کہن تہ کھوان تہ بازارن منز تہ چھہ
چھیران تھوران۔ اہس پٹھہ کیا زہ اونہ ملا یک
تا نزل کر تہ بیس سہو وودنہ روزتھہ لکن ہشار
کرہے۔

وَ قَالُوا مَا لِيَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
وَ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۚ لَوْ آآ أَنْزَلَ إِلَيْهِ
مُلْكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ تَزْيِيْدًا ۝۱۷

أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنُزًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ
يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ قَالَ الظَّالِمُونَ إِن
تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّشْحُورًا ﴿١﴾

یا اُمس پیٹھ پیسہ ہے کاشہ خزانہ والہ یا اُمس نش
آسہ ہے کاشہ باغ میںکو مہو سہ کھینے ہے ۔ تہ
ظالم چہر فان ز توہی تو چہو اُمس نبھس اناس
پتہ پکان یس کہن کھیاوتہ یوان چہ۔

أَنْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٢﴾

وچہ ! تزیہ متعلق کہ کہ کتہ چہہ ہم بن دان
تہ ہم چہہ گراہ گاوتہ اماپوز بین چہہ (ٹھیک
کتہ کر بیخ) کاشہ و تھ میلان ۔

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ
ذَلِكَ جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا ﴿٣﴾

سپٹھا برکت وول چہہ سہ خدا یس ہر گاہ سیرتہ
تہ چاہہ خاطر کر (تہند تجویز کرے متہ) تہ
(باغہ) کھوتہ سپٹھا برکت باغ پاد بین (ہندن
سایں) تل نہر پکان آسن تہ چاہہ خاطر
کر بچہ مند ورتیار ۔

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ
كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿٤﴾

پز چہہ یہ ز ہم لکھ چہہ قیامتہ ہند انکار کران
تہ اس چہہ تہند باچہ یس قیامتہ ہند منکر
آسہ شولنہ مارن والہ مذاک انتظام کر تہ
تھومت ۔

إِذَا رَأَوْهَا مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا
تَغَيُّطًا وَزَفِيرًا ﴿٥﴾

ییلہ سہ (یعنے جہنم) ہنن دفر پیٹھ وچہ تہ تم
بزن تمیک گریزن تہ (پسہ والہ) مہیستہ آواز۔

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا
مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿٦﴾

اد ییلہ تم تہرا جہنمہ) چہہ اُمس تنگ باغیہ مغز
تہ کھور گتہہ ڈارتہ دہ بین تہ تم کرن تہہ وز
مرکت تہا ۔

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا
ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿٧﴾

اد ورن خدیہ ہندک ملایک تمن) از مہ کرو اکہ
موتک تمنا بلکہ کرو سپٹھاہ موتن ہنن خاطر
(تہ کیاز توہہ پیٹھ چہہ پھہری پھہری عذاب بینہ
والہ) ۔

سہ یعنی اُمس چہہ نیرم لکھ امداد ووان ۔
سہ عربی زبان مغز چہہ جہنم "مونت مگر کاشرس مغز چہہ یہ منکر ۔ لہذا چہہ ترجمہ
تمی حسابہ کرنہ امت ۔
سہ ز فینیرہ مصیبت (المفروات)

سہ یعنی اُمس چہہ نیرم لکھ امداد ووان ۔
سہ عربی زبان مغز چہہ جہنم "مونت مگر کاشرس مغز چہہ یہ منکر ۔ لہذا چہہ ترجمہ
تمی حسابہ کرنہ امت ۔
سہ ز فینیرہ مصیبت (المفروات)

قُلْ أَذِلَّكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي
وَعِدَ الْمُتَّقُونَ، كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ
مَصِيرًا ۝۱۱

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ، كَانَ عَلَى
رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ۝۱۲

وَيَوْمَ يَخْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ قِيْقُولُ، أَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي
هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝۱۳

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ
تَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ، وَلَكِنْ
مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ
وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝۱۴

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ، فَمَا
تَشْتَرِيْعُونَ صِرْفًا وَلَا نَصْرًا، وَمَنْ يَظْلِمِ
وَنَكْمُ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۝۱۵

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا
إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي
الْأَسْوَاقِ، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
أَنْ تُضِلُّوا، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝۱۶

تر وں، تم نے یہ (انجام) چھا بہتر کہتے ہمیشہ
جنت! یہ تمہیں متقین سے وعدہ کرنے آمت پہ
سے آسے تمہند (پور پور) بدلے تمہیں آخری ٹھکانے۔

تم نے میری تہہ منتر تہہ کینٹھا یہ تمہیں بہتر ہے، تم
تم روزن تہہ منتر ہمیشہ بسوڑی، یہ چھ اگہ تہہ
وعدہ یس پور کرن چاہیں پروردگار سے پیچھے واجب ہے۔
یہ نیلے سے (خلا) تمہیں تہہ تمہندیں اپڑن
معبودن پانس بروٹھ کینے استاد کر تہہ پتہ وین
تمہیں، کیا توہمہ اسی و امیانی یم بندہ گمراہ
کرتے ہوتے؟ کہتے تم اسی پانے سینڑوتہ نشتر
ڈلے ہوتے؟

تم دن جواب (اد) تہہ چیکھ پاک آسے اوس
نہ کاٹھہ حق نے اسی بناو ہوکھ تہہ وراہی بدل
وجود پینڑ کارساز۔ مگر تہہ کوڑھہ تمہیں لوکن تہہ تمہند
جدن اجلان ذیادوی مال دولت عطا یوت تام نہ
تہہ ترصن (چون) یاد مشتراوتہ تہہ ہلاک سپدن
وول قوم بنے یہ۔

لہذا (گفاریں پیسہ و تہہ نہ روچھو) یہو اپڑو
سعبودو اپڑو تمہند کتھہ۔ او کوڑی از تہہ ہیکو
توہی عذاب دور کرتھہ تہہ نہ ہیکو کاٹھہ مسد
حاصل کرتھہ، تہہ یس کاٹھہا توہہ منتر ظالم چھ
اسی و اتنا و تہہ بوڑ عذاب۔

یہ تہہ بروٹھہ سیتے تہہ رسول اسے سوزی ہوتے اسی
تم ساری اسی کہیں تہہ کھوان تہہ بازن منتر تہہ
اسی پھیران تھوران۔ یہ چھ اسے توہہ منتر کینہہ
کینٹھن ہند خاطر آزمائشہ ہند ڈریوہ بناوکر
ہوتے۔ (یہ وچھہ خاطر) نہ توہی (مسلمان) چھوا
سپر کران (کہتے نہ؟) یہ (اسے مسلمان) چون
پروردگار چھہ (حالات) چاہے وچھن وول۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ۖ
لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلِيكَهٗٓ أَوْ نُرِي
رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
وَعَتَوْعَتُوٓا كِبِيرًا ﴿۱۷﴾

بیر تمویم سائز ملوقا تیج وہ مید چھتہ تھوان وون
نراسر پیٹھ کیانر آپہ نہ ملا یک تانزل کرنر؟ یا اسر
کیانر چھن نہ پنن رب پسنبو اچھو وچھان، تمو
چھہ پسنبان دن منز پنن پان سبھاه بوڈ نیال کوربت
تہ سرکشی منز چھہ سبھہا بروٹھہ دراپڑ۔

(ہم لاکھ جینا زمانان نر؟) نیبہ دوہہ تم ملا یکن وچھن
تمہ دوہہ میلہ نہ مجھرم کنہی نموشخبر۔ بیہ دن
تم (کابرتھہ اسر نش) روربو دورہے۔

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ
حِجْرًا مَّخْجُورًا ﴿۱۸﴾

بیر کور اسر توتہ تہننیز پرتہ تمہہ جیر علمہ کن، یوہہ تمو
کر مہتر اس تہ تم بناو اسر واوس منز چھانر آتہن
گرور ذرن ہندک پانٹو۔

جنتی لاکھ آسن تمہ دوہہ بھکانہ کر حسابہ تہ رتہ۔ تہ
آلاسہ جابو حسابہ تہ آسن تم تھدرن تعامس پیٹھ۔

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴿۱۹﴾

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا
وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿۲۰﴾

بیر (کرو) سہ وہہ (تہ یاد) نیلہ آسمان چھٹہ تہ
اوبر اسر سلا پیٹھو گمان تہ ملا یک پن چھپرک چھپرک
تانزل کرنر۔

تمہ دوہہ پیہہ پادشاہی پڑو کنی رحمان (خداہ)
ہندس تبس منز بوزنہ تہ (یہ) وہہ اسر کافرن
پیٹھ جابو سخت۔

تہ اسر دوہہہ دینا لم پسنبان اتھن شڑی (تہ) ونہ
اسے کاش! میہ اسرہے رولس سرتی و تمہ
رٹھپر۔

ہے بد نصیبی! کاش میہ اسرہے نہ فلانی شخص یار
بنومت۔

تو کورس بہ خداہ ہندہ ذکر رتہ غافل۔ حالاکہ سہ
آیاو (رسولہ ہندہ وسیلہ) میہ رتہ۔ تہ شیطان
چھہ انجر انسانس کورسے زرنس تراوتھہ گزھان۔

بیر وون رولن، اسے میانہ پرور بگاہ! میانہ قومن تہ
چھہ یہ قرآن تھہر پتھہ کن تراوتھہ ترصمت۔

و يَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاوُ بِالْعَمَامِ ۖ
نُزُلِ الْمَلَائِكَةِ تَنْزِيلًا ﴿۲۱﴾

أَلَمْ لِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ، وَ
كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿۲۲﴾

و يَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ
يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿۲۳﴾

يُوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿۲۴﴾

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذٍ
جَاءَنِي، وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنْسَانِ
خَدُوًّا ﴿۲۵﴾

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي
اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿۲۶﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿۲۱﴾

تہ اسے چھ بیٹھے پاٹھو مجھو منہ سارکے نبیوں ہندو دشمن بناؤ گے۔ تہ چون پروردگار چھ ہدایت دے تہ مدد کرے کہ حسابہ (بلکل) کٹائی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِيُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿۲۲﴾

بیہ وزن کافرو۔ قرآن کیاز آونہ اُس (نبیوں) پیٹھ اکی لٹہ نازل کرنے بہ تہنہ دن تہ چھ اکر رنگہ جان (مگر اسے کوز سہ نعتت سورن تہ نعتت وقتن منہ) اوکے (نازل) نہ اُس روزو امہ (قرآن) کہ ذلیعہ چلون دل ڈرلوان بیہ چھ اسے یہ پیش تو بصورت بنومت۔

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿۲۳﴾

بیہ (چاہے تردید خاطر) چھ تہ تم کانہہ کتھ کران بیٹھ درجاب اُس اکر اُر تہ ڈر کتھ کرو تہ تہ پنج برتہ کھوتہ رتہ تشریح کرو تہ۔

الَّذِينَ يُخَشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ لِأَمْحَأَتِهِمْ، أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۲۴﴾

بیم لوکھ تہنہ سردار ہتھ چہنہس کن بہنہ پن تہنہ تمام اسے سہا بیٹھ تہ تہنہ روتھ اسے جادے گراہی ہنہ۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ آخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا ﴿۲۵﴾

بیہ اُس اسے موسیٰ ہس اکر (زانی ہنہ) کتاب ڈرہنہ بیہ اوس اسے تہس سہتو قوم سہد بوسے ہارون تہ مددگار بناوتھ سوزست۔

فَقُلْنَا اذْهَبْ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا، فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿۲۶﴾

تہ اسے اوس (بتن) دو نمت نہ توہی دونوں گزہو تہ تہ قومس کن پیموسا کی اپہ ایزاؤر ہتھ چھ۔ اہ (سینہ) تہو تسلیغ کوز) اسے گزی تہم ایزاون واد بلکل تہاہ۔

وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ، آغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً،

بیہ نوح سہ قوم چھاٹہ نوو اسے آیس سینہ تہو رسولن ہند انکار کوز، تہ اسے بناؤر تہم لوکن ہند

تہ قرآن کریم وار وار نازل کرنس منہ اُس یہ مصاحت نہ اکر گزہہ یہ سہل پاٹھو یاد تہ بیہ اُس سورس منہ بیان کرنہ اہنہ ہیشگولی سیلہ پوز گزہہ تہ بیس سورس منہ بیہ تمیک ذکر کرنہ یہ سہتو مومن ہند اہمان مضبوط گزہہ۔

تہ آل چھ تہہ چیز خاطر تہ یون ہمیک ذکر بروٹھ سپدنت اسے یا ہمیک خیال دماغس منہ اسے۔ اوکے چھ اسے اکتب نفلک ترجمہ "زانی ہنہ کتاب" کوز مت۔

وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

خاطر اگہ نشان بیہ چھ اسے ظالمین ہندہ خاطر
دگہ دار عذاب تیار کر تھ تھومت۔

وَعَادُوا شَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا
بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿١٧﴾

بیہ عادی، تہ تمود تہ، تہ کبریٰ اول لاکھ تہ بیہ
تہن در بیان بیہ واریہ قوم تہ (تہ صوم اسے تباہ کر تھ)۔

وَكُلًّا صَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ زَوْجًا
تَبْرًا تَأْتِيهِمْ ﴿١٨﴾

بیہ کڑ اسے تمومنز پر تھ قوم با تھ حقیقت بیان
تہ (تیلہ نہ فکر توڑ لکھ تہ) ساری کڑ اسے ہوک۔

وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ
مَطَرًا سَوَاءً أَقَلَّمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا
بَلْ كَانُوا لَا يَتْرُجُونَ نُشُورًا ﴿١٩﴾

تہ ایم (ہو کڑ سافر) چھ تھ بستی کنی کڈرے
موتی چھ پیٹھ اگہ تکلیف نہ وول رُود والنہ آنت اوس۔
کیا یکم چھنا تھ (یعنی بستی ہندین نشانن) کن
وچھان، حقیقت چھ یہ نہ ایم کسی نہ دو بار
وہ تہنچ وہ میدے تھوان۔

وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا
هُرُودًا أَهْلَ الَّذِينَ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٢٠﴾

بیہ نیلہ تم تری وچھان چھی تہ تری چھی اگہ ٹھہ
مخولک چھیز زنان (تہ ونان چھو) کیا اللہ
(تعالے) ہن چھایہ شخص رسول بناوتھ نوزمت؟

إِنْ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْتِنَا لَوْلَا أَنْ
صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ
حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ
سَبِيلًا ﴿٢١﴾

اگر اسی پستہن معبودن پیٹھ تاہم روز ہو نہ
تہ یہ (شخص) ہے بجاو اسے جنہن نش گمراہ
کرنہ تہ نیلہ ایم عذاب وچھن تہ یمن سپد ضرور
حقیقت معلوم نہ کس اوس پستہن طور طریقن
منز جاو گمراہ۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٢٢﴾

(اے رسول!) کیا تری کورتھاس شخصہ سند حال
تہ معلوم مینو پیٹھ نفسانی ارمان مین معبود بناو کہ
کیا تہ چھکھاس شخصس پیٹھ بکلان؟ (نہ تہ
رٹہ ہن نہ زور گمراہی نشہ تھ)۔

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ
يَعْقِلُونَ، إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ
هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾

کیا تری چھیا باسلان نہ تمومنز چھ واریہ بوزان
یا تمہن چھ فکر تھن؟ تم چھ فقط مینن ہند
پاٹھی بکد تھرایہ گمراہ کئی تموکھوتہ تہ بدتر۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ

(اے قرآن کہ منطبع!) کیا تری چھے نام معلوم

۱۰ ابن عباس چھ فرماوان نہ ایم اسے قوم تمودک اگہ حصہ۔ (بحر محیط)
۱۱ یعنی لوط علیہ السلام سہن بستی۔

نہ چاقی پروردگار ان کتھہ پاٹھو چھہ سایہ زہیڑومت؛
اڊ ہرگاہ سہہ بیڑھہ ہے تہ تھہ تھاوہے اُکس
جایہ ٹھہراوتھہ۔ پتہ بنو اسہ آفتاب تھہ پیٹھہ
اکھ گواہ۔

پتہ چھن اُس سہہ وارہ وارہ پانس کُن لُتھہ ان ہوان۔
تہ سہہ (خدا) چھہ میو لاتھہ تہندہ خاطرہ لباس
بناو تہ بندہر بناون آراکھ باعش تہ دوہہ
(بنوون) پتھہ لک تہ ترقی ہند سب۔

بیہ چھہ سہہ (خدا ہی) میو ہوا پسنہ رحمتہ
برونٹھہ تھہ شجرہ دہ خاطرہ سوز تہ اسہ چھہ او برہ
منزہ پاک (تہ صاف) آب وولت۔

بیہ زن اُس تہہ دس مؤومت ملک زہرہ کرون
تہ پتھہ پاٹھو کروک تہہ (آہر) سترہ پتہز
پاڊ کڑ ہتہ چار وائی تہہ واریاہ انسان سیر۔
بیہ تیلرو اسہ سہہ (آب) متن (انسان)
منزہ زہرہ پاٹھو بیہ زن تہہ نصیحت لبن مگر لوکو
منزہ چھہ واریاہ لوک کھڑ ورائی کنہ کتھہ پیٹھہ
راضی سپدان۔

اڊ ہرگاہ اُسہ بیڑھہ ہو تہ پرتھہ بستی منزہ
سزہ ہون اکھ ہتیار کرن وول (نبی یا مامور)۔

او کو مہ مان تہ کافرن ہنز کتھہ تہ نیہہ (قرآن)
کہ ڈرلیہ کر متن سترہ بوڈ جہاد۔

بیہ چھہ سہہ (خدا) میو نہ سمندر کپن وک ہتہ چھہ

وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاحِلًا ۖ ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿۲۵﴾

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿۲۶﴾
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا
وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿۲۷﴾

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ
يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً طَهُورًا ﴿۲۸﴾

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدًا كَثِيرًا وَنُقِيبَهُ وَمَا
خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِيًّا كَثِيرًا ﴿۲۹﴾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ۚ
فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِذَا كُفُّوا ﴿۳۰﴾

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
تُذِيرًا ﴿۳۱﴾

فَلَا تُطِيعُ الْكٰفِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ فِي
جِهَادٍ كَبِيرٍ ﴿۳۲﴾

وَهُوَ الَّذِي مَدَّجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا

۱۔ یعنی آفتاب کو چھہ پتہ لگان نہ ترہاے اسہ زچہ یا ترھوٹ۔
۲۔ یعنی شام سپنہ پتہ چھہ ترہاے ختم گرھان۔ بیٹھہ پاٹھو میلہ قوم منزلس کُن

پکان چھہ تہ تہندہ اقتدار چ ترہاے تہ چھینہ ترھوٹہ ہوان۔

۳۔ سماء: آسمان تہ او بر (آفتاب)

۴۔ رؤفانی آب یعنی اسلام پمچ تعلیم۔

عَذِبَ فُرَاتٌ وَهَذَا مَلْحٌ أجاجٌ ۖ وَجَعَلَ
بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿۵۱﴾

یہو منزہ اکھ چھ تہ سبھا میوٹھ تہ بیاکھ چھ نوہ
دار (تہ) میوٹھ تہ تمو (اللہ تعالیٰ ہن) چھ ہمین
دونوی منزہ باگ اکھ ٹھور تہ تیہ سامانہ بنومت نہ تم
چھ اکھ اُکس دُور تھاوان تہ رکنہ چھکھ نہ دوان۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا
فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا ﴿۵۲﴾

بہ چھ سے (خلایس) نیمو آہیہ نشہ انسان بنو
اد چھ تس کئہ ساعتہ نسب بناوان تہ کئہ ساعتہ
چھس صفہ بناوان تہ چون پروردگار چھ پرتھ
چیزس پیٹھ تاور۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ
ظَهِيرًا ﴿۵۳﴾

تہ بیم (کافر) چھ اللہ (تعالیٰ) ہس ورایی
تہنہز عبادت کران بیم نہ چھ تمین نفع دتھ بہان
تہ نہ چھ تمین تکلیف واتناوتھ بہکان تہ کافر
چھ ہمیشہ پیسنس پروردگارس ایفہ تسدن جاری
کرنہ آمتین سلسن (خلاف آسان۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۵۴﴾

اد اسہ چھکھ تہ صرف بشارت دہن وول تہ
پشیر کرن وول بنومت۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ ۖ إِنْ أَنَا
شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَيَّ سَبِيلًا ﴿۵۵﴾

تہ وول تمین تہ ہر چھسو تہ توہہ امیج (یعنی خلیہ
سند پیغام واتناوتھ) کانہہ ضروری منگان۔ وہو
گوو ہرکھ کانہہ شغوس پیسنہ مرضی ستو بیستہ
تہ پیسنس پروردگارس کن گتھن واجبی دتھ
پرلو (سے آہہ میون بدلہ)۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ
وَسَيَحْمَدُهُ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ إِذْ تُؤَيَّبُ
عِبَادًا ۚ حَبِيرًا ﴿۵۶﴾

بہ کر تہ تس پیٹھ توکل یس زہد چھ (تہ سارہ
چھ زہد تھاوان) نہ پیٹھ چھہ مران بہ کر تہ
ہندن تقرین ستو ستو تہ ستر تہ تہ
سہ چھ پیسنہن بدن ہندو گوہ ہونشہ زہر پانگو
خبردار۔

لہ فورات نفلک معنی تہ چھ میوٹھ تہ عذب نفلک معنی تہ چھ میوٹھ او بکنی
چھاسہ ترجمہ "سبھا میوٹھ" کورمت۔

سہ یعنی نطفہ نشہ۔ سہ نسک گوہا ستر پیر بند اکھ نفر تہ صفا گو ہورلو منزہ
اکھ نفر۔ یعنی پرتھ انساں چھینہ نہ حیثیتہ آسان۔ کانہہ بند چھ نیچو آسان تہ کانہہ ہند زامتر۔ تیہ
کو کانہہ ہنر چھینہ کور آسان تہ کانہہ ہنر نوش۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى
الْعَرْشِ ۗ الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ خَبِيرًا ﴿۱۰﴾

سے (خدا) سبھی آسمان تو زمین تو یہ کثیر تھا، تم
درمیان چھ (دیکھ ساری چیز) چھن شہن زمان
منزل پاد کروی ہوتی پتہ سید سے مطبوطی سان عرش
پہنچے تاہم (سے) چھ رحمان۔ اور تو پر ترہ تس
متعلق وار پانچو کاتبہ خبر تھوں وائس (انسان)۔

وَلَا ذَا قَبِيلٍ لَهُمْ أَشْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ
قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَّا نَسْجُدُ لِمَا
تَأْمُرُنَا وَذَادَآهُمْ نُفُورًا ﴿۱۱﴾

بیر قبیلہ، تمہیں ورتہ یوان چھ نہ رحمان بروٹھ کتہ
وہو سجدس تو وان چھ، رحمان کیا چیز چھ!
کیا اسی کروا تس بروٹھ کتہ سجدہ لیند (یعنی
یس بروٹھ کتہ سجدہ کرنک) نہ حکم ووان چھکے
تو یہ کتہ چھینہ تمہیں نفرتس منزہ بیہ ہن تو ہر ہر
کران۔

تَبَرَّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿۱۲﴾

برکت واجبہ چھینہ سوہستی تیسو آسمانس منزہ تارکن
ہند ٹھہرنک مقام بناو ہوتی چھ، تو تھہ منزہن
پر بزلون ٹرونک تو نور دہ واجبہ زون بناو ہوتی۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً
لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿۱۳﴾

تو سے چھ بیو رات تو دوہ اکہ اکس پتہ بیہ وار
بناو ہوتی چھ۔ تس شخصہ ہند (رقابہ) خاطر
یس نصبت حاصل کرنی سیتھہ یا شکر کرن
ول بند ہن پیتھہ۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى
الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قَالُوا سَلَامًا ﴿۱۴﴾

تو رحمان بندو (پڑیاری) بند چھہ تم آسان
ہم زمینہ پہنچے عاجزی سان پکان چھہ۔ تو سیدہ
جابل تمہیں سبتی کتہ کران چھہ تو تم (چھہ تمہیں
سبتی ٹرون بلکہ) چھکھ وان نہ اسی چھہ تہند
خاطر سلامتی ہند دعا کران۔

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
وَقِيَامًا ﴿۱۵﴾

بیہ تم لکھ ہم پستہن پروردگار ہند خاطر (پند)
را نہ سجدان منزہ تو وودتہ روزتھ گذاران چھہ۔

۱۰ خبیر سے چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرویس اللہ تعالیٰ ہن سینہن صفات ہند علم
پہنچہ و حیر سبتی دیتت چھہ۔

۱۱ سیرج، پر بزلون ٹرونک یعنی آفتاب۔ آفتاب نور چھہ ذاتی آسان تو زونہ ہند نور چھہ آفتاب
نورک پر یو آسان۔

تہ تم (رحمان ہندک بندہ) چھ دنان - اسے سائے پروردگار! اسے بخش کر تہ جہنمک عذاب (اور تمیک عذاب چھ اگھ سبھا بڑ تباہی)۔
سہ (جہنم) چھ عارضی ٹھکانہ زنگی تہ یکھ تہ مستقل ٹھکانہ زنگی تہ (یکھ)۔

تہ تم (اللہ تعالیٰ ہندک بندہ) چھ تھو آسان نہ سیدہ خرچ کران چھ تہ فضول خرچی چھنہ کران تہ نہ چھ کجوسی کران تہ تہند (خرچ) چھ بین دولتی حالتی درمیان آسان۔

بیہ تم لوگھ چھ تھو آسان نہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی چھنہ کانسہ بیس معبودس آلو دول تہ نہ چھ (شرعی) حقہ وراہی تھس زوس قتل کران تیسس اللہ (تعالیٰ) ہن حفاظت بخش مہن آسہ تہ نہ چھ تم زنا کران تہ یس کاشٹھا بہ تھہ کام کر سہ وچھ پسنہ گوہر ہک جزا۔

قیامتہ دوہر پینہ تہندہ خاطر عذاب تھور کر تہ سہ مہر تھہ منز ذلاتہ سان روزان۔

تس وراہی تینو توبہ کوز تہ ایمان اون تہ ایساہ مطابق کرن علمہ او پم لوگھ آسن تھو نہ اللہ (تعالیٰ) بدلو تہنہ بڑی نیکیں ستو۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ بوڈ بخش وول تہ مہربان۔

بیہ یس توبہ کر تہ تمہ مطابق کر عمل تہ تہ سہ شخص چھ بڑی پاٹھو اللہ (تعالیٰ) ہس کن نماں۔

بیہ تم لوگھ تہ (چھ اللہ تعالیٰ ہندک بندہ) بیہم اپڑ گواہیہ چھنہ روان تہ سیدہ فضول کتھو کوز گزان چھ تہ مری دیا دمی پاٹھو چھ (تمن منز شاہل سپدنہ وراہی) گزان۔

بیہ تم لوگھ تہ نہ تہندس پروردگار ہندک آہ نیلہ تمس

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٥٦﴾
إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٥٧﴾

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٥٨﴾

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٥٩﴾

يُضَعَفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٠﴾

۴۱- إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦١﴾

وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٦٢﴾

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٦٣﴾

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ

يَخْرُجُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ⑤

یاد پادشہین تہ تم سنو چھنہ زرن تہ انہن ہند
(ہجو) ورتا کران۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ⑥

تہ تم لوکھ تہ (چھ رحمان ہند کریم پیہ ونان
روزان چھ، ز اے سائہ پروردگار! اسہ کر پینہن
آشنہن ہند کنہ تہ اولادہن ہند کنہ اچھن ہند
شہرچار عطا۔ تہ اسہ بناو متقین ہند امام۔

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا
وَيُلْقَوْنَ فِيهَا حِجَابًا وَسَلَامًا ⑦


کرم چھ تم لوکھ بین تہ بند نیکی پیہہ تاہم روزنہ
کر باعنتہ (جنس منہ) ڈہر ڈالانہ دنہن تہ
تمن بین تہہ منہر دعاونہ تہ سلامتی ہند کر پیغام
بینکھ واتاونہ۔

خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقْرَرًا
وَمُقَامًا ⑧

تم گزرنہن تمن منہر روزان۔ سہ (جنت) چھہ
عارضی روزان جایہ ہند رنگی تہ سبھا زبرہ مستهل
روزان جایہ رنگی تہ (چھ سبھا زبر)۔

(اے رسول!) ترون تمن ز میا بس پروردگار
تہند کیا پروا سے اسہ۔ ہرگاہ تہند طرفہ دعا
(تہ استغفار) سپر نہ۔ اد میلہ توبہ (الہی
پیغام) اپزووو تہ تمیک عذاب روز (وہ
توبہ) لرتھ گزھان۔

قُلْ مَا يَخْبَوُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ
فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ⑨



سورة شعراء، یہ سورہ چھ مکی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ نہ تھ تہ اٹھوہ آہ بیہس گاہ رکوع۔

يَسْأَلُهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ⑩

(یہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سنداوت ہتھ (پران) بیس
حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھری پھری رحم کرن
وول چھہ۔

ظاہر (تہ) سمیع (تہ) مجید (خدا چھ یہ سورہ تاہل
کرن وول)۔

طسّم ⑪

لہ بیتہ سورہ شعراءس منہر چھ وکت طہارت تہ دعا پچ قبولیت تہ بزرگی حاصل کرنہ
زرایع بیان کرنہ آہو۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ①

یہ آیہ چھ تہ کتاب ہند کی ہوسہ (پہلی مضمون) داس
کڑتھ بیان کران چھینہ۔

كَلَّا بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ②

شاید تہ تراوہ بین پان ہاکست منتر نہ تم کیا نہ چھین
مؤمن بنان۔

إِنْ نَشَأْ نُزِيلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً
فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ③

اگر اسی پیشہو تہ آسمانہ والو تمں پیٹھ اکھ تہیتھ
نشانہ نہ تہتھ بروٹھ کتہ گرتھن تہنہر گرتھ نہ
تہتھ روزتھ۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ
مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ④

بہتہن نش چھین رحمان (خدایہ) ہند طرفہ زاہنہ کانہہ نوو
ذکر یوں نہ بہتہ نشہ لکھ لوب ہون چھین ہون۔

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِه
يَسْتَهْزِءُونَ ⑤

اڈ (تہ کیا نہ) تمو چھ (خدا تعالیٰ ہند کی آیہ) اپڑاؤر
تہ تہ کس تہتھس منتر گرتھ ضرور تمں پیٹھ تہتھ
صہد بخ حقیقت تہتھ۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ
قَبْلِ ذَٰلِكَ كَرِيمٍ ⑥

تم چھنا زمینہ کن وچھان نہ اسہ چھ اکھ منتر
تہما تہتھو نفہس جوہ وو پڑاؤر تہتھ۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ⑦

اکھ منتر چھ اکھ بوڈ نشانہ مگر تمو منتر چھینہ واریاہ
اپہان انان۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑧

تہ یقینا چھ چون پرور دگارہے غالب تہ پھیر پھیر
رحم کرن وول۔

وَلَا تَنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنِ اثْنَتَا الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ⑨

بہہ (کریاد) بیلیہ چان پرور دگارن موسیٰ ہس ناد
دژاؤ (تہ ونیاس) نہ تہ گرتھ ظالم تومس ہش۔

قَوْمٍ فِرْعَوْنًا، أَلَّا يَتَّقُونَ ⑩

یہ فرعون ہندس تومس ہش (تہ تمں دن نہ) کیا
تم چھنا تقویٰ پانساوان؟

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ⑪

تمو دن (جوہس منتر) اسے میانہ پرور دگارہ! تہ
چھس کھوتراں نہ تم گرتھو نہ میںہ اپڑاؤر تہ۔

وَبَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَاكِي
فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ⑫

بہہ میون سپنہ چھ تنگی محسوس کران تہ میانہ نہ
چھینہ (ہرتی پاطھی) پکان۔ اڈ کتہ سوزن تہ ہارون
تہ (میںہ ستی)۔

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ⑬

بہہ (چھینہ یہ کتھ تہ نہ) تمں (لوکن) ہند چھ میںہ

خلاف اہل الزام تہ ، تو بہ جیسے کموزن زتم بینہ
میںہ قبل کرن ۔

فرعونس ، ہرگز نہ ، لہذا (سون محکم بوزتھا) گڑھو
توہری وہ نوے ساڈی آئیہ ہتھ ، اسی روزو توہرہ (تو
تہندہ بن سوتو باجہن) سوتو بیہ روزو (تہندہ کر دغا)
بوزن ۔

لہذا فرعونس نقش گڑھو تہ تس و بوزر اسی چھ
رب العالمین (خدا) ہندہ سوزی سوتو ۔

(یہ حکم ہتھ) نہ اسہ سوتو سوزکھ بنی اسرائیل ۔

اتھ پیٹھ وون نس (فرعون ، اے موسیٰ) اسہ
چھکھ ناتر تہ وقتہ روچھت سیلہ زن تہ وونہ
شرے اوٹکھ تہ تریہ چھتہ پستہ وانہ ہندہ
واریاہ وری (تہ) اسہ منہ گڈراڈی سوتو ۔

تہ تریہ چھتہ سہ کار کوٹت یس تہ کر تہ گوٹت
چھکھ تہ تہ چھکھ (ساتن اسان ہند) دشکری کرن
وول ۔

(موسیٰ بن) وون نس سوٹام (میںیک تریہ اشارہ
کوڑتھ) کریا پیہ میںہ تہ وری میںہ میںہ تحقیقک
پے اوس نہ ۔

اوپون تہ کس تہیں منہ میںہ بہ توہر کھوت سو تہ
بہ تروٹس توہر نش اتھ پیٹھ کوڑ میںہ پنہ پروردگان
حکم (یعنی تہوٹک مقام) عطا تہ بہ بنوٹس رٹولو
منہ (اکہ رسول) ۔

تہ یہ (شری لاری منہ میںہ رچچ) نعمت میںیک
تہ میںہ پیٹھ احسان تھوان چھکھ کیا (یہ) میںیک
اتھ کتہ متقابل پیش کر تہ تہ تریہ چھتہ بنی
اسرائیل ہند سوسے قوم غلام بناوتھ تھومت ؛
اتھ پیٹھ وون فرعون (شرمنہ سیدتہ تہ کتہ ڈالہ

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ
مُشْتَمِعُونَ ﴿۱۰﴾

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوَا ۖ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾

أَنْ أَرْسَلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۲﴾
قَالَ أَلَمْ نُكْرِكْ لَكُمْ فِينَا وَلِيدًا ۖ وَلِيئْت
فِينَا مِنْ عُمَرَاكُ سِنِينَ ﴿۱۳﴾

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَك الْيَتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ
الْكَافِرِينَ ﴿۱۴﴾

قَالَ فَعَلْنَاهُمْ آدَاءً ۖ أَأَنْتَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۵﴾

فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَكُمَا حِفَّتَكُمْ فَوَهَبَ لِي
رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۶﴾

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ
بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۷﴾

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸﴾

مولا، یہ رب العالمین کسُ چھ ؟ (تیسری بند طریقہ
 یں تو ہی بیان کران چھو) ؟
 (موسیٰ ہن) دوپس، آسمان تہ زمین تہ یہ کینہا
 بین دونوںی منز باگ چھ، تمہن ہند پروردگار (چھ)
 رب العالمین)۔ اگر توہہ منز پڑھ کر پڑج خواہش
 چھتے۔

اتھ پیٹھ وون فرعون پاس انڈر پھو کین لوکن
 کیا تو ہی چھونا، بوزان ؟ (نر موسیٰ کیا دچھ وون)۔
 جواب دیشس (موسیٰ ہن پسنہ گوڈو بگہ بیا ریخ
 تشریح کران)۔ سٹے یس تہند تہ پروردگار
 چھ تہ تہند بن بدن اجلان ہند تہ اوس پروردگار۔
 (اتھ پیٹھ) دوپن (یعنی فرعون اے لوکو!) تہند
 یہ رطل یس توہہ کن سوزنہ آمت چھ، چھ فرور
 فائر۔

(موسیٰ ہن زون نر سہ چھ کتھ ڈالو بیٹھان تہ)
 دوپن سٹے چھ (رب العالمین) یس مشرک تہ
 پروردگار چھ تہ مغربک تہ (پروردگار چھ) بیہ
 یہ کینہا تمہن دریاں چھ (تہند تہ چھ پروردگار)
 شرط چھ یہ نر تو ہی نیو عقلہ کام۔
 فرعون وون (اتھ پیٹھ، طیشس منز بیٹھ) اگر
 میہ وراہی تریہ کانہہ دوپم مہود ہنو تھ تہ
 کرتھ تہ ماد۔

تو (یعنی موسیٰ ہن) وون۔ اتھ صولس منز بیٹھا
 نر بر اہر تریہ نش (حقیقت حاس) واش کڈن
 وول کانہہ چہر تہ ؟ (یعنی معجز)۔
 فرعون وون (اتھ پیٹھ) ہر گاہ تہ پزور چھکھ تہ
 ان تہ !

اڈ تو (یعنی موسیٰ ہن) لوسے پنن عامہ زہنہ
 پیٹھ تہ اچانک (وچھ فرعون ہندو لوکو نر) سٹے
 چھ وادگار دریتھ۔ یوان اکھ اچھ در۔

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۱۵﴾

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿۱۶﴾

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿۱۷﴾

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ
 لَمَجْنُونٌ ﴿۱۸﴾

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَحْقُلُونَ ﴿۱۹﴾

قَالَ لَيْسَ اتَّخَذَتِ الْهَاعِيرِي لَأَجْعَلَنَّكَ
 مِنَ الْمَشْجُونِينَ ﴿۲۰﴾

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿۲۱﴾

قَالَ فَأْتِ بِمِثْلِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الصّٰدِقِينَ ﴿۲۲﴾

قَالَ لَقَدْ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ مِثْلُكَ مُبِينٌ ﴿۲۳﴾

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلتُّظْرَيْنِ ﴿۲۴﴾
 تہ تم کو کوز پین اتھ (پسنہ کڑھ منتر) تہ
 ساروہے وچین والہو وچھ ہنگتہ منگہ نہ سہ
 پچھ پریون (سچین ہیو)۔

قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ
 عَلَيْهِمْ ﴿۲۵﴾
 اتھ پیٹھ وون فرعون پسنہن اندر کچھ کین سردان
 بہ تہ پچھ کتسم بوڈ زانی کار جوڈگر۔

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
 بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿۲۶﴾
 پچھ بیٹھان نہ پسنہ جاڈکہ ذریعہ ترہو و
 توہہ تہنہر منگہ منتر کلا تھ، او کوز وڈ تو توہی

كَيْفَ مَشُورٍ جَهْوِ دُونَ ؟
 تہو وون، تمس تہ تہنہس بائیس ترازو اکینٹرن
 دوہن (ڈینجر تہ مختلف شہرن کن سوزناو کینہ
 نفریم (قابل انسان) سہ نہر تھہ ہیکن۔
 ہم پر تھہ بیڑس جوڈگرس تہ بیڑس زانی کارس تریہ
 بش ان۔

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلَيْهِمْ ﴿۲۷﴾
 اتھ پیٹھ آپہ ساری جوڈگر اکیس زانی بیٹس دوہس
 پیٹھ سونہر لونہ

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّخْلُومٍ ﴿۲۸﴾
 تہ لوکن او ونسہ کیا توہی چھوا ساری (اکیس
 مقصدس پیٹھ) کیو ہر سپدن خاطر تیار کینہ نہ؟
 بیٹھ نہ ہر گاہ جوڈگر غالب سپدن تہ اسی کپوتہنہس
 ونس پیٹھ۔

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿۲۹﴾
 لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ
 الْغَالِبِينَ ﴿۳۰﴾
 تہ لوکن او ونسہ کیا توہی چھوا ساری (اکیس
 مقصدس پیٹھ) کیو ہر سپدن خاطر تیار کینہ نہ؟
 بیٹھ نہ ہر گاہ جوڈگر غالب سپدن تہ اسی کپوتہنہس
 ونس پیٹھ۔

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّمَا
 لَنَا لَآجِرٌ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿۳۱﴾
 اتھ پیٹھ وون فرعون پسنہن اندر کچھ کین سردان
 بہ تہ پچھ کتسم بوڈ زانی کار جوڈگر۔

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَلْمُقَرَّبِينَ ﴿۳۲﴾
 اتھ پیٹھ وون فرعون پسنہن اندر کچھ کین سردان
 بہ تہ پچھ کتسم بوڈ زانی کار جوڈگر۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْلُ أَمَّا أَنْتُمْ فَمَلْءُونَ ﴿۳۳﴾
 اتھ پیٹھ وون فرعون پسنہن اندر کچھ کین سردان
 بہ تہ پچھ کتسم بوڈ زانی کار جوڈگر۔

فَالْقَوْمَ إِجَابًا لَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ وَقَالُوا بَعْدَ
 فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿۳۴﴾
 اتھ پیٹھ وون فرعون پسنہن اندر کچھ کین سردان
 بہ تہ پچھ کتسم بوڈ زانی کار جوڈگر۔

فَالَفَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ
 اتھ پیٹھ وون فرعون پسنہن اندر کچھ کین سردان
 بہ تہ پچھ کتسم بوڈ زانی کار جوڈگر۔

مَا يَأْفِكُونَ ﴿٦٠﴾

وچھان لوگ سہ تہند بن اپڑن ستیاناس کر تہ لہ

قَالِقِي السَّحْرَةَ سُجُودِينَ ﴿٦١﴾

اد آہ جو دگر (خدا لیس بروٹھ کین) سجدس والہ۔

قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٢﴾

(تہ) تمو وون، اسی چھ رب العالمینس پیہٹھ ایمان انان۔

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٦٣﴾

یس موسیٰ تہ ہارون سند پروردگار چھ۔

قَالَ امْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ

اتھ پیہٹھ وون (ترکھ گرتھتھ) فرعون، کیا

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ

میاد حکم دین بروٹھ اولوا توہہ ایمان؟ یہ

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَهُ لَا قَطْعَانَ أَيْدِيكُمْ

(دستوں) چھ بے شک تہند کتام سردار تہم

وَأَزْجَلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصَلْبَتَكُمْ

توڑی جو ہتھنڈا ورتی چھتو لبنا جلدی

أَجْمَعِينَ ﴿٦٤﴾

کرو توہی (پن انجام) معلوم یہ ترہنکھ

قَالُوا الْأَضْيَارَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٦٥﴾

تہند کہ اتھ تر کھور (پسند) خلاف ورزی

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا

ہند باعثہ ترہتھ تہ توہی ساری کھالو واد کولیس۔

لَنَا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٦﴾

تمو وون (اتھ مشن) چھنڈا کاشہ حرج پتو لاکن

چھ اسی پنس پروردگار کتنے چھ تہ گرتھ من اول۔

اسی چھ وو مید کران نرسون پروردگار کر سنی

گو ناه امر باعثہ معاف نہ اسی بنے یہ سارو

کھوتہ بروٹھ ایمان ان والہ اندر۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي

بہ کر اسہ موسیٰ ہس کن وحی نہ ترہنکھ میا فی

إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿٦٧﴾

بند روتس رات کڈتھ، توہہ بیہ بروٹھ باچتھ) پتہ لارہ۔

فَأَرْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ خَشْرِينَ ﴿٦٨﴾

اتھ پٹھ سوزن واد فرعون شہن کن جمع کرن اولو نفر۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٦٩﴾

(یہ دنان) نہ یم لوکھ (یعنی بنی اسرائیل) تہ

وَأَنذَرْتَهُمْ لِنَالِ الْغَاطِطُونَ ﴿٧٠﴾

چھ اکھ لوکھ ہش جماعت۔

وَأَنَّا لَجَمِيعٌ خَائِرُونَ ﴿٧١﴾

تہ کر تھ تہ چھ ہم اسہ ترکھ کھالان۔

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٧٢﴾

تہ اسی چھ اکھ (بڑ) جماعت۔ ہم سبھا حبسہ پکوتی

چھ (او کو پڑ اسہ تہند مقابلہ کرن)۔

اد (ای بہان) ترہو اسی تم (یعنی فرعون تہ تم)

سوزن جماعت) کر تھ باغو تہ ناگو،

وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۱۱﴾

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۲﴾

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿۱۳﴾

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعِينَ قَالَ أَعْضَبُ

مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿۱۴﴾

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۱۵﴾

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ

بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَأَنْفَلَقْ فَمَّا فُتِقَ

فَزَفَىٰ كَالْأَطْوَادِ الْعَظِيمِ ﴿۱۶﴾

وَأَذَلْنَا ثُمَّ الْأَخْرِيِّينَ ﴿۱۷﴾

وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۸﴾

ثُمَّ آخَرْنَا الْأَخْرِيِّينَ ﴿۱۹﴾

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾

وَلَا رَيْبَ لَكَ لَهْوَ الْحَزِينِ ﴿۲۱﴾

وَإِذْ عَلِمْتَهُمْ نَبَأَ ابْرَاهِيمَ ﴿۲۲﴾

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿۲۳﴾

قَالُوا نَعْبُدُ آبَاءَنَا مَا فَنظَلُّ لَهَا عِزِّينَ ﴿۲۴﴾

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ كُفْرًا إِذْ تَدْعُونَ ﴿۲۵﴾

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ ﴿۲۶﴾

تہ خزانہ تہ عزتہ والہ ملکہ منبر۔

بیٹے سپید۔ تہ اسہ کرکے متن (چیزیں) ہند وراثت
بنی اسرائیل۔

پتہ دراپہ صبح کہ وقتہ ہم (یعنی فرعون تہ تو ہند
تو کہی لاکھ بنی اسرائیل رشتہ منکھ) متن ہے۔

ادہ نیلہ دونوں درہن اکھ اگس پیٹھ نظر پینے تہ
موسیٰ ہندو ساتھیو وڈن، اُس تہ آیہ رشتہ۔

(موسیٰ بن) دوپ نکھ بیڑہ کتھ سپد تہ ہرگز، میوں
پروردگار چھ میہ سستی، تہ سہ ہاومیہ کاسیالی ہنر و کتھ۔

اتی کر اسہ موسیٰ ہس کن وچی نہ پین عاصہ لاین سندس
پیٹھ۔ بیٹھ پیٹھ (سندر) پیٹھ تہ تمیک پرچہ

مگر ہنوتن اکھ بڑ باہ ٹھنگو پٹھ ہوزن یں۔
تہ تہ ہوز اُون اسہ دویم دور (یعنی فرعون سندس

دور) نزدیک۔
تہ موسیٰ تہ تہ ہند بن سستی باہن دیت اسہ نجات:

تہ دویم دور چھاٹو نوو اسہ آہس۔

اتھ (سپدس) منز چھ اکھ یوڈ ہنشا تہ مگر بیرو (میکرو)
منز چھن واریاہ مانان۔

تہ چون پروردگار چھ یقینا غالب (تہ) چھیر کر چھیر
رہم کرن وول۔

ہیں ہوز ناوکھ یکم ابراہیمہ سند واقعہ پڑتھ۔

نیلہ تو پینس ہاہس تہ پینس توس وڈن، توہر
کہ چیز بیج عبادت چھو کران؟

تہ وڈن اُس چھ پوتہ پین ہنر پوزا کران تہ متن
برونٹھ کہہ چھ بہتہ روزان۔

اتھ پیٹھ وڈنکھ ابراہیم اڈکیا نیلہ توہر متن
آلو چھو کران تہ ہم چھا تہ ہند (یہ) آلو ہوزان؟

یا ہم چھو توہہ کا نہہ نفع یا ضرر واتناوان؟

تمو وزن ، تڑھ کہتے پھرتے مگر اسی چہرے پستہن
بہن مابین پی کران وچھان آہتی۔

تمو وو نکھ کیا توہہ چھو اپنے زہرہنتر عبادت توہر
کران چھوہ
توہر تہ تہندکر براونہمہر جد اجلا تہ۔

رب العالمینس وراہی چہرہ تم ساری میاں ذہنہا ہی
کاپھان۔

بیگو (رب العالمین) بہ پاد کورمت چھس تہ سہ
وہیہ میہ (امبرکس نتجیس منتر) ہاریت تہ۔

تہ بیگو سہ صفت یہ چھہ نہ سے چھہ میہ
کھیوان تہ سے چھہ میہ چاوان تہ۔

بیہ میلہ بہ بیمار گرھان چھس تہ سے چھہ میہ
بہراوان۔

بیہ میہ مار تہ توہ پتہ زہد تہ کر۔

بیہ سے چھہ تہتہ نہ بہ چھس وہ مید کران نہ سہ
کر میاں گوناہ ہزہکہ سزہکہ وقتہ معاف۔

اسے میاں پروردگار! میں کراہل تعلیم عطا نہ نیکن
منتر کر م شابل۔

تہ پتہ بیہ والہن لاکن منتر کر میہ اکھ ہمیشہ قائم
روزن وول تعریف عطا۔

بیہ بناو میہ نعمت والہ جنتہ کہو وارثو منتر۔

بیہ میاںس ہاس کر معاف سہ اوس وقتہ راوان
والہو منتر۔

بیہ بیہر دوہہر لوکھ زہد کر تہ ملہنہ پن میہ کر
نہ نہ تمہر دوہہر رسوا۔

بیہر دوہہر نہ دیہ کاشہہ مال نفع تہ نہ نیچوکر۔
اماپوز (سے لہر نفع) بیس اللہ (تعالیٰ) اس
نفس اکھ اور تہ دور دل ہوتہ ہسپہ۔

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ
يَفْعَلُونَ ﴿۱۹﴾

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۲۰﴾

أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ الْأَقْدُمُونَ ﴿۲۱﴾

فَأْتَهُمْ عَذَابٌ لِّيَ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۲﴾

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿۲۳﴾

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿۲۴﴾

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿۲۵﴾

وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿۲۶﴾

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ
الدِّينِ ﴿۲۷﴾

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِيقَةَ
بِالضَّالِّينَ ﴿۲۸﴾

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿۲۹﴾

وَاجْعَلْنِي مِنْ ذُرِّيَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿۳۰﴾

وَاعْفِرْ لِإِيَّتِي إِنَّهُ كَانَ
الضَّالِّينَ ﴿۳۱﴾

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿۳۲﴾

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿۳۳﴾

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۳۴﴾

- وَأَذَلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۰﴾
 بِسْمِ يَسْمِيرٍ وَوَهَبٍ جَنَّتِ مُتَّقِينَ نَزْوِيكَ اسْتَبْرَ بِسْمِ -
 وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِيْنَ ﴿۱۱﴾
 تہ گمراہین ہند خاطرین جہنم پیٹھ پر تھنود تہنہ -
 وَقِيلَ لَهُمْ آيِنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۱۲﴾
 تہ ونہن پیکھ نہ کتہ چھو تم مہنتر توہر عبادت
 کران اسی و -
 مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُكُمْ أَوْ
 يَنْتَصِرُونَ ﴿۱۳﴾
 اللہ تعالیٰ اس وراہ کیا تم ہیکہ نواتوہر اتھ نوت
 کرتھ ؟ یا تہنہ بدلہ ہیکہ نا پیٹھ ؟
 فَكُذِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْكَافِرُونَ ﴿۱۴﴾
 اد تہر وقتہ یں تم (اپنر مہنود تہ کافر) تہ
 محرمہ تھہ (جہنم) منر وکرمی دارتھہ درنہ -
 وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿۱۵﴾
 تہ اہلس ہندک سرسالم لشکر تہ -
 قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿۱۶﴾
 ییلہ تم تھہ (جہنم) منر پانہ واذی ثرون آس
 تہ تم ون -
 تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۷﴾
 خلیہ ہنر درہے اسی اسی ٹاکار گمراہی منر پتھہ -
 إِذْ نُسَّوْا بِكُم بِالْحَمِيمِينَ ﴿۱۸﴾
 ییلہ اسی توہر رب العالمین خدایں برابر درجہ
 دیوان اسی و -
 وَمَا أَصَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۹﴾
 بسے اسی تہ اسی جرم دار وہے وتہ ڈال متری -
 فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿۲۰﴾
 اوکنو پھنر (از) سفارش کرن والہو اندر کانہہ
 ساندی سفارش کران -
 وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿۲۱﴾
 تہ نہ چھ سون کانہہ لولہ وول (یاراہ) دوستاہ -
 فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۲﴾
 اد ووزی ہرگاہ اسہ واپس گزھنک طاقت آسہ ہے
 تہ اسی گزھہ ہو ضرور (واپس گزھتھہ) مؤمنین منر
 (شابل) -
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿۲۳﴾
 اتھ (واتوہس) منر چھ اکھ سہٹھا بوڈ نشانہ
 مگر پکو (کافر) منر چھتہ واریاہ اپیلن انان -
 وَإِنْ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۲۴﴾
 تہ چون پروردگار چھہ بے شک غالب (تہ) پھیر
 پھیر رحیم کرن وول -
 كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ بِالْمُرْسَلِينَ ﴿۲۵﴾
 نوح ہندک قومن کوز (پننہن) رسولن ہندلکار
 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۶﴾
 ییلہ زن ہن تہ ہندک بای نوحن وون کیا توہر

- چھوٹا تقویٰ کران؟
 بر چھس توہمہ کمن اھ امانت دار پے غیر سپد تھ امت۔
 لہذا اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ پر او تو میناڈ فرما براری
 کرو۔
 تہ بر چھس تہ اتھ (ختمس) بدلہ کاشنہ اجر
 منگان۔ میون اجر تہ چھ رب العالمین (خدا ایس)
 مرہ۔
 لہذا اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ پر او تو، تہ میناڈ
 فرما براری کرو۔
 دو کچھ (بیو کافرو) زکیا اکر انوا اثریہ پیٹھ ایمان؟
 میلہ زن مولیٰ رذیل لاکھ چاڈی پارو کار بنے
 پتو چھ۔
 تمز وون مینہ کتہ کتہ چھ معلم امت نہ تہ بندہ
 اندرہ اعمال کتھو چھ؟
 بتن حساب مینون پتھ میناس پروردگارس فرمہ۔
 اگر توہمہ فکر ترؤ۔
 بیہ یس شخص مؤمن سپد تھ مینہ نش یوان چھ،
 میناڈ کھم پتھ نہ بر دہم نش دکہ۔
 بر تہ چھس صرف اھ نہ واپہ ہشتار کرن وول۔
 (الناس)۔
 (تہو کافرو) وون ہس، اے نوح! اگر تہ باز
 اھ نہ تہ تہ سپد کتہ کتہ کتہ آمتہن مغز
 شابل (یعنی اسی کرو تھ تہ سگسار)۔
 اتھ پتھ دوپ تمز (نوحن)۔ اے میناڈ پروردگار!
 بر چھس پتہ قومن اپز وومت۔
 لہذا تہ کر بتن تہ مینہ در میان قطعی قاصلہ تہ
 مینہ تہ میان سستی باجر مؤمن د (د شتمہ بندہ)
 شہر نشہ نجات۔
 ادا سہ بچو سہ تہ تم تہ پتھ سستی ایمان
 او نمت اوس، اکر پور برتہ تا و ہندہ ذریعہ
- إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۹﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿۲۰﴾
 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
 إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۱﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿۲۲﴾
 قَالُوا أَأُتُوا مِنْ لَدُنْكَ وَتَنبَعُكَ الْآرْزَاقُ وَتُزَكَّى
 مِنْهُ حَرَامٌ وَحَرَامٌ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۳﴾
 إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ ﴿۲۴﴾
 وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۵﴾
 إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۶﴾
 قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ بِنُوحٍ لَتَكُونَنَّ مِنَ
 الْمَرْجُومِينَ ﴿۲۷﴾
 قَالَ رَبِّ إِنِّي قَدِ ابْتِغَيْتُ الْفُلْكَ
 مِنَ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۸﴾
 فَاصْنَعْ لِي الْفُلَ وَاصْنَعْ لِي الْفُلَ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۹﴾

(شہر نشہ)۔

امر بہتہ یم لکھ پتھ کن رُوڈی تم پھاڑ تاوی
اسر آس۔

اتھ منزاوس اکھ سپھاہ بوڈ نشاہ نمکر رتمو
(کافرو) منزا سونہ واریاہ ایمان اننس پیٹھ
تیار۔

تہ چون پروردگارہے چھہ غالب (تہ) پھیر کھری
رحم کرن وول۔

عاد (قوم) تہ کوز (یتھہ پاٹھو) رسولن ہند
انکار۔

ییلہ تم تہندری بای ہون وون کیا توہی چھونا
تقویٰ کران!

بہ چھس توہد کن اکھ امانت دار پیغمبر سپدہ امت۔
اوکھ اللہ (تعالیٰ) سد تقویٰ پراوو تہ میانی
فرمانبر داری کرو۔

تہ بہ چھس نہ اتھ (نہد متس) پیٹھ توہہر کاتہہ
آجرت منگان۔ میون بدلہ چھہ صرف رب
العالمین (خدا ایس) مسہ (بیمو بہ سوزمت چھس)۔
کیا توہی چھوا پرچھہ تھرزس بیٹھ بیہ مقصد
کامہ کر تھہ (یادگار) عمارت بناوان۔

بہی چھو توہی بچہ بچہ مندور بناوان۔ ییتھ
زن توہی ہمیشہ قائم روزو۔

بہی ییلہ توہی (کاتہہ) رٹان چھوون تہ توہی
چھوون ظالم ہندی پاٹھو رٹان۔

لہذا اللہ (تعالیٰ) سد تقویٰ پراوو تہ میانی
فرمانبر داری کرو۔

بہی چھسو بہ زمان نہ تھہ تقویٰ پراوو، نیمو
توہہ تمو چھزو سستی مدد کوزو ہم توہی زلزلان
چھووکھ۔

تمو چھو توہہ مدد کوزمت۔ چارواہی تہ گبر،

ثُمَّ آغَرَ قَنَا بَعْدَ الْيَقِينِ ﴿۱۱﴾

لَا فِي ذَلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿۱۲﴾

وَلَا إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۳﴾

كَذَّبَتْ عَادُ بِالْمُزْسَلِينَ ﴿۱۴﴾

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۵﴾

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۶﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۷﴾

اتَّبَعُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿۱۸﴾

وَتَتَّخِذُونَ مَصَارِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿۱۹﴾

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿۲۰﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

وَاتَّقُوا الَّذِينَ آمَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾

آمَدَكُمْ بِأَنْعَاهِ وَبَيِّنَاتٍ ﴿۲۲﴾

وَجَنَّتْ ذُّعْيُونٌ ﴿۱۹﴾	تو باغ تو تنگ دتھ۔
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۲۰﴾	بہ چھس تو بہ پیٹھ اگر بڑ دہک عذاب تا نزل سپدنہ نش کھوڑان۔
قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿۲۱﴾	تمو ووقن، چھن وعظ کرن یا نہ کرن چھ سانہ خاطر ہیوی۔
إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۲﴾	(تو کیاز یہ کتھ اسی کران چھ) تم تو چھینہ پرانہ زمانہ کو لکو ہند پیٹھ چلوہ۔
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۲۳﴾	تو اسہ پیٹھ ہیہ نہ (نہ نہیں) عذاب۔
كَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۴﴾	مجر کار، تمو (کافرو) اپزو سہ تو اسہ گری تم ہلک، اتھ واقس منز چھ اکھ سپھا بوڈ نشانہ مگر تمو منز واریاہ بنے یہ نہ مؤمنو منز۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۲۵﴾	تو چھن پروردگار چھ یقینا غالب (تو) پھری پھری رحم کرن وول۔
كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۶﴾	ثمود (سندھو من) تو اپزا یاویہ رسول۔
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ضَلِيحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۷﴾	یلیر تم تہندہ بآلی صالحن و نیاو نہ کیا توہی چھونا تقویٰ کران؟
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۲۸﴾	بہ چھس تو بہ کن اکھ امانت دار پیغمبر ہنڈھ سوزا آمت۔
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا	لہذا اللہ (تعالیٰ) سہ تقویٰ پراوو تو میاڈی فرمانبردارگی کرو۔
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۹﴾	تو بہ چھس نہ تو بہ اتھ کامہ پیٹھ کہتی اجرت مکان۔ میون اجرت تو چھ رب العالمین (خدا ایس) مہ (پیغمبر بہ سنوزمت چھس)۔
أَثَرُكُمْ فِي مَا هُمْنَا أَمِينٌ ﴿۳۰﴾	کیا (توہی) چھوا خیال کران نہ یہ کیشترھا ہیٹھ (دنیا ہس) منز چھ۔ توہی ہیوا اتھو منز امنہ سان تراونہ؟
فِي جَنَّتٍ ذُّعْيُونٌ ﴿۳۱﴾	یعنی باغن تو تنگ منز۔
وَرُودٌ وَنَخْلٌ طَلَعَهَا هَضِيمٌ ﴿۳۲﴾	تو گراہ مارونہن فصلن منز تو کھنر سکھین

- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۱﴾
 إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۳۲﴾
 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۳۳﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿۱۳۴﴾
 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
 إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۵﴾
 أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۶﴾
 وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْكُمْ مِنْ
 أَنْفُسِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۱۳۷﴾
- لوط ہندو قوم تہ کوز رٹوں ہند انکار۔
 بیلیہ زن تہندو باہی لوطن رتہن وون کیا توہی
 چھو نا تقویٰ پر لوان؟
 بہ چھس توہہ کن اکھ امانت دار پیغمبر بناوتہ
 سوز نہ آمت۔
 لہذا اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ پر اوو تہ میاڈی
 فرما نبرواری کرو۔
 تہ بہ چھسو نہ توہہ امہ (کامہ) بدل کنہو اجر
 مکان۔ میون اجر تہ چھہ صرف رب العالمین مہ۔
 کیا توہہ چھو ساروہے مخلوق منہر پسنہ نہ خا طہ
 نہہے پسند کرکے متھیہ
 تہ تم چھو کہ توہی تراوتہ نہننن ہم تہندو
 پروردگارن تہنننن آشنہن ہندہ رُکے پاد کرہر
 چھہ (صرف بیٹے اوت نہ نہ توہی چھو بیٹہ حرکت
 کران) بلکہ (تحقیقت چھہ یہ نہ) توہی چھو
 (انسانی فطرہکے) تقاضہ پر تہہ نہہ پھراون
 وول قوم۔
 تم وون، اے لوط! اگر تہ باز اکھ نہ تہ تہ پکھ
 ملک بدر سپدن والہن منہر شاہل کرنہ۔
- قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ
 الْمُخْرَجِينَ ﴿۱۳۸﴾
 قَالَ إِنِّي لَعَمْرِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿۱۳۹﴾
 رَبِّ نَجِّنِي وَآهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۰﴾
 فَجَاءَتْهُ وَآهْلُهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۴۱﴾
 إِذْ أَعْرَضُوا فِي الْغَابِرِينَ ﴿۱۴۲﴾
 ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿۱۴۳﴾
- (لوطن) دوپیکھ (بہر حال) بہ چھس تہنہر عمل
 نفر تہ سان وچھان۔
 اے میانہ پروردگار! میں تہ میانہن گہر والہن
 دہمین (لوکن) ہند لو (کچھ) اعمالو نشہ نہات۔
 لہذا اسہ دیتہ نس تہ تہندہن سارہن گہر والہن
 نہات۔
 اگس سچ ہندہ وراڈی یوسہ پتہ روزن والہن منہر
 شاہل عملے۔
 (لوطس نہات دہر پتہ) کرکے اسہ باقی ساری
 ہلک۔

وَآمَطْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۷۶﴾
 بیہ وول اسمہ رتھن پیٹھ (کنہ) رُود ، تہ پیم (خدا) ہند طرفہ) ہنثار کرنہ یوان چھہ - (مگر تو تہ چھہ باز یوان) رتھن پیٹھ یس رُود والنہ یوان چھہ سہ چھہ سبھا ناکارہ آسان -
 اِتھ واقعس منز اوس یقیناً اکھ بوڈ نشاۓ امانوز تمو (کافر) منز بنے نہ واریاہ توتہ نمون -
 چون پروردگار چھہ بے شک سہ یس غالب (تہ) پھیری پھیری رحم کرن وول چھہ -
 ونہ کپو روزن والیو تہ کریاو رٹون ہند انکار -
 ییلہ رتھن شعیبن دنیاو نہ کیا توہر چھونا تقویٰ پراوان ؛
 بہ چھس توبہ کن اُکس امانت دار پیغیر ہندہ حیثیتہ آمت -
 لہذا اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ پراوو تہ میا ذی فرمانبرداری کریو -
 تہ بہ چھسو تہ توبہ اتھ کامہ پیٹھ کینتہ اجرت مشکان - میون اجر چھہ صرت پروردگار عالم (خدا) سہ -
 (اسے لوگو!) ہنشاہ (بانہ) اُسو پورہ (بڑھ) دوان تہ بین لوقصان واتاوان و اُل مہ بنو -
 بیہ اُسو سینر ڈنجر تولان -
 بیہ لوکن مہ اُسو ہندہ چہرہ (تہندہ حقہ کھوتہ) کم دوان تہ مکس منز مہ اُسو ہرگز فساد کن
 بیہ تیگر توہر تہ توبہ ہر ہنم مخلوق پاؤ کرر ہتہ چھہ سند تقویٰ پراوو -
 (اتھ پیٹھ) وولس (کنہر قوم) تہ تہ چھکھ تہیہ (شخص) نہیں کھن چیلہ ونہ یوان چھہ -
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةَ ۙ وَاَمَّا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۷۷﴾
 وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۷۸﴾
 كَذَّبَ اَصْحٰبُ لَيْلٰكَةَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۷۹﴾
 اِذْ قَالُ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۸۰﴾
 اِنَّ لَكُمْ رَسُوْلًا مِّمَّنْ ؕ ﴿۸۱﴾
 فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۸۲﴾
 وَاَمَّا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۳﴾
 اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿۸۴﴾
 وَرَنُوْا بِالْقِسْطِ اِلَى الْمُسْتَقِيْمِيْنَ ﴿۸۵﴾
 وَلَا تَتَّبِعُوْا النَّاسَ اَشْيَآءَ هُمْ وَلَا تَعْتُوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۸۶﴾
 وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۸۷﴾
 قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿۸۸﴾

بیہ چمکھ تر سانی پامٹھ اکھ انسان تر اسی چیتھ
تر بے شک اپزیر زانان۔

لہذا اگر تر پزیر چمکھ تر اسی پیٹھ ول کانہہ
اؤبر چھلا۔

(اتمہ پیٹھ) وؤن شعبین میون پروردگار چھ تہندر
اعمال زبر پامٹھ زانان۔

مگر تمو اپزوروسہ (تمو ہندر فکر تارہ پتہ تر) اڈ
تم رڈ ترعائے کرن ولہ ڈوکر عذابین بیتھ (یعنی گلز
تر ہر کال روزن والی اؤبر ک عذابین) سہ اوس
یقیناً اکھ بڑ باہ عذابک دہہ۔

اتمہ واقعس منز اوس اکھ بؤڈ نشانہ۔ تر تمو کافرو
منز گئے تر (یہ وچیتھ تر) واریاہ مؤمن منز شاہل۔

تر چون پروردگار چھ بے شک غائب (تر)
پھپھری پھپھری رحم کرن وول۔

بیہ چھ یقیناً یہ (قرآن) رب العالمین (خدا) یہ
ہندر طرفہ نازل کرنہ آمت۔

یہ بیتھ چھ اکھ امانت وار (تر) کلام بردار ملائک
(جبریل) نازل سپدنت۔

چائس ولس پیٹھ بیتھ زن تر ہشیر کرن واجبہ
جما تر منز شاہل سپدک۔

(یہ) چھ (جبریل) خدا یہ ہندر حکمہ) واش کڈتہ بیان
کرن واجبہ عربی زبانی منز (نازل کورمت)۔

تر یقیناً امیک ذکر اوس بڑوٹھو من کتاہن منز تر موجود
تہندر خاطر چھاپہ نشانہ کم زر اتمہ (قرآنس)

چھ بنی اسرائیل عالم تر پر پرزناوان۔

تر ہر گاہ اسی سہ عجیبو منز گانہہ پیٹھ نازل کرن
تر سہ بوز ناوہے یہ (قرآن) اتمن (کافون) بڑوٹھ

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نُّظُنُّكَ لَمِنَ
الْكٰذِبِيْنَ ﴿۵۱﴾

فَأَشْقِطْ عَلَيْنَا كَسَفَاتِنِ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ
مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۵۲﴾

قَالَ رَبِّيٰ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۳﴾

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ
إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۵۴﴾

إِن فِي ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۵﴾

وَإِن رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۶﴾

وَإِنَّهُ لَتَنزِيْلٌ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۷﴾

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِيْنُ ﴿۵۸﴾

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنذِرِيْنَ ﴿۵۹﴾

يَلِيْسَانِ عَرَبِيّ مُّبِيْنٍ ﴿۶۰﴾

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۶۱﴾

اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ اَن يَعْلَمَهُ عُلَمٰؤُا
بَنِيْ اِسْرٰءِيْلَ ﴿۶۲﴾

وَكَوْنَتْ لَنُحُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ﴿۶۳﴾

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ مُؤْمِنِيْنَ ﴿۶۴﴾

کہہ پڑھتے تھے تم انہوں نے نہ نہیں تھے اتھ پیٹھ
ایمان ۔

پتھے پٹھو پٹھو اسے مجرمین ہندین دن منزیہ (کتھ)
دائیل کرتھ تھا و پٹھ ۔

(لہذا) تم انہ اتھ پیٹھ ایمان یوت تام نہ تم
کر لڑتھ عذاب و پٹھن ۔

تہ سہ (عذاب) پیہ ہنگتہ منگہ تہ ہنگتہ زہری
منز ہمن نش ۔

اد و دن تم، کیا اسے سبب ناموہبت دینہ ؟

ادو کوز (دو تو ز) کیا ہے لکھ آسیاسون عذاب
جلد ممکن آسان ؟

لہذا کیا تریہ پٹھ نا پڑھ یوان ؟ نہ اگر کسی ہمن
وہیہ بدین تام قایدہ و اتناوان گزہ ہو ۔

پتہ پیہ ہے ہمن نش سہ (عذاب) یہیمیک ہمن
سوتی و عدہ کر نہ یوان چھ ۔

تہ یہ کینترھا ہمن دینہ آمت چھ، سہ ہییک ہے
نہ ہمن نش سہ (عذاب) ڈالتھ ۔

بیہ کر نہ اسے تڑھ کانہہ بستی ہاک بیتھ کن
اسہ (خبردار کن اولی) نبی آس نہ سوزو ہتھ ۔

یہ آد ادو کوز کر نہ زہمن واتہ لہجیت تہ اسی
چھنہ نطلم ۔

تہ شیطان سپدہ کر نہ یہ (قرآن) ہتھ نازل ۔

تہ نہ اسی یہ کام ہمن ہندہ حالو مطابق تہ
نہ اسی تم امیک طاقت تھوان ۔

تم چھ بے شک (حد آپ کلام) ہوز نہ ہنہ دور
تھونہ آوتھ ۔

لہذا اللہ (تعالیٰ) ہس سوتی مہ کر کانہہ نیس
معینوس آلو ۔ نہ سپدہ تہ عدلس منز ہونہ ہونہ
والہو لوکو اندر ۔

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۱﴾

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۵۲﴾

فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۳﴾

فَيَقُولُوا أَهْلَ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿۵۴﴾

أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۵۵﴾

أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿۵۶﴾

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۵۷﴾

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿۵۸﴾

وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا
مُنذِرُونَ ﴿۵۹﴾

ذِكْرَىٰ لَهُمْ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۶۰﴾

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿۶۱﴾

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيلُونَ ﴿۶۲﴾

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمَاءِ لَمَخْرُؤُونَ ﴿۶۳﴾

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ
الْمُعَذِّبِينَ ﴿۶۴﴾

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۱۵﴾

وَإِخْفُضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۶﴾

فَإِن عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿۱۸﴾

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۱۹﴾

وَتَقَلُّبِكَ فِي الشُّجُورِ ﴿۲۰﴾

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲۱﴾

هَلْ أَتَيْتُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيْطَانُ ﴿۲۲﴾

تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ﴿۲۳﴾

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿۲۴﴾

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۵﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهيمُونَ ﴿۲۶﴾

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿۲۷﴾

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ

بیسے کرکھ تڑ گوڈ پینز نزدیکی آشنا و خیردار۔

تہ ہم تڑیہ نش مومن سپتہ پن تہندہ خاطر
نومراو تڑ پستہ (محبتہ چہ) پکھٹہ۔

پتہ اگر کتبہ وقتہ تم چاڑی نافرمانی کن تڑ ونگہ ز
ہر چھس تہنہز عملہ پیٹھ بیزار۔

بیسے کر تڑ غالب (تہ) پھیرے پھیرے رحم کرن واجتہ
ہستی پیٹھ توکل۔

یس تڑیہ تمہ وقتہ تہ وچھان چھٹے۔ نیلہ تڑ کئے
زوں نماز باپتہ) استاد سپان چھٹہ۔

بیسے تمہ وقتہ تہ نیلہ زن تڑ (با جماعت نماز
باپتہ) سجدہ کرن واجتہ جماتہ منفر اور یور پھیران
روزان چھٹہ۔

بے شک چھ سہ (خداپی) سبھا بوزن وول
(تہ) سبھا زانن وول۔

کیا ہر وولوا توہہ نہ شیطان کس پیٹھ چھ وسان؛
تم ایسے شیطان) چھہ پرستہ اپز یارس گوناہ گارس
پیٹھ وسان۔

تم چھہ پینز کن لہ (آسمانس کن) دارتھ بہسان
تہ جمو منفر چھہ واریاہ اپز یارس آسان۔

بیسے شاعرن ہنہر جماعت چھہ تڑتھ آسان نہ تمن
پتہ (پتہ) پکن والی چھہ گراہ سپان۔

(اے عقاب!) کیا تڑیہ توڑے نا (وینیکام) ہکر
نہ تم (شاعر) تہ چھہ پرستہ وادی منفر بے مطلب
چھیران۔

بیسے چھہ تم تڑتھ کتھہ وان پیکہ تم کران چھتہ۔
(شاعر و منفر) ماسویہ مومنو تہ نیک عمل کرن

لہ تہ کتھہ جانان و سپنہن لڑتھن پیٹھ کتھہ تراوان چھہ۔
سہ بین پیٹھ تم پانہ عمل چھتہ کران۔

سہ سنیغ۔ امیک معنی چھہ کن تہ آسان۔
سہ بین پیٹھ تم پانہ عمل چھتہ کران۔

دَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ
مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ
مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۱۹﴾

والہو (شاعرو) تہ بہتو یم اللہ (تعالیٰ) مند ذکر
(پنہن شعرن منتر) جاو جاو کران چھہ، تہ
(اگر) جو کران چھہ تہ ابتدا چھہ کران بیکہ (مظلوم
سپندو پتہ چھہ (جاہیز) بدلہ ہوان بیکہ تہ تم لوکہ
یم زن ظالم چھہ، زان ضرور نہ کہتہ جایہ کرن
آسہ اتن چھہ تہ کرنہن۔

سُورَةُ التَّمَلِّ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ التَّسْمِيَةِ اَدْبَمُ وَتَسْمَعُونَ آيَةً وَمِنْهَا رُكُوعَاتٌ

سورة التمل: یہ سورہ چھہ مکئی تہ بسم اللہ بہتہ چھہ اتہ تہ گنتہ آسہ بیکہ چھس ستہ رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

طس ۛ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ وَكِتَابٍ
مُّبِينٍ ﴿۲﴾

هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳﴾

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الرَّكْعَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۴﴾

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
زَيَّنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿۵﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سند تاو بہتہ (پران) بیکہ
حدہ روس کرم کرن وول تہ، چھہ کر چھہ کر رجم
کرن وول چھہ۔

طاہر (تہ) سمع (یعنی پاک تہ دعا بوزن وول
خدا چھہ نیہ سورک نمازل کرن وول) اکر آسہ
چھہ قرآن تہ مدلل کتابہ ہند جھہ۔
(یم) مؤمن ہند خاطر ہدایت تہ خوشخبر (دیک
باعت) چھہ۔

(تہتمو مؤمن) یم باجماعت نماز ادا کران چھہ تہ
وکوۃ ادا کران روزان چھہ تہ آخرتہ چھہ زندگی
پیٹہ (تہ پتہ بیتہ واجتہن وعدہ دنہ آمترن کتھن پیٹہ)
چھہ پڑہ تھوان۔

تم لوکہ یم آخرتہ چھہ زندگی پیٹہ ایمان انان چھہ
اسہ چھہ تہندکر اعمال تہند خاطر خوبصورت کرنہ
تاوکر ہتہ۔ او کوفہ چھہ تم تارن پریشان چھیران۔
تمن ہند خاطر آسہ کرنہ غلاب تہ تم آسن

فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ ①

آخرت چہ زندگی مفر سار وہے کھوتہ جسا
خسارین والی -

وَأَنَّكَ لَتَلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ
حَكِيمٍ عَلَيْهِمْ ②

بہ چھے تریہ قرآن یقیناً تہندہ طرفہ حاصل سپان
لیس سہٹا حکمتہ وول (تہ) سہٹا زان وول چہ۔

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِيهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا
سَاءَ بَيْتُكُمْ مِنهَا بِخَبَرِ آؤَانِيكُمْ بِشَهَابٍ
فَبَسَّ لَهَاكُم تَصْطَلُونَ ③

(یاد کرو) بیلہ موسیٰ ہن پستہن گرواہن وون
نر میہ چھہ اکھ ناریہ کھچھمت بہ اہن یقیناً توہہ
نش امر (نامہ) نشہ کاشہ (غلطیہ واجہن) خبر یا اہن
توہہ نش اکھ زوتہ ون تریہ نکل بیہ زان توہہ بیہ ناریہ
توشنیہ اہ کرو۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي
النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللَّهِ رَبِّ
الْعٰلَمِينَ ④

اہ بیلہ سہ تھہ (نارس) نش آو تہ نش آو آوہن
نر یس کاشخا) نارس مفر یا اہہ اندر میکھو چھہ
نش چہ برکت دہن آمشرتہ اندر رب العالمین چھہ پاک۔

يُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤

اے موسیٰ! بہ چھس اللہ۔ یس غالب (تہ) حکمتہ
ول چھہ۔

وَأَلْقَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا
جَانٌّ وُلِيَ مُدْبِرًا وَ لَمْ يُعَقِّبْ
يُمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ
الْمُرْسَلُونَ ⑥

تہ تراون بین عامہ پتھر۔ تہ بیلہ تہو سہ (عامہ)
وچہ نر سہ چھہ سوسراے کران زان سہ اکھ
لوکٹ سرف اوس تہ سہ نزول تھر پھر تہ
پتھہ پھر تہہ دہن نہ نظر۔ (اہ وون اسہ) اے
موسیٰ! مہ کھوڑ! بہ چھس سہ نہ نزول چھہ
میانہ حضوری مفر میہ کھوڑان۔

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ
فَأَبَىٰ عَفْوًا رَّحِيمٌ ⑦

مگر بیہو ظلم کور پتہ سہ ظلم تراوتھہ پراون
نہکی۔ بہ چھس (تہندہ خاطر) بوڈہ بخشن وول
(تہ) پھیرک پھیرک رحم کرن وول۔

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ
بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فَإِنِّي سَمِعُ آيَاتِ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِذْ لَهُمْ كَانُوا قَوْمًا
فٰسِقِينَ ⑧

بہ تراون تہ پین اہہ پستس ناس مفر سہ نیر
کور مرضہ وراہی سفید۔ یہ چھہ ہتھو تھو ہتھو
مفر پیم فرعون تہ تہندس تومس کن سوزنہ پین۔ سہ
چھہ فرعون واری تہہ نہر نیرن وول توم۔

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا
هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۷﴾

وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ
ظُلْمًا وَ عُلوًّا فَا نْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۸﴾

وَ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا وَ قَالَا
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلٰى كَثِيرٍ
مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۹﴾

وَ دَرَبَتْ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَ قَالَ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوْتِينَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ إِن هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ
الْمُبِينُ ﴿۲۰﴾

وَ حُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِبِّ وَ
الْأَنْبِيسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُؤَذِّعُونَ ﴿۲۱﴾

حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ؕ قَالَتْ
نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ
لَا يَحِطُّ بِكُمْ سُلَيْمٰنُ وَ جُنُودُهُ ؕ وَ هُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۲﴾

فَتَبَسَّهٖ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ
أَذْرِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ

اِدْبِيْلِهِمْ تَمَنُّنِشْ سَانِي بَشَانِيْ آيِي ، بِيْمِ اُچھ
مِثْرَاوَنِ وَ اَلِ اُوسِ ، تِي تَمُو وَوَنِ يِي تِي چھ اُکھ
اُناکار بھود۔

تِي تَمُو کُوْر اصرار سان ظلم تِي کبیر کرتھ کُوْر تَمُو
تَمَن (نشان) ، ہند انکار حالانکہ تہند بُو دلو اُوس
تَمَن پیٹھ پڑھ کُوْر مِثْر۔ لہذا اُوچھتہ فساد کرن
والہن ہند انجام بکیتھ چھ اُسان۔

اسیہ کُوْر بیہ داؤس تِي سلیمان علم عطا تِي دوتو
وہے وون ، اللہ تعالیٰ ہے چھ ساری تعریف
تا تک نیمو اسیہ پنہن واریان مؤمن بتدن
پیٹھ فضیلت ڈر مِثْر چھئی۔

بیہ بنیو سلیمان داؤد سُد واریت تِي تَمُو وَوَن
اسے لکو! اسیہ چھئی جانوارن لہ ہنر بول اُچھیاؤ
اُمِثْر تِي بھرتھ ضروری چھیر (یعنی علم تِي) چھ
اسیہ وِن اُمت یی چھ نرہ وائے فضل۔

بیہ (اکر لہ) اسیہ سلیمان بروٹھ کتھ چنو تِي
انسانو تِي جانوارو مِثْر تہندک شکر درجہ بدرجہ
سونیراونہ۔ (پیتھ آوتہن روانہ سپدک حکم دتہ)
یوتام ترییلہ تم نملہ واکل مِثْر واتی تِي نملہ
قوم مِثْر وون اُک شخصن۔ اسے نملہ قوم! پنہن
پنہن گرن مِثْر اُترو۔ بھتہ تری سلیمان تِي
تَمُو ہندک شکر (تہندک حالات) نہ زانہ کتھ
توہہ پرن تل مِثھتہ ترہنہو۔

اِد تہنر کتھ بوزتھ او سلیمان اُن تِي تَمُو وَوَن
اسے میاہ پروردگار! میہ و توفیق مِثھ تَن بے

لہ طیر، جانوار لینے آسمانی پرواز کرن والی مؤمن۔

لہ دمشق پیٹھ اُک تھ مہل دُوْر جہاز یوون سائل سمندر سپٹھ چھ واقعہ وادی
نمل اُتھ مِثْر اوس "نملہ" قوم روزان۔ نملک لفظی معنی چھ "ریہ"
اسی چھ کیتھو ترجمہ کرن والہو اصل ریہ مُراد نیمِثْر۔

چاہے نعمت مند، یوسہ شریہ میں تہ میانس مابس ماہر
عطا کر ہنتر چھتہ، شکرانہ ادا کرتھ ہیکر۔ تہ
ترتھ مناسبت عمل کر یوسہ شریہ پسند فرماوگھ۔ تہ
(اسے خلیہ!) پستہ رنجتہ سوتی کر میںہ پستہن
بزرگ بندن منتر داہل۔

تہ توہ ہنتر سارہے جاناوارن حاضری، پستہ
وون میںہ کیا گوہر "ہدھد" چھسن تہ بہ
وچھانے۔ کہہ سہ چھ (زائتھ مانتھ) غار حاضری۔
بہ وہر یقینا تس سخت سزا با کرن سہ قیل۔
نتہ کرن سہ میںہ بروٹھ کہہ لائتھ ٹاکاہر ڈیل
(پستہ غار حاضری ہنتر) پیش۔

اڈ کینٹرس کاس کور توہ قرار (بیتس کاس سپد
ہدھد حاضری) تہ وون نہ میںہ چھ تمہہ جیکر
علم حاصل کورمت میںہ شریہ حاصل چھے نہ تہ میںہ
چھینہ سبا (ہند قومہر علاقہ) پہلہ شریہ کر تھ اکھ
پڑھہ دار خبر اڈ ہنتر۔

(یوسہ بہ چھینہ نہ) میںہ وچھہ تہ، اکھ زبان یوسہ
تہن (ہندس سالم تومس) پہلہ حکومت کران چھینہ
تہ تیس چھینہ پرتھ نعمت حاصل بہ چھہ تیس اکھ
بوڈ سخت۔

بہ وچھہ میںہ سمہ تہ تہند قوم چھہ اللہ (تعالے)
ہس وراہی آفاہس بروٹھ کہہ سبھ کران تہ
شیطان چھہ تہندک اعمال تہن خوبنورت کر تھ
ٹوہ ہنتر۔ تہ تہم چھن پزرتہ ہنتر ٹاکاؤک
ہنتر میںہ کونہ تہم ہلہت چھہنہ لبان۔

(تہ ہٹھ چھ کران) نہ اللہ (تعالے) ہس کرو تہ
سبھہ میںہ آسمان تہ زمبہر ہند پرتھہ پوسٹہہ

عَلِيٍّ وَعَلَىٰ وَالِدَيْيَ وَآنَ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ ﴿۱۹﴾

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا آرَى
الْهُدَىٰ كَمَا كَانَتْ مِنَ الْعَائِدِينَ ﴿۲۰﴾

لَا عُدْبَتَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْبَحْتَهُ
أَوْ لِيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿۲۱﴾

فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا
لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ
بَقِيٍّ ﴿۲۲﴾

رَأَيْتِ وَجَدْتِ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَوَلَّاهَا عَرْشَ عَظِيمٍ ﴿۲۳﴾

وَجَدْتُهُنَّ وَ قَوْمَهُنَّ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا
يَهْتَدُونَ ﴿۲۴﴾

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي
السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ

لہ ہدھد چھہ تہ و تہس زمان۔ یہ اوس حضرت سلیمان ہند دربارکس اگس سردارک
ناو (جیوش انسائیکلو پیڈیا)۔ کینٹرو ترجمہ کران والہو چھہ اصلی سہتہوت مراد نہوت۔

مَا تَخْلُقُونَ ①

تقدیر ظاہر کران چھ۔ بیہ یہ کینٹھا تو ہی
کھنڈتھاواں چھو تہ (یہ کینٹھا) نون کڈان
چھو۔ تم تدبیر تہ چھ سہ زانان۔

(سیلزن) اللہ اتعالیٰ چھ سہ بیٹیس ورا لی کانہ
مبہود چھتہ (سہ) چھ اکہ بڑ تختک مالک۔
(اتھ پیٹھ) وولس (سیمان) ز اسی وچھو ز تریہ
چھتا پوز وولنت کہہ تہ چھاکھ اپز یارو مشزہ؟

تہ نہ میاڈیہ چھو تہ یہ تراوڈ زین (سبا سبندس
فوس) بروٹھ کنہ۔ پیتہ روزی تہ (ادبہ سان) پیتھ
تہ وچھ نہ تم کیانہ جواب چھہ دول۔
(سیلہ کھو بیٹھ کھو کوز) تہ تمہ (ملکانہ) وولن،
اے میانو دربارو! میں بروٹھ کہہ چھہ اکھ عزتہ
دول خط تھاوتہ آمت۔

یہ خط چھہ سلیمانہ بند طرفہ تہ اتھ مشز چھہ
لکھتھ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" یعنی ز اللہ
(تعالیٰ) میں اتھہ روس کرم کرن وول تہ
چھہ چھہ رم کرن وول چھہ، تمہو سبند
ناو چھہ اسی دس تلان۔

(بیہ چھہ لکھتھ) ز اسی پیٹھ مہہ کھو زیادتی
تہ سانس دربارس مشز سپرو فرنا نبردار سپد تھہ
حاضر۔

پیتہ وولن تمہ (ملکانہ)۔ اے سردارو! میانس
معاملس مشز دیو پینو پونہتہ رائے تہ کیانہ بہ
چھس نہ زانہہ کانہہ فاصلہ کران، یونام زن
توہی میں نش حاضر سپرو تہ (تہ مشورہ دیو نہ)۔
تمو (دربارو) وولن ہس، اسی چھہ بڑ طاقتہ
والہ تہ بڑی جنگ کرن والہ تہ (آخری) اختیار
چھہ چانس اتھس مشز۔ او کھو کر تہ سوتج سمجھ
نہ تہو کیا حکم چھاکھ دین میں تھان (اسی کرو
جمع فرمانبرداری)۔

أَلَمْ يَلَأَلْهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ② يَا

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ ③إِذْ هَبْ بِكُفْتَبِي هَذَا فَالَقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ
تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ④قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوأَيَّ أُلْقِيَ إِلَيَّ
كِتَابٌ كَرِيمٌ ⑤إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ⑥

أَلَا تَخْلُقُونَ عَلِيًّا وَآتُونِي مُسْلِمِينَ ⑦

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوأَيَّ افْتُونِي فِي أَمْرِي
مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ⑧قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةٍ وَ أَدْلُوا بَأْسَ
شَدِيدٍ وَ الْآمُرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ
مَاذَا تَأْمُرِينَ ⑨

قَالَتِ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً
اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعْدَاةَ اَهْلِهَا
اِذْلَةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۰﴾

وَالَّذِيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ
فَنظُرَةٌ بِهَا يَرْجَعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۳۱﴾

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنِيْ بِمَالٍ
فَمَا اَنْتَنِيْ يَا اِلٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اَنْتُمْ ۚ بَلْ
اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿۳۲﴾

اِرجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَايِسْتَهُمْ بِجُنُوْدٍ
لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ۚ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا
اِذْلَةً وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ ﴿۳۳﴾

قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَلِكُ اِيْحٰكُمْ يَا رَبِّيْ
يَعَزُّ عَلَيْهَا قَبْلَ اَنْ يَّاتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿۳۴﴾

قَالَ عَفْرِتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتَيْتَكَ بِهٖ قَبْلَ
اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَالَّذِيْ عَلَيْهِ
لَقُوِيْ اٰمِيْنَ ﴿۳۵﴾

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ
اَنَا اَتَيْتَكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ

تمہ وون نہ بیلیہ بادشاہ کتہ مکس منتر اثران چھ
تہ تہ تہ چھ تباہ کران تہ تہ تہ کپور روزن والپو
منتر چھ معزز لوکن ڈیل کر تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ
چھ بیٹھ پٹھ کران آہو۔

تہ (میہ چھ قافلہ کورمت نہ) بہ سوز بہن کن
اکہ ڈال۔ پتہ وچہ نہ میانی قافلہ کیا جواب

ہتہ بین واپس؟

پتہ بیلیہ سوہ ڈال سلیمان برنٹھ کتہ اہتہ تھانہ

آہ تہ تہ وون، کیا توہی چھوا مالہ سوتی مسیہ

مد کران بہ تھان؟ (اگر یہ کتہ چھینہ تہ یاد تھانہ

نہ) اللہ (تعالیٰ) ہن یہ کتہ تھانہ دیت مت

چھ، سہ چھ تہ کھوتہ کتہ کور بہتر یہ توہیہ

دیت مت چھنہ۔ تہ (معاوم چھ سپدان نہ) توہیہ

چھو پتہ ڈالہ پٹھ سبھا تاز۔

(اے حد حد!) تہ گرتہ تھن کن واپس تہ تھن

ون نہ) اسی بیو اکہ بوڈ لشکر ہتہ تھن نش تھتہ

لشکر نہ تہ کہ متباک آس نہ تھن طاقت تہ

بہ کڈکہ تہ تہ (ملکہ) منتر تھنس حالتش منتر

نہ (بادشاہتک) شان آسکھ روومت۔

تھو (سلیمان) وون (تمہ پتہ پتہ پنہن دربارن

کن کلام کران) اے دربارو! توہیہ منتر کنس

انہ تھو مند تھت میہ تھن امہ بروٹھ نہ تہ تہ

(لوکہ) سپدان فرمانبردار ہتہ میا تھن خدمتس

منتر تھن۔

(مبارک توہو منتر) اکر محفوظ سردارن وون،

تھنہ (نیمہ) مقامہ پٹھ گرتھنہ بروٹھ ان

بہ سہ (تھت)، تہ بہ چھس اتھ کتہ پٹھ پوہ

تھورت تھن وول (تہ) امانت دار۔

تہ شخصن بیس (الہی) کتا بہ ہند علم تھن

اوس وون (اتھ پٹھ) نہ بہ ان سہ (تھت)

طَرَفُكَ ، فَلَمَّا رَاكَ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ
 قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي
 ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا
 يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي
 غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿۷۰﴾

شریہ نش چاہیہ اچھہ ٹیوہر کرنہ بروٹیٹھے۔ اِد
 نیلیر (سیمان) سہ (تخت) پانس بش ترومت
 وچھہ تہ تمو وون، یہ چھہ میانس پروردگار بندہ
 فضلہ کنی سیدت میتھ زن سہ میں آزماؤ نہ بہ
 پیمسا شکرانہ کران کہتہ ناشکری چھس کران تہ یس
 شکرانہ کر سہ پھر پست نہ زو کہ قایدہ خا طہ
 تہ کران تہ یس ناشکری کر، تہ یقینا چھ میون
 پروردگار بے نیاز (تہ) بار سہ ادت کرن وول۔

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ
 أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ
 لَا يَهْتَدُونَ ﴿۷۱﴾

تمو وون اپتہ، تمو سندر (یعنے ملکاتہ ہندر)
 خا طہ آولون تمو سندر تخت موسی پایہ کر تھلہ
 اسی وچھو ز سہ چھا ہدایت لیان کہتہ تمو لاکو اندر
 چھیبہ بنان یکم ہدایت چھتہ لیان۔

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ
 كَأَنَّهُ هُوَ ۖ وَأُوتِينَا الْحِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا
 وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿۷۲﴾

اد نیلیر سہ (ملکہ بلقیس) آیہ تہ ونہ آو۔ چون
 تخت چھا بیتھے؟ اتھ پیٹھ وون تمہ، نہ پتھ کنی
 چھہ معلوم سپان یہ چھہ سہ، تہ اسہ اوس امر بروٹیٹھے
 علم حاصل سیدت تہ اسی اسہ (چانی) فرما نبرار
 بنے ہوتو۔

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۷۳﴾

تہ سیمان کور ملکاتہ اللہ (تعالے) ہس وراہی
 عبادت کرنہ رتہ ٹھاٹھ۔ سہ اس بے شک کافر
 قومہ اندر۔

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ
 حَسِبْتَهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا
 قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۖ
 قَالَتْ رَبِّ انقِطِبْ عَلَيَّ وَانقِطِبْ
 مَعَ سُلَيْمَانَ يَلُودِي الْعَلَمِينَ ﴿۷۴﴾

بیہ آوس ونہ نہ محلہ خاس منتر اشہ۔ اِد نیلیر
 تمہ سہ (محلہ خانہ) وچھہ تہ تمہ زون سہ سون
 آب تہ گابریے پتھ۔ اتی وونس سیمان، یہ تہ
 چھہ محلہ خانہ پتھ منتر سہ پتھ لاکتہ آنت۔ اِد
 وون تمہ (ملکاتہ) اے میا نہ پروردگار! میں
 کور پننس زوس پیٹھ ظلم تہ بہر چھس سیمان

لہ یعنی تیتھ تخت بناو یس تہ تہ تختہ رتہ تمو تہ اعلیٰ آسہ۔

لہ کشفنت عن ساقیہا : یہ چھہ عربی محاورہ تہ ایک مطلب چھہ گابرن آسان مفسرو
 چھہ اتھ لفظی ترجمہ کر تھ غلطی کر مہتر تہ بلڈ داستان چھکھہ بناو مہتر۔

سستی رب العالمین خدائیں پیٹھ ایمان آمان لیہ
 بیہ سوزاوسہ (قوم) شہودس کن تہند بوے
 صالح رسول بناوتھ - (یہ زمان) نہ اللہ (تعالیٰ)
 ہنر عبادت کرو - اڑیہ (بوز وئے) گئے یمن
 نہ ڈرکیم پانہ وافی تروئے لگی -

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
 أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ
 يَخْتَصِمُونَ ﴿۳۰﴾

قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ
 قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۱﴾

تو (صالح) وون - اے میاں قوم! توہی کیا
 چھو خوشحالی ہنرینہ بروئٹھ بدحالی ہنر ناظر
 وڑھ کران! کیا توہی چھونا خدائیں نش پینہن
 گونہ ہن پیٹھ استغفار کران، بیتہ نہ توہر پیٹھ
 رگم کرنہ بیہ -

تہو وون (اے صالح!) اسہ (یوتام سوچت
 چہ) نہ تہ چانز ساتھی چھ مغوہے بو ہتر -
 تو (صالح) وون تہند شوٹک سبب تہ پیٹھ
 اللہ (تعالیٰ) ہس ہنر - بلکہ چھ حقیقت یہ نہ
 توہی چھو اگہ بیتہ قوم یس امتناس مفر تراونہ
 چھ آمت -

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ
 طُيِّرْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
 مُّتَّفَتُونَ ﴿۳۲﴾

بیہ اسی شہرس مفر نو انسان ہم (سارہے)
 ملکس مفر فساد کران اسی تہ اصلاح اسی نہ کران
 تو وون (اگہ اوس) نہ توہی ساری کینو اتھ
 پیٹھ اللہ (تعالیٰ) ستر قسم نہ اسی کرو ہنر
 تہ تہند ہن گر کہن پیٹھ رات کیتھ حملہ پتہ یس
 تہ تہند وارت ہنر (تہند توہنک مطالبہ کرنہ
 پیہ) اسی ووتس نہ اسہ وچہ نہ تہند ہن
 گر والہن ہنر ہلاکت (یعنی سہ واقعہ) تہ اسی
 چھ پڑیادہ -

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ
 يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۳۳﴾

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ
 ثُمَّ لَنَنقُوَنَّ لَكُمْ يُولِيَهُ مَا شَاءْنَا مَهْلِكًا
 أَهْلِهِ وَإِنَّا لَاصِدِقُونَ ﴿۳۴﴾

لہ ملک بقیس اسی آقا بس پرستش کران - حضرت سلیمان بناو نوو اگہ محل
 بیتہ مفر اسی پیٹھ شہر لگتہ اوس آمت - سینہ تہر ہلقبہ سہ وچہ تہ
 تس تور ہکر نہ تھلکو چھ آقا ہر کس نوز پتہ اللہ تعالیٰ سندے نور پڑیادہ
 تہ تہ وون ایمان -

تہ تم کو کور اگہ تدبیر تہ اسہ تہ کور اگہ تدبیر
تہ تم اسی تہ زانان۔

اد وچھتہ تہہندہ تدبیرک کیا نتیجہ دراو۔ اسہ
تھاوی تم تہ تہہندہ قوم ساری تیاہ کر تھ۔

ادوکھی (وچھ) پیم چھ تہہندہ گر پیم تہہندہ لو
ظلمو کھی سوی پیم تہ چھ۔ اتھ مغز چھ علمہ
والہ قومہ با پتھ بوڈ نشان۔

تہ اسہ دیتہ متن لوکن نجات بیکو ایمان اولن
تہ تقوی کران اسی۔

بسیہ (سوز اسہ) لوط (تہ رسول بناوتھ) بیلیہ
زن تمہی سینس قومس وون۔ کیا توہی چھوا
بڈیہ کران؟ بیلیہ زن توہی وار کاہ وچھان
آسان چھو۔

توہی چھوا زانانہ تراوتھ مردن نش شہوتہ کر نیہتہ
پوان؟ حقیقت چھییہ بو تر توہی چھوا اگہ جاہل
قوم۔

اد تہندہ قومک جواب اوس صرف یہ نہ راے
لوکو، لوطہ سند خانانک ترہینون بیتہ شہر مشر
کڈتھ، تم چھو تھو لوکھ پیم بڑ نیک بن شہان
چھو۔

نتیجہ سپد یہ تر اسہ دیتہ تس (یعنی لوطس) تہ
تہندہ خانانہ کن لوکن نجات، تہنہ آشرہ وراہی
سہ اس اسہ پتھ روزن والہن مغز گتہ راوتھ نیمہتر
بہ وول اہر متن پیٹھ اگہ روو۔ تہ بین غلا پتھ
شیچھ واٹر مشر اسہ تہندہ روو پتھ سبھا پتھ آسان۔
ترہ ون، پرتھو تعریف حقار پتھ اللہ (تعالیٰ ہے)
تہ تمہی ہندہ تم بندہ پیم تمہی تر آرہ ہو آس،
تمن پیٹھ چھو ہمیشہ سلامتی نمازل سپدان۔ اللہ
(تعالیٰ) چھا بہتر کہنہ تم چیز میں تم (تہندہ)
شریک تھہراوان چھو؟

وَمَكَرُوا مَكَرًا وَ مَكَرْنَا مَكَرًا وَ هُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ۝

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ
اِنَّآ ذَا مَرْنُهُمْ وَ قَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ ۝

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِدَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ
فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

وَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَ كَانُوْا
يَتَّقُوْنَ ۝

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ
الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ
ذٰوِنِ الْبِئْسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ
تَّجَاهِلُونَ ۝

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا
اَخْرِجُوْا اِل لُّوْطٍ مِّنْ قَرْبَتِكُمْ اِنَّهُمْ
اِنَاسٌ يَّتَنَطَّهَرُوْنَ ۝

فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ نَقَدَتْهَا
مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝

وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا جَ فَسَاءَ مَطْرُ
الْمُنْذَرِيْنَ ۝

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَّمَ عَلٰى عِبَادِهِ
الَّذِيْنَ اصْطَفٰى وَاِنَّ اللّٰهَ خَيْرٌ اَقْبَا
يُشْرِكُوْنَ ۝

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَجَاءَتْ بِثَنَا
بِهِ حَذَائِقُ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ
لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الَّذِينَ بَدَلُوا بِأَعْقَابِهِمْ لِحُكْمِهِمْ ۝۱۱

(انجرو تو، آسمان تہ زمین کئی چھ پاد کڑی
ہتی؛ تہ تہند خاطر (کئی) چھ اوبہ منج آب
وہل مت؛ پتہ چھ امیر (کئی) ستی اسر خوبورت
بانج وہ پادوی ہتی۔ توہی چکیہ ہو تہ جن (باغن)
ہندک کئی نوڑاوتھ۔ کیا اللہ (تعالیٰ) ہس ستی
چھا بیاکھ تہ معبود؛ (میں ساری کائیہا کت انظام
کران چھ)۔ اناپوز بیم (کافر) چھ تہتھ قوم ہم
تہدی شریک بناوان چھ۔

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ
خِلْفَهَا آتْهًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ
بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِذَاتِ السُّرُورِ ۝۱۲

(وڈی توڑی) کئی چھ زمین قرار تیج جاے بناوتہ؛
تہ اتھ منج چھن کولہ تہ ڈریاو پکناوی ہتی تہ تمہ
کہ (قاید) خاطر چھن پہاڑ بناوی ہتی تہ وہن
سمندرک درمیان (کیو منج اکھ میوٹھ تہ اکھ توش
آسان چھ) چھن ٹھور ہوتھ۔ کیا اللہ (تعالیٰ)
ہس وراڈی چھا کانہہ بیاکھ معبود؛ وہڈی گوو حقیقت
چھتھ یہ نہ تو منج چھتہ واریاہ زانان۔

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ
السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءً أَرْضَ اللَّهِ قَلِيلًا
مَا تَذَكَّرُونَ ۝۱۳

(بہی وڈی تہ) کس چھ کانہہ بے کسہ سد دعا
بولن؛ نیلہ سہ تس (خالیس) دعا منگان چھ تہ
سہ چھ (تسد) تکلیف دور کران تہ سہ بناوی
و تہہ (دعا منگان والہن انسان، اکھ وہہ ساری
زمینک وارث کیا) (تس قادر مطلق) اللہ (تعالیٰ)
ہس وراڈی چھا کانہہ بیاکھ معبود تہ؛ توہی چھو
تہ سٹے نصیحت ڈان۔

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ
وَالْبَحْرِ مَن يُّرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ
تَعَلَّقُوا بَأْسَهُمْ إِنْ هُمْ يُشْرِكُونَ ۝۱۴

(وڈی تو) خود شکیں تہ سمندرک ہندن نصیحت منج
کس چھو توہہ نجارت تھہ ہوان، تہ کس چھ پتہ
(باران) رحمتہ بروٹھ خود شخبہ ہند رنگ، خوش ہوا
سوزن؛ کیا اللہ (تعالیٰ) ہس وراڈی چھا کانہہ
بیاکھ معبود؛ اللہ (تعالیٰ) چھ تہننرو شرکہ جو

لہ روایتی واحد راسیۃ لنگر نیمہ ستی سمندری جہاز ڈولہ نہ نشہ بچان چھ۔ کوہ
تہ چھ زمینہ ہنر حرکت منج ہواوی تہ راہاری پاد کران۔

کتھو رشتہ سہما تھوڑ۔

(تو تو تر) سہ یس گھوڑیکہ لہڑ پاد کران چھہ
 تہ بیہ چھہ (پیدا آیتہ ہند) سلسلہ جادی کران
 تہ یس اوہر تہ زمینہ منہز توہر برزق ووان چھو
 کیا (تس تدر مطلق) اللہ (تعالیٰ) ہس ورا ی
 چھا کاشہہ بیاکہ معبود تہ؟ تہ ون نہ اگر توہر
 پز یارک چھو تہ پنہ ڈیل کرو پیش (نہ تو ہند
 بھو چھہ بیہ تہ)۔

(بیہ) ون تر آسمان تہ زمینہ منہز یوسہ پاد آیش
 تہ چھہ۔ تھالیں ورا ی چھہ (تو منہز کاشہہ) کتاب
 زانان تہ تو منہز چھہ تہ تہ کاشہہ فکر تران نہ
 تم کرین زندہ کر تھہ تہلنہ۔

بلکہ حقیقت چھہ یہ نہ آخرتہ چھہ زندہ متعلق
 چھہ تہ ہند علم ملے مو کلیومت۔ بلکہ تم چھہ تمہ
 کہ حقہ سخس منہز پیچہ۔ بلکہ تم چھہ تمہ کہ
 حقہ نہ اذ۔

بیہ چھہ سافر ونان نہ کیا نیلہ اُس تہ سانی چلا جا
 میٹر گڑھن تہ اُس بکوا بیہ (زمینہ منہز)
 زندہ کر تھہ کڈنہ؟

اسہ تہ سانہن جہن اجدان سنی اوس امہ
 برو تھہ تہ میتھہ وعبہ کرنہ آمت۔ مگر ہم چھہ صرف
 برو تھہ ہن لوکن ہنہر کتھہ (ہم نہ زانہہ پلوہ
 سپلان چھہ)۔

تہ ون نہ زمینہ منہز چھہ تہ وچھہ نہ جرجمن
 ہند انجام کی تھہ سپدے یاو۔

بیہ مدہ کر تہ ہن پیچہ علم تہ تہ ہند پو تھلو ہند
 باعتہ مدہ کر منگل محسوس۔

بیہ چھہ تم ونان اگر توہر پز یارک چھو تہ یہ (غالب)
 وعبہ کر سپد پلوہ؟

تہ ون نہ ممکن چھہ نہ سہ (عذاب) بیہہ خاطرہ

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ
 مَنْ يَزِدُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 إِلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵﴾

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ
 يُبْعَثُونَ ﴿۶﴾

بَلِ إِذْ رَكَ عَلِمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ تَبَلَّ
 هُمْ فِي شَكِّ مَثَلًا تَبَلَّ هُمْ مَثَلًا
 عَمُونَ ﴿۷﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا
 تُرَابًا وَآبًا وَنَا أَنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿۸﴾

لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا
 مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ
 الْأَوَّلِينَ ﴿۹﴾

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۰﴾

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي
 ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۱﴾

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۲﴾

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفَ لَكُمْ

بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۳۱﴾

تو ہی ورتھ کران چھو، تمیک کینہہ حصہ آسر
توہر پتہ پتہ پکان۔

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۲﴾

تہ چون پروردگار چھ لوکن پیٹھ فغیل کرن وول
وولنی گوو، تھو مغز بھنو واریاہ شکرانہ کران۔

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ
وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۳۳﴾

بہ چون پروردگار چھ تم چیز تہ زانان ہم تہندہ
وچھ کھٹھ تھوان چھ تہ ہم تم تھو روان چھ۔

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ
اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۳۴﴾

بہ آسان تہ زمینہ مغز میں کائہہ تہ کھٹھ
چھنر چھ (سہ) چھ اُکس بیان کران واجتہ کتاب
مغز (تھرتھ)۔

اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُضُّ عَلَىٰ بَنِي
اِسْرَائِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿۳۵﴾

یہ قرآن چھ بنی اسرائیل ہروٹھ کتہ یز پانٹھ
تہ کتہ بوزناوان یمن مغز تم اختلاف کران چھ۔

وَلَا تَهْ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۶﴾

بہ ہمہ یہ (قرآن) مؤمن ہند خاطر ضرور
ہایت تہ رحمت۔

اِنَّ رَبَّكَ يَفْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۗ وَ
هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿۳۷﴾

چون پروردگار چھ یمن (بنی اسرائیل) در میان
پسنہ محکمہ (یعنی قرآن) سنتی (وز) نامہ
کران۔ تہ سہ چھ غالب (تہ) سبھا بڑ کلمہ وول۔

فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللّٰهِ ۗ اِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ
الْمُبِيْنِ ﴿۳۸﴾

لہذا اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ کرتوک تہ چھاکھ
بے شک اُکس اولیہ و اہلس حقس پیٹھ قائم۔

اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِي وَلَا تَسْمَعُ الضَّمَّةَ
الدُّعَاءِ اِذَا دَلُّوا مَذْبِرِيْنَ ﴿۳۹﴾

تہ ہیکھ تہ ہرگز مودن بوزناوتھ تہ نہ ہیکھ
کھ زُرکی (پنڈو) آواز بوزناوتھ۔ (خاص کلمہ)
نیلیہ تم تھر چھرتھ گرتھان چھ۔

وَمَا اَنْتَ بِهٰدِي الْعَمِي عَنْ
ضَلٰلَتِهِمْ ۗ اِنْ تَسْمَعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ
بِايَّتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿۴۰﴾

بہ ہیکھ نہ تہ انہن تہ تہنہر تھرا ہی نشہ بجاتھ
ہایت وٹھ۔ تہ تہ چھکھ صرف تے بوزناوان
ہم ساہن آہن پیٹھ ایمان انان چھ تہ تم چھ
(علمہ کوی تہ) فرمانبروار آسان۔

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا
لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ

بہ نیلیہ تہنہر تہا ہی ہنر پیٹھ کولی پور سپد
تہ اُکس کڈون تہند خاطر زمینہ مغز اھ کیوم

لہ اتھ چھ مراد طاعونک کیوم یا جراثیم۔ حدیس مغز چھ اُمت زراخری زانسن مغز یہہ بہ بیاری خاطر کرنہ۔

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۵۷﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۵۸﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَكَمْ تَحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ آذًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۹﴾

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿۶۰﴾

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوهَا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۶۱﴾

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۗ وَكُلُّ أَتَوَّهٍ دَاخِرِينَ ﴿۶۲﴾

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمُرٌّ مَرَّ السَّحَابِ ۗ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَثَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿۶۳﴾

یس امن لو پیر دیہ - امیر با عشرت نہ لوکھ چھینے سائین نشان پٹھہ پڑھ تھولن۔

بیہ (کریا) سہ دوہ نیلہ اسی پرتیہ (تتہ) قومس منزیس سائین نشان انکار کران روزان آسہ اکھ بڑ جماعت کھڑا کرون - پتہ پیہ سہ (جماعت پڑھ گار خا طہر) بیون بیون درین منز با گراونہ تہ نیلہ تم تس نش وا تن ، سہ وہ امن ، کیا توہہ کریاوا میا بن نشان ہند امیر با وجود انکار نہ توہہ ا سونہ علیہ کہ ذریعہ امن ہنر پور زان حابیل کڑ ہنر - یا لو ییہ نہ (اسلاس ہنل کھ) کھ سائز ہنر اسی و توہہ کران۔

تہ تہند لو تھلو کھ سپہ امن ہنل خلاف کرتہ آمہنر پٹھہ یی پور ، تہ تم ہون تہ کائہہ کتہ کتہ۔

کیا امن چھنا معلوم؟ نہ اسر چھ او کھ رات بناو ہنر نہ تم کرن اتھ منز آرام حابیل ، تہ دوہ چھ اسہ و چھنک طقت دہ وول بنوومت۔

اتھ منز چھ یقینا مومن قومہ خا طہر بڑ نشان۔ بیہ (سہ دوہ تہ کریاوا) نیہہ دوہہ پوگس پھو کھ دنو پیہ نیہہ کس نیہہس منز آسان تہ زمینہ منز ییس کائہہ تہ چھ (سہ) ترہہر - تس ورا یی نیہہس متعلق اللہ (تعالی) نیہہرہ (زسہ روزان ترہہر نشہہ یچتہ) تہ سر سائل بن (خدا یہندس) دربارس منز تالدار تہ فرمانبردار سپدہ۔

بیہ چھکھ تہ بان اتھ مولتس منز وچھان زن تم چھ پسنہ جایہ ٹھہر تھ۔ حقیقت چھینہ نہ تم چھ او برکٹ پا طہی پکان ایہ چھ اللہ (تعالی) ہنر کارگری ، نیہہ پرتہہ چیز مضبوط بنوومت چھ (تہ) سہ چھ تہند لو اعلو نشہہ یلور تہردار۔

لہ اتھ آیس منز چھ اشار ز زمین چھید حرکت کران پرا نی عالم اسی زمینہ ساکن زمانان

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا يَكْتُمُ
هُم مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَ يُؤْمِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِنَا لَمَّا جَاءَهُم مِّنَّا مَتَرًا مِّنَ السَّمَاءِ
مَوْتًا مَّيْمَنًا مَّوْتًا مَّيْمَنًا ۝۱۰

میں اکھاں کی کرتس میلہ تمہ کو تمہ جاہرت بلہ
تہ پتہم لاکھ روزن تمہ وہ ہہ تمہ خوفہ انشہ (تیمیک)
پیچہ کتبہ ذکر کرنہ او (حفاظتہ سان۔

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ دُجُوهُهُمْ
فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ۝۱۱

تہ یم لاکھ بیچہ اعمال ہتہ خدایہ ہندس خدس
مغز جاہر سپدن۔ تہندس سردارین جہنم
مغز ہتہ وارک ترہن ہ (تہ ونہ پیہ) نر کیا
تہند جزا پھنا تمہنر عملہ مطابق؟

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ
الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ زَوَّأْمُرْتُ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۱۲


میں تو پتہ صرف یہ حکم دیہ امت نر ہہ کر نیہ
(مکہ) شہر کس پروردگار ہنر عبادت، میں تمہ
(پروردگار) عزتہ اول بنومت چھہ۔ تہ پرتہ
چہر چھہ تہند ہے اتھس مغز۔ بیہ چھہ میں حکم
دیہ امت نر ہہ سپہ فرمانبردار و منہر۔

وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا
أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝۱۳

بیہ میں چھہ میں حکم دیہ امت نر ہہ بوزناو قرآن
پڑتہ۔ او میں تہ بوزنہ ہایت لبہ تہ تہند ہایت لبہ
بیہ صرت تہند ہے زوس بکار۔ تہ میں بوزنہ تہ
مغز گرتہ تہ تہ دن تس نر ہہ چھس صرف اکھ
بشیر کرن دزل (وعلو)۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِخَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ۝۱۴

بیہ دن پیہ نر اللہ (تعالیٰ) ہہ چہ سارہ
تقرین ہند خد ر۔ سر تاوہ تہ ہہ ہنرستان یوت
تام نر توہ تم پر بوزناو لاکھ۔ تہ تہند پروردگار
چھہ تمہنر علوانشہ غافل۔



سورة قصص، یہ سورہ پتہ نلی تہ بسم اللہ ہتہ چواتہ کتہمتہ آپہ بیہ چھس نور کوع۔

(بر چھس) اللہ (تعالیٰ) مند تاو ہتہ (پران)
میں حد زوس کرم کرن اول (تہ) پھیرک پھیرک
رحم کرن اول چھہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

طسّمۃ ①

طاہر (پاک) سمیع (دعا بولنے والی) مجید (بچہ)
بزرگی و اول خدایے چھ منیہ سورت تازل کرن
اول۔

بیمہ اینیہ سورت آئیہ ، چھ اکو مدلل کتابہ ہندی آئیہ ۔
مؤمن قومہ کہ نایب خاطر چھ اسی موسیٰ تہ فرعونہ
ہندی اہل واقعات تریہ بروٹھ کتہ پران ۔

فرعون اوس (پسنس) ملکس مشرین تھنر تہ بجر
تھیکان تہ جمل روزن وارا امن چھلہ کڑی کڑی ۔
سہ اوس بیٹھان تھو مشر اکھ وڈور کمزور کرن ۔ (پیغمبر)
پاٹھی نہ تہندن نیچون اوس کھش کران تہ تہندن
کورن اوس زبند تھاولان تہ سہ اوس یقینا فساد واندہ
تہ اسر اوس ارادہ کڑتہ تھومت نہ بیم ٹوکھ ملکس مشر
کمزور زانہ تہ اسی ، تمن پٹھہ کرو اسی اسان
تہ تم بناووکھ سردار تہ تم کروکھ (سارنہ نعمتن
ہندی) وارث ۔

بیمہ تھساو و تمن ملکس مشر طاقت تہ فرعونس
تہ مانس تہ تہندن لشکران اوو تہ کینترھا
بیمیک بیم تمن اول ۔

بیمہ اسی موسیٰ ہنر ماجہ کن ووجی کڑ مشر
نہ تمس (یعنی موسیٰ ہس) د وود ۔ پتہ بیلیہ
تریہ تہند (زوکہ) حقہ خطرہ باسی تہ سہ
تراوی زبن تہ دریاوس مشر تہ کھوڑی نہ تہ نہ
ہنیر تہ کتہ پتہ کتہ ہندی علم ۔ اسی انون سہ تریہ
کن واپس چھپتہ تہ سہ بناون رسولو مشر (اکھ
رسول) ۔ (اوکیاہ تہ موسیٰ ہنر ماجہ کڑ وچہ
مطابق عمل تہ موسیٰ تروون دریاوس مشر) ۔

ادتل اسر پتہ سہ (موسیٰ) فرعونہ ہندی تھاندہ
مشر اکھ بیمیک نتیجہ دراویہ زاکہ وہ بہ سپد

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ②
نَشَلُوا عَلَيْكَ مِنْ لُبِئِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ
بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ③

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا
أَهْلَهُ أَشْيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ
يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ
أِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ④

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا
فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ
الْوَارِثِينَ ⑤

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمْ مِمَّا مَنَعَهُمْ
مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑥

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ
فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَ
لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ
إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ⑦

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ
عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَ

جُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ①

سہ بہمن کبیت دشمن ثبات تہ تمک باعت بنیو کہ
فرعون تہ امان تہ بہمن دونوں ہندک لشکر
اسی غلطی منتر ہینہ آہتی۔

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَرَّتْ عَيْنِي
لِيْ وَ لَكَ لَا تَقْتُلُوهُ بِ عَسَى اَنْ
يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَ كَدًا وَ هُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ②

تہ فرعونہ ہند خاندانہ چہ (اکہ) زنانہ وڈن۔ یہ (شرا)
سید چاہہ خاطر تہ میانہ خاطر اچھن ہند شہیاد
موجب۔ یہ مہ کر لیں قتل۔ ممکن چھہ نہ (اکہ)
دوہ واناوہ یہ اسر قایدہ یا اسی بناوون یہ (پڑنا)
نیچو۔ تہ بہمن اس نہ اصل حقیقت معلوم۔

وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ اِمْرِ مُوسَى فِرْعَاوَانَ
كَادَتْ لَتُبْدِي بِهٖ لَوْ اَنَّ رَبَّنَا عَلٰى
قَلْبِهٖا لَتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ③

تہ موسیٰ سنتر ماجہ ہند دل گود (غمہ آنتہ) آزاد۔
اگر اسی تند دل مومن بناوہ خاطر ڈراو ہون
نہ تہ ممکن اوس نہ سو کرے اسر و اچھ سارے
اصلیت نچو۔

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهٖ وَقَبْصُرَتْ بِهٖ
عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ④

تہ تمہ (یعنے موسیٰ سنتر ماجہ) وڈن سنتر (یعنے
موسیٰ سوتر) بیسہ نہ تمس پتہ پتہ پتہ گزشتہ۔
اتی روز سوس دوہ پتہ نظر تہ تم (یعنے
فرعونہ ہندک لاکہ) اسی بے خبر۔

وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَىٰ اَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ نَاصِحُوْنَ ⑤

تہ اسر کر تس (یعنے موسیٰ اس) پتہ اسر پتہ
دوہ ماجہ حرام۔ اتی وڈن تمہ (یعنے موسیٰ سنتر
بیسہ) نہ اچھا کیا بہ و لو و توہہ اکس تمس گر
واہن ہند پے ہم اسر تہندہ پتہ رہیں تہ تم
سیدن اکر ہندک رت کاچھن و اہل ثبات۔

فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اٰمِهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ تَرَ
تَحْرٰنَ وَ لِيَتَعَلَّمَ اَنَّ وَ عَدَا اللّٰهُ حَقٌّ
وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑥

تہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
زن تمہ سنتر اچھ شہین تہ سوہ بر نہ علم بیہ زانہ
نہ اللہ (تعالیٰ) سند و عدہ چہ پتہ سیدتہ روزان۔
اپوز (منکر مشر) چھہ واریاہ زانان۔

وَ لَقَا بَلْعًا اَشَدُّهٗا وَ اَسْتَوٰى اَتَيْنَهٗ
حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِيْنَ ⑦

پتہ نیلہ سہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
تحدس اخلاص پتہ (سید مقبولی سان قائم) تہ
اسر بخش تس حکم تہ علم تہ اسی چہ محسن میتھ
بدلہ ووان روزان۔

وَ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ

تہ سہ آو (اکہ دوہہ) شہرس منتر تہہ وقتہ نیلہ لاکہ

مِنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شَيْعَتِهِ وَهَذَا
مِنَ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ
شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ
فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ هَذَا قَالَ
هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ
مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴿۵۰﴾

غفلتہ کس حالت میں موسیٰ نے تم کو دیکھا تھا (شہر میں)
منزل پر انسان اسی پانچ واڈی شروان اکہ اور تہند
تو کہ تہ بیا کہ اوس تہندو دشمنو منزل میں تہند
جہازہ منزل اوس، تم مونگ تہندو تہندو تہندو
خوف میں تہندو دشمنو منزل اوس۔ اتھ پیٹھ لے
موسیٰ ہن تہندو (دشمنس) اکہ مکالہ تہندو (مکالہ)
سوتو گوتو سہ از جان۔ پیٹھ وون موسیٰ ہن یہ سوتو
وارکوات سید شیطانی عملہ سوتو۔ سہ (شیطان) پیٹھ
(موتہ سہند) دشمن تہندو (تہندو سہند چہ و تہندو سہند)
ڈالہن وول۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ﴿۵۱﴾

پیٹھ کوز موسیٰ ہن دھارے اے میانہ پروردگار!
میں تروو پین زو تکلیس منزل۔ لہذا تہندو تہندو
میانہ اتھ کارس پیٹھ پرورد۔ اتی تروو تہندو تہندو
کارس پیٹھ پرورد۔ سہ چہ سہندو بخش وول (تہندو)
پہچری پہچری رگم کرن وول۔

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ
أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿۵۲﴾

تمو (موسیٰ ہن) وون، اے میانہ پروردگار! نکلیاز
شریہ چھتہ میں پیٹھ انعام کوزرت اوکو بہ بہتہ تہندو
زانہہ کانسہ مجرم سہند مددگار۔

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
فَإِذَا الَّذِي اِسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ
يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ
لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿۵۳﴾

تہندو پیٹھ دراوسہ شہر میں صبحہ کر وقتہ دشمن کھولن
تہندو اوکن یوکن وچھان تہندو کیا چہ وچھان، تہندو رات
تہندو مدد اوس مونگتہ سہ چہ بیہ تہندو مدد
خاطر او وون۔ اتھ پیٹھ وون تہندو موسیٰ ہن،
تہندو چھکھ یقینا نکا کار پانگو اکہ گراہ۔

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي
هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَىٰ أَنْتَ رِيْدُ
أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا
بِالْأَمْسِ ۚ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

ادو۔ میں تہندو ارادہ کوز تہندو شخصس رتہ سے
میں تہندو دونوں ہندو دشمن اوس تہندو (شخصس)
وونس تہندو اے موسیٰ! کیا تہندو چھکھا میں چھان تہندو
میں تہندو کرکھ تہندو پانگو تہندو راتھ اکہ شخصس

لہ یعنی پتہن کرن منزل اوس شونگتہ آرام کرن۔

لہ یعنی بنی اسرائیل شخصس زون غلطی سوتو ز موسیٰ ہن ماہیوتس بہ تہندو قبل کرن۔

جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونِ
مِنَ الْمُضْلِحِينَ ⑩

قبل کرایتمہ ؟ تیرے مجھ کو صرف یہ بیٹھان نہ
کنزور دباؤ کہہ ٹکس منتر تیرے اصلاح کرن والہن
منتر شامل سیدن چھتہ چرن مطلب -

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ
يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ
يَأْتِيكَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ
إِنَّ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ⑪

بیہ آو تمہ وقتہ کہ شخص شہر کیر دور کیر حصہ پیٹھ
دوان دوان تیرے ووزن اسے موسیٰ ! (ٹنگو) رئیس
چھ مشور کران نہ تیرے کرنے قبل - لہذا (میان)
کتھ بوز تیرے (تیرے شہر منتر نیر بہ چھس چانو
رت کا بھجن والہو منتر -

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ
رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ⑫

اِدِ درو سہ تمہ شہر منتر، کھوڑی کھوڑی تیرے پشیری
سان اوس سہ اوکھ یوکن وچھان پکان - تمہ
وقتہ کور تمہ دعا تیرے ووزن، اسے میان پرور دگار!
میںہ دروالم توہر بترہ نجات -

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ
رَبِّيَ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ⑬
وَلَمَّا دَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ
أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ لَهُ وَجَدَ مِنْ
دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا
خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ
يُضِرَّ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ
كَبِيرٌ ⑭

تیرے بیلہ سہ مدین شہر کس ناگس پیٹھ دوت تیرے تمہ
وچھ تمہ پیٹھ لوکن منتر کہہ جماعت استاد ریم
(پسٹین چارواہن) تریش چاوان اوس تیرے تمن
نش پتھ یہن ڈولتہ وچھن وودنہ نہ زنا نہ ہم
پسٹین چارواہن اوکپور کڈان اوسہ - موسیٰ ہن
وون تمن، توہر دونوں کوہر اہم کام چھو کر نہ!
تھ پیٹھ وولس دونوںے وہے زنا نو - اسی ہیکو
نہ تریش چاوتھ یوتانی باقی پہلی نیرن نہ تیرے
مول چھ سبھا بڈر (اوکھ ہیک تیرے اسہ سوتی تیرے)
لہذا چاوتھ تمہ تمن دونوں ہند خاٹھ (تہندر چارواہن)
تریش - پتہ درو اوس شہا یہہس کن - پتہ ووزن
اسے میان پرور دگار! پسٹین چاوتھ منتر یہ کینترھا
تیرے میںہ پیٹھ نازل کر کہ بہ چھس تیرے محتاج -

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ
رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ
فَقِيرٌ ⑮

تمہ پتہ آپہ تمہ دونوںے وہے کورہ منتر کہ کور
پکان تیرے سوس مندر چھان تیرے تمہ وولس - میون
مول چھے تیرے اوکران میتہ نہ سہ تیرے نہ کتہ

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ
اسْتِخْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ رَبِّي يَدْعُوكَ
لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا

جَاءَهُ وَقَضَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۖ قَالَ
لَا تَخَفْ ۖ نَتَجَاوَزُ مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿۳۱﴾

(چارواہن) تریش چا و پوچھ اُجرت دسی۔ او بیلیہ
سہ تمس (یعنے کورن ہندس ماس) ہنش آو
تہ تہ ہنش کورن (پین) سورسے رودلا بیان
تہ تمز وونس، مہ کھوش، تریہ پچھتہ وورڈ ظالم
قومہ ہنشہ نجات لوہمت۔

قَالَتْ اخذْهُمَا يَا بَتِ اشْتَا جِزُهُ زَانٍ
خَيْرٍ مِّنْ اشْتَا جِزَتِ الْقَوِيِّ الْاَمِينِ ﴿۳۲﴾

اتھ پیٹھ وون تمو (دوہوے وپے کورلو) منہز
اکہ، اے میاں بہر! یہ تھون تہ موزم تہ
کیا نہ پیم تہ لوکر تھو کہہ تمو منہز بہتر آسہ سے
شخص لیس مغبوط تہ آسہ تہ امانت وار تہ آسہ۔

قَالَ رَبِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيْ
هٰتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرْنِيْ نَمْرِيْ حٰجِجٌ ۚ
فَاِنْ اَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ
وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَشْفُقَ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِيْ
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۳۳﴾

اتی وون تمو (اے موسیٰ) بہ چیس بیہرہان نہ
بہ کرے پسنبو پیمو دولو کورلو منہز اُس سستی تریہ
نکاح، اتھ شرطس پیٹھ تہ تہ کرکہ اٹھن وورکین
تام میاں خدمت۔ او اگر تہ (مٹھو بدلہ) داہ
(ووری) و تھ پین وعدہ مکمل کرکہ تہ یہ آسہ پون
احسان تہ بہ چیس نہ بیہرہان تریہ پیٹھ کا نہہ
بار تراون۔ اگر اللہ (تعالے) ہن یوزھ تہ تہ
بکہ مینہ نیک ورتا و کرن والہو منہز۔

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ ۗ اَيُّمَا
الْاَجَابَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۗ
وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۳۴﴾

(اتھ پیٹھ) وون (یعنے موسیٰ ہن) یہ کتھ گئے مینہ
تہ تریہ درمیان پونہ تہ۔ بکو وونوے وپے مٹھو منہز
یس اکہ) تہ بہ پوز ہیکہ کرکہ مینہ پیٹھ آسہ نہ کا نہہ
الزام۔ تہ یوہ کتھ اُس کران چہو۔ اللہ (تعالے) کتھ
تتھ پیٹھ گواہ۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْاَجَلَ وَسَارَ
بِاهِلِهِ اَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۗ
قَالَ لَآ هٰلِكَ اَمْكُثُوْا اِنِّيْ اَنْشَأْتُ نَارًا
لَّعَلِّيْ اْتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ
مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿۳۵﴾

بیلیہ موسیٰ ہن گند نہ آمت مدت پوز کور تہ پینہز
گر باہر ہتھ دلو تہ تمز وچھ کوہ طور کوزی اکہ نار
(تہ) پسنبین باشن وون۔ توہی روزو مینو ہے،
مینہ وچھ اکہ نار، شاید بہر اتہ تہ پیٹھ تہ بندہ خاطر
دعزور) کا نہہ خبر یا انہ کا نہہ نار تہ تہ گلاہ
نہ توہی سہ پیٹھ وشنیرا کرہ۔

فَلَمَّا اَنْهٰ نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ
الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ

پتہ بیلیہ سہ تہ (داس) ہنش ووت۔ تہ برکترناک
جاہ ہند اکہ برکترناک حصہ کہہ اکہ کتھ ہنشہ آو

الشَّجَرَةَ أَنْ يُمُوسَىٰ رِيبِي أَنَا اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ
كَأَنَّهُهَا جَانٌّ وَلِي مُذِيرًا ۗ وَلَمْ
يُعَقِّبْ ۗ يُمُوسَىٰ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ
رَأَيْتَكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٥٧﴾

تس نادو نہ، اے موسیٰ! یہ چھ سے اللہ تعالیٰ
سارے عالمین ہند پروردگار۔

بسیہ یہ نہ، تیرا دن پتہ حاصل پھر دارتھ۔ اور نیلہ
تو سہ (عاصہ) سہ سہ کے کان کو چھ زن تہ سہوں
اکھ لوگ سرف۔ سہ سہوں تھ پھرتھ تہ پتھ
کن پھرتھ سہوں تہ نظر (اور آوتس ونہ) اے
موسیٰ! برٹھ پکھ تہ کھوڑ مہ، تہ چھکھ سلاتی لین
والہو لکو اندر۔

أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرِيحَ بَيْضَاءَ
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۗ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ
جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذُنُوكَ
بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۖ
مَلَأْنَاهُ مِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٥٨﴾

(بسیہ پتہ) تو تہوں پنسن ناس منز، سہ نیر
گہ منزہ وادی پریوں تہ پتہ تر بلناون خوفہ
کر ہمتہ (زور سان) لہتہ (پنسن بدس سہتی)
ہم نہ دلپہ چھیتہ (بہو دلپہو علو) ہم فرعونس
تہ تسدین دربارین کن چائس پروردگار ہند طرفہ
سوزنہ آمتہ چھیتہ۔ تہ کیا زہم چھ فرمانبردار کی تہ
نیرن وادی لولکھ۔

قَالَ رَبِّ رَبِّي فَعَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ
أَنْ يُقْتَلُونِ ﴿٥٩﴾

(موسیٰ بن) وون، اے میانہ پروردگار! میں چھ
فرعون ہند توہ منز اکھ شمس قبل کورت۔ اور کو
چھس بہ کھوڑان نہ تم گڑھی نہ میں قبل کرنا
(تہ بلان پیغام بیہ نہ واتاوتہ)۔

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا
فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي
آخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٦٠﴾

تہ میون بوے ہارون چھ کتھ کرنس منز میانہ
کھوڑ جاو عتس کلام۔ لہذا سوزن سہ میں سہتی مددگار
ہند حیشیتہ، میتھ زن سہ میون تصدیق کر۔ بہ
چھس کھوڑان نہ تم گڑھی نہ میں اپنا وڈ۔

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ
نَجْعَلُ لَكُمَا لِكْمًا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ
إِلَيْكُمَا ۖ بِأَيْتِنَا ۖ أَنْتُمَا وَ مِنْ
أَتْبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٦١﴾

فرعونس (اللہ تعالیٰ بن) اسی کرو چائس باڈی ہند
دسو چاڈی تر مغبوط تہ توہہ دونوں ہند مخاطبہ
کرو فیکل سامانہ پاؤ۔ اور ہمکن نہ تم توہہ تام
واتھ۔ توہی دونوں تہ ہم توہہ دونوں ہند تابور
آسن سدن سانہو آیو ہند دسو غالب۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ
قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَىٰ وَمَا

اور نیلہ موسیٰ سانی ٹاکا کر آہ ہتھ او تہ فرعونہ
ہند لوکو وون۔ یہ تہ چھ اکھ فریب یس بناوتہ

سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿۵۷﴾

آمت پچھ۔ اسے پچھنے سے پہلے جن اجداد انش
پڑھ کتھ نہ نہیں بوز موش۔
تہ موشی ہن وون میون پروردگار چھ تس نہ ریا پو
زمان میں تہندہ طرفہ ہدایت اہر بیہ تس تہ سیمو
سند انجام رت آسہ۔ پزر چھ پیر نہ ظالم چھنہ
نہ نہیں کامیاب سپان۔

وَقَالَ مُوسَى رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ
بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ
عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ﴿۵۸﴾

تہ فرعون وون۔ اے دربارو! میں نے چھنہ پانس
ورای تہندہ کتھو معبود معلوم۔ لہذا اے مان!
میاہ خاطر زال میشر پچھ نار (یعنی سیر کوندر
لگناو) پتہ کر میاہ خاطر اکھ قلبہ تیار۔ شاید اتھ
پچھ کتھہ کرن ہر موشی سند خداے معلوم۔ تہ
ہر تہ چھسن سہ اپز یار پو منتر زمان۔
بیہ تمو تہ تہ تہندہ بوشو تہ پتہ کس منتر ناحقہ
تکس کام تہ خیال کوڑک نہ تم میں نہ اسے کن
چھ پتہ اتھہ۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا
عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي ۚ
فَأَوْقَذَنِي يَهَامُنَ عَلَى الطَّيْنِ
فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّحَيٍّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ آلِهِ
مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَكْظُمُهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۵۹﴾

وَاشْتَكَبَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ
يَغْيِرُ الْحَقَّ وَظَنُّوا أَنَّهُم لَآئِنَّا لَا
يُزْجَعُونَ ﴿۶۰﴾

اڈرٹ اسے سہ تہ تمو ہندو شکر تہ تہ تم وڈ
سندرس منتر دارتھہ الی وچتہ نہ ظالم ہند انجام
کتھہ سڈ؟

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي
الْيَمِّ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظَّالِمِينَ ﴿۶۱﴾

بیہ آسی آسی تم (فرعون) سردار بناؤرتو ہم
اپنہ سرداری ہندس شمس منتر) لوکن جہنم
کن سل کران آسی تہ قیامتہ دوہر بیہ نہ تم
کٹھو اتھ ٹوٹ کرنہ۔

وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَذْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿۶۲﴾

بیہ یچہ تہ نیاس منتر تہ سوز اسے اتھن پچھ لعنت
تہ قیامتہ دوہر تہ آسن تم بد حال لاگو منتر۔

وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۶۳﴾

بیہ بتشاو اسے موشی ہن کتاب اسے پتہ نہ
اسے آسی برونہم قوم ہاک کرے موش۔ تہ پتہ تعلیم
اُس لوکن روتانی اچھ کاشش عطا کران بیہ اُس
سہ ہدایت تہ رحمتک موجب (تہ) اسے باپتہ
(اُس دنہ آمتہ) نہ تم رٹن نصیحت۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ
مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿۶۴﴾

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْخَزْيَيْنِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۵﴾

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿۱۶﴾

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحِمَةً مِّنَ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾

وَلَوْ لَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ مِّمَّا قَدَّمْتِ آيَاتِهِمْ لَفَقَوْا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُنَبِّئَكَ بِآيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْ لَا آوَيْنَا إِلَىٰ مَثَلِ مَا آوَيْنَا مُوسَىٰ، أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا آوَيْنَا مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ، قَالُوا سِحْرِن بَطْشَ هَارُونَ وَ قَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ نُونَ ﴿۱۹﴾

بیسے اوسکھ نہ تہ (کوہ طور پر) مغربی طرف
 نیلے اسر موسیٰ ہس (پیغمبری ہنتر) کام توالہ کر یا بیہ۔
 تہ نہ اوسکھ تہ (تہر وقتہ) گواہن منتر اکھ گواہ۔
 دوڑ کوہ اسر کڑی واریاہ قوم پاد۔ اور نیلے جس وائس
 زبیلے پہ (تہ جس گے پس نہ پیشگو بیہ مشتہ) تہ نہ
 اوسکھ تہ مدین والہن سستی تہ روزان، تہ تمس بروٹھ
 کہہ ہوز ناہ کہہ سانی نشانہ پرتھ۔ اما پوز رسول سوزن
 واپر چہ اسی۔

بیسے اوسکھ نہ تہ کوہ طور پر پاسہ۔ نیلے اسر (موسیٰ ہس)
 ناد کر یا۔ اما پوز پہ سورے کہہ نہ چہ چائس پروردگار
 ہند طرف رحمت۔ بیٹھ تن تہ سہ قوم ہیشا کر ہن
 یکن ہن تہ بروٹھ کانہ ہنشا کرن دول اوس تہ
 آمت۔ بیٹھ نہ تم نصیحت رٹن۔

بیسے اگر یہ خیال اسر ہے نہ نہ پسنبوا اعمال ہی کانہ
 مصیبت پیش پیشہ ون تم، اسے سانہ پروردگار!
 تہ کیاز سوزتھ نہ اسر کن کانہ رسول بیٹھ زن
 اسی چائس این ہنتر پاروی کہ ہو تہ مؤمنو منتر
 ہن ہو۔ (نیلے شاید اسی سوزتھ نہ تہ رسول بناوتھ
 مگر کافرن پہلہ اسی حجت قائم کر تہ ضروری)۔

پتہ نیلے تمس نش سانہ طرف حق او تہ تم وون
 اوس (یعنی محمد رسول اللہ ہس) کیاز بیچ نہ ترہ
 تعلیم پتہ موسیٰ ہس بیچ ہنتر اسی؟ کیا تمو
 اوس ناہ اسر بروٹھ موسیٰ ہنتر تعلیم ہند انکار
 کوزمت؟ تمو اوس وونمت نہ نیم دولوسے چہ
 بڑی بودر نیم اکھ اوس مدد کران چہ اسی اوسکھ
 وونمت نہ اسی چہ بیو اندر پرتھ اکھ ہند دعوہ کر

۱۵ یعنی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بذریعہ وحی اطلالہ دیدہ اور نثریہ پتہ پہا اکھ عظیم الشان شریعتہ دول رسول یعنی
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہس مغز سوزتہ تہ موسیٰ علیہ السلام کڑیہ پیشگوئی پہ ہنتر موسیٰ بروٹھ کہ بیان۔
 (استثناء باب ۱۸)

مُسْكِرًا -

تہران (اگر موسیٰ تہرانوں تہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے ہنر کتھ اپڑ پھیر تہ) ہرگاہ توہی پڑیا کہ چھو تہ اللہ (تعالیٰ) ہس رشتہ انوکھ ترشہ کتاب یوسہ یمن دونی کتابن ہند رشتہ جہاد ہدیت دوان اسہ سیتھ زن ہر تہج پاروی کر۔

پتہ اگر تم تریہ کانہہ جواب دے تہ تیلہ زن تہ تم چھ صرف پنتین ٹاہشن ہنر پاروی کران۔ اڈ تہند کھوتہ جاد گراہ کس چھ یس اللہ (تعالیٰ) ہند ہدیت تڑوتھ ترچنتھ پنہ نہا شہ پتہ پکان چھ۔ یقینا چھنہ اللہ (تعالیٰ) ظالم ٹوس کامیابی ہنر وتھ ہاولن۔

بیہ رودی اسی تہند خاطر پوتس پتہ وحی نازل کران سیتھ زن تم نفیحت لین۔

تم لڑکھ یمن اسہ سیمہ (قرآن) بروٹھ کتاب ڈر مہتر اُس، تم چھ اتھ (قرآنس) پیٹھ (اِس) منتر، ایمان تھوان۔

بیہ سیمہ (قرآن) یمن بروٹھ کتہ پرتہ یوان چھ تہ تم چھ ونان اُس چھ اتھ پیٹھ ایمان انان، بیہ چھ سائس پروردگار ہند طرفہ برحق کلام۔ اسی اُس سیمہ وہ ہر بروٹھ مسلمان۔

یمن لوکن مپلہ تہند اجر تہند صہ کتہ رنہ بیہ لہ تہ تم چھ نیکی سستی بڑی ہند مقابلہ کران تہ یہ کینزھا اسہ یمن دیت مت چھ، تمی منتر چھ تم خرچ کران۔

بیہ (یہودیو منتر مسلمان سیدن واری سیدلہ) کانہہ قفول کتھ بوزان چھ تہ تمہ رشتہ چھ پتھ روزان تہ ونان چھ، اے کافرو! سانی اعمال چھ سانہ باپتہ تہ تہند اعمال چھ تہند باپتہ۔ تمہ ہر پیٹھ

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵۰﴾

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِخَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنْ لَّا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۱﴾

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۲﴾

الَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ إِكْتِبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۳﴾

وَإِذْ آيَتُنَا عَلَيْهِمْ فَأَلَّوْا أَمْنَابَهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۵۴﴾

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ يَذَرُونِ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمَا كَرَرْنَا لَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۵۵﴾

وَإِذْ أَسْمَعُوا اللَّغْوَ اعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّا أَعْمَالُنَا وَأَعْمَالُكُمْ رَسَلْنَا عَلَيْكُمْ وَلَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۶﴾

لہ یعنی پتہ دنیاہس منتر تہ تہ پتہ دنیاہس منتر تہ۔

سیدنا سلامتی نازل (یعنی خدا کڑی لو تو بہر ایمان
نصیب)۔ اسی چھپتے چاہیں سب سے تعلق تھا وہاں پسند
کران۔

تو ہلکے نہ تھے ہدایت دتھ لیس تریہ تھوش کر ہی
مگر اللہ (تعالیٰ) سب سے بیترتہ تھے جس چھ ہدایت دلوں
تہ سہ چھ ہدایت لین والین زبر پائے زانان۔

بہر چھو تم و نان ہر گاہ اسی تمہ ہدایت پوری کرو
لیس تریہ پہلے نازل سیدنا چھ، تو پستہ مکتبہ مغز
یہو تھپتھ دتھ شہر، (ڈرون) کیا اسہ ڈر ناہ تھن
حفاظت تہ امہ و اوس مقامس مشر جاے۔ یہ تھ
کن پر تھ قسکو مہو سارنہ یوان چھو یہ چھ سارنہ
طرفہ بخشا پیش مگر تھو مغز چھپتہ واریاہ زانان۔

بہر واریاہ بستیہ چھپتہ پیمہ اسہ ہلاک کر ہم پسند
روزہ روزگار (چہ و فوری) کئی مکتبہ آسہ کما مشر
او (وچھتہ) ہم چھ بہنہز بستیہ یکن مشر تھو پتہ
کونہز بیسوو تہ۔ تہ اسی بنے یہ تہندہ و آرت۔

بہر چون پر روزگار یونانی کتبہ سرکزی بستیہ مغز تھتھ
رسول سور نہ لیس تھن برو تھ کتبہ سانی آسہ
پرتھ بوزناو (نوتانی) ہر کہ ہے نہ تھن بستیہ ہنہز سو فہر
(یعنی پورہ نکلس) ہلاک کر تھ (تہ کیا ز یہ چھ نقصان
خلاف) تہ اسی چھپتہ زانہہ بستیہ ہلاک کران اسہ
ورایہ تر تہندہ روزن و آل بن عالم۔

بہر یہ کینترھا تو بہر دتہ یوان چھ سہ تہ چھ صرف
نیہر و ڈیہیچہ زندگی ہند سامانہ تہ امیک پارا و،
تہ یہ کینترھا اللہ (تعالیٰ) ہس ہنہز چھ سہ چھ
بہتر تہ با تہ روزن و ول۔ کیا تو ہی چھو نا عقلہ
کام، ہلان؟

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ
اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾

وَ قَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ
نُتَخَطَفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ
لَهُمْ حَرَمًا أَمِنًا يُحِبِّي إِلَيْهِ
ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا
وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾

وَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبٍ بَطَرَتْ
مَوْحِشَتُهَا فَيُنَالُكَ مَسْجِدُهُمْ لَمْ
تُشْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا وَ
كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿۵۸﴾

وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى
حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُوْلًا يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَ مَا كُنَّا مُهْلِكِي
الْقُرَى إِلَّا وَ أَهْلَهَا ظَلِمُونَ ﴿۵۹﴾

وَ مَا أَوْثَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ
الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَ زِينَتُهَا وَ مَا
عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۰﴾

اَقْمَنَ وَءَعَدْنُهُ وَاَعْدًا حَسَنًا فَهَوُو
لَا قِيَمَ كَمَنْ مَتَّعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ
الْذٰنِيًا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ
الْمُخْضَرِيْنَ ﴿۱۶﴾

کیا سہ شخصیں نہیں آسہ رت (یعنی آخرت پر زندگی
ہنتر کامیابی ہند) و ہر کوزت آسہ تہ آسہ تہ
(یقیناً) لین وول تہ، سہ بیکیا تمس شخصہ ہندی
پاٹھو آسہ تہ نہیں آسہ صرف دنیاوی زندگی ہند
کیہنہ سامانہ دیت آسہ! پتہ آسہ سہ قیا مشر
دوہہ (خلایس روبرو پر شہ گار باپتہ) پیش کرنہ
ینہ وول۔

وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ
شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۱۷﴾

بہ (کرو یاد) یتیمہ دوہہ سہ (اللہ تعالیٰ) تہن
ناد کر پتہ پر شہکھہ زمیانی تم شریک کتہ چہ
یم تہندک تفتورن بناوتہ تھاوکر ہتہ آسہ تہ
یم توہی میںہ مقابلہ مہبود مہبروان آسہ دوکھ۔

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا
هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا هَا اَغْوَيْنَهُمْ
كَمَا اَغْوَيْنَا تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ مَا
كَا نُوْلِيْكَ اِنَّا نَعْبُدُوْنَ ﴿۱۸﴾

(تمہ وز) لین پتہ سانہ عذابہج خبر پڑ سپسہ ہر
آسہ تم وکن اسے سانہ پر دروکار! یم چہ تم لوکھ یم
آسہ واکل ہتہ آسہ، آسہ آسہ تم تہتہ پاٹھو واکل
ہتہ پتہ پاٹھو آسہ پانہ واکل ہتہ آسہ۔ وہ ذہ
آسہ تہیہ بروٹھ کتہ (تہو گمراہو ہنتہ) لالعلق
(ہند اقرار) کران۔ تم لوکھ آسہ تہ سانی عبادت
گزار۔ (بلکہ آسہ پتہن خیالین پتہ پکان)۔

وَقِيْلَ اذْعُوْا شُرَكَاءَ كُمْ فَدَعَوْهُمْ
فَلَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَهُمْ وَاذَّآ الْعَذَابُ
لَوْ اٰتٰهُمْ كَا نُوْلِيْكُمْ اِيْتَدُوْنَ ﴿۱۹﴾

بہ پتہ و تہ توہی کرو پتہن شریکین آلو، اتی
کران تم تم آلو مگر تم دن نہ تم آلو، جواب،
تہ (مشرک) وچین مقرر کرنہ آمت عذاب۔
کیا رت گڑھ ہے اگر تم ہدایت لہہ ہن۔
بہ سہ وہہ تہ کرو یاد بیلہ خدا جن آلو کر تہ
و نہکھ توہہ کیا اوس و رسولن (ہندس و غلس)
جواب دیت مت؟

وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا
اٰجَبْتُمْ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۰﴾

اد تہ دوہہ گڑھن تم سارے واپدہ مشہ
تہ تم ہکھن تہ اکھ اکس کانہہ سوال کرتہ۔
لہذا میں کانہہ توہہ کر تہ ایمان انہ تہ متاسب حال
عمل کر جلدہے ماسپد سہ باسراد لوکن منہ
شابل۔

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ
فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿۲۱﴾

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا
فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿۲۲﴾

تو چون پروردگار بہ سبزشان چھ تہ چھ پاد کران۔
تو بس سبزشان چھ تس چھ زارتھ نوان۔ یمن
چھتہ اتھ معاملس مفر کاٹھہ اختیار جاہل۔
اللہ (تعالیٰ) چھ پاک تہ بہنتر و بشکر برتر و
کھو رتہ چھ بالا۔

تو چون پروردگار چھ تبتہ زانان یہ تم پینین
و یمن مفر ترور تھاوان چھ تہ تبتہ یہ تم ظاہر
کران چھ۔

حقیقت چھیہ یہ ز اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی چھتہ
کوتہر مسبود۔ گوڑ تہ اوس سے تعریفک حقدار تہ
اخر تس مفر تہ آسہ سے تعریفک حقدار۔ سارے
بادشاہت چھیہ تمو بندہ سے اتھس مفر تہ
توہر سارے آسہ و تسو کن پھیرتہ گزھن۔
تر ون (یمن) مینہ و نو تہ سہی ز اگر اللہ (تعالیٰ)
تہندہ خاطر قیام مفر بندس دوہس تام رات ز پھرا
تہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی کس بیاکھ مسبود چھ
بس توہر نش کاش ہتھ پیہ؟ کیا توہی چھونا
بوزان؟

تر ون ، مینہ و نو تہ سہی تر ہراہ اللہ (تعالیٰ)
تہندہ موکھ دوہس ، قیام مفر بندس دوہس تام ز پھرا
تہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی کس ہو مسبود چھتہ
توہر نش رات ہتھ پیہ ہتھ مفر توہی سکون ہو۔
کیا توہی چھونا و چھان؟

تہ یہ چھیہ تہنر رحمت ز تمو چھ تہندہ ہتھ رات
تہ دوہہ بناو کہی ز ہتھ (درا) مفر کرد (توہی)
سکون جاہل۔ بیہ (دوہس مفر) ترھاٹو توہی
تندہ فہل۔ ہتھ زن توہی شکر گزار ہو۔

بیہ بیہ دوہہ سہ بتن ناد بیہ تہ و نہ ز
کتہ چھو تم میاڈ خیالی شریک یمن توہی
(معبود) خیال کران آسہ و؟

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا
كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ
تَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۱﴾

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ
مَا يُخْلِقُونَ ﴿۱۰﴾

ذَهْوًا لِلَّهِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ
فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۱﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
الْيَلَ سَزَمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ
إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ
أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿۱۱﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ
عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَزَمًا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم
بِأَيِّلٍ تَشْكُونَ فِيهِ أَفَلَا
تُبْصِرُونَ ﴿۱۲﴾

وَمِنْ ذَخْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَ وَ
النَّهَارَ لِتَشْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۳﴾

وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ
شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۱۴﴾

وَكَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا
أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ﴿۵۱﴾

بہ پرچھ کر اُمّۃ منبر اَنُو اَسْر اَکھ گواہ کڈ تھ پتہ
وَلَا پینڑی ڈیل اُلُو۔ اِد زان تم ز پلور پلور
حق چھ اللہ (تعالے) ہسے بش تہ تہند سورس
اپز لائن پیہ جس بش راو راونہ۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى
عَلَيْهِمْ سَدَاتِينَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا كَانَ
مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي
الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿۵۲﴾

قارون اوس (در ایل) مہسن ہند قومہ منبر
مگر سہ گوو تم بے جلوب نلمس پیٹھ تیار تیار
اَس تس تپتہ خزائہ وئی ہتہ، ز مین ہنز کنز
اَس طاقت ور بجاڑ ہند خاطر تہ تملیہ مشیل
اَسہ۔ (یاوکر) میلہ تہ ہند قوم تس وون ز
(لوت) مہ آس تھکان۔ اللہ (تعالے) چھنہ
یقینا تھکن والین پسند کران۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۵۳﴾

تہ پے کیشہا ثریہ اللہ (تعالے) ہن دیت مت
پٹے۔ تمہ سوتی ترھا ہن اُخرتہ چہ زندگی ہند
مگر۔ تہ دنیاوی زندگی منبر یس بوگ تریہ میلوت
چھ سوتہ مہ مشراو (اَس پھس تہ تریہ اَس ہس
تمام وئی ہجہ آسائیتہ ورتاوتہ ہنہ تھاک کران) تہ
چھ پٹھو اللہ (تعالے) ہن تریہ پیٹھ احسان کور
چھ تہ کر لوکن پیٹھ احسان تہ نلمس منبر فساد
تیدراو پچ کوشش مہ کر۔ یقینا اللہ (تعالے) چھنہ
فسادین پسند کران۔

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي
أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ
مَنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ
مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ
عَنْ دُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۵۴﴾

تمو (قارون) وون یہ سورس تہ چھ مینہ
اگر تھ علمہ کر باعتہ میلوت لیس صرف مینہ
حاصل چھ۔ سہ اوس ناہ زانان ز تس بروٹھ
اَسہ اللہ (تعالے) ہن واریاہ پیر ہاک کر
منبر پیر تہند کھوتہ ساد طاقتور تہ تہند کھوتہ
جاو مالدار اَسہ۔ تہ مجرمین (میلہ عذاب دینہ
لوان چھ تہ) تہندین گوناہن متعلق چھنہ پرتہ
تھار کر تہ لوان۔

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ
الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

(دونا بیونہ) سہ دراو پینس قومس بروٹھ کن
مین پارو (یعنی پتہ ذاتی محافظ) ہتھ اتھ پیٹھ

دُونِ تَمُو لَوْ كُو بِمِ دُنْيَاهِ جِبْرَ زَنْدِگِ بِهِنْدِ سَامَانِ بِسِيْرَهَانِ
 اُسے ، کیا جان گیو ہر گاہ اسے تہ تی کینترھا میلہ
 سے یہ قارونس دینہ آمت چھہ ۔ تس ہے چھہ
 (دوڑیہک) واریاہ بڑو حصہ میولمت ۔

تہ یمن لوکن علم دینہ آمت اوس ، تمو دُونِ
 توہر گزہر نو وارانہ ، اللہ (تعالے) ہند طرفہ
 میلن دول جزا چھہ مؤمن سندر خاطر تہ ایمانہ کر
 حالہ مطابق عمل کرن والد سندر خاطر سچھا رت
 آسان تہ یہ (جزا) پھینہ صرف صبر کرن واجہز
 جماعتہ لبان ۔

اد کور اسے تہ تسند قبیلہ مکرین کامین
 مغز گہر تہ کانہہ جماعت درایہ نہ ہر تھہ یوسہ اللہ
 (تعالے) ہس وارانہ تس مدد کرے ، تہ گتہ تدبیر
 سدیو ہیکہ سہ (سپنس و شمنس رتس) بچتھہ ۔

بہہ تم لوکہ ہم بہو تام تہندس مقاس پیٹھ
 آسنگ تمنا کران اسی ، لگی وتہر ہلاکت اُسے نے
 ثریہ پیٹھہ ۔ یقینا چھہ اللہ (تعالے) ہے اُس پنہو
 بندو منہر نیو سندر خاطر سیرھان چھہ رزقس
 مغز چھس دفوزی دولان تہ نیو سندر خاطر سیرھان
 چھہ شعلی چھس کران ۔ ہر گاہ اسے پیٹھ اللہ (تعالے)

ہن احسان اسے نہ کورمت ۔ اد اسے تہ
 کرے مصیبتن مغز گہر ۔ ثریہ پیٹھ اہن ہلاکت
 دکتھ چھینہ یہہ نہ کافر چھینہ نہ ہینے کامیاب
 سیدان ۔

(پہ یوسہ) اخرج زندیگ (چھینہ) اسی چمن یہ
 تم نے ہند خاطر مغفوس کران ۔ ہم نکلس منز
 ناجایز پیٹھوولی تہ فساد چھینہ سیرھان تہ
 انجام چھہ تقویٰ کرن والہن ہندے (زبر) آسان ۔

یس شخصس ہار کسو فی عمل کر ۔ تس میلہ تمہ
 کھوتہ رت بدلہ تہ یس اکھ تپتھ عمل کر اد پیٹھ

بَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ
 لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۷۰﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ
 ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَ عَمِلَ
 صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّادِقُونَ ﴿۷۱﴾

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا
 كَانَ لَهُ مِنْ فَئِةٍ يَتَصَدَّقُونَ ﴿۷۲﴾
 اللَّهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۷۳﴾

وَأَصْحَابَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ
 بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ
 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَن مَنَّ اللَّهُ
 عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَ لَا يُفْلِحُ
 الْكَافِرُونَ ﴿۷۴﴾

تِلْكَ الذَّارُ الْآخِرَةُ نَجَعَلَهَا لِلَّذِينَ
 لَا يُبْرِدُونَ عُلوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا
 فِسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۷۵﴾

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا
 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ

عَمِلُوا الشَّيَاطِئَ إِلَّا مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۵۷﴾

اعمال کرن والہن بیہ تہنہنہ پسنہ عملہ برابر جزا دینہ۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ
جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ ﴿۵۸﴾

سہ خدا بیگو تریہ پیٹھ یہ قرآن فرض کورمت چھہ
چھہ پسنہ ذہک قسم کاوتھ وٹان نر سہ انی تریہ
تتھ تقاس کن واپس پھیرتھ یتھ کن لاکھ پھیری
پھیری یوان چھہ۔ تہ ون میون پرور وگار چھہ
دس تہ) زبر پٹھ زمانان یس حدایتس پیٹھ
تھیم آسان چھہ۔ تہ دس تہ) یس ٹاکار ٹکرای
منز ہسبہ امت آسان چھہ۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ
الكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا
تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿۵۹﴾

بیہ تہ اوسکھ نہ (کاتبہ) وومید تھاوان نر تریہ
پٹھ بیہ اکھ مکمل کتاب نازل کرنہ۔ مگر چائس
پرور وگار ہند طرفہ سپز چھہ کتھ رحمتہ کر رنگہ۔
او کوز تہ بوز نر تہ تہ شہے کافرن ہند مدگار۔


وَلَا يَصُدُّكَ عَنِ آيَةِ اللَّهِ بِخَدْرٍ
أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۶۰﴾

بیہ پتہ تریہ کاتبہ شخس ٹھاک کرن وول بنی امہ
پتہ نر اللہ (تعالیٰ) ہند آہ، آپہ تریہ پیٹھ
نازل کرن تہ تہ و پسنس پرور وگار س کن
(لوکن) دعوت تہ مشر کن منز مہ سپد شابل۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِلَّا لَهُ
الْأُحُوتُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۶۱﴾

بیہ (اے مخاطب) اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی
مہ کر کاتبہ معبودس آلو۔ تس وراہی چھہ کاتبہ
معبود۔ پر پتھ اکھ چیز چھہ ہاک سدن وول، تہ
وراہی یتھ کن تسد (یعنی اللہ تعالیٰ سدا توجہ
آسہ۔ حکم چھہ تہ ہند سہ اتھس منز۔ تہ
توہ ساری بیو تسو کن واپس پھیرتھ نہہ۔

لہ یعنی عنقریب بیہ مک معظم چائس تھس منز تہ تہ حرکتھاک توت فاتحاہ رنگس منز۔



سورۃ عنكبوت، یہ سورہ چھ کی تہ اسم اللہ پہ چھ آیتہ سنتہ آیتہ بیہ چھس سنتہ رکوع۔

(یہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنَدِ نَاوِ ہوتہ پیران، لیس
 حہرِ رُؤسِ کرمِ کرنِ وولِ (تہ)، پھیڑی پھیڑی رُہمِ
 کرنِ وولِ چھ۔
 بے اللہ (تعالیٰ) چھس سارِ وہے کھوتہ جسدِ
 زانِ وول۔

کیا (سیمبہ زمانہ کیو) لاکھ چھا پہ زونمتِ نرِ تہند
 تیتے وَوَنِ نرِ اسرِ چھ ایمانِ اُونمتِ (اسرِ سہٹھا)؛
 تہ تمہ بین تراونہ تہ تمہ بین نہ آزماونہ؛
 حالانکہ ہم (لاکھ) بہنِ بروٹھ گڈرے متو چھ تمہ
 اُسو اسرِ آزماونہ متو (تہ وولِ کر سٹی)؛
 توے کر اللہ (تعالیٰ) ظاہرے بہنِ تہ کیو پوز
 وولِ تہ تمہ تہ کیو ایز وول۔

ہم لاکھ ہدیہ کران چھ کیا تم چھا خیالِ کران
 نہ تم گزھن سارہ سزارہ تہلہ بچھتہ؟ سہٹھا
 ناکارہ چھ سہ فاصلہ لیس تم کران چھ۔

لیس شخصوں اللہ (تعالیٰ) ہند ملا تارنجِ وہمید
 تھوان چھ۔ (تس گزھ پے آسن نہ) اللہ (تعالیٰ)
 سُنَدِ مقررِ کورمتِ وقتِ چھ ضرورِ بینہ وولِ تہ
 سہ چھ سہٹھا بوزنِ وولِ (تہ) سہٹھا زانِ وول۔

بیہ لیس شخصوں خلیہ (ہندِ خاطر) کوششِ کران
 چھ دراصلِ چھ سہ پسندِ نرِ خاطرے کوششِ
 کران۔ اللہ (تعالیٰ) چھ سارِ وہے جہانِ نشہ
 پے نیاز (تہ جہندِ عبادتِ محتاجِ بچھنہ)۔

بیہ کیو لوگو ایمانِ افزن تہ اپنا تہ مطابقِ کر تھوعلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

الْمَلِكِ ①

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ
 يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ②

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَلِيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ③

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
 أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ④

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ
 اللَّهُ لَكَ آتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑤

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ
 إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑥

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

شَيْءٍ ؕ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿۱۰﴾

پڑھو یہ نہ تم تلخ پینے باری تہ، تو پسینو
بارو ملاو تلخ میں لوکن ہندو باری تہ (میں
تم دعا دون چھ) تہ تیا ہندو وہ یہ پیہ تم اتھ
اپڑو گتہ تھونس پیوہ سوال کرہو۔

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ
أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۱﴾

یہ اوس اسہ نوح تھندس تومس کن سوز مت
سہ رود ہن مفر پانترہ کم ساتس وریں نام
اڈرڈ تم طوفان تہ تم اسی ظالم۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ
فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ
عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ
ظَالِمُونَ ﴿۱۲﴾

اڈرڈت اسہ تس تہ تہنر ناو مفر ہن والہن
سوزو باجین نجات تہ اسہ بنو یہ واقعہ تمام
دنیا یہ کہیں لوکن ہندو خاطر اگہ نشان۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَ
جَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۳﴾

یہ (اوس اسہ) ابراہیم (تہ رسول بناوہ سوزمت)
ییلہ تمو پسینس تومس وناو ز اللہ (تعالے) ہنر
عبادت کرو تہ تہند تقویٰ پراوو اگر توہی زاناں
چھو تہ یہ چھ تہند خاطر سہٹھارت۔

وَأَبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا
اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾

توہی چھو اللہ (تعالے) ہس وراہی بن ہستین
ہنر عبادت کران تہ (مذہب کہتہ) چھو اپڑو کہتہ
بناولن)۔ تم (ہستین) میں ہنر توہی اللہ (تعالے)

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا
وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ
لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ
الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ
لَئِيْئَ تَرْجَعُونَ ﴿۱۵﴾

ہس وراہی عبادت کران چھو) تم ہبکہ نو تہ
توہہ رزق دتہ۔ اوجہی اللہ (تعالے) ہس
ہنکو پین رزق تہ تہنرے عبادت کرو تہ تہند
شکرانہ کرو۔ توہی پیو تسو کن والپس چھہ تہ تہ۔

وَأَن تَكْفُرُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ مَنْ
قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
الْمُبِينِ ﴿۱۶﴾

اگر توہی مہا کی کہتہ اپڑو تھہراوو تہ (یہ کاہنہ
تو کہتا چھہ) توہہ برنٹھو مو تو مو تہ اسی (پینر
رسول) اپڑو ہوتی تہ رسول ہنر نام چھینہ صرف

واش کڈو کڈو (پیغام) واتناون آسان (زبردستی
سان مانناون چھہ آسان)۔

لہجہ آسین مفر چھو نوح علیہ السلام ہندو ملک زمانہ بیان کرتے آمت تہنر وائسہ ہندو ذکر چھہ۔

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ ﴿۱۰﴾

کیا تم جیسا زمانہ از اللہ (تعالیٰ) کہتے پاؤ گے پھر پھر
پاؤ آیش کو ڈیکھ لے شروع کران، پتہ چھ
اتھ پھیری پھیری (تہ پاؤ) کران کران یہ
کام چھین اللہ (تعالیٰ) بند خاطر پوہ پاؤ
سہل۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ
يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾

تہ ون زمینہ مفر پھیرو (ژونونی طرفن) اد
وچھو اللہ (تعالیٰ) ہن کہتہ پاؤ ماس مخلوق
پاؤ آیش شروع کر مہرتہ پتہ چھ اللہ (تعالیٰ)
سے بہن مرتہ پتہ دو بار زندہ کران۔ یقیناً
اللہ (تعالیٰ) چھ پر پتہ کتہ چیزس پیٹہ تادر۔
سہ یس سہرھان چھ عذاب چھس دیوان تہ یس
پیٹہ سہرھان چھ رجم چھس کران تہ تسو کن
بیونوی واپس پھیرتھ اتہ۔

يُحَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن
يَشَاءُ ۚ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿۱۲﴾

بہ توہی، بیکیون تہ خداے تسہر مرضی جلاوت
مجبور کرتھ نہ زمینس منز تہ نہ آسانس منز تہ اللہ
(تعالیٰ) ہس وراہی نہ چھ کاہہ تہتہ دوست
نہ مددگار۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
فِي السَّمَاءِ وَلَا مَالِكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
ذَلِكِ وَلَا نَصِيرٌ ﴿۱۳﴾

بہ تم لوکھ ہم اللہ (تعالیٰ) ہندن نشان ہند
تہ تس سوتی ملاقات سپدک انکار کران چھ،
تم لوکھ چھ تھو ہم مینانہ رحمتہ نشہ ناووسید
گاہو چھ۔ تہ تھے چھ ہمین کرلوٹھ عذاب میل۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ
لِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۴﴾

امہ پتہ تھو ہند (یعنے ابراہیم ہند) توک
جواب اوس نہ امہ وراہی کہنی نہ تمو وزن یہ کران
قبیل یا پہ زالیون (اد) تمو دیت سہ نارس
مفر دارتھ) مگر اللہ (تعالیٰ) ہن۔ پجوو سہ
نارہ نشہ۔ اتھ مفر چھ بلاشک مومن قومہ خاطر
بڑو نشان۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ
اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۵﴾

دوہن (یعنے ابراہیم) توہہ چھو اللہ (تعالیٰ) ہس

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ

أَوْ قَانَاءَ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا وَ مَا أُولَئِكَ إِلَّا لَكُمْ مِنْ
نُصْرَتِنَا ۖ

ورای پوئلین سوتی تعلق قائم کرتے تھوتمت د تہ
تہند یہ کار چہ (دنیائی زندگی مندرجہ میں مشرکین
سوتی محبت جاہ کرنے خاطر۔ پتہ قیامت دوہر کرن
تو ہہ مندرجہ کینہ کینہ ہند انکار تہ تو ہہ مندرجہ
ترہن کینہ کینہ پتہ لعنت تہ تہند ٹھکا ہر اسہ
چہ ہم۔ تہ یک توہی مددگار زمان چھو کہ تہ
مندرجہ پتہ تہ کہہ تہندس مدرس۔

قَالَ لَهُ لَوْ طُردَ قَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ
إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْحَزِينُ الْحَكِيمُ ۖ

اسہ (القیامت) پتہ اذن لوطن تس پتہ ایمان۔ تہ
دوین (ابراہیم) تہ تہ چس سینس پروردگار
کن ہجرت کرتے گرتھن وول یہ سہ چہ ہر شک
تکلب تہ ہر حکمت وول۔

وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ
جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتَابَ
وَ آتَيْنَاهُ آجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَ آتَيْنَاهُ
فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ۖ

بہہ ہشتادوی اسہ تس اسحاق تہ یعقوب تہ تس
ذریار سوتی کز نبوت تہ کتاب مخلص۔ بہہ تس
اسہ تس دنیاہس مندرجہ تمیک اجر تہ آخر تس
مندرجہ پتہ سہ نیک بدن مندرجہ قابل کرنہ۔

وَلَوْ طُردَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّي لَأَتُونَ
الْفَاحِشَةَ مِمَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ
أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۖ

بہہ لوط تہ سوز اسہ رسول بناو تہ (بیلہ زن تہ
سینس قومس وون تہ توہی چھو کہ تہ ہدی کلان
یوہہ و ذی مہس مندرجہ بروٹھ سانس کز مہر اس تہ

أَرَأَيْتُمْ لَتَاتُونَ الرَّجَالَ وَ تَقَطَّعُونَ
السَّبِيلَ ۚ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ
الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ

کیا توہی چھو (زناہ تراوتہ) مردن نشیوان بہہ
چھو ڈاکہ مار تہ تہ ترمان لہ تہ سینن مجلس مندرجہ
چھو نازیبا کار کلان ہاتھ پتہ اوس تہ تہ ہند توک
جواب اسہ وراہی کہہ تہ تہ تو وون اگر تہ پزارو
لوکو مندرجہ ٹھکا تہ اللہ (تعالی) سند عذاب کر
اسہ پتہ نازل۔

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ
الْمُفْسِدِينَ ۖ

تہ پتہ وون لوطن، اسے میانہ پروردگار! مفید
قومس خلاف کر میون مدد۔

۳۵

لہ یعنی اللہ تعالیٰ ہند حکم مطابق چہ میر ہجرت کر۔
لہ یعنی تہ کوئین مسازن تہ تاملن لوطن۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ
بِالْبَشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ
هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنْ أَهْلَهَا كَانُوا
ظَالِمِينَ ﴿۳۶﴾

تہ نبیلہ سانی رسول ابراہیمس بنش خود شخیر ہتہ آپہ
تہ ہتو وون اسی چکھہ بیٹہ ہستی ہندی لوکھ ہلاک
کرن واول۔ تہ کیا نہ اکی روزن واول چھ ظالم۔

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ
بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا
أُمَّرَاتَهُ لَقَدْ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۳۷﴾

دوون ابراہیمس (نریٹھ ہستی) منز چھ لوط
تہ روزن، تہ وون اسی چکھہ بیٹہ (یعنی ہستی
ہندی) روزن واول زبر پانچو زانان۔ اسی دمو
تس (یعنی لوطس) تہ بیہ تہندن گر باثرن نجات
تسنہر آتہ وراہی یوسہ ہتہ روزن والہن منز
شابل سپد۔

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيبًا
بِهِمْ ذُوقُوا لَهُمْ دَذْعًا وَ قَالُوا لَا
تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُونَ
وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ
الْغَابِرِينَ ﴿۳۸﴾

اڊ نبیلہ سانی رسول لوطس بنش آپہ تہ تہند
باعثہ ووت تس دوکھ تہ تہند باعثہ سپد
تند دل تنگ تہ دتمو ہنر سوم حالت وچھتہ
(تہو شخیر ابن والہو) وونکھ گنہ (بیٹہ واجنہ)
کھہ ہند باعثہ مہ کھوڑ تہ پتہ کن کاتس
گنہ واقس پیٹہ تہ مہ کرائسوس اسی چھی تریہ
تہ چانہن گر باثرن نجات وون واول چانہ آتہ
وراہی یوسہ ہتہ روزن والہن منز شابل سپد۔
اسی چھ بیٹہ ہستی منز روزن والہن پیٹہ تہنہر
تافرمانی کتو عذاب نازل کرن واول۔

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۳۹﴾

بیہ چھ اسر بیٹہ ہستی ہند (واقعہ کو) باعثہ اکر
تاکہ ہجرتک ساہنہ عقلہ والہن لوکن کیٹ پتہ کن
ترو ورت۔

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِثْلَهَا آيَةً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ
يَعْقِلُونَ ﴿۴۰﴾

بیہ مدنیس کن سلوز اسر تہند بوے شعیب
رسول بناوتہ۔ (نبیلہ سہ آوتہ) تہ وون، اسے
میانہ قومہ! اللہ (تعالیٰ) ہنر عبادت کرو تہ
آخرتچہ زندگی ہند وقت تھاوو یاد۔ بیہ تھم
تسادی کار مہ کرو زکلس منز نبیلہ تہند بو
کارو کتو فساد۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
يُجْزَوْنَ أَجْرًا مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۱﴾

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۹﴾

اللہ (تعالیٰ) چھ پرستہ تہہ چیزس زمانا یتھہ بيم لوکھ تس ورآئی اوکران چھ ، بيم چھ سہ غالب (تہ) حکمتہ وول۔

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿۳۰﴾

تہ بيم چھ مثالیہ بيم اُسی لوکن ہند خاطر بیان کران چھ۔ امانوز عالمو ورآئی چھتہ رہن کاہنہ پستہ لوچھ گنڈان۔

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن چھ آسمان تہ زمین خاص مقصد خاطر پاد کرکری ہتی۔ اتھ مشر چھ مؤمن ہند خاطر اکھ بوڈ نشانہ۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۳۲﴾

بیمہ کتابہ (یعنی قرآن) مشر یہ کثیر ہاثریہ کن وحي کرکری یوان چھ ، سہ پیر (بیمہ بوزنا واکھ لوکھ پڑتھ) بيم کر نماز (ہکلو ساری شرط ہتھ) ادا۔ بے شک نماز چھیمہ سارو بے بد تہ نازیبا کھو ہنہ پتھ رٹان تہ اللہ (تعالیٰ) سُنڈ یاد چھ یقیناً بيو سارو بے کامو کھوتہ (بوڈ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تہندک اعمال زمانا۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا ۚ وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۳۳﴾

بیمہ اہل کتابن سستی مہ کرو زنیہ بحث مگر قصہ پایہ تہ مضبوط دلیل ہتھ۔ تمو لوکو ورآئی بيم جنس مشر ظلم کرن واڈ چھ (ہنن ہیکو الزامی جواب دتھ) بيم وونو جن ز یہ اسہ پیٹھ نازل سیدت چھ اُسی چھ تہہ پیٹھ تہ ایمان انان تہ یہ توہر پیٹھ نازل سیدت چھ تہہ پیٹھ تہ (چھ ایمان انان) بيم سون خدا تہ تہند خدا چھ اکے تہ اُسی چھ تہندک فرمانبردار۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۚ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿۳۴﴾

بیمہ یتھہ پٹھو چھ اسہ تریہ پیٹھ پر کابل کتاب نازل کر مہتر۔ لہذا تم لوکھ بيم اسہ یہ کتاب ڈرڈر چھیمہ تم چھ اتھ پیٹھ ایمان انان تہ تمو لوکو مشر (یعنی اہل کتابو مشر تہ) چھ کینہ اتھ پیٹھ ایمان انان۔ تہ صرف کافرے چھ سامنہن این ہند ضد سستی انکار کران۔

بیسے پیسہ (قرآن) کہ تازل سپرہ بروٹھ اوسکھ تہ
 تر کہیو کتاب پران نہ اوسکھ لوکھ بوزناوان تہ
 نہ اوسر ہن سمہ پینسہ ڈھینہ اتھ سستی بیکھان
 ہرگاہ (ترتھ کتھ) آسہ ہے تیلہ پیسہ ہن اپراون
 واد شاکس منز۔

مگر یہ (قرآن) تہ چھ ٹاکاہ نشانہ ہن لوکن
 ہندرن دن منزین علم دنہ امت چھ تہ سامن
 نشانہ ہند چھنہ ظالمو وراہی کانہہ تہ انکار کران۔

بیسے چھرم زمان نہ کیازگے تہ تہنہس پروردگار
 ہند طرفہ تس پیٹھ کینہہ نشانہ تازل ؛ واپو نہ
 نشانہ تہ چھ خدایس نش (بیلہ سہ نایدہ وچھان
 چھ، اوجھ تازل کران) تہ بہ تہ چھس صرف
 اکھ ٹاکاہ ہتیار کرن وول۔

کیا ہن ہند خاطر اوس نا (یہ نشانہ) کانی ؛ نہ
 اسہ کر خرید پیٹھ اکھ کھل کتاب (قرآن) تازل ؛
 یوسہ اتھن پرتھ بوزناوتہ یوان چھیلہ اتھ کتھ منز چھ
 مؤمن ہند خاطر بڑ رحمتی تہ لپچھک سامانہ۔

تہ وکھ مینہ تہ توبہ درمین بطور گواہ فاصلہ کرن وول
 چھ اللہ (تعالے) ہے کانی۔ بیسے کینشہا آسمان
 منز تہ زمپنہ منز چھ تہ چھ سہ زنان۔ تہ
 ہم لوکھ باطلس پیٹھ عمل کران چھ، تہ اللہ (تعالے)
 ہندرن حکمن انکار کران چھ، تہ چھ گاش منز
 پسہ واد۔

بیسے چھی تم خرید عذاب کہ وول وول اتنک مطالبہ کران
 مگر ہرگاہ اکھ گڈتھ وقت آسہ ہے تہ تہ عذاب
 بیسے ہے اتھن نش تہ اوجھ وول تہ پیسہ سہ منزور
 اتھن نش تہ وچھان وچھان پیسہ تہہ حالتس
 منز نہ تم آس نہ تہ ثنیان تہ۔

(تہ) تم بھی خرید عذاب وول وول اتنک مطالبہ
 کران تہ جہنم چھ کافرن بے شک تباہ کرن وول۔

وَمَا كُنْتُمْ تَشْتَرُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ كِتَابٍ
 وَلَا تَخْطُهُ يَدَايِنَا إِذَا لَأَزْتَابِ
 الْمُبْطَلُونَ ﴿۳۱﴾

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْحِكْمَ، وَمَا يُحْجَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا
 الظَّالِمُونَ ﴿۳۱﴾

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِنْ
 رَبِّنَا، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، وَإِنَّمَا
 أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۳۱﴾

أَوَلَمْ يَكْفُوهُمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 يُثْلَى عَلَيْهِمْ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَ
 ذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۱﴾

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنَاتٍ وَ بَيْنَكُمْ
 شَهِيدًا، جَعَلَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَ
 كَفَرُوا بِاللَّهِ، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۳۱﴾

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَلَوْلَا أَجَلٌ
 مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۱﴾

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَإِنَّ
 جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۳۱﴾

نیمہ دوہہ (زن جہنمک عذاب کا فرن گیر کرتے
تباہ کر۔ یہ آسہ سہ دوہہ تر خدائی، عذاب کر
تمن پیٹھ کو تڑ وولت تڑ تہندو کھورول تہرت
تڑ پیہ تمن ولنہ۔ تڑ خدای، وڑ پینین عملن
ہند نتیجہ تڑ ہو۔

اے میانہ مؤمن بندو! میا فی زمین چھینہ کشادہ اہ
توہ کر کرو میا فی عبادت الہ

پر تھ زو ذات پھینہ موتک منر تہ من واجتہ۔ پتہ
یو توہر (ساری، اسی کن واپس پھیرتھ اسنہ۔

تڑ تم لوکھ یک ایمان اتان چھ تڑ تمہ مطابق پھ
عمل تڑ کران۔ آسو دمو تمن جننس منر ڈسہ
ڈالان منر جائے۔ (تھنس جننس منر) نہ تھ
آسن (ساین) تہ کتہ کہلہ یکان۔ تم (مؤمن)
گرنہ من تمن جننس منر ہمیشہ خاطر روزان۔ تڑ
رہر عملہ کرن والہن بند اجر چھ سہٹا رت
آسان۔

تمن (مؤمن) ہند یکم (سینس عقیدس تڑ عملہ پیٹھ)
ڈٹھتہ روزان چھ تڑ سینس پروردگارس پیٹھ چھ
توکل کران۔

یتھ دنیاہس منر چھ واریاہ جالور تڑ یکم پانس
سرتی (انسان ہندو پاٹھو) پین رزق چھینہ
بار تہتہ پھیران۔ اللہ (تعالیٰ) ہے چھ تمن
رزق دولان تڑ توہر تڑ، بیہ چھ سہ دعا سہٹا
بوزن وول (تڑ) حالو تہرتہ زب پاٹھو خیر دار۔

تڑ ہرگاہ تڑ تمن لوکن پرتھکھ نہ آسمان تڑ زمین
کو چھ پاو کرے متی؟ تڑ آفتاب تڑ زون کو
چھ (منور ورائی) انسان ہندس خدس پیٹھ
لہکتہ تھادو متی؟ تڑ تم وئے، اللہ (تعالیٰ)

يَوْمَ يَخْسَهُمُ الْعَذَابُ مَنْ فَوْقَهُمْ وَ
مَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۹﴾

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي
وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعِبُدُونِ ﴿۶۰﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ
إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۶۱﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿۶۲﴾

الَّذِينَ صَبَرُوا وَأَعْلَىٰ رَيْبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۶۳﴾

وَكَايِنَ مِنَ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا لَئِن
اللَّهُ يَرِزُّهَا وَإِنَّا كُمْرٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿۶۴﴾

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَسَجَّعَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ
اللَّهُ جَ قَاتِي يَوْمِ كُنُونِ ﴿۶۵﴾

ہن۔ (اوپر بیٹلہ تم یہ کتھ زانان چھ) تیلہ کتھ
طرفس کن چھ تم ہڑ مرو نہ یوان ؟

اللہ (تعالے) ہے چھ یس پسنو بندو مفر نیمر
سند خا طرہ پشہان چھ برزق کشا دکران تہ بیہ بند
خا طرہ پشہان چھ برزق چھس تخی کران بیشک
اللہ (تعالے) چھ پرتھ کتھ نش خبردار۔

بیہ ہرگاہ تہ تم پشہان نہ اوہر منز کھ چھ
آب وولمت ؟ تو پتہ چھن زمین امہ (آبکے ڈولہ
تہ کہ منہ پتہ زبند کر پتہ ۔ تہ تم وستی یقینا
اللہ (تعالے) ہن۔ تہ ون زساری لغت چھ
اللہ (تعالے) ہندی خا طرہ۔ انا پوز یو (انسانو)
مفر چھن وار یان ہکر تران۔

بیہ یہ ڈولہ پتہ زندگی چھہ صرف کھ غفلت تہ
گندک سامانہ تہ آخر تہ چھ زندگی ہند گرنے
چھ واصل اصلی زندگی کانی ہند گہ۔ کاشس ! تم
لوکھ زانہ ہن۔

بیہ بیٹلہ تم لوکھ ناو منز سوار سپان چھ تہ
پنہ عقیدت چھ چھتھ چھکھ اللہ (تعالے)
سند خا طرہ کر تھ تس دعا منگان مگر بیہ سہ
تمن بٹس کن نجات دتھ و اتنا وان چھ تہ ہنگہ
منگہ چھ تم بیہ شرک کرن ہوان۔

یٹھ نہ یہ کینترھا اسہ تمن دیت مت چھ تھ کن
انکار۔ (تہ سہ انعام کرن خدائیس ورا یی۔ میں شریک
کن منسوب) تہ امیک (یعنے عارضی توکے)
نتیجہ چھ یہ آسان نہ (اللہ تعالے) چھ تمن
تراوتھ شر جنان تہ) تم چھ کینترس کاس تام
ڈنیاوی سامانہ نشہ قایدہ تھان۔ (اگر دوہہ
گر تھ یہ بخشش ختم تہ) تم وچھن (پتن
اصلی جزا)۔

جن چھنا پے نہ اسہ چھ حرم (یعنے کہ) انک

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾

وَلَمَّا سَأَلْتَهُم مِّن نَّزْلٍ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْبَىٰ بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ لَوْلَىٰ
أَعْيُنُهُمْ لَيَحْكُمُونَ ﴿۳۸﴾

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ
لَعِبٌ ۗ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ
الْحَيَوَانُ لَكُوا كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

فَإِذَا رَجَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَا اللَّهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ
إِلَى الْبَرَادِآءِ هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿۴۰﴾

لَيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۗ وَلَيَتَمَنَّوْنَ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾


أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَ

مقام ہو مت۔ تہ تمہیں لاکھ اندر کھیر (یعنی
 مکہ تیز کر کتو) چھ لاکھ تھپھہ دتھ نہیو یوان۔
 تہ کیا تم چھا اپڑس پیٹھ ایمان اتان تہ اللہ
 (تعالے) ہندس نعمتس چھ انکار کران؟
 بیہ تمس شغفہ ہند کھوتہ بوڈ تلم کس آسہ؟
 یس اللہ (تعالے) ہس پیٹھ اپڑ گتھہ ہائشہ
 لاکھ چھ؟ یا یس پڑ کتھہ تمہ وقتہ اپڑاوان
 چھ بیلہ سوتس نش یوان چھہ۔ کیا یقین آفرن
 ہنز جاعے گڑھہ نا جہنم منز آسوتہ؟
 بیہ تم (لوکھ) یم اسہ سوتی تعلق تلم کرینج
 کوشش کران چھ اسی بختو تمس ضرور پینن
 وشن کن یتک توفیق تہ اللہ (تعالے) پھہ
 یقینا احسان کرن والہن سوتہ۔

يَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ
 أَفِيَا لِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ
 يَكْفُرُونَ ﴿۳۰﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ
 أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۳۱﴾

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
 سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۲﴾



سورة روم: یہ سورہ چھ کلی تہ بسم اللہ پتھ چھ اتھ کہ باٹھ آہ بیہ چھس شہ روع۔

(بہ چھس) اللہ (تعالے) سدا ناو ہتھ (پر ان)
 یس حد رؤس کرم کرن دول (تہ) پھیر ک پھیر ک
 رحم کرن دول چھ۔
 بہ اللہ چھس سار نے ہند کھوتہ جاوڑان دول۔
 رومی لوکھ (یعنی تھیر ہند ساقی) گے زیر۔
 نزدیکہ چیر زہند مشرتہ تمہین پسند زیر گزھنہ پتہ
 بیہ غالب۔

کیشنن ورین مشن۔ امہ واقعہ بروٹھ تہ آسہ
 اللہ (تعالے) ہنز حکومت تہ پتہ تہ آسہ تسنیزے
 حکومت) تہ تمہ دوہہ آس مؤمن سہٹھا تھس بلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

الْم ﴿۱﴾

عَلِبَتِ الرُّؤْمُ ﴿۲﴾

فِي آذَانِ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ
 عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿۳﴾

فِي بَضْعِ سِنِينَ لَهُ يُلْهَى الْأَمْرُ مِنْ
 قَبْلِ وَ مِنْ بَعْدِ وَ يَوْمَ عِذِّ يَفْرَحُ
 الْمُؤْمِنُونَ ﴿۴﴾

لہ یہ آس قرآن کریم پھیر پیشگوئی چنا چھ امہ مطابق ایراکر بادشاہ کسرہن کڑی حجاز چھ (جاری)

اللہ تعالیٰ) ہند مدد پرستو (تہ) اللہ تعالیٰ) ہمیں
یہ پتر صاف چھتس چھ اتھ روٹ کرانہ تہ سہ چھ
غالب (تہ) پھیری پھیری رگم کرن وول۔

اللہ تعالیٰ) سند و عدہ (تھا) لو زبر یا ٹی یاد (تہ) اللہ
(تعالیٰ) چھتہ پنچو وعدہ اپڑو کران۔ مگر واریا من
لوکن پھتہ یہ کتھ فکر تران۔

تم لوکھ چھتہ پنچو ڈی پہچہ زندگی ہندس غا ہرس
(یعنی امرکس شان و شوکتس) زبر یا ٹی ستر زانان
اما پوز آخرتہ چھ زندگی بنتہ چھ اُکے انزان۔

کیا تم و میت ناپنسن دلن منز زرنہیہ یہ دین
ز آسمان تہ زہین تہ یہ کینہ شاہن منز باگ چھ،
چھ اللہ تعالیٰ) ہن کتہ حکمتہ مطابق تہ اگر
شکر تہ وقتہ خاطر پاد کورمت ہ؛ اما پوز لوکو
منز چھ واریاہ پنسن پروردگار ہند ملا قارگر
بمکر۔

کیا تم پھری ناہ زمینس منز تہ یہ وچکھ ناہ
زیم تن بروٹھ لوکھ اسی تہند انجام کیا
سیدے یاد ہ؛ تم اسی تہند کھوتہ جاو طا توتور تہ
تمو اسی زہین زبر یا ٹی پرا ٹیٹر (یعنی واکیترا)
تہ پتر یو آباد کر منز چھتہ تمو اسی تہ کھوتہ
جاو آباد کر ہتر تہ تہند کر رسول اسی تن نش
دلید ہتہ آہو تہ اللہ تعالیٰ) ہند شاہ
مطابق اوس تہ زہین پتہ کرے ظلم۔ بلکہ تم لوکھ
اسی پانہ پنسن زون پنچہ ظلم کران۔

پتر سید تن لوکن ہند، یو بدکار کرے ہو اسی
اللہ تعالیٰ) سندہن آین انکار کرے کتہ ناکارے

يَنْصُرِ اللَّهُ، يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ①

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَةً وَ لَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ②

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ
غَافِلُونَ ③

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ
اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وَ لَآنَ كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ
لَكُفْرُونَ ④

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
كَانُوا أَشَدَّ مَنَهُمْ قُوَّةً وَ أَتَارُوا الْأَرْضَ
وَ عَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، فَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَ لَكِنَ كَانُوا
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ⑤

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَأُوا
الشُّوْأَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ

بقیہ حاشیہ:

نزدیک چہ زمپتہ منز رؤمی زیر۔ مگر کینہ ڈری گذرہ پتر کرے رؤمیو ایراڈی زیر تہ
سلمان نش واثر یہ خبر تہ وہ ہر میلہ تن جنگ بدس منز فتح حاصل سیدے ہے۔

كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۱﴾

انجام۔ بیہ اسی تم اللہ (تعالیٰ) سندن آئین
سینتو ٹھٹھ کران۔

أَلَيْسَ يُبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ
لِيَكُنَّ تَرْجَعُونَ ﴿۱۲﴾

اللہ (تعالیٰ) چھ (مخلوقا تہج) پادائیش شروع تہ
کران تہ پتہ چھ یہ (سلسلہ) پھیر پھیر کر
تہ کران روزان۔ پتہ لاکن پتہ توہا
ساری تسو کن پھیر تھ نہنہ۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ
الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۳﴾

بیہ یتیم دوہر قیامت برپا سپد۔ مجرم عرصن
ناوہ سپد۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ
وَكَانُوا يُشْرِكُوا بِهِنَّ كُفْرِينَ ﴿۱۴﴾

تہ یکن تم خدایہ سند شریک بناوان اسی۔ تمو
مشترک بنہ نہ کانہہ ہتہند سفارش در تہ تم
کران پستین (بناوہ متہین) شرکین ہند الکار۔
بیہ یتیم دوہر قیامت برپا سپد تمہ دوہر
سپدن ساری (مشرک) بیون بیون۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ
يَتَفَفَّرُونَ ﴿۱۵﴾

تہ تم لاکھ میو اپمان اذن تہ میو پسنہ اپمانہ
مطابق عمل تہ کر۔ متن پیہ عالیشان باعس منز
فرحت (تہ شادمانی) واتاوتہ۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿۱۶﴾

تہ تم (لاکھ) میو کفر کوز تہ سائین آئین ہند تہ
آخر تہج زندگی ہند حاصل سپدنک انکار کوز، تم
پن ہذابس بروٹھ کتہ حاجر کرہ۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُخْضَرُونَ ﴿۱۷﴾

او کہو کرو اللہ (تعالیٰ) ہنر تسبیح۔ نیلہ توہو
شامہ کس ولس منز دا نجل سپدو یا صلح کس ولس
منز دا نجل سپدو۔

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِیْنَ تُمْسُونَ وَ حِیْنَ
تُصْبِحُونَ ﴿۱۸﴾

تہ آسمان تہ زمینہ منز چہ تہندی تعریف۔ بیہ
کرو دوہر ڈلہ تہ تہترے تسبیح۔ بیہ پانٹو
(عالم) دوہر کہ وقتہ تہ۔

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَ عَشِيًّا وَ حِیْنَ تُظْهِرُونَ ﴿۱۹﴾

سہ چہ موردس بخش زندہ کڈان تہ زندہ بخش چہ
مورد کڈان تہ زمینس چہ امہ کہ مورد گڑھند پتہ
زندہ کران۔ تہ بیہ پانٹو بیو توہو تہ کڈنہ۔

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿۲۰﴾

تہ تہندو نشانو منز چہ (اکھ) یہ (بشائو) تہ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ

إِذَا أَنْتُمْ بَشَرًا تَنْتَشِرُونَ ﴿۱۵﴾

ز تکر چھو توہر میشر نشہ پاد کرک متری۔ پتہ
چھو توہر تمہ پادایشہ ہندس پنجس منز بشر
بنان تہ (سارے زمینس منز) چھو تیلان۔
تہ تکر بندو نشانو منز چھ (اکھ) یہ (نشانی)
تہ ز تکر چھ تہندی جلسیہ منز تہندی خ طہ
جوہر بناوکر متری میٹھ زن توہر (مترن سستی مے
محبت ورتاوتھ) تہندی کنہ تسکین لبو بیہ چھن
توہرہ درمیان ٹاٹھنیا کرک تہ ہمدروی ہند واطھ
پاد کورنت۔ اتھ منز چھ سوچ کرن والہ قومہ
باپتھ بڑی نشانی۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿۱۶﴾

تہ تہندیو نشانو منز چھ آسمان تہ زمیں تہند
پاد کرن اتہ تہنترن بولن تہ تہندی زنگن
ہند الگ الگ آسن تہ اتھ منز چھ سارے
زان والین ہند ٹاٹھ بڑی نشانی۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۷﴾

بیہ چھ تہندیو نشانو منز رات کیت تہ وہ ہلہ
تہنتر بندر کرنی بیہ توہر مند فضل حاصل
کرنی ٹاٹھ محنت کرنی تہ۔ اتھ منز چھ بوزن
والہ قومہ باپتھ بڑی نشانی۔

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءِكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ ﴿۱۸﴾

بیہ چھ تہندیو نشانو منز بیہ ز سہ چھو توہرہ
وزل ، بہم تہ وہ مید پاد کرنی ٹاٹھ ہاوان
تہ اوہر منز چھ آب والان۔ پتہ چھ تمہ سستی
زمینتہ تمہ کہ موہر گڑھنہ پتہ ز بند کران۔
اتھ منز چھ عقلم والین لوکن کیتی بڑی نشانی۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقِ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۹﴾

بیہ چھ تہندیو نشانو منز آسمان ہند تہ زمینک
تہندی امر سستی قائم روزن تہ۔ او (نیر لند
یہ نشانی تہ لوکن ز) بیلیہ سہ توہرہ زمینتہ منز
نہیر نہینر باپتھ اکے لو کر و۔ تہ وچھان
وچھان بیہ توہر زمینتہ ہنترن۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ هُنَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿۲۰﴾

بیہ آسمان تہ زمینتہ منز (ہن وای) ساری
وجود چھ تہندی فرمانبردار۔

وَكُلٌّ مِّنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿۲۱﴾

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۸﴾

۳۸

صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۹﴾

بیسے چھ (مخلوقات) پادائش شروع تکران تہ پتہ چھ یہ (سلسلہ) پھیر پھیر عملہ منز انان روزان تہ یہ کام چھ تہ بند خاطر سبھا سہل۔ تہ آسان تہ زمپنہ منز چھ تو سندن شان ساروے کھوتہ تھو۔ بیہ چھ سہ غالب (تہ) بوڈ حکمتہ وول۔

تو چھ تو ہہ فکر تارہ موکھ تہ تہری ذمتر ہنراکھ حالت بیان کر ہنرا (یوسہ یہ چھ تہرا) لیکن ہندر تہندر ڈچتہ اتھ ہا یک آسان چھ۔ کیا تو منز چھا کاتہ تہ (مالہ) منز یس اسہ توہہ دتیت چھ تہ تہند برابرک شریک تہ آسان؟ بیہ یا سھو نہ توہہ ساری (ہا یک تہ غلام) اوسوتتہ (مال دولس) منز برابرک شریک سدان۔ بیہ اسو توہہ تہن لغان تہتہ یا سھو کھوتران تہتہ یا سھو توہہ پا نہ وانی (اکھ اوس) کھوتران چھو۔ بیہتہ یا سھو چھ اوس عقلمہ والہ قومہ باپتہ نشانہ واش کڈی کڈی بیان کران۔

بلکہ (حقیقت چھ یہ نہ) غلام لوکھ چھ علمہ ورائی پنہن خاوشن پتہ دراہوتہ تہ نیس اللہ (تعالیٰ) گراہ کرتس سس ہیکہ ہا بیت و تہ (تہ) لیکن (لوکن) ہند اسہ نہ کاتہہ ہڈکار اڈ موکھ کر تہ پین سورے توجہ دپتہ خاطر مخفوس۔ اتھ ملوس منز نہ تہ منز اسہ نہ کاتہہ ہجر۔ (تہ) اللہ (تعالیٰ) ہنرا (پاڈ کر ہنرا) فطرت پرا (سو فطرت) بیہتہ پتھ اللہ (تعالیٰ) ہنرا لوکھ پاڈ کر ہوتہ چھ۔ اللہ (تعالیٰ) ہنرا پاڈائشہ منز منیکہ نہ کاتہہ تبدیلی سہتہ۔ یوسہ چھ تاہم روزان

لہ یعنی ہم تہند غلام آسان چھ

وول دین - اما پوز واریاہ چھنہ زمانان -
 (لہذا) توہی ساری کروی تہ (خدا ایس) کن نمیتھ
 دین بطرت اختیارہ بیہ تند تقویٰ پراوود تہ مناز
 کروی تمک شرط بہتہ ادا - بیہ مشرک کو مشرک نہ بنو -
 یعنی تمو (مشرک) لاکو منزی یو پنشن دپس چھلہ
 چھانگر کر تہ (دین چھلہ چھلہ کر تہ) آہر بیون
 بیون فرقت باگر تہ تہ پڑتہ دور چھ اہر خیالہ کنو
 خوش زریس حصہ تمو نیوئے چھ رت لہ -

بیہ نیلہ انسان کا نہہ تکلیف واہ تہ تم چھ پنشن
 پروردگار کن نمیتھ تس آلو کران - پتہ سینہ
 تند طرفہ اتن کا نہہ رحمت و اتان چھینہ تہ تمو
 مشرک چھ الہ دور پنشن پروردگارس مقابلہ شریک
 بناوڑی ہوان -

نیمیک نتیجہ چھ یہ آسان زریہ کینترھا اسہ اتن
 دیت مت چھ تم چھ عملا تمیک انکار کران ہوان
 (اد چھ اتن دنز ہوان - دنی یاہ لنتہ) ایس کینہ
 فایدہ اتن چھو ، تلو ، تہ کیا ز توہی و چھو جلدہ
 پین انجام -

کیا اسہ چھ اتن بند خاطر کا نہہ (بشر کج)
 دلیل نازل کر مشرک یوسہ اتن تمہ کتہ ونان
 چھینہ یہہ شرکس متعلق تم بیان کران چھو -
 تہ نیلہ اسکر لاکن ستر رحمتک سلوک کران چھو ،
 اد تم چھ تمہ ستر خوش گترھان - اداگر اتن
 پڑتہ ہو اعلو بند باعثہ کا نہہ تکلیف واہ تہ تم
 چھ ہنگتہ منگہ ناوومید گترھان -

کیا تمو و چھنا ز اللہ تعالیٰ تینگی سندر خاطر بیترھان
 چھ ، بزق چھس کشد کران تہ تینگی سندر خاطر
 بیترھان چھ تس چھ رزقس تنگی کران - اتھ منز

مُنِيبِينَ لَّيْلِهِ وَ اتَّقُوهُ وَ اَقِيْمُوا
 الصَّلٰوةَ وَ لَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۳۰﴾

مِنَ الَّذِيْنَ فَزَعُوْا مِنْهُمْ وَ كَانُوْا
 شِيْعًا كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
 فَرِحُوْنَ ﴿۳۱﴾

وَ اِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ
 مُنِيبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا اَذَاَقَهُمْ مِنْهُ
 رَحْمَةً اِذَا فَرِحُوْا مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ
 يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۲﴾

لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوْا بِهٖ
 فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۳﴾

اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهٗوَ
 يَنْتَكِبُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۴﴾

وَ اِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا
 وَ اِن تُوْصِبْهُمْ سَئَْةً بِمَا قَدَّمْت
 اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَفْتِنُوْنَ ﴿۳۵﴾

اَوَلَمْ يَكُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
 لِمَنْ يَّشَاءُ وَ يَقْدِرُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
 لَآيٰتٍ لِّقُوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۳۶﴾

لہ تھکنی اڑو کر زمانہ کی علما و دین کران چھو -

چھ ایمان انن والہن لوکن ہند خاطر سہا بٹانہ۔
 او کوئی پزیرا بیلہ خداے برقس منتر کشادی
 دیہ تنید، اے قرآن پران والہ، تر بجٹا دی زہ
 نزدیکی کین اشناون، بسکین تہ مسافرن ہتہند
 حق - یہ کتھ چھینہ سہا جان تہن لوکن ہند
 خاطر یم اللہ (تعالے) سند رضا حاصل کرن ہتہند
 چھ تہ تے لکھ چھ مراد لین ولہ آسان۔

بیہ یم دیار توہی سود حاصل کرنہ خاطر دوان چھو
 تہہ زن سہ لوکن ہندس ماس منتر ہرلہ تہ
 تم دیار چھینہ اللہ (تعالے) ہس نش ہران تہ یہ
 توہی اللہ (تعالے) سند رضا حاصل کرنہ ہاتھ
 زکوٰۃ ترنگ دوان چھو تہ یاد تھو زرا ہی تسک لکھ
 چھ خدایس نش (دیار) ہراوان۔

اللہ (تعالے) چھ سہ نیمو توہی پاؤ کرک ہتہ چھو
 پتہ چھو تے توہر برزق دیت مت پتہ مارکو
 تہ توہر سہ، پتہ کرکو توہر زند تہ سہ تہندو
 (تجوڑ کرک ہتہو) شرکو منتر تہ چھا کاتہ تہتہ
 یس امر کامر ہند کاتہ حصہ تہ کران آسہ؟ سہ
 چھ تہند بشرک ہتہ پاک، تہ تھو شان تھون ول
 تہہ زماس منتر چھ تھو شک منتر تہ تہ آس منتر
 تہ سہ لوکن ہنرو کامو کوئی فساد ظاہر سپد مت
 نیمیک تہہر یہ سپر ز خداے دیہ لوکن تہنن
 علمن ہند کثیر جمک سزا (تہہ دویہس منترے)
 تہہ زن تہ (نافرمانی تہہ) پوت پھین۔

قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
 وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
 يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ زَوْاٰ لِيْلِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ ﴿۲۱﴾

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَبَاٍ لِّيزْبُوْا فِىْ اَمْوَالِ
 النَّاسِ فَلَا يَزْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ذٰمًا
 اٰتَيْتُم مِّن زَكٰوٰةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ
 اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْحِقُونَ ﴿۲۱﴾

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ
 يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شَرِّ
 كٰتِبٍ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مَّن
 سَنِيْءٍ ؕ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۲۱﴾

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا
 كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
 بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ
 يَرْجِعُوْنَ ﴿۲۱﴾

لہ کیلئے لکھ چھ خیال کران ز صرف سہ سود چھ منع یس عزیزین قرمن دتھ ہنہ یوان چھ
 تہہند خیال چھ ز تجارتی یا صنعتی قرض پیٹھ سود ہون چھ جائز۔ چھ آیس منتر
 چھ امر نیماک رد کرنہ آمت۔

لہ وجہ - مَرْمَآةٌ (اقرب) یعنی رضا
 لہ یعنی دینس تہ دنیہس دونوں منتر چھ فساد تہ بگاڑ پاؤ سپد مت۔

مِنْ عِبَادِهِ إِذْ أَنهَمْ يَسْتَشِيرُونَ ﴿۳۰﴾

پہلے چھل کران اِد چھکھ تِر وچھان زِ امہ (اوبر) منز چھ رُوڈ وُسُن ہوان - پتہ نیلہ خدایہ تھہ اوبرس پستہو بندو منز یس سہاڈی سیتھہ ، واتن وان چھ تہ آتی چھ تم خوش گرتھان۔ نیلہ زن تم اُسی سہ (رُوڈ) پستہ برومٹھ اُکے ناوہ مید گاہی۔

وَأَن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ عَلَيْهِمُ
رِسْقًا لِّمُبْلِسِينَ ﴿۳۱﴾

لہذا (اسے مخاطب!) اللہ (تعالیٰ) سبند رجسٹک تشاہد وچھ تہ سہ کتھہ پاتھو چھ زہینہ ہند مرتر پتہ تھہ زہن کران۔ یوہے خدایہ چھ یس (قیامت کدوہہ) مودن زہن کر تہ سہ چھ پرتھ چیزس پیٹھ قودرت تھون وول۔ بیہ اگر اُسی واوسوزو تہ یکم لوکھ وچھن تھہ (یعنی فہلس) زریوٹ، تہ یہ وچھتہ پتہ بن تم (نہیت حاصل کر تہ بدل) ناشکر کران والی۔

فَأَنظُرْ إِلَىٰ أثرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ
يُخَيِّ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، إِنَّ ذَٰلِكَ
لَمُخَيِّ المَوْتَىٰ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿۳۲﴾

لہذا تہ دہتن سیتھ کر تہ تہ کیار نہ تہ ہیکہ ہیکہ تہ مودر بوزناوتھ تہ نہ ہیکہ ہیکہ تہ تہ تری تہ وقتہ بوزناوتھ نیلہ تم تھہ پھرتھ تہن۔

وَلَئِن أَدَّسْنَا رَبِّهًا فَزَادَهُ مَضْفَرًا
لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿۳۳﴾

بیہ نہ ہیکہ ہیکہ تہ اُنی تہنتر گمہ ہی نشہ پھرتھ سیتھوتہ پیٹھ اُنتھ۔ تہ ہیکہ ہیکہ صرف تہ بوزناوتھ ہم سائن آین پیٹھ ایمان انان چھ اِد چھ تم سانی فرما تہ وار بیان۔

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ المَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ
الصُّمَّ الذُّعَاءَ إِذْ أَكَلُوا مَذِيرِينَ ﴿۳۴﴾

اللہ (تعالیٰ) چھ تہ سینی توہی اتھہ حالتس منز یاد کر تہ توہہ منز اس کزورکی موبور۔ پتہ بچھنو کزورکی پستہ توہہ قوت ، پتہ طاقتہ پتہ دتہ نو توہی تہ سجر۔ سہ یس چیز سیتھان چھ یاد چھ کران۔ بیہ چھ سہ بڑ علم وول (تہ) قودرتہ وول۔

وَمَا أَنْتَ بِهَادِ العَمِي عَن ضَلَلَّتْهُمْ
إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
مُسْلِمُونَ ﴿۳۵﴾

بیہ سیمہ دہہ گندہتر وز سیمہ ، مجرم کران تم

اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ
مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِّن بَعْدِ
قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وَ
هُوَ العَلِيمُ القَدِيرُ ﴿۳۶﴾

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ


زیر تم روڈ کی بند (ڈیڑھس منتر) شریہہ کھنڈ علاوہ،
تم چھ بیتھے کئی وولہ دولہ کتہہ بناوان۔

بیہ تم لوکھ بیکن علم تہ ایمان دینہ آمت چھہ،
ون توہی چھو اللہ (تعالے) بندس حسابس منتر
تتہ دھس تمام ٹھہرے متی یس تہند بیہ
وہ تلنہ باپتہ گتہہ اوں بیہ (تھوو یاد ز) یوہے
چھہ بیہ وہ تلنک دھہ۔ اما پوز توہی چھونہ زانان۔
انہ از دیہ نہ فلان تہند کاٹھہ عذر قاید تہ نہ
پیہ تمن معاف کر تہہ ڈیڑہ تمام بیک تہ موقہ دینہ۔

تہ آسہ چھہ لاکن بند باپتہ بیتھہ قرآنس منتر
پر تہہ تھہکی پزرواش کڈی کڈی بیان کر کر دیہ
تہ ہرگاہ تہ تمن بٹس کاٹھہ نشانہ انکھہ تہ سکا منر
ون ضرور نہ توہی لوکھ تہ چھو صرف اپنہ کتہہ
پیش کرن وال۔

بیتھہ پاتھر چھہ اللہ (تعالے) بے علم لاکن بندین
ولن پیٹھہ معہر کرن۔

اوکزی (اے قرآن کر مخاطب!) تریڈ تہ در در
ساکن روز (پنس ایمانس پیٹھہ) قایم۔ اللہ (تعالے)
سند و علم روز ضرور پور سپد تہہ۔ بیہ بیک لوکھ
چتھہ چھہ تھوان۔ بیہ تم برم دتھہ تریہ (پنسہ
جاپہ) ڈال نے؟



سورہ لقمان - سیر سورہ چھہ کئی تہ بسم اللہ بہتہ چھواتھہ پانشر تہ آتہ بیہ چھس ضرور رکوع۔

(بیر چھس) اللہ (تعالے) سند ناو بہتہ پران، یس
حدہ روس کرم کرن وول (تہ) پھیر کر پھیر کر رحم
کرن وول چھہ۔

بہ اللہ چھس سار وہے کھوتہ جاو زان وول۔

الْمُحْرَمُونَ مَا لَيْسُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۝
كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ۝

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ
لَقَدْ لَيْسْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ
الْبَعْثِ، فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلِكِنَّمْ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ
لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا
مُضِلُّونَ ۝

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

فَاضِرٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا
يَسْتَحْفِظُنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

یٰم (سیر سوپر ک آیه) چھ، نیہ کمال کتاب ہندک
آیہ یوسہ بچہ حکمتش واجبی چھینہ۔

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٢﴾

تہ پتہ فرہن شوہہ دار پاتھ نامہ والن والہن
ہندہ باپتہ چھینہ یہ ہدایتک تہ رحمتک باعت۔
تم لوکھ یم نماز (تمہ کہو پور شرطوسان) ادا
کران چھ بیہ چھ (غریبن تہ مسکینن) زکوٰۃ
دوان روزان تہ آخرتچہ زندگی پپتہ چھ پترہ
تھوان۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾

تیکے لوکھ چھ پنسنس پروردگار سید طرفہ پینہ
و اہس ہدایتس پپتہ مضبوطی سان قائم تہ پتھی
لوکھ سیدن (پرچہ نادانس منز) کامیاب۔

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿٤﴾

تہ لوکو منز چھ کہینہ تھہ ییم (پتن مل ضایع
کرتہ) فعل کتہ ملی ہوان روزان چھ پتہ زن
لوکن اللہ (تعالے) سوز و تہ لنتہ علم آسنہ
پتہ رتن۔ تہ پتہ (یعنی اللہ تعالیٰ سوز و تہ)
چھ ٹھانن مٹون لایق چیز بناوان رہن لوکن
ہندہ خاطر آسہ رسوائی وول غلاب۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَ
يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ﴿٥﴾

بیہ بیلیہ پتھس شخصس بروٹھ کتہ سانی آیہ پتہ
بوزناونہ یوان چھ تہ سہ چھ کبرسان تھر پھران
یعنی زن نہ تمہ بوز پسی (سہ چھ اتھ حدس تمام
لا پروائی کران) زن تہ چھ تہندن کنن زرہر۔
لہذا سہ بوزناون تہ کہہ کر پتہ ہذا پتہ خبر۔

وَإِذَا تَثَلَىٰ عَلَيْهِ أَيْنًا وَ لَىٰ مُسْتَكْبِرًا
كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٦﴾

بلا شک تم لوکھ پتہ ایمان اون تہ پتہ تمہ کہ
حالہ مطابق عملہ کر رہن میںن لنتہ والی باغ۔
یمن منز تم روزان کر رہن۔ یہ چھ اللہ (تعالے)
سند کورت پوتہ وعدہ تہ سہ چھ غلاب (تہ) بکیر
حکمتش وول۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٧﴾
خَالِدِينَ فِيهَا، وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾

تمہ چھ آسمان تھمبو وراپی یاد کر رہی متی۔ پتہ پاتھ
توہی تو پھان چھو۔ تہ زمینہ منز پھن بال امہ کتہ
نکر انداز تھادو متی زرہ سہ گتہ نہ توہی پتہ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
وَ اَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوٰسِىً اَنْ
تَوَيْدَ بِكُمْ وَ بَسَّ فِىْهَا مِنْ كُلِّ ذَا بَةٍ ۗ

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاتَّبَعْتَنَا
فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَرْعٍ كَرِيمًا ﴿۱۰﴾

گذریں جو بس منتر ٹبر گزری۔ بیہ تیلراون
اتھ منتر پر پتھ تھیکو جانر تہ اوپر منتر چھ
اسہ آب نازل کورمت۔ پتہ وو پد اوک اسہ
اتھ منتر پر پتھ تھیکو تھیس سور۔

یہ چھ اللہ (تعالے) منتر پادائش۔ لہذا مینہ
تو تو ہی نہ تس ورائی، یکم تو ہی شریک ٹھہراون
چھو کہ تمو کیا چھ پانچ کورمت؟ (کہنی تہ
نہ) بلکہ پوز چھ یہ نہ ظالم چھ نہہ وانہ گزری
منتر۔

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۱﴾

وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ اَبِى اشْكَرٍ
يَتْلُو ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاَتِمَّا بِشُكْرِ لِنَفْسِهِ ۗ
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۱۲﴾

بیہ اس اسہ لقمان حکمت وڑ ہتر تہ ورت
اوس نہ اللہ (تعالے) سند شکرانہ کراوا تہ
یس شخص تہ شکرانہ کر۔ تمو منہ شکرانہ کرنگ
ناید چھ تمو منہ سے زوس وانان۔ تہ یس
ناشکری کران چھ (تس پز یاد تھون نہ) اللہ
(تعالے) چھ ساری قسمہ کو شکرانو لیشہ بے نیاز
(تہ) بڑ حسد دول۔

بیہ (یاد کرو) مینہ لقمان پنشن نیچس نصیحت
کران وون۔ اسے مینہ گوہر! اللہ (تعالے)
سند کانہ شریک ٹھہراو زہہ۔ شرک چھ یقینا
سبھا بوڈ ظلم۔

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ
يٰۤاِبْنٰى لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ
اَكْظَمُ عَظِيْمٌ ﴿۱۳﴾

بیہ اسہ چھ انسانس تہندس مایس ماجہ ہند حقہ
تھاکپدی حکم ویت مت نہ میون تہ تہند شکرانہ
روزی نہ ادا کران۔ تہنہ ماجہ اوس پنہنہ نو تووانی
(ہند اگر دوہ) پتہ کزوری (ہندس دوکس دورس)
منتر سہ تلمت (تروومت) تہ تمو سند دوہ
تراواناون اوس دولن ویرن ہندس متس منتر۔
(یاد تھوز) توہہ اسہ وینے کن واپس پھیر تھین۔
اگر گاہ تم دولوے تریہ سوتی بخت کرن نہ
تہ کرن میون کانہ شریک مقرر نیمو سند تریہ
کانہہ علیہ چھ نہ۔ تہ مال نہ نہ سرگزینم دولوئی

وَوَضَّيْنَا الْاِنْسَانَ يَوْ اِلٰدِيْهِ ۗ حَمَلَتْهُ
اُمُّهُ وَهَنًا اَعْلٰى وَهِنٍ ۗ وَ فِطْلُهُ فِي
عَامَيْنِ اَبِى اشْكَرٍ ۗ وَ لِيَّوَالِدَيْكَ ۗ اِلٰى
الْمَوْءِذِ ۗ ﴿۱۴﴾

وَاِنَّ جَا هٰذِكْ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِى مَا
لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَ
صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْقَانِ ۗ وَ اَتَّبِعْ

سَيَبِيكَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾

بہتر کہتے۔ بیتہ رُو د دنیاوی معاملن منفر تھوؤ ز
بتن سدی نیک تعلق قائم تہ تس شخصس پستہ
پکو زریں میہ کن نمان چھ تہ بیٹے کن آسہ
توہہ سارے بندہ وایسین۔ تمہ وڑ کروو بہ
توہی تہنہز عملہ رشتہ خبردار۔

يُبَيِّنُ لَهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ
خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي
السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۳۲﴾

(لقمان وون ز) اے میانہ گوہر! کہتے چھینہ بیہ ز
اگر اکھ عمل آسہرک دانس سنب تہ آسہ پستہ آسہ
سہ (آسہرک دانس سنب عمل کنہ) شبیلہ منفر یا
آسمان منفر یا زمینہ منفر تہ کھتہ تہ اللہ (تعالے)
کرو تھہ نون۔ اللہ (تعالے) چھہ زاولہ کھوتہ
زاولہ راز تہ لین وول تہ سپٹھا خبردار۔

يُبَيِّنُ أَمْرَ الصَّلَاةِ وَ أَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ
وَإِنَّهُ عَنِ الْمُشْكِرِ وَاضٍ عَلَى مَا آصَابَكَ
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۳۳﴾

اے میانہ گوہر! نماز تھوؤ ز (ساری شرط
ہتھہ) برپا۔ تہ برترن کہتن ہند روزہ ز
تھم دوان تہ ناپسند کہتہ رشتہ آسہ ز ٹھاک کن
تہ یہ (شوک مؤور) تریہ واتی تھہ پٹھہ ہتہ
صبرس کام۔ یہ کہتہ چھینہ بے شک سپٹھہ ہے
ہمتہ واجینو کامو منتر۔

وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي
الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿۳۴﴾

تہ پینن ہتھہ ہنر راوزہ لوکن بروٹھہ کنہ (شرارتہ
سدی) بیہ زمینہ منفر پکوزہ کبرسان۔ اللہ
(تعالے) چھینہ یقینا پر ہتھہ دہر ہنر وایس تہ
تھپکن وایس سدی ماٹھنیار کران۔

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ
صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
الْحَمِيرِ ﴿۳۵﴾

بیہ پینس پکس منفر پر اوڑ اعتدال تہ پتہ آواز
تھوؤ سوتہ۔ (تہ کیارت) آوازو منفر چھینہ سارو
کھوتہ ناپسند آواز کھہ ہنر آواز (ایسے خرٹھاگ
یوہہ سپٹھا تھنر چھینہ آسان)۔

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً وَ مِنَ النَّاسِ
مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا
هُدًى وَ لَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿۳۶﴾

کیا توہہ (لوگو) وچھو نازہ یہ کینرھا آسمان منفر
چھہ تہ زمینہ منفر چھہ (تہ) چھہ اللہ (تعالے) ہن
تھندس خدمتس منفر لگتہ تھوؤ مت۔ بیہ چھن
پستہ نمشر او ظاہری آسٹن یا باطنی، توہہ پٹھہ
آکرو پاھو واجھنر۔ بیہ لوگو منفر چھہ کینہہ تھوؤ

بیم علمہ ورائی، تو ہر ایسے ورائی، تہ کتبہ گا شرک
کتابہ ہنر دلیدہ ورائی اللہ (تعالے) بندہ حقہ
بحث کران چھ۔

بیہ میلہ، تمن و نہ یوان چھ نریہ کیترا اللہ (تعالے)
ہن نازل کورست چھ جمع کرو فرما نہ واری۔ تہ
ونان چھ، نہ، اسی کرو جمع پاری بیہ پیٹھ
اسہ پنی جہاداد و پھو متی چھ۔ او اگر شیطان
تمن (تہندو جہادادو ہندہ ڈریعہ) جہنم
کن ناد ووان آسہ ہل پتہ تہ کرناہ ہم تی؟۔

بیہ یس شخص پتی دیان اللہ (تعالے) ہس کن
پھران چھ بیہ چھ سہ پستہ علیہ منتر تہ پلور
چسہ سان پکن وول۔ تیلہ (زن تہ) چھ تہ مہنوا
کریں تھہ کڑ ہنتر تہ اللہ (تعالے) ہس کنے چھ
سارہے کا ہن ہند انجام پھرتہ گزھان لہ۔

بیہ یم لاکھ کفر کن، تہند کفر مہ کری نے تریہ
فلکین۔ تمن پنیہ اوس اسی کن واپس پھرن۔
پتہ کروکھ اسی تم تہند لو اعمالو ہنتر خبردار۔ اللہ
(تعالے) چھ یقینا سینہ اندر مہ سارہے کتھ
زانان۔

اوس و اتنا و تمن کیترا کاس تام دنیا وکی فایدہ
پتہ، لکھ تم مجبور کریدہ سبھا وکھ عدلیس کن۔

بیہ اگر تمن پتہ کھ نر آسمان تہ زمین کتھ
چھ پاؤ کری متی؟ تہ تم دن ضرور، اللہ۔
(تعالے) ہن۔ تہ و ن تمن (جان گونو ساری
تعلیق چھ اللہ (تعالے) ہندی۔ مگر تمونکرو
منتر چھتہ واریاہ یہ کتھ زانان۔

آسمان تہ زمین تہ منتر یہ کیترا چھ، تہ چھ

وَاذًا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا، أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ
إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ①

وَمَنْ يُشْرِكْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
 فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وَإِلَى
اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ②

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ،
إِنَّمَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا،
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ③

نَمَتَّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى
عَذَابِ غَلِيظٍ ④

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑤

يَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ

هُوَ الْعَرَبِيُّ الْحَمِيدُ ⑩

اللہ (تعالے) سندے . اللہ (تعالے) ہے
چھ بے شک سہ (ذات) یس (پر تھہ عبادتہ
تہ تعریفہ بنتہ) بے نیاز چھ (مگر) سہ چھ
(سستی) سارہے تعریفن ہند مقدار تہ -

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامَ
وَ الْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ
مَا نَفَذْتَ كَلِمَاتِ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّهُ
عَزِيزًا حَكِيمًا ⑪

بہ اگر زمینہ منزیتی کلی چھ ، بمن قلم
بن تہ سمندر آسہ میلہ بڑتھہ تھہ پانٹھو ز
سٹھ بہ میلہ سمندرین تھہ منز بلاناوہ توتہ
موکلن تہ اللہ (تعالے) ہندو نشانہ اللہ
(تعالے) چھ یقینا غالب (تہ) بجز حکمتروول -

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْكُمُكُمْ إِلَّا كُنُفُوسٌ
وَ أَحَدَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ⑫

تہہ سارہے ہند یاد سیدن تہ تہند زبند کربتہ
تلمن یں چھ صرف اگس شخصہ ہند یاد
سیدن پانٹھو - اللہ (تعالے) چھ بے شک
سبھا بوزن وول (تہ) سبھا وچین وول -
کیا تریہ وچھتھنا ز اللہ (تعالے) چھ راتہ
دوہس منز داغل کران تہ دوہس چھ راتہ
منز داغل کران ؛ بہ چھ تھو آفتاب تہ
زون خدمتس پیٹھ لگتھ تھادو ہتی - کیومنز
چھ پرتھہ اکھ گنڈت سدتہ خاطر پکان گزھان
تہ اللہ (تعالے) چھ تھندوہ اٹھالوہنتہ زبریا پٹھو
واقف -

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ الْبَحْرَ الْبَيْضَ فِي النَّهَارِ
وَ يُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْبَيْضِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ
القَمَرَ وَ كُلَّ يَجْرِي إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى وَ أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑬

بہ سورے کہینہ چھ امر کہی سپدان تہ اللہ (تعالے)
شتر ذات چھینہ یز تہ تاہم روزن واجزی بہ
او کہی ز پین تم لوکھ تس ورائی آلو کران
چھ تم چھ اپزباری تہ فنا سیدن واکر تہ
اللہ (تعالے) چھ یقینا سبھا تھو تہ کشادہ
شاہ وول -


ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ⑭

کیا تریہ وچھتھنا ز ناو چھینہ اللہ (تعالے)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

لہ کلمتہ "امیک معنی چھ سینہین ، آہ نشان -

لہ "باطل" امہ لفظک معنی چھ اپزباری تہ تہ "فنا سپدان وول تہ"



سورة سجده - یہ سورہ چھ کئی ہے بسم اللہ ہیچہ چھ آیتہ اکثرہ آیتہ بیچس تریہ رکوع۔

(بہ، چھس) اللہ (تعالیٰ) سُد ناو ہیچہ (پران)
یس صر رؤس کرم کرن وول (تہ) پھری پھری
رحم کرن وول چھ۔
بہ چھس اللہ ساروہے کھوتہ جاد زانن وول۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

اللّٰهُ ①

تمہ کتاب ہند (بیمیک) یہ اکھ سور چھ (بہ العالمین)
ہند طرفہ تا نزل کرن چھ اکھ پترہ برتر کتہ ہیچہ
خز کا نہ شک چھ نہ۔

کیا تم لوگ چھا ونان زرا می شخصن (یعنی محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) چھینہ یہ پسنہ
طرقہ بناو ہنتر۔ ہنترہ کتہ چھتہ بلکہ یہ کتاب چھینہ
پائس پروردگار ہند طرفہ تا نزل سپدن واجز (تہ)
قائم روزن واجز (کتاب) ہیچہ زن تر سر قوم ہنتر کرن
ہنتر کرن ہنترہ کاتہ ہنترہ زن کم ہدایت لبین۔

اللہ (تعالیٰ) چھ سہ سیکو آسمان تہ زمین بیہ
یہ کیشرہا یکین دونوںی منز باگ چھ تہ سورہ
چھن شہن و متن نہ منز پاد کوروت تمہ پتہ
سپد سہ کلوسہتہ کس عرشس پیٹھ مضبوطی
سان قائم۔ تس (خدایس) وراہی نہ چھ
کا نہہ تہند پوز دوست تہ نہ کا نہہ سفارش
کرن وول کیا توہی چھو نا نصیحت تا میل کرن۔
سہ کر پسنہ تہ پسر مطابق آسمان پیٹھ زمینس
تام بین حکم قائم۔ اہ انیسہ سہ کھس تس

تَنْزِیْلُ الْكِتٰبِ لَا رَیْبَ فِیْهِ مِنْ رَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ ①

اَمْ یَقُولُوْنَ اَفْتَرٰهُ ۗ بَلْ هُوَ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِنْ
نَّذِیْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُوْنَ ②

اِنَّهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ
مَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوٰی
عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَکُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ
وَلِیٍّ ۗ وَلَا شَفِیْعِ ۗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ③

یَدَبُرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمٰوٰتِ اِلَى الْاَرْضِ
ثُمَّ یَخْرُجُ بِرَآئِهِ فِیْ یَوْمِ کَانَ مِقْدَارًا ④

لہ عربی زبان منز چھنہ یوم صرف صبح پیٹھ شام تام کس وقتس ونان بلکہ یوم گوو زمانہ تہ
وقت یس لچہ بدن ورنین ہند تہ آستہ ہیکہ۔

أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا تَعُدُّونَ ①

کُن اُکس تھقس و تفس مفر ینبج بمقدار اکھ
ساس ڈرک چھید، نیمہ مطابق توہی دنیاہس مفر
گر بند کران چھو۔

ذَٰلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ②

یہ چھ غالب تہ محاکرک زانن وول (خدا)
یس غالب (تہ) پھیری پھیری رحم کرن وول چھ۔

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ
خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ③

نیمو یہ کینرھا تہ یاد کورمت چھ (تہ) چھن تھد
پایہ طلقو سبتو یاد کورمت - بیہ چھن انسان
اُدر میٹر بنتھ یاد کورمت۔

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ
مَّهِينٍ ④

پتہ چھن تھنر ذریات اکھ کمزور آبہ کہ ہر تہ
(یعنی نطفہ) بنتھ یاد کورمت۔

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَعَهُ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَ
جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْإِبْصَارَ وَ
الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ⑤

پتہ و تہ تہس بر پور طانت تہ تہس مفر ترو
پتہ طرفہ رُوح بیہ بتاوان تہندہ خاطر
کن تہ اچھ تہ دل۔ مگر توہی چھو نہ اُکے
شکرانہ کران۔

وَإِنَّا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَتَانَا
كَيْفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَائِ
رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ⑥

بیہ چھ تم ونان۔ کیا نیلہ اسی زمیہ مفر راوہ۔
تہ اسی یوا اکھ نو یاد آیشہ مفر شکلیہ مفر استاد
کرتہ (یم لوکھ چھنہ امہ نو یاد آیشہ ہندو متکرا
بلکہ چھ پینس پروردگار ہندو ملاقاتی متکر۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي
وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ⑦

تہ و ن یس ملک الموت تہہ پٹھ مقرر کرتہ
آمت چھ، سہ کر ضرور تہندہ رُوح قبض پتہ
بیو توہی پینس پروردگار کن واپس پھیر تھہ
اشہ۔

ذَٰلِكُمْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا
رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَإِنَّا آْبَصْرَتَا
سَمِعْنَا فَأَرْجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا
مُقْتِنُونَ ⑧

بیہ ہر گاہ توہم سہ حالت معانم سپر و نیلہ مجرم
پینس پروردگار بر و تھہ کرتہ پینزی کلہ لون
کن تہ ترو تھہ وود نہ آسن۔ تہ ونان آسن
اسے سانہ پروردگار! (یہ کینرھا تریہ وومت

یہ یعنی اُکس ساس ڈرک گزہ اسلام کور تہ سپر و بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستر و پینتو مطابق اسلاس
عروج حاصل (آشا اللہ)

یہ یعنی انسانہ ستر جسمانی یاد آیش مکمل کرتہ پتہ کورن تہس پٹھہ کلام الہی نازل۔

اوسته) سہ وچھ تہ آسہ تہ بڑتہ لہذا وہ فی ہنہ
اسہ تہ واپس نیٹھ زن اسی چانہ حکمہ مطابق
عمل کرو۔ اسہ چھینوہ فی چانہ کتھ پیٹھ پلور
پاٹھ پترہ کر مہتر۔

اگر اسی بیٹھ ہو تہ پرتھ شخصس دہر ہو
تہندہ حالہ مطابق ہدایت۔ اما پوز میا فی کتھ گے
پلور تہ بہ برن جہتم ضرور جنو تہ انسانوستی۔

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى
وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ ﴿۱۴﴾

لہذا ازی کر وک ملقات مشراوتہ کتہ تہ پینہو
عملو کتہ تہری تو توہی میث کال روز و سہ
عذابک منہر۔ بیہ (تھاوو یاد تہ) اسہ تہ
چھو توہی (از) مشراوی ہمتی (یعنی تہندہ
پروائے کرن چھ آسہ تروومت)۔

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾

سانہن آین پیٹھ چھ تے لوکھ ایمان اتان تہ نیلہ
ہتم تہندہ نسبت یاد پاوتہ یوان چھ تہ تم چھ
سجدان منہر یوان تہ پستہس پرور دگار ہندہ
تعلیف تہ سبح چھ کران تہ کبہر چھنہ کران۔

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۶﴾

(بیہ) ہتم (مؤمن) ہنہر لہر چھینہ تہندہو
وتھہر نو ہنہر الگ سپدان (یعنی تہ پتہریچ نماز
پرہنہ خاطر) (تہ) تم چھ پستہس پرور دگار س
تہندہو غلابو ہنہر بچہ موکھ تہ تہنہر رمنہر حاصل کرنہ
خاطر، آلوکران بیہ یہ کینہرھا اسہ ہتم دیت
مت چھ تمہ منہر چھ تم خدایہ ہنہر و تہ خرچ کران
روزان۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۱۷﴾

بیہ (پڑچہ یہ نہ) کا نہہ شخص چھنہ زانان نہ
ہتم (مؤمن) ہندہ خاطر کم کم اچھ تہبلاون
وال چیز چھ تہندہن اعلم ہندہ اجر کتہ کھٹھ
تھاوتہ آمہتہ۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ
أَعْيُنٍ بِرِجْزَاءٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

کیا، یس شخص مؤمن آسہ سہ بیکیا تس شخصہ

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۗ

لَا يَسْتَوُونَ ⑩

ہندو یا مسیحی یا مسیحا، ایسے فرمانبردار کی نسبت نہیں نیرے؟
بیم دہنوں سے یہاں نہ زاہ ہوئی اُسے۔

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ رُزُلًا يَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ⑪

تم لوگ جو ایمان آؤمےت چھ تہ تمہ مطابق چھینے
تمو عملہ تہ کرے مشہ۔ تمہن میں بسنس لایق جنت۔
یہ آسہ تمہند پو اعمال مطابق مہمان داری۔

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ
كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا
أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا
عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا
تُكَذِّبُونَ ⑫

یہ ہم لوگ فرمانبردار کی تلبہ دراپتو چھہ تمہن میں
روزہ خاطر جہنم۔ پیلے ہم زانہہ تمہ مشہ نیرنگ
اراد کرن تمہن میں تنہو کن واپس کرن تہ تمہن میں
وتنہ، تر وہ ذی ترہی تو جہنمک سہ عذاب ایسے توہی
اپزادان اسی و۔

وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِ نِ ذُوقُوا
الْعَذَابِ الْأَكْبَرَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ⑬

یہ تمہ بڑے سینہ والہ عذاب بروٹھہ ترہنا ووکھ اسی
تم (نیہ دنیا بک) لوکٹ عذاب تہ۔ یقہ زن
تم پھیرن (تہ توہ کرن تہ آخرتہ کر عذابہ
بچن)۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ
أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
مُنْتَقِمُونَ ⑭

یہ نیس تمہ بندس پرور دگار ہندک آہی یاد پاون
پن پتہ کر سہ۔ توہ نشہ روے گردانی، تہند کھوتہ
جاد بوڈ ظالم کس آسہ۔ اسی ہوں یقینا مجرم بدلہ۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي
مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى
لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ⑮

یہ دتایہ اسی موسیٰ ہس کتاب۔ او تہ تہ مہ کر
اکھ کابل کتاب میلش متعلق شک۔ تہ اسی اُس
سو (کتاب) بنی اسرائیل ہند خاطر صلہیت بناؤتہ۔

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا
لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ⑯

یہ اسی اسی۔ توہ مشہ امام بناؤد ہتی ہم زن سادہ
شکہ لوگن ہدایت دوان اسی۔ اسی باعہتہ نہ تو ہوتہ
صبرس کام تہ ہم لوگھ اسی سانبہن آہن پیٹھ پونہ
پونہ پڑھ تھاولان۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ⑰

چون پرور دگار چھہ سہ ایس دلا ہی کلام واتاوان
والہن تہ (تمہن ہندہن منکرن) درمیان قیامتہ
کر دہ ہوں پرستہ تہ کتہ متعلق فاصلہ کر سہ
مشہ ہم اختلاف کران اسی۔

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِن

کیا تمہ ہدیت نا امر کتہ ہدایت نہ اسی اسی تو

برونٹھ واریا بن زمان ہندک لڑکھ ہلاک کرک ہتر؛
(تہ) یکم لڑکھ چھ (دو ذی) تہندک ہنے گرن منز
نشان پھیران۔ اتھ منز چھ یقینا واریا ہ نشانہ
مگر کیا تم چھنا یوزان؟

کیا تم وچھنا ز اسی چھ اُکس بنجر ز میس کن آب
(رود) کھتا و تھ و اتنا وان؛ پتہ تہہ (آب) کہ
ذریعہ چھ فصل کلان نیمہ منز تہندک چار وائی
تہ چھ کھوان تہ تم پانہ تہ چھ کھوان۔ کیا تم
چھنا وچھان؟

بسے چھ تم زمان ز یہ فتح نیمیک توہی ذکر کران
چھو اؤئی تو ز سو کر آسہ اگر توہی پزیرا کر چھو؟
تہ ون انہ امر فتح کہ دو ہہ وہ نہ کافر
تہند ایمان نفع تہ نہ بسے تہن موہلت و ہن۔
لہذا تہ روز تہن نش نوب تہ (تہندس انجامس)
پیار تہ تم تہ پیارن موز کینش کلاس تام۔


قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي
مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً أَفَلَا
يَسْمَعُونَ ﴿۵۰﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ
الْجُرُزِ فَنَخْرُجُ بِهِ ذَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ
أَنعَامُهُمْ وَانفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿۵۱﴾

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۵۲﴾

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۵۳﴾

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ لَأَنَّهُمْ
مُنْتَظَرُونَ ﴿۵۴﴾



سورة احزاب : یہ سورہ چھ مدنی تہ اسم اللہ بیتہ چھ اتھ تہ ستھ آسہ بسے چھس نو رکوع۔

(بہ، چھس) اللہ (تعالے) سُنَد تا و ہتھ (پران) بسے
حد رؤس کرم کرن وول اتہ، پھیرک پھیرک رحم
کرن وول (چھ)۔

اے نبی! اللہ (تعالے) سُنَد تقوی پرلو تہ کافر
تہ منافقن ہنر کتھ مسہ مان۔ اللہ (تعالے)
چھ بے شک سبھا زمان وول اتہ، سبھا حکمت وول

بسے کرا صرف، تمہہ ہنر پادری یوسہ چانس
پروردگار ہند طرف تہیہ پیٹھ تا زل کرنہ یوان چھینہ۔
اللہ (تعالے) چھ تہند لو اعمالو نشہ ز بر پانھ خردار۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿۲﴾

وَأَتَّبِعْ مَا يوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۳﴾

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ①

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُودِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ مِنَ الْعَالَمِ تَطَهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ①

أَدْعُوهُمْ إِلَّا بِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَائِكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ ۚ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ①

الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَاللَّهُ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَخْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ①

بے کر اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ توکل تہ اللہ (تعالیٰ) چھ کار ساز آسنہ کر لحاظ سپہا۔

اللہ (تعالیٰ) ہن بناوکی نہ کانبہ مہنوی ہندس وچیں مفرز دل، بسہ نہ چچین تہنہز آسنہ بین توہر (کنہ ویر) موج ورتھ گرتھان لہ چھو، تہنہز ماجر بناو مشر تہ نہ چچین تہنہز منگتہ رتی ہتی تہنہز تپوکی بناوکی ہتی۔ یکم چھید سارہے تہنہز زباڈ کتھ تہ اللہ (تعالیٰ) ہے چھ پز کتھ زمان تہ سینور و تھ اول۔

(توہر پزو پہ تر) ہجن (منگن) کرو تہنہز ہن پینہن مالہن ہنہز تپوکی ورتھ اول۔ یہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہس ہنش جاو انصاف وول کار تہ اگر توہر علم آسہو نہ نہ تہنہز مال کم چھ تہ تم چھ (بہر حال) تہنہز دہنی یاہی تہ دہنی دوست۔ بسہ پہ توہر غلطی سدی بروٹھ کرتھ گاہتی چھو۔ تھ پیٹھ چھتہ توہر کانبہ گوناہ بار، اما پوزیتھ کتھ پیٹھ تہنہز دل پوتہ اراد کرتھ گاہتی آسن (سہ چھید سہز ہس لایق) تہ اللہ (تعالیٰ) چھ (پر تھ توہر کرن اول ہنہز خاطر) سپہا بخش وول (تہ) پھیر کر چھیر کر رحم کرن وول۔

نبی چھ مؤمن تہنہز پوسنہو زو ورتھ تہ جاو نزدیک تہ تہنہز آسنہ چھید تہنہز ماجر تہ ڈونہ کہو آشاو و مفرز چھ اللہ (تعالیٰ) ہنہز کتابہ مطابق کیہتہ کینہز و کھوتہ جاو نزدیک (غار آشاو) مؤمنو تہ مہاجر و نسبت، اما پوز تہنہز ہنہن دستن سدی نیک سلاک کرن (چھ جائیز) پہ کتھ چھید قرآن مشہر لیکھتہ آہنہز۔

لہ بعضے وقتہ چھ انسان شرارتس مفر سینہ آسنہ و زمان نہ ہر گاہ تریہ فکلاو کلام کرتھ یا فلاو کلام کرتھ نہ خر لکبھ میہ موج یعنی تہ گرتھ کھ سینہ پیٹھ حرام۔ اصطلاحس مفر چھ یقینس تسمس "ظہار" ومان۔

بیر (کرو یاد) بیلیہ زن اسہ نبیین بہن مہ تھوتہ
آمتر اکہ خاص کتھہ ہند و عدہ ہتھراو تہ تریتہ
(ہتھراوے و عدہ) تہ نوہس تہ ابراہیمس تہ
موسیٰ ہس، تہ عیسیٰ ابن مریمس تہ بلکہ اسہ
ہتھراو بہن سارنہ اکہ پوتہ و عدہ۔

بیٹہ زن اللہ (تعالیٰ) یزک یاربن تہندس پزرس
متعلق سوال کر تہ کافر ن کیت چھ تھو اکہ کروٹھ
عذاب تیار کورنت۔

اے مومنو! اللہ (تعالیٰ) ہنر سو نعمت کرو یاد
یوسہ تھو تہ تہ تہ وز کرو بیلیہ زن تہ تہ پیٹھ کیترو
لشکوہ ملہ کریاد بیہ سوزاو اسہ بہن کن اکہ
واو بیہ سوزایہ تہ تھو لشکر پیم توہی اسی د نہ
وچھان تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تہندک اعمال زہر
پاٹھو وچھان۔

(اد کیا، سہ وقت تہ کرو یاد) بیلیہ زن تہندک
دشمن تہندہ ہنر کمر طرفہ تہ (یعنی بالہ کر طرفہ
تہ) تہ بلا نہ طرفہ تہ آسے پہ بیہ بیلیہ زن گاہرہ
موکھ اچھ در آسو ہتھراو تہ واہجہ آسو (دبراے
کران) گیس تام واژ مٹر۔ تہ توہی اسی و اللہ
(تعالیٰ) ہس متعلق رنگہ رنگہ شکن منز ہینہ آمتر۔
تہ وقتہ اسی مومن اکیس ہتھراو پیر آزماہینہ مسفر
تراوتہ آمتر۔ تہ سجت زلہ زلہ او مکھ تلہ آمت۔

بیر (کرو سہ وقت تہ یاد) بیلیہ زن مناق تہ
بیس لوکن ہندین دن منز مرض اوس و منزہ بحابہ
نہ اللہ (تعالیٰ) ہن تہ تہندک رسولن اوس اسہ پزرس
صرف اکہ پزرس و عدہ کورنت۔

بیر بیلیہ زن تھو منز اکہ طائفہ ہتہ و نہ لوگت

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَاِبْرٰهِيْمَ وَاٰمِسٰى وَا
عِيْسٰى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿١﴾

لِيَسْئَلَكُمُ الصّٰدِقِيْنَ عَن صِدْقِهِمْ
وَاَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٢﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَاَجْنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَاذ
كَانَ اللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٣﴾

اِذْ جَآءَ وَاكُم مِّنْ قَوْمِكُمْ وَاَمِنَ
مِنْكُمْ وَاِذْ رَاغَبَتِ الْاَبْصَارُ وَاَبْلَغَتِ
الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَاَتَّظَنُوْنَ بِاللّٰهِ
الظُّنُوْنَكَ ﴿٤﴾

هٰنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَزْلُوْا
زُلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿٥﴾

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ
قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَا
رَسُوْلُهٗ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦﴾

وَاِذْ قَالَتْ طٰٓئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ

لہ بیٹہ اکیس منز چھ احزاب کہ جنگت ذکر بیلیہ سجت واو پینہ سبتی کافر ن ہندک
نار تھیتہ گیا۔ تہ تھہ نخت زاتھہ تم ساری تھجاے۔

يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَ
يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ
لَا بُيُوتُنَا عَوْرَةٌ ذَا مَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۗ
إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝

وَكُوذُخَلَّتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَعْيُنِهِمْ
سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا
بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۝

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ
يُؤْتُونَ الْآدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ
مَسْئُولًا ۝

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ
مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَ إِذَا لَا
تُمْتَحُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ
إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ
بِكُمْ رَحْمَةً ۗ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ
لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ
لَا نَصِيرًا ۝

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُحَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَ
الْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْكُمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اوس نے اے مدینہ کیوں لوگو! تمہیں خاطر چھینے
(دو ذی) کاٹنے ٹھکانے۔ لہذا (اسلامہ ہنتر) پھیرو
پڑت۔ تمہو منتر لجاو اگھ فریق نیسیں اجازت
مگھہ تمہو نہ سارے گریہ و شہتہ ہندس نشانس پٹھ۔ پوزوے
تمہو تمہو (اوس) دہنتہ ہندس نشانس پٹھ تمہو اوس صرف رلیج سکھران
او ہرگاہ مدینہ کیوں مختلف طرفوں کیوں تمہو پٹھ (فون)
واہل کرنے پیسہ ہن تمہو پیسہ ہے تمہو (کافرو
ہند کیوں) مرتد گرتھک مطلبہ کرنے تمہو ہم
کرن ضرور سہ مطلبہ قبول، مگر توہہ ہیکن تمہو ہم
ہتھ (مدینہ) منتر جاو کالس روزتھہ

ہیہ (پیر چھہ یہ نہ) اہر بروٹھ اوس تمہو منافقو
اللہ (تعالیٰ) ہس سستی عہدہ کوزمت نہ تمہو ہین
نہ نہ ہین تمہو (بلکہ ثبات قدم روزن) تمہو اللہ
(تعالیٰ) ہس سستی گند نہ آہس عہدس متعلق
پیسہ ضرور سوال کرنے۔

تمہو ون تمہو ہرگاہ توہی موتہ یا قتلہ ہنتر تمہو
او تمہند نزلن دیہ ون تمہو ہرگاہ کاٹنے نفع تمہو
تھہ منورس منتر بلو نہ توہی کاٹنے ٹایدہ۔

تمہو ون نہ کس آسہ یس توہی اللہ (تعالیٰ) ہند
رہنہ) ہنتر بجاو و۔ ہرگاہ سہ توہی سزا ہین
ہنتر ہو و یا ہرگاہ سہ توہی پٹھ رحم کرن ہین ترہہ
(تمہو نہ ہنتر کس ہیکو توہی محروم کریتھ) تمہو ہن نہ
اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی ہنتر خاطر کاٹنے
جانی دوست نہ نہ کاٹنے مددگار (یعنی نیلہ تمہو
بکار پیسہ، خدا ہے پیسہ)۔

اللہ (تعالیٰ) چھہ توہی منتر ہنتر لوکن پور پٹھران ہم
ہین مسلمان (جہاد ہنتر) پٹھ پھران اوس۔ تمہو

لَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۱﴾

پسینہن ہایں اسی دنان نہ اسہ کن بیو (تہ جہادس
منز مہ گزہو تہا بل) بیہ اسی نہ تم پانہ نہ دشمنس
سیتی لے جنگ کران۔

أَشْحَةً عَلَيْهِمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ
رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ
كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا
ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالْإِسْنَةِ
جِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَبِيرِ أُولَئِكَ لَمْ
يُؤْمِنُوا فَأَخْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۱۱﴾

تم چہ توہ ہر متعلق سہا نخل تھاون والے۔ یعنی
تم چھو نہ بیہ بیڑھان نہ توہ ہر واہ و کانہہ
غار) اد بیلہ بہن پیٹھ کانہہ خوفک وقت بیہ
تہ تر و بیہ ہیکہ نہ تم چہ تر یہ کن بیہ پاٹھی
وچھان نہ تہندر لال چہ نزان آسان، نس
شعبہ ہندر پاٹھیس موتہ کس غشس منز گیر
آسہ۔ پتہ بیلہ خوفک وقت گزھان چہ، اد چہ
تم توہ ہر پیٹھ تلوار ہندر پاٹھی ترٹن واجتہ نہ بو
چلاوان تم چہ پر چہ حارس متعلق بچیل۔ (تہ
بیڑھان چہ نہ یہ گوزھو نہ توہ ہر میلن) بیولاکو
اوس نہ (پڑی پاٹھی) ایمان اوان سنے۔ اوس
کر اللہ (تعالے) ہن تہنہر سارے کوشتبہ
تباہ۔ (یم تم اسلامس خلافت کران اسی) تہ
اللہ (تعالے) ہس پیٹھ اوس یہ کتھ ملے سہل۔
(بیہ ایم لوکھ چہ وہی تہ وہ سید تھاون نہ
کیا رت گیاو، کفارن ہند) لشکر آسہ نہ ونب
تہ گو مت۔ حالانکہ اگر کفارن ہند) لشکر واپس
تہ بیہ تہ یم لوکھ کرن (تہنہر پینس پیٹھ
خوش گزھنہ بدل) تہا ہش زکاش نہ تم آسہ
ہن صحرا بی لوکن منز روزہ وئی (تہ اے مومنوا)
توہ متعلق آسہ ہن (لوکن) بیڑھان (تہ ونب
چہا زندے کتہ تباہ چہ سیدک ہتی) بیہ اگر یم
(صروزتہ کر وقتہ) توہ سیتی روزہ ہن اد توہ
کر ہن نہ تہنہر طرفہ جنگ۔

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن
يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ
بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن
أَنْبَاءِكُمْ وَ لَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا
قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۲﴾

تہنہر باپتہ (یعنی بہن لوکن ہند نہا طہر یم اللہ
(تعالے) تہ آخرتہ کس دوہس سیتی میلانج وہ سید
تھاون چہ بیہ چہ اللہ (تعالے) سند واریاہ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ
الْيَوْمَآءَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ﴿۱۲﴾

ذکر کران اللہ (تعالیٰ) ہندس رسولس منز چھ
 اکھ تھدی پایہ نمونہ (سینچ ہمن پادوی کرنی پڑے)۔
 چنانچہ (وچھو) یلیلہ حقیقی مؤمنو حملہ آور لشکر
 وچھو تہ ووتھم یکم تہ چھ تھے (شکر) بہند
 اللہ (تعالیٰ) ہن تہ تہندک رسولن اسر سستی
 وعدہ کوزمت اوس تہ اللہ (تعالیٰ) ہن تہ
 تہندک رسولن اوس بالکل پوز ووتمت۔ تم
 ہرراوڑی اُمی واقعہ ہن اپناس تہ فرما تہندک
 منز (تہ کزور کرن تہ)۔

یکو مؤمنو منز چھ کینہہ تھو لکھ یکو سہ وعدہ
 پوز کوزیس تمو اللہ (تعالیٰ) ہس سستی
 کوزمت اوس۔ اوکزی کینہہ چھ تم یکو پنزی نیت
 پوز کوزی (یعنی لڑان لڑان کے شہید) تہ تمو
 منز چھ کینہہ تھو یکم ووتہ پیارن چھ تہ
 پسنس ارادس منز ووتہ تہ تمو کانبہ کھلہ بل گزھتہ
 امیک نتیجہ نیر یہ تہ اللہ (تعالیٰ) دیہ
 تھن پیارن تہند پزرگ بلہ تہ اگر نیرتھ
 تہ منافقن دیہ عذاب یا کر ہمن پیچھ رحم تہ
 اللہ (تعالیٰ) چھ یقینا پوز بخش ار (تہ)
 چھہرہ چھہرہ رحم کرن وول۔

بیرہ پزر چھہرہ یہ تہ اللہ (تعالیٰ) ہن
 فی کفار تہنتر سارے شرارت ہتھ (مدینہ
 پیچھ) واپس پھیرتھ۔ تہ ہمن ووت تہ کتبہ تھم
 ناید۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہن کوز یا تہ مؤمنن
 ہند کتبہ جنگ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہرہ پوز
 طاقتہ وول (تہ) غالب۔

بیرہ تمو (اللہ تعالیٰ ہن) وادی تم اہل کتاب
 یکو ہمن (حملہ کرن والین مشرکین) مسد
 کوزمت اوس۔ پسنو تھو پیچھ تہ تہند ہن

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ؕ قَالُوا
 هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا
 وَتَسْلِيمًا ۝

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا
 عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ
 قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا
 بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ
 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ
 عَلَيْهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِخَيْبِهِمْ لَمْ
 يَنَالُوا آخِذًا وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
 الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ۝

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِيهِمْ وَقَذَفَ
 فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا

تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝

دین منتر کورن بيم واخل - بونت تام ز توہی
گئے و رتو منتر اکھ حصہ قبل کرنس پیچھ تہ
اکھ حصہ تاد کرنس پیچھ تادور -

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ
أَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

بیمہ کرنی نو توہی تہندین زمینن تہ تہندین
گرن تہ تہندین مانن ہندک وارث اکھنہ
تہ زمینک تہ بیتھ پیچھ تہندین قدم و نہ پیتھی چھہ
تہ اللہ (تعالے) چھہ پرتھہ اکس چیزس پیچھ
تادور -

۱۴

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكِ لَنْ كُنْتُنَّ
تُحَرِّمْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

اے نبی! پسینن آشینن ون ز اگر توہی دنیا
تہ تمیک پاراو بیترھان چھو نیلہ لوہو بہ دموہ
توہہ کیہہ دنیاوی مال تہ توہہ کروہو پرتہ
طریقہ سان رحمت -

وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُحَرِّمْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ
الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

تہ ہرگاہ توہی اللہ (تعالے) تہ تسد رسول
تہ آخرتچہ زندگی ہند گر بیترھان چھو، تہ
اللہ (تعالے) من چھہ توہہ منتر پور پاطھو
اسلاس پیچھہ تاہم روزن واجہنن ہند خاطر
سبھا بوڈ انعام تجویز کرتھہ تھوومت -

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنِ يَاْتِ مِنكُنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا
العَذَابُ ضِعْفَيْنِ، وَ كَانَ ذَٰلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرًا ۝

اے نبی ہنتر و آشینو! اگر توہہ منتر کاٹھہ اکھ
تھہ پایہ ایمانس خلاف کتھہ کر اد تسد عذاب
پیہہ دو گناونہ - تہ یہ کتھہ چھہ اللہ (تعالے)
ہس پیچھہ سہل -

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَنِيْلًا
تَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۝
وَ أَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۝

بیمہ توہہ منتر یوسہ کانشا اللہ (تعالے) تہ تہندین
رسولہ ہنتر فرمانبرداری کر تہ (تھہ فرمانبرداری
سوتی) شولوبہ کامہ تہ کر تہ اسی دموہس انعام
تہ دو گنہ بیمہ چھہ اسہ پرتھہ ہنترہ (آشینہ) ہند
خاطر عزتہ دول رزق تیار کرتھہ تھوومت -

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ

اے نبی ہنتر و آشینو! (ہرگاہ توہی پینن مقام

لہ اتھ آس منتر چھہ نمبر فتح گرتہ صبح پیشگوئی یوسہ پتہ پور سپر -

إِن اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ
قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿۳۳﴾

زانیوں پر (نہ) توہم چھو نہ عام زنانہ ہندک
پاکھی۔ اور کئی ور (یعنی خنجر ناز) کڑی کڑی
مہ آسو کتھ کران۔ بیتھنہ تہ سپد زہ سیمو
ہندس دس منتر بیارد چھیدہ سہ کر تہندہ حقہ
کاٹہ بد راے۔ بیہ آسوزو ہمیشہ لاکن نیبک
کتھ وناں۔

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَاقْمَنَّ
الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ﴿۳۴﴾

بیہ آسوزو بیٹھن گرن منتر بہتھ روزان تہ پرانہ
جاہلیتہ کرنا کر (یعنی متن طور طریقین ہندک) پاکھی
مہ آسو پن پٹراو (دوپر لوکن نش) نون کران
بیہ آسو نماز (صا بطوسان) ادا کران۔ بیہ آسو
زکواتہ ووان تہ اللہ (تعالے) تہ تہندس رسولہ
سوز آسو اطاعت کران۔ اے اہل بیت اللہ
(تعالے) چھ تہ بہ ہنشتہ پر سٹھ تسمیح گندگی دور
کرڈی میشرہاں تہ تہ بہ چھو پور پاکھی پاک
کران (میشرہاں)۔

وَإِذْ كُنَّ مَا يَثُلُ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا
خَبِيرًا ﴿۳۵﴾

بیہ یہ کیشرہا تہتہ بن گرن منتر اللہ (تعالے)
سند بن آین تہ حکمتہ چین کتھن ہنرتلاوت
کر تہ یوان چھینہ۔ تہ تمہا وویاد۔ اللہ (تعالے)
چھ سبھا مہربانی کرن وول (تہ) خبر (اتر)
تھون وول۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ
الْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ
وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَافِظِينَ
فِرْدَاجَهُمَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ

پور پور مسلمان مردن تہ پور پور مسلمان زنانہ بیہ
پور پور مؤمن مردن تہ پور پور مؤمن زنانہ بیہ پور پور
فرمانبردار مردن تہ پور پور فرمانبردار زنانہ بیہ
پور پور پوز وشن والہن مردن تہ پور پور پوز
وئن واجنہن زنانہ بیہ پور پور صبر کرن والہن
مردن تہ پور پور صبر کرن واجنہن زنانہ بیہ
پور پور پور ما جزئی ماون والہن مردن تہ پور پور
ما جزئی ماون واجنہن زنانہ بیہ پور پور صدقہ

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمًا ﴿۳۳﴾

دنہ والہین مردان تہ پور پور صدقہ دنہ واجنہین
زناتن بیہ پور پور روزہ دار مردان تہ پور پور
روزہ دار زناتن بیہ پستہین شرمگاہن ہنوز پور
پاٹھ حفاظت کرن والہین مردان تہ پستہین شرمگاہن ہنوز
پور پاٹھ حفاظت کرن واجنہین زناتن بیہ اللہ (تعالے)
سند سپٹھا ذکر کرن والہین مردان تہ اللہ (تعالے)
سند سپٹھا ذکر کرن واجنہین زناتن (یعنی) بیکن
سارک ہن ہند خاطر چھ یقیناً اللہ (تعالے) ہن
بخشاشہ ہند سامانہ تہ بوڈ انعام تیار کرتھ تھوتہ
بیہ اللہ (تعالے) تہ تمکو سند رسول نیلہ گتہ معاملس
منز کاٹھہ فاصلہ کرن تہ کاتھہ مؤمن مردس
یا زناتہ ہند خاطر چھتہ ہرگز جائز نہ تم کرن
(لو پتہ تہ) پستہ معامک پستہ مرضی سوتہ
فاصلہ۔ بیہ یس کاتھہ اللہ (تعالے) تہ تو
ہندس رسول ہنوز نافرمانی کران چھ سہ چھ ٹاکا
گر اہی منز سہلک۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿۳۴﴾

بیہ (اے نبی! یاد پاو) نیلہ تہ تس شخصس
وانان اوسکھ نیس پیٹھ اللہ (تعالے) ہن
تہ تریہ انعام کوزمت اوس نہ پنڈی آ شتر تھون
ٹھاکن وتھ (تہ طلاق ہر دس) تہ اللہ (تعالے)
سند تقویٰ پرلو۔ بیہ اوسکھ تہ پستہ دس
منز سوتھ کھٹھ تھاون بوسہ اللہ (تعالے)
تہ راون وول اوس۔ تہ تہ اوسکھ لوکن کھوتان
حالانکہ اللہ (تعالے) چھ جاہ حقار نہ تہ کھتھ

وَإِذَا تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ
مُبْدِي سِرِّكَ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشَاهُ، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا
وَطَرًا ذَوَّجْنَاهَا لَكِي لَّا يَكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي إِزْوَاجِ
آذِيَانِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

سہ بعضے مفسر چھ لیکھان نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پستہ پوہ چھتہ بیہ سوتہ
نکاح کرن بیڑھان تہ یہ کتھ اوسکھ دس منز کھٹھ تھاموتہ (نعوذ باللہ)۔ یہ کتھ
چھتہ صحیح اصل کتھ چھتہ یہ نہ حضرت زینب اوس حضور پانہ حضرت زید ہندس
نکاحس منز ذرہن۔ تم اسی نہ بیڑھان نہ زید دہ تس طلاق تہ خاندلس منز سپد
فتنہ پاو۔

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۳۳﴾

تس - پتہ نیلہ زیدان تسہ (یعنی زنانہ ہند) تحسہ
 پتہ خاہش پور کُر (یعنی طلاق دینیس) - اسہ
 کور تس (زنانہ) شریہ سوتی خاندن - پتہ زن
 مؤمن ہندین دن منتر پتہ پنہن منگتن ہنشن
 آشنہ سوتی نکاح کرلش متعلق، کانہہ حریہ روزہ
 نہ نیلہ تمن طلاق میولمت آسہ، تہ خدایہ
 ہندس فاصلس اوس ہر حالس منتر پور میدتہ روزان
 نیس پتہ پتہ پتہ کانہہ الزام، تتہ معالس منتر
 نیس اللہ (تعالے) ہن تس پتہ فرض کورمت
 چہ - یو ہے طریق اوس اللہ (تعالے) ہن یروٹو
 ہن لاکن منتر جاری کورمت تہ خدایہ سہ حکم
 تہ چہ کھ فاصلہ سیدمت چیز (کانہہ منیکہ تہ تتہ
 ڈالہ) -

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ
 اللَّهُ لَهُ، سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا
 مِنْ قَبْلِهِ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا
 مَقْدُورًا ﴿۳۱﴾

(یو ہے سنت اوس بروٹھ گذرے برتہن پیغین
 منتر تہ جاری) - ہم اللہ (تعالے) ہندک پیغام
 لاکن واتنا وان اوس تہ تسو اوس کھوژان تہ اللہ
 (تعالے) ہس ورای اوس نہ بیہ کانہہ کھوژان تہ
 حساب ہنشن منتر چہ اللہ (تعالے) کانی -
 نہ اوس محمد توہ منتر کانہہ مہنوی سہ مول نہ
 چہ (تہ نہ آسہ) مگر سہ اللہ (تعالے) سہ رسول
 بیہ چہ خاتم النبیین - تہ اللہ (تعالے) چہ
 پر چہ کتہ چیز نش زبریا کور زانی باب -
 اسے مؤمنو! اللہ (تعالے) سہ ذکر اوس واریاہ
 کران -

يَا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ
 وَيَحْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا يَحْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ
 اللَّهُ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿۳۰﴾

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ
 وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَ
 كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۳۲﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا
 كَثِيرًا ﴿۳۷﴾

لہ عین ہنر مور یعنی تہند تصدیقہ تہ تہنتر پاروی ورای ہنیکہ تہ کانہہ انسان نبوت
 یا ولایت جامل کر تہ - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہ فرما وان بہ اوس تمہ وہ بہ
 تہ خاتم النبیین نیلہ آدم ونہ آس تہ رہ منترے اوس - سار نے نبیین ہنر صداقت چہنیہ
 اسہ پیٹھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند تصدیقہ سوتی ثابت لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ و
 سلمن ہند آخری نبی آسک مطلب چہ یہ نہ خدا تعالے ہس نزدیک چہ تہند زبہ
 سار وہ نبیو ہند کھوتہ تھو تہ تہند رتہ پور چہ کانہہ رتہ -

وَسَيَحْمِلُهُ بَكَرَةٌ وَّأَصِيلًا ①

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَ مَلَائِكَةُ
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ②

بہ اسو صبحن تہ شامن تو ہنتر تسبح کران۔
سے چھ یس تو بہ پیچہ پستہ رحمتہ سوزان
چھ تہ تندر ملائک تہ چھ تہندہ خاطر دعا
کران یتہ زن (تمیک پھل پہ نیر ز) سہ
ان و تو بہ انہ گٹو منتر نوز کن بہ چھ سہ مؤمن
پیچہ پھیرک پھیرک رحم کران وول۔

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَّ
اَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ③

بیانہ تم تس سستی ملاقات کران جن میلہ دعاہج
وال سلامتی ہنتر شکہ منتر بہ کر سہ جن
ہندہ خاطر اکھ بوڈ عزتہ وول اجر تیار۔
اسے نبی! اسہ چھک تہ اتہ حیثیتس منتر سوزت
ز تہ چھک (ڈمیہک) نکران تہ، (مؤمن)
تو شجر دہ وول تہ تہ (کقرن) کھوزتاون وول تہ۔
بہ مزید (چھک) تہ اللہ (تعالیٰ) ہندہ چھک
تس کن ناد دہ وول تہ پرزبون آفتاب بناؤتہ
(سوزمت)۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَدَسَلْنَاكَ شَاهِدًا
وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا ④

وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَّ سِرَاجًا
مُنِيرًا ⑤

بہ و مؤمن بشارت ز تم میلہ اللہ (تعالیٰ)
ہندہ طرفہ سہما بوڈ فعل۔

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا كَافِرِيْنَ تَهْمَنَ اِلَى اللّٰهِ
فَضْلًا كَثِيْرًا ⑥

بہ تہ مانی ز تہ کافرن تہ منافقن ہنتر کتہ ہرگز۔
تہ تہندہ اذا دین ترہن تراوتہ۔ تہ اللہ (تعالیٰ)
ہس پیچہ کر توکل تہ اللہ (تعالیٰ) چھ کارماز
آسٹس منتر کافی۔

وَلَا تُطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ دَعَا
اٰذُهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ
وَ كَيْلًا ⑦

اسے مؤمنو! میلہ تو ہی مؤمن زنان سستی خاندہ
گرو پتہ دیو تم، تم چھو تہ بروٹھے طلاق
تہ تو بہ چھتہ کاشہ حق ز تم و لو عدت پلار
کران۔ او کئی (شوبہ ز) تم واتا و کینہہ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

سہ یتہ آہس منتر چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ونبہ آمت۔ آفتابس چھ پتہ
ڈانی نور آسان۔ تہ آمت محمدیس منتر چھ کینہہ و جویم امہ روحانی آفتابک فاض تلمتہ و
بہن انہ گٹن وور کران چھ یتھکنی زون آفتابک نور منعکس کرتہہ از گٹہ راترن گاشراوان چھیہ۔
سہ یتہ ہم ستر سیدہ بروٹھے۔

تَعْتَدُوْنَهَا ۖ فَمَتَّعُوْهُنَّ وَاَسْرَحُوْهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ
الَّتِي آتَيْتَ أُجُودَهُنَّ وَا مَا مَلَكَتْ
بِيَمِينِكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ
عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَ
بَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَا
وَأَمْرًا مُّؤَمَّنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِن أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لَّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ قَدْ
عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ
حَرَجٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۝

دُنْيَاوِي قَائِدِ تَبَّ تَم كُرْلُوكِه بَرْتَرَسَان رُوخَصْت

اے نبی! چاہو (موجو) آشنو منز تم دین شریعہ
تہند حق مہر ادا کورمت چھتھ، چھینا سہ جانہ خاطر
حلال کرک منز۔ بیتھے پاٹھو آئینہ خاطر تم زمانہ
پہند کرک مالک پچاڈ ڈھچھو اتھ سیدر ہتی چھ ایم
اللہ (تعالیٰ) ہن پچائس قبض منز جنگ پستہ
از منز چھینہ۔ بیتھے پاٹھو چائس پیئتر ہنتر
کور، بیتھ چائس پوجھن ہنتر کور، بیتھ چائس ماہہ
ہنتر کور، بیتھ چائس ماس ہنتر کور یکو شریعہ
ہجرت کر منز چھینہ بیتھ ترشہ مؤمن زمان تہ تیکو
پین پان نبی ہند خاطر ہبہ کور۔ بشرطیکہ نبی
کر تس سہتی نکا جگ اراد۔ بیتھ چھ خاص
کرکہ جانہ خاطر، تہتہ مؤمن ہند خاطر چھینہ
اسو چھ تہ زبر پاٹھو زمان بیتھ اسہ یکن
(مسلمان) پیٹھ تہنترن آشنن متعلق تہ تہنترن
کینترن متعلق فرض کورمت چھ، بیتھ زن
شریعہ پیٹھ کانہہ نامناسب روٹ سپدہ تہ
اللہ (تعالیٰ) چھ سہٹھا بختن وول تہ پھیرک
پھیرک رحم کرن وول۔

یکو (آشنو) منز یوسہ تہ بیترہ من کرن
الک تہ یوسہ تہ بیترہ من سہ تھون پانس
نیش۔ تہ تہو زمانو منز پیسہ شریعہ بیون کجہ
منتر چھتھ۔ اگر تہ کانہہ پانس نیش ان ہن
تہ شریعہ پیٹھ چھتہ کانہہ گوناہ۔ بیتھ چھینہ
اتھ کتھ سہٹھا جاد نزدیک تہ تہنترن چھینہ
تہ تم من تہ عم تہ بیتھ کینترہا شریعہ من بیتھ
چھتھ، تھ پیٹھ کورتن سارہے راضی۔ تہ
اللہ (تعالیٰ) چھ تہندین وول ہنتر پرتھ کتھ
زمان بیتھ سہٹھا زان وول (تہ) سہٹھا

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُفَوِّضِي إِلَيْكَ
مَنْ تَشَاءُ ۚ وَمِنْ أَهْلِ عَمَلِكِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ
أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْرُجَ وَبِرَضَايِنَ مِمَّا
آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي
قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ۝

لَا يَجِدُ لَكَ الْإِسَاءَ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ
تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ﴿۳۳﴾

۳۳

حلیہ وول۔

چاہئے خاطر چھینے (امیر علاؤ) زمانہ از پتہ حلال
تہ نہ چھہ یہ حلال نہ یہ از یہ آشتہ بدلوئے
کرکھ تہ بیہ آشتہ باے تہند حسن تہیہ کوتاہی
پر نیون آسی الامور زمانو وراہی مہندی مالک
چاہی ڈھچھی اتھ سپدی ، تہ اللہ (تعالی) چھہ
پر تہ کتہ چیزک نگران۔

اے مومنو! انہی ہندین گرن منتر مہ اوسو ہرگز
اثران ، امیر وراہی نہ توہی بیو کھپتہ خاطر سال
دہتہ انتہ ، سہ تہ بیہ شرطہ سان نہ کھین
رنتہ بیہ کس انتظار منتر مہ اوسو بہتہ روزان
تہ نہ اسی زبو کتہ کرنہ کہ بار مہ بہتہ روزان۔
اماہ پوز نیلہ تہہہ اویو کرنہ تہ نیلہ اوسو ضرور
گرتھان۔ پتہ نیلہ کھین کھتہ سپان اوسو
پتہ اوسو زبو پنتہن پنتہن گرن گرتھان۔
یہ کتہ ایہ بیہ قاید بہتہ روزان یا بروٹھے
بین (اوس تبیس تکلیف دوان۔ مگر اوس
(تہند خیال کرتہ) تہہہ (منع کرنہ) لنتہ

منہر چھان۔ مگر اللہ (تعالی) چھہ بیہ کتہ
بیان کرتہ لنتہ (لوکن ہندو خیال کتہ) بہتہ
روزان۔ بیہ (شوہ تہ) نیلہ توہی (یعنی
نبی سہنن آشتہن) کانہہ گرتہ چیز منگوتہ
پر پتہ کتہ اسی زبو منگان۔ یہ کتہ چھہ تہند
دن تہ تہندین دن ہند خاطر سٹھا رتہ۔ تہ
اللہ (تعالی) ہندس رسول تکلیف وین چھہ
تہند خاطر جائز تہ نہ چھہ یہ جائز نہ توہی کرو
تس پتہ سہنن آشتہن سہتی زانہہ تہ خاند
یہ کتہ چھہ اللہ (تعالی) ہند فاصلہ مطابق
سٹھا ناکار۔

اگر توہی کانہہ چیز نون گدو یا کھوتہ اللہ (تعالی)

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى
طَعَامٍ غَيْرِ نَظْرَيْنِ إِنَّهُ دَلِيلٌ إِذَا
دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ
فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ
إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي
مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ إِذَا
رَأَى سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ
قُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ
مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ
عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿۳۴﴾

ان تہدو اشیئا او تحفوه فان الله

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۵۱﴾

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا
أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا
إِخْوَانِهِنَّ وَلَا آبَائِئِهِنَّ وَلَا
نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
وَأَتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
بِكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿۵۱﴾

چھ پر تھ کاشہہ چیز زبر پانٹھ زمان۔

بین ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوزن گر
واجبوں (پہچھہ ہجرتہ پنہن مابن، یا پسنہن
نیچوہن یا پسنہن باین یا پسنہن باپتھن یا پسنہن
بوتھن یا پسنہن ہم رتبہ زنان یا پسنہن زبر
تعبتہ کنہن بروٹھ کن پسنہن منز کاشہہ پانٹھ
بیم اللہ (تعالے) سُد تقویٰ پراوو۔ اللہ (تعالے)
چھہ پر تھ اکھ چیز و پھان۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۵۲﴾

اللہ (تعالے) چھہ یقیناً اُمس نیس پٹھہ رحمت
نازِل کران تہ تہندہ ملایک تہ (چھہ یقیناً تہندہ
خاطر دُعا کران، اوکتی) اے مؤمنو! توہو تہ
اُسو اُمس نیس پٹھہ درود سوزان تہ تہندہ
خاطر دُعا کران روزان بیم اُسو تہندہ خاطر سلامتی
مکان روزان۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ
اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا مُهِينًا ﴿۵۳﴾

تم لوکھ بیم زن اللہ (تعالے) تہ تہندہ رسول
اذا ووان چھہ، اللہ (تعالے) چھہ تمن (پتھہ)
دنیاہس منز تہ تہ آخرتس منز تہ پتہنہ قسہہ
نہتہ محزوم کران۔ بیم چھہ تہ تہندہ خاطر رسوا
کران وول عذاب تیار کرہتہ تھومت۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا كَتَسَبُوا فَقَدِ
إِخْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿۵۴﴾

تم لوکھ بیم زن مؤمن مردوں تہ مؤمن زنانہ
ورایہ زہتمو اسہہ کاشہہ تصور کومت، اذا ووان
چھہ۔ تہمو لوکو چھہ خطرناک اپز تہ ٹاکار گونہک
بور پانس پٹھہ تہمت۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُذَوِّجَكَ وَبَنَاتِكَ
وَبَنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذَوِّجُكَ اللَّهُ مِنْ جَلَاءِ بَنَاتِهِنَّ
ذَلِكَ آذَانٌ أَنْ يُخْرَفَنَّ
فَلَا يُؤْذِينَ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

اے نبی! پسنہن آشنہن تہ پسنہن کورین تہ
مؤمن ہزن آشنہن ون زہ (بیلہ تم نمبر
تیرک) پتہنہ بجز تراڈر اُسن کلہ پٹھہ تہمتہ
پسنہن وچہن تمام واتناوان۔ امر سوتہ سپد

۱۔ عیس مشرک مسلمان زناہہ عرس مہولس پوتہ ووان تہ پسر نیس نہ وزیر اسہہ اکہ پتر تراڈر پٹھہ بیوان تہ تمبیک
تہ سپک اسہہ ستر کران یو سہ چھہ اسلامی پرہ

رَّحِيمًا ⑩

ممکن نہ تم میں پرہیزناویہ ہے تمہیں پیسہ نہ تکلیف دینے ہے اللہ (تعالیٰ) چھ بڑے بخش و دل (تم) پھیر کر پھیر کر رحم کرن وول۔

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِدُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ⑪

اگر منافق مرد ہے تم لوگ مہتدین دن منتر مرض چھ بیہ تم لوگ یکم زن مدینس منتر اپڑ شوویہ تراوان روزان چھ ، بازین نہ ہے اُسو کرو تھہ ترہتمن لوکن خلاف (اگر وہہ) استاد پتہ گزارن تم تریہ سوتی بیتہ شہرس منتر کم سے کالس تمام ہمسائیگی منتر وقت۔

مَلْعُونِينَ ۙ أَيُّهَا الَّذِينَ أُخَذُوا قَاتِلُوا أُتَقَاتِلُوا ⑫

تم یہیتین تہ اتھ گلن پڑیہ نہ تم میں رٹنہ تہ قتل کرنہ تہ کیا نہ تم چھ خلیہ بند رحہر ہتہ محروم کرنہ آہتو۔

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَٰكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ⑬

اللہ (تعالیٰ) سُنَدہ سنت (پڑا و) میں تم لوکن منتر رائج اول یک توہہ بڑو تھہ گدرے ہتو چھ بیہ بکھ نہ تہ زانہہ اللہ (تعالیٰ) سہنرس سنس منتر فرق۔

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُذَرِّكَ كَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ⑭

لوگ بھی تریہ اند و اتاون واجنہ گر متعلق ترہان تہ وان نہ تمیک علم چھ بس اللہ (تعالیٰ) ہنس تہ تریہ کیا چھ یہ کتھ معلوم نہ شاید سو گر آسہ نہ دیکے ؟

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ ۖ وَآعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا ⑮

اللہ (تعالیٰ) ہن چھ بے تنک کافر پینہ قرہہر ہتہ محروم کرک ہتو بیہ چمن تہندہ خاطر کھ و ہون عذاب تیار کورمت۔

خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ فِيهَا وَلِيًّا ۗ وَلَا نَصِيرًا ⑯

یتھ منتر تم ہمیشہ روزان گرہن (بیہ ہتہ) ہن نہ کانہہ دوست تہ نہ مددگار۔

يَوْمَ تَقَلَّبَ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا اطَّعْنَا اللَّهَ ۖ

یئہ وہ ہر تہندین بڑن بڑن انسان نارس پیٹھ پھیر دینہ پیسہ سک۔ تہ تم ون اے کاش!

سہ نہ تم چھ مسلمان ہنہر زانہہ۔ ۱۰ و جُوَا ۱۱ : تو کہہتی یعنی نہ سحر تہ سردار۔

سہ تھیا سحر کبائس تہنگن پیٹھ پھیر دینہ یوان چھ۔

أَطَعْنَا الرَّسُولَ ۝

اُسو کر ہو اللہ (تعالیٰ) تہ تمہیں رسولہ پہنچے
فرمانبرداری۔

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ
كِبَرَاءَنَا فَأَصَلُّوْنَا السَّبِيلَا ۝

تہ (عام لوگ) وٹن ۔ اے سائے پروردگار! اسے
کڑے پستہن سردارن تہ زبھن ہنر فرمانبرداری
اد اسی ڈالی تمہو (اصلی) وتہ ہنہ۔

رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ
وَآلَعْنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝

اے سائے پروردگار! تمنن و دہگن عذاب تہ تم
کرکھ پستہ رحہ ہنہ دور۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ وَمَا
قَالُوا، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ۝

اے مؤمنو! تو ہی مہہ بھو تمن لوکن ہندری پاکو
یہو موسیٰ ہس اذا وڑاو۔ یتھ پیھ اللہ (تعالیٰ)
ہن سہ بری قرار وڑاو تمہو کتھو ہنہ ہم تم
(س متعلق) کران اسی تہ سہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہند
در بارس منز تھو شتان تھوان۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

اے مؤمنو! اللہ (تعالیٰ) سہ تقویٰ پرا ووبہ
وٹو سہ کتھ یوہ ودر آسہ نہ، (بلکہ پرا آسہ)۔

يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَخْفِزْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ قَارَفَ زَا عَظِيمًا ۝

(اگر تو سہ کرے) تنیلہ کر اللہ (تعالیٰ) تھندری
امال ٹھیک۔ بیہ کر تھندری گوناہ معات، تہ
یس شخص اللہ (تعالیٰ) تہ تمہیں رسولہ پہنچے
فرمانبرداری کر سہ چھ بڑ کامیابی لبان۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝


اسہ کریاو (شرعیات) کمال امانت آسمان تہ
زمینہ بیہ بالن بروٹھ کتہ پیش۔ اماہ پوز
تھو کور سہ تلہ ہنہ انکار تہ آتھ کھوڑی مگر انسان
تل سہ (پور) سہ چھ یقینا سہ ظلم کرن لہ
دول (تہ) تہ تہو ہنہ بے فکر۔

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ

(سائے امر شرعیات) پور لہنگ (تہ تہو سید یہ
نہ منافق مہوین تہ منافق زنان تہ مشرک
مہوین تہ مشرک زنان ویت اللہ (تعالیٰ)

ہ یتھ ایس منز چھ کمال انسانہ سہ ذکر کر نہ آمت نہ سہ چھ پاس پیھ ظلم کر تھہ
شرعیات پور پستہن نکھن پیھ تلان۔

المؤمنین دے گا انہ کو اللہ غفوراً رحیماً ﴿۱﴾
 من عذاب - تہ مؤمن مہتوین تہ مؤمن زمانن
 پیٹھ کوزن نفل - بیہ اللہ تعالیٰ) چھہ بیہ
 بوڈ بخشش کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رم
 کرن وول۔



سورة سبأ: یہ سورہ چھہ کلی تہ اسم اللہ چھہ اتھہ پانز و نزاہ آہہ بیہ پھس شنیہ رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾
 ساری تعریف چھہ اللہ تعالیٰ) ہندی۔ (بیہ) یہ کینہہ
 آسان تہ زمینہ منز چھہ سورے چھہ تندے تہ
 (تہ کتو سہ گوہر حمدک حقدار چھہ) آخرن پیٹھ تہ
 چھہ سہ حمدک حقدار آسان - بیہ چھہ سہ کن چکرتن
 ہند ٹاک (تہ) پرتھ چہرہ ہشتہ چھہ خبردار۔
 یہ کینترھا زمینہ منز دا نخل سپدان چھہ اتہ
 چھہ سہ زانان، تہ یہ کینترھا امہ منز نیران چھہ تہ
 چھہ زانان بیہ تہ یہ آسانہ وسان چھہ بیہ تہ یہ
 آسانس کن کھسان چھہ - بیہ چھہ سہ پھیرک پھیرک
 رم کرن وول (تہ) سٹھا بخشش وول۔
 بیہ وون کافرو نہ سانہ تو مجھہ تہا ہی ہنر ٹیم گرو
 وچھون تہ اُس - تہ وون ترھہ کتھہ چھہ - مینہ بہتھ
 پسنس (تس) پروردگار سند قسم میں غائب
 زانن وول چھہ بیہ آسانن تہ زمینہ منز کانہہ
 چہر چھہ تہنر نظر ہشتہ کھٹہ روزان - اد اُس
 وہ زجر ریبہ سب تہ اُسرتن یا تمہ کھوتہ تہ
 لوٹ یا تمہ کھوتہ بوڈ اُسرتن، یہ گرو وچھون
 توہی ضرور تہ کیاہر سہ چھہ اُسرتن نون کڈن

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ
 مَا فِي الْاَرْضِ وَ لَهٗ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ
 وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿۱﴾
 يَعْلَمُ مَا يَلِيْجُ فِي الْاَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ
 مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَ مَا
 يَخْرُجُ فِيْهَا وَ هُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ﴿۱﴾
 وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا
 السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَ رَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ
 عَلِيْمُ الْغَيْْبِ ۗ لَا يَخْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ
 ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ وَ لَا
 اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَا اَكْبَرُ ۗ اَلَا فِيْ كِتٰبِ
 مُّبِيْنٍ ﴿۱﴾

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

اُولئک دساورئس مشرُترتھرته۔
(تمہ گریہ بندین چھ او موکو ضروری) میخہ زن اللہ
(تعالے) مؤمن تہ ایمانہ مطابق عمل کرن والین
وہ تہندہ ایمانہ تہ عملہ مطابق جزا۔ تم چھ بے شک
تھو زرتھن روزہ تھلایہ بندہ طرفہ مغفرت تہ عزرتہ
وول رزق ہمیشہ واتان۔

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُجْرِبِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ ذِجْرِ الْأَيْمِ ۝

بیہ تم لوکھ یم سانن نشان متعلق (اسہ) عا جز
کریخ کوشش کران چھ بہن میلہ تہندہ گونا گونا
باعثہ کر لوکھ عذاب۔

وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، وَ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

بیہ تم لوکھ یم علم دہن آمت چھ، چھ سہ
چیز حق زانان یس تریہ کن چانئس پروردگار
سندہ طرفہ نازل سپدت چھ۔ بیہ یہ (تہ چھ
زانان) ز (سولعلیم) چھنہ غالب تہ حمد
وایس خدایس کن زوان۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مَمْرَقٍ، إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

بیہ تم لوکھ ایو کفر کورمت چھ، چھ وناں ز (اسے
لوکھ! ایسا دیووا توہہ اُکس شخصہ سند
چہ پتہ؟ یس توہہ یہ وناں چھو زریلہ لوکھ
(مشرہ پتہ) ریزہ ریزہ کرنہ پیو تو پتہ جورنہ پتہ
بدلو توہہ اُکس نو یادائشہ ہنر شکہ مشرہ
ادسہ شخصہ جھا اللہ (تعالے) ہس پیٹھ اپز
لاکھ تھوان؟ کہہ تس چھ مشرہ۔ یڑھ کتھ پھنہ
بلکہ یم لوکھ اُکس پیٹھ ایمان چھنہ انان۔ تم چھ
(دیکھو بدخیالو کنو وڈ کر پیٹھ) عدایس تہ خطرناک
گراہی مشرہ ہسبہ آہو۔

أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ، بَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝

کیا تم وچھنا تھہ چیزئس کن یس آسمانہ تہ زمینہ
پیٹھ تہندہ بروٹھو مہ طرفہ کنو بیہ تہندہ پتہ مہ
طرفہ کنو، تم گریہ کر تھہ چھ۔ اگر اسی بیڑھو تہ
تم کروکھ تہندہ سہ ٹکس مشرہ مصیبتن مغز مبتلا
یا کرو تم پیٹھ اوہر چہ کینہہ چھلہ نازل۔ اٹھ مشرہ

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، إِنَّ نَشْأَ نُخِيفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِنَّ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّرَجُلٍ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝

لہ یعنی پے در پے روڈ پیٹھ تہ تہندہ ٹکس مشرہ کر اللہ (تعالے) بہن تباہ۔

چھ خدایس کن تمن واپس پر پتھ بندہ بندہ سخت طر
اکھ نشان۔

بیہ کریاو اسہ داؤدس پسنبہ طرفہ فعیس عطا (تہ
ونیاس نر) اے پہاٹن ہندو روزن والہو! توہی
تہ تو اے جانا تو توہی تہ کرو تس سستی تسبیح
بیہ اوس اسہ تمہر ہندہ خاطر شہتر نرم کورمت۔
(بیہ اوسس وورمت) کھلہ ڈلہ نرہ بناو تہ تہندک
کری بناو زلو لوگو لوگو۔ بیہ (اے داؤد ہندو
سستی باجو!) پسنبہ اپمانہ مطابق کرو عمل۔ یہ
چھس تہندک اعمال وچھان۔

بیہ (اسر اوس) سلیمانس تیبہ ہوا (عطا کورمت)
نیگک صہک کین اوس ریتس برابر آسان اوس۔
تہ شاک کین تہ اوس اوس ریتس برابر آسان ،
بیہ اوس اسہ تہندہ خاطر تراہہ تاکہ ویکو وورمت
بیہ اوس اسہ تس چنن تہ ہنر اکھ جماعت تہ عطا
کری ہنر یوسہ تہندس پروردگار ہندہ حکمہ تہندس
فرانس ماتحت کام کران اوس۔ تہ (بیہ اوس
اسہ وورمت نر) تہو منہر یوس اکھ ساہہ حکمہ نشہ
(ڈلہ تہ) ہجر بلو اوس واتنا ووس و ہون عذاب۔
سہ یہ کینترہا ہنرہان اوس۔ جن (یعنی نررت
قبائل ہندی سردار) اوس تہندہ خاطر تہ بناوان، یعنی
مسجد تہ گرتھہ تہرتھہ مجسمہ بیہ بڑی بڑی ٹھہ ایم
تلوان برابر اوس آسان، بیہ بجر بجر دیگہ پتھ پر پتھ

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَجِبَالٌ
أَوْ يَبْنَوعًا ۖ وَالطَّيْرَ ۖ وَآلِنَا لَهُ
الْحَدِيدَ ۝۱۱

أَنِ اعْمَلْ سَابِغَةً ۖ فَذَرِّ فِي الشَّرِّ ۖ وَ
اعْمَلُوا صَاحِبًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۝۱۲

وَلِسَلِيمَانَ الرِّيحَ ۖ غُدُوها شَهْرًا ۖ وَ
رَوَّاحُها شَهْرًا ۖ وَ أَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ
الْقِطْرِ ۖ وَ مِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ
يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَ مَن يَزِغُ
مِنْهُمُ عَن آمِرِنَا نُزِقْهُ مِنْ
عَذَابِ السَّعِيرِ ۝۱۳

بِعَمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ ۖ مِنْ مَّحَارِبٍ ۖ وَ
تَمَّائِيلٍ ۖ وَ جِفَّانٍ ۖ كَالْجَوَابِ ۖ وَ قُدُو
رُسَيْبٍ ۖ وَ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۖ
وَ قَلِيلٌ ۖ مِنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ۝۱۴

۱۱ یعنی روحانی پروردگارن اول نیک لوکھ۔
۱۲ یعنی بجزی تجارتی ہوا ایم خلیج فارسہ پیٹھ انطکیہ تمام پکان اوس، تہ حضرت سلیمان
ہندی بادبانی بجزی جہاز اوس خوب تجارت کران۔
۱۳ یعنی تس اوس ترام ونگلاو پنج ہون تہ صنعت معلوم تہ تمہر آسہ اسہ چہر ہندی ہندی
کارخانہ لاگربت
۱۴ یعنی زوراور چہر بلا سے ہور پہاڑی لوکھ۔

وقتے تروین پیٹھ روزان آسہ - (بیر وون اسہ) اسے
 داوود بندہ خاندانہ کپو لوگو! شکر گذاری سن کرو
 عمل تہ میا تہو بندو منز چہ سپہا کم لوکھ شکر
 گزار آسان۔

پتہ نیلہ اسہ تہندہ خاطر موت دنگ فاصلہ کور تہ تہمن
 (یعنی سرکش قومن) دتر تہندہ مو پتج خبر اکو زینک کینر
 یس تہندس (حکومت بکس) فاضل کھوان اوس
 پتہ نیلہ سہ ووسی پیو تہ جنن پیٹھ سپہا ہر زراگر
 بہن علم غاب آسہ ہے نیلہ روز بہن تہ تم ذلاتہ
 وایس غالیس منز ہے پیٹھ۔

(قوم) سبأ پسند خاطر اوس تہندس پنفس ملکس منز
 اکھ یوڈ ہشاندہ موبوڈ۔ (تہ سہ اوس) دون باہن
 ہنز شکہ منز کپو منز اکھ ڈچہو کپو اوس تہ اکھ
 (اوس) کھور کپو۔ (بیر اوس اسہ بہن ونبہ تہمت
 تہ) پینس پروردگار مند رزق کینو تہ تم سہند
 مشکرا تہ کرو۔ (تہند) شہر چہ اکھ شوہر دار شہر تہ
 (تہند) پروردگار چہ سپہا بخش مار۔

پتہ تہ بچہر تہمو (حقہ تہش) تہر۔ اڈ سوز اسہ
 (تہندہ حق لبند ہشاندہ ناو مید سپہتہ) بہن پیٹھ پیٹھ
 سلاب یس پر تہتہ (کتہ) چہس تباہ کران گتہان
 اوس۔ بیر وڈ اسہ بہن تہندہ پو تہندہ پایہ کین باہن
 ہنز جایہ تہتمو بارغ پیندہ کپو مپو ٹیٹھو تہ بیہ منز
 اسی بیر بہن منز اسی کابہ زرنڈ تہ موبوڈ بیر اسی
 کینہہ بیر کلو تہ۔

یہ سزا اوس اسہ بہن تہہنز ناشکری ہند سبہہ دیت
 مت تہ ناشکری کرن والینے چہ اسی تہ بدہ دول۔

بیر آسہ اسہ بہن در میان تہ بہن بستین در میان

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
 عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
 مِنْسَاتِهِ ۚ فَلَمَّا حَضَرَّتْ بِرَبِّكَ نَتِ الْجِنِّ
 أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا
 لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۱۱﴾

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۚ
 جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ
 رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدًا
 طَيِّبَةً وَرَبِّ غَفُورًا ﴿۱۱﴾

فَاعْرَضُوا فَاذْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَبِيلَ
 الْعَرَبِ ۚ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ
 ذَوَاتِي أُكْلِ خَمِطٍ ۚ أَثَلٍ وَشَيْءٍ ۚ وَن
 سِذْرٍ قَلِيلٍ ﴿۱۱﴾

ذٰلِكَ جَزَآئُهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۗ وَ هَلْ
 نُجْزِيٓ اِلاَّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۱﴾

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي

یعنی حضرت سلیمان مند وارث اوس دژ میہک اکھ کوزم (۱۔ سلاطین باب ۱۲) سہ نیلہ
 تختس بیٹھ تہ تہہنز حکومت تباہ کر تہ ساری قبایل سپہ کتس باغی

بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَاهِرَةً ۚ وَ قَدَدْنَا
فِيهَا السَّيْرَةَ سَيِّرُوا فِيهَا لِيَأْتِيَنَّ
آيَاتَنَا أَمِينِينَ ﴿۱۱﴾

یمن اسم برکت و بر مژمئس (یعنی فلسطین) یمن
سلیمان ملک اوس) واریاہ محام آباد کرکے و مگر۔ ہم اُکھ
اُکس بروٹھ کنہ تہ نزدیک (نزدیک) اُس۔ بیہ
اوس اسم اگر لبتیہ پٹھ بیس بستی تمام گرنہ صنگ
سفر کم کورنت تہ و دومت اوس نہ توہر اُس زوہ
رات کیت تہ تہ دوہلہ تہ تہ من منز امتہ سان
سفر کران۔

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِثْ بَيْنَنَا
وَأَسْفَارِنَا ۚ وَ ظَلَمُوا
أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ
أَحَادِيثَ ۚ وَ مَرَّقْنَاهُمْ
كُلَّ مَمْرَقٍ ۚ لَآتٍ فِي
ذَلِكَ
لَا يَتَّبِعُ إِلَّا كَلَّ صَبْرًا
شَكُورًا ﴿۱۲﴾

اد۔ تمو دون (شکرانہ کرنہ بدلہ) نہ اے سانہ
پروردگار! ساڈا سفر نہ سہراو (مجھ نہ ساک تہ
سفر نہ سہراو) بیہ کور۔ تمو پینین ژون پیٹھ ظلم
اد اسم تہ من تہ نہ ناو نہ نہاوتہ تہ تم ہنادو قدم
نہاؤ داستان۔ تہ تباہ کرکے کورکے لوکے سورا۔ اتھ
منز چہ صبر کرن و اوس تہ سبھا شکرانہ کرن و اوس
بندہ بند خاطر بڑو نشاہ۔

وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ
ظَنَّهُ ۚ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا
فَرِيقًا ۚ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾

بیہ کور ابلیس تمن بندہ حتر بین خیال پوز ثبات
تہ موین ہند اُکھ دور تراوتہ کر متی مولو کو (یعنی
کافرو) کسرت پاروی۔

وَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ
سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ۚ
وَمَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۚ
وَ رَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
حَفِيظٌ ﴿۱۴﴾

حالانکہ تس (یعنی شیطانس) اوس نہ تمن پیٹھ کانہ
قیضہ حاصل (یہ سپد صرف او خاطر نہ) مجھ اُس
تمن لوکن ہنرا اندیم حقیقت نہ راوہ ہم آخرتس پیٹھ
ایمان اتن و اوجھ، تمن مقابلہ ہم آخرتس پیٹھ
شک تھوان چھ۔ تہ چون پروردگار چھ پر تہ چرک
راچھد تہ بکران۔

قُلْ اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي
السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا
مِنْ شِرْكَ ۚ وَ مَا لَهُمْ
مِنْ ظَهِيرٍ ﴿۱۵﴾

تر۔ ون نہ بین لوکن توہی سینہ خیال مطابق اللہ تعالیٰ
ہس وراوی آلودان چھ ہم اُنیکھ (سینہ مدد کرنہ
خاطر) نادوتہ۔ تم چھتہ آسمان تہ زمینہ منز اوس
بچہ ریسہ برابر تہ ہرگز گنہ چرک مالک تہ بین
دہ نونی (ہنر بلکیش) منز چھتہ تمن (کانہ) شکر تہ
حاصل تہ نہ چھ تمو منز آند کانہ مددگار۔
بیہ تہندس (یعنی اللہ تعالیٰ ہندس) (دبارس منز چھتہ

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ

أَذِنَ لَهُمْ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ
قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۱۷﴾

کاتبہ شخصہ ستر سفارش فایده دوان تس شخصہ ستر
سفرشہ وراہی تیس اللہ (تعالیٰ) ہن اجازت
وہمت آہ (یا تیس شخصہ ہند حقہ اللہ تعالیٰ
ہن سفارش کرنک اجازت دیت مت آہ) یوت
تمام زینیلہ ہن (سفرش کرنک اجازت ہن والہن)
ہندلو دلو پیٹھ رعب مہ کلان چھ تہ باقی لکھ چھ
ہن پرتھان زوکیا ونیاو تہندری پروردگار
توہر؟ تھ پیٹھ چھ تم جواب دوان ز یہ کینرھا
تو ونیاو، پوزے ونیان۔ بیہ چھ سہ تھہ شانہ
تہ بڑ اختیار وول۔

قُلْ مَنْ يَبْرِزُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۸﴾

(بیہ) تہ ون (ز اسے لکو!) آسمانو تہ زمینہ منز
کس چھ توہر برزق دوان؟ (تہ پتہ) ون پانے
اہ سوالہ کس جوالہ منز (اللہ تعالیٰ)! (بیہ
کس؟) تہ ہو تہ توہر یا تہ چھ ہدایت پیٹھ
تاکیم یا چھ ٹاکار گراہی منز ولہ آہ۔

قُلْ لَا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْئَلُ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾

تہ ون (اگر اسی تہند خیاہ مجرم چھ تہ) سانہ ون
متعلق بیہ نہ توہر پرتھہ تہ نہ بیہ اسہ تہندہن عمل
متعلق پرتھہ۔

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا
بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿۲۰﴾

بیہ ون بیتہ ز سون پروردگار کر توہر تہ اسہ (اکہ
دہہ ہر کس جنگ کس نادان منز) جمع آیتہ کر
حقہ تہ الفناہ سان اسہ دہ لونی درمیان ہا صلہ
تہ سہ چھ سارک وہے کھوتہ بوڈ (تہ) رت فاصلہ کرن
دول تہ پرتھہ (کاتبہ) کتھ چھ سہ زہر پانہ نانا۔
دیکھ میہ آوری توکھ تہ سہی تم یوم توہر شریک بناوتھ
تس سدی بناوان بیو کھ۔ ہرگز چھہ (تس کاتبہ
شریک بناوان) درست بلکہ حق چھ یہ ز اللہ تعالیٰ
چھ غالب (تہ) بجز حکمت وول۔

قُلْ أَرْوِي الَّذِينَ كَفَرْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ
كَلَاءَ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۱﴾

بیہ اسہ چھکھ تہ تمام آدمی دازن کن (یہو منز
اکہ تہ چانہ رسالتہ کہ آہر نمبر گرتھ نہ روزن، بیہ)
رسول بناوتھ سوزمت یس (نوبان) غمہ شجر دوان

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵﴾

تہ (کافرن) ہتیار کران چھہ۔ اپوز السانو منتر چھہ
واریاہ امر تحقیقہ لہنتہ بے خبر۔

بیسہ چھہ تم (جو شس مشرتیہ) زمان نہ اگر توہی
پڑی یاری چھو تہ یہ (سارکے دنیاہس تام
رسالتک پیغام ونگ) وعدہ کر گزہ پوہی؟

تہ ونگہ نہ تہندہ خاطر چھہ اگر وہک معیار گنڈتہ
تہ نہ ہیکو توہی تہ لہنتہ اگہ گزیتہ روزتہ، نہ
ہیکو اگہ گزہ برونگہ نہرتہ۔

قُلْ لَكُمْ وَعِثَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْذِنُونَ
عَنهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿۶﴾

تہ کافر چھہ زمان نہ اسی نہ تہ چھن یہ قرآن مانان
تہ نہ تہمہ پیشگوئیہ بیہ اتہ متعلق کرنہ آمتر چھہ
اد اگر تہ ظالم تہمہ وز وچھہکہ نیلہ تم سینس
پرور وگارس برونگہ کتہ استاؤ کرنہ پن تہ تہمہ
منتر آس کینہہ کینشن سہتو بخت کران تہ کمزور
دور آس کبیر واپس دیرس کن دان۔ نہ اگر توہی
اُسی رہو نہ تہ اُسی اہو ہوزور اپمان۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا
الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ
عِندَ رَبِّهِمْ يَبْزِجُ بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ بِالْقَوْلِ «يَقُولُ الَّذِينَ
اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لَمْ
أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿۶﴾

کبیر وول دور ونہ ہولہس منتر کمزور دیرس کن نہ
نیلہ ہدایت توہہ نش اُمت اوس تہ کیا اسیہ اُکروا
توہی تہ لہنتہ مٹا کتاوی توہی؟ (ہرگز نہ)
ہیکہ اُسی و توہی پانے مجرم۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ
اسْتَضَعِفُوا أَنْخُنْ صَدَدَكُمْ عَنِ
الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ
مُجْرِمِينَ ﴿۷﴾

بیسہ تم لاکھ یکم تو توان زانہ اہو اُسی وئن ہمتن
لوکن یکم کبیر واد اُسی (اُسی اُسی نہ بیتھ مجرم
بنے ہتہ) ہیکہ تہندہ بو راز (ہندلو) تہ دکہوتہ بیدرو
بناو اُسی ہتہ۔ نیلہ توہی اسہ اللہ (تعالیٰ) ہندپن
حکمن ہند انکار کر پچ تہ تند شریک بناو پچ تعلیم
دوان اُسی و۔ بیہ نیلہ (بین نافرمانین ہندس تہیں
منتر) تو اگہ خطرناک عذاب وچھہ۔ تہ (یکم لاکھ پنس
پانس بوڈ خیال کران اُسی) تمہ ہنتر (پستپن دن ہنتر)
مندچھہ کھنتہ معاوڈ تہ تمہ منتر یکم پونہ کافر آس
اُسی تراو تہ ہنترن گردہن منتر طوق مالہ۔ (تہ یہ

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْبَيْلِ وَ النَّهَارِ
إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ
نَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَ اسْرُدُوا
النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَ
جَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْتَاكِ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۷﴾

سزا آسہ نہ تہننزو بدکاریو کھوتہ جاو۔ متن چھنا بھکان
فکر تھتھہیز) متن یس سزا دہہ بیہ سہ آسہ
تہننزو علمہ مطابق۔
بیہ سوز نہ آسہ کتہہ بستی منز کانہہ ہتیار کرن ول
(نہی) تہتہہ کپو مالدر آسہ نہ یہ وودنت نہ
(اسے رٹولو!) اسی چھ تہنہر رسا تکی منکر۔

بیہ چھہ تم بیتہ وتان روڈی ہستی ز اسی چھہ تہنہر
کھوتہ ماس تہ اولاد منز جاو۔ تہ آسہ بیٹھ سپد
نہ نہنہ عذاب نازل۔

تہ ون میون پروردگار تیکو ہند خا طرہ ہتہرہان
چھہ (تہند خا طرہ چھہ) رزق کشا د کران تہ تیکو
ہند خا طرہ ہتہرہان چھہ تس چھہ (رزقس منز)
کی کران۔ مگر لوکو منز چھہ واریاہ زانان۔

بیہ تہندہ مال تہ تہندہ اولاد چھہہ تہتہہ چہرہ
ہم تو ہہ اسہ نزدیک انہ نیو۔ ماہ پوزیس ایمان انان
چھہ تہ تہر کہ حالہ مطابق عمل کران چھہ (سہ چھہ اسہ
نزدیک آسان) تہ ہتھو نے لوکن میں تہنہر پو
ہتھو اعمالو کفی ہرہ ہرہ جزا تہ تم گڈ راون بالا
خان تہ ڈہ اولاد منز زندگی امتہ سان۔

بیہ تم لوکہ ہم زن سانہن نشان متعلق اسہ
عاجز کرنہ خا طرہ کوششہ کران چھہ۔ تم لوکہ ہن
سخت عذاب برو تھہ کتہہ پیش کرنہ۔

(بیہ) تہ ون میون پروردگار چھہ پتہنو بندو منز
تیکو ہند خا طرہ ہتہرہان چھہ (تہند خا طرہ چھہ) رزق کشا د
کران تہ تیکو ہند خا طرہ ہتہرہان چھہ تس کیت چھہ
(رزقس منز) کی کران۔ بیہ یہ کینرہا توہی خرچ
کرو سہ کڑ تہیک تہتہہ ہزور۔ سہ چھہ ساری
وہے رزق دہہ واہو منز رت (تہ کابل)۔

بیہ تیکو دوہہ سہ (اللہ تعالیٰ) متن سار کرنہ

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ
إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهُمْ إِنَّا بِمَا
أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿۶۱﴾

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿۶۲﴾

قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَئِن أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۶۳﴾

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي
نُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنِ
أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا رَأَوْا لِيكَ لَهُمْ جَزَاءُ
الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي
الْعُرْفِ أَمْنُونَ ﴿۶۴﴾

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا
مُتَعَجِّزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُخْضَرُونَ ﴿۶۵﴾

قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
مِنَ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَ مَا
أَنفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۶۶﴾

دَبَّوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ

لِلْمَلَائِكَةِ أَهْوَاءَ إِيَّاكُمْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ ﴿۷۰﴾

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَرَبُّنَا مِنْ
دُونِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ
أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿۷۱﴾

قَالِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
نُفْعًا وَلَا ضَرًّا وَتَقُولُ الَّذِينَ
ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ
بِهَا تُكذَّبُونَ ﴿۷۲﴾

وَإِذَا تَنَسَّلْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا
مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ
عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا
هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى ۚ وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنْ
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۷۳﴾

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا
وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ
نَذِيرٍ ﴿۷۴﴾

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَ مَا
بَلَّغُوا مِغْشَاءَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا
رُسُلِي ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۷۵﴾

سوزنا و پتہ و نہ سہ ملائکین، کیا ہم لوگہ آسیا
تہنہز عبادت کران؟

تم وزن تر چھکھ پاک، تم تراوتھ چھکھ صرف
تہے سون دوست (لہذا تہہ کئی نہ بیتہ پاٹھر
کافر ون)، بلکہ پیزر چھ یہ نہ تم آسی خیال تہ
پوشیدہ ہستین ہنہز عبادت کران تہ تمہو منہز
آسی واریاہ ہنہز ہستین پیٹھ ایمان تہ انان۔
(او کئی پیہ ہنہز ونہن) از ہکین نہ تہ ہسہ
منہز کینہہ کینہز ن فایدہ و اتناوتھ نہ (ہکین) ہنہز
(واتناوتھ) تہ آسی و تو ظالمین نہ سیمہ ہارک
عذاب تہ ہو، میں تو ہی پزراوان آسی ون۔

بہ نیلہ ہنہز بروٹھ کبہ سانی لاکار نشاہ پڑتھ
بوزناونہ یوان چھ تہ تم چھ ونان تر یہ شخص
چھ صرف تہتھ انسان میں تو بہ ہنہز (ہستین)
ہنہز عبادت ہنہز ٹھکاناون ہنہز ہنہز چھ، بہنہز ہنہز
ہجد اجلاہ عبادت کران آسی۔ بہ چھ ونان یہ (قرآن)
چھ (صرف) ایز۔ میں پٹھہ نفسہہ لیشہ بناونہ آمت
چھ۔ تہ نیلہ پور پور ہنہز ہنہز یوان چھ تہ کافر
چھ ہنہز ہنہز ہنہز ہنہز کئی ونان نہ یہ تہ چھ اکھ
نہز وائہ فریب۔

بہ اسہ وڈر نہ ہنہز کینہہ (آسمانی) کتابہ ہکین
تم پران آسہ ہنہز (تہ ہنہز منہز آسہ ہنہز ہنہز
بے ہنہز کتھہ لیکتھ) بہ نہ چھ اسہ ہنہز کئی تہ
برونٹھ کانہہ (تہتھ) ہنہز ہنہز کرن وول سوزمت
(نیو ہنہز بے ہنہز کتھہ ہنہز ہنہز ہنہز ہنہز ہنہز)

بہ ہم لوگہ ہکین ہنہز آسی ہنہز آسی (پنہز رسول)
اپزادہ ہنہز۔ تہ سیمہ زمانہ ہنہز ہنہز ہنہز
تہہ طاقتگ ہنہز ہنہز ہنہز ہنہز ہنہز ہنہز
ہنہز ہنہز ہنہز ہنہز ہنہز۔ ہنہز ہنہز ہنہز

برونٹھو مہو لوکو ہند کھوتہ ڈیل آسند باوجود تہ
تہند سزا وچھتہ باوجود) کوز سانین رسولن
ہند انکارے۔ اوکئی (وونی وچھوتن نرین
حالاتن منز) میانہ انکارک نتیجہ یعنی عذاب کیگتھ
چھہ آسان۔

تر دن ، برہمنو توہمہ اہہ کتھ ہنر نفیحت کران۔
اکم سے کم ، سہ تو مانو (سو چھتہ ہر اللہ تعالیٰ)
ہس برونٹھو کتھ سیدو نر نر آستھہ تہ کئی کئی
آستھہ استاد۔ پتہ کرو غور (تہ لازمی طور تہر یوہے
نتیجہ) نر تہندس نہیں رسولس چھتہ (کتہ قسمک)
متر۔ سہ چھہ صرف توہمہ برونٹھو پتہ والہ سخت
عذاب ہنتر ہتیار کران وول (شخص)۔

تر ونکھ میہ یوسہ تہ اجرت توہمہ (اللہ تعالیٰ مند
پنیام واتناونہ بدل) شجرتہ آسہ۔ سو فی تو توی۔
میون حق چھہ صرف اللہ تعالیٰ) ہس نیش تہ سہ
چھہ پر تھہ (کانہہ) چیز وچھان۔

تر دن (بیہ ہمن) نر میون پروردگار چھہ یقینا
حقہ کہ ذریعہ (اپزس) چھہ چھلہ کران بیہ چھہ سہ
پر تھہ (کانہہ) ثواب بری پانٹھو زمانان۔

(بیہ) دن نر پلور پلور حق چھہ آمت تہ باطل
چھتہ کانہہ چیز پاد کران تہ نہ چھہ کتہ ہلاک
گامبتس چیزس واپس آنتھہ ہیکان۔

تر دن ، اگر بہ گراہ چھس تہ میانہ گراہی ہند وول
پنیہ میانس ذاتس پٹھہ۔ تہ اگر بہ ہدایتس پٹھہ
چھس تیلہ چھس بہ صرف تہ وچھہ ہند باعہتہ
یوسہ میانی پروردگارن میںہ پٹھہ نازل کر ہنتر چھہ
سہ چھہ بے شک سبھا وعا بوزن وول (تہ)
ہندس نکھہ روزن وول۔

بیہ ہرگاہ تہر بہ حالت وچھکھہ نیلہ زن ہم (خدیہ)
ہندو بولوکئی) گامرن تہ تمہن میںہ نہ تہ لپچ

قُلْ لَئِنَّمَا آعَظَكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ دَرَّادِي ثُمَّ تَنفَكُوا مِنْهُ مَا بَصَابِحِكُمْ ۖ مِن جَنَّةٍ ۚ إِنَّهُ لَا يَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝۶۱

قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۚ إِنِ اجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۶۲

قُلْ إِنَّ رَبِّي بِالْحَقِّ عَلِيمٌ ۝۶۳

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يَبْدِيءُ الْبَاطِلَ وَ مَا يُعِيدُ ۝۶۴

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۚ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُؤْتِيَنِ إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝۶۵

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَ أُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝۶۶

کاٹھہ و تھہ تہ اکر نزویکی مکاتہ پٹھہ ین تم رٹھہ۔

(تہ تریہ سپدی معلوم نہ یم کھتہ لہڈ چھہ)۔

بہہ تم وٹن، اسہ اون اتھہ (کلاس) پٹھہ ایمان
اما پوزہ تمن یہ (یعنی ایمان) کھتہ پٹھہ ہنیکہ یوت
دور گرتھہ حائل کرن نصیب سپدہتہ۔


تہ تمو چھہ امہ بروٹھہ امیکہ انکار کورمت تہ دورہ
بہتھہ چھہ سوتج سمجھہ وراہی تہ بوز شوثر رؤس
اعترافن کران روزان۔

تہ تمن درمیان تہ بہترین حائش درمیان آپہ
تھتھہ پٹھہ ٹھری تراونہ یتھہ پٹھہ بہندین ہم ذات
لوکن سوتج تمن بروٹھہ کرنہ آمت اوس۔ تم تہ
اسی ایکس تھتھس شکس منز ولہہ آہتی یس بقراری
پاؤ کرن ول اوس (تہ یم تہ)۔

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَإِنَّا لَهُمُ التَّنَادُ
مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۳۵﴾

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ
وَيَقُولُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ
بَعِيدٍ ﴿۳۶﴾

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ
كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِمَّنْ قَبْلُ
لَا تَأْتُهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿۳۷﴾



سورة فاطر: یہ سورہ چھہ کلی تہ بسم اللہ تہ چھہ اتھہ شینے تاجی آپہ بہہ چھس پانٹھہ رکوع۔

(بہہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سندا ناو بہتھہ (پر ان)
یس حد رؤس کرم کرن ول (تہ) پھیرک پھیرک
رحم کرن ول چھہ۔

اللہ (تعالیٰ) ہندی چھہ ساری تعریف یس آسان
تہ زمینہ ہند (اکہ نو نظامہ مطابق) پاؤ کرن
ول چھہ (تہ) ملائکین چھہ تھتھس حاس منز رسول
بناوتھہ سوزن ول یسیہ زن کتہہ ویز چھینہ تمن
نہ نہ پکھہ آسان تہ کتہہ ویز تریہ تریہ تہ کتہہ ویز
شورہ شوروہ (تہ بین ملائکین ہنزن پکھن ہنزر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اَخْبَحَیْ
مَشْحٰی وُ ثَلٰثَ وُرُبَعٍ ؕ بَزَیْدٌ فِی الْخَلْقِ
مَا یَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ
قَدِیْرٌ ﴿۱﴾

لہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھہ یم فرشتہ وحی ان تم آسن دون دون، ترہن
ترہن تہ ترہن، ترہن خدایٰ جفات ہندک حائل تہ ٹا ہر کرن اولی۔

پادائیشہ منز لوت سے (اللہ تعالیٰ) سے بڑھان چھ
ہر رچھ بختان۔ اللہ (تعالیٰ) چھ پرتھ اگس
چسپس پیٹھ سپٹھا قادر۔

یس رحمتک سامانہ اللہ (تعالیٰ) لکن بند خاطر
مٹراو تھ چھنہ کانہہ بند کرن وول۔ تہ نیمہ
رحمتک سامانہ سے بند کرن تھ چھنہ خدایس پتہ
کانہہ جاری کرن وول۔ بیہ چھ سے غالب (تہ)
بڑ حکمت تھون وول۔

اے لوگو! اللہ (تعالیٰ) سبز یوسہ نعمت توہہ
پیٹھ نازل سبز ہتر چھینہ۔ سو کرو یاد۔ اللہ (تعالیٰ)
ہس وراہی تہ چھا کانہہ پاو کرن وول یس آسانہ تہ زمینہ
نبتہ توہہ برزق دوآن آسہ و؛ لیس وراہی چھنہ
کانہہ معبود۔ اڈ توہہ کوکن چھو بڑ مراد تہ
پوان۔

اگریم لوکھ تریہ اپزادان چھی تہ (حرج کیا چھ) ؟
تریہ بروٹھ پتہ رسول گزرسے ہتہ چھ تم تہ آس
اپزاونہ آہتہ۔ تہ ساری معاملہ بین (فائدہ باچھا)
اللہ (تعالیٰ) ہندو سے دربارس منز پیش کرنہ۔

اے لوگو! اللہ (تعالیٰ) سند وعدہ چھ یقیناً پوز
اوکو بیتہ نیمہ دنیا پچ زندگی توہہ فریس منز
تراو و بیہ بیتہ کانہہ دوکھ دہ وول توہہ
اللہ (تعالیٰ) بندس حقس منز دوکھ دی و۔

شیطان چھ یقیناً تمہند دشمن۔ لہذا سے زانیون
وشینہ۔ سہ چھ پسنہن سکو باحین او موکھ ناد
دوان نہ تم بن جہنمی۔

تم لوکھ پوکھ کوزرت چھ تہند خاطر چھ سمیت
عذاب بیکھتہ بیہ تم لوکھ پوکھ ایمان اون تہ ایمانہ
مطابق کرتو کامہ تہ تہندس باگس منز بیجھ
بختا پیش تہ سپٹھا بوڈ انعام

کیا تمیس شخصہ بند خاطر تو سبز بد اعمال

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ ذَخْمَةٍ فَلَا
مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكُهَا فَلَا يُمَسَّلُ
لَهُ مِنْ بَعْدِهَا، وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ①

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذْ كُرِّدَا زَحَمَتَ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ، هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ
يَزِيدُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَاتَى تَوْفُكُونَ ②

وَأَنْ يُكْذِبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ
مِنْ قَبْلِكَ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ③

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
فَلَا تَغُرُّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، إِنَّهَا
لَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ④

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
عَدُوًّا، إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا
مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑤

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَآجْرٌ كَبِيرٌ ⑥

أَفَمَنْ رُئِيَ لَهُ سُوءٌ عَمِلِهِ فَرَاهُ

شوبہ دار کُرتھ ماونہ آمہتر آسہرہ بیہ آسہرہ سہ تھہ
جان زانان (سہ چھا بھکان ہدایت لبہتہ) بیہ
تھوہو یاد نر اللہ (تعالے) نیس بیہترھان چھہ (یعنی
تھہ لایق لبان چھس) تس چھہ ہلاک کران تہ
نیس بیہترھان چھہ (یعنی تھہ لایق لبان چھس)
تس چھہ کامیابی ہنزوتھہ ماوان۔ لہذا چھان زوہ
مہر سپدن تہندہ مومکھ حسرتہ تہ عمہ کہ باعستہ
ہلاک۔ اللہ (تعالے) چھہ تہندہ اعمال زہر پانگی
زانان (لہذا خدایہ سندا سزا چھہ ٹھیک عملن مطابق
آسان ہنگتہ منگر چھتہ آسان)۔

بیہ اللہ (تعالے) چھہ سہ یس واوان سوزن چھہ
یم اوہرس تلان چھہ پتہ چھن اسی سہ اُکس
سورہ مٹکس کن بکھ دتھہ ہوان تہ امہ دسی
چھن زمین تمہ چہ وارانہ پتہ آباد کران۔ یٹھہ
پانگی چھہ مسرتہ پتہ وہتھک تونون مقرر۔
یس کا نترھا عزت بیہترھان چھہ تس روزن
یاد زعزت چھتہ سارہے اللہ (تعالے) ہندس
انقس منتر۔ پاک کتھہ چھتہ تسو کن کھتھہ ترھان
تہ ایمانہ مطابق عمل چھتہ تھن تلان۔ بیہ یم لوکھ (آہہ
بخلاف)۔ بچہ تہد سہر کران چھہ۔ تہندہ خا طرہ چھہ
سخت عذاب (مقدر) تہ بھن لوکن ہند تہد سہرہ
چھہ تباہ سپدن وول چیز (نہ زتوہی)۔

بیہ اللہ (تعالے) ہن چھو تونہ میٹرہ نترہ پانہ
کررہ ہتو۔ تمہ پتہ لظہہ نترہ۔ پتہ چھو جوہ جوہ
بناوہ ہتو۔ بیہ کانبہ زانہ چھتہ حمل سپدن تہ
نہ چھہ تس شترہ زولان مگر تہ چھہ خدایہ ہند علمہ
مطابق سپدن۔ بیہ نہ چھہ کانبہ وانٹھہ جادہ
وانس لبان تہ نہ بھتہ کانبہ ہنزہ وانٹھہ منتر کمی
کررہ ہوان۔ مگر تہ چھہ اگر تونونہ مطابق۔ بیکتھہ چھتہ
اللہ (تعالے) ہس تس بلکل سہل۔

حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ
نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ①

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ
سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ
فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
كَذَلِكَ النُّشُورُ ①

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
جَمِيعًا ۖ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ
يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ ۚ وَكَرُّهُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْذَرُ ①

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا
تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ
وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ
مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ①

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ فِي هَذَا عَذَابٍ
فَرَاتٍ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ
أَجَاجٌ، وَ مِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا
طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً
تَلْبَسُونَهَا، وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيهِ
مَوَازِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۱﴾

بہ تہمتو نہ سمندر (یا ڈرکیاؤ) بہکن نہ ہرگز برابر
آہستہ نہ (پھو منبر) اکھ آسہ میونٹہ نہ تمہ شون
تہ تمیک آب آسہ سہیل پاٹھی ہٹہ وسان تہ (ساکھ)
اکھ آسہ نوہن منزل گپگ زانن دول تہ توہی
چھو (امر باو بولڈ) تمو دوہنوسے وہے سمندرو
(یا ڈرکیاؤ) منبر سادر وار ماز کھوان تہ تمو
منبر چھو گہنہ کہ رنگہ چیز کڈان۔ (یعنی موہتہ
ہیتر) یکم توہی لاگان چھو وکھ، بیہ چھو توہی ناہ
تہ سمندری جہاز وچھان، ایمو (ڈرکیاؤ تہ سمندر)
منبری چھو لہر پھیراں پکان گزھان۔ بیٹھ زن
توہی تمی سند (یعنی تمہا یہ سند) فضل ترھاندو
بیہ بیٹھ زن توہی شکرانہ کرن اولی بنو۔

يُولَجُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَ يُولَجُ
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ
وَ الْقَمَرَ، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى،
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، وَ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ
قُطْمِيرٍ ﴿۱۲﴾

سہ چھ راتز دوہس منبر دا نخل کران تہ دوہس
راتز منبر دا نخل کران۔ بیہ چھ آفتاب تہ زون
تمی (تمام مخلوقاتن ہندس) چندتس پیٹھ لاگتہ
تھموتہ۔ تمو منبر چھ پیرتہ اکھ گنڈتھ مدتہ پایتہ
پکان گزھان۔ یہ چھ تہند پروردگار۔ پاوشی ہی
چھینہ تمی ہنبرے۔ بیہ بین توہی تمی ہند وراہی
آلو کران چھو تم چھنہ کھنر آچھ ہندس منبر
مس دہس برابر تہ گنہ چیز کہ ٹابک۔

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ
وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وَ لَا
يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿۱۳﴾

اگر توہی تمہن آلو کرو تہ تم بوزن نہ زہنہ تہندک
آلو تہ یودوسے بوزن تہ تہ تہند قاید خطر
ہیکن نہ سہ قبول کرتہ تہ پتہ کرن قیا منبر دوہہ
تہندس شرکس انکار۔ بیہ ہیکی تہ تریہ واقف
کارہ ہند کھوتہ جاہ برتر خبر کاہنہ دتھ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى
اللَّهِ، وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۱۴﴾

اے لوگو! توہی چھو اللہ (تعالے) ہندک محتاج
تہ اللہ (تعالے) چھنہ کاہنہ ہند محتاج بلکہ سہ
چھ سارکے تعریفین ہند ٹابک (یعنی بین

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ
جَدِيدٍ ﴿۵۵﴾

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿۵۶﴾

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ
مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ
شَيْءٌ وَلَا كَانِ ذَا قُرْبَىٰ وَإِنَّمَا تُنذِرُ
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَخَّرَ فَإِنَّمَا
يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۵۷﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿۵۸﴾

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿۵۹﴾

وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿۶۰﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ
بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿۶۱﴾

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿۶۲﴾

إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿۶۳﴾

وَلَا يَكْفُرُ بِكَ فَكَّرَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
وَيَا لِرُبُوبٍ بِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۶۴﴾

ہند کی حاجت چھ پور کران)۔
اگر سہ بیٹھتے تو ہر سار کے گرد و تباہ تہ
اکھ نو مخلوق کر پائے۔
تہ یہ کہتے چھینے اللہ (تعالے) ہس نش ہرگز مشکل۔
تہ کانہہ بورئین وول نو ہیکہ نہ بیے سند
پور تہ تہ اگر کانہہ بارس تل و ہویت بین بور تہ
نخا طر کانہہ آلو کر تہ تہ سند اکھ داڈ تہ بور پیہ
تہ تہ۔ ادرہ کوتاہ تہ نکہ تنگ کو تہ آسہ تہ
تہ چھیکہ صرف تم لوکھ ہشیار کران یکم پسنس
پروردگار تہ تہائی منز تہ کھوزان چھ تہ نماز چھ
(شرطو سان) ادا کران۔ بیہ یس شخص پاک سیدان
چھ سہ صرف پسنس نو کر فایدہ نخا طر پاک
سیدان تہ آنجر کار چھ سار کے نے اللہ (تعالے) ہے
کن واپس پھیرتہ عمر تہن۔

تہ اذن تہ کاشدار ہیکن نہ برابر آستہ۔

تہ نہ (چھ ہیکان) انہ عمر تہ کاش (برابر آستہ)۔

(تہ) نہ (چھ ہیکان) ترعاسے تہ تا پھ (برابر آستہ)۔

تہ نہ (چھ ہیکان) زیند تہ مورہ (برابر آستہ)۔

یقینا اللہ (تعالے) سنیس سینرہان چھ ا
تس چھ بوز ناوتہ ہیکان۔ انا بوز تہ ہیکہ کہہ نہ
تم بوز ناوتہ یکم قبرن منز ڈوتہ چھ۔

تہ تہ چھیکہ صرف اکھ ہشیار کران وول۔

اسر چھیکہ تہ اکھ تا یکم روزن واجز صداقت ہوتہ
اکھ نحو شیخبر دنہ وول تہ ہشیار کران وول بناوتہ
سوزمت تہ کانہہ قوم چھینہ تہ تہ تہ منز خدایہ
سند طرفہ) کانہہ ہشیار کران وول آسہ نہ آمت۔

بیہ یوز وے یکم لوکھ تہ اپزادان چھی تہ تمو
لوکو تہ یکم بہن بروٹھ گدرے تہ اسر اسر
(پسنہ و تہ کو رنول) اپزادہ ہتہ۔ بہن نش

تہ اسی تہنہد زما کی رسول دلیلہ ہتھ تہ کینہہ
تعلیم ہتھ آہتی۔ بیہ دہن منتر اسی کینہہ کا شران
واجز کتاب ہتھ (تہ آہتی)۔

پتہ رُئی میہ کافر تہنہد اپزاوہ کر سبہہ (عذاب
منتر)۔ ادر کیا (وچھو تن ز بین حالات منتر)
میانہ اکارک نتیجہ (یعنی عذاب) کینہہ ہتھ
آسان۔

کیا تریہ وچھتھا ز اللہ (تعالیٰ) ہن چھ اوہر منتر
آب وول مت؟ پتہ چھ اہر اہر ستمو بیون بیون
رنگن ہندو ہو پاد کرک ہتھ۔ بیہ چھ بان منتر بیون
بیون رنگن ہندو بال آسان (ہم اکھ اُکس ہنش فرق
تھوان چھ) کینہہ سفید، کینہہ ووزل (کینہہ) بیون بیون
رنگن ہندو تہ کینہہ کر تہ کال ہوک۔

تہ لوکو تہ حیوانو تہ چار پاہو منتر تہ چھ کینہہ تہتھو
آسان ز ہتھ منتر چھ پر تہ اکر سندرنگ ڈویمہ ہند
ہنتر بیون آسان۔ حقیقت چھینہ تہتھ پانگھ (تہ)
لہند (تعالیٰ) ہندو ہندو منتر چھ صرف عالم تس
کھوژان۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بوڈ غالب (تہ) سہٹھا
بختہ وول۔

تم لوکھ ہم اللہ (تعالیٰ) ہنتر کتاب پران چھ
بیہ چھ (باجماعت) نماز ادا کران تہ یہ کینہہ شعا
اہر ہنتر دیت مت چھ تہ اندر چھ کھٹھ تہ
تہ تہ واپ تہ خرچ کران۔ تہ چھ دراصل تہ
تجار تہ لہ کس تلاشس لو ہتھ۔ لیس زانہہ
تباہ گرتھو تہ۔

تہ کیانز تہیک نتیجہ سپد یہ ز اللہ (تعالیٰ) دیہ
تہندین اعمال ہند پور پور اجر۔ بیہ دیہ ہنتر
(اہر علاو) ہنتر فضلہ ہتھ بیہ ہن تہ جاہ۔ (تہیکہ)

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ
كَانَ تَكْوِينُ ۝

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ
مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْحُلَمَاءُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
رِزْقَهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً يَبْرَجُونَ
تَجَارَةً لَّن تَبُورًا ۝

لِيُؤْتِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ
فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ۝

نہ یعنی سہ تجارت میں خدا تعالیٰ ہس سہ کر تہ یوان چھ۔

کہ باعث تہنیز حالت منیر دنیا ہم کھوتہ سامہون
بہتر سپد (تہ کیا ز سہ خدا) چھ سہٹا بخش
بار (تہ) سہٹا قدر کرن وول۔

بہ سو کتھ یومہ اسہ یتھ قرآنس منز تریہ پیٹھ
وچہ ہند ڈریعہ سوز ہتر چھینہ ، چھینہ بیکل پز تہ
پور سپدن واجو تہ تمہ بروٹھ یومہ وحی آہتر
چھینہ ، تھہ چھینہ پور کرن واجو ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ
یقینا پنہن بندن بخش خبردار (تہ) تہنیز
حالت چھ وچھان ۔

تہ کڑتھ (حقیقت چھینہ یہ تر وحی نازل کر تھہ
پستہ) بناو اسہ پتہ کتابہ ہندک وارث (ہمیشہ)
تہ لاکھ یکم اسہ پستہ ہندو منز ترارک ۔ اد
تہو منز سپد کانہہ کانہہ انسان تہتھہ تہ تثابت یس
پننن زوس پیٹھ اتھہ زوس ظلم کرن وول اوس
تہ کانہہ دراو تہو منز تہتھہ یس درمیانی رنگہ یکن
وول اوس تہ کانہہ دراو تہو منز تہتھہ یس نیسکن
منز اللہ (تعالیٰ) ہند حکمہ سو تہ یس ہند کھوتہ
بروٹھ نرن وول اوس ۔ یہ چھ (اللہ تعالیٰ سہ)
بوڈ فضل ۔

ہمیشہ روزن والہ تم جنت آسن (امیر متھاک بدلہ)
یسن منز تم (لوکھ) دا نول سپدن (تہ) اتن منزین
اتن سوہ ہندک کرک لاکھ تہ بیہ موختہ (مالہ)
تہ تہ تہنہد لباس آسہ تھہ اندر پوٹ ۔

بیہ ہم ونن ز ساری تعریف چھ اللہ (تعالیٰ) ہندک
نیجو سون عم دور کور ۔ سون پروردگار چھ بے شک
سہٹا بخش بار (تہ) سہٹا قدر کرن وول ۔

سہ (خدا) نیجو پستہ فضلہ سنو اسو روز ہنن طر
اگس تترھ جاہ پیٹھ تھاکو تہو چھ یتھ منز اسہ
نہ تہ چھ کانہہ تکلیف واتان تہ نہ چھ کتہ تمک
تھکن (باسان) ۔

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ
بَصِيرٌ ﴿۲۷﴾

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا
مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ
لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ
سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُرِيدُونَ ذَلِكَ
هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۲۸﴾

جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجَلَّوْنَ فِيهَا
مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا وَ
لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۲۹﴾

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا
الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۰﴾

إِلَّا الَّذِي أَخَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن
فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَ
لَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿۳۱﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ
لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا
يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذٰلِكَ
نَجْزِي كُلَّ كٰفِرٍ ﴿۳۵﴾

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا ۖ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
نَعْمَلْ صٰلِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۗ
اَدَلَّمْ نُوَعِّزُكُمْ مَا يَتَدَكَّرُ فِيهِ مِنْ
تَدَكَّرٍ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا
فَمَا لِلظٰلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ ﴿۳۶﴾

بیسہ قسم لاکھ بیو کفر کو مدت چھ بہن کیت چھ
جہنمک نار۔ نہ تو سپد بہن کیت موتک فاملو
جاری نہ تم مرن۔ نہ نہ بیہ بہنہ خاطر جہنم
کس عذابس منز کاٹھ لوٹر کرن۔ اسی چھ پرچہ
ناشگری کرن واپس سوتی سیتھ ورتا وکران۔

بیسہ قسم دن تھ (جہنمک) منز بارو (تو ورن)
اسے سائے پروردگار! اسے کہ تو نیمہ جہنم منز
تو اسی کرو (مؤمن ہندک یا طھر) نیک کام۔
ہمو عملو نشہ بدل ہم اسی گو ڈیچہ زندگی منز
کران اسی (اسی و تو بہن) کیا اسے اسونا تو ہے
تپتر واپس ڈر ہتر سیتھ منز نصیحت رٹنگ ٹاٹش
مند نصیحت رٹان چھ و بیہ اسی تو بہن ہش ہشیر
کرن واری (تو) آہو (تو پتہ) تو کونہ مانی و لو بہ
جہنمک کتھ؟ لہذا (وہی) تو ہو (یہ) عذاب۔
اد غلامن ہند چھ کاتھ اتھ روٹ کرن دول
آسان۔

اللہ (تعالیٰ) چھ آسمان تو زمین ہند غائب ران
دول۔ سہ چھ دن ہتر کتھ تو جان زبر یا طھر ران۔
سے چھ نیو تو ہی دنیاہس منز ا بڑو ٹھو بین
لوکن ہند (جانشین بنا وکو و۔ اہ یس انکار
کر تہند انکارک سزا پینہ تسو پٹھ۔ بیہ
کافرن ہند کفر چھ بہن بہندس پروردگار منز
نظر منز صرف ناراضگی منز ہے ہراوان۔ تو
کافرن ہند کفر چھ بہن صرف کاس منز ہے ہر ہر
دوان۔

تو وکھ، تو بہر وچھو اتہندی تم (گمانی) شریک
بین تو ہی اللہ (تعالیٰ) ہس واری آلوکران چھو۔
(ہر گاہ تم لوڑنہ لیوان چھو تو) میں تو کو بہن
سہ یا واپس یو سہ ہمو زمینہ منز یا و کتر ہتر
چھہ یا کیا آسمان ہیک بنا واپس منز بہن چھا

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ
اِنَّهٗ عَلَيْكُمْ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ﴿۳۷﴾
هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيْفًا فِي الْاَرْضِ ۗ
فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۗ وَ لَا يَزِيْدُ
الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهٗمْ عِنْدَ رَبِّهٖمْ اِلَّا
مَقْتًا ۚ وَ لَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهٗمْ
اِلَّا اَخْسَارًا ﴿۳۸﴾

قُلْ اَرَاَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ
الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ
اَمْ اَتَيْنَهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنٰتٍ
مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ

بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝

کائنہد شرکات و یا کیا اسہ چھا تمن کائنہد کتاب
دیر مشر؛ نر تم چھہ ترمج بیان کرتہ آہتر ڈیل
پانس سیتو تھوان (ڈوپل ترشہ کتہ چھہ ہرگز) بلکہ
ظالم چھہ یادہ وادی اکہ اکیس سیتو صرف فریب دینہ
والی وعدہ کران۔

إِنَّ اللَّهَ يُمِصُّكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ
تَزُولَا هُوَ لَكِنَّ زَلْتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا
مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا
عَفُورًا ۝

اللہ (تعالیٰ) سبھہ چھہ آسمان تہ زمین اسہ کتہ
نیشہ ٹھاکاوتھہ تھاوکر ہتی، نر تم گرشہن پسہ
جایہ ڈولتھہ۔ تہ اگر تم ڈلن۔ اڈ تہ پتہ ہیکہ تہ
تمن کائنہد (تیاہ گرشہن نشہ) پتہ رٹھہ۔ بلاشک چھہ
سہ سبھا بربوبار (تہ) سبھا معاف کرن وول۔
بسہ چھہ تم اللہ (تعالیٰ) ہندکر پلوتہہ قسم کران نر
اگر تمن نش کائنہد نبی بسہ تہ تم بن تمام
امتو منتر پرستہ اکی سبھہ کھوتہ جاڈ ہایت لبین
والی۔ مگر نیلہ تمن نش نبی او تہ تسندینا سپد
تمن صرف نفرس منتر ہر راونک باعت۔

وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ
جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ
لِّأَحَدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا
زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

تیکیا نر تم اسی زمپہ منتر بڑی بین سبھہ جان تہ
یکچہ تدبیر اسی کرڈی سبھہ جان تہ یکچہ تدبیر چھہ
تہ کہن کرن والرنے ہاک کران، اڈ کیا تم ماہ چھہ
گھوڈ بکھن ہند مستک (یعنی عذابک) انتظار
کران؛ (تہ اگر تر سکھ) تہ اللہ (تعالیٰ) ہندک
سنس لبکہ تہ تر زمینے کائنہد فرق تہ نہ
وچھک تہ زانہد اللہ (تعالیٰ) سندست ڈلان۔
کیا تم بھیرک ماہ زمینس منتر؛ (اگر تہ کہن)
تہ تم وچھہن نر تم برونٹھو من لوکن ہند
انجام کیا سپد؛ بوز وسے تہ تم اسی تہند نشہ
طانتس منتر جاڈ تہ کائنہد چیز ہیکہ تہ اللہ
(تعالیٰ) ہس آسمان منتر تہ زمپہ منتر پس
اڈس منتر ناکام کرتھہ۔ سہ چھہ یقینا سبھا زان
وول تہ، بکر تودرر وول۔

إِشْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَ مَكَرَ السَّيِّئِ
وَلَا يَجِئُكَ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۖ
فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السُّنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۖ
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَ لَنْ
تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝


أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ
كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَ مَا كَانَ
اللَّهُ لِيُجِزَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ
وَ لَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا
قَدِيرًا ۝

اڈ ہرگاہ اللہ (تعالیٰ) وکن تہنرو کامو ہند

وَلَوْ يُوَأخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا

مَا تَرَكْ عَل ظَهْرَهَا مِنْ دَابَّةٍ وَ لَكِنْ
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ
بَصِيرًا ۝

باعتہ رکُن بیسیہ ہے تہ زمینہ ہتہر تھہر پیٹھ
تراوہے نہ گائنبہ زوہ دارس - اما پوز سہ چھہ متن
اگس ہدس تمام موبلت دولن - پتہ نیلہ تہہند
گوڈنڈت وقت یوان چھہ تہ (ثبات چھہ سیدان
ز) اللہ (تعالے) اوس پستہن بدن زبر پاٹھو
وچھوں -



سورة یس : یہ سورہ چھہ کی تہ بسم اللہ ہتہہ چھہ اتھہ زوئی شتہہ ایہ بیہ جس پاتہہ کورہ

(یہ چھس) اللہ (تعالے) سندا و ہتہہ (پران)
یس حد رؤس کریم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک
رحم کرن وول پھہہ -
اے سید!

اُ سہ چھن حکمتہ وول قرآن (چاہن سید آسنہ
کس) شہادتس مشر پیش کران -
یقینا چھکھ تہ رسولو مشر -
(بیہ چھکھ) تہ سیز و تہ پیٹھ -

(بیہ قرآن) چھہ غالب (تہ) اُتہہ رؤس رحم
کرن وَا لہ ہندہ (یعنے خلیہ ہندہ) طرفہ نازل کرنہ
آمت -

امر غرضہ زہر کریم سہ قوم ہشیار ہتہہد و جد
اجلاو ہشیار اُ سہ نہ کرنہ آمتہ تہ تم اُ سہ غافل
پیترہ -

سولن دعوی سید تو مشر واریا ہن ہندہ حقہ پوہرہ
اُو تم چھہہ ایمان انان -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

یس ۱

وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۝

رَاٰکَ لَمَنْ الْمُرْسَلِیْنَ ۝

عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝

تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۝

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اُنذِرَ اٰبَادُهُمْ فَهُمْ
غٰفِلُوْنَ ۝

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَکْثَرِهِمْ
فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝

لَا تَا جَعَلْنَا فِي آغْنَا قِهِمْ أَغْلًا فَهِيَ
لَا الْأَذْقَانِ فُهُمْ مُقَمَّمُونَ ⑩

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا
مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ
لَا يُبْصِرُونَ ⑪

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑫

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ
الزَّحْمَانَ يَالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَخْفِرَةٍ
أَجْرٍ كَرِيمٍ ⑬

لَا تَا تَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا
قَدَّمُوا وَآتَاَهُمْ ءَا كُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ
فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ⑭

س ۱۸

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ
إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ⑮

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ
فَكَذَّبُوهُمَا فَعَبَّزْنَا بِتَالُوتِ
فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ⑯

اسی چھ تہننرں مرد زمین مشر طوق تالی تراوی ہوتی۔
تہ تم چھ تہننرں ہونگننن تمام کھتی ہوتی۔ تہ تم
چھ (تکلیفہ ہنہہ ہچنہہ خاطر پسنہ) مردی ہننراوا۔
بہ اسہ چھ تہن بروٹھ کتہ تہ اکھ مھور ہنومت
تہ تہن پتہ کتہ تہ چھ اکھ مھور ہنومت تہ تہن
پہٹ چھ ورن ترومت اوکتی ہکن نہ تم وچھتہ۔ ۱۰

بہ سچن ہننار کرن یا نہ ہننار کرن چھ تہننرں
خاطر ہر ہر ہے۔ تم ان نہ ایمان (یونانی نہ
تم پسنس ولس مشر تبدیلی یاد کرن)۔

تہ ہیکہ ہن صرف سہ شخص ہننار کڑھتہ س یاد
پاون مانان چھ تہ رحمن (خدا ایس) چھ تہننرں
مشر تہ کھوتان۔ لہذا ہننس شخصس وڈرا کہ تھہ
درنچ معانی ہننر تہ اکہ عزتہ والہ اجر ہج خوش ہج۔

اسی چھ مہرد زندر کرن بہ یہ کیننرھا تم نہ واہنہ
زندہ کی خاطر بروٹھ سوزان چھ تہہ چھ رتر تھہ
تھوان۔ بہ یہ امال تم وڈیا ہس مشر کڑی ہوتی
اسی تہننرں یکم نتیجہ نیرن تم تہ چھ اکی رتر تھہ
تھوان تہ پرتہ چہنر چھ اسہ اکیس مشر رتہ
کتا بہ مشر گننر تھہ تھومت۔

بہ کر تہ تہن بروٹھ کتہ اگر ہستی واپس ہننر حالت
بیان ہننر زن تہن ہنن تہننر رسؤل آہے۔

یعنے ہننر وزہ اسہ گوڈ ہننہ تہن کن نہ رسؤل سوز
امہ پوز تمو کور تہن دوونوی ہننر انکار۔ اتھہ پہٹ
ہننر اسہ گوڈ نہ ہکن وکن رسؤلن اکھ تر ہننم
رسؤل سوز تھہ طاقت۔ پتہ وون تمو سارک وہے
ہننہہ پسنس تومس نہ اسی چھ تہننرں پروردگار
ہننر طرفہ تو ہہ کن اکھ پیغام ہننہہ سوزنہ آہوتی۔

سہ یعنے تہننرں اچھن تہ مقلن پہٹ چھ رسم وروا ہکو تھو پر و پتہ آسان نہ چھ تم
وچھتہ ہکان تہ نہ چھ سوچتہ ہکان۔

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا
وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ؕ إِنْ
أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذُوبُونَ ﴿۱۰﴾

تو وہوں (جو ایسے مغز) تو توہی تہ چھو اسی ہوی
انسان تہ رحمن خدایں چھتہ کانہہ چنہر (الہامہ
کہ صورتہ) نمازل کورمت۔ توہی چھو صرف ایز
ونان۔

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَاٰهِيكُمْ
لَمُرْسَلُونَ ﴿۱۱﴾

تو وہوں نہ رسولن پروردگار چھتہ یہ کتھ زانان نہ
اُسی چھتہ توہہ کن رسول بناوتھ سوزنہ آہتہ۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ ﴿۱۲﴾

تہ ساڈ کلام چھتہ صرف یہ نہ اُسی کرو تہ وادہ تبلیغ۔

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا
لَنَجْجَمَنَّكُمْ وَكَأَنَّمَا عَذَابٌ
لَّيْلِيكُمْ ﴿۱۳﴾

اتھ پیٹھ وہوں کافرو، اُسی تہ چھتہ تہند اسہ
کن یں منحوس زانان، اگر توہی پسندو کتھو لہتہ
پتھ روزنہ تہ اُسی کروو توہی سنگسار بیہ وادہ
و توہہ سائہ طرفہ اکھ کریٹھ عذاب۔

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ؕ إِنْ ذُكِرْتُمْ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ ﴿۱۴﴾

تو وہوں نہ تہنہر عمل تہ چھتہ تہہ سرتی (توہی
سیتین تہ اُسو تہنہر بد عملن ہند بد نتیجہ روز
نیران) کیا توہی چھو یہ کتھ اوکھی ونان نہ اُسی
چھو تہہ ہر کاسہ یاد پاولن! بلکہ حق چھتہ نہ
توہی چھو حد نمبر نیرن دول قوم (اوکھی لہو
توہی ضرور سزا)۔

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ
يَسْأَلُ قَالَ يَقَوْمِ اتَّبِعُوا
الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۵﴾

تہ شہر کہہ دویمہ اندر پیٹھ آو اکھ شتھوں دولن دولن
تہ تمہر وہوں نہ اسے میانہ توہو! (یکن) رسولن
ہنہر فرمانبرواری کرو۔

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴿۱۶﴾

تہنہر پاروی کروو ہم تہہہ کانہہ اجر تہ چھو نہ
منگان تہ ہمہ چھتہ ہدایت لوہنت۔

وَمَا لِي لَأَعْبُدَ الَّذِي ظَنَّ رَبِّيَ لِي بَصَائِرَ
تُزَجُّونَ ﴿۱۷﴾

بیہ میںہ کیا چھتہ گوہنت نہ بہ کر نہ تہنہر عبادت
نیو بہ یاد کورمت چھتہ، تہ توہی ساری بیوتنی
کن واپس پھیرتھ انہ۔

ءَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهَا إِلَهًا لَّئِنْ يُرِيدَنَّ
الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْكَ شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُوكَ ﴿۱۸﴾

کیا بہ کاتس وائی بیکھ معبود پراوتھ، اگر (خدایہ)
رحمن میںہ کانہہ نو قصان و اتناون سیتھ تہنہ
(معبودن) ہنہر سفارش ہیکہ نہ میںہ کانہہ قاید و اتناوتھ
تہ نہ ہیکہ ہم میںہ (تہند ضرر ہنہر) بچاوتھ۔

(ہر گاہ بہ تڑکھ) تنبیہ آسہ بہ یقیناً نہ وہ نہ گمراہی
منز ولہ امت۔

میں چھ تہتدس پروردگارس پیٹھ اپمان اون مت
اوپر کئی بوزومیائی کہتہ۔

(اوتس) او (خداہ ہندو طریقہ) وتہہ جنس منز
سپد داغل۔ تو وون (اتھ پیٹھ) کاش! میا بس
توس آسہ ہے (میاہ برہہ انجا مک) علم۔

نہ کہتہ پاٹھی چھ میاڈی پروردگارن میں بخش
مت تہ بہ چھن عزتہ وائس دوس منز قابل
کوڑمت۔

بہ وول نہ اسہ تمہ پتہ تہتدس توس پیٹھ آسہ
(تمن تباہ کرہ خاطر) کانہہ لشکر، تہ نہ چہ
اسی زانہہ (تیتھ لشکر) والہے۔

صوت آواک خطرناک عذاب تمن پیٹھ تہ تم
پیٹھ زہبتہ گرتھتہ بین سہ سورسے شان تہ
شوکت راوڑوتھ۔

ہے افسوس! (اکارس کن مالدار) بندن پیٹھ،
نہ ییلہ زانہہ تہ تمن بنش کانہہ رسول یوان چھ
تم چھتس بچہ نظر وھین ہوان (تہ محولہ
کرہ لگان)

کیا تمواوستا وھمت در تمن بروٹھ کاتہ ہے لبتیہ
آسہ اسہ ہلاک کرہ متہر؟ (بہ بیتہ نہیم ہلاک
کرہ آسہ یہ) تم پھیری نہ پوت۔

تہ ساری لوکہ میں ضرور اسی بروٹھ کن حاضر کرہ
بہ بین کفارن، ہند خاطر پھینہ موہ زمین تہ
اکہ نشاہ، اسہ پھینہ سو زہد کرہ متہ تہ منز
چھ اناج کوڑمت۔ لہذا ہم چھ تمہ منز کھوان۔

بہ چھ اسہ زمینہ منز کھتہ تہ وچہ باغ تہ نو
راہتہ۔ بہ چھ اتھ منز ناگ تہ جاری کرہ متہ۔
یٹھ زن تم امکہ (یعنی باغہ کر) مہو منز ضرورتہ

إِنِّي إِذْ أَلْفَيْ صَلِّ مُبِينٍ ﴿۱۰﴾

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿۱۱﴾

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي
يَعْلَمُونَ ﴿۱۲﴾

بِمَا عَفَاكَ رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ
الْمُكْرَمِينَ ﴿۱۳﴾

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ
جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۱۴﴾

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا
هُم خَامِدُونَ ﴿۱۵﴾

يُحَسِّرُهُ عَلَى الْعِبَادِ بِمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ
رَسُولٍ إِلَّا كَأَنوَابِهِ يَسْتَفْهِرُونَ ﴿۱۶﴾

أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ
أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۷﴾

وَأَنْ كُلَّ لَفَّا جَمِيعَةٍ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۱۸﴾
وَأَيُّةً لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ أَخْيَبْنَاهَا
أَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿۱۹﴾

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ تَحْتِهَا
أَعْنَابٌ وَجَزَّ تَنَا فِيهَا مِنَ الْعُمُونَ ﴿۲۰﴾
لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا مَا
عَمَلْتُهُ

أَيِدِيهِمْ ءَأَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۱﴾

مطابق) کہیں تہ یہ (بارغ) چھین تہندو اتھو
نورومت (بلکہ چھ اسر نورومت) کیا تم
چھنا شکرا تہ کران

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَاجَّعَلَهَا مِثْقَالَ
ثَنِيثٍ وَالَّذِي دَامَنَ أَنْفُسِهِمْ دَمِثْقَالَ
رَيْحَانٍ مِّنْ لَّيْلٍ ﴿۳۲﴾

پاک چھ سو ذات نیجو پرتھ تسکو جوہر پاؤ کرک
متو چھ، تہ منز تہ یہ زمین وہ پداوان چھیہ
بیہ پاؤ تہندو وجودو مشنز تہ بیہ رتھو چہرو
منز تہ یکم تہ ہم زانان چھیلے

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ بِمَا تَنسَلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا
هُم مُّظْلِمُونَ ﴿۳۳﴾

بیہ چھ راتھ تہ تہندو خاطر اکھ بوڈ نشان۔ نیہ
اندہ لیمتھ اسی وہہ کڈان چھ۔ سیکہ پستہ
وچھان وچھان ہم انہ گٹس منز چھ روزتھ
گرتھان۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ءَذَلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۳۴﴾

بیہ آفتاب چھ اکیس مقرر کرتہ آمتز جاہ کن پکان
گرتھان۔ یہ چھ غالب (تہ) علمہ واد سدا یعنی
خداہ سدا مقرر کرتہ آمت قولن۔

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿۳۵﴾

بیہ زون (وچھون ز) اسر چھ تہ خاطر تہ منزل
مقرر کرتھ تھاووتھو۔ نوت تام زن سو چھیہ
(بیم منزلن پیٹھ پکان پکان) اکیس پرانہ
کھنر مور ہش (زواج) سپد تھ بیہ پھرتھ
یوان۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي
فَلَاقٍ يَّسْبَحُونَ ﴿۳۶﴾

نہ تہ چھ آفتاب طاقت زسہ واہ پسنس
ورکیس عمروشس منز کتہ وقتہ زونہ نکھرتہ
کیاز اگر تہ سپد تہ سورسے نظام شمس گرتھ
تباہ) تہ نہ چھ راتھ (یعنی زونہ) طاقت زسہ
رٹہ بروٹھ گرتھتھ وہس (یعنی آفتاب) بلکہ
یم سار ساری چھ اکیس مقرر سپرڈ مشرتہ
پیٹھ سپران سپران پکان گرتھان۔

لہ قرآن کریم چھ تروہ شپتہ وری بروٹھ بیان کوزمت، نہ حیوانات، نباتات تہ
جماداتن منز چھ جوہر آسان۔

لہ اتھ آس منز چھیہ یہ سائیس حقیقت بیان کرتہ آمتز زہ خلاس منز چھ بے وزنی ہتھ کیفیت
تہ پرتھ کرہ چھ خلاس منز سپران گرتھان تھیا مٹو اکیس منز کانہ ہم سپران چھ۔

وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿۷﴾

بہ تہندہ خاطر چھ بیتہ نشاۃ نہ اسی چھ تہندہ پستہ پرتھ ناوان مشر تلمتھ پھیران۔

وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِن وَّجْهِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿۸﴾

بہ کرو اسی امی تہہکو بہہ (چیز) تہ پاؤ ہم تم سوار ہندس ورتاوس مشر ان لہ

وَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَ لَهُمْ يُنْقِذُونَ ﴿۹﴾

تہ ہرگاہ اسی تہہو تہ تم کرو کہ چھاٹاوتھ ہلک۔ پتہ آسہ نہ کہنہی تہندہ واہ بداد بوزن وول تہ نہ بن سائہ رحمتہ وراہی کنہ و سلیہ تم

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ تَتَّعَىٰ إِلَىٰ حُبٍ ﴿۱۰﴾

بہ تم تلن صرف اہس مدتس تام دنیوی قایدہ۔

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۱﴾

بہہ بیلہ تم ورتہ بہہ نہ یہ کیشرا تو بہہ مہہ بہہ وول چھو (تہہ ہنہہ بچو) بہہ ہم اعمال تو بہہ پتھ کن تراوتھ آہی چھو۔ تم ہند بدلہ ہنہہ تہ کرو بچن کوشش تہہ زن تو بہہ پتھ ہم کر تہ بہہ (اہ تم چھ نصحت رٹنہ بدل اتھ حقارت کران تہ قایدہ چھہ نہ تلان)۔

وَ مَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۱۲﴾

بہہ تہندس پروردگار ہند بونشاو مشر بیس کاہنہ اہم نشاۃ ظاہر سپلان چھ۔ تم چھ تمہ ہنہہ تہ ہتھ پھیران۔

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا دَرَأَكُمْ إِلَهُ، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلَطَعْنَا مِن لَّدُنْكَ إِذْ أَطَعْنَا اللَّهَ أَطَعَمَهُ ۗ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۳﴾

بہہ بیلہ تم ورتہ بلان چھ نہ یہ کیشرا تو بہہ خداین ویت مت چھو، تمہ مشر کرو خرچ، اتی چھہ کافر مؤمن ونان نہ اسی کھیا وکھا تم، این ہرگاہ اللہ (تعالیٰ) تہہہ ہے تہ پاہ تہ ہیکہ ہیکہ کھیاوتھ؟ توہی چھو (خداہ سنہہ مرضی جلال تعلیم دتھ) ٹا کاہر گرا ہی مشر ہنہہ آہتہ۔

وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۴﴾

بہہ چھہ تم ونان نہ ہرگاہ توہی ہزبارک، چھو تیلہ وولوا اسہ نہ سہ (عذابک) وعدہ کر گتھہ پورہ؟

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً

تم چھہ صرف اہس ہنگتہ متگہ بہہ و اس غلابس

ل اتھ آیس مشر چھہ موجود زمانہ چین سوارین موٹر، ریل، اسمندس تہ ہوائی جہازن ہند ایجاد سپد بچ پتھگولی۔

تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿۱۰﴾

پیاران لیس بہمن بیتھ رطہ تہ تم آسن مجاہدن
منز آوری۔

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا آلًا عَلَيْهِمْ
يُزِجُّونَ ﴿۱۱﴾

تہ وقتہ نے تہ بہکن تم اکہ اُکس کانہہ نصیبت
کرتھ نہ بہکن تم پسنبہن شرہن ہاژن کن
واپس کرتھتھ (بہمن بکر تھتھ)۔

وَتُفِخَرُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ
إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿۱۲﴾

اد بیہ پوکس پھوکھ ونہ تہ وچھان وچھان قیرو
منز نسپرتھ واتن تم ٹوکھ تلبتھ پنہنس پروردگار
کن۔

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا إِنَّ
هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۳﴾

کہہ۔ نیکیگ (رحمان (خداین) اسمہ سبتی وعدہ کورمت
اوس تہ رسولو یہ کینترھا وونمت اوس پوزے
اوسکھ وونمت۔

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا
هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ ﴿۱۴﴾

یہ اسمہ (معتن) اکھ ہنگتھ منگر عذاب ییکس نتجیس
منز تم سر سہالم سمہ نیرتھ اسمہ بروٹھ کن پیش
کرتہ پن۔

قَالِیَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ
إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ ﴿۱۵﴾

اد تمہ وہ ہر بیہ نہ کتہ زوس پیٹھ اکھ دانی تہ
ظلم کرتہ۔ تہ توہ ہر بیہ تہند لو امالو مطابق
جزا دیو۔

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْیَوْمَ فِي شُغْلٍ
فَکْهُونَ ﴿۱۶﴾

جنتی لوکھ آسن تمہ وہ ہر اُکس اہم کامہ (یعنی
ذکر الہی لیس) منز آوری تہ (پنہی حالت وچیتھ)
آسن خوشی سبتی آسان۔

هُمْ وَأَذْوَابُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ
مُتَّكِنُونَ ﴿۱۷﴾

تم تہ تہندک سبتی باجی تہ آسن پھتھر وار
پررتھ تحت پوشن پیٹھ ڈکھو دی دکا بہتھ۔
(بیہ آسن خدایہ ہند رحمتہ کہن) ساین تل۔

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَ لَهُمْ مَاءٌ
يَدْعُونَ ﴿۱۸﴾

تہندہ خاطر پن بہمن جنتن منز مہو دستیاہ کرتہ
بیہ یہ کینترھا تم طلب کرن تہ بیہ بہمن دیو۔

سَلَامٌ تَقُولُوا مِنَ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿۱۹﴾

بیہ بیہ بہمن سلام ونہہ یوہہ پھیرک پھیرک رحم
کرن واپس پروردگار ہند طرف بہمن کن (سلامی
ہند) پیغام آسہ۔

وَامْتَا رُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿۵۰﴾

بیہ (و لا اسی پتہ نہ) اے مجرمو! ازسپردو
توہی (مؤمن بنتہ) الگ۔

الَمْ آعْهَدَ إِلَيْكُمْ بِيَنِّي أَدَمَ أَنْ
لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ﴿۵۱﴾

اے بنی آدم! کیا میں اُس ناہ توہر پیٹھ
یہ فرمہ داری ترا دہتر نہ شیطان نہ سہتر عبادت
اُسی زلو نہ کران۔ سہ چھ تہند ٹاکار دشمن

وَ أَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۵۲﴾

تہ صرف کرو میانی عبادت تہ میں چھہ سیز
وتھ۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ كِتَابًا كَثِيرًا ۖ وَ أَقَلَّمْ
تَكَوْنُوا تَعْقِلُونَ ﴿۵۳﴾

بیہ شیطان چھ سہٹھ ہے مخلوق ہلاک کرے
موتی۔ کیا توہر چھونا پہ فکر تران؟

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۵۴﴾

(و چھو!) یہ چھ جہنم، نیکیک توہر وعدہ کرتے
یوان اوس۔

رِاضِلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۵۵﴾

پسنہ کفر کہ باعثہ اُترو ازاتھ منز۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا
أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿۵۶﴾

از کرو اسی (تہند کفر کہ باعثہ) تہندین چاہن
پیٹھ مہر (یعنے کتہ کرنک ضرورت اسی نہ) تہ
تہند کہ اتھ کرن اسہ سہرتی کتھ۔ بیہ تہند کہ
کھور دن تہندین کر تواتن پیٹھ شہادت۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ
فَأَسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَلَّا يَبْصُرُونَ ﴿۵۷﴾

بیہ اگر اسی بیہرتھو تہ تہنتر اچھ کرو انہ۔ بیہ نین
تم وچھند ورا لیکھ وتھ تھان نہ نہ۔ اماہ پوز اتھ حالس
منز کتھ یا تھی ہیکن تم (پز وتھ) وچھتھ۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ
فَمَا اسْتَبَقُوا عِوَا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿۵۸﴾

بیہ اگر اسی بیہرتھو، تیند نیستین تم چھہ ہتی
کرو تہند کہ فر کھٹھ۔ پتہ نہ تہ لین تم کرن
بروٹھ گرتھتک طاقت تہ نہ لین واپس پھیرنج
وتھ۔

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا
يَعْقِلُونَ ﴿۵۹﴾

بیہ نیکی ستر دانس اسی جاہ ز ٹھراوان چھہ، سہ
چمن بدہ کن طاقتن منز تووان کران۔ کیا تمس
پچھنا فکر تران!

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۖ إِنْ
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿۶۰﴾

بیہ اسہ، بیچھنو نہ سہ (یعنے محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم) شعروئن تہ نہ اُس یہ کام تس شوبان۔
یہ قرآن تہ چھہ صرف اکھ نصیحت۔ بیہ چھہ پھیر کچھ

پرین واجیو کتاب۔ یوسو (سیتی سیتی دلائل) بیان کران چھی۔

یچھ زن نیس (دلہ کنی) زیند چھ تس کر ہتیار تو کافر بند حقہ خدیہ سند فاصلہ سپر پلور۔

کیا تم چھنا دچھان؟ زرا سے چھ تہند خٹ طر پسند خاص تو درتہ سیتی چارپاہ بناو کہ تو ادر چھ تم تہندک مالک بنے ہو۔

تہ اسے بناو کہ تم چارپاہ تہند خدمت کار۔ ادر چھ تم بہو مشر کینترن پیچھ سوار سپدان، تہ کینترن چھ تم کھوان۔

بیس چھ ہتمن نش کھو یا کھو فایدہ تھان تہ چہنگ سامانہ تہ چھ دستیاب کران۔ کیا تم چھنا شکرانہ کران؟

بیس چھ کیو لوکو اللہ (تعالیٰ) اس ورائی کہتہ بیس معبود بناوتھ تھو کہ تو دیو کنہ وقتہ (کیو معبود و ہند ذریعہ) تہند اتھ روٹ کرنہ بیس۔ تم (معبود) ہیکن تہ تہند کانہ مدد کر تھ۔ بلکہ (اتھ روٹ تہ کیتھ کرنہ) تم ساری دن پھرتھ تہنے خلاف اکہ شکر کس صورتس منز شیکھ شہادت۔ لہذا بیچھ تہ تہ تہنر کتھ دل ملول کرنے؟ اسی چھ تہ زانان یہ تم کتھ تھوان چھ بیس تہ تہ یہ تم نون کڈان چھ۔

کیا انسان چھنا ہے، زرا سے چھ سہ اکہ (ادسنے آہ) چھیر تہ پاد کورمت۔ ادر (سینل) سہ (پاد سپدان چھ تہ) وچھان وچھان چھ سہ سہت ترون گور بیچھ گتھان۔

تہ سانہ ہستی متعلق چھ کتھ بناو تہ ہوان، تہ پنڈ پیدائش چھس مشیکھ گتھان تہ ون چھ

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ ④

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِن مَّاءٍ عَمِلَتْ أَيْدِيئِنَّا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ⑤

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ⑥

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ⑦

وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ⑧

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ ⑨

فَلَا يَخْذُوكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ ⑩

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ⑪

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُخَيُّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ⑫

ہوان زینیلہ اُڑی جہ دودرن تہ بہن کس
سنا کر زینہ؟

تہ ون ز تہن اُڑی جہن کر سہ زینہ سیمو
ہم گوہو لہ پاد کر مہتر آسہ تہ سہ چھ
پر ہتھ مخلوقہ جہہ حالتہ نیشہ زہر پانگو خبر وار۔
سہ (خدا) سیمو تہندہ خاطر سہر کلہو منہر نار پاد
کوزمت چھ ، اہو چھو توہی تہہ کہ ذریعہ نار
زالانہ۔

کیا سیمو آسمان تہ زمین پاد کر سہ چھ، سہ چھنا
اتھ کتھ پتھ قادر ز بہن ہندہ ہوی بیہ مخلوق
تہ کر پاد؟ سیمو خیال (زہر سہ ہیکر تہ
پاد کر تھ) چھتہ صبح۔ بلکہ سہ چھ سبھا پاد
کرن وول (تہ سبھا زان وول)۔
تہندہ سابلہ چھہ سیمو کئی زینیلہ کتہہ وز سہ یہ اراد
کران چھہ ز فلانی چیز سپان سہ چھہ تہہ کہ حقہ
وان ز ہتھ پانگو سپان تہ تہ چھہ تھ پانگو
سپان۔

لہذا پاک چھہ سہ سیمو سہر پور پور قبضہ تل
پر ہتھ چیز جہ بادشاہت چھتہ بیہ سیمو کئی توہر
ساری چھہ تہہ بیہ۔


قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ①

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا آنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ②

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلٰى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ③

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ④

فَسُبْحٰنَ الَّذِي يَبْدِءُ مَلَكُوتَهُ كُلِّ نَهْيٍ وَأَرْسَالِهِ تُرْجَعُونَ ⑤



سورة صافات : یہ سوزہ چھہ کئی تہ اسم اللہ ہتھ چھہ اتھ اللہ تہہ تریشیتہ آہہ جہس پانہہ کوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ① (بہر چھس) اللہ (تعالیٰ) سہناو ہتھہ (پران)
یس حدہ رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرہ پھیرہ
رحم کرن وول چھہ۔

لہ یعنی زالہ خاطر چھہ زین کلہن نیشہ حاصل سپان۔

وَالضَّفَّتْ صَفًّا ①

شہادت پڑھا پڑھی چھس (ہر) پیش کران تم وجود ہم
(مدقتہ کہن دشمنن بروٹھ کہن) صف گندری
گندری استاد چھیلہ۔

فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ①

ہم بچھ کار کران والہن نہیبہ کران چھ۔

فَالثَّلِيثِ ذِكْرًا ①

بہ ذکر الہی (یعنی قرآن کریم) پڑی پڑی
بوز ناوان چھ۔

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ①

یقیناً چھ تہند معبود کئے معبود۔

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَرَبِّ الْمَشَارِقِ ①

آسمان ہند تہ چھ پروردگار تہ زمینک تہ ،
بہ کینترھا یمن دولونی مژباگ چھ تمیک تہ
بہ چھ یمن سارہے ہاین ہند تہ پروردگار کو
نشہ نو پھولان چھ۔

إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ
يَا لَكُورِيبٌ ①

اسر چھ یور کئے کس آسمانن تارکو سستی پارا کو کومت۔

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ①

بہ چھ اسر یہ پرتھ بچھ چھرس شیطانن نش
رترھرتھ تھومت۔

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَدِّفُونَ
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ①

تم (بچھ پھری شیطان) چھتہ ہنرک یمن زور
آور ہستین ہنرکتہ بوزان تہ پرتھ طرفہ
چھ تم (دور دی دی) دور یوان کرنہ۔

دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ ①

تہ تہند خاطر چھ اکھ ہمیشک عذاب۔

إِلَّا مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ
تَأْقِبٌ ①

اماہ پوز تمو مژبیس نفر شرارتہ سستی کانہہ
کتھ تھیبہ نتھ تزلہ، تس چھ اکھ شہاب
تتاقتہ پتہ لارن۔

فَاسْتَفْتَيْهِمْ آهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَن

او کئی پرتھ تر یمن تر پیدا پتہ ہند لحاظ چھا

لہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یو پرتھ رنگ جہاد کر تھ اسلامج مخالفت کر۔

لہ۔ یعنی لایک کرام

سہ امیک لفظی معنی چھ چکن واجسند ناہ برینہ۔ مگر عام دینی مژ چھ ذلہ

مگر تھ وہن تارکن ونان۔ مراد چھ تم خدای عالم یم قرآن کریمس پیٹھ اعتراض

کرن والہن جواب دتھ لاجواب کران چھ۔

خَلَقْنَا إِيَّانَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ
تَلَازِي ⑩

تم پاؤ کر کے جا دے مشیل کہہ (کائنات تک نظام)
میں اسے بنوشت چھ؟ اسے چھ تم اسے لڑتے
گڑھونہ میٹر بناؤ کہتے۔

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ⑪

بلکہ پرز چھ یہ نہ تڑ چھکھ (تہنزن کتھن پٹھ)
تعب کران تہ تم چھ (چانہ کتھ) دوسرے پایہ زمانان۔
بہ نیلہ تم نصیحت کرنہ یوان چھ تہ تم چھتہ
نصیحت زمان۔

وَإِذَا دُكِرُوا لَا يَدْكُرُونَ ⑫

بہ نیلہ تم کانہ نشانہ وچھان چھ اتی چھتہ مانہ
کران۔

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ⑬

بہ چھ زمان نہ یہ تہ چھ اھ لاکار چھند۔

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑭

کیا سنا نیلہ اسی مرو تہ اکر سپدو میٹر تہ
اڑو جہ تو پتہ تہ کیوا اسی تھتہ استاد کر تہ؟
سانی برو تھم جد اجلا تہ بنا (یتھے پاٹھی زندہ
کر تہ)؟

عَ إِذَا مِثْنًا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظْمًا مَّا ءِإِنَّا
لَمَبْعُوثُونَ ⑮

تڑ ون، او، او! بلکہ توہی گڑھو ذیل۔
سو گڑھو ہر اھ نہیبہ (ہو یوتھے سہ
نہیبہ سید) تم بن (زندہ گڑھو) وچھن۔

أَوْ أَبَاؤُنَا أَلَّا نَكُونُ ⑯

بہ ون، ہے انوس اسہ پٹھ! یوہے ہے
چھ جزبک تہ سزبک دہ۔

قُلْ تَعْمَ وَانْتُمْ دَاخِرُونَ ⑰

فَاتَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَّأَحَدَةٌ فَإِذَا هُمْ
يَنْظُرُونَ ⑱

(تہ خدایہ ہند طرف بہ آواز) یہ چھسہ فاصلک
دہہ میٹیک توہی اکار کران اکر۔

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ⑲

هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِمِ
تُكذِّبُونَ ⑳

(اُسی ونو ملائکین ز) تم تہ کر لاکھ زندہ کر تہ استاد۔
پو علم کوربت اوس تہ تہندو سہو باج تہ بہ
تم تہ یمن ہنر تم عبادت کران اکر۔

أُحْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ وَادَّجَاهُمْ وَمَا
كَانُوا يَعْبُدُونَ ㉑

اللہ (تعالے) ہس دوائی پتہ ربو کہ تم ساری
جہنم چہ و تہ کن۔

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ
الْحَجِيمِ ㉒

پتہ کر لاکھ یلم (توت تام تھتہ) استاد۔ تہ کیا ز
تہ یمن یمن کیہ سوال پڑھنہ۔

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْغُولُونَ ㉓

مَا كُفِّرَ لَا تَنَاصَرُونَ ⑤

(تو لیکن پیسہ پر ترسہ، تو ہم کیا چھو گومت بہتر
تو ہی چھو نہ کہہ اگر سنا اتھ روٹ کران؟
پنر چھ یہ نہ (اتھ روٹ کرن تو روڈ الگ) تم
تراوان اسر دوہہ ساری ہتھیار۔
تہ تمہو منہز کر کہہ دور نہیں سیدی بخت۔

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ⑥

وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
يَتَسَاءَلُونَ ⑦

(تو) تس کن رویہ سخن کر تھ وہ نہ تو ہی اسی و
دوہے اسر دھینہ لکھنہ یوان۔
(تہند کر گمانی معبود) وزن (جواہر مشر) بیٹھ
کئی نہ۔ پنر چھ یہ نہ توہہ اوسو نہ پانہ اپسان
(یعنی ایمانی قوت)۔

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ
الْيَمِينِ ⑧

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ⑨

بہ اسر اوس نہ توہہ پیٹھ کانہہ پوٹن پاس
حاصل۔ بلکہ تو ہی اسی و کہہ جھو پیٹھ قوم۔
او مہو کہہ از گے اسر ساری نے متعلق س اس
پروردگار ہنر کتھ پور نہ اسی چھ (غذاب) نہین
و ا ل۔

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ
كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِينَ ⑩

فَحَقِّقْ عَلَيْنَا قَوْلَ رَبِّنَا ۗ إِنَّآ
لَكَ شٰقُونَ ⑪

بہ (چھ) پور نہ (اسی اسی و تو ہی و تہ
ڈال ہوتی۔ تہ کیا نہ اسی اسی پانہ تہ و تہ ڈال ہوتی۔
او کئی (امیک) نتیجہ آسہ یہ نہ (تہ) دوہہ آسن
تم ساری غدایس مشر شریک۔
اسی چھ مجرم ہتھیار کران روزان۔
تیلہ گنہ وز جن پہ وہنہ یوان اوس نہ اللہ (تعالیٰ)
ہس و راہی چھنہ کانہہ معبود، او تم اسی سکر
کران۔

فَاَعْوَبْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِبِينَ ⑫

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ⑬

اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ⑭

اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ ۙ يَشْتَكِبُوْنَ ⑮

بہ اسی و نان گترہان کیا اسی تراو دکھا پنہ معبود
اگس شاعر تہ دیوانہ ہندس و تنس پیٹھ بہ
پنر چھ یہ نہ سہ (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم) چھ پور پور ہنر ہتھیار آمت تہ ساری

وَيَقُولُوْنَ اٰنَا نَعْبُدُكَ وَاٰلِهَتِنَا اِشْرٰعٍ
مَّجْنُوْنَ ⑯

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ⑰

لہ کھوور اند چھ دنیا تہ دھین اند چھ مطلب مذہب یعنی مذہبی لباد لگتھ اسی و اسر کن یوان۔

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿۳۵﴾

نے بروٹھ میں رسولوں چھ پڑیاری ٹھہراوان۔
(اے منکرو!) تو ہی چھو یقیناً کروٹھ عذاب
تڑپن والی۔

وَمَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۶﴾

بیہ یہ کینڑھا تو ہی کران اسی و اہمی مطابق پوئسزل۔
وہ ڈگوویم اللہ (تعالیٰ) ہندک تڑارک ہنری بندہ
چھ (ہمن میلہ نہ کروٹھ عذاب)۔

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۳۷﴾

(بلکہ) ہمن میلہ سے ریزق ینیک حل معلوم چھ۔
(یعنی) ہوبکہ رنگہ بیہ بیہ ہمن عزت کرنہ۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّغْلُومٌ ﴿۳۸﴾

قَوَاصِحُهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿۳۹﴾

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿۴۰﴾

نغمز والہن باغن مشر۔

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿۴۱﴾

تم ہمن چھتر پارانول تخت پوٹن پٹھ رو برو
(ناگہ) آہ بڑی بڑی کلاس ہن ہمن پیش کرنہ۔

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿۴۲﴾

بِضُرَّاءٍ لَّدَىٰ لِلشَّرْبِ هِينٍ ﴿۴۳﴾

ہم سفید شہن آسن بیہ آسن چہنہ والہن ہندہ
خاطر لذید۔

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿۴۴﴾

تے تہ کر تہ سوتی کلہ دود تہ نہ راواروان تم
تہ سوتی بقل۔

وَإِذَا هُمْ قَصِرَتْ الظُّرُفُ عَيْنٌ ﴿۴۵﴾

بیہ آسن ہمن ہنش و نیچہ و نیچہ اچھ واجتہ (تہ)
ہوان کن نظر تھون واجتہ زانہ۔

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُودٌ ﴿۴۶﴾

زننہ تم پھیر ہنگی مھول آسن
پتہ کرن تمو منڑ کینہ کینڑن کن سوال کرنہ
خاطر توجہ۔

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۴۷﴾

تہ تمو منڑ وہ اکھ نغراہ میہ اوس اکھ سوتی
بوج آسان۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿۴۸﴾

سہ اوس ونان ڈ کیا تہ تہ چھکا (حشر تہ
نشر) مانن والہو مشر؟

يَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿۴۹﴾

دہ آریہ کتہ چھیتہ تہ ون نہ کیا ہ نیلہ اسی
مروتہ میشر تہ اڑی جہر گشھو تہ اسر ہسیا

إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ۚ إِنَّا

لَمَدِينُونَ ﴿۵۰﴾

ہ یعنی ہنہن ہن انمان ہند جزا تہ کیا نہ مپل چھ عملہ ہندس جز ہس ونان۔

ہ یعنی ہنہن ہن انمان ہند جزا تہ کیا نہ مپل چھ عملہ ہندس جز ہس ونان۔

- ساتھیں اعمال ہند بدلہ دینے؟
اتھ پیٹھ ورنہ سہ (مؤمن شخصوں) توہ پر مفر
چھا کاٹھہ تہتہ یس نظرہا ورتھ وچھہ نہ تہند
حال کیا چھہ؟
- پتہ کر سہ پاتے حال معلوم کر ریخ کویشش
اد وچھہ سہ پننس دنیاوی سہی با جس جہنمس
مفر ہینومت۔
- پتہ ورنہ نس۔ خدایہ سنہ درسے! تہ ہے لچوھ
مینہ ہلک کرہ۔
- یہ ہرگاہ میانس پروردگار ہند فضل آسہ ما نہ
تہ پتہ آسہ ما از جہنمس بروٹھ کتہ جائز کر نہ
آمتو مفر۔
- (اسے جہنمی!) وہ فی وان تہ (نہ) کیا سانہ خاطر
چھنا سہ کاٹھہ موت۔
- گہ ڈیکر موتہ وراہی؟ تہ اسہ یہ ناکاٹھہ عذاب دینہ۔
- یہ (مؤمنہ سنہر حالت) چھید بے تنک بڑا سیابی۔
تہ عمل کرن والہن پیر یوہ ہے مقم حاصل کر ریخ
کویشش کرنی۔
- یہ مہمان ڈاری چھا بہتر کہہ زقوم
کل۔
- اسہ چھہ سہ ظاہن ہند خاطر اگر آزمائشہ ہند ڈریہ
ہومت۔
- سہ چھہ اکھ تہتہ کل یس جہنہ کس تہ کس تہل
وہ پلان چھہ۔
- تیک ہجو چھہ تہتہ آسان میتہ سرفن ہندی کلہ۔
- قَالَ هَلْ آتَيْتُمْ مُطْلِعُونَ ﴿۵۱﴾
- فَاطَّلَعَ فَرَاةً فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿۵۲﴾
- قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كُنْتَ لَتَزِدَّيْنِ ﴿۵۳﴾
- وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ ﴿۵۴﴾
- اَفَمَا تَحْنُ بِمَعْتَبِرٍ ﴿۵۵﴾
- اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاَوَّلٰى وَ مَا تَحْنُ
بِمُعْتَبِرٍ ﴿۵۶﴾
- اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۵۷﴾
- لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿۵۸﴾
- اَذٰلِكَ خَيْرٌ تُزَلُّ اَمْ شَجَرَةٌ الزَّقٰوْمِ ﴿۵۹﴾
- اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظٰلِمِيْنَ ﴿۶۰﴾
- اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿۶۱﴾
- طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِءُوسُ الشَّيْطٰنِ ﴿۶۲﴾

۱۔ اکھ زہر وول کنڈی دار وبل کل و پھہ سہہ وہ دچھہ نیران تہ یس دوسر تہ چھہ لگان۔
اردو زبان مفر چھہ اتھ تھوہر ونان تہ انگریزی زبان مفر چھہ CACTUS ونان۔

- قَاتَهُمْ لَاجِلُونَ مِنْهَا فَمَآ يَشُورُونَ مِنْهَا
الْبُطُونَ ﴿۱۱﴾
- ۱۱۔ اوجھوں کے لیے تم اس کے لیے جو تم سے اس سے برتر ہیں۔
- ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿۱۲﴾
- ۱۲۔ پھر اس کے لیے اس کے لیے تھوڑا سا گرم پانی۔
- ثُمَّ إِنَّ مَرَجَهُمْ لِآلِ الْجَحِيمِ ﴿۱۳﴾
- ۱۳۔ پھر ان کے لیے جہنم کے لوگوں کے لیے۔
- إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿۱۴﴾
- ۱۴۔ انہوں نے اپنے باپوں کو گمراہی سے پائی۔
- فَهُمْ عَلَىٰ آثِرِهِمْ بِهَرَعُونَ ﴿۱۵﴾
- ۱۵۔ انہوں نے اپنے پیروں کے پتوں پر دوڑ رہے ہیں۔
- وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَدْلِيَّةِ ﴿۱۶﴾
- ۱۶۔ اور ان سے پہلے ان کے لیے بہت سے گمراہی تھیں۔
- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنذِرِينَ ﴿۱۷﴾
- ۱۷۔ اور ان کے لیے ہم نے بھیجے تھے۔
- فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ﴿۱۸﴾
- ۱۸۔ اور دیکھو کہ ان کے لیے کیا سزا تھی۔
- إِنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۹﴾
- ۱۹۔ ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں۔
- وَلَقَدْ نَادَيْنَا نَوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿۲۰﴾
- ۲۰۔ اور ہم نے نوحؑ کو پکارا تو ان کے لیے کیا جواب تھا۔
- وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۲۱﴾
- ۲۱۔ اور ہم نے نوحؑ اور ان کے گھرانے کو بڑے خطرے سے نجات دلائی۔
- وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿۲۲﴾
- ۲۲۔ اور ہم نے ان کے لیے ذریت بنائی۔
- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۲۳﴾
- ۲۳۔ اور ہم نے ان کے لیے آخر میں چھوڑ دیا۔
- سَلِّمْ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعُلَمِيَّةِ ﴿۲۴﴾
- ۲۴۔ نوحؑ پر سلامتی ہو۔
- إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۵﴾
- ۲۵۔ اور ہم اس طرح ہی نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔
- إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۶﴾
- ۲۶۔ اور وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔
- ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿۲۷﴾
- ۲۷۔ پھر ہم نے دوسرے کو ڈبوایا۔
- وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَأَكْثَرَ الْفَاسِقِينَ ﴿۲۸﴾
- ۲۸۔ اور ان کے پیروں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۲۹﴾
- ۲۹۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۵۱﴾

بیلبرسہ پسنس پروردگارس بروٹھ کن اکھ تبتہ
دل بہتہ آیاویس (پرستہ تہسہ کہ کفر تہ شکر تہسہ)
پاک اوس۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿۵۲﴾

تہ تمہ وتہہ پیرتھادو تمہ پسنس ماس تہ تہ پسنس
توس تہ نہ توہی کہ چیزچ عبادت چھو کران؟
کیا اپڑیج ہا؟ یعنی اللہ (تعالیٰ) ہس ورائی
بہ معبود چھو وکھا بہ شہان؟

أَفَمَا لِلَّهِ دُونُ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿۵۳﴾

بہر حال وٹو رب العالمینس نسبت تہند کیا خیال چھ؟
پتہ وچہ تمہ تمارکن کن۔

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۴﴾

تہ وونن نہ بہ چھس بیمارگتھن دول۔

فَنظَرْنَا نَظْرًا فِي النُّجُومِ ﴿۵۵﴾

اتی گے ہم لوکھ تس تراوتھ۔

فَقَالَ رَبِّي سَفِيهُمُ ﴿۵۶﴾

تہ تہ گود تھوہ پدپ کرتھ تہندن معبودن کن۔
تہ ہم وچتھ وونن۔ کیا توہی چھو ناکیہ تہ کھوان؟
توہہ کیا گود و نہ توہی چھو تہ کتھ تہ کران؟

فَتَوَلَّوْا كُنْهَ مُدْبِرِينَ ﴿۵۷﴾

پتہ لوین (تھوہ پدپ کرتھ) پسنہ وچہ اتھ سترتھن
پتھ اکھ کارگردب۔

فَدَاغَ إِلَىٰ آلِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿۵۸﴾

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿۵۹﴾

فَدَاغَ عَلَيْهِمْ صَدَبًا بِالْيَمِينِ ﴿۶۰﴾

بیلبر لوکن خبر گئے تہ ہم آہہ نس کن دولن دولن۔

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿۶۱﴾

تمہ (ابراہیم) وون (ہمن) کیا توہی چھوا
پسنہ اتھ گری متہن (پتھن) ہنر پوزا کران؟
حالاکہ اللہ (تعالیٰ) ہنے چھو توہی تہ یاد کرکرتھ
تہ تہنتر عملو تہ۔

قَالَ آتَعْبُدُونَ مَا تَخْتَلَتُونَ ﴿۶۲﴾

تہو سارو وہے (لکو) وون نہ اوس اندر اندر
کرو اکھ دوس استا (تہ نتھ اندر تراو نار)
پتہ تراولون پتھ و ہولس نارس مشن۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۶۳﴾

بہہ یوتھ تھو تس سترتھ اکھ تھل تھ کران۔ مگر

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْفُوا فِي

الْجَحِيمِ ﴿۶۴﴾

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ

لہ یعنی تہندبو زاکھو مطابق پڑمیہ بیمار سپدن۔

تھ کتھ "بہ لفظ بیلبر خدا تعالیٰ سندر تھوہ بہ تہ امیک معنی چھہ معنی "تدبیر" آسان
تہ مگر انسانہ سندر تھوہ بہ تہ امیک معنی چھہ چھالکی اترھل بیتہ آسان۔

الْأَسْفَلِينَ ⑩

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ⑪

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ⑫

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ⑬

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي رَجُلًا
أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُكَ فَانظُرْ مَاذَا
تَرَىٰ ۖ قَالَ يَا بَتِ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تَأْمُرُ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑭

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ⑮

وَتَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهَيْمُ ⑯

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ⑰

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ⑱

وَقَدَّيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ⑲

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ⑳

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ㉑

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ㉒

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ㉓

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ㉔

اسیر کر کے تم بیٹے رسوا۔

تو ابراہیم وون بہ گڑھ پینس پروردگار کن
سہ ہومیہ ضرور کامیابی ہنر و تھ۔

(بہ وون) اسے میانہ پروردگار! میہ کر تہ
صالح اولاد عطا۔

اد وڈ اسہ تس اگس برد بار نیچوڈ ہنر خوشخبر

پتہ نیلہ سہ لکر تس سہو ڈوڑھ کپنس لایق گوڈ تہ

تو وونس، اسے میانہ گوہر! میہ چھکھ تہ خاس
منز و پھمت ز (زنتہ) چھسے بہ تریہ کش کران۔

لہذا تہ کر فاصلہ زاتھ منز کیا چیلہ چانی راسے؟

(اسہ وقتہ) وون تھو (یعنی) نیچوڈ اسے میانہ بہ! یہ

تریہ خدا ونان چھے تی کر، انشاء اللہ تہ بکھ میہ

پینس ایمانس پیٹھ قائم روزن دول۔

پتہ یلہ تم دہ لوسے (مال پوتھہ) فرمانہ واری پیٹھ تیار

کے تہ تھو (یعنی مال) پوسہ (یعنی رضا بندی

ماون دول نیچوڈ) ڈیکر وڈر۔

تہ اسہ کور تس آلو تہ وونس، اسے ابراہیم!

تریہ کوڑتھ پنن غاب پلہ، اُسو چھہ یتھے پٹھو

پینسین احسان کرن ولہن بدلہ دوان روزان۔

بے شک اوس یہ اکھ ٹاکاہ امتحان۔

تہ اسہ بیت اوسند (یعنی اسماعیل سند) بدیہ اکھ

بجہ قربانی ہندس رنگس منز۔

تہ پتہ بیہ ولہن قومن منز تھو تھو بندہ حقہ رت

ذکر باتے۔

ابراہیمس پیٹھ روزن سلامتی تازل سپدان۔

اُسو چھہ احسان کرن ولہن یتھے پٹھو بدلہ دوان۔

سہ اوس بے شک ساتھ مؤمن بندو منز۔

بہ اُس اسہ تس اسماعیل متعلق بہ خبر ڈر ہنر۔ یس

نبی اوس تہ صالح لاکو منز اوس۔

وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَ عَلَّ إِسْحَاقَ ، وَ مِنْ
ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
مُؤْتِنٌ ﴿۱۶۹﴾

بیر کر اسے تمس (یعنی ابراہیمس) پیٹہ تہ اسماعلس
پیٹہ برکٹہ نازل تہ، تہندو اولادہ منتر تہ اُس
کیٹہ نوکھ پڑو فرما نبرد تہ کیٹہ اُسی پستہن زون
پیٹہ تہ وانہ ظلم کرن واول۔

وَ لَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ ﴿۱۷۰﴾

بیر اوس اسے موسیٰ ہس تہ ہارونس پیٹہ تہ احسان
کورمت۔

وَ نَجَّيْنَهُمَا وَ قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيمِ ﴿۱۷۱﴾

بیر اوس اسے بہنن دو زونی تہ تہندس قومس اکہ بڑ
عمر تہ بارہشہ نجات دیت مت۔

وَ نَصَّرْنَاهُمْ فَاكْفَرُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۱۷۲﴾

بیر دیت اسے بہنن سارکہ نے مدد یتیمک فقیر پہ
دراو نہ تم گئے غالب۔

وَ اتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۷۳﴾

بیر دتر اسے بہنن اکہ کابل کتاب یوہہ ساری حکم
واش کڈی کڈی بیان کران اُس۔

وَ هَدَيْنَهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۷۴﴾

بیر اُس اسے بہنن دو زونی شیخ و تہ ہاو میرتہ۔

وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْيَارِ ﴿۱۷۵﴾

تہ بیڑ والہن قومن منتر اوس اسے تہند حقہ رت
رت چھکاون (پتھ کن) ترورمت۔

سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ ﴿۱۷۶﴾

موسیٰ ہس تہ ہارونس پیٹہ روزن ہمیشہ سلامتی سپان۔
اُسو چہر پتھہ پانٹھ احسان کرن والہن بدلہ دوان۔

وَ اِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۷۷﴾

تم دو نوے اُسو سڈی مؤمن بند۔

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۷۸﴾

بیر الیاس اوس بے شک رسول منتر۔
(ترتس یاوو) نیلہ توہ سپنس قومس و نیاو۔ کیا
توہی چھو نا تقویٰ کران؟

اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَ تَذَرُونَ اٰحْسَنَ
الْبٰحِلِيْنَ ﴿۱۷۹﴾

کیا توہی چھو انہن پوتلس (دیوتا نانہ) آلو کران؟
تہ یس بہترین پیدائش کرن دول چھ (یعنی اللہ
تعالے) سہ چھوون تراوان۔

اِنَّ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اٰبَائِكُمُ الْاَدْلِيْنَ ﴿۱۸۰﴾

یس تہند تہ پروردگار چھ تہ تہند بہنن برنومہ ہن
جہن اجدادن ہند تہ پروردگار چھ۔

فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۱۸۱﴾

(پہ ہونہ) تہندو قومن اچر دو سہ لہذا تم بہن
غدا بہ خاطر پیش کرنہ۔

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِيْنَ ﴿۱۸۲﴾

اللہ (تعالے) ہندو مخلص بندو واری۔ (ز بہنن

- سوتی پیہ نہ یہ ورتا کر نہ)۔
- بہ تروو اسہ تہند (یعنی الیاس ہند) حقہ پتہ
بینہ والہن قومن منزرت رت مچکاون (پتہ کمن)۔
الیاسہنن پتہ روزن ہمیشہ ہمیش سلا متی سپدن۔
اُسی چہ پتہ پانچو احسان کرن والہن جزا دولن۔
روزان۔
- سہ (یعنی گھڈنیک الیاس) اوس سانہو مؤمن بندو
منز۔
بہ لوط تہ اوس بے شک رسؤلواندہ۔
(یاد پاوو سہ وقت) سیلہ زن اسہ تس تہ تہنہن
مان والہن تہ نجات وژاو۔
اُکس بجر زنا نہ وراہی یوسہ پتہ روزن والہو
منز اُس۔
پتہ کمری اسہ شتمہ ساری تباہ۔
بہ (اسے مکہ والیو!) توہی جھو تہو (تہنہنڑو لیتو)
بکنہ کنہ صبحس نیران۔
تہ کتہ رات کیت تہ کیا پتہ تہ جھونا توہی
عقلہ کام ہوالہ؛
بہ یونس تہ اوس بے شک رسؤلواندہ۔
(یاد پاوو) سیلہ سہ تہلہ اُکس تہنہ ناو کمن گیاو
یوسہ (مسافر و سوتی) پُر سپدن واجز اُس۔
(تہ طوفان وُلڈ تہ تہ سارنہ ہند آس پھینک
- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۳۷﴾
- سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِذْ يَبْنِيهِ ﴿۳۸﴾
- إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۹﴾
- إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۰﴾
- وَرَأَىٰ لُوطًا لِّمَنِ الْمُسْلِمِينَ ﴿۴۱﴾
- إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۴۲﴾
- إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿۴۳﴾
- ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِبِينَ ﴿۴۴﴾
- وَأَنزَلْنَا لَكُمْ لَعْنَةً لِّعْمَالِكُمْ الْمُنكَرِينَ ﴿۴۵﴾
- وَبِالنَّبِيِّ إِذْ أَقْبَلَ تَنقَلِبُونَ ﴿۴۶﴾
- وَرَأَىٰ يُونسَ لِمَنِ الْمُسْلِمِينَ ﴿۴۷﴾
- إِذْ أَتَىٰ إِلَى الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ ﴿۴۸﴾
- فَسَاءَ لَهُمُ الْمُذْحَضِينَ ﴿۴۹﴾

لہ الیاسن چہ الیاسک جمع تہ الیاس ناوک چہ تریہ بزرگ گزرے متی۔ اگہ الیاس گود
سہ لیس حضرت موسیٰ علیہ السلام بروٹھ گڈریوت اوس۔ بیاگہ الیاس چہ حضرت یحییٰ علیہ السلام
تہ تریہم الیاس چہ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میہنتر قبر بالاکوٹ ضلع ہزارہ
پاکستانس منز واقع چھینہ۔

لہ سیلہ بہ والہن ہندو نا فلہ شام کن گڑھان اُسی تہ و تہ اسہ لوط علیہ السلام ہند تو مچہ تباہ تہ
فاران بستہیہ یوان۔

گوؤ خطہر پاپو (اڊ تراو، تمو (باجے سارک ہنے
سواربن سستی رلقتہ) چپیر تہ (تہ کینا ز چپیر پو منز درلو
تسند ناو) سہ سپدیو (چپیر پو کین) دریاوس منز دارکتہ
دلس لایق لوکو منزیر -

قَالَ تَقَمُّهُ الْحَوْتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ ﴿۶۶﴾
یہتہ پٹہ سہ اکر بچہ گاڑ ہنگلوو ییلیر زن سہ سینس
پانس ملامت کران اوس -

قُلُوْا لَا اَتَّهَ كَانَ مِنَ الْمَسِيْحِيْنَ ﴿۶۷﴾
تہ اکر سہ تسبح کران واہو منز آسہ ہے نہ -

لَكَيْتَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ﴿۶۸﴾
تیلیر روز ہے سہ تس گاڑ ہنزریڈ منز تہما متہ کس
دوہس تام پتہ (یعنی سرے) -

قَنَبْنُهُ بِالْحَرَاءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ ﴿۶۹﴾
پتہ دیت اسہ سہ اکر کھلہ مادانس منز دارکتہ -
اٹھ حاس منز ز سہ اوس بیار -

وَ اَنْبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّفْطِيْنِ ﴿۷۰﴾
یہ وہ پدو اسہ تس لہ اکر الہ کل -

وَ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿۷۱﴾
یہ اسہ سوز سہ اکر لچہ کھوتہ ہنا جادے انسان
کن رسول بناوتہ -

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَىٰ حِيْنٍ ﴿۷۲﴾
اڊ، تمو سارک وہے اؤن ایمان تہ اسہ واتاؤدی تہن
یز کال تام دنیاوی فایدہ -

فَاَسْتَفْتِيَهُمُ الرِّبِّيُّكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ
الْبَنُوْنَ ﴿۷۳﴾
اڊ، کون پر شہ تر تہن زہ کیا چانس پروردگار س چھا
کوب تہ تہن چہ نیچوکی ؟

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَ هُمْ
شٰكُوْنَ ﴿۷۴﴾
کیا اسہ کڑیا ملائکہ زنان ہنز شکلہ منز پاپو تہ تہن
چھا تہ ہنز پیدایشہ ہندک گواہ ؟

اَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اٰفِكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿۷۵﴾
ممن دارکتہ بوزو ! تہ چہ پستہ دلہ کہ دایر اومہ اپز
مطابق یہ کہتہ کران -

وَلَعَلَّ اللّٰهَ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۷۶﴾
ز اللہ (تعالیٰ) ہس تہ چہ اولاد - اپانوز تہ چہ
سے اپز یارک -

اَضْطَقَ الْبَنَاتِ عَلٰى الْبَنِيْنَ ﴿۷۷﴾
کیا تہ چھا نیچوکی تراوتہ کوب تزاری مشہر ؟
تہ ہر کیا گوؤو - تہ توہی چہو تہو بے وقتونی ہندک
فامیلہ کران ؟

لہ یعنی گاڑ ہندس دس مفز کڑ اسہ تحریک و رسہ کر قسمی یا نہ تہ یونس علیہ السلامس دیہ
مادانس منز دارکتہ -

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾

کیا توہم چھوٹا فکر نہ کرنا؟

أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ ﴿۳۲﴾

کیا توہم ہر بات چھا کاٹنے کا ٹھکانہ رکھو؟

فَاتُوا بِكُتُبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۳﴾

ہر گاہ توہم پڑھنا چھو سید اُن تو پڑھو سو کتاب تیرے
منزلیہ لیکھتے چھ،

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا ۚ

بیہ یکم لاکھ چھ تیس (یعنی خدایس) تہ جن دریاں

لَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۳۴﴾

آشناوی تجویز کران۔ حالانکہ بین تاؤک حقدار

تو مل چھ زہر پائٹھ زانان۔ تر (سہ تہ اگر دہش

پٹھ تاؤیم آسہ تہ) تہ تہ پیہ نہاؤچ حالتھ

ہونہ۔

مُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۳۵﴾

اللہ (تعالیٰ) چھ تہنہرو بیان کر مشرو کتھو لہتہ

پاک (یعنی ملائک چھنو کور بک۔ ہم چھ عبادت

کران وائل بندہ)۔

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۳۶﴾

اللہ (تعالیٰ) بندہو خلوصہ والہو بندہ سو آئی (تہ

تر ہم چھنہ پٹھ کئی کران)۔

اڈ (بوزتھ تھوو) توہی تہ تہنہر عبادت توہی

کران چھو۔

فَاتِكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿۳۷﴾

ہنکیؤ تہ خدایس خلاف کاٹھہ ڈالتھ۔

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِينَ ﴿۳۸﴾

تہ تہہمتس وراؤی یس جہنہس منز (پانے) اثران

وول چھ۔

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿۳۹﴾

بیہ اسہ ساری تہ ہند خاطر چھ اکھ مقرر کر تہ

آمت مقام۔

بیہ اسی ساری چھ خدایس برو تھہ کتہ صف گنڈتھ

استاد۔

وَمَا مَثَلًا لَّآلِهِمْ مَقَامَ مَعْلُومٍ ﴿۴۰﴾

بیہ اسی ساری چھ تسبیح کران وائل۔

بیہ کتہ وراؤی یکم لاکھ (یعنی کبہ وائل) ومان۔

دہر گاہ برو تھہر من لوکن ہند کر رسول ہو کر اسہ

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّادِقُونَ ﴿۴۱﴾

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿۴۲﴾


وَإِنْ كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۴۳﴾

لَوْ أَنَّ وَعِدْنَا كُرْآنًا لِآلِ ذُرِّيَّتِنَ ﴿۴۴﴾

لہ یعنی بڑی مہنہری تہ پھاری لاکھ۔

تہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ تہنہر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔

- نیش تہ پیسہ ہین ۔
 تیلہ اُسو تہ بنہ ہو اللہ (تعالیٰ) ہندی مخلص بندہ۔
 لہذا ہتو کور اللہ (تعالیٰ) ہس انکار تہ تمن شہر
 جلدیہ پین انجام فکر ۔
 بیہ سانہن بندن (یعنی رسولن) بندہ خاطر
 چھہ سون نا صلہ برو نکلے دہہ آمت ۔
 (یس یہ چھہ) زہ تمن پیہ مدد کرنہ ۔
 تہ سون شکرے (یعنی مؤمنن ہندے دور)
 روزہ غالب ۔
 لہذا تہ پھر کیشہ کالہ خاطر تہندہ کنہ بھہ ۔
 بیہ روز کھہ تہم زہر پاشو وچھان ہم تہ وچھین
 (پین انجام) کپے کالہ ۔
 کیا ییم لاکھ چھا سون عذاب اول و اول بیڑھان؟
 ادنیلہ سہ (عذاب) تہندہن آنگنن مشر تازیل سپد
 تہ سہ قوم نیس کن ہشیر کن ول (رسول)
 سوزنہ آمت چھہ تہندہ صبح آسہ سبھا افنوسنگ ۔
 اُسو چھہ بیہ زمان زہ تمن نیش پھر و کیشہ کالہ
 خاطر بھہ ۔
 تہ تہندہ حال روزو وچھان تہ ہم تہ وچھین یقینا
 (پین انجام) ۔
 چون پرور و کار یس سارکے نے بجرن ہندہ ما بک
 چھہ ، چھہ تہنترو بیان کرک مشر و کتھو نشہ پاک ۔
 بیہ روز رسولن پدہ ہمیشہ سلامتی تازیل سپان ۔
 بیہ ساری تعریف چھہ اللہ (تعالیٰ) ہندی یس
 سارکے نے عالمن ہندہ پرور و کار چھہ ۔
- لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۳۷﴾
 فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾
 وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۹﴾
 إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۴۰﴾
 وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۴۱﴾
 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۴۲﴾
 وَ أَبْصَرْتَهُمْ فَسَوْفَ يَأْبُورُونَ ﴿۴۳﴾
 أَلَيْسَ لَنَا بِمَنصُورِينَ ﴿۴۴﴾
 فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ
 الْمُنذَرِينَ ﴿۴۵﴾
 وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۴۶﴾
 وَ أَبْصَرْتَهُمْ فَسَوْفَ يَأْبُورُونَ ﴿۴۷﴾
 سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۴۸﴾
 وَ سَلَّمَ عَلَی الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۹﴾
 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۰﴾



سُورَةُ صَ : یہ سورہ چھوٹی تر اسم اللہ ہے چھ اٹھ کلمتہ ہے یہ بیس چھیس پانترہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(یہ چھیس) اللہ (تعالیٰ) سندن او ہمتہ (پر ان ایس) حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رگم کرن وول چھ۔

ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ ①

یہ قرآن چھ صادق (پڑیا رک) خدان نازل کورمت اسی چھیس امر دعویٰ کس تبولتس منفر شہادتہ کر زنگہ قرآن پیش کران۔ ایس پر ہمتہ قسم چھو تھو چھو سستی مال مال چھ۔

بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیْ عَذَابٍ وَّ شِقَاقٍ ①

امہ یوز پھو کفر کورمت چھ تم چھ کبرس منفر مبتلا۔ تہ اپنی اپن کتہ پز کرنہ خاطر (اختلاف کرن چھ تہ بند دستور۔

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ وَاَنْ قَدْ اَنذَرْنَا ذٰلِكَ وَاَنْتُمْ لَا تَعْتَبُوْنَ ①

اسہ کاتیاہ تہ قوم چھ ہمیں برو تھ ہلاک کرکے متی۔ یہ پٹہ ہمو فریاد کرایو۔ گمر سہ پھنہ بجا تک ووت آسان۔

وَعَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَاَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ①

بیس تم چھ تعجب کران تہ ہمیں نیش او تہمتی قومہ منفر اکھ ہشار کرن وول تہ کافر چھ وان نہ یہ تہ چھ اکھ پھند باز (تہ) اپز یوز۔

اَجَعَلَ الْاِلٰهَةَ الْاِلٰهًا وَاَحَدًا ۗ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ①

اگر چھا واریا ہمیں معبودن اکھ معبود بنومت؟ یہ چھینہ بڑ عجیب کتہ۔

وَاَنْطَلَقَ الْمَلٰٓئِمُ مِنْهُمْ اَنْ اَمْشُوْا وَاَضِيْرُوْا عَلٰٓی اِلٰهَتِكُمْ ۗ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ یَّرٰٓءُوْنَ ①

بیس تمو منفر بڑ لو لوکو وون نہ سیتہ نیرو تہ سبتہن معبودن پیٹہ رور و مضبوطی سان قائم۔ یہ (کتہ) یعنی قرآنک دعویٰ) چھ یقینا تترہ کتہ نہ اٹھ منفر چھ کیا تہام منصوبہ (یعنی کتہ غرض تل چھ و تہ اٹھ)

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِی الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۗ اِنْ هٰذَا اِلَّا اِخْتِلَافٌ ۗ ①

اسہ بوز نہ امیک (یعنی امر قسم چھ کتہ ہند) ذکر پینہ برونہو بس قومس منفر نہ تہیہ۔ یہ چھ محض اکھ اپز۔

ءَاَنْزَلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ مِنْ بَیْنِنَا ۗ بَلْ

کیا سارہ قومہ منفر چھا اگہ سے پیٹہ ذکر نازل ہند؟

هُم فِي شَأْنٍ مِّنْ ذِكْرِي ج بَل لَّئِن
يَذُوقُوا عَذَابِي ①

حقیقت چھینے سے نہ بہن چھ میاں یہ طریقہ ذکر نازل
سیدس منزبے شک (دراصل میں چھینے سے شک
نہ اس شخص سے پیٹھ سید ذکر نازل کہ نہ) بلکہ
(اسل کتہ چھینے سے نہ) تموثرہ نہ ونیکتام میون
عذاب (او کو چھ دلیر کا حق)۔

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ
الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ②

پھون پروردگار میں غالب (تہ) بخش مار چھ، کیا
تمو سید رحمت کو خزانہ چھا تہندک سے اتھس مل۔
(او دن یا نہ دن)۔

أَمْ لَهُمْ مَثَلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا مَا
بَيْنَهُمَا فَالْيَزْتَفُوا فِي الْأَشْبَابِ ③

کیا آسمان ہنرتہ زہینج تہ یہ کینرشہا بہن دریاں
چھ، بہن ساری تہ ہنرتہ بادشاہی چھا تہندک سے
قبض مشر؟ اگر تہندک کتہ چھینے تہیلہ پرتہ رزو
ہندر دلیر کھن میور (تہ کا شہہ خدایا شہادت لینے
پہچھن کتاب ان توہینتہ کا فر پرتہ بہکن۔ یہ
پاکو ہم محمد رسول اللہ سے مطالبہ کران اسلم۔
اگر چھ کہ غار متقی مگر منظم لشکر خبر دوان
میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مقاس
پہچھ حملہ کر (مگر) اتر تہ تہ پھیند۔

جَعَدْتُمْ مَاهُنَّ لِكُمْ مَهْزُومٍ مِّنَ الْأَحْزَابِ ④

یو بروٹھ اپزاوے یاے (پہنژ رسول) نوح ہندک
تومن تہ عادل تہ تہ فرعون (تہ) میں بڑ طاقتہ
لول اوں۔

كَذَّبْتُمْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ ذَا عَادٍ وَ
فِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَانِ ⑤

یتھے پاٹھ تھوون تہ لوطہ ہندک تومن تہ ایکہ والہو
توکو (تہ اپزاوے یاے پہنژ رسول)۔ ہم ساری
اسی اکھ (غیر متقی) منظم جماعت۔

ذَاقُوا وَذَاقُوا قَوْمَ لُوطٍ وَاصْحَابَ لَيْكِنَّا
أُولَئِكَ الْأَحْزَابِ ⑥

تو مشر پرتہ اک اپزاوے یاے رسول۔ او انہر
رود میون عذاب نازل سیدتھ۔

إِن كُفَّٰرًا لَّا كَذَّبَ الرَّسُولَ فَحَقَّ
عِقَابِي ⑦

لہ کفار ہند آمہ مطالبک ذکر چھ سوتہ بنی اسرائیل آیت ۹۵ اس مشر۔

لہ اتھ آیس مشر چھ غزوہ احزاب مشر کفار ہند شکستہ پیٹھ کوئی۔

لہ ایکہ اول اس حضرت شعیب علیہ السلام قوم ہم مدین شہر بن نزولک اکس جنگلس مشر

روزان اس۔

وَمَا يَنْظُرُ هُوَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا
لَهَا مِنْ قَوَايِ ۝

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانَا قَبْلَ يَوْمِ
الْحِسَابِ ۝

إِضْبِرْ عَلٰی مَا يَهْوُلُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا
دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ
بِالْعِشِيِّ وَالْآشْرَاقِ ۝

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ۝

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَ
فَضَّلْنَا الْإِسْرَاقَ ۝

وَهَلْ آتَيْنَاكَ نَبَأَ الْخَضِرِ إِذْ تَسَوَّرُوا بِالْبَيْتِ
الْمُؤْتَرَاتِ ۝

إِذْ خَلَوْا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ
قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمِينَ بَغِي بَعْضُنَا
عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا
تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ
نَجْعَةً لِي تَجْعَهُ وَاحِدَةً فَقَالَ
أَكْفُلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْعَتِكَ
إِلَى نَجْعِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

تہ یکم لوگھ چھ صرف اُس ہنگہ ہنگہ پنہ وائس
عذائس پیارن بیتھ منز کانہہ ترھین آسہ نہ۔

بیہ چھ ونان ، اسے سانہ پرور وگار ! سون جھہ
یہ کینترھا تہ چھ اسہ د تہ اول اول، حسابہ کہ وقتہ
برونہ۔

یہ کینترھا تم ونان چھ تہ پیچھ ہیہ تہ سرس کام
بیہ کرن تہ سون بند داوود یار یس برطاک
مالک اوس۔ یقینا سہ اوس خدائس کن چھ کر چھ تہ بان
اسہ اسی پہاڑی لوگھ تس ماتحت کرے مہی تہ تم
اسہ شامن تہ صبحن شینج کرئس، منز آور
روزان۔

اسہ علاو بلند پرواز انسان تہ اسی جمع کر تہ تس
سینتہ لاکھ تھاکر مہی۔ تم اسی سر سالم خدائس
کن تمن وال۔

بیہ اسی اسہ تسینز حکومت مضبوط کر مہتر بیہ اسی
تس حکمت تہ لاجواب دلیل عطا کر مہتر۔

تہ کیا ترہیہ چھ یا بہن دشمن ہنتر خبر معلوم، ایسہ
زن تم دہ سہ پیٹھ ووتھ تار تھ اندر اسی اسی بہ

یہ تم داوودس بش آہ، تہ سہ گابریو تم وچھ تھ
تمو وونس کھوڑ مہ! (اسی دہ لوسے) چھ تر ون وال
نہ زڈ۔ اسہ منز چھ اکھ ہیس پیچھ زبردستی کران
لہذا تر کر اسہ در میان الفاضلہ سان تم صلہ تہ فلکم
کر کر نہ۔ بیہ کر اسہ سینز و تہ کن رہنمائی۔

بیہ چھ میون بوسے اسی چھ منہ تھ گبہ تہ میہ
چھ صرف اکھ گب۔ توتہ چھ یہ ونان نہ پنز گب
تہ دن میہ، تہ مجادس منز چھ یہ میہ دبا والن۔

اتھ پیچھ وون تمو (یعنی داوودن) چاڑی گب مگلکس
منز چھینہ اسی ظلمت کام ہنتر مہتر۔ تہ دریاہ شریک
چھ تھو آسان یکم اکھ اسی پیچھ ظلم کران چھ، سولہ

أَمْثُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَذَلَّ ذَاؤُدُ أَتَمَّا فَتَتْهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۱۵﴾

مؤمنو تہ تمویم ایمانہ مطابق عمل کران چھ تہ تم
لوکھ چھہ کے۔ بیہ گوو داوودس یقین نہ اسہ چھہ نہ
امتھاس مشر تروومت (یعنے دشمن ہند کلمہ
تلمہ کنز) اذ ایوت تم پسنس پروردگارس مغفرت
منگن۔ تہ اطاعت ظاہر کران کران پیو پتھر زینہ
پلٹھ سجس مشرتہ (خدایس کن) کورن رجوع۔

فَعَقَرْنَا لَهُ ذَلِكُمْ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا
لَؤَلْفًا وَحُسْنًا مَّآبٍ ﴿۱۶﴾

اذ تروو اسہ تم ہنزن تم ساری نے کمورن پلٹھ
پرہ۔ تہ کیا تہ کر اوس داوود سون مقرب تہ تن
مید اسہ بش رت مقام۔

يَا ذَاؤُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
فَاخُذْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ ﴿۱۷﴾

(پستہ وون اسہ تن) اسے داوود! اسہ چھہ کر
زمینہ مشر خلیفہ بنومت اذ کر کر لکن مشر ایسا
حکومت تہ پستہ وون ہمیشہ مشر پاری کر کر نہ ہو
ذالی تریہ اللہ (تعالے) ہنزن و تہ ہننہ۔ تم لوکھ ہم
زن اللہ (تعالے) ہنزن و تہ ہننہ ذلان چھہ، ہم چھہ
سخت عذاب میلان تکیا ز تم چھہ حساب دہ مشر
شہان۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ
كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ
النَّارِ ﴿۱۸﴾

بیہ اسہ بنو نہ آسمان تہ زمین تہ یہ کینترھا تن
وہ نونی درمیان چھہ بیتھے ضایع سپدن وول۔ یہ چھہ
تن لکن ہند گمان ہم کافر چھہ۔ لہذا کافرن
پٹھ چھہ نار کرب عذاب کور ہلاکت نازل سپدن واجی۔

أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿۱۹﴾

کیا اسی زلوکھا مؤمن تہ ایمانہ مطابق عمل کرن
وآل زمپنس اندر قساد کرن والین برابر؟ کہہ
متقی زلوکھ بدکارن برابر؟

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا
آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿۲۰﴾

یہ (قرآن) چھہ لکھ کتاب یوہ اسہ تریہ کن نازل
کر ہتر چھہ، یہ چھہ سار کے نے رزرن ہنزن ہنزن
چھہ زن تم (اللہ تعالیٰ) ہنزن کتھن پٹھ سوچ
سمجھ کرن تہ یہ زن عقل مند لوکھ نصیحت حاصل
کرن۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ۗ نَحْمَدُ الْعَبْدَ ۗ
إِنَّهُ آوَابٌ ﴿۵۸﴾

یہ بخش اسے واوودس سلیمان تہ سہ اوس
اکھ سلطہ ہے رت بندہ تہ سہ اوس خدایس کن سلطہ
ہے من وول۔

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُوفُ
الْجِبَادِ ﴿۵۹﴾

(بیر کر یاد) نیلہ تس بروٹھ کتہ شام وقتہ اعلی
تہسکو گری پیش کرتہ آپ۔

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن
ذِكْرِي ۖ حَتَّى تَوَارَثَ بِالْحَبَابِ ﴿۶۰﴾

تہ تمو وون، ہر تجس وئی بہکین ترہن چیزن ستر
او موکھ محبت تھاوان تہ کیاہر تم چھ مینہ میون
پروردگار ترہتس پاوان یوت تام زرنیلہ تم گری
تھریس پور گئے۔

رُدُّوهَا عَلَيَّ ۗ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَ
الْأَعْتَابِ ﴿۶۱﴾

(تیمو وون) تم انیوگھ مینہ کن واپس (نیلہ تم آپ)
تہ تمکو ہیشتر (لولہ پسان) تہنزن گروہ زن تہ گروہن
تھاپ تھاپ وئی۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ۖ ذَا الْقَيْمَاتِ عَلٰى كُرْسِيِّهٖ
جَسَدًا لَّمْ آتَابَ ﴿۶۲﴾

بیر اسے کرسیما نس آزمائش تہ تہدیس تختس
پٹھ کور اکھ بیہ روجسم بہناونک قاصدہ (پتہ نیلہ
بیر نظارہ تمو کشفس منزوچہ) تہ سہ نمبو وپنہن
پروردگار کن۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا
يُنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنِّي بَعْدِي ۗ إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ ﴿۶۳﴾

تہ تمو (سلیمان) وون (پنہن نیچو ستر اصلیت
خدایس نش معلوم کرٹھ) نہ اسے میانہ پروردگار
میانن عابن کرتہ پردہ تہ میرہ کرتہ ہادشاہی
عطا یوسہ میرہ پتہ پتہ والہن اولادن وراثتس
منز میلہ نہ۔ ترچھاکھ یقینا بوڈ بختن مار۔

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً
حَيْثُ أَصَابَ ﴿۶۴﴾

بیر لوگ اسے واوتہند خاطر خدقس پٹھ۔ یس
تہند حکمہ مطابق یون سہ گرتھن سترھان اول
نرمی سان اوس تھکے پکان۔

وَالشَّيْطٰنِ كُلِّ بَنَاءٍ وَغَوَايِ ﴿۶۵﴾

یتھے پٹھ اسی اسے سرکش شیطان یعنی انجمنیہ
محمار تہ ڈنگل تہندس خدقس پٹھ لاگتھ
تھا و ہتہ۔

۱۰ یعنی حضرت سلیمان اوس باد بانی جہازن ہند علم درہ امت۔
۱۱ یعنی مشکلہ سان تولو گرتھن اول۔

وَالْحَرِيْنَ مُقَرَّنَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ ①

بلکہ کینہ بیہ لوگ تیرے ، ہم زولان منتر پابند کرتے
روزان اسی۔

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ②

یہ اوس سون بے حساب عطا، لہذا ادا نہ تم تو من
پہچہ احسان کرتے یا ادا تم منستی پیشتر متواہر
(پیشتر) سختی کرتے۔

وَلَا تَلَّكَ عِندَنَا لُزْلْفَىٰ وَحَسَنَ مَا يَأْتِي ③

بیہ تش (یعنی سلیمان) چھ اسہ نیش سپٹھا قرب
تا جمل۔ تیرے اسہ نیش چھ تندر سپٹھا رت تمام۔

وَإِذْ كُرِهِيَ تَارُوتُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْخِيءٌ
مِّنْ شَيْءٍ الشَّيْطَانِ يَنْصُبُ عَلَيَّ ④

بیہ کرن سون بند ایوب (تیرے) یاد ییلہ تمکو پسند
پروردگار پہ ونان ناد دژاو ز میہ چھ اک
کافر دشمن سپٹھا تکلیف تیرے عذاب و اتونمت۔

أُرْكضُ بِرَجُلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ
وَشَرَابٌ ⑤

(اسہ وون تش ز) پینتہ سوار کر کھور۔ یہ چھ
برونٹو اکھ سرائس لایق آب ایس ٹھنڈ تیرے چھ
تیرے چیلس لایق تیرے چھ۔

وَدَهَبْنَا لَكُمْ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ
رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ⑥

بیہ وکی اسہ تش تندر گرواکی تیرے بیہ تم ہو کر
و تش پینتہ رحمتہ سستی بیہ تیرے۔ تیرے عقلم والہن
کیست بخش اکھ لغتھمک سامان تیرے۔

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا
تَحْنُثْ إِنَّهُ إِذَا وَجَدْنَاهُ صَاحِبًا يَغْمِرُ الْعَبْدُ
إِنَّهُ آوَابٌ ⑦

تیرے (ایوبس وون ز) بیہ رٹھ پینس اتھس منتر
اکھ گوند کر دار کھنر مور تیرے تمہ کہ مدد کرتی
سان سفر (یعنی تمہ سستی چوب وون وون وون
سوار کر) تیرے حق تراوتھ گرتھ ز نہ باطلس کن
مال دارتہ۔ اسہ اوس سہ (یعنی ایوب) صابر توہمت
سہ اوس سپٹھا رت بند۔ سہ اوس بلا شک خالیس
کن جا د جا د من وول۔

وَإِذْ كُرِهِيَ تَارُوتُ إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ وَ
يَحْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ⑧

بیہ کر کھ یاد سہ ز بند ابراہیم تیرے اسحاق تیرے یعقوب
ہم کارند تیرے پتھ بروٹھ سرن واکر اسی۔

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ⑨

اسہ اسی تمہ اکھ خالص کتھ بند خاطر تر کر رہی تیرے

سہ بجز یہ ناو پکانون واکر سمندر منتر کام کرن واکر غلام اسی لیلان زولانہ کرتھ پابند تھونہ۔
سہ ضغث اکھ گوند کر دار کھنر مور (تفسیر فتح البیان) جنت اپوز تراوتھ اپزس
کن مال کرن۔

وَأَتَاهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطَفِّينَ
الْأَخْيَارِ ﴿۳۷﴾

سوکتھ اُس اصل گرگ (یعنی اُترنگ) یاد۔
بہ اُس تم ساری اسے بٹس تزاری ہوتے بڑ خاہر اول
لکھ۔

وَإِذْ كُنَّا إِسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ
وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿۳۸﴾

بہ کرن اسماعیل تو یسع (یعنی یسعیاہ) تہ یاد
بہ ذوالکفل (یعنی حزقیل) تہ تہ یلم اُس سرسالم
نیک بندو منبر۔

هَذَا ذِكْرًا وَإِن لِّلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَا ب ﴿۳۹﴾

یہ (بیان) چھ تہن لوکن ہند بن پڈر اکھن پیٹھ
پکڑ خاہر اکھ تہ بٹس پاوون کتھ تہ متقین ہند خاہر
چھ یقینا سبھا تھدر درجک ٹھکا تہ مقرر۔
(یعنی) ہمیشہ روزن اول باغ یکن ہند دروازہ
ہمیشہ تہند خاہر پہل روزن۔

جَنَّتْ عَدْنٍ مُّفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿۴۰﴾

تم آسن تھ اندر ڈوگ وی دی بہتھ، تم منگن
تھ منز پر تھ تھمگ میولیس تہ تہ گٹل آس، تہ
یتھے پاٹھی چہنک چہنر تہ۔

مُتَّكِنِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ
كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿۴۱﴾

بہ آسن تہن بٹس یوان کن وچین واجتہ تہنری
وانسہ ہنر (تم سپنہ زنا تہ)۔
یک چہنہ تہ تہ کتھ یکن ہند تہ ہر سیدی قیامتہ ہر
میںک وعدہ چھ کرن یوان۔

وَإِنَّمَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۴۲﴾

یہ چھ سون رزق یس تہ نہنہ مہکبہ۔

إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَاذٍ ﴿۴۳﴾

یہ چھ (مؤمن ہند وعدہ دنہ آمت چہنر) مگر
تہو چہرن ہند خاہر (چھ) سپٹھا یچھ ٹھکانہ
(مقرر کرنہ آمت)۔

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّغْيَانِ لَشَرَّ مَا ب ﴿۴۴﴾

یعنی جہنم بیتہ اندر تم اترن تہ روزن جائے آسہ کنہ
چھ سہ ناکارہ۔

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَسْسُ إِلَيْهَا ﴿۴۵﴾

یہ (چھ کافرن ہند وعدہ دنہ آمت چہنر) لہذا پڑ تم
تہن یہ۔ یعنی مگر کہہ ون آب تہ چھ کن ہند چہن
دور۔

هَذَا فَلْيَذُوقُوا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿۴۶﴾

بہ اتھو (دوس) ہو کہ آسن بہ تہ ڈرک (یکن
ہند اعمال پانہ واذی رلان میلان آسن)۔

وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجُ ﴿۴۷﴾

(تمو منتر ونبہ اکھ دور بیس دُرس کن اشارہ کر تھہ)
 یہ تہ چھہ اکھ دور بیس توہ بہ ستر جہنم منتر دا نل
 سپر (تہ) تمہن آسہ نہ کا نہہ خوش آمد ون وول۔
 تم سپن ضرور جہنم منتر دا نل۔

(اتھ پیٹھ) ونہ سہ دور (بیس ستر سہ یہ کتھ کر تہ بیہ)
 سانی کتھ تراو۔ توہ تہ چھو تھو لوکھ نہ بین خوش
 آمد ون وول کا نہہ چھہ۔ توہہ اوس و بیہ بہنم
 اسی و تہ ڈال ڈال) سانہ خاطر بروٹھ سوزمت۔
 تہ یہ چھہ سبھا بیکھ ٹھکانہ بہ۔

اتھ پیٹھ ونہ سہ دور (بیس ستر سہ یہ کتھ کر)
 اسے سانہ پروردگار! بیہ اکی (تہ چاہہ نظر منتر)
 سانہ خاطر یہ جہنم بروٹھ سوزمت چھہ، تس و تہ
 نارس منتر جا و کھو تہ جا و غلاب۔

بیہ ون (تمہ ونہ جہنمی) اسہ کیا گونہ نہ اسی چھہ
 نہ از تہ لوکھ وچھان ہم اسی ناکارہ زمانان اسیکھ۔

کیا اسی اسی کھا تم (یتھہ پستہ دلی خیالہ کنی) جہنم
 زمانان؟ کہہ و لی کن چھہ سانہ اچھہ ڈوبہ منتر (تہ
 تم چھہ اسہ بزنہ یولن)۔

جہنم ہند پانہ وانی تر ون چھہ اکھ حقیقت تہ یہ
 روز سپر تھہ۔

تر ون (تمہن) یہ تہ چھہ صرف اکھ ہشار کرن
 وول۔ اللہ (تعالیٰ) ہس وراوی چھہ کا نہہ معبود
 سہ پتھہ کتے (تہ) غالب۔

(سہ چھہ آسمان ہند تہ زمین پروردگار بیہ یہ
 کینترھا یمن دلوئی درمیان چھہ تمیک تہ۔ سہ
 چھہ غالب تہ (امہ باوجود چھہ) بخش وول۔
 تر ون نہ یہ چھہ اکھ بڑ خبر۔

هَذَا قَوْلٌ مُّقْتَضٍ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا
 بِهِمْ وَإِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ⑤

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ
 قَدْ مَتَّمُّوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ ⑥

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ
 عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ⑦

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا
 نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ⑧

أَتَّخَذْتَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ رَأَيْتَ
 الْأَبْصَارُ ⑨

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ⑩

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا
 اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑪

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ⑫

قُلْ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمٌ ⑬

لہ بیہ تہند تہہ موجب اس اس تہہ عمل تو عقیدہ پرومٹ نرا ز پیو اس جہنم تہہ وچھن۔

کرن چھ (تیلہ و تہ میہ تھہ و قس تمام موہت
یوت تام، تم زندہ کر تھہ استاد کرن پین۔
اتھ پٹھ فرموس اللہ تعالیٰ ہن ہر گاہ بی بیڑھا
چکھہ (تیلہ زان پین پان موہت و نہ آمتہ و نہ
یہ (موہت) آسہ اگس معلوم و قس تمام۔

اد و دن تھ، میہ چھہ چانہ عزت چ دہے! بہ کرکھ
ہم سر سالم گمراہ۔

چانو تراری مہ تہو بندو و رانی۔

اد فرموو (اللہ تعالیٰ ہن) نہ بڈر چھہ پ، تہ
بہ چھس تحقیقہ بیان کران آسان۔

نہ بہ برن جہنم چانہ سہو بیہ تمو ساروہے
سہو ہم چانی فرمانہ واری کرن۔

تہ و ن، نہ بہ چھس نہ توہہ اتھ (الہی پیغام
واتناوس) پٹھ کونہ اجر منگان تہ نہ چھہ مسیہ

ہو باو کر تھہ کتھ کر تک عادت۔

یہ (قرآن) تہ چھہ سارک ہن عالم ہنہ خاطر
اکھ نصیحت کتاب۔

تہ توہی بوزو کینہ کال پتہ آچہ خبرہ۔

قَالَ قَاتِلْكَ مِنَ الْمُظَلِّينَ ﴿۵۱﴾

إِلَى يَوْمِ الْوَعْدِ الْمَعْلُومِ ﴿۵۲﴾

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۳﴾

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿۵۴﴾


قَالَ فَالْحَقُّ زَوَّالِحَقِّ أَقُولُ ﴿۵۵﴾

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّن تَبِعَكَ
و مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۶﴾

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا
مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۵۷﴾

إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۵۸﴾

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿۵۹﴾



سورة زمر۔ یہ سورہ چھہ کی تہ بسم اللہ ہتھ چھہ اتھ شستھ آہر بیہ چھس اٹھ رکوع۔

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سدا توہتھہ (پران) ہس
حدہ روس کرم کرن وول (تہ) چھہ ر کرم کرن
وول چھہ۔

یہ کتاب ہنہ تارل پین چھہ اللہ (تعالیٰ) ہنہ طریقہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ

لہ یعنی قرآن کریم چہ پیشگو ہتھ گزہن ہنہ۔

الحکیم ①

یس غالب چھ (تہ) سارے کامر چھ جبکہ سترن تہت کرن وول۔

اسر چھیر تیر کن یہ کتاب (یعنی قرآن) پور پور پرن پیٹھ ڈرتھ نازل کر ہتر او کچ کر تہ اللہ تعالیٰ) سہنر تہتھ پٹھ عبادت ز فرما نبر و آری کر صرف تہندی خاطر خاص۔

بوزرو! اطاعت چھیر خاطر اللہ تعالیٰ) سندس حق تہ ہم لوکھ تس ورا بی بین ہستین (یہ ڈرتھ) دوست بناوان چھ نرا کچھ تہ ہتر عبادت صرف او موکھ کران زہم بن اسر اللہ تعالیٰ) ہس نزدیک اللہ تعالیٰ) کر ہن در میان قاسلہ ہن کھن متعلق یکن منزہم اختلاف تھوان چھ، یقیناً اللہ تعالیٰ) چھنر اپز یارس تہ ناشکری کرن و اہس کامیابی منز و تھ ماوان۔

اگر اللہ تعالیٰ) تہی بناونک ارادہ تھو ہے او پسنو منلو تو منز سیمس ہتر ہے تس ترار ہے سہ چھ (حقیقی نیچو ہند غایہ ہتہ) پاک۔ کتھ چھیر پز اللہ تعالیٰ) چھ کن (بیہ چھ) غالب۔ تھو چھ آسمان تہ زمین اکر پور پور مصالحتہ سرتو پاد کر کر ہتر۔ سہ چھ راتھ دھ ہس پیٹھ ولان تہ دہہ چھ راتھ پیٹھ ولان بیہ چھ تھو آقاب تہ زون اہس (تو لوئس تل پانڈ کر تھ) کامر لاگتھ تھ او ہتر۔ دہنو وہے منز چھ پرتھ اھ کہ گتھ مدتہ خاطر اہس وتر پیٹھ پکان۔ بوزرو! سہ چھ بوڈ غالب (تہ) بوڈ بخش مار۔

تو ہی چھو تھو اکر زو ہتہ پاد کر کر ہتر پتہ چھ تھو اسی ڈا تر منز تسند جوہر ہوتہ۔ بیہ چھ تھو چار وایو منز اٹھ جوہر بناو کر ہتر۔ سہ چھو تو ہس تہننن ماجن ہند لو شکو منز پاد کران۔ (یعنی) اکر پیدائش پتہ دویمہ پیدائش منز بدلاوان تر یو

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ①

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ①

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، وَهُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ①

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ ، يَكُونُ أَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكُونُ النَّهَارَ عَلَى الْإِيلِ ، وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ، أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَقَّارُ ①

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً ، أَذْوَاجًا ، يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ، ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ، لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ فَآئِي تُصْرَفُونَ ①

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَبْزُقِي لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ①

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَارِيَةً مِّنِيئًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْذَاذَا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۗ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ①

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْذَرُ الْأَخْرَةَ وَيَزْجُو أَرْحَمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ①

ع ۱۵

انہ گنہگاروں کو کفر سے روکنا۔ یہ چھ اللہ (تعالیٰ) تہند رب۔ بادشاہی چھ تہند سے قیمنس تل۔ صرف چھ سے ات اکھ معبود۔ لہذا تو ہی کو کون چھو پھرنہ یوں۔ اگر تو ہی کفر کرو تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تہند محتاج تہ سے چھ پستہن بدن بدن خاطر کفر نہ نہیں پسند کران تہ اگر تو ہی شکر کرو تہ سے چھ تہند خاطر یہ پسند کران۔ تہ کا تہہ ہر تہن واجو ہستی چھ بیہ سند ہر تہنہ پکان بیہ تہہ سار کے آہہ پنس پروردگار کے چھ تہہ تہن۔ اتی کر کو سے تہہ تہند لو اعمال تہہ خبردار، سے چھ وچھن منز کھیتہ کتہ تہ زان وول۔

بیہ میلہ انسان کا تہہ تکلیف واتان چھ تہ سے چھ پنس پروردگار کے دیان و تہہ تنس آلو کران۔ تہہ میلہ سے (خدا) انسان پسندہ طرفہ نعمت عطا کران چھ، تہ انسان چھ سے مقصد مشراوان بیہ خاطر سے خدایس آلو کران اوس۔ بیہ چھ خدایہ ہندک شریک مقرر کران بیہ زن (لوکن) تہہ و تہہ تہہ ڈال رہے۔ تہون (اے انسان!) کینہہ کال تل پسندہ کفر کہ باعیتہ فایدہ۔ تہو لکن چھکھ تہہ نایہ والین ہندے سبتہ بوج۔

کیا میں شخص رات ہنزن گرین منز سجدہ تہ قیام کس مولتس منز فرمانبرداری ہند نمونہ ہاوان بہتہ بیہ چھ اترس تہ کھونن بیہ چھ پنس پروردگار ہند رچھج وہ مید تہ تھاوان۔ (سہہ ہیکیا نافرمانہ ہندک پاٹھو آہتہ)۔ تہون، کیا علمہ اول تہ جاہل چھاہوی آسان؟ نصبت چھ صرف عقل مند لوکھ حاصل کران۔

دیتے پاٹھو) تہون، تہ اے میانہو مؤمن بندو! پنس پروردگار سند تقویٰ پر او۔ تم لوکھ ہم۔ ہتہ دنیاہس منز (الہی) حکم پور پاٹھو ہمکھ ولان چھہ

قُلْ يٰۤاٰمَنُوْنَ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ لِلَّذِيۡنَ اٰخَسَنُوۡا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَّاَرْضَ اللّٰهِ وَّاسِعَةٌ ۗ اِنَّمَا يُوۡفَى الصّٰبِرُوۡنَ

أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑩

تمن کیت چھ (بروٹھو میس دنیا ہس منز) نیک
اجر مقرر کر تہ آمت۔ بیہ اللہ (تعالے) ہنر
زمن چھیہ سبھا کشادہ۔ صبر کرن والین بیہ تہند
اجر بے حساب یا کھی لور لور دینہ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا
لَهُ الدِّينَ ⑪

تر دن ز مینہ چھ حکم دتہ آمت تر بر کر اللہ
(تعالے) ہنر تہہ پا کھی عبادت تر فرمانبردار کر
صرف تہندی خاطر خاص۔

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ⑫

تر مینہ چھ حکم دتہ آمت تر بر ہنر ساری وہے
کھوتہ بڑو فرمانبردار۔

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑬

تر دن، یود و سے بر سینس پروردگار ہنر نافرمانی
کر تیلہ چھس بر کہ بڑو کہہ عذاب ہنر کھوتہ۔

قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ⑭

(تر بیہ) دن بر چھس اللہ (تعالے) ہنر عبادت
کران ہنر اطاعت صرف تہندی خاطر وابستہ
کر تہہ۔

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ
إِنَّ الْغَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
وَآهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ
الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑮

(چھ رور و توہر) اہیکو ہنر توہر اللہ (تعالے)
ہس واری عبادت کر تہ ہنر ہو، کرو۔ (بیہ
پتہ) دن تر لور پاکھی خسار منز سپتہ و آلہ
لکھ چھ تے یکو ہنر پان تر تہ ہنر آشنا تہ
قیامتہ وہہ خسار منز تراو۔ یوزو! یو ہے
چھ نہ واسہ خسار۔

لَهُمْ مِنْ قَوْعِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ
تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ
عِبَادًا يَعْْبَدُونَ ⑯

تمن پیٹھ کئی تر آسن ناروی سائبان تر تلہ کر تہ
تر آسکھ نارو سائے۔ یہ چھ سہ چیر ہنر ہنر
اللہ (تعالے) ہنر بنن بدن کھوتہ ناوان چھ، اسے
میانہ بندو! میون تقویٰ پراوو۔

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوتِ أَنْ
يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ

بیہ یکم لاکھ بھگت پھر ہنر ہستین ہنر فرمانبردار
ہنر بچان چھ تر اللہ (تعالے) ہس کون چھ نمان۔

۱۰ یعنی اگر کسی ملکس منز مؤمن دینس پیٹھ عمل کرنس منز تکلیف آسہ تر ہنر پیر
ہجرت کر تہ تر بیہس ملکس گرتھن۔
۱۱ یعنی تہند دن و تھن آسہ نارو۔

الْبَشَرِ ج قَبِيضٌ عَبَادٌ ۝

تہند خاطر چھبہ بڑا خوشخبر۔ اوکو و تر میانین
تہن بندن خوشخبر۔

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ
وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

یہ ساقی کتھ بوزان چھ تو پتہ چھ تمہ مشر سارک
وہ کھوتہ بہتر کچھ پادوی کران۔ تے لاکھ چھ
یہن اللہ (تعالے) ہن ہدایت دیت تہ تے لاکھ
چھ عقلہ اول۔

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ أَفَأَنْتَ
تُنْفِقُ مِنْ فِي الثَّارِ ۝

کیا سہ شخص نہیں پیٹھ عذاب چھ پیشگوئی پڑھ
گے (تس ہیکیا کاسنہ بچاوتھ؟ تہ) کیا تہ بیکہا
نارس مشر سدن اول بچاوتھ؟

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ
مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ وَتَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَا اللَّهُ مَا يَخْلِفُ
اللَّهُ الْأَمِيعَادَ ۝

اماہ پڑ تہ لاکھ ہم پتہس پروردگار سد تقویٰ پرادا
چھ، تہن سدن کھو یا پور اول مکان عطا یمن
پیٹھ بیہ پور درکر سان بختہ آسن۔ تہن بوزی
کوئی آسن کولہ پکان۔ یہ چھ اللہ (تعالے) سند
اکھ پونہتہ وعدہ (تہ) اللہ (تعالے) چھ پونہتہ وعدہ
پھٹراوان۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَسَلَّكَهُ يَتَايَعِرَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ
يَهْبِئُ بِهِ الْقَنَاطِرَ الْمُضْفَرَّةَ ثُمَّ يُجْعَلُهُ
حُطًا مَاءً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي
الْأَلْبَابِ ۝

کیا تہ وچھتھنا تر اللہ (تعالے) ہن چھ آسمان
پیٹھ آب وولمت پتہ چھن سہ زمبہن مشر ناگہ
راد بناوتھ پکونمت۔ پتہ چھ سہ تہ دوس مختلف
رنگن ہند کرزاعت وہ پداوان پتہ چھ سہ پتہس
پیٹھ یوان تہ تہ چھکھ سہ وچھان تر تھ پھیور
زد رتھ لیدریر۔ پتہ چھ اللہ (تعالے) تھ بوس
شاوتھ پڑ پڑ کران۔ تھ مشر چھ عقلہ والہن
کرش بڑ لقیحت۔

۱۴

کیا نیگو سند وچھ اللہ (تعالے) فرمانبرداری
باچھ مشراو تہ تس آسہ پتہس پروردگار
سند طرفہ نور تہ میولمت۔ (سہ ہیکیا تس برابر
آستھ یس بتیہ آسہ نہ)۔ اوکو اتسوس تہن
پیٹھ مہند دل اللہ (تعالے) سہند ذکر ستر
سختی ترینان چھ۔ تہ چھ تہن وانہ گرا ہی مشر
اللہ (تعالے) چھ سہ نیگو رتہ کھوتہ رتہ کتھ

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلدِّسْلَامِ فَهُوَ
عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ قَوْلٌ لِّلنَّفْسِیَّةِ
قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِکْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي صَلَاتِ
مُتَّبِعِينَ ۝

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا

مَثَانِي ۛ تَشْعُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ
قَلْبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ
يَهْدِي بِهٖ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۱۷

یعنی سوہ کتاب نازل کر مہتر چھینے، پوسہ مستشایہ
تہ چھینے تہ اہکو معنوں چھ سہا تھدی تہ۔ ہم
لواکھ پستیس پروردگارس کھوڑان چھ تہندین
مسلمن ہندی روم وال چھ امہ کہ پرہن سہتو کھڑا
گرتھان۔ پتہ چھ تہندی مسد تہ دل نرم سہدہ
اللہ (تعالے) ہندی ڈکرس ڈکرس کن نماں۔

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ذَٰلِكَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا
مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۝۱۸

(قرآن) چھ اللہ (تعالے) سہد ہدایت۔ (یعنی
قرآن ینیم ہدایتک مابک چھ سہ چھ اللہ تعالے
سہد ہدایت) ینیم کر دوس سہ یس ینرھان چھ۔
ہدایت چھس روان تہ ینیس اللہ (تعالے) وتہ
ڈولمت گنزارو تس چھتہ کنہو ہدایت وتھ ہیکان۔
کیا سہ شخص یس ینن بھتہ قیا مہر وہ ہہجوت
عذابہ نشہ بچہ خاطر سپر بناوان چھ (سہ ہیکان)
جنس منز مہرھن واپس برابر آہتہ) تہ ظالم
سپہ ونہن زہنن عملن ہند نتیجہ تہ ہو۔

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۹

تہ اللہ (تعالے) ہن تہنباے تم دنباوی زندگی
مہر ذلت تہ، تہ آخرتس منز یس عذاب ہیکہ
سہ آسہ امہ کھوتہ تہ بوڈ۔ اگر تمہن فکر تہ۔

فَإِذَا قَامَهُ اللَّهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَالْعَذَابِ الْأَخْرَجَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝۲۰

بہ اسہ چھینہ تہ قرآنس منز پرہتہ قسہہ چہ
کھتہ بیان کرک مہر تہتہ زن تم (یعنی کافر)
تصیحت رٹن۔

وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝۲۱

تہ اسہ چھ اتھ قرآن ہنومت یس ینن مطلب وائل
کھتہ بیان کرن وول چھ۔ اتھ اندر چھنہ کائہ
ہجر تہ کجر (یہ چھ او موکھ نازل سہد مت)

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ۝۲۲

تہ اسہ چھ اتھ قرآن ہنومت یس ینن مطلب وائل
کھتہ بیان کرن وول چھ۔ اتھ اندر چھنہ کائہ
ہجر تہ کجر (یہ چھ او موکھ نازل سہد مت)

۱۷ یعنی قرآن کریم کی کہینہ حصہ چھ پرانہن الہی کتابین سمی رلان تہ کہینہ چھ بالکل
نوی تہ پتہ مہو تعالیاو لہتہ تھدی پاپہ۔

يَخَوْفُوكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
هَادٍ ۞

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ
أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۞

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ
كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ
هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ
اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۞

قُلْ يَقُولُوا عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ
إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ
عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ
بِالْحَقِّ ۚ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۚ
وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ۚ وَ مَا
أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۞

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ

بہ حکم لاکھ بھی تریہ تمونشہ کھوڑنا وان ہم تس (فدلیس)
ورائی چھ - بیہ نیس اللہ (تعالے) وتر ڈولمت
زانہ تس ہدایت دہ وول چھمہ کھنہی -

تہ نیس اللہ (تعالے) ہدایت بیہ تس ہیکہ ہ
کھنہی وتر ڈالمتہ کیا اللہ (تعالے) چھنا غالب
تہ بدلہ ہیش پیٹھ قادر ؟

بہ ہرگاہ ترہن پیرترکھہ زہ آسمان تہ زمین کمر
چھو پاد کرکری ہتی ؟ تہ تم ومن ضرور زہ اللہ (تعالے)
ہن - ترہ وکھہ کیا توہر چھوا معلوم تر توہی کس
چھو اللہ (تعالے) ہس ورائی آلو کران ؟ ہرگاہ
اللہ (تعالے) میہ تو قصان واتناون - بیٹھ تہ کیا تم
(اپری معبود) ہیکناہ تہ تو قصان دور کر تہ ؟ یا
اللہ (تعالے) میہ رحمت واتناون بیٹھ تہ تم
(معبود) ہیکنا تہ رحمت ٹھاکناوتہ ؟ ترہ ون
میہ چھو اللہ (تعالے) کانی - ساری (پڑی) توکل
کران واد چھو تسو پیٹھ توکل کران -

ترہ ون، اسے میاہ قومہ ! توہی کرو پسنہ پسنہ چاہ
عمل - پسنہ کر (پسنہ چاہ) عمل - اڈ توہر لگہ و
ضرور پسنہ

ترہ کس چھو تہ عذاب یوان یس تس رسوا کر - تہ
تس پیٹھ بیہ ہمیشہ روزون عذاب

اسر چھو تریہ پیٹھ (یہ) کتاب لیتنا لوکن ہند فاید
خاطر حق تہ حکمت ہبتہ نازل کر ہتر - اڈ نیہ ہدایت
نوب تمیک نفع آسہ تہندہ ہے زوس جاہل - تہ
یس دہ ذول تہند وترہ ذون پسنہ تمہ ہے پیٹھ -
تہ ترہ چھاکہہ تم پیٹھ کار ساز مقرر کرہ امت -
اللہ (تعالے) چھو پر چھو شخصہ سند روح تہندہ

لہ قرآن مجیدک منفر چھو حق (جمع مونث) اوکو استعمال کرہ امت تر اللہ تعالے ہس ورائی ہم
معبود آس، کافر آس، من دیوین ہند شکر زانہ زانان -

الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاجِئِكُمْ سِلْطٌ
الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُزِيلُ
الْأَخْرَاجِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿۳۹﴾

مردہ کر وقتہ قبض کران تہ نیس موت آسہ نہ
آمت (تند رُوح چھ) تہنر بندر روبر (قبض
کران) ادر سہ نیو ہند موتک حکم جاری کوزمت
چھن آسان تند رُوح چھ ٹھکانا دتھ تھوان تہ
بیس چھ اکر گنڈتھ مدتہ خاطر واپس سوزان سہ۔
اتھ اندر چھ فکر کران والہ قومہ باپتھ نشانہ۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۗ
قُلْ أَوْلُوا كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا
وَلَا يَحْقِلُونَ ﴿۴۰﴾

کیا تمو چھا اللہ (تعالیٰ) ہس ورا لی کہینہ سفارش
در بناوتھ تھاواک ہتہ؟ دیکھ اکر تمہن اتھ کہنہ
طاقت آسہ نہ تہ نہ آسہ تمہن (کہہ تمہج) شہود بود
(پتہ تہ مانیکھا تم توہی سفارش در؟)

قُلْ يَلِلُوا الشَّفَاعَةَ جَمِيعًا ۗ لَهُ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۗ ثُمَّ رَآلِيهِ
تُزَجَعُونَ ﴿۴۱﴾

تہ دن نہ شفا تھک اختیار چھ سرسالم اللہ (تعالیٰ)
بندس اتھس مندر سہیس سہرٹھان چھ، تس چھ یہ
اختیار دون) آسان تہ زمینہ ہنز بادشاہی چھینہ
توہنر تہ توہی بیو تسوکن چھیتھ ہنہ۔

وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَمِنْهُمْ يَا أَلِخَدْرَةَ ۗ وَإِذَا
ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِمْ إِذَا هُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۴۲﴾

بہ نیلہ کبھ خدایہ سند ذکر کرتہ یوان چھ تہ تم لوکھ
یم اترتس پٹھ ایمان چھنہ انان۔ تہندک دل چھ دیتس
وغٹس سوتہ) لغرت کرتہ ہوان۔ بہ نیلہ تمہن (دیوتابن)
ہنز یم خدایس مقابلہ بلک حقیر چھ، کہتہ وہ تھان
چھیتہ تہ تم چھ اول اول خوش گزھن ہوان۔

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ
عَلِيمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ
بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿۴۳﴾

تہ دن، اے اللہ! (اے) آسان تہ زمین یاد کر
والہ! غائب تہ ظاہرک علم تھوان والہ! تہ ہے چھاکھ
پہنہن بندک درمیان تمہن سارک نے چہن ہند فاصلہ
کران اول بین مندر تم اختلاف کران چھ۔

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا

بہ یود وسے ظالم لوکھ زمینہ مندر یہ کینرٹھا چھ
تھکو ٹاٹک آسہ ہن بلکہ یوتے بہ تہ تمہن ہش

۱۔ یہ آیت چھ واضح کران تہ توفی ہنز چھہ صرف ز صورتہ ممکن۔ اول موتہ کر ویز۔ دوم بندر روبر۔
توفی ہنز تہریم کا نہ صورت چھنہ ثابت۔ مولوین ہند یہ ونن ز اللہ تعالیٰ بن کوز میس علیہ السلام
اتھ صورتس مندر توفی کر تند رُوح تہ جسم دن نو سے بین ٹرورس آسانس پٹھ کھا لتھہ یہ
عقیدہ چھ قران کریم کس پتھ آیس خلاف

بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَبَدَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا
يَحْتَسِبُونَ ﴿۳۹﴾

وَبَدَّ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۰﴾

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَادِيَهُ
إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا
أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فَتْنَةٌ وَ
لَكِنِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾

قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا
أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۴۲﴾

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتِ
مَا كَسَبُوا وَ مَا لَهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۴۳﴾

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۴﴾

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ
أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۴۵﴾

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ

اسے ہے، تو تم دیر ہن قیامت کہ وہ ہر عذاب
بنتہ بچنے خاطر تہ (سورے) فدیہ کنہ تہ اللہ
(تعالے) بند طرف سپر بہن پیٹہ تہ وانکاف
سینیک تم گمانہ تہ حقوان اسی تہ۔

بیہ نیرن بہن پیٹہ بہن بہن اعمالن ہنر خرابیہ نہ
تہ بیٹہ عدلیس تم مانہ ترمان اسی (سورہ تہ) ولہ
بہن پرستہ طرفہ۔

بیہ نیلہ الناس کا نہہ ضرر واتان چھہ تہ سورہ
چھہ اسرہ آلو کرن ہوان پتہ نیلہ اسی تس پسہ
طرفہ کا نہہ نعمت دون چھہ تہ سورہ چھہ فان۔ میہ
چھیہ یہ نعمت پسہ علمہ کہ زور بیچ ہنر۔ (یہ چھہ
درست) بلکہ امیک میلن چھیہ کھ آزمائش۔ ۱۱۱
پوزتمو منہر چھہ واریاہ زانان۔

یہنہ (کھہ) چھہ تمو بزوتیم لوکھہ تہ لوتھہ کا ہوتی
توتہ آہ نہ بہنہر اعمال بہن بکار۔

بلکہ بہنہر عملو ہنرہ بدلو (یعنی بہنہر ہنرہ ہن) رڈ
تم بیٹہ تہ نیلہ زانہ کہو لوکو منہر ییم ظالم چھہ بہن تہ
رٹن بہنہر نعلن ہنرہ بدیہ تہ تم بہن تہ عدلیس
تہنہ ارادہ بنتہ ٹھانواتھ۔

کیا بہن چھنا پنے ز اللہ (تعالے) نیلہ ہنہر خاطر
بیہرہاں چھہ تہنہر رزقس منہر چھہ کتادی بخشان
تہ (نیلہ ہنہر حقہر بیہرہاں چھہ تس چھہ رزقس منہر)
تنگی کران۔ تہ اتھ منہر چھہ مؤمن قومہ خاطر بڑی
بڑی بنتانہ۔

تہ ون (بہن سانہ کنہ) اے میانو بندو! یکو
پسٹس زوس پیٹہ (گوناہ کریتھ) ظلم کرک ہوتی چھہ۔
اللہ (تعالے) بندہ رحمتہ بنتہ مہر گتھونا وہ سپرہ
اللہ (تعالے) چھہ ساری گوناہ بخشن سورہ چھہ بخش
بار (تہ) چھیرک چھیرک رحم کرن وول۔

بیہ توہی ساری بنو پسٹس پروردگارس کن تہ

قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۵۱﴾

تہندے پھر پھر فرما ہر دار بٹو۔ امیر بروٹھ ز توہم پیتھ سپد تیتھ عذاب نازل نیہ کہ نازل سپد پتہ تہند اتھ رٹہ ہاتھ کینہی و اتھ ہیکہ تہ۔

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۵۲﴾

بیہ یہ کینٹھا توہم کن نازل سپد مت چھ تہ مفر کڑو (پسنہ حالہ مطابق) سارک وے کھوتہ جہتر جکج پاری۔ امیر بروٹھ ز توہم پیتھ بیہ وچھان وچھان عذاب تہ توہی اوسوہ زانان۔

أَنْ تَقُولَ لَنْفُسٍ يُحْسِرُنِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿۵۳﴾

یتھ نہ تہ سپد ز توہم مفر بیہ کاشہہ شخص بیہ وٹن ز یہ کینٹھا اللہ (تعالے) بندہ حقہ میہ جھوٹہ کورمت چھ تہ کس بناہس پیتھ (چھ) میہ پتھ افسوس! تہ بہ تہ اوسس (الہی وٹی) حقہ زانان رُو د مت۔

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۵۴﴾

یا (کاشہہ) بیہ یہ وٹن ز یو د وے اللہ (تعالے) منہ از بروٹی) ہدایت دیہ ہے تہ بہ سپد ہا متقیو مفر یا نیہ عذاب وچہ تہ وٹن بیہ ز مگر منہ واپس گرشک موقعہ میلہ ہے تہ بہ رلہ احسان کرن والین سوت۔

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۵﴾

ہرگز (ہیکہ) نہ (یتھ سپد تھ) بلکہ تریہ نش اسی سانی نشانہ آہنی تو پتہ تہ کورٹہ تریہ تہند انکار تہ کبر من اکھ پیش تہ سپد کافرن مفر شاہل۔

بَلْ قَدْ جَاءَ ثَلَاثُ آيَاتٍ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۵۶﴾

بیہ قیامتہ کہ وہم وچھیکہ تہ تم لوکھ یو اللہ (تعالے) ہس پیتھ ایز لگتھ مھوومت اوس، تہ تہند کہ جھوٹھن کرہز سیاہ۔ کیا کبر کرن والین ہنز جائے چھنا تہنس مفر؛

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَغْوٰى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۵۷﴾

بیہ کر (اللہ تعالے) متقین تہند شانہ مطابق کامیابی جنتھہ پر تھہ تہم کہ عمر تہنہ نجات عطا۔ نے تہ وایہ امن کاشہہ کلپ تہ نے ہن تم (کہنہ پرانہ کوتاہی پیتھ) غم۔

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِقَاتٍ رَّيْمِهِمْ لَّا يَمْسُهُمُ الشُّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۵۸﴾

اللہ (تعالے) چھہ پر تھہ چیزک پاد کرن اول بیہ چھہ سہ پر تھہ کامر ہا پتھ کانی۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ﴿۵۹﴾

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ،
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰتِ اللّٰهِ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۳۷﴾

قُلْ اَتَعْبُدُ اللّٰهَ تَامُرُوۡنِيۡۤ اَعْبُدْ
اَيُّهَا الْجٰهِلُوۡنَ ﴿۳۸﴾

وَلَقَدْ اَوْحٰى اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيۡنَ مِنْ
قَبْلِكَ جَلِيۡنَ اَسْرٰكْتَ لِيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُوۡنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيۡنَ ﴿۳۹﴾

بَلِ اللّٰهُ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيۡنَ ﴿۴۰﴾

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ وَالْاَرْضُ
جَمِيۡعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيٰتٌ يَمِيۡنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ
وَتَحٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوۡنَ ﴿۴۱﴾

وَنُفِخَ فِي الصُّوۡرِ فَصٰعِقَۢ مَنْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ
اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اٰخَرٰى فَاِذَا هُمْ
قِيٰاَمٌ يَنْظُرُوۡنَ ﴿۴۲﴾

وَاَسْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوۡرِ رَبِّهَا وَوَضِعَ
الْكِتٰبِ وَجَآئِءَ النَّبِيۡنَ وَالشُّهَدَآءِ
وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا
يُظَلَمُوۡنَ ﴿۴۳﴾

آسمان تہ زمین ہنز کُنز چھینے تہندے ہے اتھس
منز تہ یم لاکھ اللہ (تعالے) ہندین آین ہند
انکار کران چھ تم چھ خسارس منز پھوان۔

تر و ن ، اے جا بلو ! کیا تو ہی چھو میں حکم دولان
نہ اللہ (تعالے) ہس ورا ی کر ہر کانسہ بل (ہستی)
ہنز عبادت ؟

حالانکہ پانہ خدایہ ہند طرف چھینے تری کمن تہ تریہ
بروٹھو ہن (نشین) کمن وومی کرنہ آمنز۔ (تہ
پر تھہ اگس نیس اوس و منہ آمنت نہ) ہرگاہ تہ
شترک کرکھ تیلہ سپن چاکی ساری اعمال ضایع تہ
تہ سپدکھ تمو لوکو اندر یم خسارس منز پھوان چھ۔
(لہذا سچہ مہ کر !) ہیکہ اللہ (تعالے) ہنز عبادت
کر تہ شکرانہ کرن والہن بدن سستی زل۔

بہ پھو لاکو کور تہ اللہ (تعالے) ہندین صفاتین
ہند صحیح اندازہ۔ حالانکہ زمین چھینے سر سائلم کو
ہنز بلکیت تہ آسمان (تہ زمین وہ لوے)
آسن قیامتہ کہ وہ ہر تہندس دچھس اتھس منز
وہتہ (یعنی موچہ منز)۔ سہ چھہ پاک بہ چھہ
تہندو بشرکی عقیدو تہتہ سبھا بالا۔

بہ پگس پیہ چھہ کہ وہ تہ آسمان تہ زمین منز
یس کانسہ تہ آسہ تس پیٹھ سپدکھ بے ہوئی غالب
تس (شخصس) ورا ی یس اللہ (تعالے) (بچوان)
یہنہ۔ پتہ پیہ دویمہ لٹ پگس چھہ کہ وہ تہ
وچھان وچھان سپن تم ساری (پانس متعلق فاصلک)
انتظار کران استاز۔

تہ زمین سپد سینس پروردگار ہند نور سستی گاشدر
تہ کتاب پیہ بروٹھ کمن تھاوہ تہ نبی تہ دویم
گواہین حاضر کرنہ۔ تو پتہ پیہ اتھن سارکے انسان
درمیان پور پور پزہ مطابق فاصلہ کرنہ۔ تہ اتھن
پیٹھ پیہ تہ ظلم کرنہ۔

وَوَقَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۱۱﴾

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
زُمْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفِيحَتْ
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ
يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ
آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُوكُم لِقَاءِ
يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِن حَقَّتْ
كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۱۱﴾

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فِيمَسُّ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۱۱﴾

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى
الْجَنَّةِ زُمْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَ
فِيحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا
خَالِدِينَ ﴿۱۱﴾

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا
وَعَدَهُ وَآوَرَنَا الْآرَافَ نَنعَبُوا مِن
الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ
الْعَامِلِينَ ﴿۱۱﴾

تہ پرچہ نفس یہ کوزمت آسہ تمہ مطابق یہ تہ
پور پور بدلہ دینہ تہ سہ (اللہ تعالیٰ) چہ تہندلو
اعمالو بنہ پور پور پور واقف۔

یہ کافرین جہنم کن لو گجبو لو گجبو کہہ ناو نہ یوت
تام تر ییلہ تم متھ نش واتن تہ تمکو دروازہ بین
مشر راونہ تہ تم (کافرن) ونن اکی (یعنی جہنمکو)
داروغہ۔ کیا توہ کہی اسی نا تہندی قومہ مقرر رسول
آہو؟ یم توہہ بروٹھ کہہ تہندس پروردگار بندہ
آیہ پرتھ بزناوان اسی تہ اڑو کہ وہکہ ملاقاتہ بنہ
اسی توہہ ہشید کران؟ تم ونن، او! تی سیدے
یاو۔ اماہ پوز کاؤن پیٹھ اُس غذا پچ پیشگوئی پور
سیدہی۔ (یعنی اسی کافر، اسی کتھ پاٹھو ہبہ
ہو کہ رسول ماتھہ)۔

تمن یہ ونہ تر جہنم کن دروازن اُترو اتھ صورتس
مشر تر اُکس تر پیٹس ملتس سینہ توہہ اتھ مشر
روژن۔ بہر حال تکبر کرن والہن ہند ٹھکانہ بہتھ
سبھا بیچہ۔

یہ یم لو کہ تقویٰ کران اسی تم بین جنس کن لو گجبو
لو گجبو پکناوتھ بنہ یوت تام تر ییلہ تم جنس تام
واتن تہ تمکو بر بین ییلہ تراونہ تہ تمکو داروغہ
ونن تمہن، توہہ پیٹھ اُسن ہمیشہ سلامتی، توہہ
چھو سبھا برس حالتس واتر ہتمو۔ اڈ کیا، اُترو
اتھ (جنس) مشر یہ فاصلہ بہتہ تر توہی رُوڑو
ہمیشہ اتھ مشر۔

تہ تم ونن اللہ (تعالیٰ) بند خاطرے چہ ساری
تعریف نیو اسہ سستی پنن وعبہ پور کور تہ اُسی ناوان
نیوہ جایہ ہندہ وارث۔ اُسی روزو جنس مشر
سینتہن تہ یہ ہشمو۔ ہندا (شہادت سیدہن) پورہ
پاٹھو عمل کرن والہن ہند انعام چہ سبھو ہے رت
آسان۔

أَمْ يَرِثُهَا بَنُو آلِ مُوسَىٰ وَمِمَّنْ جَاءَ آلُ مُوسَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ وَاللَّهُ عَظِيمٌ ۝۱۰
 فَآخِذْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَلَا خِصْمَ لَهُمْ يَوْمَ يَقْبِضُوا ۚ وَذَلَّلُوا ۚ وَلا يَنْصُرُوكَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۱
 فَآخِذْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَلَا خِصْمَ لَهُمْ يَوْمَ يَقْبِضُوا ۚ وَذَلَّلُوا ۚ وَلا يَنْصُرُوكَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۲

بہو، بہو قومو تہ (بہو پستین نسبتین خلاف
 لوگبر بناو) تہ پر پتہ قومن کور پستنس رسولس متعلق
 ارادہ نہ سہ کرون مرقمہ تہ اپڑ پو ڈیلو سبتو ہونگہ
 بحث شروع کرن پتہ زن پستہ مجاہدہ بازی سبتو حق
 تہ کہ امیل تمقا بر لبتہ ڈالیں لہذا امیہ زئی تم۔ وولہ
 وڈی تو میون سزا دیون کیبتہ اوس؟

تہ پتہ پٹھو سپد پٹھو پروردگار سبتو فاسد کورن
 متعلق پڑو۔ (یعنی یہ) نہ تم چہ جہنمی۔

تم ملائک ہم عرش علیہ پتہ چہ بیہ ہم تہہ اُذکر
 اُذکر چہ، تم (ساری) چہ پستنس پروردگار سبتو
 تعریفن سبتو سبتو تہنہز پاکیزگی تہ بیان کران تہ
 اتہ (حمدس) پتہ چہ پڑو اپہن مقولان تہ مؤمنین
 ہند خاطر چہ استغفار کران۔ (بہی چہ وان) اے
 سانہ پروردگار! پر پتہ کبہ چہنرس پتہ پستہ
 رحمہ تہ علمہ سبتو احاطہ کر تہ۔ لہذا تو بہ کران
 والہن تہ پستہ و تہ پتہ بین والہن کر معاف تہ، تم
 بچاؤگہ جہنمی کہ عذابہ لبتہ۔

اے سانہ پروردگار! تم، تہ تہندو جد اجدادو
 تہ تہنہزوا شنہو بیہ تہندو اولادو منہز ہم نیک آسن
 تم تہ کرگہ ہمیشہ کہن جنن منہز ڈاٹل، مین ہند
 تہنہ من سبتو وعدہ کورمت چتہ۔ تہ چکھہ غالب
 (تہ) بچہ کورمت وول۔

بیہ بچاؤگہ تم تمام تکلیفو لبتہ۔ تہ لیس تہ تمہ وہہ
 تکلیفو لبتہ تہ چتہ تمہون اد یقینا کور تہنہس
 پتہ رحم۔ تہ یہ چہیہ بڑ کامیابی۔

بہر کافرن بیہ بے شک (مرنہ پتہ) و نہنہ ز از
 یوت توہی پستین زون نفرتہ چہ نظر و چہان چہو
 اللہ (تعالیٰ) سبتو نفرت (لوہہ سہ تہہ سبتو
 کران چہ) چہیہ تہہ کورمت جاو۔ (یاد پادو) بیلبہ
 تہہ ایمانسن کن ناد اوسو کر تہ یوان تہ توہی آس

وَكَذَلِكَ حَقَّقْتَ كُلَّ مَن تَرَيْكَ عَلَى
 الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝۱۰
 الَّذِينَ يَخْمَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ
 يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ
 وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ۚ رَبَّنَا
 وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
 لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
 وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝۱۱

رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي
 وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
 آذُوا جِهَنَّمَ وَذُرِّيَّتِهِمْ ؕ إِنَّكَ أَنْتَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۲

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ
 يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَلِكَ هُوَ
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۱۳

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِلْمَلَأِئِ
 اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَلَأِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ
 تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۝۱۴

دُكُفْرُ كِرَانِ -

تم وقت نہ اسے ساتھ پروردگار! تیری مارتھ اسی
 وہ یہ لڑتے دوہیہ لڑ کر تھ اسی زینہ۔ لہذا اسی چہ
 ستین غلطین ہند اقرار کران۔ بہر حال (تر و متبر)
 وہ (امہ حقہ سید) نیرنچ چھا کا نہہ و تھا؟

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اِثْنَتَيْنِ وَا
 اٰخِيَّتَيْنَا اِثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا
 بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُدُوٰجٍ مِّنْ
 سَبِيْلِ ۝۱۷

تہند یہ حال چھ اوکزی تر میں صرف اللہ (تعالیٰ)
 ہس آلو کر نہ یوان اوس تہ توہی اسی انکار کران
 تہ میں تہند کا نہہ شریک مقرر کر نہ یوان اوس
 تہ توہی اسی و ایمان انان اُنہر کار۔ (از سید یہ
 ثابت نہ) سارے حکومت چھید تہند شانہ تہ
 کشاد سلطنت و اوس اللہ (تعالیٰ) سہزے۔

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ لَازِدُعِيَ اللّٰهَ وَخَدَّهٗ
 كَفَرْتُمْ ؕ وَاِنْ يُشْرِكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا
 قَالِحْكُمْ بِلٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۝۱۸

سے چھ توہیہ پنہی نشانہ ہوان تہ آسانہ پیٹھ چھ
 تہند خاطر رزق نازل کران۔ تہ نصیحت چھ
 صرف سے رمان۔ میں خدایں کن نماں چھ۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ وَا يُنَزِّلُ
 لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا وَّمَا يَتَذَكَّرْ
 اِلَّا مَن يُنۡبِئُ ۝۱۹

لہذا کرو اللہ (تعالیٰ) ہس آلو پیٹھ اطاعت
 تہدی خاطر خالص کران، اوستا فر کر تہن یہ ناپنہ

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيۡنَ لَهٗ الدِّيۡنَ
 وَكُوۡفِرَۃَ الْكٰفِرُوۡنَ ۝۲۰

(سہ چھ) تہند درجہ اول، عرشک ہابک چھ پیٹھ
 حکم چھ سہ پسنہو بندو مغز لیس پیٹھ بیٹھ ہان
 چھ پین کلام چھ نازل کران۔ میں زن سہ
 (خدا یہ سہ) ملاقات کر وہ ہر تہنہ لکن کھوڑناو۔
 یہ وہ ہر تم ساری لوکھ خدایں بروٹھ کبہ حاضر
 سپن۔ تہند کا نہہ چیز تہ آسہ نہ اللہ (تعالیٰ)
 ہس تہنہ پوٹھ۔ تہ وہ ہر کس آسہ بادشاہی
 حاصل ہ (صرف) اللہ (تعالیٰ) ہس میں کتے
 چھ (تر) سارک نے پیٹھ چھ غالب۔

رَفِيۡعِ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ؕ يُلۡقِى
 الرُّوۡحَ مِنْ اَمۡرِهٖ عَلٰى مَن يَّشَآءُ مِنْ
 عِبَادِهٖ لِيُنۡزِلَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝۲۱

تم وہ ہر یہیہ پرتھ ترس تہنہر علمہ مطابق جزا
 دہ (تر) تہ وہ ہر سپن نہ کتہ تنگ ظلم۔ اللہ
 (تعالیٰ) چھ سہا جلد حساب ہوان۔

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوۡنَ ؕ لَا يَخۡفِىٰ عَلَی اللّٰهِ
 مِنْهُمۡ شَیۡءٌ وَّ اِلَیۡمِنَ الْمَلٰٓئِکَۃِ الْیَوۡمَ ؕ وَاِلَیۡ
 الْوٰجِدِ الْقَهَّارِ ۝۲۲

یہ کرکھ تر تم ہشیار تم وہ ہر تہنہ میں نزدیک

اَلۡیَوْمَ تُجۡزٰى كُلُّ نَفۡسٍ بِمَا كَسَبَتْ ؕ وَاَلَا
 ظَلَمَ الْیَوۡمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِیۡعُ الْحِسَابِ ۝۲۳
 وَاَنْذَرۡهُمۡ یَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ

الْقُلُوبِ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِينٍ ۙ
مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ
يُطَاعُ ۝۱۱

کھوتے تزدیک یوان گڑھان چھ۔ نیلڈرن دل نمہ
سوتی بڑھ (آسن تہ) ہرین تام واتن۔ ظالمین ہند
آسہ نہ تمہ دوہہ کاٹھہ دوست تہ نہ (آسبکھ) کاٹھہ
سٹارش در بیگی ہنڑکٹھ مانہہ پیہ ہے۔

يَخْلَمُ خَائِفَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي
الصُّدُورُ ۝۱۲

اللہ (تعالے) چھ اُچھن ہند خیانت تام زانان۔
بیہ تہرہ پہ وچھ یا دل کھٹھہ تھوان چھ۔

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَفْضُلُونَ
بِشَيْءٍ ؕ إِنْ أَلَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ۝۱۳

بیہ اللہ (تعالے) چھ ہمیشہ الصافہ مطابق فاصلہ
کران۔ تہ بین یکم لاکھ خدایس ورآئی آلوکران چھ
تم بھجہ کاٹھہ تہ فاصلہ کرٹھ ہکان۔ یقیناً اللہ
(تعالے) چھ سبھا بوزن وول (تہ) سبھا
وچھن وول۔

أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا
مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ
قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ
اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ
اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝۱۴

کیا یکم لاکھ پھیر کرناہ زمپس منز میقہ وچھ
ہن زہتن لوکن ہند انجام کیا اوس سپرٹ؟
یکم ہتن بروٹھ آسہ تم لاکھ آسہ پھند کھوتہ جاڈر
طقتس منز (تہ) تہ پتھ کن تراور مہ
تو نشانو کوی تہ۔ تو پتہ تہ کرری اللہ (تعالے)
ہن تم تہندو گوہن ہوکی تہا تہ اللہ (تعالے)
سند رٹھہ کپنہر تہ سپد نہ ہتن بچاون وول
پاڈ۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْحِقَابِ ۝۱۵

یہ (کے کسی) اُس امر موکھ زہتن نش رُودر
تہندو رسول نشانہ ہتھ یوان تہ تمو ہنڑ ہمیشہ
انکارس کام تہ اللہ (تعالے) ہن تہ کرری تم
ہاک، سہ چھ سبھا زور وول (تہ) سہ
عذاب چھ کر لٹھ۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ
مُبِينٍ ۝۱۶

بیہ سوزا امر موسیٰ تہ پنڑ نشانہ ہتھ تہ صاف
صاف علیہ ہتھ۔

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَفَقَالُوا
سَلْحٰٓءٌ كَذٰٓبٌ ۝۱۷

فرعونس تہ ہامانس تہ قارولنس کن۔ مگر تمو
وون یہ شیخوس چھ دوکھ دتہ وول (تہ) اپزلیور۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا

اد بیلسہ (موسیٰ) سانہ طرفہ حق ہتھ ہتن

اَثَلُوا اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ؕ مَا كُنِيَ
الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝۱۱

نہش آو تہ تمو وؤن یم لاکھ ایمان ائمہ تس
سہو رے ہوتو چھ تہندری نیچو مار لاکھ تہ تہنہز
زناہ تھو اولکھ زبہ تہ کافرن ہند تہ ہر چھ ہمیشہ
پھری تھے گزہان۔

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْ اَقْتُلْ مُوسٰى
وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ؕ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ
دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ
الْفِسَادَ ۝۱۲

تہ فرعون وؤن میہ تراوو بیلہ میٹھ بہ مارن موسیٰ، او
سہ کڑی تن پسنس پروردگارس آلو، یہ چھس ائمہ
کھتھ کھوڑان نہ پینہ سہ تہندہ دین بدلاو یا پینہ
سہ مگس منز فساد پاد کر۔

وَ قَالَ مُوسٰى اِنِّىْٓ عُدْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ
مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ۙ اِلَّا يُؤْمِنُ
اِلْحِسَابِ ۝۱۳

(اتھ پٹھ) دوپ موسیٰ ہن۔ یہ چھس پسنس
پروردگارس تہ تہندس پروردگارس پناہ مدکان
پر پٹھ تکبر کرن اول سبہ شرارتہ ہنہس حساب
کس دہس پٹھ ایمان چھنہ انان۔

وَ قَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ
يَكْتُمُ اٰيٰمَكَ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ
يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَ قَدْ جَاءَكُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَكُ
كَاٰدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ؕ وَاِنْ يَكُ
صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ وَاِنَّ
اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذٰبٌ ۝۱۴

تہ آل فرعونہ منز اک ایماندار شخصن یس پین ایمان
کھتھ تھاولن اوس وؤن، اے لکو! کیا توہ
چھوونا اکھ انسان صرف او موکھ مارن نہ سہ چھ
ونان نہ اللہ (تعالے) چھ میون پروردگار تہ کو
چھ تہندس پروردگار سبہ طرفہ نشانہ تہ اونی تو
او اگر سہ ایزور چھ تہ تہند ایزیک وبال پینہ
تس پٹھ تہ اگر سہ ایزور چھ تہ تہنہز کرک مہز
کینہ (کھوڑان و اجنہ) پینہگو یہ سپدن تہند
حق پور۔ اللہ (تعالے) چھنہ حد نہر درامس
تہ ایزون وارس تہنہ کامیاب کران۔

يَقُوْمُوْا لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰلِمِيْنَ
فِي الْاَرْضِ رَمٰنٌ يَّنصُرُنَا مِنْ بَآئِنِ
اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا
اُرِيْكُمْ اِلَّا مَا اٰزٰى وَ مَا اَهْدِيْكُمْ
اِلَّا سَبِيْلَ الرَّسٰدِ ۝۱۵

اے میاہ قوم! از چھ تہنہز تہنہ حکومت نہ
توہ چھو مگس پٹھ غالب۔ او وئی تو زاسرس
کر اتمہ روٹ۔ اللہ (تعالے) سبہ عذاب کس مقابلس
منزہ ہرگاہ سہ اسہ پٹھ نازل سپد۔ فرعون وؤن
بر چھو توہ تی ماوان یہ مینہ پانس رت بوزہ یولن
چھ، تہ بہ چھسو توہ صرف ہدایت و تھ داوان۔

وَ قَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ
عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۝۱۶

میر سہ شخصن نیچو (پزوکو) ایمان اونمت اوس
تمو وؤن، اے میاہ قوم! پٹھ کن گدر کینہ برن

بڑی قوم ہند ہاکہ کر دیکر پانچویں چھس یہ تہتہ
ہاکہ کس دوہس تر کھوڑان۔

یتھ پانچویں زن نوح ہندس قومس تر عاوس
تر قومس بیٹھ آیاو۔ بیہ تمس لاکن ہم تمس
پتر گڈس یہ۔ اللہ (تعالے) چھہ پستہن ہندن
پچھ ظلم کرن یہ پترخان۔

بیہ اسے میا تر قومو! یہ چھس تہتہ حقہ حقہ وہس
کھوڑان۔ تیرہ دوہہ لاکھ اکھ اہس مدہ خاطر ناد ناد
کرن۔

تیرہ دوہہ توہی (خدایا شکرن بروٹھ کرن) تھر تھر
ترو تر اللہ (تعالے) ہس مقابلہ آسہ تر تہتہ
کہتہ۔ بچاون دول۔ بیہ تیس اللہ (تعالے) گراف
قرار دیہ تمس چھہ کہتہ ہدایت دتھ ہیکان۔

بیہ چھہ امہ بروٹھ یوسف (نہ) دلیدہ ہتھ توہہ ہنش
آمت۔ مگر یہ کیشہا تم توہہ ہنش اوٹمت اوس،
توہی رودی و تمہ کو حقہ شکہ ہے منز۔ یوت تام
تر سید سہ فوت سپد تر توہہ ہنوتوہ (ناوومیرا
سان) دنن تر اللہ (تعالے) سوزہ تر تمس
پتر کانہہ رسول۔ یتھ پانچویں اللہ (تعالے)
پر چھہ حلہ نہر نیرن و اہس (تر) شک کرن و اہس
وتہ وولمت گنتر راوان۔

ہم لاکھ کتہ ولیدہ وراوی لوسہ تمس نش (اللہ تعالے
سندہ طرہ) آہتر آسہ اللہ (تعالے) ہندن
آین متعلق بکت کران چھہ (تمس گرشہ پے آسن تر)
یہ چھہ اللہ (تعالے) ہس ہنش تر مؤمن ہنش سہٹھا
ناکار یتھ پانچویں اللہ (تعالے) تکمیر کرن و اہس
الساہ ہندس پور پور دس پچھ مہہ ہر کران۔

بیہ فرعون وون، اسے لامان! میا تر خاطر بنا و ناو
اکھ تھنر مندوہ، میہ ترن ہر تمس و تن پچھہ و اہتھ
پچھہ۔

مِثْلَ ذَٰلِكَ قَوْمُ نُوحٍ ذَٰلِكَ وَتَمُودَ
وَٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِرَبِّدٍ
ظَلَمًا لِّلجَبَادِ ﴿۷۱﴾

وَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱرْتَابُوا ٱخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ
ٱلتَّنَادِ ﴿۷۲﴾

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُذِبرِينَ ۗ مَا لَكُمْ مِّن
ٱللَّهِ مِن عَاصِمٍ ۗ وَ مَن يُضِلِلِ ٱللَّهُ
فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿۷۳﴾

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ
بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا
جَاءَكُمْ بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ
لَن نَّبْعَثَ ٱللَّهَ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ
كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن هُوَ مُشْرِكٌ
مِّزَابًا ﴿۷۴﴾

وَٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ
سُلْطَنٍ ٱتِّمَّهٖمُ وَكَبَرُ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ ۚ
عِنْدَ ٱلَّذِينَ ٱمْنُوا ۗ كَذَٰلِكَ يُطَبِّعُ ٱللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارًا ﴿۷۵﴾

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَهَآءُنِ ٱلَّذِينَ ٱرْتَابُوا
لَعَلِّي ٱبْلُغُ ٱلْأَشْبَابَ ﴿۷۶﴾

أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ آلِهِ
مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ كَافِرًا ۖ وَكَذَلِكَ
ذُرِّينَ يُفَزَعُونَ لِمَا وَعَدَ اللَّهُ وَصَدَّعَيْنِ
السَّيْلِ ۖ وَمَا كَيْدُ الْفَزَعُونَ إِلَّا فِي
تَبَابٍ ﴿٤٧﴾

۴۷

وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَوْمُوا اتَّبِعُوا
أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٤٨﴾

يُقَوْمُوا إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
مَتَاعٌ ۖ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٤٩﴾

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشِ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ يُدْرَقُونَ فِيهَا بِخَيْرٍ
حَسَابٍ ﴿٥٠﴾

وَيُقَوْمُوا مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ
وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٥١﴾

۵۱

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَدَأَشْرِكَ بِهِ
مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِنَّا أَدْعُوكُمْ
إِلَى الْعَزِيزِ الْعَقَّارِ ﴿٥٢﴾

لَا جَرَمَ لَنَا مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ
لَنَا دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ
وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ
الْمُشْرِكِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٥٣﴾

ہم آسمان چہ وہ چھینے تہ بیتھے پاٹھو گکہ میہ موسیٰ
ہندس خدایہ سندے پتہ۔ تہ کیا زہ چہس سہ
انچویر زمان۔ تہ پتھ پاٹھو آسہ فرعون ہنرن
نظرن منز تہنرن اعمالن ہنرن بدیہ شوبہ دار
بناتھ ہونہ آسہ۔ تہ سہ اوس (پہنونا فرمائونو
رکوز) اصلی وتہ ہنرن پتھ رٹنہ آمت۔ تہ فرعون
سند تہر اوس ناکامی ہندس مولتس منزے تون
گر تہن وول۔

بیہ سہ شخص بیہ ایمان اومت اوس، تہ وون
اے میانہ قوم! میاتی تالعداری کرو۔ ہر ہاوتو ہر
ہا پتھ وتھ۔

اے میانہ قوم! بیہ دنیا پتھ پہ نہرنگ چھینہ صرف
کینرن دہن ہنداکھ تہید۔ تہ آخر پتھ زندگی
ہے چھینہ یقینا (اکھ) پایدار تھکا تہ۔
یس ناکار عمل کر۔ تس میہ تہ حسابہ نتیجہ تہ یس
کا فرخا ایمانہ مطابق عمل کر، اڈ مہینہ اوس تن
یا زنان، بشرطیکہ سہ آسہ ایمانس منز پزور۔
سہ تہ تہندری سہتی باجو گر تہن جنتس منز داخل
تہ تہن بیہ تھ اندر حسابہ ورائی انعام دہ۔

تہ اے میانہ قوم! میون تہ کیا عجیب حال
چھہ نہ ہر چھسو تہہر نجاست کن ناد ووان تہ
توہر چھو میہ جہتس کن ناد ووان۔

توہر چھو میہ امر غرضہ ناد ووان نہ ہر کر اللہ تعالیٰ
سند کفر تہ تہندری شرک بنا وکہ تم میہندس شرک
آسنس متعلق میہ کینرنی علم چھو تہ ہر چھسو تہہر
ہکس غالب (تہ) جنتس ہر ہستی کن ناد ووان۔

اتھ منز چھہ کا نہہر شک نہ توہر چھو میہ تہرہ ہستی کن
ناد ووان بیو ہنرن کا نہہر (اٹرواجنی) آواز چھہ نہہر
پتھ دنیا ہس مشرتہ نہ ہنرنہ وائس دنیا ہس منز۔ تہ
(پز چھہ یہ ر) امر ساری نے چھہ اللہ (تعالیٰ)

ہیں لئے پھرتے گڑھن میں یہ نہ حد نیرن وال
لواکھ چہ جہتی۔

لہذا بہ لوسہ نصیحت تو بہ کران جیسو سوہ کرلوان
تو ہی ودا ودا یاد تہ (بہ چھس نہ تہ ہدین کھرہ کن
کھوژان) بہ چھس پین معاملہ اللہ (تعالے) اس
پشراوان۔ اللہ (تعالے) چھ بے شک (پنہن)
بندن پیٹھ نظر تھون وول۔

اتھ پیٹھ پھو اللہ (تعالے) من سہ (مؤمن شخص)
تھن (کا قرن) ہندو ہندو بد تہ ہوتہ
تہ آل فرعون وول دگر دار عذاب تہ لوسے وہ
طرف۔

یعنے نارن پتھ بروٹھ کنہ تم صبن تہ شامن پیش
کرہ یوان چھ تہ پیلہ گٹھ گڑھ بیہ (ملائکن بیہ
وہ تہ) فرعون ہندو سوتو باجو کرکے لواکھ سہنت
عذاب منر دا نجل۔

بیہ (کر سہ وقت تہ یاد) پیلہ زن (فرعون ہندو
سوتو باجو) نارن منر بحت کران آسن۔ تہ تھو
منر کھورا آسن برن لوکن کن ونان نہ اسی اس
تہندی تالبار۔ لہذا وڈی تو) کیا از ایڈر دا توہو
اسہ نار کہ عذاب کہ کتہ حصہ نشہ تہ بچا و تھ؟
بڑی لاکھ ون، اسی ساری چھ اتھ عذاب منر
ولہ آتو۔ اللہ (تعالے) اس یس قاصہ پنہن
بندن درمیان کران اوس سہ کورن۔

تہ جہتی لاکھ ون جہنہ کن دارون۔ توہی کرہ نا
پنہن پروردگار آوزر عذاب کہ کتہ مدت تہ
کر سہ اسہ کم۔

تم وزن کیا توہہ نش اسی ناہ تہندی رسول دلایل
پتھ آتو۔ تم وحن او، کیا نہ، اتھ پیٹھ ون
تم (جہنم دارونہ)، وہ ڈی (یوت بیہ ہوتہ)
گرتھ ہو توہی آلو دوان تہ کا قرن ہند دغا چھ کول

فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ وَأَفَؤُصُّ
أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
بِالْعِبَادِ ﴿۲۳﴾

فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكْرُوهًا وَحَاقَ
بِالَّذِينَ فَرَعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿۲۴﴾

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَ
عَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ نَدِ
أَدْخَلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿۲۵﴾

وَإِذْ يَتَحَفُّضُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ
الضَّحَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا
لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُخْفُونَ عَنَّا
نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿۲۶﴾

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا
إِنَّ اللَّهَ فَذَحَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿۲۷﴾

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ
ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَوِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ
الْعَذَابِ ﴿۲۸﴾

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وَقَالُوا بَلَىٰ وَوَقَّعْنَا عُوجًا
وَمَا دَعَا الْكُفْرَيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿۲۹﴾

گڑھان۔

اُسے کرو پینین رسولان تہ بہن پیٹھ ایمان اتن والہن
یتھ دنیاہس اندر تہ ضرور مدو بیہ تمہ دہ ہر تہ نیلہ
گواہ استا و سپدن۔

یہیہ دہ ہر ظالمین تہہنز معذرت کانہہ نفع دیہ ہنہ
بیہ سپدن پیٹھ (اللہ تعالیٰ ہنہز) لعنت نازل۔
تہ بہن میلہ (روزہ نہ خاطر) کچھ گرو۔

تہ اسہ اوس یقینا موسیٰ ہس ہدایت دیہ مت تہ
بنی اسرائیل اُسی (تمہ) کتابہ ہنہر (یعنی
توراک) وارث بناو کہتی۔

یوہ ہر عقلمندن ہنہر خاطر لپیٹک موجب اُس۔

او کز کر شہر ۔ اللہ (تعالیٰ) سُنہ
وعہر روز ضرور پور سپدہہ بیہ یکم چاڈی گواہ لاکو
کری متی چہ بہن ہنہر تہ روز تہ تہہنہ حقہ بخشایش
منگن بیہ روز صبح تہ شامین پنہس پروردگار
سندس حمدس سرتی سرتی تسبیح تہ کران۔

حکم لاکہ یکم زن اللہ (تعالیٰ) ہندین آیین
ہنہر حقہ ہمدس منز آورک روزان چہ، گوہ دلپہر
ورائی یوہ بہن ہنہر (خدا یہ ہنہر طرفہ) آمہر آسہ،
تہہنہر دن منز چہ بڑی بڑی ارمان یکم ہنہ
تم نہہنہ واتن۔ لہذا اللہ (تعالیٰ) سُنہ پناہ
روز منگان۔ سہ چہ سپہا بوزن وول (تہ)
سپہا وچہن وول۔

آسمان تہ زمینہ ہنہر پاد کرن چہ انسان ہنہر
پاد کرنہ ہنہر بڑ کام نگر وراہ انسان چہنہ زمان

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ
الْاَشْهَادُ ﴿۱۷﴾

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِيْنَ مَخْرَجَتُهُمْ
وَلَهُمُ الْعَذَابُ الَّذِيْ لَّهُمْ سُوْءُ الدَّارِ ﴿۱۸﴾

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْهُدٰى وَاَوْثَقْنَا
بِئْتِيْ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبِ ﴿۱۹﴾

هُدٰى وَاذْكُرْ لِاٰدَمِ الْاَلْبَآبِ ﴿۲۰﴾

فَاذْكُرْ اَنْ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَّاسْتَغْفِرْ
لِذَنْبِكَ وَاَسْتَغْفِرْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
بِالْعَشِيِّ وَاَلْبٰكِرِ ﴿۲۱﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ آيٰتِ اللّٰهِ
يَغْيِرْ سُلْطٰنِ اَتْمٰهُمْ ؕ اِنْ فِى
هُدٰوٰى هُمْ اَلَا كِبْرًا مَّا هُمْ بِبٰلِغِيْنَ
فَاَسْتَجِزْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيْرُ ﴿۲۲﴾

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ الْكَبِيْرُ مِنْ
خَلْقِ النَّاسِ وَّلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳﴾

سہ یعنی نیلہ لاکہ فوج نوجو اسلامس مغز داہل سپدن تہ تہہنہر تریتس مشر یوہ ہر کسی
روز ۔ اللہ تعالیٰ ہس گڑھہ دعا منگن زسہ تراوتہہ پیٹھ پرودہہ امت محمدیہ
بچاو تمہ کہو بدستجو ہنہر۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالبَصِيرُ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ لَا الْمُسِيءُ ۗ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۱﴾
 إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ ۖ لَا رَيْبَ فِيهَا ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾

بہ بچھنے اُنی تہ گاشدار برابر آستہ بہکان - تہ بکو لکو ایمان اون تہ ایمانہ مطابقت کر بکھ کامہ تم بچھنے بدکار لوکن (برابر آستہ بہکان) - توہی لوکھ چھو نہ ملے نصیحت زمان -
 تہ اتھ مفر چھنے کانہہ شک نہ تباہی ہنر گر چھینے ضرور پتہ واجز، وہی گوہ واراہ لوکھ بچھنے ایمان انان -

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَرْحَمُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۵۳﴾

بہ چھ تہند پروردگار ونان، میں کرو آلو، یہ بوز تہند دعا - ہم لوکھ سائس عبادتہ کس معاملس مفر تکبرس کام، ہوان چھ تم سپدن ضرور رُوا گرشتمتہ چہتمس مفر داغل -
 اللہ (تعالے) چھ سہ سیکو تہندہ خاطر راتھ بناو یقہ زن توہی اتھ مفر آرام حاصل کرو - تہ وہ چھن مان وول بنومت - اللہ (تعالے) چھ لوکن پٹھ بوڈ فغول کرن وول - مگر لوکو مفر چھینے واریاہ شکرانہ کران -

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ ۗ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ قَالُوا تَوْفَكُونَ ﴿۵۴﴾

یہ اللہ (تعالے) چھ تہند سہ پروردگار یس پتھ چیزک پاڈ کرن وول چھ - تس ورنی چھنے کانہہ مسبود - اد وڈی تو تہ سہی توہی کوکن بچھو بچھرتھ ہنر یوان -

كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۵۵﴾

تہیے پٹھی چھ تم لوکھ کم عقل ہنر کتھن کن بچھرتھ ہنر یوان - ہم اللہ (تعالے) ہندین آین ڈر ہتھ انکار کران چھ -

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا ۗ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۗ وَصَوَّرَكُمُ وَأَحْسَنَ صُورَكُمُ ۗ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۖ فَتَعْبَرُوا ۖ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۶﴾

(حالیکہ) اللہ (تعالے) چھ سہ سیکو زمین تہندہ خاطر قرار پچ جائے بناو مفر چھینے بہ (چھن) آسمان اکر مکاتہ کس صورتس مفر (حفاظتہ خاطر) بنومت) بہ چھو تم توہی یون یون طاقت بخشاوڈ ہوتی تہ پتہ چھن تم طاقت سپٹھا تھدہ درجو تہ مضبوط بناوڈ ہوتی - تہ توہی چھنو پاکیزہ رزق عطا کورمت - یہ چھ اللہ (تعالے) یس تہندہ پروردگار

ترچہ۔ لہذا اللہ (تعالیٰ) چھ سپٹھا برکتر وول
یس ساری نے عالمن ہند پروردگار چھ۔

سہ چھ زند (تو بین تر چھ زندگ دین وول)
تس ورائی چھن کا شہ معبود، تو اللہ (تعالیٰ)
ہند خا طر عبادت خالص کران دیو تسی آلو۔
ساری تعریف چھ اللہ (تعالیٰ) ہندی یس
ساری نے عالمن ہند پروردگار چھ۔

تر وون بہ چھس امر نیشہ ٹھاکنا ونو آمت
تر بہ کر بہن ہنر عبادت بین توہی اللہ (تعالیٰ)
ہس ورائی آلو کران چھو۔ خاص کر تھہ ینیلہ زن
میہ نش میا تس پروردگار ہند طرفہ ٹاکا پر نشاہ
تر آتو چھو۔ تو میہ چھ حکم دین آمت تر بہ کہہ
صرف ساری نے عالمن ہند پروردگار ہنرے

اطاعت۔

سے چھ بیگی توہی (گو ویکس دورس مثر) میثر
نیشہ پاؤ کر و۔ پتہ (دو کس دورس مثر)
نظہ نیشہ۔ پتہ (ترتیس دورس مثر) اکہ رتہ
لو تھہ نیشہ۔ پتہ چھس توہہ (امہ مثر) اکہ شر
بنا و تھہ کڈان۔ پتہ چھ تھیک یہ نتیجہ نیران تر
توہی چھو پستہ بوانی تام واتان پتہ چھ تھیک
یہ نتیجہ آسان تر توہی چھو بکرس واتان، تو
توہہ مثر چھ کائہ ہند روح امر (یعنی بکرس
وانسہ واتن) برو تھہ قبض کر تہ لوان تہ سہ
چھ یہ اوکی کران تر توہی وا تو تھہ مدس یس
تہندہ خا طر مقرر کر تہ آمت چھہ بیہ میثہ زن
توہی (تھہ مہ ہتہ کس زما تس فایدہ تھہ) عقلہ
کام ایو۔

سہ چھ خدای یس زند کران چھہ تو ماران تر چھہ
او بیلہ سہ گد کتھہ ہند فاصلہ کران چھہ تو
تمہ کہ حقہ چھہ ونان "سپرن" اتی چھہ سہ

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي
الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي زَادْتُ أَنْ أُسَلِّمَ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ
طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ
لِيَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى
مِنْ قَبْلِ ۚ لِيَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى
وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٨﴾

هُوَ الَّذِي يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا قَضَىٰ
أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٩﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَكْفُرُونَ فِي
آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿۱۰﴾

سیدان - کیا تیری وجہ سے تم لوگ ایم اللہ (تعالیٰ) ہنر
آین متعلق مجاہدہ کران روزان چہ۔ تم کو کون چہ
پہچہ تہہ ہنر یوان۔

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا
أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَخْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

ایم چہ (امی قہلم) لاکھ یوساہ کتاب ہنر تہہ بیہ
سانہور رسولو ایم پیغام آئی ہنر چہ ہم ہنر تہہ
انکار کورمت چہ۔ او کون ایم وچہین وورنی وورولی پین
انجام۔

إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ
يُحْسَبُونَ ﴿۱۲﴾

یئیلہ زن ہنر تہہ ماکلہ تہہ ہنر تہہ گروہین منر
آسن تہہ (تمو ہانکو ہنر ذلیہ) ہم ہنر کلمہ
ہنر۔

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿۱۳﴾

(گرکہ ہنر ہنر) شہتس آیس منر پتہ پین جہتمس
منر وار تہہ ہنر۔

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آيِنَ مَا كُنْتُمْ
تُشْرِكُونَ ﴿۱۴﴾

پتہ پتہ ہم ہنر، ہم معبود کتہ چہ ہم ہم توہی
(خدا ہی ہنر) شریک بناوان آس وورک۔

مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ
لَمْ نَكُن نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا
كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿۱۵﴾

اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی؟ ہم ورن، ووزہین
چہ ہم اسہ ہنر راوکرمی (پتہ ورن) ہنر کون
ہ، اصلیت چہ پتہ ہنر آس ہنر امر ہنر ہنر
کاہہ چیز خدایہ ہنر شریک بناولہے۔ ہنر پتہ پتہ
چہ اللہ (تعالیٰ) کاہن گراہ کران۔

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَمْرَحُونَ ﴿۱۶﴾

ہہ چہ (حقیقت)۔ ہنر ہنر ہنر کونہ دلہلہ
ورایہ خوشیہ آس وورناوان۔ ہنر ہنر کون توہی
ہنر تہہ کان آس وور۔

أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا ۗ فَيُسَّ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۱۷﴾

(وورنی گرتہ تہہ) اترو جہنمہین دروازان (تہہ کیا ہنر
تہہ ہنر چہ وورنی ہنر ہنر ہنر ہنر
تہہ ہنر روزان ہنر کبر کران والہن ہنر ہنر چہ ہنر
ہنر۔

فَاضْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۗ فَأِمَّا
نُذِرْتِكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ

او کون کر تہہ صبر۔ اللہ (تعالیٰ) ہنر وور روز ہنر
ہنر ہنر تہہ آس تہہ ہنر ہنر ہنر ہنر

تَوَفَّيْتَنَّاكَ فِإِ لَيْتِنَا يُزْجِحُونَ ﴿۵﴾

تمن سوتی وعدہ کرتے یوان چھ کیہنہ (چاہتس قوت سپدس تام) داوسے (تہ کیہنہ پشنگونی سپدن چاہہ وفاتہ بیتہ پلورہ ، تہ اتھ اندر چھنہ کاٹنہ حرج) تہ کیا زہ تم بین اسی کن چھہر تھ اتہ (تہ تبتہ سپد تہنہ انجام تمن پیٹھ و اسگاف)۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ وَمَا كَانَ لِرُسُلِكُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِّي بِالْحَقِّ ۗ وَخَسِرَ هُنَّالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۶﴾

تہ اسہ سوزاپہ تریہ بروٹھہ کھی یا رسول۔ کینترن ہند وکر چھہ اسہ تریہ بروٹھہ کینہ کورمت تہ کینترن ہند وکر کورنہ تریہ بروٹھہ کینہ تہ کاٹنہ رسولہ سہد چھنہ یہ طاقت نہ خدایہ ہند حکمہ ورایی انہ کاٹنہ کلام تہ بیلبہ اللہ (تعالے) سہد حکمہ یوان چھہ تہ حقہ مطابق چھہ فامصلہ کرتے یوان تہ اپنہ وٹن واد لوکھ چھہ خسارس منزہ یوان۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآلَانَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۷﴾

اللہ (تعالے) چھہ سہے تیکو تہنہد خاٹر چارپاہ پاؤ کروی تہی چھہ بیٹھ زن تمواتر کینترن پیٹھ توہی سوارک کرو تہ تمن اندر کھینپو (کینترن ہندمان) بیہ بین چارپاہن اندر چھہ تہنہد خاٹر بیہ تہ کھی یا فایہ بیہ یہ تہ (چھہ مطلب) نہ توہی اوسو تمن پیٹھ بار سارے بیتر کرٹھ پنہن دن ہند حاجت پلورہ کران۔ بیہ بین (چارپاہن) پیٹھ تہ بیہ ناوان پیٹھ چھو توہی سوار کرتے یوان۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ۚ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلِكِ تُحْمَلُونَ ﴿۸﴾

بیہ سہ (خداسے) چھو توہی ہنجر نشاہ یوان۔ لہذا اللہ (تعالے) ہند لو تشارفو منز کھہ تشارس ہیکو توہی انکار کرٹھہ

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۚ فَآيِيَ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿۹﴾

کیا یم پھری ناہ ز سپس منز بیٹھ زن و چھین نہ بیو بروٹھہ من لوکن ہند انجام کیٹھ سپدہ تم اس ملکس منز تمو کھوتہ کرٹھنز تہ طاقتس منز تہ جاؤ۔ تہ عمارتہ تعمیر کردہ تہ کارجری (انجینئرنگ) منز تہ اس جاؤ (کارگر) اماہ پوز تہنہد لو کنبو اوس تہ تمن کھنوز نفع دیت مت۔


أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوا أَكْثَرًا مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً ۚ وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا آغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۰﴾

بیہ بیلبہ تمن انش تہنہدی رسول نشاہ ہوتہ آہ ، تہ

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝
 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ خَدَعَنَا وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۝
 فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ۝

تمن نش یہ کم جاو غلبم اوس تھہ پیٹھ لگی تھہ کینہ تہ پیٹھ (عزایس) تم نمازہ شرمان اسی تھو اولی تم۔
 اد نیلیر تمو سون عذاب وچھ تہ ہونکھ وُن اُسی تہ چھ اللہ (تعالیٰ) اکھ زائنتھ تس پیٹھ اپمان انان تہ تس ستری یکم چیز اُسی شریک مٹھراوان اُسی تہ تہند چھ اُسی انکار کران۔
 اد نیلیر تمو سون عذاب وچھ تہ تہند کر اپمان واتھو نہ تمن کاشہ تہ فایدہ۔ یو ہن چھ اللہ (تعالیٰ) سُنڈ مقرر کورمت سنت لیس تہند من بندن منز جاری چھ تہ تمہ وقتہ پینے کافر خدراک منز۔



سورة حم سجده ۱۰۱ یہ سورہ چھ کلی تہ بسم اللہ بہتہ چھو اتھ منز پنتر و نزاہ آپہ بیہ چھس تہ کران۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 حَمَّ ۝
 تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 كِتَابٌ قُضِيَ أَيْعُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

(ہر چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنڈ ناو بہتہ (پران) لیس حد رؤس کرم کرن وول تہ پیچھری پیچھری رحم کرن وول چھ۔
 تمپد تہ مجید (خدایہ بندہ صفت چھ یٹھ سوس منز بیان کرنہ آوتی)۔
 یہ قرآن چھ اُنچہ رؤس کرم کرن واپس تہ پیچھری پیچھری رحم کرن واپس (خدایہ) بند طرفہ تا نزل سُنڈ مت۔
 (بیہ) چھینہ یہ تترہ کتاب نیکی آہ زبر پاٹھو تھیلہ سان بیان کرنہ آوتی چھ۔ بیہ یوسہ یسلہ پاٹھو پر نہ بیہ تہ (سہ چھینہ تترہ زبانی منز بیہ سہ) پینن مطلب پاہر واش کڈتھ بیان کران چھینہ مگر تینے چھینہ (یہ کتاب) فایدہ دیوان یکم (رؤ حانی) علم تھاوان آسن۔

بَشِيرًا وَ نَذِيرًا ۚ فَأَعْرَضَ
أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ①

(نیکن) خوشخبر دینہ و اجزی تہ (بدن) ہشیار کرن
واجزی چھیہ۔ تمہ پیتہ (تہ) کر، تمہ منیز واریا ہو
روے گردانی تہ تم چھینتہ اتھ بوزنہ خاطر تہ تیار۔
بیہ چھ زمان یتھ چیزس کن توہی اسر ناد کران
چھو تمہ کر ماتہ ہنہ چھ ساتی دل پردن منز۔
ایغہ سہ چھینہ سانہ دن پیٹھ اثر کر تھ ہکان)
تہ سانہ کن چھ زرہر (نیمہ کوی اسی تہنہنہ
کتھ بوزنہ تھ چھینہ ہکان) بیہ چھ اسر تہ
توہر در میان اکھ مھور۔ لہذا تر کر (پسنہ عقیدہ
مطابق) کلام تہ اسی کرو (پسنہ عقیدہ مطابق)
کلام۔

وَقَالُوا فَلَوْلَنَّا فِي آيَاتِنَا مِمَّا
تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمَنْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حَبَابٌ فَاغْمَلْ
إِنَّا عَمَلُونَ ②

تر ون، ہر تہ چھس توہی ہو اکھ انسانا۔ منیہ
کن چھیہ وحی کر نہ یوان نہ تہنہ چھ صرف اکھ
خدا، لہذا تشہ خیل کر تھ تاوو استقامت تہ
تس بش روتو مغفرت منگان (ز کھور گوڑھ تہ
ڈون) بیہ (یاد تھوور) مشرکن ہند خاطر
چھ عذاب (پیکھتھ)۔
تم مشرک یم نہ نکولا دولن چھ تہ نہ چھ اثرس
پٹھ ایمان انان۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَ
وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ③

بے شک تم (لوکھ) ہو ایمان تہ اذن بیہ کر کچھ
تمہ مطابق عملہ تہ۔ تمہ ہند خاطر چھ اکھ
نہ موکلن وول اجر (پیکھتھ)۔
تر ون، کیا توہی چھو تس خدایہ سند انکار کران؟
نیکی زمین دون دون منز پاد کر مہتر چھینہ؟ بیہ
چھو تہندک شریک مہر کران؟ یہ (خداے تہ)
چھ ساری نے عالمن ہند پروردگار۔
بیہ چھ تم ز مپنس منز تھ پٹھ بل بتاوک ہتہ
تہ اتھ منز چھین بڑ برکت تھاو مہتر بیہ اتھ منز
روزن والبن ہند کھینہ چھینہ خاطر چھینہ پر تھہ چیز
اندازہ مطابق، نومت (تہ اسورے کینہ چھینہ ترورن

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ④

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑤

قُلْ أَيْنَ كُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِينَ
خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ
لَهُ أُنْدَادًا ۗ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ⑥

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ قَوْهَا وَ
بَرَكَ فِيهَا ۗ قَدَرَفِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي
أَرْبَعَةِ آيَاتٍ ۗ سَوَاءٌ لِّلشَّٰئِطِينَ ⑦

دوران منفر کوڑھت یہ کتھ چھینہ سار کے پرتھن
والین ہند خاطر برابر۔

پتہ دن آسمان کن دیان تہ سہ اوس اکہ مئلہ
ہندک پامٹی تہ تہ وون تھتہ تہ زمپہ تہ وہر دولہ
بیو پتہ مرضی سہو یا مجبور سپتہ میانی فرانسہ
کران حاضر۔ بتو دولہس وہے ووش اسی چہ
فرانسہ وار سپتہ حاضر کر تھان۔

پتہ بتاؤن تم سنن آسمان ہندس سورس منفر
دولن دوران منفر۔ بیہ پر تہ آسمان منفر یہ کیتھ
سپن اوس تمیک طاقت کورن تھتہ حوالہ بیہ
پارو اسہ (سار وہے کھوتہ) بڑم آسمان
(ژانگیوتہ) کاشو سہتی تہ (خوبصورت بناوتہ علاوہ)
حفاظتہ خاطر تہ (کور تھ اندر سامانہ یاد) (تہ)
یہ تھ غالب (تہ) زانن و اوس خدایہ سند تقدیر۔
پتہ اگر تم روگردانی کرن تہ بہن و ان نہ میہ
چھو توہر تہ غلابہ تہ پشیر کر تہ۔ میں عاد
تہ شوقس عبدالس، پوچھ۔

یعنی سبیلہ بہن ہنس بہن بروٹھر کتہ تہ بہن
پتہ کتہ تہ رسول آپہ (یعنی قومی زندگی منفر آپہ
پوتس پتہ رسول) یہ و ان تہ اللہ (تعالیٰ)
ہس ورازی مہ کرو کاتہ ہنر عبادت، اہم
دیت بہن جواب تہ یو دوس سون پروردگار
سبیلہ ہے سبیلہ کر ہے اسہ پتہ پانہ ملائیک
نازل۔ اہ کتہ اسی چہ تہ تعالہ ہند انکار کران
لوہہ ہتہ توہر سوز تہ آوتہ چھو۔

اہ عاد قومن ہنر کتہ حقہ ورازی ملس منفر تکبر
کام تہ وونن اسہ کھوتہ ہاد کس چہ زورس منفر
کیا بتو وچھناہ نہیمو خداین تم یاد کر تہ
چہ سہ چہ بہن ہند کھوتہ ہاد طاقتہ وول تہ
تم اسی ساتہن آین ڈٹتہ انکار کران۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
فَقَالَ لَهَا وَاللَّيْلِ أَنْتِ يَا طُوعًا أَوْ
كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿۵۱﴾

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ
وَ اَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَ زَيَّنَّا
السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۖ وَ حِفْظًا
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۵۱﴾

فَإِنْ اعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً
مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُودَ ﴿۵۲﴾

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ
أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا
لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ
بِهِ كَافِرُونَ ﴿۵۱﴾

فَإِنَّمَا عَادٌ قَاتِلَةٌ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا
قُوَّةً أَدَلَّمْ يَدُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۵۱﴾

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي
 أَيَّامٍ نَحْسَابٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ
 الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
 لَعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ
 لَا يُنصَرُونَ ﴿۱۵﴾

اوپر کوئی سوزا سر، ہمیں پیٹھ اٹھ تھینتھے واو لیس سبھا
 تیز اوس تہ منخوس دوہن منتر اوس آمت میتھ نہ
 اُسوی تھینتھ دنیا ہنس منتر رسوائی ہند عذاب تہنا وکھ
 تہ آخرتہ چہ زندگی ہند عذاب چھ امہ کھوتہ تہ
 جاد رسوائی وول۔ بیہ پیہ نہ ہمتن (تنتہ) کتہ
 رنگہ اتھ روٹ کر تہ۔

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا
 الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ
 طَبَقَةً مِنَ الْعَذَابِ لِيَسْئَلُوا
 بِعَسَبُونَ ﴿۱۶﴾

بیہ نمود (تو کاک اوس یہ حال نہ) اسہ ناوس
 یہ ہمتن ہرایچ و تھ گم تھو دیت ہدایتس پیٹھ
 گمراہی ترجیح۔ لہذا تم اول تہند لو اعلاو ہند
 باعثہ اک رسوائی ہند عذابن۔

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا
 يَتَّقُونَ ﴿۱۷﴾

تہ ہم متقی اسی تہ مؤمن اسی ہمتن دیت اسہ نجابت
 ۱۷

وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ
 فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۱۸﴾

بیہ سیکہ وہ بہ اللہ (تعالیٰ) ہند دشتن
 (یعنی کافر) زندہ کرتھ نارس کن ہنہ پین پیتہ
 پین تم بیون بیون درجن منتر باگر تھ تراوتہ۔

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ
 سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ
 بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾

اوت تام نہ سیکہ تم جہتس نشن واتن، تہندک
 کن تہ تہنتر اچھ تہ تہندک مسلہ دن تہنتر
 عملہ ہند باعثہ ہمتن خلاف شہادت۔

وَقَالُوا لَ جُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ
 عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي
 أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ
 مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴿۲۰﴾

تہ تم ون پیننہن مسن، توہہ کیازہ در و اسہ
 خلاف شہادت؟ تہ تہندک مسلہ ون جوابہ کتہ
 اسی چھ تمی خداین کتھ کرناوہ ہمتی، سیکہ پرتھ
 چیز کتھ کرناومت چھ۔ بیہ اسی و توہی گمراہ
 لٹ تہ تمی پاؤہ کرہ ہمتی تہ پیتہ تہ بیہ توہک
 تہ کن پھرتھ ہنہ۔

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَشِيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ
 عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لَا أَبْصَارُكُمْ وَ
 لَا جُلُودُكُمْ وَ لَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ
 لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾

بیہ توہی اسی و تہ پیتہ عاب امہ خوفہ سستی کھان
 نہ سیکتہ کتہ تہندک کن تہ تہنتر اچھ تہ تہندک
 مسلہ توہہ خلاف شہادت دن (بلکہ بین لوکن
 منتر پینہ ہدائی ہند خوفہ سستی اسی و سیکہ کنی
 کران) بلکہ توہہ اوسو یقین نہ اللہ (تعالیٰ) ہس

تہ چھنہ تہنہنن واریاہن کھنن ہندہ علیہ -
 تہ بیہہ اُس سو بدقلی یوہہ توہہہ ستنس پرورگار
 متعلق کرؤ ، میجر توہی ہلاک کرؤ و تہ توہی
 سپرے و پرچہ رنگہ نوقصان تلن والہو منہر -
 لہذا اگریم لوکھ صبرس کام ہن تہ نار چھہ تہند
 بھکانہ - تہ اگریم خدایس برونہہ کن حاضر سپن
 ہرہن تہ تن بیہہ نہ خدایہ ہندس دربارس منہر
 حاضر سپنک اجازت دہہ -

تہ اسر چہہ تمن سرت کینہہ ہتھو سستی باجر لاکھہ
 تھاکر ہتھو یوہہ ہندس اعمال تمن تولیورت کرہہ
 تاوکر تہ تمن بیٹھ سپرے حکم جاری یس جنو
 تہ سالو منہر تمن برونہہ گدرے مہہ تمن توہن
 بیٹھ جاری سپرمت اوس (یعنی یہ) نہ تم سپن
 گاہر لبین والہو منہر -
 بیہہ کافر و ون ، بیہہ قرآن پرخ تعلیم مہہ اہو بوزاء
 تہ اسر کہ بوزناونہ و نہ اہو کرکہ نادتلان - بیہہ
 زن توہی تھیٹھو غالب سپرو -

اوسے اسر کس نتیجس منہر اُسی تہ ہناووکھ کافر
 منور سجت غذاہک سہر تہ تمن دمو تہندہن
 ساری وہے کھوتہ ترہن بیچہ اعمالن ہند بدلہ -

تہ اللہ (تعالیٰ) ہندہن دشمنن ہند جزا چھہ
 یوہے ، یعنی نار - تھہ منہر میلہ تمن اُکس زہیٹس
 مدتس تمام روزہن خاطر گرہ - یہ بدلہ میلہ تمن اُو
 کھی نہ تم اُسی سانہن آہن ہند ڈہنہ انکارکران -
 تہ کافر ون نہ اسے سانہ پرورگار ! تہ ہاوکھ
 اسر جنو تہ انسانو منہر تم لوکھ بجم اسر گراہ کران
 اُسی بیٹھ زین اُسی تم کھورن تل مہتھہ ترہنوکھ
 تہ تمہ کس نتیجس منہر سپن تم ساری وہے
 کھوتہ ذہیل لوکھ -

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ
 اَذْسَكُمۡ فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۴۱﴾

فَاِنْ يَصِيْرُوْا قٰلًا لَّنَا مَثُوٰی لَّهُمْ وَاِنْ
 يَّسْتَعْجِبُوْا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْجَبِيْنَ ﴿۴۲﴾

وَقَدَّضْنَا لَهُمْ قُرْاٰنًا فَذَيَّبُوْا لَهُمْ مَّا
 بَيَّنَّ اٰیٰتِهِمْ وَمَا خَلَقَهُمْ وَاَحَقُّ
 عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ اُمۡرٍ قَدِ خَلَّتْ مِنْ
 قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنۡسِ بِرَبِّهِمْ
 كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۴۳﴾

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا
 لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالنَّوٰءِ فِيْهِ لَعَلَّكُمْ
 تَغْلِبُوْنَ ﴿۴۴﴾

فَلَنذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذٰبًا
 شَدِيْدًا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَا الَّذِي
 كَانُوْا يَحْمَلُوْنَ ﴿۴۵﴾

ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَّهُمْ
 فِيْهَا دَاۡرُ الْاٰخِرَةِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوْا
 بِاٰیٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۴۶﴾

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا اِنَّا
 الَّذِيْنَ اٰمَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنۡسِ
 نَجْعَلُهُمَّا تَحْتِ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا
 مِنْ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿۴۷﴾

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۲۱﴾

تم لو کہ یہو وولن ز اللہ (تعالیٰ) چھ سون پروردگار۔ پتہ سپدی مزار ڈنجر تھاوتھ اتھ عقیدس پیٹھ قائم۔ تمن پیٹھ وس ملایک یہ وان نہ کھوٹرو مہ تہ کتہ پتہ مہ غلطی ہنتر فکر مہ کرد تہ سہ جنت میلہ سوتو سپدی نوحش تہ میک تو ہر سوتو وعبر کر تہ آمت اوس۔

تَحْنُ أَوْلَىٰؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿۲۲﴾

اوس چھ ڈو بیس منز تہ تہندک دوست تہ آخرتس منز تہ روزو تہندک دوست تہ تنھ (جنتس) منز یہ کینترھا تہندک دل بہتر من تہ میلو تو ہر تہ یہ کینترھا تو ہر منگو تہ تہ میلو تو ہر تنھ منز۔

۲۲

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿۲۳﴾

یہ آسہ بخش بار (تہ) اُنھہ روس رحم کرن واس خدایہ ہند کتہ مہان واری ہند رنگ۔ تہ تہند کھوتہ جادو رتھ کتھ کبشتر آسہ یس اللہ (تعالیٰ) ہس کن لوکن تاد کران چھ۔ یہ چھ پتہ اپما تہ مطابق عمل کران تہ وان چھ بہ چھس فرما نبردارو منز۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۲۴﴾

بہ نیکی تہ ہدی چھتہ ہشی ہکان آستھ تہ تہ در ہدی ہند جواب جادو نیک سلوک سان۔ تمیک نتیجہ تہ یہ ز سہ شخص یس تہ سوتو عداوت آسہ، بہ چون حسن سلوک وچھتھ (چون) اکھ جانی یار۔

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ وَإِذْ قُمْنَا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿۲۵﴾

تہ (ظلم تہالہ باوجود) چھ امیک (یعنی امہ قسم کہ سلوکات) توفیق صرف تم نے میلان ہم بڑی صبر کرن اول آسان چھ۔ تہ یا چھ ہتن میلان یمن (خدایہ ہند طرف نہکی ہند) اکھ بود حصہ میولمت آسہ۔

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿۲۶﴾

بہ اگر شیطان (یعنی حقہ ہنہ دور ہستی) تہ یہ تکلیف واتناوی تہ (نور) اوس ز تہ تمیک بدلہ

وَأَمَّا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴿۳۷﴾

ہوئے تجا طر تیار سپدان بیکہ (اللہ تعالیٰ)
 ہنس اسی فریناہ مکان (زسہ زچی زریہ تمہوس
 پایہ تخلقہ نشہ) اللہ تعالیٰ چھہ یقینا سپہا
 بوزن وول (تہ) سپہا زانن وول۔

بیر تہندو نشاوا منتر چھید رات تہ تہ وہہ تہ تہ
 آفتاب تہ چھہ تہ زون تہ چھید ۔ نہ کرک زلو
 آفتاب سبجہ تہ تہ زونہ بیکہ صرف کرک
 اللہ تعالیٰ) ہنس سبجہ بیکہ بیکہ وہوس یاد
 کرک ہمتی چھہ ۔ اگر تو ہی پونہ تہ توحید و اول چھو۔
 تو پتہ کریم لوکھ تکبر کرن تہ یاد تھو زہن لوکھ
 بیکہ چائس پروردگار ہندک مقرب چھہ ہم چھہ
 راتس تہ وہ ہنس تہ ہنسے تسبیح کران تہ ہم
 چھہ زہن تہ تھکان ۔

بیر چھہ تہندو نشاوا منتر (اکھ نشان) یہ تہ تہ
 تہ چھہ زہن (کیشنن وقتن منتر) واران
 وکھان ۔ پتہ بیکہ اسی تہ پیٹہ آب ولان چھہ
 تہ سو چھہ اکھ لو زہنکی لبان تہ (سبزارس)
 چھہ زہر پانٹھ وہ پراوان ۔ سہ (خدا) ۔ بیکہ یہ
 (زہن) زہن کر منتر چھہ سہ کر بے شک
 سورن تہ زہن ۔ سہ چھہ پرہہ کتہ چیزس پیٹہ
 قادر ۔

ہم لوکھ ہم سانہو آہو منتر وٹھ وٹھ غلط کتہ کران
 روزن چھہ ۔ ہم چھہ اسہ نش کھٹہ ۔ سہ شخص
 یس جہنس منتر تراونہ پیہ چھا جسد رت کہہ
 سہ یس قیامتہ کہ وہ ہر امتہ سان (اسہ
 نش) ۔ پیہ ؛ (اسے لوکو !) یہ کیشنرھا
 (توہی) بیترہو ، کرک ۔ اللہ تعالیٰ چھہ تہندک

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ
 وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا
 لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
 إِن كُنتُمْ رَائِيًا تَعْبُدُونَ ﴿۳۷﴾

فَإِنِ اشْتَكَبُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ
 رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿۳۸﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْآرِضَ
 حَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
 اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا
 لَمُخِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا
 يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ
 خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 رَاعِمْلُوا مَا سُئِلْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ﴿۴۰﴾

لَهُ اعْمَلُوا مَا سُئِلْتُمْ ، امیک منے چھہ یہ زہ انسان چھہ پستہن اعمالن منتر
 مجبور ۔ یہ مطلب چھہ زہ یہ مرضی گزہ ہنس تہ کر تہ تہ پٹھ پیہ نہ رٹہ ۔ تہ کیاز (جاری)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿۲۰﴾

اعمالِ زبر پائٹو دُجھان روزان -
تم لوکھ بيم زن امر ذکرت (یعنی قرآنکے) انکار
کران چھ بیلیہ سہ تمن نشن آو۔ وچھوسے تہ سسہ
چھیہ اکھ بڑ عزتہ واجن کتاب (تم چھو پسنہ تباہی
ہندک سامانہ پسنہواتھو کران)۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿۲۱﴾

باطل نہ چھہ ہکان اتھ برنٹھی کتو بیتہ نہ اتھ
پتو کتو۔ سہ چھہ بچ حکمتہ ولس تہ بڑس تعریفہ
ولس خدایہ ہند طرفہ نازل سیدمت۔

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قَبِلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿۲۲﴾

ترتیب چھہ صرف تھے کتھ ونبہ یوان بيم ترتیب برنٹھی
من رسولن ونبہ آمر آسہ۔ چون پروردگار چھہ
بڑ بخشش وول تہ تند عذاب چھہ دگر دارسان۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُضِّلَتْ آيَاتُهُ أَءِ آعْجَبِيٌّ وَءَعْرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ إِذَا نَاهَهُمْ وَفَرًّا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ أُولَٰئِكَ يُعَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۲۳﴾

اگر اُسکی یہ قرآن عجمی بنا دینوں (یعنی عربی زبان
ورایہ بیہ کتہ زبانہ مشر تازل کر ہون) تہ بیک (کہہ
وُل) ہیکہ ہن ونبہ نہ اکی آپہ کیا ز آہ نہ واش
کد تھ بیان کرنہ۔ عجمی زبان تہ عربی نبی چھا
کا نہہ تہ ہشر تھاوان؟ تہ ران نہ سہ چھہ مولن
ہند خاطر ہدایت تہ شفا تھاوان (یعنی عربی
زبانہ مشر چھہ تازل کرنہ آمت۔ تہ ٹو لوکھ

چھہ یہ ترہتر تھہ ہکان) تہ بيم نہ ایمانہ انان
چھہ تہندن کنن چھہ زر، تہ تہ (یعنی اچھ
حقیقت) چھیہ تمن نشن پوسٹہ۔ تم لوکھ چھہ
تھس بیتھ پائٹو کانسہ دور جاہہ پٹھہ آلو کرنہ پتہ۔
بیہ اسہ اُس موسیٰ ہس تہ اکھ تھہہ پانچ کتاب
درہ ہتر تہ تمہ کہ حقہ تہ آیاو اختلاف کرنہ تہ
اگر اکھ کتھ پانس پروردگار ہند کتہ برنٹھہ
گذرے ہتر آسہ ہے تہ تمن لوکن ہند

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَلَا تَهُمُ لِي فِي شَيْءٍ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿۲۴﴾

بقیہ حاشیہ:- خدا تعالیٰ ہن چھیہ نبی تہ ظاہر کر ہتر تہ بڑی تہ چھین ظاہر کر ہتر۔ نیکی
زانشہ باوجود اگر کا نہہ شخص بیدی کران چھہ تہ سہ چھہ پانہ ذمہ وار۔ تہ
اُسو ونو اتھ متعلق لی نہ سہ چھہ بیدی پسنہ مرضی سدی پیراوان۔

آسہ ہے کرتام فَاصلہ سُدَّتْ - تم چھہ میئیرہ
(قرآن) کہ حقہ اُکس تہقش شکس منز پیمہتی
یس تہندس ائس چھہ مکھ دولان (یعنے حدہ
روس شکن منز چھہ ولہز آہتی تہ تھہ کن چھہ
دیان دولان) -

یس شخص ایماہ مطابق عمل کر تہ تمیک فَاصلہ
چھہ تہندس پتس زوس واتان تہ یس بدلہلی
کر تمیک عذاب تہ چھہ تہس پیٹھ وسان بیہ چون
پروردگار چھہ پتہن بدنک پیٹھ کہہ تہ ظلم کران۔

فَاصلہ تہس علم چھہ تہس کن پیمہ تہ نہ یوان۔ (یعنے قیامتک
پور پور علم چھہ تہس حاصل)۔ جامو (یا غلامو) منز
(تہ) چھہ کہہتہ مہو تہران تہ زمانہ تہ چھہ کہہتہ
پتہن شکس منز تہران تہ نہ چھہ تہ پیمانہ پیمانہ

مگر تہ سورہ چھہ اللہ (عالی) ہس معلوم آسان۔ میہ
دوہہ سہ تمن لوکن آلو کر تہ ونیکہ، سیانی
شریک کہہ چھہ؟ تم وزن اسہ چھہ تہ چھہ
کہہتہ وٹ نہ اسہ منز چھہ امہ کہہتہ ہند کہہتہ گواہ۔

بیہ یمن (معیون) تم امہ بروٹھ ناد دولان اُسی
تم راوان تمن ائس تہ تمن بیہ پتہ نہ وونی
چھہ تہند با پتہ کن تہ لہ تہ پتہ چھہ جاہ۔

انسان چھہ برتہ چہز منگہ ائسہ نہ نیہ تھکان۔
وونی گوو اُرتس زانہ کہہتہ تکلیف داہ تہ سہ چھہ
دہتم حالت مشر اوتھ) ناو مید سپلان۔

تہ یوہ وسے تس دو کہ واتہ پتہ اُکس رتھک
منز تہ بناو تہ سہ چھہ ونان یہ تہ اوس میون چھہ
تہ میہ چھہ پور بہتہ نہ قیامت بیہ تہ اُتہ اُکس
بیہ پتہن پروردگار کن پیمہ تہ نہ تہ چھہ تہ
تس ائس میانہ با پتہ (میہ) ڈیہ پیمانہ پیمانہ

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ
فَعَلِيهَا وَمَا أَزْبَكَ بِظُلْمٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَمَا
تَخْرُجُ مِنْ تَمَازٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا
تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ آيَاتُ شُرَكَائِهِمْ قَالُوا
أَذْنَبْنَا وَإِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٥٢﴾

وَصَلِّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَ
ظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٥٣﴾

لَا يَسْمَعُ إِذْ نَسَاوُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن
مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْأَلُ قَنُوطًا ﴿٥٤﴾

وَلَئِن أَدْقَنهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَخْدٍ
ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا
أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى
رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَوَلَنُنذِرَنَّهُم

لہ یعنی گوہر کھور چھہ روزان - لہ پرسان چھہ۔

وَمَنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ①

تمہہ یا کسی انعام موجود۔ تہ اسی دوسو کافرن ضرور
تہندین اعمال متعلق خبر تہ تم تہ ہنا دوکھ اکھ سخت
عذاب۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ
نَابِجًا بِنه ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ
عَرِيضٍ ②

تہ نیلہ اسی انسان پہنہ انعام کران چہ تہ سہ چہ
بہنہ پھران تہ اسہ نیش چہ اوک طرف گڑھتہ دوزلان
تہ نیلہ تس کانہہ تکلیت و اتان چہ تہ سہنا نہنہ
ز چہو دعا چہ کران۔

قُلْ آدَاءُ يُسْتَمَرُّ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ
كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلِّ مِمَّنْ هُوَ فِي
شِقَاكِي بَعِيدٍ ③


تہ ون تمن۔ مینہ لو تو تہ سہی، اگر یہ (قرآن) اللہ
(تعالیٰ) ہند طرفہ اوس تہ تو ہی کرو امیک انکار
تہ تس شخصہ ہند کھوتہ جاو گراہ کس اسہ نیس
حقہ نہنہ سہنا دوز تہ لہ گڑھ ؟

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي
أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ
الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ ④

اسی ماور تمن لوکن ضرور نہنہ نیشا نہ چہ عالمس منز
تہ پرتہ طرفہ تہ پانہ تہندین و خوردن (تہ خاندان)
منز تہ، ایوت تام تہ یہ آنتہ، تہندہ خاطر پور پانہ
نہ۔ تہ یہ (قرآن) چہ حق۔ کیا چانس پروردگار ہند
پر چہ چیزس پتہ ہکران اس چہنا تہندہ خاطر کانی؟

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيضَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ
أَلَّا يَأْتِيَهُمْ كَلِمَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ⑤

خبردار! ہم لاکھ چہ پنسن پروردگار ہند ملاقات
کہ حقہ شکس منز چہوتہ۔ کن دار تہ ہوزو!
اللہ (تعالیٰ) چہ پرتہ کنہ چیزس پتہ اساطر گرتہ
(تہ تمہ کس تباہ کرنس پتہ چہ تہودرت تھوان)۔



سورة شوری، یہ سورہ چہ کئی تہ بسم اللہ پہنہ چہ اتہ تہ و نزاہ آہیر یہ چس پانزہ رکوع۔

(بہ چیس) اللہ (تعالیٰ) ہند ناو پہنہ (کران) نیس
حدہ رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رم
کرن وول چہ۔
(یہ سورہ چہ) حمید (تہ) مجہد۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

عَسَىٰ ①

كَذٰلِكَ يُوَجِّىٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكَ ؕ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

علیم ، سمیع (تہ) تدبیر (خدا میں نازل کورمت)۔
تیسے پانچو چھ اللہ (تعالیٰ) تری پیٹہ تہ وومی
کران تہ تمن پیٹہ تہ (چھن وومی کر مہتر) ہم
تری بروٹھ گذرے ہو چھ۔ سہ چھ غالب تہ تہ
حکمتہ وول تہ۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ①

آسمان تہ زمینہ منز یہ کینرھا چھ سورے چھ
تندے تہ سہ چھ تھہ شاہنہ وول۔ بیہ چھ بچہ
ہستی وول تہ۔

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَنْقَطِرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَاَلَمْ
يَكُنْ لَّكَ الْوَالِدُ ۙ اَمْ يَكُنْ لَّ اَبٌ اَوْ
يَسْتَفْرِضُونَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيْمُ ①

کبے وقت چھ نہ آسمان میں (غالب ہستی ہند
مکملہ کر باعثہ) پھلٹہ پتھر۔ امہ باوجود نہ ملک
چھ پنسن پروردگار سند حمد تہ کران تہ تیج تہ چھ
کران تہ ہم لکھ زمینہ منز چھ تہندہ خاطر چھ مغفرت
تہ منگان (تو پیٹہ تہ تھاہ نہ خدایے میں عذاب
پتہ ، بیٹہ زن تہنر غفاری تہ رحیمی نل ہر سیدہ)
بوزواللہ (تعالیٰ) چھ سبھا بخش بار (تہ) اُنچہ
روس رحم کرن وول۔

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ
اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيْلٍ ①

تم لکھ ہم اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی کانسہ میں
پناہ دہ وول بناوان چھ۔ اللہ (تعالیٰ) ہم چھ
تمن جلات پسہنہ والی ساری اعمال رزہر تہ تھاؤر
ہتو بیہ تر چھک تہ تمن پیٹہ نکران (خدایا ہچھ
نکران)۔

وَكٰذٰلِكَ اَدْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرٰنًا عَرَبِيًّا
لِتُنذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَاَتُنذِرَ
يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِي
الْجَنَّةِ وَاَفْرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ①

تہ تیسے پانچو (یعنی پنسن نکران اسہ کس تنو اس
منز) چھ اسہ قرآن عربی زبانی منز تری کن نازل
کورمت بیٹہ نل تہ ملکہ کر مرکزہ تہ تہ اندی ٹیچہ روزن
والی لکھ ہشیارہ کر کبھ بیہ بیٹہ تہ تہ وقتہ نشہ تہ ہشیار

لہ حمید ، تعریفن لائق ، مچید ، بزرگی وول ، علیم ، علمہ وول ، سمیع ، بوزن

وول ، قدیر ، قومہ وول

لہ یعنی تہنر حکومت چھیہ مخلوقات ہندس پر چھ طبیقت پیٹہ حاوی۔

لہ یعنی کہ شریفی لکھ روزن والی۔

کر کچھ تیلہ ساری لاکھ حج کر نہ پین یہیہ کس نیس منشر
کا نہہ شک چھنہ۔ تہر وہ ہر گزہ اکھ دور جنس منشر
تہ اکھ دور گزہ جہنس منشر۔

بہ ہر گاہ اللہ (تعالے) پینہ مرضی کام ہینہ
(یعنی چہر کر ہے) تہ بین سار کے بناو ہے
اکے جماعت۔ وہ لکھو سہ نیس بیترہاں چھ نیس چھ
سپنس رحمت منشر انہل کران تہ ظالمن نہ چھ کا نہہ
پناہ دہ وول آسان تہ نہ چھ کا نہہ اتھ روٹ
کران وول۔

کیا تمو چھا اللہ (تعالے) ہس وراہی کا نہہ
بیاکھ پناہ دہ وول تجویز کورمت؟ لہذا (یاد
پیز تھاون) ز اللہ (تعالے) ہے چھ پناہ دہ
وول تہ سے چھ معورون زبند کران۔ بیہ چھ سہ
پین پر چھ ارادہ پلور کرس پیٹھ توہرت تھوان۔
بیہ بیتہ (کتھ) منشر توہر اختلاف کرہو تیمیک
آخری فاصلہ چھ اللہ (تعالے) ہند کے بیس
منشر۔ بیہ چھ تہند اللہ (تعالے) نیس میون تہ
پروردگار چھ، مینہ چھ نسو پیٹھ توکل کورمت تہ
تسو کن چھس بہ نمان۔

سہ چھ آسان ہند تہ زمینک پاد کران وول۔ تمو
چھ تہنسی ذاکر منشر تہند کر جوہر بناو ہتو تہ
چلر پاہن ہندی تہ چھن جوہر بناو ہتو تہ بیتھ
پاٹھو چھو سہ توہر زمینہ منشر ہراوان۔ تس ہو
چھو کہنہ چہر تہ سہ چھ سہٹا بوزن وول (تہ)
وچھن وول۔

آسمان ہنر کتہر تہ چھینہ تسو اتھ تہ زمینہ
تہ۔ سہ نیس ہند خاطر بیترہاں چھ تس چھ
رزقس منشر کشادی ووان تہ (تیمو ہند خاطر
بیترہاں چھ تس چھ رزقس منشر) تسکی کران۔ سہ
چھ پر چھ کا نہہ معاملہ جادو زبر پاٹھو زانان۔

ذَلَّوْا شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ
لَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ وَ
الظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ دَلِيلٍ ۖ وَلَا نَصِيرٍ ①

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَاءَ ۖ قَالَ
هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ②

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ
رَبِّ الْإِلَهِ ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَالَيْهِ أُنِيبُ ③

فَأَطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَعَلَّ لَكُمْ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ مِنَ الْأَنْعَامِ ۚ أَزْوَاجًا
يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۖ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ④

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَنْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ⑤

شَرَمَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَىٰ بِهِ نُوْحًا وَ
الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهٖ
اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوسٰى وَ عِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا
الدِّينَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلٰى
المُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ
يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَ يَهْدِيْ اِلَيْهِ
مَنْ يُّنٰبِ ۝۱۷

تمو (اللہ تعالیٰ ہن) چھے تریہ (اولیٰ طوبیٰ) سے
دین و صیت مت نیکیک تاکید تمو نوحس کورمت
اوس۔ بیہ لیس اسر وہ فی تریہ پیٹھ (قرآنہ ڈوسی)
تأزل کورمت چھ۔ بیہ نیکیک تاکید اسر ابرہیس
تو موسیٰ ہس تو عیسیٰ ہس کورمت اوس۔ تو سر اوس
یہ نہ (اللہ تعالیٰ ہنر) اطاعت کرو دنیا ہس
منز قائم۔ بیہ امہ (دینہ) کہ حقہ مہ ابرو تریہ
احکام کران۔ مشرکن چھید سہ (تعلیم سپٹھا)
گوب گرھان بیٹھ کن تو بہن ناد کران چھکھ۔
بوزوے تو اللہ تعالیٰ) ہس لیس پسند آسان
چھ تس چھ سہ امہ (دینہ) ہا پتھ ناران تو
یہ تعلیم چھید تسو میلان لیس خدایس کن پر پتھ
وزر سمٹھ روزان چھ۔

وَ مَا تَفَرَّقُوْا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ ؕ وَ لَوْ لَا كَلِمَةُ
سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِيْ
بَيْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرثُوا الْكُتُبَ مِنْۢ
بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝۱۸

بیہ کافر و کورن دینہ کس معامس منز (توام) اخلان
یو تام نہ تن ریش اکھ کابل علم (یعنی قرآن) آو۔
تو یہ اختلاف چھ تمو پانہ وادی بغض تو حسد کہ
باعث کورمت (کہ عقلی دلیلہ ہند باعث کورک نہ)
بیہ اگر چائس پر در و گاہ ہند طرفہ اگس گتھ
مدتہ خاطر اکھ کتھ ہند فاصلہ سیدلومت آہ
ہے نہ تو بہن کافر ہنر تباہی آسہ ہے کر تام
سیدے ہنر تو تم لوکھ ایم رتو (برونٹھ مہ لاکھ)
پتھ کتاب ہند وراث کر نہ آہ، تم چھ نیہ کتاب
ہند باعث اگس تبس شمس منز ہنر آہ لیس
تہندن دن منز بے قراری یاد کران چھ۔
او کو تو کر (تتھی دنیس کن) لوکن آو تو تو روز
رتھے پانٹو دنیس پٹھ) صبر سان قائم پتھ پانٹو تریہ و ہنر
آمت پتھے، بیہ تہننر خاہن ہنر پاروی
مہ کر بیہ ون نہ اللہ تعالیٰ) ہن یہ کینر شا پس نہ
کتابہ منز تأزل کورمت چھ ہر چھس تتھ پٹھ
اچان انان تو میہ چھ حکم و ہر آمت نہ ہر کہ

فَلِذٰلِكَ فَادَّبْهُ وَاَسْتَقَمَّ كَمَا اُمِرْتَ
وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ ؕ وَ قُلْ اٰمَنْتُ بِمَا
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ؕ وَ اُمِرْتُ لِاعْتَدِلَ
بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رُبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ؕ لَنٰآ اَعْمَالُنَا
لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حِجَّةَ بَيْنِنَا وَ بَيْنَكُمْ
اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنِنَا ؕ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝۱۹

توہمہ درمیان عدلہ سان فاصلہ - اللہ (تعالیٰ) چھ
سوں تہ پروردگار تہ تہند تہ پروردگار - ساد
اعمال چھ اسہ سوتہ تہ تہندک اعمال (چھ) توہمہ سوتہ
توہمہ تہ اسہ منز ہاگ چھنہ کپنہز نیاسے - اللہ
(تعالیٰ) کر اسہ (اگر وہہ) جمع - تہ تسو کن
چھ اسہ سار کپنہ پھیر تہہ گرتھن -

بیسہ تم لوکھ پیم اللہ (تعالیٰ) سہند حقہ مجا دلہ
لاگان چھہ نیلہ زن (واریا ہو لوکو) تسنہ آواز
قبول کر مہتر چھہ - تہنہز ڈیل چھہ تہندس
پروردگار س برونیٹ کپنہ پھتر راوہہ سہنہ واجہز
تہنہ پیٹھ سہد غضب تہا زل تہ تہندہ ہا پتھہ پیٹھہ
کر یوٹھ عذاب (لہکھتہ) -

اللہ (تعالیٰ) چھہ سے نیو پزہ ہتھہ یہ کابل کتا
(قرآن) تہ میزان تہا زل کورمت چھہ تہ توہہ
کو (یعنی کہہ کتہ) چھہ وونتہ زکرتہ ساعت
چھہ نزدیک امت -

پیم لوکھ تہتہ پیٹھہ ایمان چھہ انان تم چھہ تہ ساعتک
وہا لوہا یں سہترعان تہ مؤمن چھہ تہہ ہنہ کھوژان
روزان تہہ پتھہ چھہ تھوں ترسہ چھہ واقع سہتھہ
روزان وول - بوڑو! پیم لوکھ قیامت پیٹھہ
شک کران چھہ تم چھہ کس لا علاج گراہی منز
ولہہ آوتہ -

اللہ (تعالیٰ) چھہ سینہن ہندن ہندر پوشتہ

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا
اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ ﴿۱۵﴾

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَ
الْمِيزَانَ، وَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
قَرِيبٌ ﴿۱۵﴾

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا
وَ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَ
يَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، أَلَا إِنَّ الَّذِينَ
يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿۱۵﴾

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَدْرُسُ مَنْ يَشَاءُ

سہ قرآن کریمک کہ ناو چھہ "میزان" تھونہ امت - تہ کیاز اتھہ منز یوسہ کتھہ ونہہ یوان
چھہ پیٹھہ، ڈسپہ سان چھہ ونہہ یوان تہ ڈیل چھہ سار کپنہ انسان منز ہاگ
اگہ سرور قدر - تہ یوتام تہہ کانہہ اپز نہایت کر نہ سہہ ہیکرنہ اتھہ رد کر تہہ
قرآن کریم چھہ پرتھہ کتھہ ڈسپہ سان ونان لہذا چھہ سہہ "میزان"
یعنی یوسہ کتھہ تہہ چہتر کر منز پوڑو تر سوسے چھہ پز - تہہ مہ سار سہہ
کتھہ چھہ غلط، تہ کیاز، تہہ چھہ عقلم ہنہر شرکہ منز پوڑو وهران -

ذَهُ الْقَوِي الْعَزِيْزُ ﴿٦﴾

۴

بسر زمانان - نیمیس بیژھان چھ وافر برزق چھس
 دوان تہ نیمیس متعلق بیژھان چھ برزق منتر چھس
 کئی کران - سہ چھ بڑ طاقتہ وول تہ غالب -
 یس کاشرا آخریک زراعت بیژھان چھ اسی
 چھ تہند با پتھ تہند (آخریک) زراعت ہرلان
 گڑھان تہ یس کاشرا نیمہ دنیا یک زراعت
 بیژھان چھ، اسی چھ نیمہ (دنیا یکہ زراعتہ)
 منتر تہ تہند حصہ دوان (یعنی دنیاوی دولت
 چھ تہ میلان) تہ آخرت منتر چھ تہند کاشرا
 حصہ آسان -

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي
 حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا
 نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 نَصِيْبٍ ﴿٦﴾

کیا تم ہند با پتھ چھا تھو شریک؟ کیو تہند
 خاطر تہند دینی تعلیم تجویز کر مہتر چھ نیمیک
 اللہ (تعالیٰ) ہن حکم چھ تہ دیت تہ ہر گاہ
 اللہ تعالیٰ ہند طرف، آخری فاصلہ سپدلیت
 آسہ ہے تہ تہن درمیان پیہ ہے فاصلہ کر تہ
 تہ یقیناً ظالمین واتہ دگر وار عذاب -

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ
 مَالًا يَأْتُونَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ
 لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ﴿٦﴾

تہ چھ ہنک ظالم وچھان تہ تہم چھ پتہ علیہ ہند
 باعتہ کھڑان - حالانکہ سہ (وعدہ دینہ آمت عذاب)
 چھ تہن پیہ ضرور نازل سپن وول تہ تہم لوکھ
 کیو ایمان اذن تہ ایمانہ مطابق کرکھ عمل، تہم
 آسن گنہن یا عن منتر (تہ) تہندس پروردگار
 نیش آسہ تہند خاطر تہ سورے کیہنہ موچو نیمیک
 تہن اور زوے آسہ، یو ہے چھ بوڈ فہل -

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ
 وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضِ الْجَنَّةِ ۗ لَهُمْ مَا
 يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
 الْكَبِيْرُ ﴿٦﴾

یو ہے چھ سہ چیز تہ تہج اللہ تعالیٰ) بشارت دوان
 چھ، پتہن مؤمن بدن (یعنی) تہ تہن مؤمن بدن
 یکہ ایمانہ مطابق عمل تہ کران چھ، تہ وکھہ ہر
 چھو تہ تہہ پتہ تہم بدلہ کاشرا اجر نمان
 تہہ ماٹھنیاہ وراہی یس پتہن سارک وپہ کھو
 نزویک آشناون سوتی کر تہ یوان چھ - بیس تہن
 کاشرا نیکی، منتر کلام کران چھ اسی چھ تہم ہن

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ قَلَّ لَّا أَسْأَلُكُمْ
 عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۚ وَمَنْ
 يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۖ إِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٦﴾

نیکی تہنہ خاطر بیہ جاو حسین بناوان - اللہ
(تعالے) چھ سہٹا بختن بار (تہ) قدر زان وول
کیا تم جھاوانان نر اوی شخصن (یعنے نمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) چھ تھلیس پیٹھ اپڑ
لاگتھ تھومت ؟ اڈ امر اللہ (تعالے) بیترہ تہ
چائس ولس پیٹھ کر موہر - بیہ اللہ (تعالے) چھ
ہمیشہ باطل تہتاوتھ تھجان تہ حق چھ پستہو
تساو سبتی قائم کران - سہ چھ ولس ہنر کتھ
تہ زانان -

تہ سہ چھ یس پستہن بدن ہند توہر قبول کران
چھ بیہ چھ تہتدی خط معاف کران - تہ یہ کیتھھا
توہر کران چھو تہ چھ زانان -

بیہ مؤمن تہ اپمانہ مطابق عمل کرن والہن ہنر
دعا چھ قبول کران - بیہ چھ پستہ فضلہ سبتہن
(تہنہر حقہ کھوتہ تہ) جاو وول تہ کافرن ہنر
خاطر چھ سبت عذاب مقرر (سپتھ) -

بیہ ہرگاہ اللہ (تعالے) پستہن بدن ہنر
خاطر برق جادے گشاو کرے تہ تم ہنیہ ہن
ملکس منز سہٹا روے گردانی کرے - اماہ یوز
سہ پکیتھھا بیترہان چھ اندازہ مطابق چھ
تازل کران - سہ چھ پستہن بدن ہندو حالاتو
بشہ خبردار (تہ) تہتدی حالات کوچھن وول -
بیہ سہ چھ یس ناوہ میدی پتہر رود تراوان چھ
تہ پتہر رحمت چھ چھالوان بیہ سہ چھ (یوز)
پناہ دین وول (تہ) ساری نے تعریفن ہنر
ہابک -

بیہ آسمان ہنر تہر پتہ پیدائش تہ یہ کیتھھا تم
جن دہلونی منز ہابک نو دارن ہنر رنگہ چھالومت
چھ، چھ تہو ہندو تہتاو اندر تہ بیلیہ سہ پتہر
سہ آسہ تم ساری سوہراوس پیٹھ تہ قادر -

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّ
يَشَاءُ اللَّهُ يُخَيِّتُمْ عَلَىٰ قَلْبِكُمْ ۖ وَيَمُحُ اللَّهُ
الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۖ إِنَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۲۵﴾

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ ۖ
يَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۲۶﴾

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۲۷﴾

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَا فِي
الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّل بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ
بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿۲۸﴾

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مَن بَعْدَ مَا
قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ
الْحَمِيدُ ﴿۲۹﴾

وَمِن آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ
فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا
يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿۳۰﴾

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ
أَيْدِيَكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿۷۱﴾

بیسے پرچہ کا ہنہ مصیبت میں تو ہر واہر و سہ چہ
تہندو اعلو ہند موکو آسان تہ اللہ (تعالے) چہ
تہندو واریاہ تقصیر معاف کران۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۷۲﴾

بیسے تو ہی بیکیوں تہ (اللہ تعالیٰ تہندین ارادون
منز) زمبہ پبہ کتہ جلیہ تہ ناکام کتہ تہ اللہ
(تعالے) ہس وراہی چہونہ تہ ہر کاتہہ پناہ و ہس
وول تہ نہ چہ کاتہہ تہند اتہ روٹ کرن وول۔
بیسے تہندو نشانو منہ چہ مہارن ہندو پانگی

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿۷۳﴾

سمندرس منز پکونہ ناہ (یعنی ہم زن سہما تہ
تہز چہیہ آسان)

إِنْ يَشَاءُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِبَ
عَلَى ظَهْرِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ
صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۷۴﴾

تہ اگر سہ بیٹھ تہ وائس ٹھہرو تہ تم گزھن
سمندرس آس پبہ کتہ (اُکسے جلیہ) روزتہ
اتہ منز چہ پرچہ صبر کرن وائس تہ قدر
زانن وائس رکو نشانہ۔

أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ وَيَعْفُ عَنْ
كَثِيرٍ ﴿۷۵﴾

یا اگر سہ بیٹھ تہ ناہ (والہن) کر تہندو اعلو
ہند باعہ ہلک بیسے چہ سہ واریاہ گوناہ معاف
کران۔

وَتَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا
لَهُمْ مِنْ مَخْرَجٍ ﴿۷۶﴾

تہ سہ چہ تمہن لوکن زانان ہم سانہن نشانہ منز
بخت کران چہ۔ تہند خاٹہ چہنہ تہ پچ کتہز جاسے۔

فَمَا أَوْتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَنْفُسُ
الَّذِينَ أٰمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۷۷﴾

بیسے بی کینٹھا تہ ہر و ہر آمت چہ سہ سپارچہ
زندگی ہند سامانہ تہ یہ (کینٹھا) اللہ (تعالے)
ہس نش چہ سہ چہ مؤمن تہ پشش پروردگار
پبہ تول کرن والہن ہند خاٹہ حادرت تہ جاہ
بائے روزن وول۔

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ كَلِمَةَ الْآثِمِ وَالْ
فَوَاحِشَ وَإِذَا مَا مَضُوا هُمْ
يَعْفُونَ ﴿۷۸﴾

بیسے (تمہن ہند خاٹہ) ہم گوناہو تہ بدکاری ہنہ
بچان چہ تہ میلہ تمہن ترکہ چہ کھسان تہ تم چہ
معاف کران۔

لہ سانہ زماکو بگری جہاز چہ امہ آنگ جاہ مصداق تمکبانہ تم چہ و پورہ تہ پورہ بلکہ
تمہ تہ جاہ پورہ والہ آسان تہ سمندرن منز چہ مہارن ہندو پانگی ہونہ لیون۔

عَذَابٍ مُّوقِنٍ ﴿٢١﴾

تراوی - کن دُرتھ بوزو! ظالم لُکھ آسن
اکیس قایم روزن واپس عدلیس منتر -
تہ بہن پناہ دینہ والی آسن نہ کنہنہ ییم اللہ تعالیٰ
ہس مقابلہ بہن مدد کر تھ ہبکن - تہ بیس
اللہ تعالیٰ (گمراہ زانان چھ تہس و تہ پیٹھ
انگ چھنہ کنہنہ تدبیر -

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ، وَ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٢٢﴾

توہر دیو پنشن پروردگار ہندس آلوں (تھ پیٹھ
لیک و نان) بواب - امہ بروٹھ نرس و تہ
پسہ پتھ اللہ تعالیٰ) ہس مقابلہ کنہنہ پھرن وول
چھ نہ - تہ وہ ہر آسہ نہ تہنہ خا طہ
کنہنہ جای پناہ تہ تہنہ خا طہ آسہ تہ انکار
تہ کنہنہ گنہنہ

لَا سَتَجِدُ يُؤْتُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
يَوْمَهُ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ، مَا لَكُمْ مِنْ
شَيْءٍ يَتَوَكَّلُونَ عَلَيْهِ، وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٢٣﴾

یوہ وے تو پتہ تہ ہم روے گردانی کرن تہ،
(کران روزی تن) - اسہ سوزک تہ تہ بہن پیٹھ
را چھدر بناوتھ، تریہ پیٹھ پیٹھ صرف کتھ وانا
فرمن تہ نیلہ اسی زانہہ سانس پستہ طریق
رحمت و اتنا وان چھ تہ تھ پیٹھ پیٹھ سہ خوش
سیدان تہ اگر تہنہ کتھ علم ہنہ باعہہ (سانہ
طرف) تہ تکلیف وایہ تہ انسان چھ ناشکری
کرن وول بنان - (تہ بروٹھ مین ساری ہنہ
فضلن ہنہ چھ انکار کران) -

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقَمَا أَنزَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِظًا، إِنْ عَلِمْتَ إِلَّا الْبَلَاءُ، وَإِنَّا إِذَا
أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَدَحَىٰ بِهَا وَ
إِنْ تُصْنَعُهُمْ سِغَاتُهُ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَهُمْ
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٢٤﴾

اللہ تعالیٰ) بہنہ خا طہ چھہہ زینچ تہ آسان ہنہ
بادشاہت، سہہہ کینترھا بیترھان چھہہ تہ چھہہ پاد
کران دتہ) بیس بیترھان چھہہ تہس چھہہ کورہ ووان -
تہ بیس بیترھان چھہہ تہس چھہہ نیچوہ ووان -
یا چھہہ کورہ تہ گبر رلہ بلہ ووان (یعنے کورہ
چھہہ پاد سیدان تہ نیچوہ تہ) تہ بیس بیترھان
چھہہ تہس چھہہ بانہہ بناوان - سہہہ چھہہ بڑ علمہ وول
(تہ) قودرتہ وول -

يَلْمِ إِلَهُ مَلَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَا يَخْلُقُ
مَا يَشَاءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ شَاءَ، وَإِنَّا لَنَاقِدُ يَهَبُ
لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٢٥﴾

بہہ کانسہ انسانہ ستر چھہہہ یہ حیثیت تہ اللہ تعالیٰ)

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَجْعَلُ
مَنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا

أَوْ مِنْ ذُرَايِ حَجَابٍ أَوْ يُزِيلَ
رُسُوكَ فَيُوحِي بِإِذِينِهِ مَا يَشَاءُ
إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۷﴾

کرتس سوتی کلام و حیرہ و رائی یا پردس پتو کو کتھ کرنو
ورائی یا امر و رائی زرسوز (تس کن لایکو منز)
رسول (بتاوتھ) یس اتھند حکمہ سوتی یہ کیترھا
سہ و نر سو کتھ واتناو۔ سہ چھہ بڑ شاہنہ وول
(تہ) حکمشن ہندز ان وول۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ
وَمِنْ عِبَادِنَا ذَا نِكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۸﴾

بہ پتھہ پٹھو چھہ اسہ تریہ کن پنتہ حکمہ سوتی
کلام نازل کورمت۔ تہ او سکھ تہ زانان ز کتاب
کیا چیز چھہ تہ او سکھ تہ زانان ز ایمان کیہا
چیز چھہ۔ اماہ پوز اسہ چھہ اتھہ (چاہنہ و حیرہ) لوز
بنومت۔ تہ دوس چھہ اسی پشنہ بندو منز نہیں
بیزرھان چھہ ہدایت جیس دوان تہ بلا شک تہ
چھہ لکھ سیز و تہ کن انان۔

صِرَاطٍ إِلَهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ؕ اِلٰلٰهٖ تَصِيْبُ الْاُمُوْدُ ﴿۱۹﴾

اللہ (تعالیٰ) ہنتر و تہ کن یس تمیک تہ تابک
چھہ تہ آسمان منز چھہ بہ تمیک تہ یہ زمینہ
منز چھہ۔ بو زو! سارے معاملہ چھہ خلیہ ہے
کن گرتھان (یعنے ساری نے معاملن ہند گہ ڈ
تہ اند چھہ خلیہ ہندی ہے اتھس منز)۔

سُوْرَةُ الزُّخْرِفِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَمُ الْبِسْمَلَةِ تَسْتَعِينُ بِآيَةِ وَسَبْحَةِ رُكُوْعَاتٍ

سُوْرَةُ زُخْرَفٍ : يَه سُوْرَةُ چھہ کتی تہ بسم اللہ بہت چھہ اتھ نمٹھ آہ بہ جیس ستھ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

(بہ جیس) اللہ (تعالیٰ) سندا و بہتہ بران) یس
حد روس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر رجم
کرن وول چھہ۔

سہ بندس سوتی اللہ تعالیٰ ہند کلام کرنی چھہ تریہ طریقہ بیان کرنہ آہو اکھ گنو سید سیدو کبر سہ
بندس سوتی کتھ دویم گرومن و رائی حجاب یعنے پردس پتو کو کتھ تہ کتھ تھاس یا کشمنس منز اکھ تعبیر طلب
نظارہ ماورہ لان چھہ تہ کس تعبیرس منز چھہ پچام آسان۔ تریہ منورت چھہ یہ ز اللہ تعالیٰ چھہ ملائکہ ہند
دوس پتن کلام بندس تام واتناوان۔

﴿حَمْدٌ

﴿حمید تہ مجید (خدا ہیہ ہند طرفہ چھہ یہ سؤز تابل
سیدمت)۔

وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿۱﴾

اُسی چھہ بیکر کتاب ہنر درہے لوان (یعنی یہ چھہ
شہاد تہ کنہ پیش کران ایو سہ پنہز مضمون و اسس
کڈتہ بیان کران واجہز چھہ۔

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿۲﴾

اسہ چھہ یہ کتاب قرآن بنومت (تہ قرآن تہ) بیقہ
یس عربی لہ چھہ بیقہ زن توہر فکر تری و۔

وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ
حَكِيمٌ ﴿۳﴾

بیہ سہ (یعنی قرآن) چھہ ام الکتاب لہ منز تہ اسہ
نش چھہ بڑ شاہ وول (تہ) بجر حکمت وول۔

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ
كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿۴﴾

کیا اسی تزاو وا توہر برونتہ کنہ ذکر (یعنی کتابہ) ہند
بیان کران محض او کئی ز توہر چھو حد وراہت توہر؟

وَ كَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿۵﴾

بیہ چھہ اسہ برونتہ من قومن منز (تہ) وراہہ
نبی سوزی ہوتی۔

وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۶﴾

تہ ہنر نش اوس نہ کا نہہ نبی یوان یس نہ ہم
ٹا نہ کران اسی (تو پتہ تہ سوز اسہ ہنر
کن ٹوسی)۔

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضَىٰ مَثَلُ
الْأَوَّلِينَ ﴿۷﴾

بیہ اسہ اسی تہنہ کھوتہ تہ جاو طاقتہ و اول لولک
(انکار کئی) ہلاک کرک ہوتی (او ییم ہلاک کرنس منز
کیا مشکل چھہ؟) بیہ یس لاکن برونتہ کتہ چھہ

برونٹہ من لاکن ہندی حالات گڈرے سہ تی۔

وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ
الْعَلِيْمُ ﴿۸﴾

بیہ اگر تہ ہنر پیرز کھ تہ آسمان تہ زمین کو
چھہ پاو کرک ہوتی؟ وچھتہ ہم و ہنے غالب (تہ)

سہہا علم تھون واجہز ہستی چھہ ہم پاو کرک
ہوتی۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ جَعَلَ
لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۹﴾

تو (ہستی) بیجو زمین تہنہ خاطر و تھون بناو
تہ تھہ منز چھہ تہنہ خاطر و تہ بناو نمتر

بیقہ زن توہر ہایت یو۔

لہ قرآنایہ تہنہ کتاب یوسہ کثر تہ سان پر نہ بیہ "عربیاً" بیبیک فکر ترن سہل آسہ۔
لہ اُمّ الْكِتَابِ، یعنی کتابن ہنر موج یعنی بنیادی تہ اصولی کتاب۔

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ
فَانشَرْنَا بِهِ بَلَدًا مَيْتًا كَذَلِكَ
تُخْرَجُونَ ﴿۱۱﴾

تہ تو کجھ اوپر منبر اکر انداز مطابق آب دولت
پتہ چھن امر دکر اکھ مورہ زمین زبند کر مہتریتہ
پاٹھی جیو تو ہی تہ (زبند کر تھ) کدنیہ۔

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ
مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿۱۲﴾

تہ تو کجھ تہندہ خاطر پر پتہ تہسکر جوہر پاؤ کر
متر۔ تہ پتہ پاٹھی چھن چار پاہ پاؤ کر ہی
بیہ چھن ناؤ بناؤ منبر زمین پتہ تو ہی سوار
سپدان چھو۔

لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا
نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ
تَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا
وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿۱۳﴾

یلیلہ تو ہی تہن پتہ برقی پاٹھی بہو تہ پتہ کر
پتہس پروردگار سبز نعمت یاد تہ یہ و لو
زریک چھ سہ خلا سیکو اسہ تہن پتہ تہنہ
بختومت چھ۔ حالیکہ اسی ہیکہ ہو کہ تہ تہہ
پتہ زور پتہس حکمس تہل انتہ۔

وَأَنَّا إِنَّا لِرَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿۱۴﴾

بیہ چھ اسی پتہ پاٹھی کہ وہ پتہس پروردگار
کھن واپس گرتھن واول۔

وَجَعَلُوا آلِهَةً مِّنْ عِبَادِهِ جُزْءًا مِّنْ
أَلْهِنَاسَ لِكُفُورٍ مِّمَّنْ ﴿۱۵﴾

(مگر حال چھ یہ نہ) تہو چھ تہندہ (یعنی خدایہ
سند) خاطر تہندہ بندو منبر اکھ حصہ (یعنی کور)
تجوہر کر تھ تھا و منبر۔ انسان چھ بے شک ٹاکار
ناشکری کرن اول۔

أَمْ اتَّخَذَ وَمَا يُخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُمْ
بِالْبَنَاتِ ﴿۱۶﴾

(تہن پر تھو تہ سہی نہ) کیا تو بناو یا پتہ
مخلوقا تہ منبر پتہ خاطر کور تہ تو ہد دیت
نوا گہرو سرتی بجزرہ

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ
لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ
كَظِيمٌ ﴿۱۷﴾

بیہ یلیلہ تو اندر کانیہ تہج خبر وہ یوان چھ
پتہ سہ رحمان (خدایس) سہ مران چھ اہ
تسند پتہ کر ہن گرتھان تہ سہ چھ تھ سرتی
پتہس یوان۔

أَرَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحَلِيَةِ وَهُوَ فِي
الْخِصَاءِ غَدِيرٌ مِّمَّنْ ﴿۱۸﴾

کیا سو یوسہ گہن منبر پتھان چھ تہ نیالیس
منبر چھن وہ نہج کتہ برقی پاٹھی باوتھ ہکان

(سچا خرابیہ ہندس محس منز یوان ؟ تہ
غائب روزن وول مرد پیا انساہ ہندس محس
منز ۹)

بیہ جو چہ ملا یک ہم رحمان (خدا یہ) ہندو بندہ
چہ، زناہ گنہ راوی ہستی۔ کیا تم ام سیا تہنہ
پیدا نیشہ ویز موبود ہ (یود وے یہ کتہ چھینہ)
تیلہ پیہ ضرور تہنہ شہادت لیکھتہ۔ بیہ پیہ
تمن (قیامت کر وہ ہر) اتھ متعلق پترہ منہ۔

بیہ چہ تم وناں اگر رحمان (خدا) بیترہ
تیلہ کر ہو نہ اسی تس ورا لی بین معبود ہنہ
عبادت یہ کتہ چہ تم محس انداز لاکتہ ٹرٹران
وناں۔ تمن چھینہ تمک حقیقی عالم ہرگز مابل۔
کیا اسہ چھا تمن بیہ (قرآن) بروٹھ کا نہہ
ترتھ کتاب وتر ہنہ (یتہ منز یہ کتہ لیکھتہ

اسہ ہے) ز تم چہ تمہ کر و سپلہ وپیل رمان۔
ترتھ کتہ چھینہ، بلکہ پتر چہ یہ تر تم لاکھ چہ
اتھ کتہ پیٹھ ڈٹھتہ ز اسہ اسی پتر جہاد
اکس طریقس پیٹھ لہو ہستی تہ اسی گترہ تہنہ
نے پڈر اکھن پیٹھ پکان۔

بیہ (اے رسول!) تر یہ بروٹھ سوز نہ اسہ کتہ
بستی منز رسول ز بیہ ہندی پاٹھو اسہ نہ تہ
کو مالدارو یہ ووتنت ز اسہ اسی پتر جہاد
اکس طریقس پیٹھ لہو ہستی تہ اسی کو تہندی
نے نقش قدم پیٹھ۔

(اتھ پیٹھ) دیت (پر تہ رسولن) جواب ز کیا
یود وے ہر تو بہ نش تمہ نیشہ بہتر تعلیم اپہ یتہ
پیٹھ تو بہ پتر جہاد لہو ہستی اسی و (توتہ روزک
وا تو ہستی پیٹھ ڈٹھتہ ؟) تہ تو دیت جواب
ز یہ تعلیم ہتہ تہ سوزن امت چھکھ، اسی چہ تمکی
سبکر۔

وَجَعَلُوا الْعَذَابَ الَّذِي هُمْ عِبْدُ
الرَّحْمَنِ إِنَاءً أَطْعَمُوا خَلْقَهُمْ
سَخَّطْنَبْ شَهَادَتُهُمْ وَ يُسْخَلُونَ ⑩

وَقَالُوا الْوَيْحَ الرَّحْمَنِ مَا عَذَبْنَا هُمْ
مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ
إِلَّا يَخْرُصُونَ ⑪

أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ هُمْ
بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ⑫

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ
وَ إِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُتَعَدُونَ ⑬

وَ كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي
قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُنْذِرُونَاهَا إِنَّا
وَ جَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ
مُتَعَدُونَ ⑭

فَلِأَن كُنْتُمْ بِآهْدَىٰ مِنْهُمْ وَ جَدْتُمْ
عَلَيْهِمْ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كَافِرُونَ ⑮

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿۳۱﴾
 تہ اسر ہیوت بہن انتقام لہذا وچھتہ اپراون والہن
 ہند انجام کیا سپد ؟

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَاتٍ
 بَرَآءًا وَمِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿۳۲﴾
 بیہ (یاوو یاد) بیلہ ابراہیم پینش بایس تہ
 پننس قومس وڈنمت اوس نہ بہن (ہستین)
 ہنر توہی عبادت کران چھو بہر چھس بہن ہنش

بے زار۔
 اَلَا الَّذِي فُطِّرَ فِائَةً سَيِّئِينَ ﴿۳۳﴾
 تہس (خدا ایس) وراہی سیکو بہر یاد کورمت چھس

تہ سہ دیہ میہ ضرور ہدایت۔
 وَجَعَلْنَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳۴﴾
 تہ ابراہیم تر او پانس پتہ بہر تعلیم پسندور یا نہ
 مشر اکہ روزون یادگار، میتھ زن ہم (شکر ہنشتہ)
 بازین۔

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَاٰبَاءَهُمْ حَتَّى
 جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۳۵﴾
 پزہر چھہ بہر میہ واتنوو بہن تہ بہندین جہن
 اجدادن دنیایوی فایدہ یوت تام نہ بہن ہنش ہر
 تہ او تہ واش کڈتھ دن وول اکہ رسول تہ او۔

وَكَأَيَّ جَاہِمْ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
 وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿۳۶﴾
 بیہ بیلہ بہن ہنش پزراو تہ تمو وون ہم تہ
 چھینہ محض لوہر و نہ کہتہ تہ اسی چھہ اکی منبکر۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى
 رَجُلٍ مِّنَ الْقَرَبَاتِ عَظِيمٍ ﴿۳۷﴾
 بیہ بہ اعتراض تہ کورکھ نہر یہ قرآن کیا نہر سپد
 نہر دوہو ہڈو شہرہ مشر کانسہ ہر بس مہنوس
 پیٹھ ہازل ؟

أَمْ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ
 قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَوَازِينَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ بَعْضًا
 سَخِرِيًّا وَرَحِمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۳۸﴾

ہم چھا بچائش پروردگار ہنر رحمت باگراوان بہر
 کہتہ پاٹھ ہیکہ سپد تھہ ؟ اسر چھہ ہم دویان
 دنیایوی زندگی سہتی واٹھ تقون واکر تہندردگار
 سامان باگراور ہتو بہر چھہ تمو مشر کینٹرن پیٹھ
 کینٹرن تھنر دیت مت۔ بیہ بہر کہو تمو مشر
 کینہہ (ہرے) کینٹرن (لوکاپن) حقیر زانن ہوان
 چھہ۔ تہ پانس پروردگار ہنر رحمت چھینہ ہنر
 تہ ساری مال دولتہ کھوتہ لیس تم جمع کران

أَمْ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ
 قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَوَازِينَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ بَعْضًا
 سَخِرِيًّا وَرَحِمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۳۸﴾

أَمْ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ
 قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَوَازِينَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ بَعْضًا
 سَخِرِيًّا وَرَحِمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۳۸﴾

أَمْ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ
 قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَوَازِينَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ بَعْضًا
 سَخِرِيًّا وَرَحِمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۳۸﴾

أَمْ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ
 قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَوَازِينَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ بَعْضًا
 سَخِرِيًّا وَرَحِمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۳۸﴾

لہ یعنی یہ قرآن کیا نہر سپد ا کس یتیمس پیٹھ ہازل بہر گوتہ کہہ یا طائف کس
 کانسہ ہر بس رعیسس پیٹھ ہازل سپدن۔

چھ -

بيہ يودوسے يہ خوف آسہ ہے تہ ز ساری لوکھ سپدن اکی طرف نظر تنيد بناو ہوکھ اُسی رحمان (خدايہ) سُن کفر کرن والين لوکن ہندبن گرن ہندک پش تہ ہسیر تہ ایمن پہنٹہ تم کہہہ من، رو پہ ہسیر۔

وَلَوْلَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً
لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرْ بِالرَّحْمٰنِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ
سُقْفًا وَّ مِنْ فُضُوْٓةٍ وَّ مَعَارِجٍ عَلَيَّهَا
يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٧﴾

بيہ تہ ہندبن گرن ہندک دروازہ تہ (بناو ہوکھ رو پہ ہندک) تہ (پتھے پا کھو) تم مجھسترل تحت پوش تہ یمن پہنٹہ تم ڈکھو دتھ مہسان چھ (تم تہ بناو ہوکھ اُسی رو پہ ہندک)۔

وَلِيُبَيِّنَ لَهُمْ اٰنْوَابًا وَّ سُوْرًا عَلَيَّهَا
يَتَّكِفُوْنَ ﴿٢٨﴾

نتر ما بناو ہوکھ (پیم ساری چیز) سوہ تہ ہندک اماہ پوز یہ سورے کیہنہ چھ سیکمہ زندگی ہند سامانہ تہ آخرت (یعنے متتیک آرام) چھ پائین پروردگار ہند فاصلہ مطابق متفقین ہند خاطر خاص کر تھ۔

وَرُحُوْرًا وَّ اِنْ كُلَّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَّعِ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَّ الْاٰخِرَةَ وَّ هٰذَا
رَبُّكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾

بیہ لیس کاہنہ رحمان (خدايہ) ہند ذکر ہنٹہ پھیرن چھ، اُسی چھن تش پیٹھ اکھ شیطانی خصلتہ وول وجود قالب کران تہ سہ چھ تہند پر پتھ روز ہند سوتو بوج بنان۔

وَمَنْ يَّغْتَشِ عَنِ الذَّحٰرِ الْمَخْمِيْنَ نَقِيْضٌ
لِّهٖ شَيْطٰنًا ذَمُوْلًا لِّهٖ قَرِيْنٌ ﴿٣٠﴾

تہ تم (شیطان) چھ ہنٹن کابل (تہ پز) و تہ ہنٹہ پتھ رٹان گمرام باوجود چھ تم گمانہ کران تہ تم چھ پز و تہ پیٹھ پکان۔

وَاللّٰهُمَّ لِيَصُدُّوْهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَّ
يَحْسَبُوْنَ اَنَّهٗمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣١﴾

اماہ پوز (یہ چھ متفقہ وقتس تام سپدن یوت تام یقہ انسان زندہ روزان چھ) یئید سہ اسہ پش یوان چھ تہ (سارچہ غلط فہمیہ چھیہ دور سپدن تہ سہا چھ دن، ہوان۔ اسے کاش! میہ مغز تہ (اسے شیطان!) تریہ مغز آسہ ہے مشرق پیٹھ مغربس (تام) دور پر۔ اوکئی (سید پانہ انسان ہند شہادتہ سوتو شہادت ز) سہ (یعنے شیطان) چھ سپٹھا ناکارہ سوتو بوج۔

كٰفٰٓيْ اِذَا جَاۤءَنَا قَالِ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ
بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَوَسَّسَ الْغَوِيْنَ ﴿٣٢﴾

تہ (اُسی) ولو تمہ وہ مہر انسان ز (نیلیر توہر

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ اٰلِهٖمْ وَاذْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ

فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٦٠﴾

ظلم کورمت چھو تہ یہ کتھ ہنکو و تہ توہہ کاتہہ
نفع و اتناوتہ ، تر توہہ تہ تہنتہ دوان وانی چھو
غذائس مشز (پانہ وانی) شریک ۔

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ آذَانَ سَمِئِ
وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾

کیا تر ہیک ہنا زور بوزناوتہ تہ ائس ہنکو کھا
وتہ تہوتہ ؛ بیہ بیتھے پانٹھ لیس ٹاکا ہر گراہی
مشز ہسپتہ آمت اسہ دتس ہنکو کھا تہوتہ تہوتہ ؛
اد اگر اسی تر سیکہ دنیاہ مشز ہنوتہ تہ یعنی
وفات دوسے) تو پتہ تہ ہمو اسی ہمن
ضرور اتقام ۔

فَأِنَّمَا تَذَهَبْنَ بِكَ فَأَنَّا مِنْهُمْ
مُتَقَرِّمُونَ ﴿٦٢﴾

یا اسی ہاوسے تریہ تہ (کیہنہ) ہنیک اسہ ہمن
سوتی و عہ کورمت چھو ۔ (یاد تھو) اسی چھ ہمن
پیٹھ پور پانٹھ تھچھ تھاوان ۔

أَزْنُوبِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَأَنَّا
عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿٦٣﴾

بیہ تر رٹن ڈری پانٹھ سہ کلام لیس تریہ کن
وہی کرہ آمت چھ تہ کیا تر تہچھ سیز و تہ
پیٹھ ۔

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُذِيَّتْكَ بِإِنَّكَ
عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٤﴾

تہ (یہ کلام) چھ چانہ خاطر تہ شرفک تہ عزہنگ
موجب تہ چانہ قوم خاطر تہ ۔ بیہ توہہ بیہ
و ضرور تہندہن اعمالن متعلق پرتھہنہ ۔

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ
تُنصَلُونَ ﴿٦٥﴾

بیہ یک رسول اسہ تریہ بروٹھ سوزی ہمن پرتھہ
کیا اسہ اسارحمان (خدائس) ورائی بین
معبودن ہنر تہ ہمنعبادت کرہ یوان اسس
(پستہن کتابن مشز) کتھ تجھترہ ؟

وَسَقُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً
يُعْبَدُونَ ﴿٦٦﴾

تہ اسہ سوزا موسیٰ پیہنہ نشانہ دتھ فرعونس تہ
تہندہن دربارہن کن تہ تھو و نیاو (ہمن ہنس
گرتھتھ) نہ ہر چھس سارہنے عالمن ہندس
پروردگار ہند طرفہ رسول ہنہ آمت ۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَائِكِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾

پیہ نیلیر سہ ہمن نش سانی نشانہ ہتھہ او ۔ تہ
تھو ہنہ بوز دتے ہمن پیٹھ ٹانہ تر تھو ۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا
يَضْحَكُونَ ﴿٦٨﴾

بیہ اسی لیس تہ نشانہ ہمن ہاوان اسی سولس

وَمَا نُؤْمِنُ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ

بہ یہ یلیلہ تہ ابن مریم بطور مثال پیش کرنے
یوان چھ تہ چون قوم چھ اتھ (کتھ) پیٹھ
کرکہ نادتلن ہوان۔

بہ یہ پتہ چھ ون ہوان زسانی معبود چھا رتی
کہنہ سہ (یعنی عیسیٰ) چھ رت۔ تم چھ یہ کتھ
تزیہ بروٹھ کہنہ صرف مجادلہ باچھ کران۔ پزیر
چھ یہ نہ اتھ تومس چھ حقس خلاف مجادلہ
لاگنک عادت۔

سہ (یعنی عیسیٰ) تہ اوس صرف اکھ بندہ عیسی
پیٹھ اسہ انعام کورمت اوس تہ سہ اوس بنی اسرائیل
ہند خاطر بطور عبرت بنومت۔

بہ اگرا سہ یہ تھو تہ توہی اندہ تہ بناو ہو کہ کینہ
ملیک یم زمینہ منز تمہتر جاہ آباد آسہ ہن۔

بہ چھ سہ (یعنی قرآن) پتی مہ گر ہند علم عطا
کران۔ لہذا توہی مہ کرو ساعس متعلق شک۔
تہ (اے لوگو!) توہی کرو میانی تابلہ داری
یہہ چھینہ سیز و تھ۔

یتھہ حقہ نش دور گزھن وول شخص توہہ
سیز و تہ ہنہ چھ رت و۔ سہ چھ تہندہ کار دشمن۔

بہ یہ یلیلہ عیسیٰ (دوہیس بعثتس منسرا) ہتتا نہ ہتھ بہہ۔
تہ سہ ونہ نہ بہ چھس توہہ نش حکمتہ چہ کتھ
ہتھ امت۔ بہ چھس او کو امت یہ تہ زن توہہ
کینہ تڑھ کتھ فکر تاروہو یمن منز توہی اتلان
کران چھو، لہذا اللہ (تعالے) سہ تقویٰ پر او۔
بہ کرو میانی فرمانبرداری۔

اللہ (تعالے) ہے چھ میون تہ پروردگار تہ تہندہ
تہ پروردگار۔ لہذا تہ تہ عبادت کرو۔ یہہ
چھینہ سیز و تھ۔

لہذا یہ بوڑھہ لگی تہندہ مخالف دُرک پانہ وائی ہوان

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَآ
قَوْمٌ مِّنْهُ يَصِدُّونَ ﴿۵۱﴾

وَقَالُوا يَا إِلَهَنَا خَبِئْ أَمْهُوَ مَا ضَرَبْنَاهُ
لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿۵۲﴾

إِن هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ
مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۵۳﴾

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي
الْآرَازِ يَخْلُقُونَ ﴿۵۴﴾

وَلَئِن لَّمْ يَكْفُرْ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُنُّنَ بِمَا
وَأْتِيحُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُّشَقِّقٌ ﴿۵۵﴾

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُّبِينٌ ﴿۵۶﴾

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
بِالْحِكْمَةِ وَالْبَيِّنَاتِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي
تَخْتَلِفُونَ فَبُهِتُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَاطِيعُونَ ﴿۵۷﴾

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا
صِرَاطٌ مُّشَقِّقٌ ﴿۵۸﴾

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ

تہ اسہ کور نہ تمہن پیٹھ ظلم مگر تم اسی پانے
پینہن زون پیٹھ ظلم کران روزان۔

بیہ تم ون آلو۔ ہے مابک! (یعنی جہنمہ کر حاکم!)
چائس پروردگارس پیز ہے نہ اسہ دیہ ہے موت۔
سہ ونیکھ توہی روزو اتھ منزئینہ کال تام۔

(خدا تعالیٰ چھہ ونان) اسی اسی تو ہدیش حق
ہتھ آہتہ امانہ پوز توہیہ منز اسی واریاہ حقس
نغرت کران۔

کیا تمہو لوگو چھا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ)
حملہ کرنک کانہہ فاصلہ کورمت ؟ (اگر تڑھ
کتھ چھینہ) تیلہ چھہ اسہ تہ تہنہز تباہی ہند
فواصلہ کورمت۔

کیا تم چھا یہ گمان کران نہ اسی چھینہ تہنہز ہسہ
کتھ تہ کھتھ مشورہ بوزان؟ یہ کتھ چھینہ، مابک
سائس سوز تہی چھہ تمہن لہ بہتھ لیکھان روزان۔
تہ ونکھ نہ اگر رحمان (خدایس) کانہہ نیچو اسی
ہے تہ ہر کر ہ سارک وہے بروٹھ توہنہز عباد۔

آسمان ہند تہ زمینک پروردگار تہ عرشک پروردگار
چھہ تمہو سارک وہے (شرکی بھتو) ہنہر پاک۔

ہیم مشرک بیان کران چھہ۔

لہذا (اے پیغمبر!) تہ تراؤکھ تم نہ گندگی روزان
ہوادوان۔ تہ تھہ وقتس تام روزان بندان یوتام تم
لہن پسہ عذابک وقت، نیکیک تمہن وعسہ
کرہ امت اوں۔

بیہ سے (خدا) چھہ آسمان تہ زمینہ منز کئے میبود
بیہ چھہ سہ بچہ حکمتہر وول تہ سبھا زنان وول۔

بیہ بچہ برکتہ بخش واجی چھینہ سہ ہستی یوہ سہ
آسمان تہ زمینہ تہ یہ کثیرتھا بکن درمیان چھہ
تمہن سارک ہنہ منز بادشاہتچ مابک چھینہ تہ

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ
الظَّالِمِينَ ﴿۴۳﴾

وَنَادُوا بِمَلِكٍ لِّيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبَّنَا
قَالَ إِنَّكُمْ مَا تُكْفُرُونَ ﴿۴۴﴾

لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ
لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿۴۵﴾

أَمْ أَمْرًا مِّمَّا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿۴۶﴾

أَمْ يَخْسِبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سَرَّهُمْ
تَجِبُوهُمْ دَبْلٌ وَرُسُلَنَا لَهُمْ
يَكْتُمُونَ ﴿۴۷﴾

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَدٌّ
فَأَنَّا آدِلُ
الْعَبِيدِينَ ﴿۴۸﴾

سُنْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ
الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۴۹﴾

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى
يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿۵۰﴾

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ
إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۵۱﴾

وَتَذَرْتِ الَّذِينَ لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَهِنَّدَهُ عِلْمُ
السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۵۲﴾

قیامتک تعلم چھ صرف تسو حاصل تہ تسو کن
بیو توہی پھیرتھ نہہ۔

تہ بیم لکھ خدایس وراہی بکن آلو دوان چھ تم چھ
شفا کو مالک۔ وول گووئے چھ شفا تکت حق
تھاوان یس پزیرج شہادت دیلہ تہ تم دکا فیرا
چھ (یہ حقیقت) زبر پائو زاتان۔

بہ اگر تہ تم پزیرجک زہ تم کئی چھ یاد کرک
ہو؟ او تم ورن ضرور اللہ (تعالے) ہن،
او کوک چھ تم بر سراوتھ نہہ یوان۔


تہ اسہ چھ لہند (یعنی تس رسولہ ہند) تم توک
قسم! (بیلہ تم و نیاو) اے میانہ پروردگار!
تہ قوم چھ تیمتہ یس پزیرس پیٹھ ایمان چھ نہہ انان۔
او کو (دراو اسہ تس جواب نہ) تم کر درگزر
تہ صرف آس میتے دعا کران نہ توہہ پیٹھ سپن
خداپہ ہنر سلامتی نازل۔ تہ تیمک نیسہ تہ نتیجہ
نہ تم ہن (حق) زان۔

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاأَنْ يُؤْفَكُونَ ﴿۳۴﴾

وَقِيلِهِ يَرْبِّ إِنَّا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿۳۵﴾

فَاضْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلِّمْ وَسَلِّمْ
يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾



سورة دخان، یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ بہتہ چھ اتھ شہیدہ آہرہ ہسہ چھس تریہ رکوع۔

(یہ چھس) اللہ (تعالے) سندا ناو ہتھہ (پران) یس
حدہ رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرو پھیرو رحم
کرن وول چھ۔

(یہ چھ) حمید تہ مجید (خداپہ ہند طرفہ) نازل
سیدمت سورہ)۔

اسو چھ (امر پزیرجہ تہایت کرنہ خاطر) وانش
گڈتھہ بیان کرن واجنہ کتابہ ہنر درہے کران۔

يَسُو اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۱﴾

حَمْدٌ ﴿۲﴾

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿۳﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٥٠﴾

دیعے یہ چھن شہادت پر کبہ پیش کران)۔
اسر چھینہ یہ کتاب) اوس برکش واجبہ راتر منزائل
کر ہنر، تہ کیا ز اوس چھ ہمیشہ وتہ اولی ہستین
ہشتایر کران روزان۔

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٥١﴾

اتہ راتر منزله چھینہ پر چھ حکمتہ واجبہ کتہ
بیان کرنہ یوان۔

أَمْرًا وَمَنْ عِنْدَنَا إِنَّا كُنَّا مُزِيلِينَ ﴿٥٢﴾

پر چھ سم کتہ نیٹیک اسر پسندہ دربار حکم و ہمت
چھ۔ اوس چھ ہتھس موقعس پیٹھ ہمیشہ رسول
سوزان۔

رَحْمَةً وَمَنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٣﴾

یہ چھ چائس پروردگار ہند طرفہ بطور رحمت
آسان۔ سہ چھ سبھا دعا بوزن وول (تہ) دن
ہندک حالات زان وول۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّنَا
إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٥٤﴾

(یعنے) تس پروردگار ہند طرفہ نیس آسمان تہ
زمینہ تہ یہ کیشترھا اتن در میان چھ، تمیک
پروردگار چھ۔ شرط چھ یہ نہ تہنہز نبیت
گرتہ پرتہ کر پوچ آسوز۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، رَبُّكُمْ
وَدَّبَّ أَبَابِكُمْ الْاَوْلٰئِينَ ﴿٥٥﴾

تس ورازی چھینہ کانہہ معبود، سہ چھ زندہ تہ کران
تہ ماران تہ چھ۔ سہ چھ تہند تہ پروردگار تہ
تہندین بروٹھو بن جان اجوان ہند تہ اوس
پروردگار۔

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٥٦﴾

امہ پوز تم چھ شکن آوراوڑ ہتہ (تہ) گندان چھ۔
او کو کر تہ تمہ دیک انتظار نیبہ دوہہ آسمان
پیٹھ اکھ نینہ وانہ وہ ظاہر کرتہ۔

فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِدْحَانَ
مُتَّبِعِينَ ﴿٥٧﴾

نیس سارہے لوکن ولہنہ پیہ۔ یہ آسہ دگر دار عذاب۔

يَغشى الناس، هَذَا ذِكْرُ الْاٰلِئِمَّةِ ﴿٥٨﴾

سہ یعنے سہ زمانہ بیتہ مغز نبی مبعوث سپدان چھ۔ سہ زمانہ چھ راتر ہندک
پاکو ہدایتہ کر نور، نیشہ محروم آسان۔

سہ بیتہ آس منز چھ ایٹم کم تہ ایڈ رجون بمن ہند فکر۔ یہ ہند پٹنہ پتہ سارہے فہنہ ہس
منز چھ د ہے وہ پھالان۔ (منہ)

- ۱۳) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿۱۳﴾
 (ترجمہ) اے اللہ! ہمارے لئے عذاب کو ہٹا دے، ہم تو ایمان والے ہیں۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۱۴) اَتَىٰ لَهُمُ الْبُكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۱۴﴾
 (ترجمہ) ان کے پاس پہنچ گیا وہ رسول جس کی طرف سے ان کو خبر دی گئی تھی۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۱۵) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿۱۵﴾
 (ترجمہ) پھر ان کو اس سے الگ کر دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیکھنے والا مجنون ہے۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۱۶) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿۱۶﴾
 (ترجمہ) ہم عذاب کو ہٹانے والے ہیں، لیکن تم لوگ واپس آؤ گے۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۱۷) يَوْمَ تَبْطِئُ البَطْشَةُ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿۱۷﴾
 (ترجمہ) اس دن جب بڑی باتھونیاں سست ہوں گی، ہم سزا دینے والے ہیں۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۱۸) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿۱۸﴾
 (ترجمہ) ہم نے پہلے بھی ان کو آزمایا تھا اور ان کو ایک نیک رسول بھی بھیجا تھا۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۱۹) أَن أَدَّوْا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا ﴿۱۹﴾
 (ترجمہ) کیا تم ان لوگوں کو میرے پاس لائے گے جو اللہ کے بند ہیں؟ تم لوگوں کو ایک نیک رسول بھی بھیجا تھا۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۲۰) وَ أَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ آيَاتِكُمْ يُسَلِّطِينَ مُؤَيَّدِينَ ﴿۲۰﴾
 (ترجمہ) اور تم لوگوں کو اللہ پر نہ اٹھانے دو، تم لوگوں کی آیتیں ہمیں دے رہے ہیں۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۲۱) وَإِنَّ عُلَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَفِي كَيْدِكُمْ وَأَنْ تَرْجُمُون ﴿۲۱﴾
 (ترجمہ) اور بنی اسرائیل کے اعضاء بھی تمہارے کھیلنے والے ہیں اور تم ان کو پھینک دے گے۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۲۲) وَإِن لَّمْ تُوْمِنُوا لِي فَاغْتَبِزُون ﴿۲۲﴾
 (ترجمہ) اگر تم مجھ کو نہیں مانتے تو میری جگہ سے لے لو۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۲۳) قَدْ عَارَبْتُمْ أَهْلَ الْبَلَدِ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿۲۳﴾
 (ترجمہ) تم نے ان لوگوں کو جو یہاں کے باشندے ہیں، وہ مجرم ہیں۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!

نس زہ پہ قوم تہ پچھ مجرم۔ (بوزہ پچھ یوان زہم
ان نہ میہ پچھ ایمان)۔

اد وون (تس خدان) میاڑ بندہ بکھ روش
رات (میہ ملکہ منتر) کڑتھ۔ بیہ تھاو یہ خیال
زہ فرعونہ سند قوم ورک و توہہ پتے۔

تہ مینگو پیٹیر نیران تراون سمندر پتھ (یعنی مینگو
پیٹیر پکان پکان نیر سمندر نشہ) سہ (یعنی فرعونہ
سند) فوج روز عرق گڑھو تھے۔

تمو (یعنی فرعونہ ہندو قوم) تراوک پانس پتھ
کن واریاہ باغ تہ ناگ۔

تہ زراعتہ واجز زمین تہ سبھا آرام دہن واجز جاہ۔
تہ تڑھہ رتھہ چاہہ یمن منتر تم جاو رتہ پانٹھو رزان
آس۔

یتھے کتھ سپد، تہ اسہ کورہ من سارک نے چہرن
ہند و اربت اکھ بیاکھ قوم۔

اد نہ وود آسمان اتن پچھ تہ نہ زمپنہ تہ نہ
آوجن ڈنجر تراونہ۔

بیہ دیت اسہ بنی اسرائیلن رسوا کرن والہ
عذابہ نشہ سجات۔

یس فرعونہ ہند طرفہ تمس میلن اوس تہ سہ
(فرعون) اوس سبھا تکبری تہ حد اوس سپہ
درامت۔

بیہ اوس اسہ بنی اسرائیلن تہند زمانہ کهن سارک
نے قوم پچھ تہندو حالاتو مطابق فقیت ڈر منتر۔

بیہ اوس اسہ تمس نقش نشانو منتر اکھ نشانہ تیتھ
تہ سوزمت تیتھ منتر تہندہ خاطر ہڈ اتھان اوس۔
یکم لوکھ (یعنی مکہ والی) چھ وکان۔

اسہ چھ صرف اکی لڑ مرن تہ اوس یو نہ بسیہ
زندہ کڑتھ استاد کرنہ۔

فَأَسْرِ بِعَبَادِي لَيْلًا إِنَّا كُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿١٧﴾

وَإِنَّكَ الْبَخِرَ دَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ
مُغْرَقُونَ ﴿١٨﴾

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْون ﴿١٩﴾

وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٠﴾

وَلَعَسَآ كَانُوا فِيهَا فُكِيهِينَ ﴿٢١﴾

كَذَلِكَ نَذَرْنَا لِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٢٢﴾

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَ
مَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٣﴾

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ
الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٢٤﴾

مِنَ فِرْعَوْنَ إِذْ هُوَ كَانَ عَلِيًّا مِنَ
الْمُضْرِبِينَ ﴿٢٥﴾

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلٰى
الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾

وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِمْ يَلْقَوْنَ
مُؤِيدًا ﴿٢٧﴾

إِنَّ هُوَ لَآءَ لَيَقُولُونَ ﴿٢٨﴾

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ
بِمُنشَرِينَ ﴿٢٩﴾

اچھا اگر تو ہی پڑی یاد رکھیو تیلہ کاوی توکھ ساڑ
 جدا جدا (دوبارہ بیٹھ دینا اس منتر) اُرتھ۔
 تم جھاڑتی کہو شیخ سدا قوم؟ تو تم لاکھ
 ہم شیخ قوس بروٹھ اسی (تم اسی دنیاوی قاتل
 منتر، تو کھوتی ہوتی) اسے کڑی تم ساری ہلاک

تم لاکھ اسی بے شک مجرم۔
 بیس آسمان تہ زمین تہ یہ کینترھا، تم منتر باگ
 چھ کوزہ اسے گندان گندان پاؤ۔

اسے کریا یہ ہم صرف کہ دانگی مقصد خاطر پاؤ۔
 ادا پڑ تمو منتر چھتہ واریاہ زانان۔

فاسلک دہہ چھہ رین سارک ہنے ہند خاطر
 وعدہ دینا آمت وقت۔

بیٹہ دہہ کانبہ دوست کانبہ دوہتہ سند حاجت
 پاؤر ہیکر نہ کڑتھ تہ نہ بیٹہ ہتو اندر کانبہ
 مدد کرن۔

صرف (بیٹہ تلو مدد کرن) ہمیں پیٹھ اللہ
 (تعالیٰ) رحم کر۔ سہ چھہ غالب تہ آتھ روس
 رحم کرن وول۔
 زقوم کل چھہ بے شک۔

گوند کھار سند کھین۔

پاکو پاٹھو چھہ بد منتر، یس شاکمن منتر کال
 مہتہ تراکو پاٹھو گر نیگہ۔
 بیٹھ پاٹھو توت آب گر پکان چھہ۔

تہ اسی ولا ملا یکن یہ گوند کھار رینون تہ جہنم
 منتر باگ تام نیون یہ کاکھہ۔

پیتہ تراو او اسی کلس پیٹھ سہٹھا پہن شتر آب
 رسیر بیٹہ سستی اسی سخت تشرک عذاب

فَاتُوا بِآيَاتِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۵﴾

اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا
 مُجْرِمِينَ ﴿۳۶﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا
 بَيْنَهُمَا لِبٰيۡنٍ ﴿۳۷﴾

مَا خَلَقْنَاهُمْ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ
 اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۸﴾

اِنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَجْمَعِينَ ﴿۳۹﴾

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا
 هُوَ يُنصَرُ وَاُولٰٓئِكَ

اِلَّا مَن رَّحِمَ اللّٰهُ اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ
 الرَّحِيْمُ ﴿۴۰﴾

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقٰوْمِ ﴿۴۱﴾

طَعَامٌ اِلَّا لِحِيۡمٍ ﴿۴۲﴾

كَانَ فِيهَا مِنْ يَغْلِي فِي الْبُطُوْنِ ﴿۴۳﴾

كَلْبَلِي الْحَمِيْمِ ﴿۴۴﴾

خٰذُوْهُ فَاَعِيْلُوْهُ اِلَى سِوَا الْحَمِيْمِ ﴿۴۵﴾

ثُمَّ صُبُّوْا لَوْقَ رَاسِهِ مِنْ عَذَابِ
 الْحَمِيْمِ ﴿۴۶﴾

ذُنِي ۱۱ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۱۱

واپس -
(بیہ و نوا کسی شخص سے) ترہ، یہ عذاب، تڑپ
اوسکھ (پست و خیال) غالب (تڑپ) عزت و ول۔
(بیہ و نوا) مجھ سے تڑپ چھو بیٹھ کر حقہ توڑی
شک کران اُسکو۔
متقی روزن یقیناً اُسکے امنہ واجبہ چاہیے۔

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَفْتَرُونَ ۱۱

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِنِينَ ۱۱

فِي جَنَّةٍ وَاعْمُرُوا ۱۱

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
مُتَطَهَّرِينَ ۱۱

یعنی باغیچہ تڑپ ناسن اندر۔
تم لائسن نامی زانوج ریشتم تڑپ پر بزلون موٹ
پلوٹ تڑپ اگھ اُسکے کئی بھتہ کر تھہ آسن بہتہ۔

كَذَلِكَ تَدْرَأُونَ جُلُودَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۱۱

(سیتھے آسن) تڑپ اُسکو دمو، تمہن سہتی با جہن ہند
کبو و سچھہ سچھہ کاچہ اچھہ واجبہ زنا تڑپ۔
تم منگہ ناوان، تمہن جہنن اندر پر تھہ تمہو کھ میو
تڑپ امنہ سان گدھرن (زندگی)۔

يَذْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ قَاكِمَةٍ آمِنِينَ ۱۱

تمہن پیہ تڑپ، تمہن (جہنن) منتر کا تھہ موت،
گھو تڑپ موتہ ورا تڑپ (سے) آخر تڑپ چہرہ زندہ گی برٹھ
آمت چھکھہ (تڑپ اللہ (تعالیٰ) بچاؤ، تمہن جہنہ
کہ غلابہ بنتہ۔

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ
الْأُولَىٰ بَرَدًا لَهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ ۱۱

یہ آسہ چانس پروردگار ہند طرفہ نغندہ کنہہ (تڑپ)
حقہ کس منورس منتر (تڑپ) یہ پھیہ اگھ سپٹھا بڑ
کامیابی۔


تَضَلَّوْن رَبَّكَ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۱۱

او بوز، اسہ چھہ یہ قرآن چاند زبانی منتر سہل کر تھہ
تا نزل کو رومت۔ سیتھ زن بیم ٹوگھ (عربہ واری)
نصیبت رٹن۔

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۱۱

او کو تڑپ تڑپ پیار انجامس (تڑپ) تم تڑپ پیارن۔

فَإِنَّ رَبَّكَ لَعَلَّ ۱۱ فَازْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَابُونَ ۱۱



سُورَةُ الْجَاثِيَةِ - یہ سُورہ چھ کئی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ ارتزہ آیہ بیہ چھس ترور رکوع۔

يَسْمُو اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

(بہ چھس) اللہ (تعالے) سُنَد ناو ہتھ (پران) میس
حد رؤس کرم کرن (تہ) چھری چھری رحم کرن
وول چھ۔

خَم ①

حمید (تہ) مجید (خدا چھ یہ سُورہ نازل کرن وول)۔
یہ کتاب چھید غائب تہ حکمتہ وایس اللہ تعالیٰ
سند طرفہ نازل کرنہ آمیز۔

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ
الْحَكِيْمِ ②

آسمان تہ زمینہ مشر چھ مؤمن ہندہ تجا طہ بڑی
نشانہ۔

اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَآيٰتٍ
لِّمُؤْمِنِيْنَ ③

بیہ تھے پاٹھی تھنہز پیدائیشہ منز تہ بیہ تھے منز
یہ سہ (اللہ تعالیٰ) زو وارتو مشر (زمینہ منز)
چھالوان چھ، پتھ کرن والہ قومہ باپتھ چھ نشانہ۔
تہ راتر ہندس تہ دیکس ہتھ بروٹھ پیش منز تہ بیہ
یہ اللہ تعالیٰ) ہن بزنگ موجب آب اوبر
منز وولمت چھ پتہ چھن تمہ سستی زہن مسرہ
پتہ زہد کڑ ہتھ (تھہ منز تہ)، تہ واو ترھن
ہندس اور یور پکن ولس منز تہ چھ عقلم والہ قومہ
باپتھ سپٹھا نشانہ۔

وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ مَا يَبْتَئُونَ مِنْ دَابَّوْ اَيْتٍ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ④

وَ اَخْتِلَافِ الْاَيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
مِنَ السَّمٰوٰتِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَخْتِيَا بِوَالْاَرْضِ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَضْرِيْفِ الرِّيْحِ اَيْتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ⑤

یم ساری چھ اللہ تعالیٰ) ہندہ نشانہ ہم
اُسکی پور پزہ سان تریہ بروٹھ کنہ بیان کران چھ۔
اد (وڈ تو تہ) اللہ تعالیٰ) تہ تمکو ہندہ نشانہ
پتہ کتھ چھیرس پیٹھ انن ہم ایمان۔

بَلٰتِ اَيْتٍ اللّٰهُ تَعْلُوْهَا عَلٰنِكَ بِالْحَقِّ
فَبَايَ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَ اَيْتِهِ
يُؤْمِنُوْنَ ⑥

پرہتہ اپز یارس تہ گونہ کارس کیت چھ عذاب مقدرہ
یس تم آہ بوزان چھ ہم تس بروٹھ کنہ
بیان کرنہ یوان چھ، پتہ چھ منکبر سان
پتہ پرہتہ کتھ پیٹھ ڈبٹھ روزان، زنتہ تمکو خلیہ

وَ نِيْلٍ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اٰيٰتٍ ⑦

يَسْمَعُ اَيْتِ اللّٰهُ تُشَلُّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَوِّرُ
مُشْكِبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا فَ فَتَشْزُهُ
بِعَذَابِ الْاَلِيْمِ ⑧

سندى نشانہ بوزی ہے۔ لہذا بیچس شخصس و ہے
 وگہ دار غذا پنج خبر۔

بیسے نیلے سہ شخصس سانہو نشانو مشر کا نہ خبرا
 لبان چھہ تہ تتھہ چھہ سہہ نرمان۔ بیچس لوکن
 واتہ رسوا کرن وول عذاب۔

تمن بروٹھ کنہ چھہ جہنم، تہ تمندى اعمال
 ون ہے تمن کہنی تہ نفع تہ نہ (دیکھ) تم معبود
 (نفع)۔ بيم، تموا اللہ (تعالے) ہس وراي کراوتہ
 تھا وک ہتر چھہ۔ بیہ واتہ تمن سبھا بوز عذاب۔

یہ چھہ (بوز) ہلایت تہ پو پنسن پروردگار
 ہندین آین ہند کفر کورمت چھہ تمن واتہ پو نلین
 پوزا کرنہ کہ سببہ وگہ وار عذاب۔

اللہ (تعالے) چھہ سے بیجو سمندر تہندس نجدتس
 پیچھہ لاگتہ تھووومت چھہ بیچھہ زن تہندس حکمہ سندى
 تتھہ مشر ناوپکن تہ بیچھہ نہ توہی (تمن ہند واسلم)
 لتد فضل نرھا نڈوہی۔ بیہ بیچھہ زن توہی شکر پکرو۔
 بیہ یہ کیشرھا آسمان مشر تہ زمینہ مشر چھہ
 سرسالم چھہ کو تہندس نجدتس پیچھہ لاگتہ تھووومت
 اتھہ مشر چھہ سوچن وار قومہ ہاچھہ بڑی نشانہ۔

تہ ون مؤمن نہ بيم لولک اللہ (تعالے) ہندس
 سسرہس کھوثران چھہ تہ تمن کرن معاف۔ تمیک
 نتیچہ خیر پہ نہ خداے دیہ (پانہ) پتھس قومس
 تہندس اعمالن ہند جزا۔

یس کا نرٹھا ایمانہ مطابق عمل کران چھہ تمیک فائدہ
 چھہ تو ہندس ہے نروس واتان تہ یس کا نہہ ناکارہ
 کامہ کران چھہ تمیک نوتصلان (تہ) چھہ تو ہندس
 ہے نروس واتان، پتہ بیجو توہی پنسن پروردگار

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا
 هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥١﴾

مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ جَاهَنَّمَ ج وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ
 مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ
 آلِهِمْ أَذْلِيَاءَ ج وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٢﴾

هَٰذَا هُدًى ج وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
 رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ آيَاتِهِ ﴿٥٣﴾

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِيَجْرِيَ
 الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ
 وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٤﴾

وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا وَنُهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥٥﴾

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَخْشَوْنَ اللَّهَ الَّذِينَ
 لَا يَزُجُونَ آيَاتِ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا
 بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٦﴾

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ج وَ مَنْ أَسَاءَ
 فَعَلَيْهَا زِنَّةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ تَزْجَحُونَ ﴿٥٧﴾

لہہ ریحزاً، امیک نلفی معنی چھہ ناپاکی تہ بیچھہ ایس مشر چھہ شرک کرن مراد۔
 لہہ یعنی سمندری تجارت کر تھہ کماوو نفع۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾

وَأَتَيْنَاهُمُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْأَمْرِجِ فَمَا
اِخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ لَا بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱﴾

فَمَنْ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيحَةٍ مِنَ الْأَمْرِ
فَاتَّبَعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

إِنَّهُمْ لَنْ يَخُونُوا عَهْدَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعَاءَ
إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَاللَّهُ وَرِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۱﴾

هُدًى وَبَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِقَوْمٍ يُؤْتُونَ ﴿۱۱﴾

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ
نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۱﴾

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُوَ
لَا يَظْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

کون واپس ہنہ۔

بیمہ اس اسرائیل بنی اسرائیل کتاب تہ حکومت
تہ نبوت بخشا و مقرر تہ پاکیزہ چھینو مقرر اوکھ
رزق عطا کورمت تہ پسند زمانہ کہن لوکن پیٹھ
بخشنا و یابہ تمن فعیلت۔

بیمہ کزیابہ اسہ تمن ٹاکار شریعت عطا تہ بنی
اسرائیل کور تمی وقتہ تنہ مقرر اختلاف نیلہ
تمن نش بلور بلور علم (یعنی قرآن) او۔ یہ (انقلاب)
اوس تہنیز پانہ وانی سرکشی ہند سنیہ۔ چون
پروردگار کر تمن درمیان قیامتہ کہ دوہ تہنیز
اختلافہ واجہین کتھن متعلق قاصد۔

بیمہ چھکھ اسہ تہ شریعتہ کس کس طریقتس پیٹھ
مقرر کورمت لہذا تہ کچھ آتھ پتہ پتہ تہ تمن
لوکن ہنزن ٹاہن پتہ پتہ کچھ ایم علم چھہ
تھاوان۔

تم ہیکہ نے تہ تریہ اللہ (تعالے) ہس مقابلہ
کہننی فایدہ و اتناوتھہ ، بیم چھ ظالم پانہ وانی
اکھ کس پناہ دنہ وانی ، تہ اللہ (تعالے) چھ
مستقین پناہ دنہ وول۔

بیمہ (تعلیم) چھنیہ لوکن ہند ٹا طریقتی دلپہ
تہ پرتھ تھون والہ قومہ ہاپتھ چھنیہ ہدایت تہ
رحمتک باعت۔

کیا بیمو لوکو بیدہ کرمی مقرر چھنیہ تم چھا خیال
کران نہ اسی دمو تمن مومن تہ ایسا تہ
مطابق عمل کرن والہن ہند ہیو درجہ؟ یہتھو
نہ تمن دوہونی ہنزن زندگی تہ موت عرصن برابر؟
تم چھ سپٹھایکھ قاصد کران۔

بیمہ اللہ (تعالے) ہن چھ آسمان تہ زمین اکہ
ابدی قولونہ مطابق پاؤ کرکے ہوتے تہ تمیک نتیجہ
نیر یہ نہ پرتھ شخصس میلہ تہنیز علمہ مطابق

أَقْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ
 أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
 وَغَلَّقَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ
 يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٧١﴾

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
 نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
 وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ
 إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٢﴾

وَلَا تَأْتِيهِمْ آيَاتُنَا بِبَيِّنَاتٍ مَّا كَانُوا
 حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّتُوا بِآيَاتِنَا
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٣﴾

قُلِ اللَّهُ يُخَيِّمُكُمْ ثُمَّ يُؤَيِّسُكُمْ ثُمَّ
 يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

وَالَّذِي مَلَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْيَوْمِ
 تَقْوُمُ السَّاعَةِ يَوْمَئِذٍ يُخَسِّرُ
 الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٥﴾

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِعَةٍ تُنَادِي بِأُمَّةٍ قَدْ آتَتْ
 إِلَيْهَا خَبِيرَاتُهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿٧٦﴾

جزا تو تمو منتر پیہ نہ کانبہ پیٹھ ظلم کرنہ۔
 کیا تریہ چھاتھ تن شخصہ سنتر حاتر پیٹھ تہ
 غور کورمت بیٹو پننر نفسانی ٹھاش پننر معبود
 بنومت چھہ ؟ بیہ چھہ اللہ (تعالے) ہن سہ
 پننس اکمل علمہ چہ نبیا ز پیٹھ گراہ قرار و سیمت تہ
 تسننن کنن تہ تہندس ولس پیٹھ چھن مو ہر گمبش
 تہ تسنننر انچھن پیٹھ چھن پر و تر و مت، انجرو و فی
 کس بیٹک ش اللہ (تعالے) سہنہ (امیر فاضلہ)
 پیٹھ ہلایت و تھہ ؟ کیا تو ہی چھونا نصیحت زمانہ ؟
 بیہ چھہ تم و نان نہ تیبی و دنیا بچ زندگی چھنہ سانہ
 خاطر مقدر، بیہ زندگی گذراوان مروا سہ، تہ
 امیر کے لطف تھلان روز و اس زندگی تہ زمانے
 چھہ اسہ (پسنہ اثر سہتی) ہلاک کران اماہ پوز
 بہن چھنہ امیر کتھ ہند کتھہر علم، تم چھہ صرف
 خیالی کتھہ کران۔

بیہ سبیل بہن سانی ٹاکار آہ پوز ناو نہ یوان
 چھہ تہ تہند چھنہ امیر سوانی کانہہ جواب آسان
 نہ تم چھہ و نان نہ اگر تو ہی پوز یارک چھوتہ سانی
 جہاد تہ اذی توکھ (زندہ کرتھہ)۔

تہ و نکھ نہ اللہ (تعالے) ہے چھہ تو ہر زندگی
 کران پیٹھ (سے) مارو تو ہر، پیٹھ روز و سے
 تو ہر تیا متہ کس وہ ہس تمام سہنر ان۔ (تہ) اتھ
 اندر چھنہ کانہہ تنک۔ اماہ پوز واریاہ لاکھ چھنہ
 امیک علم تھوان۔

تہ آسمان ہنتر تہ زمینچہ پاشامی چھنہ اللہ (تعالے)
 سنزہے۔ تہ بیہ وز و ہر دن آہنر گم پیہ تہ
 وہ ہر آس اپر و ن والی جاو خسارس منز۔

بیہ تہ و چھن پر چھہ کانہہ امت نہ سہ آسہ
 زمینہ پیٹھ کو طین پیٹھ پتھرہ بیہنر۔ ہر تہ کانہہ
 قوم پیہ پننن شریعتس کن ناد و تھہ انہ۔ تہ

هَذَا كَلْبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّا
كُنَّا تَسْتَفْسِفُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۰﴾

وہ ہر بیہ تو بہ تہند لو اعمالو مطابق جزا دیوہ
(بیہ ولو اسی ، وچھو) یہ چھیہ سانی کتاب
یوسہ تو بہ خلاف پیز پیز شہادت دوان چھیہ
یہ کیتھا توہی عمل کران اسی و اسی اسی تہ
بیکھان روزان۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ، ذَلِكَ هُوَ
الْقَوْلُ الْمُبِينُ ﴿۳۱﴾

اد بیک لاکھ مومن اسی تہ یونیک عمل کر مینتر
اوس بہن تھو تہند پروردگار سپنس رحمتس
(یعنے تہہ کس سالیس) تل۔ تہ یہہ چھیہ ٹاکار
کامیابی۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِنَا
تُغَلِّ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ ، وَكُنْتُمْ قَوْمًا
مُجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾

بیہ تم لوکھ بیک کافر بنے ہتی اسی (تمن بیہ
ونہہ ز) کیا تو بہ اسی و تاہ میانی آیہ پیرتھ
پوز تاوہہ یوان؟ تہ کرتھ تہ اسی و توہی تنبیر
کران ، تہ توہی اسی و مجرم تومس منز تھائل
سپرک ہتھ۔

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ
لَأَ تَأْتِي فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ
وَأَن تَأْتِيَنَا وَلَا نَحْنُ
بِمُسْتَقْدِرِينَ ﴿۳۳﴾

بیہ بیلہ تمن یہ ونہہ چھ یوان ز اللہ (تعالے)
سند و علم چھ برحق تہ (دنیہ ، پچ) اخری
تہا ہی چھیہ ضرور پہنہ واہتھ۔ تھہ منز چھنہ
کبھی شک ، تہ اتھ پپٹھ چھ تم و نان ز اسی
چھتہ زانان قیامت کیا چہز چھ؟ اسہ تہ پپٹھ
تھہ متعلق یوسہ گماہہ یو۔ تہ اسہ چھنہ تھہ
پپٹھ کانہہ پڑھ۔

وَبَدَّلْهُمُ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا ، وَإِذَا حَقَّ
يَوْمُهُ ، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَفْزِفُونَ ﴿۳۴﴾

تہ تمہ وقتہ سپدن تمن پپٹھ تہند بن اعمان ہنتر
خرابہہ نینہ ، تہ یمن کتھن پپٹھ تم پپٹھ ترمان
اسی (یعنے تمن ہند اسی انکار کران) تم بہن
تمن ولہہ (تہ پڑی پانٹھ پن تہنترن اچھن
برونٹھ کن)۔

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفْكُمْ كَمَا نَسِفْنَا
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ، وَنَأْوِجُ النَّارِ
وَمَا كُمْ مِنَ الْمُهْرَبِينَ ﴿۳۵﴾

تہ تمن پپہ وقتہ ز از چھو اسہ توہی تھہ پانٹھ
(مدد و رانی) مشر او تھہ ترہو ہتھ پپٹھ پانٹھ
توہہ نیمہہ ڈیکر ملاقاتک خیل مشر او تھہ ترہنت
اوسو تہ تہند ٹھکانہ اسہ نار ، تہ کبھی اسہ ہ

تہند مدد کرن وول۔


یہ سپر اوکزی نہ تہہ اسو اللہ (تعالیٰ) ہند
بشادہ مٹھہ مٹھوکر بابعث بناوکر تہی تہ دنیا ہجہ
زندگی اوسو تہہ دوکوہ ویتیت۔ لہذا از نہ تہ
پن تم امر عذابہ منتر کڈنہ تہ نہ پیہ تہند
طرفہ خدایس راضو کرینج کا نہہ کواستش
قبول کرنہ۔

لہذا ساری تعریف چہ اللہ (تعالیٰ) ہندی یس
آسمان ہند پروردگار چہ تہ زہینہ ہند پروردگار
چہ تہ ساری نے عاملن ہند تہ پروردگار چہ۔
یہ آسمان تہ زہینہ منتر چہ سورے بجر تہ
تہ سندے تہ سے چہ غالب (تہ) حکمتہ
وول۔

ذٰلِكُمْ بِاَنْتُمْ كُمْ اتَّخَذْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا
وَ عَزَّيْتُمْ اَلْحَيٰوةَ الدُّنْيَا جَ قَالَ يَوْمَ
لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَاَوْلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝۱۰

قِيلَ لِيَوْمِ اَلْحَمْدِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ رَبِّ
اَلْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱۱

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝۱۲



سورة احقاف: یہ سورہ مجھ کی تہ بسم اللہ ہند چہ اتھ شینے ترہ آہ یہ جیس شور کولہ۔

(یہ جیس) اللہ (تعالیٰ) سندنا و ہند (پران)
یس جہ روس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر
رحم کرن وول چہ۔

حمید تہ مجید (خدا چہ یہ سورہ نازل کرن وول)
یہ کتاب (مجید) چہ اللہ (تعالیٰ) یعنی غالب
تہ حکمتہ واجنہ ہستی ہند طرفہ نازل کرہ آہتر۔

(یہ چہ سہ زمان نہ) اسہ چہنہ آسمان تہ
زمین بیہ یہ کینترھا تن منتر باگ چہ بلو پاؤ
کوزمت تہ نہ چہ کا نہہ مدت مقرر کرنہ وراپ
پاؤ کوزمت، بیہ تم لوکہ بیو انکار کوزمت چہ
تم چہ تہ کتھ نش ہتھ پھیران یتیم ہتھ، تم
ہشیار کرنہ آہتر اسی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝۱

حُم ۱۰

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ
الْحَكِيْمِ ۝۱۱

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا
بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى
وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا اُنزِلُوْا مُخْرِضُوْنَ ۝۱۲

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَرَأَيْتُمْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ۚ إِيْتُونِي
بِكُتُبٍ مِمَّنْ قَبْلَ هَذَا أَوْ أَنزِلْهُ مِنْ
عَلَمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ①

تَرْوَن (تمن) زِمْیہ وُزُو تو تُو سہی زِ بِن توہی
خدایس وراہی آلو کران جھو، تمو زِ مینہ ہند کس
کس چہنہ چہ پادو کورمت؟ یا آسان یا دہ
کرس منتر جھا تہنہد کا تہہ وُہل؟ ہر گاہ توہی
اتھ دعوی ہس منتر پُز یارک جھو تہ برو تھر مہ
گنہ کتاب ہنتر وُہل کُری تو پیش یا اگر (کا تہہ
کتاب چہنہ تہ) توہی پُز یارک جھو اتہ کا تہہ
علمی دُسیلے کُرو پیش۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ①

بہ نسنہد کھوتہ جاو وُزہ دُولت کس آسہ ریس اللہ
(تعالے) ہس وراہی تمن (ہستین) آلو کران
چہ پھر قیامتس تام تسد کونہو دعا قبول کر تھ
ہکن نہ بلکہ تم (ہستین) چہنہ تہنہدو دعا ہو
نہنہ زِ بے علم۔

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ①

بہ نیلہ لوکھ دو بار زِ ندہ کر تھ تہنہ بِن تم دا پُز
بناو ہتو معبود آس تہنہد کُ تمن بہ کران
تہنہدس عبادتس انکار۔

وَإِذَا تَثَلَّى عَلَيْهِمْ أُيُنُنَا بَيْنِي قَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا
سِحْرٌ مُّبِينٌ ①

بہ نیلہ تمن ساقی طاکار آہ بوز ناو نہ یوان چہ
تہ کفار جھو پز رُج کتھ بوز تھ وناک نہ سینیہ چہ
اکھ تہہ وائہ جود (اد اُسو کتھ پُا کُ مہ مالوہ)؟

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ
فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ
أَعْلَمُ بِمَا تُهَيِّضُونَ فِيهِ ۚ كَفَىٰ بِهِ
شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ①

کیا تم چھا بہ وناک؟ نہ یہ (قرآن) چہ تھر
پانی پانے بنومت، تَرْوَن تمن نہ اگر میہ یہ
پانی پانے بنومت چہ تہ (ہر چھس خدایہ بند
سزات حقار تہ) توہی ہینکو نہ میہ خدایہ بند
عذابہ کہ گنہ حصہ نہنہ تہ بچاوتھ۔ سہ چہ تمہ
کتھ زِ ب پُا کُ زمانا بہ سمہ توہی بے مطلب کران
روزان جھو۔ سہ چہ توہر تہ میہ منتر یاگ
شہادتہ کہ رنگ کافی۔ بہ چہ سہ سہٹا ہنشن بار
تہ چھیری چھیری رحم کرن دول۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاءِ مَنْ الرُّسُلِ وَمَا
أَدْرِي مَا يَفْعَلُ فِي وَلَا يَكُمُ ۚ إِنْ آتَيْتُهُ

تَرْوَن تمن زِ بہ نہ چھس نہ دُتیاہس منتر کولہ نیک
رسول۔ (میہ برو تھ جھو بہ کُری یار رسول گُدرے

لَا مَا يُؤْتَىٰ لِيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
مُّبِينٌ ﴿۱۰﴾

موتی) بیہ میہ چھتہ پتاہ ز خدا (تعالے) میہ
سوتی کیا معاملہ کر نہ چیم یہ خبر ز توہر سوتی
کیا معاملہ کر؟ یہ تو چھس صرف تمہ و حسیہ
ہنر پاروی کران یوہ سہ میہ پیٹھ تا نزل سیدے
مہتر چھینے۔ بیہ ہر چھس اکھ تنہ وانہ ہشتیار
کران وول۔

قُلْ آدَاءُ يُتَمُّ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَآءٌ مِّنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾

تہ و ناکھ میہ و نوز تو تہ سہی ز اگر میانی وحی خدایہ
ہنر طرفہ اوس تہ توہر کورہ تمیک انکار۔ امہ باوجود
ز بنی اسرائیلو منہر چھ اکھ گواہ (یعنی موسیٰ)
گواہی دتھ گومت۔ ز تہس ہیوسے اکھ شخص
سید ظاہر (تہ یہ سیدنا اکھ عجیب کتھ ز سہ
سہس بروٹھ گڈریومت اوس) تمہ تہ اوان
ایمان تہ توہر (میہندس زمانس منہر سہ امت
چھ) چھو تکبرس کام ہوان۔ اللہ (تعالے) چھنہ
ظلم کران والہن ز نہیہ ہدایتچ و تھ ہوان۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ
كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، وَإِذْ لَمْ
يَفْتَدُوا بِهِمْ فَسَيَفْجُرُونَ هَذَا الْفِكَ
قَدِيمَةً ﴿۱۲﴾

بیہ کفار چھ مومن وان ز اگر قرآن کا نہہر ز تعلیم
آسہسہ تہ ہم ہومن) ہیکہ ہن تہ ایمان اوس منہر
امہ بروٹھ نہر تھ۔ تہ کیا ز بین کفارن اپیلہ سپز
تہ اہج صداقت نوز تم و نون (نامرادی تہ تھ
منہر مینے کتھ) ز یہ تہ چھ اکھ پرون اپز (سہس
برونہم لوکھ تہ حدایس متعلق و نان آہوتی چھ)

وَمَنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً
وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا
لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَ بَشْرَى
لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾

بوزوسے تہ نیمہ بروٹھ چھ موسیٰ ہنر کتاب
تہ گڈرے مہتر، یوسہر رہنہی کران واجزی تہ اوس
تہ رحمت تہ اوس۔ تہ یہ (قرآن) چھ اکھ تر تھ
کتاب یوسہر (پانس بروٹھ ہن کتابن) تصدیق
کران چھینے، بیہ چھینے عربی زبانی منہر صیتہ زک
بیو ظلم کورمت چھ، تمن کر ہشتیار تہ ہم لوکھ
خدایہ حکم مطابق کام کران چھ تمن دہر تھ ہنر۔
(یعنی) تم لوکھ ہم بہرمان چھ تہ اللہ (تعالے) ہے
چھ سون پروردگار پتہ چھہ تم اتھ دعویٰ اس

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ
اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَخْرُتُونَ ﴿۱۴﴾

پیٹھ مغبوطی سان قائم سپدان ادریتھن لوگن نہ تہ آسہ کنہ بروٹھ کن سپدان واجہہ کتھ ہند خوف تہ نہ آجکھ پتو مہ زمانہ چہر کنہ کوتاہی ہند غم۔

بیم لاکھ چہ جنتس گرٹھن اولی (تہ) بیم گرٹھن اتھ منز پینین پتو مہن اعلان ہند بدلہ کنہ روزان۔

تہ اسہ اوس انسان پینن مائس ماجہ ستر احسان کرینج تعلیم ڈڑ مہتر تہ کیا بر تہنر ماجہ اوس سہ دوکھ شرابوتہ شکس منز ستمت تہ پتہ اوسن دوکھ و پترتھ تس زخم دیمت تہ سہ تلمس تہ دو درواناوس پیٹھ اسیس تہرہ

رہتھ لگو ہتو۔ پتہ بیلبہ یہ انسان پسندہ پلور پلور جوانی یلے تہ تہجہنڈ و ہر ووت تہ تھو وون اسے میانہ پروردگار! مینہ و اسہ کتھ ہند توفیق نہ بہ کر تہ نعمتک شکرانہ ادا یوسہ تریہ مینہ پیٹھ تہ میانس مائس ماجہ پیٹھ کر مہتر جتھ۔ بیہ (اسہ کتھ ہند تہ دم توفیق) نہ بہ انہ تھو رلی اعمال بجایم تریہ طار کھتے۔ بیہ میانین اولون منز تہ کر نیکی ہنر مبنیاد قائم۔ بہ چھس تریہ کن نماں تہ بہ چھس چاہو فرمانبردار بندو شہز۔

(بیم لاکھ یہ کرن) تے لاکھ آسن اتھو بہتھ ہند بر تہ اعمال اسی قبول کرو تہ تہنرو بدیو لہتر کرو اسی درگذر۔ بیم لاکھ گرٹھن جنتس بہر چہ اھ پوز وعدہ میں از لہ پیٹھ مولین ستر کر تہ یوان چہ۔

بیہ (اکھ چہ) تہ بیٹھ شخص (تہ آسان) میں نپس مائس ماجہ و نان چہ، تو مہر پیٹھ افسوس! کیا تو اہر چھو مینہ یہ خبر لو ختہ پامٹو دوران نہ بہ بیہ زندگی کر تھ زمینہ منز کردہ؟ تہ ہتہ واہ وری

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ ۚ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ۚ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُكَ ۚ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۶﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ تَتَّقِبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّاتِ ۚ وَعَدَ الصَّادِقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۱۵﴾

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدُنِي أَنْ أَخْرَجَ وَكَذَّحْتَنِي الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ۚ وَهُمَا يَسْتَخْفِنَانِ لِلَّهِ وَيُلَاقِئَانِ اللَّهَ حَقًّا ۚ

فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ⑤

چھ بروٹھ گذریہتی (مگر تمہو منتر آو نہ کاتہہ
شخص نرنہ گزرتھ) تہ (تمہو سند مول موج)
دونوسے چھ اللہ (تعالیٰ) ہس فریاد کران
وان - ہو گویا ! تریہ کیا گووسے ! خدایس
پٹھ ان ایمان ، اللہ (تعالیٰ) سند وعدہ روز
ضرور پور سپدتھ ۔ اتھ پٹھ چھ سہ تسن جواب
دوان ، ایم تہ پھہیہ صرف پراہن ہنر کتھ ۔
پتھی لوکھ چھ میں پٹھ عذابچ پتھی کوئی پور سپز
تھو اتھو منتر یہہ تسن بروٹھ گذریہتھ پتھی اد جنو منتر یہہ
یا اتھو منتر ۔ تم لوکھ آسوی سٹھ لین والی ۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ
فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ
الْحِجَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ⑥
وَ لِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا
وَ لِيُوقَّتَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ⑦

بیہ تسن سارنہ میلین تہندلو اعمالو مطابق درجہ
تہ یہ سپد او کوئی ز اللہ (تعالیٰ) دیہ تسن تہندین
اعمال ہند پور پور بدلہ تہ تسن پٹھ بیہ نہ
ظلم کرنہ ۔

وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى
النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طَيْبَتَكُمْ فِي
حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا
كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِخَيْرِ
الْحَقِّ وَ بِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ⑧

بیہ بیہ دوہہ کافر جہتس بروٹھ کون پیش
کرنہ میں (تہ ونہ پتھیہ) توہہ چھو دنیا مجہ
زندگیہ منتر پتھی ساری العام موکادی وتی ۔ تہ
دنیا مجہ زندگیہ نش بیوت فایدہ تسن او سو سہ چھو
"نہمت" ۔ او کوئی از بیہ توہہ زمینہ منتر ناحقہ
تکبر کرنہ تہ تافرمانی کرنہ کہ باعتہ رسوایی ہند
عذاب دہنہ ۔

بیہ (اسے نبی !) عادن ہند بوسے (ہود) تہ کرن
یاو بیہ تمہو پین قوم احقاف منتر خبر دار کرناو لو

وَ اذْكَرْنَا مَا عَادُوا إِذْ أَنْذَرْنَا قَوْمَهُ
بِالْأَحْقَافِ وَ قَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِنْ

له اَحْقَافَ چھ " حَقْف " لفظک جمع مینیک معنی چھ " سیکہ ہندی ہندک ٹینک "
یہ ناو چھ امہ قومہ کہ انجاہہ کنز تھوہہ آمت ۔ متہ آسوی تم بروٹھ حضرموت
علاقہ چھ سر سبز زمینہ منتر روزان مگر پتھہ کنز قرآن شریفین منتر بیان کرنہ آمت
چھ ۔ تسن پٹھ آو اکھ و کوکھ طوفان یس سن دنہ من تہ سن راترن نام چلون
روو تہ تم گئے تباہ (سورة الحاقة رط) تہ تمہ واو طوفانہ کنز گئے
تہندس عکس منتر جاہر جاہر سیکہ ہندی ٹینک پاو ۔ میں تل سہ قوم
دو بر نہ آو ۔

تہ اُس (ہودس) بروٹھ تہ اُس کھو یا نبی گذرے
ہو تہ تس پتہ تہ سپدر ظاہر تہ ہمو منفر اوس
پر تہ کانہہ یہ تعلیم دو ان زہ اللہ (تعالے) ہس
ورائی مہ کرو کانہہ ہنز عبادت۔ یہ تھیس توہہ
پٹھ کہ بڑ توکس عذاب کس پیش کھوٹان۔

ہمو نوکو ووتس، کیا تہ تھکا اسہ بش اوس اُس
ز اسہ ڈاکھ پنہو معبودو ہتہ؟ اگر پیہہ کتھ پیہہ
تیلہ نیہہ چیرک تہ اسہ ستر و عدہ کران چھاکہ سہ ان
اسہ نش۔ ہر گاہے تہ پڑ پور چھاکہ۔

(ہودن) دو پکھ زہ پوز علم تہ چھ اللہ (تعالے)
ہس نش۔ تہ بہ تہ چھس صرف سو تعلیم توہہ تام
واتاوان نیہہ کہ واتاویج ذہہ واری خدان میہ
پٹھ تراو ہتر چھید، ووز نوو بہ چھس وچیان زہ
توہر چھو کہ جاہل قوم۔

ادہ نیلر تہ سندر قوم سہ عذاب کہ اوہرک پٹھو
پنہن واورین کن بروہنہ یوان وچہ تہ ہمو وون
یہ چھ کہ اوہرا یس اسہ پٹھ روو تراو۔ (اسروون)
یہ چھ سہ (عذاب) یس توہر وول اول مکان اُس و۔
(یہ) چھ کہ واور (طوفان) یہہ منزر وگر دار عذاب
کھبتہ چھ۔

یہ واور تہہ پنہس پر وور وگاہ ہندر کلمہ پر تہ کانہہ
چہر تباہ کران۔ لہذا نتیجہ سید یہ زہ امن پٹھو او
یہ واور صبح کہ وقتہ تہہ کئی زہ صرف تہہندی
گرے (اوت) اُس ہوزنہ یوان۔ (سورے قوم آو
سکرتل دوبرنہ) پتے پٹھو چھ اُس خطا زہ توکس
جزا دو ان۔

تہ اسہ اوس امن سہ طاقت عطا کورمت یس
طاقت توہہ تہ عطا چھنہ کورمت۔ تہ اسہ اُس
امن تہندر پٹھو کن تہ اچہ تہ دل وول ہتر
(مگر ہمو تہ ہنیز تہ تہندی پٹھو۔ یمن چہرن

بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَغْبُدُوا
إِلَّا اللَّهَ إِنَّ خَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
بُؤْسِ عَصِيْبٍ ﴿۱۷﴾

قَالُوا آجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهَيْئَةِ
قَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۸﴾

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا كُنَّا
أُرْسُلَتْ بِهِ وَ لِحُكْمِ رَبِّنَا مَا
تَجْعَلُونَ ﴿۱۹﴾

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُوْدِيْنِهِمْ
قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطْرٌ نَّآءٌ بَلْ هُوَ
مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿۲۰﴾

تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا
لَا يُدْرَى إِلَّا مَسَكِنَتُهُمْ كَذٰلِكَ تَجْزِي
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۲۱﴾

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيْهِ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَ أَبْصَارًا وَ آفِئِدَةً
فَمَا أَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ
وَلَا آفِئِدَتُهُمْ وَنَ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا

يَجْعَدُونَ ۙ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا
كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۷۵﴾

کام) او کو تہندو کون تہ اچھو تہ ولو ویت
تہ تمن کا تہ نفع تہ کیا تہ تم اسی اللہ (تعالیٰ)
سہندن آین انکار کرنس پیٹھ ڈاڈ کر تھ۔ بیہ
یتھ عذایس سہتی تم مٹھہ مٹولہ کران اسی، تکی
ولو تم ترہ نوے وے طرفو۔

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَولَكُمْ مِنَ الْقُرٰى وَ
صَرَّفْنَا الْاٰیٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۷۶﴾

تہ اسر چھ تم بستیہ تہ ہلاک کر کر مشر۔ ہم توہ
اندی ٹیکھو چھو۔ بیہ چھ اسر واش کڈی کڈی
نشانیہ بیان کر ی متو تہ زن (تمن آین ہندک
مٹھ طلب) ہستہ آکر ہنتہ بازین۔

فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبٰنًا اِلٰهَةً ۙ بَلْ صَلُّوْا
عَنْهُمْ ۙ وَذَلِكْ اِفْکُهُمْ وَ مَا كَانُوْا
يَفْتَرُوْنَ ﴿۷۷﴾

پتہ کیا تہ تہند مدو۔ تم لوکو ہم تمو اللہ
(تعالیٰ) ہس ورائی او کو مینور بناوکر متو اسی
تہ تم نین تمن خدایس نزدیک، ہلکہ قوس پیٹھ
گے، تم تمن (یعنی تہندو اچھو) ہنتہ غاب تہ یہ
چھ تہند اپریک تہ ہنتہ لاکنگ ہتہ۔

وَ اِذْ صَرَّفْنَا لِاٰیٰتِكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ
یَسْتَمْعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۙ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ
قَالُوْا اَنْصَتُوْا ۙ فَلَمَّا قُضِیَ وَلَوْ اِلٰی
قَوْمِهِمْ مُّتَّزِرِیْنَ ﴿۷۸﴾

بیہ نیلہ اسر جنو مشر کینہ نظر مہیہ تہ تہ
کن ائی، ہم قرآن بوز پنج خا ہس تھاوان اسی۔
او نیلہ تم (قرآن خوانی ہنز مجاہدہ منتر) ح ہز
سپر تہ تمو وون اکھ اکیس کن، ترہہ پہ کر و
پتہ نیلہ قرآن پنج تلاوت اند و اثر تہ تم گے پنس
قوس کن واپس تہ تمن منتر گرتھتہ ہنز کھو اسراج
اشاعت کر تہ۔

قَالُوْا اٰیْقُوْا مَتٰلَا تَا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنزِلَ مِنْ
بَعْدِ مُوسٰی مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْهِ
یَهْدِیْٓ اِلٰی الْحَقِّ وَ اِلٰی طَرِیْقٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۷۹﴾

تہ پنس قوس وونکھ، اے سانبہ توہ! اسر بھیہ
اکھ ترہہ کتاب بوز ہنز یوسر موسیٰ ہس پتہ تا نزل
کر تہ آہتر چھینہ۔ تہ یہ کتاب امبر برونٹھ وترہ

لہ اتھ آیس مشر چھ لفظ "جن" استعارہ پاتھر اکیس بنی اسرائیلی وفد مستحق و نہ امت
ییس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنز خبر بوز تہ کھو کھو تمن سمکھہ امت اوس تہ تم
اسی ملک عراق کہ "نہبین" علاقہ روزن اول۔ چونکہ تم لوکھ اسی دور پیٹھ آہتہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمکھو ترور ترور تہ زن تہند قوم تہ عرب کو لوکھ
تہند دشمن سپدن تہ (فتح البیان جلد ۵ ص ۲۵۵)۔

مشر چھینے، تمہیں چھینے (یہ کتاب) تصدیق کران۔
 چھینے پڑیں کن تہ سینزوتہ کن رہنمائی کران۔
 اے سائے قومہ! اللہ (تعالیٰ) بندہ طرفہ نو کتاب
 اشن وائس شخصہ سندا کرو قبول تہ تس پیچہ اتر
 اہلان۔ پیچہ نیمہ یہ نہ اللہ (تعالیٰ) کر تہ تہ تہ تہ
 گوناہ معاف تہ قومہ دیو کہ پیہ والہ دگر دار عذابہ
 بشرہ پناہ۔

تہ کس اللہ (تعالیٰ) ہس کن ناد دہنہ والہ ہنر
 کتہ ماتان چھج، سہ ہیکہ نہ تس دلی ہیس مشر
 ہار تاوتھ تہ خدایس ورائی تس پناہ دہنہ والہ وجود
 چھج کئی، بیتہ لوکھ چھج ٹاکار گمراہی مشر آوتھ آسان۔
 تم چھنا وچھان نہ سہ خدایم آسان تہ زمین پاد
 کر کر مٹی چھج تہ سہ تھوکتہ تم پاد کر نہ سوتی ہا سہ
 چھج اتھ پیچہ تہ قادر نہ مہر دگر نہ نہ، سہ چھج پن
 پر تھ کاتھہ ارادہ پور کر نس پیچہ قادر۔

ہیہ نیمہ وہہہ کافر نارس بروٹھ کن پیش کرتہ پن۔
 تہ و تہ پیچہ کیا یہ چھنا حق؟ تم دین او او اسہ
 چھج پینس پروردگار ہنر دہے۔ (یہ چھج بلکل
 پوز)۔ او فریاد وکھ (اللہ تعالیٰ)، اچھا تو ہر
 تہ ہو پینہ کفر کر باعشہ عذاب۔

لہذا (اے نبی!) تہ تہ کر (بتھے پاٹھر) صبر
 بیتہ پاٹھر پوزتہ ارادہ والہ رسولو (ترتہ بروٹھ)
 صبر کوزمت چھج، ہیہ تہ تہ خاطر مہ کر یہ دعا
 نہ تمہن پیچہ بینہ اول اول عذاب۔ نیمہ وہہہ، تم
 و عہد دہنہ آمت عذاب وچھن تہ تہ تہ حالت گرتھ
 تہ تہ نہ تہ تم بیتہ دنیاہس مشر دہس ساعتس
 کھنڈس روڈی ہتی اسی۔ یہ کتھ چھینے (تمہن)
 کفارن بند خاطر، محض اک نعیمتہ کتہ و سنہ
 آ مہر تہ فاسق قومہ ورائی پیہ نہ کاتھہ اکھ ہلاک
 کرتہ۔

يَقَوْمًا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ
 يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيَجْزِلَكُمْ مِنَ
 عَذَابِ آلِيهِ ﴿۲۶﴾

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي سَمَوَاتِهَا وَمَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهَ يَاسِيًا ﴿۲۷﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَمَيِّضْ يَخْلُقْهُنَّ
 يَفْعَلْ عَلَىٰ أَنْ يُخْفِيَ فِي الْمَوْتِ بَلَىٰ إِنَّهُ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۸﴾

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ
 أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَ
 رَبِّنَا قَالَ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا
 كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۲۹﴾

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ
 الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ
 يَرُدُّونَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا
 سَائِجًا مِنَ نَارِهِ بَلَّغَ قَوْلُ يَهْلِكُ
 إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۳۰﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آزمائو کینٹرن ہند دوسری - یم لکھ اللہ (تعالے)
ہنر و تر منز ہار گئے۔ اللہ (تعالے) کر نہ نہینے
تہندی اعمال ضایع۔

سے نیہ تمہن ضرور کامیابی کن بیہ کر تہندی
حالات ٹھیک۔

بیہ کر تمہن تمہن جنت منز داخل یم تمہن
برونٹھ پٹھ ہاوتھ تھاوڑ ہتر چھ۔

اے مومنو! اگر تو ہی اللہ (تعالے) اس مدد
کرو تہ سے کرو تو ہر مدد تہ تہندی قدم کر
مغبوط۔

بیہ یو کفر کورمت چھ، تمہن پٹھ چھ (انوس) تہ خدا
کر تہندی اعمال ضایع۔

تہ کیا تہ تمہو چھ اللہ (تعالے) سند تازل کورمت
دکلام، ناپند کورمت۔ اوے کر کر خدین تہ تہندی
اعمال ضایع۔

کیا تم پھیر کر تاہ زمینس مشریتہ زن نیم و چھ سن
زیم لوکھ تمہن برونٹھ گدرے ہتر چھ تہندی انجام
کیا سید؟ اللہ (تعالے) من اوس تمہن پٹھ
عذاب تہ تازل کورمت تہ (ازل کین) کا فرسن
ہند تہ آسہ تہندی ہمو حال۔

یہ (سید او کوز) ز اللہ (تعالے) چھ مومن
ہند مددگار تہ کافر ہند چھ نہینے اتھ روٹ
کرن اول۔

اللہ (تعالے) کر مومن تہ ایمانہ مطابق عمل
کرن والین تہتمین باعن منز داخل، میں پوزی
کوز نہر کپان آسن تہ یو کفر کورمت چھ تمہن
کینہہ تہنیووی قاید تہ تہ پٹھ کین چین بیتھ
پٹھ کین کھوان چھوان چھ تہ تہتم آسہ تہندی
تھکانہ۔

بیہ واریاہ ہستہ آسہ جاہ طاقت و ریمہ چانہ

سَيَهْدِيهِمْ وَيُضِلِّحُ بَالَهُمْ ①

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ②

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا
اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ③

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَخْشَا لَهُمْ وَأَضَلَّ
أَعْمَالَهُمْ ④

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ
أَعْمَالَهُمْ ⑤

أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ؕ دَقَّرَ
اللَّهُ عَلَيْهِمُ رُءُوسَ الْكُفْرَيْنِ أَنتَ لَهَا ⑥

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ
أَنَّ الْكُفْرَيْنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ⑦

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ
الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ⑧

وَكَاتِبِينَ مِّن قَدِيمٍ هِيَ أَشَدُّ كُوفًا مِّن

قَرَّبْتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ مِنْ أَهْلِ كُنُفِهِمْ
فَلَا تَأْصِرْ لَهُمْ ⑩

بُستِ ہند کھوتیہ بیٹھی کر گڑتھ ڈھنگہ۔ اسے کر
تھہ (تہند طاقہ باوڈ) پاک تہ کاٹہ ہونکہ
تہند مدرکار ہنہ۔

أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْتِنَا مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ
ذُوقَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا
أَهْوَاءَهُمْ ⑪

کیا سہ یس پنس ربہ ہند طرفہ ارس (مقبوط)
دلہ پٹھہ قایم آسان جہ ، ہیکہ تہندک ہاٹھ
اُستہ ہندک بدعمل ہن خوش شکل کرکھ
اوبہ آہو آسن ؟ بیہ یس پنسہن خاٹھن پستہ
پکان آسن ؟

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ، فِيهَا
أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ
لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ
خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ
عَسَلٍ مُصَفًّى ، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ ، وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ، كَمَنْ هُوَ
خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَوْثِيماً
فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ⑫

متقین ستو یمن جنت ہند وعدہ کرتہ آمت چھ
ہن منز آسن تہرہ کولہ یمن ہند آب ڈن دول
آسہ نہ ۔ بیہ آسن تہرہ کولہ یمن اندر تہتہ دو د
چلان آسہ ہیکہ منز نہ ہنہ بدلہ نہ (یعنی تہرہ بگر
تہ) بیہ آسن تہہ شرابہ چہ کولہ یس چہنہ والہن
لہند لگہ تہ پاک تہ صاف مانجھ کولہ تہ آسن ۔ بیہ
ہن میلن ہن جنت منز پرچہ تہہکو میوہ تہ
بیہ میلہک پنس پروردگار ہند طرفہ مغفرت
تہ کیا یس (جنتی لوکھ) ہیکہ نا ہن لوکن ہندک
ہاٹھ اُستہ یس تہرہ تام نارس منز روزہر حقلہ
قرار دینہ آہو چہ ، تہ یمن تہتہ توت رہر
ہو آب چاو نہ بیہ یس تہندک اندر تہرہ
تہہنہ ؟

وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ، حَتَّى إِذَا
خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُذِنُوا
الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ
طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا
أَهْوَاءَهُمْ ⑬

بیہ تہو اندر چہ کہنہ تہتہ تہ یس ظاہر ہاٹھ تہرہ
کن کن تھوان چہ مگر میلہ تم تہرہ ہن تہتہ
نیران چہ ، تہ یمن علم دینہ آمت چھ ہن چہ
وہان ، اُم (رہنوں) کیا سنا و نیا و ذی ؟ تم لوکھ
چہ تہتہ یمن ہند دن پٹھہ اللہ (قالے) ہن
مہر کر تہ تم چہ پنسہن خاٹھن پتہ دراہو ۔
بیہ تم لوکھ یس زن ہایت بان چہ ، اللہ (قالے)
چہ ہن ہایتس منز ہرہر کوان گڑھان ۔ تہ ہن
چہ تہند حالہ مطابق تقویٰ بخشان روزان ۔

وَالَّذِينَ اخْتَدَوْا ذَا دَهُمْ هُدًى وَ
اتَّبَعُوا تَقْوَاهُمْ ⑭

اد تم چہ صرف آخری ٹا صلہ چہ گر سپان۔ نہ
سو گز تہ تم نیش و چھان و چھان پتہ۔ اد تہ چہ
علا مشرتہ چھینہ نہہ در مشرتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
تم نیش و اتھہ پتہ پتہ (ڈون تن) تہہ وقتہ
کس چیز دیہ تم نفعہ

بہ زان نہ اللہ (تعالے) ہس ورا لی چھہہ کا نہ مہبود
بہ چاہہ حقہ ہم (چاڈی منکر قوم) گوناہ کڑو کڑو
چہہ، تم ہندہ خاطر روز خدایس معافی منگان
بہ روز مؤمن مردان تہ مؤمن زنان ہندہ حقہ
تہ معافی منگان نہ اللہ (تعالے) کڑن بہتہ سدر
قصور معاف۔ بہ اللہ (تعالے) چھہ تہندہ اور
یور پھیرن تہ گنہہ جاہہ مٹھہن زبیر پٹھہ زانان۔
بہ مؤمن چہہ زمان نہ (امس پٹھہ) کیا ز چھہہ
کا نہہ پتہ سورہ نازل سپان (پتہ منز جنگ
حکم آسہ ہے) لہذا پتہ کا نہہ پتہ پتہ پتہ
(حکم وول) سورہ نازل سپان چھہ تہ تہہ منز
چھہ لڑایہ ہندہ ذکر آسان تہ تہ چھہہ و چھان نہ
تم لوکہ پتہ ہندہ دن منز ہمارک چھہہ ہم چہہ
ترتہ کن پتہ نسائہ ہندی پٹھہ و چھان ہم
موتن غش آمت آسہ۔ لہذا تہندہ خاطر چھہہ
(خداہ ہندہ طرفہ) ہلاکت مقدر۔

(تہندہ اصل طریقہ پتہ ہے یہ آسن نہ تم و پتہ
نہ اسہ چھہہ گنہہ و تا ولی ہنز ضرورت) ساڈی کام
تہ چھہہ فرما ہر داری کڑی نہہ (لوکن) نیک کتہ
بوز نا نہ۔ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ ہے (یعنے
لڑائی ووتہ ہے) تہ اگر تم اللہ (تعالے) ہس
بروتہ کتہ پتہ ہرک بہہ ہم (یعنے ہم وعدہ فرما ہرک
ہندہ کوزمت او سکھ سہ پتہ کر ہم) اد گز تہہ
یہ تہندہ خاطر تہ۔

اد کتہ کیا یہ کتہ چھنا نزدیک نہ اگر تو ہر تھر چھو

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْجِبَهُمْ
بِغَتَّةٍ ۖ فَمَذَّجَاءَ أَشْرَاطِهَا ۚ فَأَنْ لَّهُمْ
إِذَا جَاءَتْهُمْ ذُكْرُهُمْ ۝۱۱

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ
لِذَنبِكَ ۚ وَاللُّمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ
وَاللَّهُ يَخْلُمُ مَّتَقَلِّبِكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝۱۲

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ
سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أَنْزِلَتْ مُحْكَمَةً ۚ
ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۚ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي
فُلُوفِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ
الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَأَوْلَىٰ
لَهُمْ ۝۱۳

طَاعَةً ۚ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ
الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ
خَيْرًا لَّهُمْ ۝۱۴

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا

فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿۳۷﴾

تو توہرے سپردو زمین پر منہر فساد کرنا کہ باعت
تو آشتاؤ پو تڑوٹو؛

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿۳۸﴾

یہ ہے جو تم لوگہ ہیں پیٹھ اللہ (تعالے) ہن لعنت
کر ہنڑ چھینے تو تم چھن زری کر کے ہنڑ سے چھن
تہنڑن اچھن انیو ترصنمت۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُتْرَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ
أَعْتَابٌ ﴿۳۹﴾

او تم چھنا قرآنس پیٹھ غور کران؟ تہنڑن دن
پیٹھ چھن تھنر تلفت بیم تہنڑن دن ہنڑے وہ ہنڑے
چھینے۔

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۗ الشَّيْطَانُ
سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَ لَهُمْ ﴿۴۰﴾

تم لوگہ ہم ہدایت تون گزھنہن وڑ پھیری شیطاں
چھ تہنڑن اعمال تم شول باؤتھ ہاوری ہنڑ تہنڑن
چھن (اپڑ) وہ میڑ دیاوری مہڑ۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا
مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِينَكُمْ فِي بَعْضِ
الْأُمْرِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ﴿۴۱﴾

یہ چھ اوے (سیدمت) زہ تم چھ تم لوگہ
وان ہم خدای تعلیم ناپنڈی ہنڑ نظر وچھان
چھ زہ اسی کرو کینڑن کھن منہر تمہنڑ اطاعت
تو اللہ (تعالے) چھ تہنڑن راز داری زانان۔

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَآذِبَارَهُمْ ﴿۴۲﴾

او وئی تو تہ وقتہ کیاہ حال آسہ نیلہ ملایک
روح تبھن کران آس (تہ) تہنڑن بھنڑن تہ
تہنڑن تھن پیٹھ ڈہر نکاوان آس۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُم اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ
وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿۴۳﴾

یہ سپد او کئی تر ہوسہ کہتہ اللہ (تعالے) ہن
ناپنڈ کر ہم درایہ تھ پتہ پتہ تہ خدایہ منہ
رضا (ترحائڈن) کورگہ ناپنڈ او کئی کر خدای
تہ تہنڑن اعمال ضایع۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
أَن يَخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَاثَهُمْ ﴿۴۴﴾

تم لوگہ مہنڈن دن منہ مرض چھ کیا تم چھایہ
خیال کران زہ اللہ (تعالے) کرڈ تہ تہنڑن دن
ہنڈک پو شید کپنہ زہ نیپہ نئی؟

وَلَوْ نَشَاءُ لَوَدَّ بَيْنَكُمْ فَلَاعْرَفْتَهُمْ
بِسِيمَتِهِمْ ۗ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿۴۵﴾

تہ ہرگاہ اسی ہنڑھو تہنڈ وجود کڈو شہ پیٹھ
نون تہ تڑ پر ہنڑناؤ کہہ تم تہنڈو بھنڑو تہ
تڑ چھبکہ ہم (وورڈ تہ) تہنڈ کہتہ کر تہ تہ

سہ یعنی تہنڈن دن چھ اللہ تعالیٰ ہن تلفت وڑ تہ ہنڈک تم چھ تہنڑن ہنڈک سستی پانے یاد گاوتہ۔

پر بزرگانوں تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تہندے اعمال
زاناں۔

بیہ اسی کرو ضرور تہندے آزمائش تو تہ تمام زبانی
زاولو کہ تو بہ منہ خدایہ سنہر و تہ منہ جہاد کرن
والی تہ مہر کرن والی تہ اسی کرو تہندے اندرین
حالاتن ہنہر آزمائش ضرور۔

یہ لوگو کفر کورمت چھ تہ اللہ (تعالیٰ) سنہر و تہ
ہنہر چھ (لوگن) ٹھکاناوان بیہ چھ ہدایت نون
گرتھنہ پتہ رسووس سستی اختلاف کران۔ یہ کم
لوگہ و اتناون تہ اللہ (تعالیٰ) ہس کہنہ تہ توہنہ
بلکہ سہ (اللہ تعالیٰ) کر تہندے اعمال ضایع۔

اسے ایمان دارو ! اللہ (تعالیٰ) تہ تمہو ہندس
رسولہ سنہر فرمانبر داری کرو تہ پنہر اعمال ضایع
مہ کرو۔

بلاتنک یہو کفر کورمت چھ تہ اللہ (تعالیٰ)
سنہر و تہ ہنہر چھ لوگہ ٹھکاناوی ہنہر۔ بہ تہ
موہے تہ تمہو اتمہر حاس منہر زہتم اسی کافر و
منہر۔ اہ اللہ (تعالیٰ) کر تہ ہنہر نہ ہنہر ہنہر۔

لہذا اسے مومنو! کم ہمت تہ سہاہل نہ ہنہر ہنہر
کہنہ (توہر) صلح کر تہ کن آلو کرن ہنہر۔ اہ ہنہر
رؤوزو توہر غالب تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تہ ہنہر
سستی تہ سہ و یہ نہ نہ ہنہر تہندے اعلان منہر
چھوہر ہنہر۔

یہ دنیاوی زندگی چھہ صرف اکہ تہا ہنہر تہ نفلتک
سامانہ۔ تہ اگر توہر ایمان اہو تہ تقویٰ پر اہو و
تہلیہ دیو اللہ (تعالیٰ) توہر تہندے اجر تہ
سہ چھہ تہندی مال توہر ہنہر۔

بیہ اگر سہ توہر تہندے مال منگہ تہ توہر کرو
(تہ پٹہ) ڈاڈ۔ تہ توہر ہنہر کسجو کسی تمام
ہنہر، تہ سہ کر ضرور تہندے دلو منہر تہندے کہنہ۔

وَلَنْبَلُوَنَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ
مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِينَ ۝ وَ نَبَلُوا
أَحْبَابَكُمْ ﴿۳۷﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدَّوْا عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَ شَاقَّوْا الرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ كُنۢ يَظُرُوْنَ اللَّهَ
شِيَارًا وَ سَخِطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿۳۷﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿۳۸﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدَّوْا عَن سَبِيلِ
اللَّهِ ثُمَّ مَا تَوَّأَدۡ هُمۡ كُفَّارًا فَلَن يَغْفِرَ
اللَّهُ لَهُمْ ﴿۳۹﴾


فَلَا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ ۖ وَ
أَنتُمۡ الْأَعْلَوْنَ ۖ وَ اللَّهُ مَعَكُمۡ وَ كُنۢ
يَتَرَكُمۡ أَعْمَالَكُمْ ﴿۴۰﴾

إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهُمْ دَرَارٌ
تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَ
لَا يَسْئَلِكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿۴۱﴾

إِن يَسْئَلِكُمْ مَوَالِيَهُمْ فَيُخَفِّكُمۡ تَخَلَّوْا
بِحُرِّجِ أَعْيَانِكُمْ ﴿۴۲﴾

بوزو! توہی چھو، تم لاکھ بھین امر ٹاٹھر ناد کرتہ
 یوان بیٹھ نہ توہی کرو اللہ (تعالیٰ) سبزی
 وتہ خر ترح بیہ تہ ہب مشر چھ کیہ تہم تہ آسان
 یکم بجلی کٹام، ہوان بھو تہ یس تہ بجلی کٹام
 ہیبہ سہ بھ پننی زور کر تہم بجلی کٹام، ہوان
 شتہ چھ اللہ (تعالیٰ) بے نیاز تہ توہی چھو
 محتاج۔ بیہ اگر توہی چھیر تہ مشر تہ سہ اند
 تہند بدل بیاکہ اکھ قوم تہ تم آسن نہ تہند
 پاٹھر (کابل)۔

هَآئِنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُغْفِقُوا فِي
 سَبِيلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ ۚ وَمَنْ
 يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ ۗ وَاللّٰهُ
 الْغَنِيُّ ۗ وَآنتُمْ الْفُقَرَاءُ ۗ وَإِن تَوَلَّوْا
 يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَتُمْ لَّا
 يَكُونُوْا أَمْثَالَكُمْ ﴿٢٦﴾



سورة فتح : یہ سورہ چھ مدنی تہ اتھ چھ ترہ آیہ بیہ چھیس ترور رکوع۔

(ہر چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنڈ ناو ہتھ (پران) یس
 حد روں کرم کرن دول (تہ) چھیری چھیری رحم
 کرن دول چھ۔

اسر پھے تریہ اکھ ٹاکاہ فتح بختہ شہر۔

بیمیک تہجہ پہ آسہ نہ اللہ (تعالیٰ) کر ورن
 تریہ متعلق کرنہ آمتن متن گوہ ہن تہ بیم
 بروٹھ گڈرے ہتھ چھ تہ بیم ازتام چھیر
 سپدے ہتھ (مگر بروٹھ کن سپدنک امکان
 چھ) متن تہ کر ورن تہ تریہ پیٹھ کرہ ہتھ نعت
 پوڑ تہ تریہ لوی سیز و تھ۔

بیہ اللہ (تعالیٰ) کری تریہ شاندار مدد۔

سے (خدا) چھ سیمو مؤمن ہندین دن پیٹھ قرار
 نازل کور۔ تہتہ زن یس ایمان متن بروٹھ نصیب
 اوس اتھ سیمو گرتھ متن بیہ ایمان تہ حاصل
 تہ اللہ (تعالیٰ) ہس چھ آسان مشر تہ شکر
 تہ زمیں مشر تہ، تہ اللہ (تعالیٰ) چھ بڑ غلمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ﴿٢﴾
 لِيُغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
 وَ مَا تَاَخَّرَ ۗ وَ يُتِمَّ رِغْمَتَهُ عَلَیْكَ ۗ
 وَيَهْدِيْكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٣﴾

وَ يَنْصُرَكَ اللّٰهُ تَصْرًا عَزِيْزًا ﴿٤﴾

هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ
 الْمُؤْمِنِيْنَ لِيُزِدَ اَدْوَانًا اِيْمَانًا مَّعَ
 اِيْمَانِهِمْ ۗ وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ
 الْاَرْضِ ۗ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٥﴾

وول تہ بچ حکمشر وول۔

(مؤمن ہند ایمان ہراولن) آسہ اوکوی مہتہ
زن سہ (اللہ تعالیٰ) مؤمن مردن تہ مؤمن
زمانن تہ تہن جنن منزوا نخل کرہ یمن بوونی
کوی کولہ پکان آسن۔ تم گڑھن یمن منز ہمیشہ
روزان۔ بیہ مہتہ زن سہ (اللہ تعالیٰ) تہندہ
گمناہ ختم کر تہ اللہ (تعالیٰ) ہس بش چہیہ
یہہ بڑ کامیابی۔

بیہ مہتہ زن سہ عذاب دیہ منافق مردن تہ منافق
زمانن تہ مشرک مردن تہ مشرک زمانن یم
اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹہ بدگمانی کرن اول چہہ ،
معیبک آولن پیہہ تم نے ولہ نہ تہ اللہ (تعالیٰ)
ہن کوز بہن پیٹہ غضب نازل تہ پسنہ دربار
نشہ چین تم دور کرکوی تہ تہندہ خاطر پیٹہ
تمو جنہم تیار کرکوتہ تمومت یس سہٹا بچہ تمکازہ
چہہ۔

بیہ آسان ہندی تہ زمینگر شکر چہہ اللہ (تعالیٰ)
ہندی۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چہہ سہٹا غالب (تہ)
حکمتہ وول۔

آسہ چھکہ تہ (پسنہو صفاتو خاطر) گواہ تہ (مؤمن)
ہند خاطر) خود شجرہ تہ وول تہ (کافر) ہند
خاطر) ہتیار کرن وول بناوتہ سوزمت۔
مہتہ زن توہی تہ ہند دوسو اللہ (تعالیٰ) ہس
تہ تہندس رولوس پیٹہ ایمان اولو، بیہ کرو تہ
عزت، بیہ کرو کالہ پگاہ تہندہ (اللہ تعالیٰ) ہندنا تسبیح۔
یم لوکہ چاڈ بیعت کران چہہ تم چہہ صرف اللہ
(تعالیٰ) ہند بیعت کران۔ اللہ (تعالیٰ) ہند
اتہ چہہ تہندس اتہس پیٹہ۔ اوکوی یس کاترہا

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ
عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ ۚ بِاللَّهِ
ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ ذَاكَ السَّوْءُ ۚ وَ
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَلَفَهُمْ
أَعْدَاءَ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۚ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١﴾

وَاللَّهُ جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ﴿١٣﴾

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزُّوهَ
وَتُوقِرُّوهَ ۚ وَتُحَيِّوهَ بِنُكْرَةٍ ۚ وَأَصِيلًا ﴿١٤﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا
يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُتْ

لہ یعنی تم میں سے ہر ایک ہندنا ہند۔

حَلَّ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ
اللَّهُ فَسِيؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥﴾

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ
شَغَلْنَا آَمْوَالَنَا وَآَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا
يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي
قُلُوبِهِمْ ذَلَّ قَمَنَ يَمِيكُ لَكُمْ مَن
أَلَّهُ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ
أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٥﴾

یہ وعدہ پھٹراو، اور تمہرے پھٹراؤکے وبال
پسینہ تہندس زوس پیٹھ تہ یس کا ترھا سہ
وعدہ پور کر یس تمہی خدایس سستی کوزمتاوس
اللہ (تعالے) دیہ سس امیک سہٹھا جاو اجرہ
اعرابوہ منزیم پیٹھ تراوہ آہتر اسی، و من
ضرور نہ سانی مانن تہ شربو بائرو تھو اسی آدرہ
(او کو ہیکو تہ اسی اتھ غزوس لہ منز شابل
سپدنہ عرشہٹھ) او کو تہ منگ سائہ خاطر
معفرت۔ تم چو پسینو زووس سستی سو کتھ دن
پوسہ تہندین دن منز چھتہ - تہ وکٹھ ہر گاہ
اللہ (تعالے) توہر کانہہ نوتقان واتناون بیٹھ
یا توہر کانہہ نفع واتناون بیٹھ تہ کس و ہود
چھ یس اتھ بر خلاف تہند خاطر کینہہ کریتھ ہیکہ
ترہ کتھ چھنہ ہرگز، بلکہ اللہ (تعالے) چھ تہندو
اعمالو ہتہ خبردار۔

حقیقت چھیہ یہ نہ توہر اوسو گمان کوزمت نہ ہول
تہ مؤمنین تہ نہ شیبہ تہ پسین شربن بائرن
کن سلامت پٹھ پھیرتھ۔ تہ یہ کتھ اسی
تہندہ نظر منظر پارو کر تھ ماوہ آہتر۔ (تہ توہر
اسی و دل سہٹھا خوش) بیہ اسی و توہر (مؤمن
ہند حقہ تہ خدایہ ہند حقہ) ناکاہ گمان کران۔
(حالانکہ مؤمن تہ) بلکہ توہر پانہ اسی و ہلاک
سپدن والین منظر گندہ آہتر۔

بیہ یس شخص اللہ (تعالے) تہ تہندس رسولس
پیٹھ ایمان چھنہ انان (سہ تھاون یاد نہ) اسہ
چھ کافرن ہند خاطر و ہون عذاب تیار کر تھ

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ
وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ آَهْلِهِمْ أَبَدًا وَ رَزَيْنَ
ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ
السَّوءِ بِدِّ وَ كُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿٥﴾

وَ مَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّا
أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿٥﴾

لہ اعرابی، عربو صحراوی خانہ بدوش۔ بین آین مشر چھ منافق قبائل عامر، اسد تہ غطفان
قبیلن ہندو کر۔
لہ یعنی حمزہ تبوکس مشر۔

تھومت -

بہ آسمان تو زمین ہنز پادشاہت چھینے
اللہ (تعالیٰ) بندگی سے تہنس منز - سہ تہنس
بہترھان پچھ ، معاف چھس کران تہ تہنس بہترھان
پچھ عذاب چھس دوران - تہ اللہ (تعالیٰ) پچھ
سہا معاف کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رحم
کرن وول -

بیلہ توہی مال غنیمت سہ نہرہ خاطر نہرو تہ
پچھ تراونہ آہتی لوکھ ون ز اسہ تہ دیو اجازت
نہ اسی تہ پکو توہہ پتہ ، تم بہترھن ز اللہ
(تعالیٰ) سہ فاصلہ ترہن بدلوتھ - تر لوکھ
توہی ہیکو نہ ہرگز اسہ پتہ پچھ - یوہے پچھ توہہ
متعلق فاصلہ یس اللہ (تعالیٰ) ہن اسہ بروٹھ
سرتھ تھومت چھ - اتھ پچھ ون تم - ترکہ پچھ
توہی اسہ پچھ سدکران - اماہ پوز پوز چھ پہ نہ
تم چھو کاٹ جاہ نہتہ چھلتھ -

اعرابو منز پیم لوکھ پچھ تراونہ آہتی چھ بہن
ون تر نہرہ نور بیو توہی اکس تہنس قومس سستی
جنگ کرنہ خاطر ناد وتھ انہن یس جنگ چھوکارک
گرمی منز سہا ماہر چھ - توہی کرو بہن سستی
توت تمام جنگ نہ تم سپن مسلمان - لہذا
نود وے توہی (تمہ وقتہ خلیہ ہنز آواز)
تاہو تہ اللہ (تعالیٰ) دیو توہہ سہا نہراہر
تہ اگر توہی (تہنس حکمس) بہتہ پھرو بہتہ
یا طو امہ بروٹھ (روگردانی) کر ہنز اسہ تہ
اللہ (تعالیٰ) دیو توہہ وگہ وار عذاب -

نہ تہ چھینہ کانسہ اہنس پچھ سختی تہ نہ چھینہ
تہنس پچھ سختی تہ نہ چھینہ ہمارس پچھ سختی
زہ تم سپن معذور اسٹھ تہ لڑایہ منز شامل
بہ یس اللہ (تعالیٰ) تہ تہنس رسولہ ہنز

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَغْفِرُ
لِمَن يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ ۗ وَ
كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۵﴾

سَيَقُوْلُ الْمَخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى
مَعَاكِمَ لِنَاخِذُوْهَا ذُرُوْا نَا نَتَّبِعْكُمْ ۗ
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُبَدِّلُوْا كَلِمَ اللّٰهِ ۗ قُلْ
لَنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ
قَبْلُ ۗ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ نَحْسُدُوْنَ نَا ۗ بَلْ
كَا نُوْا اِلَّا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵﴾

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتَذَعُوْنَ
اِلٰى قَوْمِ اَوْلِيْنَ بَايَسَ شٰدِيْدٍ تَقَابَلُوْهُمْ اَوْ
يَسْلِمُوْنَ ۗ فَاِنْ طَطِئْتُمْ اِوْءٰىكُمْ اللّٰهُ
اَجْرًا حَسَنًا ۗ وَاِنْ تَوَلَّوْا كَمَا
تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا
اَلِيْمًا ﴿۱۵﴾

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى
الْاَعْرَابِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرْيُوطِ حَرَجٌ ۗ
وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَدْخُلْهُ
جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ وَ

مَنْ يَتَوَلَّ يَعْذِبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥١﴾ ﴿٥٠﴾ فرما میر داری کرسہ (خدا) کرسس تنہیں جنتن منتر
 وَاوَّلَ يَمِينٍ بُولِي كَبِيْرٍ كَهْلٍ بِلَانٍ بَهِيْمٍ تَهْ لِيْسْ
 (کا نثرھا محکمہ نشہ) بیٹھ بھیر، اللہ (تعالیٰ)
 دیہ تس وگہ وار عذاب۔

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
 يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
 مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ
 عَلَيْهِمْ وَأَتَاهُمُ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٥١﴾
 اللہ (تعالیٰ) سپد مؤمن تہہ سادہ سپٹھا توش
 یتلہ زن تم کس تل چانی بیعت کران اُس
 تہ تم زون جان زبر پٹھو سہ (ایمان)
 یس تہند ہن دن منتر اوس۔ او سے کور
 تو تہند ہن دن پیٹھ قرار نازل تہ جن
 بختن اکھ اول اول سہ واہی فتح۔

بِهِ بِحُكْمِهِ وَارِيَاهُ مَا لِي غَنِيْمَتٍ تَهْ يَمِ تَمِ تَقْبُضْ
 قَلِ اِنَّا اُسُ تَهْ اللہ (تعالیٰ) چھ غائب تہ
 حکمتہ دول۔

وَعَدَّكُمْ اللهُ مَغَارِمَ كَثِيْرَةً
 تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ
 كَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۗ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً
 لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۗ يَهْدِيْكُمْ صِرَاطًا
 مُسْتَقِيْمًا ﴿٥٢﴾
 اللہ (تعالیٰ) ہن چھ توہہ واریا ہن (مال)
 غنیمت ہند وعدہ کورمت۔ ہم توہہ پنس قبض
 تل انوکھ تہ یہ موجود مال غنیمت چھنو تم وعدہ
 منتر اول اول عطا کورمت تہ لوکن ہند کہ اتھ چھن
 توہہ نشہ پتہ رڈ ہتر۔ بیٹھ ترن ہم (واقعات)
 مؤمن ہند خاطر اکھ نشاہ بیٹھ گزھن تہ سہ
 (اللہ تعالیٰ) ماور و توہہ امہ کورس سیز و تھ۔
 تہ (امہ علاوہ) تہ چھینہ بیکھ اکھ (فتح) یوہ توہہ
 و نیکام حاصل سپنرو تہ۔ اللہ (تعالیٰ) ہن
 چھ امیک قاصد کورمت تھومت بیہ اللہ (تعالیٰ)
 چھ بین ارادہ پور کرسن پیٹھ پور پور تادہ۔

وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَخَاطَ
 اللهُ بِهَا ۗ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيْرًا ﴿٥٣﴾
 اللہ (تعالیٰ) ہن چھ توہہ واریا ہن (مال)
 غنیمت ہند وعدہ کورمت۔ ہم توہہ پنس قبض
 تل انوکھ تہ یہ موجود مال غنیمت چھنو تم وعدہ
 منتر اول اول عطا کورمت تہ لوکن ہند کہ اتھ چھن
 توہہ نشہ پتہ رڈ ہتر۔ بیٹھ ترن ہم (واقعات)
 مؤمن ہند خاطر اکھ نشاہ بیٹھ گزھن تہ سہ
 (اللہ تعالیٰ) ماور و توہہ امہ کورس سیز و تھ۔
 تہ (امہ علاوہ) تہ چھینہ بیکھ اکھ (فتح) یوہ توہہ
 و نیکام حاصل سپنرو تہ۔ اللہ (تعالیٰ) ہن
 چھ امیک قاصد کورمت تھومت بیہ اللہ (تعالیٰ)
 چھ بین ارادہ پور کرسن پیٹھ پور پور تادہ۔

ذٰلِكَ مَتْلُوْكُمْ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا
 اَلْاَذْبَاْرُ لَمْ يَجِدُوْا وَاٰلِيْنَا وَاَلَا
 اللہ (تعالیٰ) ہن چھ توہہ واریا ہن (مال)
 غنیمت ہند وعدہ کورمت۔ ہم توہہ پنس قبض
 تل انوکھ تہ یہ موجود مال غنیمت چھنو تم وعدہ
 منتر اول اول عطا کورمت تہ لوکن ہند کہ اتھ چھن
 توہہ نشہ پتہ رڈ ہتر۔ بیٹھ ترن ہم (واقعات)
 مؤمن ہند خاطر اکھ نشاہ بیٹھ گزھن تہ سہ
 (اللہ تعالیٰ) ماور و توہہ امہ کورس سیز و تھ۔
 تہ (امہ علاوہ) تہ چھینہ بیکھ اکھ (فتح) یوہ توہہ
 و نیکام حاصل سپنرو تہ۔ اللہ (تعالیٰ) ہن
 چھ امیک قاصد کورمت تھومت بیہ اللہ (تعالیٰ)
 چھ بین ارادہ پور کرسن پیٹھ پور پور تادہ۔

۱۔ صلح حدیبیہ کس موقعس پیٹھ نبیہ صحابہ کرامو مرتکب قسم کھیتھ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سبز بیعت کریا۔ اتھ چھ "بیعت رضوان" و نان۔
 ۲۔ یعنی خیبر کرمال۔

نَصِيْرًا ۱۷

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي تَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِ ۱۷
لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۱۷

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَا
اَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ
اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۱۷

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَصَدُّكُمْ صَنِ
الْمَسْجِدِ الْخَرَابِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوْفًا
اَنْ يَنْبَلُوْا مَجَلَّةً وَاَكُوْا رِجَالٌ
مُّؤْمِنُوْنَ وَاِنْسَاءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ
تَعْلَمُوْهُمُ اَنْ تَطْفُوْهُمُ فَيُصِيبَكُمْ
مِنْهُمْ مَعْرَءًا يَغْيِرُ عَلَيْهِمْ لِيُذْخَلَ
اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ ؕ لَوْ تَرَى اَلْوَا
لَعَدَبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا
اَلِيْمًا ۱۷

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي قُلُوْبِهِمُ
الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ
اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهِ وَاَعْلَى
الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلَزَمَهُمْ كَلِيْمَةَ التَّقْوٰى

پھر تمہ پر نہ لہو، ہن کا نہہ پناہ دین وول، نہ
(لہو، ہن کا نہہ) مددگار -

اللہ (قائل) سُنْدِیہ سنتت شعوو یادئس ہمیشہ
جاری چھہ تہ تہر بکہ نہ زئیس تہ اللہ (قائل)
سندس مقرر کرک مہر تہس طرفئس منز کا نہہ تبدیلی
ہیہ سہ چھہ خدالی نیئو تہندک اتھہ توہہ نش تہ
تہندک اتھہ تمن نش کبہ چہ وادی منز پتھہ رُؤ،
تمہ پتہ نہ توہہ اُسو (حالاتو مطابق) تمن پہتھ
فتح لہتہر تہ اللہ (قائل) اوس تہندک اعمال
وہجان (تہ زانان اوس نہ توہہ جھو نہ لڑائی کرہ

نشہ کھوتراں)
تہ اُسو (تہندک دشمن) یئو کفر کور تہ توہہ
ٹھاکا وک ہو مسجد حرام (چہ زیارتہ) نشہ - ہیہ
جیسے پاٹھو تمہر بانیہ تہ (ایہ پتھہ رُئیس) ہیہ (مکھن اطر)
وقف سپدے منز اُسہ زئیم بکہ ہن پنئس منزل
مقصودس تمام و اُتتھہ - ہیہ اُر (نکس
منز) کینہہ مؤمن مرد تھو اُسہ ہن تہ تہ کینہہ
مؤمن زانہ ہرٹھہ اُسہ ہن نہ ییم توہہ اُسو وکھ
نہ زانان تہ یہ خطر اُسہ ہے تہ نہ توہہ متھو کہ
تم اُن زان پاٹھو کھورن تل تہ تمہہ کر باغٹہ پیہ
ہے توہہ پیٹھہ چھوٹھہ کھالہہ (تہ اُسو دہہ ہو توہہ
لڑنہ، مگر خداین تھادک و توہہ ٹھاکنا و تھہ) ہیٹھہ
زن اللہ (قائل) ایس پند کر تہس کر پنئس
رحمتس منز و اُخل اگر (پوشیدہ مؤمن) اور پور کُن
ٹھاکو اُسہ ہن تہ تمو (کبہ کھو روزن والہو) منز
ییم کافر اُسو اُسو و اتنا و ہو تمن وکھ وار عذاب
سہ وقت کرہو یادئیلہ کافر و پنئین و ہن منز طہر کُر
ہند تھیٹہ رُو نہ تہہ یاد کور ایس جاہلیتہ چہ طہر کُر
ہند نہ زیتہ اوس - اتھہ پیٹھہ کور اللہ (قائل) ہن
پنئس رسوئس پیٹھہ تہ مؤمنن پیٹھہ پنئہ طرفہ نازل

وَكَانُوا آخِثًا بِهَا وَآهْلَهَا ، وَكَانَ
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۲۵﴾

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَ بِالْحَقِّ ۗ
لَقَدْ خُلِقَتِ الْمَشْجِدَ الْحَرَامَ لِأَنْ شَاءَ
اللَّهُ أَمِينٌ ۖ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَ
مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمْ
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا
كَرِيمًا ﴿۲۶﴾

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۲۷﴾

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا لَا سِيْمَاءَ لَهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَوَّلِ السُّجُودِ ۗ ذَلِكَ
مَثَلُهُمْ فِي التَّوْبَةِ ۗ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِغْوَاءِ نَشْكَرُوهُ أَخْرَجَهُ شَطَاةً فَآزَرَهُ
فَاسْتَفَلَّ ۗ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ
يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا ﴿۲۸﴾


سیدن اول قرار نازل تہ تقویٰ کس طریقیں پیو
تعمیر اور تہند کور ۔ تہ تے اسی اکی جاد
حقار بیہ اسی اتھ لایق تہ اللہ (تعالے) پھر پرتھ
اکھ چیز زمانہ ۔

اللہ (تعالے) ہن ہوو پینس رسول تہ خاکب
مضمون پور پاتھی پڑاوتھ بیتھ منز یہ بیان اول
نہ اگر خلائق نوزہ توہی سپدو ضرور مسجد حرامس
منز امنہ سان داہل یا آسہ و پور پاتھی مس
کاستھ یا آسہ و مس کز پتھ (تہ) کاستھ ہونہ
کھوزان ۔ او کہی اللہ (تعالے) ہن زون تہ کثیرھا
یہ توہی اسی و نہ زمانہ ، تہ توہی پتھ اتھ ستر
اکھ بیاکھ فتح تہ مقدر تموم ہتر ۔

سہ پتھ خدایس سیمو ہن رسول ہدایت تہ دین حق
ہتھ سوزمت چھ بیتھ زن اتھ سارکے دین
پتھ غالب کر تہ اللہ (تعالے) اہے پتھ کافی گواہ ۔
محمد پتھ اللہ (تعالے) سند رسول تہ بیم لاکھ
تس ستر چھ ہم چھ کافرن خلاف سبھا جوش
تھاوان ۔ وہ نہ گواہ پانہ والی چھ اکھ اکیس ستر
نوازش کرن والی سبیل تہ ہم توچھیکہ ، ہم لبہ
کہہ تہ بشرکہ ہنہ پاک تہ اللہ (تعالے) سند
اطاعت گزار ۔ ہم چھ اللہ (تعالے) سند فضل
تہ رضا تہانڈان روزان ۔ بہنہز شناخت چھیت
تہند بن بتیقین پیٹھ سبک ہندو نشا لودس موہود
یہ بہنہز حالت چھیت توراہس منز بیان پیہر ہتر
تہ انجیلس منز چھیت بہنہز حالت پیہر کئی بیان نہ
ہم (اسن) اکھ زراعی پاتھی سیمو گھوڈ ہتھ
پن وہ پزن ہوو پتہ کون سہ آسمانی تہ زین
خوراک ستر (مفیوط تہ سہ وہ پزن پتھ بیہ

الحسن منز چھ دولہ موہور چایز لینے کھوہ ستر مس لاسن تہ تہ قہنی ستر مس کر پتہ تہ ۔

ہن مہنوط۔ پتہ سپد پینس مونس پٹھ ڈرک
 پٹھ ٹا پیم یوت تام تر زمیندارس عمدہ شس
 ہنہ نوک۔ تمیک نتیجہ نیر یہ تر کافر وزن
 تم وچو وچو۔ اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ مؤمن
 تہ ایمانہ مطابق عمل کرن والہن سوتی پ وعدہ
 کڈمت تر ہن میلہ مغفرت تہ بوڈ اجہر۔



سورۃ حجرات۔ یہ سورہ چھ مدنی تر بسم اللہ پتہ چھ اٹھ گنواہ آہ یہ سہ چھیس تر رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(ہر چھیس، اللہ (تعالیٰ) سڈ ناو ہتھہ پیران)
 یس حد رنوس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک
 رحم کرن وول چھہ۔

اے مؤمنو! اللہ (تعالیٰ) تہ تہنیرس رنوس بروٹھ
 کینہ ہر آسو لاف دووان ہیرہ پیرا وو اللہ (تعالیٰ)
 سڈ تقویٰ۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ سہٹھا بوزن وول
 (تہ) زانن وول۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ
 يَدَيِّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَتَقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ
 اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ①

اے مؤمنو! نبی ہنہنر آواز ہنہنہ ہر آسو پینہنر
 آواز تھنہنر راوان۔ تہ نہ آسو زلوٹس تھی تھہ پٹھ
 بڈ بڈ کتھہ کران ہتھہ پٹھ توہی پانہ وانی اکھ
 اکس تھی بڈ بڈ کتھہ کران چھو۔ ہتھہ نہ (تہنہ
 کتھہ سپہنر) تہنہنر کمال سپدن ضایک تہ توہی
 آسو نہ تھیرہ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا
 اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا
 تَجْهَرُوْا لَهُۥ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
 لِبَعْضٍ اَنْ تَخْطُبَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ
 لَا تَشْعُرُوْنَ ②

تم لوکھ ہم رنوس قھی پینہنر آواز مار تھہ چھہ
 تھواوان۔ تھے چھہ ہینہنر وانی ہنہنر اللہ (تعالیٰ)
 ہن تقویٰ ٹا طر پلور پٹھ سام ہنہنر ہنہنر چھہ
 تہ تہنہنر ٹا طر چھہ مغفرت تہ بوڈ اجہر لیکھتھہ۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَبْغُضُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلٍ
 اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰمَنَحَ اللّٰهُ
 قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ
 عَظِيْمٌ ③

تم لوکھ ہم (تہنہنر) کٹھہو نیرک کئی تریہ آلو
 دووان چھی ہنہنر مشز چھہ واراہ بے ونوف۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَنْتَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ
 الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ④

ہر گاہ تم تھے وقتس تمام پیار من ز تر یہ یہ کہہ
جن کُن نمبر نہرتہ تہ یہ گرتہ ہے تہند باپتہ
رت۔ بیہ چھ اللہ (تعالیٰ) سبھا بختن مار (تہ)
پھیرک پھیرک رحم کرن وول۔

اے مومنو! یوڈ وے توہدیش کانہہ فاسق کانہہ
اہم خبرائہ، تہ تمیک اوسو تحقیقات کران۔ بیہ
تہ تہرہ کتہ سپد ز توہر کرو انزانی پانگور کتہ
توس پیٹھ حملہ تہ پتہ سپدو پستس کرک مہ
بس پیٹھ پشیمان۔

بیہ زانوز زو کیکن چھ اللہ (تعالیٰ) سند
رسول توہر منز موجود۔ یوڈ وے واریا من
معاملن منز سہ تہنتر کتہ مانان روز تسیلہ
پنیو توہر تکلیفس مفر۔ وہ زو گو اللہ (تعالیٰ)
ہن چھ تہنتر نظر منز اپمان لوطہ ہومت۔ تہ
تہندرن دن منز چھن یہ پاراد کرک تہ ہومت
تہ تہنتر نظر منز چھن کفر تہ اطاعت تہ نمبر
نیرن تہ نافرمانی کرنی قابل نفرت کرک تہ
ہومت (مین لوکن پیٹھ یہ آہ چسپان سپان
چھ) تہ لوکھ چھ سینز و تہ پیٹھ۔

(تہند تہ آسن چھ محض) اللہ (تعالیٰ)
سند فغلبہ تہ نعمتہ سوتو۔ تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ زبر پانگور زانن وول تہ حکمتہ وول۔

بیہ اگر مومن ہندک ز دُرک پانہ وانی جنگ کرن
تہ تہن دونونی درمیان کرنا وول صلح۔ ادا صلح
گرتہ پتہ تہو منز کانہہ اکھ پیس پیٹھ حملہ
کر، تہ توہر ساری رلیتہ کرک وولس حملہ کرن
وولس دُرس خلاف جنگ یوت تمام ز سہ بیہ
اللہ (تعالیٰ) ہندس حکمس کن واپس۔ پتہ ہر گاہ سہ اللہ
(تعالیٰ) ہندس حکمس کن پھیر تہ بیہ ادا کرنا وول انصاف سان
تہن (دونونی جنگ کرن والہن) درمیان صلح تہ انصاف رلوٹ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ
لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ يَنْبَغِي فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ
نُدْمِينَ ①

وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَزَيَّنَّ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ
الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُصْيَانَ أُولَٰئِكَ
هُمُ الرَّاشِدُونَ ①

فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ①

وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَتَلُوا
فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَثَ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ
فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ①

تظہر لہ اللہ (تعالیٰ) چھہ الغاف کران والہن پین کران۔
 مؤمن منہ پانہ وادی تعلق چہ صرف بازی بائی
 سند لہذا توہی ارسو پینین دون باین درمیان
 (بیم پانہ وادی کران آسن) صلح کرناوان۔ بیہ
 پراوو اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ، بیہ زن توہہر
 پیچہ رحم کرنہ پیہہ۔

اے مؤمنو! کانہہ قوم مہ آسن کانہہ قومس
 اوس پانہ زانہہ مانیہ کرمان۔ بنون چہ نہ، سہ
 آسہ جہنہ کھوتہ رت۔ بیہ مہ آسن (کنہ توہہ)
 زانہہ دویمین (یعنی دویمہ قومہ چہن) زانان
 اوس پانہ زانہہ رتسن صہڈان۔ بنون چہ نہ تم
 (دویمہ قومہ چہ یا حالتہ واجنہ) زانانہ آسن
 جہنہ کھوتہ رت۔ بیہ نہ اوس زلو توہہر اکھ
 اوس پانہ دون تہ نہ اوس زلو اکھ اوس
 رتہہ کرہتہ آلو دون۔ تہ کیا زہ ایمانہ پتہ اطاعتہ
 تہ نبرگرتھن چہ اکھ سیٹھاہے بیچہ ناوک
 عقدا رہاوان (یعنی فاروق و نہ ناوان) بیہ بیس
 تہ توہہر کرنہ، سہ آسہ تہ اہم۔

اے ایمانہ والہو! واریا ہو گمانہ نہ ارسو پتہ
 روزان، تہ کیا زہ کیہنہ گمانہ چہ گمانہ بان۔ بیہ مہ
 ارسو اکھ اکر منہر جاسوسی کران، بیہ مہ آسن توہہر
 منہر کیہنہ اہین کیشن، منہر غایتہ کران۔ کیا توہہر
 منہر کرایہ کانہہ پینین مودہ بائی سند ماز کینون
 پیند؟ (اگر یہ کہتہ توہہر کن مہ مہرہ پیہہ تہ)
 توہہر کرہو نہ ناپیند۔ بیہ پراوو اللہ (تعالیٰ)
 سند تقویٰ۔ اللہ (تعالیٰ) چہ سیٹھاہے توہہر
 قبول کرن وول (تہ) پھیرہ پھیرہ رحم کرن وول۔
 اے لوکو! اسہ چہو توہہر مردس تہ زانانہ نش پانہ
 کرہو مہ۔ بیہ چہو توہہر کھو یا ڈارن تہ قبلین
 منہر باگرہتہ تھاوہر مہ۔ بیہ زن توہہر اکھ اوس

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۰۱﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَشْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنَ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَامِ بَدَّ الْأَيْمَانِ جَدًّا مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۰۲﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِمَّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۰۳﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

آتَفِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۷﴾

پر پڑھو، بیکیو۔ اللہ (تعالیٰ) ہنس نزویک
چھ تو بہ منز جاو عزتہ وول سے یس سارک
وہے کھوتہ جاو متقی آسہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ
یقیناً سبھا علم تھاوان وول (تہ) واریاہ خسر
تھاوان وول۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ
الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸﴾

اعرابی چھ ونان نہ اسہ اون ایمان، تہ ون بہمن
نہ تو بہر اولو نہ پڑی پٹھ ایمان، وونی گوو
توہی آسو یہ ونان نہ اسہ چھ ظاہر پٹھ فرماواری
برسر کر مٹھ۔ تہ کیا نہ (اسے اعرابو!) وون
سید نہ ایمان مولہ تہ تہندین دین اندر داہل،
بیہ اسے مولہنو! اگر توہی اللہ (تعالیٰ) تہ تو
ہندس رسولہ سنتر پڑ فرماواری کر و تہ سو وہ
نہ تہندو اعمالو منز کا نہر عمل تہ ضایع گزھنہ
اللہ (تعالیٰ) چھ سبھا بخش بار (تہ) پھیر کر
رحم کرن وول۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ
رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزْتَابُوا وَجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿۱۹﴾

مومن چھ تہ آسان یکم اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس
رسولس پیٹھ ایمان انان چھ، تو پتہ چھنہ شکس
منز ولہر لوان، بیہ چھ ہستہ مالو تہ ہستہ نوو
ہندہ دس اللہ (تعالیٰ) سنتر و تہ منز جہاد کران
یکے لوکھ چھ پڑ یار کر آسان۔

قُلْ اتَّعَلِمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۰﴾

تہ ونامہ کیا توہر چھوا اللہ (تعالیٰ) ہس
پنہرہ وشیخ زان کرنا وان؟ تہ اللہ (تعالیٰ) ہے
چھ تہہ زانان، یہ آسان منز چھ، بیہ یہ
زمینہ منز چھ۔ بیہ چھ اللہ (تعالیٰ) تہ
ورای تہ (اعرابی) چھی تہ نہ مننت تھاوان نہ تو

يَمْتَنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْتَنُوا
عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بِإِلَّهِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ
أَنْ هَدَيْتُمْ لِلدِّينِ الْإِسْلَامِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۲۱﴾

پر تہ کھ چیز زانان۔
یکم (اعرابی) چھی تہ نہ مننت تھاوان نہ تو
کوہ اسلام قبول۔ تہ ونامہ میہ تہ تھاوو ہستہ
اسلام قبول کر شیخ مننت۔ پڑ چھ یہ نہ
اللہ (تعالیٰ) چھ توہر پٹھ احسان

لہ عربی تم لوکھ صحراون منز خاہ بدوش تہ محامی زندگی گذران اس تہ ظاہری تمدن تہ تعلیم لیتہ اس محروم۔

تعاون ز تجودیت و توہمہ ایمانس کن ہدایت
 اگر تو ہی (اتھ دعواہس منز) پز یارک چھو
 (ز ایمان چھو اونمت) تیلہ کرو یہ حقیقت
 قبول ا۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

اللہ (تعالے) چھ آسمان ہند فاب تہ زانان
 تہ زمینک تہ بیہ اللہ (تعالے) چھ تہتدک
 اعمال جان پاطھ وچھان۔

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَعَ الْبِسْمَلَةِ سِتُّ وَاذْبَعُونَ آيَةً وَثَلَاثَةٌ رُكُوعَاتٍ

سورۃ ق: یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ اتھ چھ اتھ شینے تا جہہ آیہ بیہ چھس تریہ کرک۔

(بہ چھس) اللہ (تعالے) سند ناو ہتھ (پران ایس
 حد رنوس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رحم
 کرن وول چھ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

قاور خدا چھ ینیر سوریک تازل کرن وول۔ اسی
 چھن یہ بزرگی وول قرآن (نینیر سورک پز پز)
 شہادہ کس زگس منز پیش کران۔

﴿۲﴾

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿۲﴾

مگر ہم لاکھ چھ تعجب کران ز بین نش چھ میوس
 منز خبردار تہ ہتیار کرن وول اکھ شتھن آمت
 تہ کافر چھ ونان یہ چھ تعجبس لایق چیز بوزہ
 پوان۔

بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ
 فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿۳﴾

کیا نیلہ اسی مرو تہ اسے گڑھ میتر (تہ پتہ کرھوا
 اسی دبار زند؟) یہ پھیرتھ گڑھن تہ چھ (قلہ)
 نشہ) دور۔

وَإِذَا مَثَا وَكُنَّا تُرَابًا جَزَاءُ ذَلِكَ رِجْعًا
 بَعِيدٌ ﴿۴﴾

اسے چھ زبر پاطھ معلوم تہتہ یہ زمین رتو اندر
 کم کران چھینہ (بیہ تہتہ یہ ہرا وان چھینہ)
 بیہ اسے نش چھینہ تڑھ کتاب یوسہ پر چھ چیز
 رتھرتھ تھوان چھینہ۔

كَذٰلِكَ نَقُصُّ الْاَرْضَ وَمَنْ هُمْ جَدٍ
 عِنْدَنَا كَتٰبٌ حٰفِیْظٌ ﴿۵﴾

کتھ چھینہ یہ ز بکو لوکو کوز حقہ نشہ انکار نیلہ

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ

فِي أَمْرِ مَرْيَمَ ①

سہ ہمیں بخش او، او کو چھہ ہم اُس کی تہس
خیال منتر پتہ میں رہ رہہ چھہ (یعنی پوز
تہ اپڑ چھہ تہندن خیالاتن منتر ریسومت)
کیا تمو وچھنا پانس پنیو آسانس کن زہ اسہ کیہتہ
چھہ یہ بزمست تہ اسہ چھہ اتھ پیارو دیمت ؟
بیہ چھہ اتھ منتر کا نہہ ڈرز۔

أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ
بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ①

بیہ زمین چھہ اسہ و شھراو مشر تہ اتھ مشر
چھہ بال بناوکر متری۔ امہ علاو چھہ اسہ اتھ منتر
پر چھہ تھکی خوش شکل جوہر بناوکر متری۔

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
وَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ①

اسہ کن پر چھہ زمین و اس بندر بند خاطر چھہ
اتھ کتھ منتر اچھہ گاش تہ نصیحت۔
بیہ اسہ چھہ اوپر منتر برکتر و ول آب نازل کوز
پتہ چھہ اسی امہ کر دسی باغ و و پداوان بیہ
لوانس لایق فصلکو دانہ تہ۔

تَبَصَّرَةٌ وَذُكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ①

بیہ تھدر تھدر کھڑ کھڑ کھڑ تہ (چھہ نوواروان) کین
کھڑ ترنوئی چھہ لگان۔ ہم زہر پاتھ پنیو تھس پتہ
کھڑ متری چھہ آسان۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا
فَأَنْبَثْنَا بِهِ حَبًّا وَحَبَّتٍ الْحَصِيدِ ①

(اسہ چھہ بیتہ کو) بدن ریزق دین خاطر کورمت)
بیہ چھہ اسی امہ (آہ) سستی مہر د ملک زہر
کران، بیتہ پاتھ آس (سرنہ پتہ) نین تہ۔

وَالنَّخْلَ بَسِطْنَا لَهَا طَلْعًا لَّيْسِيًّا ①

ہمیں بروٹھ چھہ نوح بندر قوم تہ کر پرک والہو
بیہ نمودن (صدائقس) انکار کورمت۔

رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً
مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ①

بیہ عاد (قوم) بیہ فرعون بیہ لوطہ
سندو باہو۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ
الرَّيِّسِ وَثَمُودُ ①

بیہ جنھلہ کہو روزن والہو بیہ تب قوم (یعنی
ہمینہ کہو لوکو) ساروے اسی سانی رسول اپڑاوی
متری۔ تولاکن رُود میاہ عذابک و عد پوہ سپد تھ۔

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ①

کیا اسی چھاگوہ ڈنچہ پاداپیشہ سستی تھکر متری؟
(نہ نہ) وہ ڈوگو حقیقت چھہ بیہ زہر تم چھہ
دویمہ پاداپیشہ ہند حقہ شمس منتر پتہ تہ۔

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ
كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ①

أَفَعَيَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي
لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ①

بہیہ اسپر چھہ انسان پاد کورومت - بہیہ ہم وسواک
تشد نفس پاد کران چھہ تمواتشہ چھہ اسی زبر
پاکھو خبردار - بہیہ چھہ اسی اوس (انسانس)
تسبز شاہ رگہ کھوتہ تہ چاد نزدیک -

بیلکہ زن وچیز تہ کھو درک بہتہ زگواہ تمز
سبز سارے حرکتہ رزھراوان گزھکان پچھہ -

بہیہ کر تہ (انسان) کانہہ کتھہ زتس بنش کہ
اسہ تہ تشد کانہہ نکران یا رچھہ در -

بہیہ موہک غش بہیہ بے شک تہ اسی و لو
تہہ و ز اوس (یعنے فافل انسانس) نہیہ
چھہ سہ حالت میہ تہہ تہ بچن اوسکھ بہتھان
تہ پوگس بہیہ پھلوکہ دہہ ایہ چھہ غذا بہ کہ و دھک
دوہہ -

بہیہ پر چھہ زو بہیہ (تتھہ حالتس منز) زتس
سز آسہ اکھ بہہ دہہ وول تہ لگتھہ بہیہ اکھ
گواہ تہ -

(بہیہ و لو اسی) تہ اوسکھ میہہ (دوہہ بہہ)
بنتھہ عقلس منز پیومت - اد اہر تہل
اسرچون پرد تہ ازی کہ دوہہ چھہ چان
نظر سٹھا تیز (تہ تہ چھکھ سورے کہنت
وچھان) -

بہیہ تمز سٹہ سٹو بوج و نہ ، پیتہ وچھو تہ
میہ نش تیار چھہ (یعنے تشد امانامہ) -
پیتہ و لو اسی بہن دوہوئی یعنی بہہ دہہ و اوس
تہ گواہس) توہی دوہوے ترا و لون جہنس منز
پر چھہ کانہہ انکار کرن وول پزیک دشمن -

نیکی بنتھہ ٹھاک کرن وول ، حد بہر نرن وول تہ
شک کرن وول -

یس اللہ (تعالیٰ) اس سستی دویمو مہبود بنا وان

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ
أَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿۱۵﴾

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَ
عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿۱۶﴾

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
عَتِيدٌ ﴿۱۷﴾

وَ جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۗ
ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ ﴿۱۸﴾

وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ ۗ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ﴿۱۹﴾

وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ
شَهِيدٌ ﴿۲۰﴾

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا
عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَّرَكُمُ الْيَوْمَ
حَدِيدٌ ﴿۲۱﴾

وَ قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدِيَّ عَتِيدٌ ﴿۲۲﴾

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿۲۳﴾

مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُغْتَدٍ مَرِيْبٍ ﴿۲۴﴾

إِلَّا الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

فَأَلْقِيهِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ⑤

اوس توہم دونوں تڑاؤ لین سہ از کر تھیں عذابس
منز۔

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنْ
كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ⑥

(بیہ) تہندوستی بوج و نہ ، اے ساہن پروردگار!
میںہ کر نو نہ یہ سرکشی بلکہ یہ اوس پانے اگس تھدی
درجہ چہ گرا ہی منز و لہ آمت۔

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ
إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ⑦

(اتھ پیٹھ) فرماؤ (خدا) میںہ نش مہ تڑو بیہ تھو
یا نہ میںہ چھید توہم کن برو نیٹے عذابخ خبر سوز موز
بیہ میںہ برو نیٹے کبہ بیٹیکہ نہ کاشہہ کتہ بدلہ تھہ پیش
کر نہ پیٹھ تہ نہ چھس بر پستانہ بدنہ پیٹھ کتہ
تسمک ظلم کرن دول۔

مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ
لِّلْعَالَمِينَ ⑧

تہر دوہہ ونو اسی جہنمس ، کیا تہر اکھا پڑو نہ؟
تہر سہ ونہ بیہ تہ چھا کیہ نہ؟

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ
نَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ⑨

بیہ تہر دوہہ بیہ جنت متعین تیوت نکہ انہ نہ
تہم ہن تھہ محسوس کرن۔

وَأَزَلَقْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ
بَعِيدٍ ⑩

بیہ بیہ ونہ نہ توہم منز اوس پر تھہ کاشہہ سمن
و اوس تہ شریعتہ کس حفاظت کرن و اوس امی افکامک
و عدہ کرنہ آمت۔

هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ لِكُلِّ آدَاءٍ كَفِينٌ ⑪

(یعنی تس سستی) میںہ رحمان (خدا لیس) تنہا ہی منز
تہر کھوڑن اوس بیہ اوس تس نش سمن و ول دل
ہتھہ آمت۔

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ
بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ⑫

(اُسی دن نہ) توہم ساری اُترو سلامتی سان جنتس
منز۔ یہ چھہ سہ برکتر و ول دوہ میںہ نہ زاہمہ انہ۔

يَدْخُلُونَهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ⑬

تہم یہ کینر شہا اتھ منز بہ شرمن (تہ) سورہ
میلہ سمن تہ اسہ نش چھہ امر کھوتہ تہ جاؤ سمن
و نہ خاطر موز جو۔

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا
مَزِيدٌ ⑭

بیہ اسہ چھہ سمن برو تھہ واریاہ قوم ہلاک کر کوہتہ
تہم اُسی مہند کھوتہ جاؤ تھچہ تراؤک طانت
تھون ادچہ پوز (میلہ عذاب آوتہ) تھو سناؤ

وَ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَوْمٍ هُمْ
أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ
هَلْ مِنْ مَّجِئٍ ⑮

ملکہ کس پر پتہ گنجس منز سر و ملک مگر (یہ چھینڈو
کتہ ز) خلیہ بند عذاب، لپٹہ پچھنج گنجایش کتہ بیکہ
آرتھ۔

آتھ منز چھینڈ پر پتہ تجس شغفہ بند خاطر نصیحت
نیمس سوچن وول دل برس چھ یائس بوزنہ خاطر
کن تمھوان تہ سان تہ غور کران چھ۔

بیہ آسان تہ زمین تہ یہ کیشرا ہا بین منز باگ چھ
یم ساری (چھن) کرکڑ اسہ شین وقتن منز پاد
تہ اسی تمھک ہن بیکل۔

لہذا یہ کیشرا تم ونان چھ متھ پیٹھ کر صبر تہ
انتخاب کسہ برنٹھ تہ لوسہ برنٹھ آس پستہن
پروردگار ہنر تپج کران۔

بیہ آس روٹہ تہ تسنر تپج کران بیہ پر پتہ عبادتہ
پتہ تہ آس تپتہ گنڈ کران)۔

بیہ (اسے نہا!) بوزنہ تمھو زاکر دوہہ کر نادکران
دول نزدیک جاہ پیٹھ ناد۔

یہیہ دوہہ ساری لاکھ کھ پور سپدھ روزن والہ عذاب
آواز بوزن۔ یہ دوہہ آسہ زبند سپدھ نیرنگ دوہہ۔

اُسی چھ زبند تہ کران تہ اُسی چھ مالان تہ تہ اُسی
کن چھ پھیرتہ یں۔

سہ دوہہ ییلہ تہنرو شیطا لوستو زمین پھیلہ (تہ
یاد تمھو) تم نیران اتہ ڈول ول۔ یہ مہردن ہند
زبند کران چھ اسہ نش سہل۔

یہ تم ونان چھ اُسی چھ تہ وار پالمو زانان تہ تہ چھکڑہن
پیٹھ اُکس جاہر (بادشاہ) ہندس صولتس منز
مقرر کرنہ آمت۔ اوکو تہ کر قرآنہ عسوتہ صرف

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ
أُذِيَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿۵۰﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ وَمَا مَسَّنَا
مِنْ لُغُوبٍ ﴿۵۱﴾

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ
قَبْلِ الْغُرُوبِ ﴿۵۲﴾

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُودِ ﴿۵۳﴾

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِن
مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿۵۴﴾

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۗ
ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿۵۵﴾


إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَآلَيْنَا
الْمَصِيرُ ﴿۵۶﴾

يَوْمَ تَشْفَقُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ إِسْرَاعًا
ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَا سَيِّدُ ﴿۵۷﴾

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ
عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذُكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن
يَخَافُ وَعِوَىٰ ﴿۵۸﴾

لہ یعنی خدای عذاب، لپٹہ پچھنج خاطر بناو تموز مپتہ تل چھین جاہیہ مگر تم آہیہ تہ تمہن بکار۔

تس نفیحت نیس میا نر عذاب چین پیشگوئین
کوثران چھ۔



سُورَةُ ذَارِيَات : یہ سُورہ چھ کئی تہ بسم اللہ ہتھ چھو اتھ اکہاٹھ آہ بیہ چھس تریہ رکوع۔

- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 وَ الذَّارِیَاتِ ذُرَّٰتٍ ②
 فَالْحَمَلِیَّتِ وَ قَرَّاءٍ ③
 فَالْجَبْرِیَّتِ یُسْرًا ④
 فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا ⑤
 اِنَّمَا تُوعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ⑥
 وَاِنَّ الدِّیْنَ لَوَاقِعٌ ⑦
 وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ⑧
 اِنَّكُمْ لَفِی قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ⑨
 یُؤْفَكُ عَنْهُ مَنِ اَفَكَ ⑩
 قَتَلَ الْخَرَّاصُوْنَ ⑪
 الَّذِیْنَ هُمْ فِی عَمْرٍ وَا سَا هُوَتْ ⑫
 یَسْئَلُوْنَ اٰیَاتِ یَوْمِ الدِّیْنِ ⑬
 یَوْمَ هُمْ عَلَ النَّارِ یُفْتَنُوْنَ ⑭
- اے چھس (اللہ تعالیٰ) سُنَد ناو ہتھ (پران) یس
 جد رنوں کرم کرن (تہ) چھپر کر چھپر کر رحم کرن
 وول چھ۔
 اُسی چھکھ تمہ (واو شریٹ) شہادتہ کتہ پیش کران پیہ
 (اؤ برس) اوڑاوان چھیران چھیر۔
 پیڑ چھیر (رؤوک) اور تلان۔
 پیڑ چھو وار وار پکان۔
 او چھیرہ سائس محمس (یعنی رُودس زمینہ منتر)
 باگراوان۔
 تہ ہر سوتی یس وعدہ کرنہ یوان چھ سہ روزہ ضرور
 پورہ سپدتھ۔
 بیہ جزا سزا روزہ ضرور واقع سپدتھ۔
 امیر کس تنبوتس منتر چین اُسو سہ آسمان پیش کران
 بیتھ منتر تارکن ہنر (گندتھ) و تہ چھیر۔
 توہی ساری چھو اُکس احتلاہ واجنہ کتھ منتر ہتہ آہتہ۔
 ینیر کتہ سے شخص چھ حقہ ریش چھرنہ یوان سینور
 ہنر حقہ ریش چھرنہ نیک حکم جاری سپدان چھ۔
 ایزر اندازہ گاون وادے گئے ہلک۔
 ہم گراہی ہنر بن سنورن منتر بوڑتھ پوز مشتروان
 چھیر۔
 تم چھ پریشان زجر ہک سربک وقت کر بیہ !
 (تہ ونکھ) تمہ وقتہ (بیہ) بیلہ تم ناکس عدلس

ذُوقُوا فِشْتَتَكُمْ، هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ
بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۰﴾

مفتر مبتلا کر رہے ہیں۔
(تو ونہہ دیکھو، پلن عذاب تو ہو یہ (چھو) سے
(عذاب) ایسے تو ہی جل جل منگان اُسو۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۱۱﴾

متقی روزن باغن تو ناگن منز۔

أَخْذِينَ مَا أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ، إِنَّهُمْ
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿۱۲﴾

(بیہ) تہند پروردگار یہ کیشترھا رتن دیہ تم لرض
تو رطمان۔ تم اُسو امر وقتہ برو فہے پلہر پلہر حکم
بجائش وار۔
راژن اُسو کے شوگان۔

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا
وَالَّذِينَ هُمْ يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۳﴾

بیہ سحر وقتن تو اُسو مغفرت منگان روزان۔

وَفِي آمَوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿۱۴﴾

بیہ تہندین مالن منز اوس منگہ وین ہند تو
حق، بیہ اوس) تہند تو حق، ایم تو منگہتہ ہیکان
اُسو۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵﴾

بیہ زمیہن منز چہ پڑھ کرن والین ہند خاطر والہ
نشان۔

وَفِي أَنفُسِكُمْ، أَلَّا تُبْصِرُونَ ﴿۱۶﴾

بیہ تہندین سینہن پان منز، اُخر تو ہی چھو
نا وچھان؟

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿۱۷﴾

بیہ آسمان منز چھو تہند رزق تو بیہ یہ کیشترھا
(تہر علاو) وعدہ کر رہے یوان چھو، تہتہ (چھو)۔

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ
مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿۱۸﴾

لہذا آسمان تو زمیہن ہندس پروردگار ہند رہے
(تو میلہ بہرہ کتہ پلہر سیدن اڈگہ و پتہ تو) یہ
(قرآن) چھو اکہ حقیقت۔ تھے پلہر پلہر تہنہر
کتہ کر تہ (حقیقت چھین)۔

هَلْ آتَاكَ حَدِيثُ صَيْفِ بْنِ
الْمُكَرَّمِ ﴿۱۹﴾

کیا تو نے نش چھا ابراہیم ہندین عزتہ والین
پڑھین منز خبر واژہ منز؟

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، قَالَ
سَلَامٌ قَوْمٍ مُّنْكَرُونَ ﴿۲۰﴾

نیلہ تم تس نش آپ تو تم ولس، (اُسو چھو شہ
سلام (کران)، تم وونگہ (ہر تو چھسو ونان تو)
تہند خاطر تو چھین ہر ہمیشہ (با پتہ تلایہ سہند
طرف) سلامتی مقدر۔ (تو دلہ منز وون تو)
پم لوگہ چھو وہ پر ہندہ یوان۔

پتہ گوڑ سے لوہے پالمو پستین گرہ والین کن تہ اون
اکھ بزم تہ ووتھ۔

تہ سہ تھوون بمن بروٹھ کنہ (پتہ) ووتھ
کیا توہر کینیونا کیہنہ؟

تہ (دلہ منزی) کھوڑ بمن نش ہنا، (تہ بمن تہ تور
پہ بکر) تہ ووتھس، کھوڑتہ ہ! بیہ تس درتھ اکس
ٹھلہ والس ٹوہر پتہ شغری۔

اتی آہ تسنہ آرشہ بروٹھ کن تہ تسندس بتقس
پٹھ اکھ حیبہ بک نشانہ اہ تمہ لای (حاران ٹھوتھ)
پنہر اٹھ زور سان پنس بتقس تہ ووتھ، ہر
تہ چس اکھ ہاٹھ بڈ (میہ کتھ پالمو زویو نیچو؟)۔

تمو ووتھس (پہ چھ پوزز) تہ چھکھ شہس لیکن
چانی پروردگارن چھ (تی) ووتھت (پہ اسہ
ووتھ) سہ چھ بے شک بچہ چکھتھ وول (تہ)
بڈ ٹھلہ وول۔

(اتھ پٹھ) (دوین) (ابراہیم) اے رٹلو! تھنہ زہر
کس بڈ کام چھ تھوون آٹھر؟

تمو ووتھس، اسی بچہ اکس مجرم تومس کن سوزنہ
اوتھ۔

یہ زک اسہ بمن پٹھ میٹر کھبر ہن ہند بارنہ واول۔

بمن پٹھ چانس پروردگار ہنہ طرفہ حد نیرن والین
سزا دہنہ ہا پٹھ نشاہ تراونہ آمت چھ۔

تہ پیچو ٹومس اتھ بستی منتر اسہ تم گڈی اسہ۔
تہ اسہ ٹوب اتھ بستی منتر پستین فرمانبردارن
ہند صرف اکے گر۔

بیہ تروو اسہ اتھ (بستی) منتر اکھ تیہ نشاہ بلیس
ہمیشہ بمن لوکن بکار بیہ ہم زک کرٹھ عتہ
نشہ کھوڑن وادی اسن۔

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَقَبَّأَهُ بِمِجْلٍ سَمِينٍ ﴿۱۱﴾

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۲﴾

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ
وَبَشَّرُوهُ بِغُلْمٍ عَلَيْهِ ﴿۱۳﴾

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَوةٍ فَصَكَتْ
وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿۱۴﴾

قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ
الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۱۵﴾

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا
الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۶﴾

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۱۷﴾

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴿۱۸﴾

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿۱۹﴾

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ﴿۲۱﴾

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ
الْعَذَابَ الْآلِيَةَ ﴿۲۲﴾

وَ فِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
بِسُلْطٰنٍ مُّبِيۡنٍ ۝۱۶

بہ موسیٰ ہندس واقص مشرتہ (اوس واریاہ نشانہ)
بیبلہ اسہ سہ فرعون کن اکھ ٹاکاہ رولیل دتھ سوزاو

فَتَوَلَّىٰ يَدُورَيْنِهِمَا وَقَالَ سَجِدْ اَوْ مَجْنُوۡنًا ۝۱۷

تہ سہ (فرعون) گوو پھیپتھ پینس بیت خانس
کن تہ بیوتن وکن نہ یہ (موسیٰ) پتھ بجہ ملہ
مایہ دار کتھ کرن وول تہ دیوانہ۔

فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُوۡدَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي
الْبَحْرِ وَ هُوَ مُلۡمِیۡمٌ ۝۱۸

اتھ پیٹھ اسہ روٹ سہ تہ تھو ہندس لشکر اسپنہ
قہر ستر، تہ تم ساری دتھ سمندرس مشرتہ
دارتھ۔ تہ نس پیٹھ چھ (ازتام) طامت کرنہ
یوان۔

وَ فِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الرِّیۡحَ
الْحٰقِیۡمَ ۝۱۹

بہ عادن ہندس واقص مشرتہ (چھ اسہ واریاہ)
نشانہ تھا وری ہتی۔ بیبلہ اسہ بہتن پیٹھ اکھ
سخت واپ طوفان سوزاو۔

مَا تَذَرُ مِنْ شَیۡءٍ اَتَتْ عَلَیْهِۗ اِلَّا جَعَلَتْہٗ
كَالرِّیۡمِیۡمِ ۝۲۰

سہ یٹھ چیزس پیٹھ یکان اوس تھہ (اوس تباہ)
کران تہ تھہ (اوس سوسرے مشرتہ اڑی جن
ہندس پاٹھ کر تھہ ترھنان۔

وَ فِي قَمُوۡدَاۗ اِذْ قَبِلَ لَهُمۡ تَمَّتَّحُوۡا حَتّٰی
جِیۡنٍ ۝۲۱

بہ تمولن مشرتہ (تھوو اسہ نشان) بیبلہ
جن ورتہ او نہ کس و تھس تمام تہلو قایدہ۔

فَحَتَّوۡا عَنِ اَمْرِ رَبِّہِمۡ فَاَخَذْتَهُمُ
الصُّوَۡقَةُ وَ هُمۡ یَنْظُرُوۡنَ ۝۲۲

تہ تھو کر پینس پرور دگاہ سترنا فرمانی تہ تم
رڈی اکھ غلابن یٹھ۔ تہ تم گئے ہے بنگہ روزتھ۔

فَمَا اسْتَطَاعُوۡا مِنْ قَبَاۗرِہِۙ وَ مَا كَانُوۡا
مُنۡتَصِرِیۡنَ ۝۲۳

اد نہ تہ ہنگہ تم بچنے خاطر تھوو ووتھتھ تہ نہ
ہنگہ تھو کانہہ ہند اتھ روٹ حابل کر تھ۔

وَ قَوْمَ نُوۡجِۙ مَنْ قَبِلُۙ اِلَیۡہِمْ كَانُوۡا
قَوْمًا فٰسِقِیۡنَ ۝۲۴

بہ رتن بروٹھ (اوس اسہ) لوٹھ سند قوم تہ
(ہلاک کوزت) اسہ اوس فرما نبرواری تہلہ نمبر
نیرن وول قوم۔

وَ السَّمَآءِ بَنَیۡنَہَا بِاَیۡدِیۙہِۙ وَ اِنَّا

بہ آسمان تہ چھ اسہ کھو یا ہفتو تھ سستی ہوت

۱۔ رکن بظنی معنی چھ طاقت حاصل کر بیج جائے" یعنی سہ مشرتہ فرعون تہ تہ قوم

واندس پوزا کران اوس

تہ بائید امیک بظنی معنی چھ "تھو سستی" مگر لغتس مشرتہ امیک معنی طاقت تہ (جاری)

- ﴿مُؤَسَّحُونَ﴾ ۵۱ تہ اسی چھ وسعتہ وول طاقت تھوں۔
- ﴿الْمَاهِدُونَ﴾ ۵۲ بیہ زمین چھ اسہ اکہ و تھرنک پانٹھو بناو ہوتہ تہ اسی چھ سپٹھارت و تھرن بناون وال۔
- ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ ۵۳ بیہ پرستہ چیزس چھ اسہ تہ تہ ماد بناوکر ہوتہ بیٹھنک توہر نصیحت رول۔
- ﴿مُؤَيِّنٌ﴾ ۵۴ اوہکے (پڑک و زہ) توہر دوو اللہ (تعالے) ہس کن بیہ چھس تہند کتہ تہ ہر تھد ہٹہ ہشار کرن وول ہنتہ آمت۔
- ﴿لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ۵۵ بیہ توہر ہر بناوون اللہ (تعالے) ہس ہوتہ کاتہہ بیاکھ معبود۔ بیہ چھس تہند کتہ تہ ہر کن اکھ ٹاکار ہشار کرن وول۔
- ﴿كَذٰلِكَ مَاۤ اَتٰی الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَّسُوْلِ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مُجْنُوْنٌ﴾ ۵۶ تھے پانٹھو ہتمن بروٹھ (تہ) ہم رسول لاکن کن یوان رووکر ہتمن وون لاکوہی ہر تہ ہچھو لوہر ووتہ کتہہ بناون وال ہنتہ فائز۔
- ﴿اَتَوٰصُوْا بِهٖۤ ۙ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طٰغُوْنَ﴾ ۵۷ کیاہم آسیا اہم (یعنی یہ کتہہ و نچ) اکھ اکس وصیت کر تہہ گاتہو؟ (ہرگز نہ)۔ بلکہ ہچھو ہم سہر سلم ہتھو چھرک لاکھ (اوسے موکھ چھو اکھ ہسکر ہد خیال تہندن دن منز ووتھان)۔
- ﴿فَتَوٰلَّ عَنْهُمْ فَمَا اَنْتَ بِمَلُوْمٌ﴾ ۵۸ لہذا (اے نبی!) تہ چھر ہتمن ہند کتہہ ہتہ تہ تہ ہس ہر تہ تہنز و کامو ہند باعشہ) کاتہہ طامت کرتہ۔
- ﴿وَذٰكِرٰتَانَ الذِّكْرٰی تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ ۵۹ بیہ آس یاد دہانی کران روزان، تہ کیاہر یاد دہانی چھیدہ موہن نفع ہتھان۔
- ﴿لِيَسْبُدُوْنَ﴾ ۶۰ بیہ میہ چھر جن تہ انسان صرف ہستہ عبادتہ ہتھ پاد کرک ہوتہ۔
- ﴿مَاۤ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَّ مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ يُطِيعُوْا﴾ ۶۱ نے چھس ہر ہتمن کاتہہ رزق منگان تہ نہ چھس ہر ہتمن نش پہ ہتھعان تہ تہ کعبان میہ کھپن۔

بقیہ حاشیہ :- قومرت تہ یعنی آسمان بناونس منزواں اللہ تعالیٰ ہند قومو درنگ تہ پاکیزگی ہند اتھ یعنی تہندک صفات کار فرما۔


اللہ (تعالیٰ) ہے چھ سارے کعبین کھیاون
 وول رہیہ چھ سہ، سہٹھا زبردست طاقتہ وول۔

اد یوم نعلم کورمت چھ تہندہ باچھ تہ چھ تھقی وول
 تھو وول تہندہن ستر یاچین ہند خاطر اسی۔ اد
 کفر پر زہتم کرن ہر میں نش عذاب منکس ڈرہ۔
 اد یوم کفر کورمت چھ تہندہ خاطر چھ ہاکت نازل
 سپدن واجہر۔ تہ دوہہ بیبیک متن ستر وعبہ
 کرنہ یوان چھ۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ
 الْمَتِينِ ①

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ
 ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ ②

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ
 الَّذِي يُوْعَدُونَ ③



سورة طور: یہ سورہ چھ نکی تہ بسم اللہ بہتہ جواتہ پانزواہ آیتہ بیہ چھس زہ رکوع۔

(یہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سند ناو بہتہ (پران)
 یس حدہ رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک
 رم کرن وول چھ۔

یہ چھس طورہ شہادتہ کرنہ پیش کران۔
 بیہ (یہ) لپچھتر کتاب تہ۔

(یوہہ) منتر راوی متہن کاغذن پیٹھ (یکہہ آمہر
 چھینہ)۔

بیہ خاد کعبہ یس ہمیشہ آباد روز۔
 بیہ سہ پیش یس ہمیشہ تھوہ روز۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

وَ الطُّورِ ①

وَ كِتَابٍ مَّسْطُورٍ ②

فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ③

وَ الْبَيْتِ الْمَخْمُورِ ④

وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ⑤

لہ لفظی معنی چھ بکہہ یا تولہ دور مراد چھ ہر اسرا، عربی اس منز چھ ہر اسرا یا حالاتو ہند خاطر لفظ
 ذوب یعنی وول لفظ وراوہ یوان۔ (منہوا ۱۸)

سہ کوہ طور چھ سہ مقام بیہ تہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ تورات نازل سپہر۔ بیہ منز
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہندہ لپچھ پیشگوئی چھینہ۔ سہ یعنی قرآن مجید
 لہ رقی: ناولی مشلہ بیٹھ پیٹھ تحریر لیکہہ یوان اوس پتہ اسی اتھ نقشک پانٹو وبتہ
 (دوٹہ) تھوان۔ سہ ہمیشہ تھوہ روزن وول پیش۔ مراد چھ خانہ کعبہ۔

وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ①

یہ گتھ مارون سمندر۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ②

چانس پروردگار ہند طرفہ روز عذاب ضرور نازل

مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ①

سیدتھ۔
تھ پھنہ کٹھن دور کرن وول۔

يَوْمَ تَمُودُ السَّمَاءُ مَوْزًا ②

یہ دو ہہ او برلہ مکر تھن ہسیہ۔

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ③

تو بل پکن پستہ پلور پلور رفت ہ سان۔

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ④

اد امر دو ہہ سپد اپزاون والین پیٹھ عذاب نازل۔

الَّذِينَ هُمْ فِي حُوزٍ يَلْحَبُونَ ⑤

(یعنی تن لاکن پیٹھ) یم گنہگی ہوا دوان گتدن مس۔

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ⑥

یہ دو ہہ تم ساری جہنہ کس نارس کن دکہ دی دی نہج ہن۔

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذَّبُونَ ⑦

(تہ ونہہ بیکیہ) یو ہے چھ سہ نار یہ تہ تو ہر انکار کران مسو۔

أَفَسِحْرُهُذَآءَ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ⑧

کیا یہ مسافر جو گری کہہ در حقیقت چھو نہ تو ہر وتہ تہ وچھان ؟

إِضْلَوْهَا فَاضْبُرُوا أَوْلَا تَضِيرُوا إِسْوَاءَ عَلَيْكُمْ، إِنَّمَا تُجْرَدُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑨

(اگر یہ محض اکھ خیال چھ تہ بین خوف پاٹھی) اڑو اتھ منز تہ اد چہر کڑی تو یا متہرک تو، تہنہر شاطہر چھہ کئی کتھ (یہ سپن چھہ تہ روز سپدتھ) تو ہہ چھو صرف تہنزن علمن ہندے بدلہ د نہ یوان۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَعِيمٍ ⑩

متقی آسن جتن منز تہ نعمتن منز۔

فَأَكِهِتَنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ، وَ وَفَّاهُم ⑪

یہ یہ کیتھھا تہنہ پروردگار تمن دہ تہ تھہ پٹھ

۱۔ قرآن کریمس منز چھ نفظ سماء مگر لغتس منز چھ سماء آسانہ وراہی او برس تہ دنان

تہ سے معنی چھ ہیتہن لگان۔ تہ مطلب چھ یہ نہ قرآن مجید کہ دسی یہیہ رحمتک او بر

دنیا ہس پیٹھ وہاونہ۔

۲۔ بال استعارہ پاٹھی تو بڑی انسان یا بڑی نظام تہ مراد چھ یہ نہ نیلہ قرآنی علم چھان تہ

عروج حکومت تہ قیصر تہ کسری سند نظام گرتھ تباہ تہ دوزیہ کہہ پردہ پیٹھ گرتھ غاب۔

رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑩

آسن خوش تہ تہند بروردگار بچاوتن جہنم
کہ عذابہ نشہ۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ⑪

(بسیه ونیکہ ز) کھنیو تہ پچنیو (پہ تو بہ وینہ لوان
چھو) سہ آسہ تہند بو اعمالو کنی تہند خاطر برکت
دول

مَتَّكِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۚ وَ
زَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ⑫

تم آسن تہ دو بہ ہنگہ پختہ نگہ و تھر اوتہ تہنت
پوشن پیچہ و کھو دی دی بیچہ۔ بسیہ کرو اسی
اتن و بیچہ و بیچہ کاجہ اچہ واجبہ زنا تہ جوہ کہ
عطا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
بِإِيمَانٍ آلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا
آلَتْهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ
امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ⑬

بسیہ یو لوکو ایمان اونت چہ تہ تہندی اولاد
تہ چہ ایمان کس معالس مشر متن پتہ پتہ پتہ پتہ
اسی کرو کہ متن سوتی تہندی اولاد تہ تہدی پاپہ
کین جتن مشر جمع بسیہ کرو تہ تہندین (ماہین
ماہین ہندین) اعمالن مشر تہ کونہ کئی۔ پر پتہ
اکہ شخص چہ پنہین اعمالن ہندس بدس مشر
گرو۔

وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِّمَّا
يَشْتَهُونَ ⑭

بسیہ کرو اسی متن تہنزو تھشو مطابق رنگہ رنگہ
میو تہ قبسا قسم مار فراہم۔
تم کرن تہ مشر تھقین پایلن تھہ تھہہ یمن
ہند (چینک) نتیجہ نہ آسہ بکواس تہ نہ (آسہ)
گوناہ (کرن)۔

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ
لُؤْلُؤُا مَّكْنُونٌ ⑮

بسیہ روزن ہر پتہ وز متن نش جوان نہد متکار
حاضر۔ زن زہ تم ہردن مشر ڈوبتہ دروانہ
آسن

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
يَتَسَاءَلُونَ ⑯

بسیہ کرن ہم اکہ اکہ کن دیان دتہ پاتہ وازی پتہ
تھار۔

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا
مُشْرِكِينَ ⑰

تہ و ن زہ اسی لو کہ اسی ہرونہ پنہین اشناون
مشر پتہ انجامہ نشہ کھوران۔

- فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّنَا عَذَابَ
السَّمُورِ ﴿۵۸﴾
- اے پور اللہ (تعالیٰ) ہم کو اس پیچھے احسان ہے
اُسی بچاؤن کر شیبہ تر شجر ہند عذابہ نشہ۔
- إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ
الرَّحِيمُ ﴿۵۹﴾
- اُسی اُسی بروٹھ پیچھے تس (خدایس) آلو کران۔
سہ پیچھے سپٹھانیک سلوک کرن وول (تہ) (تہ)
اُنٹھہ رؤس رحم کرن وول۔
- فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ
وَلَا مَجْنُونٍ ﴿۶۰﴾
- او کون (اے رسول!) تہ گرتھہ (لوکن) نصیحت
کران، تہ کیا ز پینس پروردگار ہند احسانہ
سیتو نہ چھکھ تہ فال وچھن وول تہ نہ
چھکھ دیوانہ۔
- أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ
الْمَنُونِ ﴿۶۱﴾
- کیا تم چھا دیوان ز یہ شخص پیچھے شاعر (تہ) اُسی
چھہ تبند خاطر زمانہ چھہ تباہی پیارن؛
- قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَحْكَمٌ مِنَ
الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿۶۲﴾
- تہ و ہمکھ پیارن گرتھو تہ کیا ز بہتہ چھس تہند
باپتھ پیارن۔
- أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَاؤُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ
قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۶۳﴾
- کیا تم چھا تہنتر عقلہ میںہ کتھہ ہینچنا وان؛ کہنہ
تم چھہ بہتھو پھیر قوم؛
- أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۶۴﴾
- کہنہ تم چھہ وان پہ ز اگ چھہ پانی پانے کتھہ بنا تہ
پز ر چھہ یہ ز تم چھہنہ (وحی نازل سپس پیچھے)
ایمانے انان۔
- قَلِيلًا نَّوَا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا
صَادِقِينَ ﴿۶۵﴾
- لُود وے تم پز یارک چھہ تیلہ اذتن امی تہسک
بدل کلامہ (میٹھ زن دنیا فاصلہ کرتھہ ہیکہ زردونو
کلام چھا ہوکی)۔
- أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ
الْحَاقِلُونَ ﴿۶۶﴾
- کیا تم چھا یہ مطلب پاد کرنہ آوتی کہنہ تم چھہ
پانے پینو پاد کرن وول؛
- أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا
يُؤْقِنُونَ ﴿۶۷﴾
- کیا تم چھا آسمان تہ زمین پاد کرک متی؛ (ندانہ)
بلکہ چھہ پز ر یہ ز تم چھہنہ (زمین تہ آسمان
پاد کرن وابس پیچھے) پز تھہ تھوان۔
- أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رِبِّكَ أَمْ هُمْ
الْمُضْطَرُّونَ ﴿۶۸﴾
- کیا تم نش چھا چھانس پروردگار ہند خزائن؛
کہنہ تم چھہ رأچھدر،

أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ؟
فَلَيَاتٍ مُّسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٥١﴾

کیا تم نے اپنے جہا کا نہہ ہیر بیتھ پیٹھ کھبتھ تم
(خدا یہ سن کر کہتے) بوزان بچھ ؟ او کو پز تر تہند
بوزان دول کر (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہندو پاٹھی) کا نہہ ٹاکا پر دلپل پیتھ۔

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٥٢﴾

کیا تم نے جھکا اتن کا نہہ بدلہ منگان ؟ او کو پز بچھ
تم امیر چینیٹ ہندس بارس تل د بے ہتھ۔

أَمْ تَشْكُلُهُمْ آجْرًا قَلْبَهُمْ وَمَنْ مَّغْرُوبٍ
مُثْقَلُونَ ﴿٥٣﴾

کیا تم نے جھکا اتن کا نہہ تد بیر کرن بیٹھان ؟
یاد تھوو اتن کا فرسے خلاف بن (خدا کی) تدبیر
کرنے۔

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٥٤﴾
أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ
الْمَكِيدُونَ ﴿٥٥﴾

کیا تم نے جھکا اللہ (تعالیٰ) ہس ورا کی کا نہہ بنا کہ
معبود ؟ (یاد تھوو) اللہ (تعالیٰ) چھ تہند
بشر کر پتھ پاک۔

أَمْ لَهُمْ آلَةٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحٰنَ اللَّهِ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٦﴾

اگر تم شپس منز کا نہہ او بر لگا روڈ
تراون وچھن اتی چھ وانان تر یہ چھ محض
اکھ گون او بر۔

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا
يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٥٧﴾

لہذا تر تراو کہ تم (تہنڈ بے وتونی منز) بوت
تام تر تم پین سہ گونڈ مت دودھ وچھن پتھ
مغز (تم نے پیٹھ عذاب نازل کرن پتھ تر) تم
بن بیمہ سوتو بے ہوش کرن۔

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي
فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٥٨﴾

بیمہ دودھو تہند تدبیر اتن کا نہہ فایدر واتناوہ
تر نہ پتھ اتن مدو کرن۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَ
لَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٥٩﴾


بیمہ ظالم لوکن واتن امیر ورا کی بیمہ تر عذاب
دودھو گونو ہمو اندر چھتر واریاہ زمانان۔

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ
ذٰلِكَ وَلٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

بیمہ تر روز پینس پرور دکا پینس محکس
پیٹھ تھایم تکیاز تر چھکھ سائین اچھن تل (سائین)
حفاطت منز) بیمہ پز تر بیبلہ تر (عبادتہ خاطر)

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
وَستَخِرْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٦١﴾

استاد سپدکھ تہ روز سانس مدرس سستی سستی
 تسبیح تہ کران۔
 تہ تیغے پانگو (نیلہ تہ) رات کیت (تہ پوجا پوجہ)
 استاد سپدکھ تہ (تہ روز تسبیح کران تہ نیلہ)
 تارکھ تھر پھر (یعنی نیلہ رات موکلن واجبی
 آسہ) نیلہ تہ۔



سورة نجم : یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ تہ چھ آیتہ تہ آٹھ آیتہ تہ چھس تہ رتیر رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 (ہر چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد نا و ہتہ (پرکرا)
 یس جہر رُوس کرم کرن (ول اتہ) پھیجہری پھیجہری
 مرم کرن (ول چہ)۔
 ہر چھس شریا تہ تارکھ شہاد تہ ہا پتہ پیش کران
 نیلہ سہ معنوی رنگس منز بون آسہ۔
 نہ چون سستی بوج نہ چہ و تہ ڈولمت نہ چہ
 سہ گراہ سہ سپد مت۔
 بیہ سہ چھنہ پسنہ نفسانی ٹاہنہ سستی کلام کران۔
 بلکہ چہ سہ (یعنی تسند پیش کورمت کلام قرآن
 مجیبا) صرف خدا بہ ہند طرفہ تارزل سپن واجبی
 دُحی۔
 تنس چہ (یہ کلام) بڑی طاقتہ (والا) (خداین)
 عِلْمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ①

لہ شریا، یہ چہ شہن تارکن ہند اکھ میوزیتہ شمشیرکی پانگو کریتہ کور و نان چہ
 یک چہ آسانس منز ساروہے کھوتہ قھزرس پیٹھ مانہ یوان۔ آتھ منز
 چہ تہ پیشگوئی کرن ایشارہ تہ منز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ قرآن
 لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ مَعْلَقًا بِالشَّرْيَآءِ لَنَأَنَّهٗ رَجُلٌ مِّنْ خَآرِسٍ
 یعنی اگر ایمان شریا تارکن سستی تہ اویزان گو مت آسہ تہ اکھ فارسی شخص ابن
 تہ واپس زمسپنہ پیٹھ یعنی مہدی علیہ السلام کر دنیاس منز دوبارہ ایمان
 تہ ایم۔

بہچھنومت -

بہچھنومت طاقت پھیری پھیری ظاہر سپدن وار
چھ تہ سہ چھ وڈ کین پنہن طاقتن ہند
اظہار باچھ پنہن عرشس پیچھ مضبوطی سان
تایم سپدمت -

ذُو مِرَّةٍ ۱۰ فَاسْتَوَى ۱۰

بیہ پر ہتھ کانبہ بے پردہ شخصس چھ نیہ دندین
پیچھ تہند ظہورک نشانہ بوزنہ یوان -

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۱۰

بیہ سہ (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سپد
(بندن ہند یہ اضطراب و جھتہ تہ تمن پیچھ
رحم کرہ خاطر اللہ تعالیٰ ہس سمکھتہ موکھ اس
تزدیک تہ سہ (خدا) تہ ووتہ (محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہند ملاقاتہ کس شوقس مشر)
ہس پیچھ بھان -

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۱۱

تہ تم دہ لہے سپد دون کمانہ ہنر بلوچہ
شکلہ مفر تبدیلہ تہ عرشان گرتھان گے
امہ کھوتہ تہ جاہ نزدیک -

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۱۲

ادگر تہ پنہن بندس کن ووحی نازل نمیک
تہ فاصلہ کرہتہ تھوومت اوس -

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۱۳

(محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندری) دن یہ کینرھا
وچھمت اوس تی کون بیان -

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۱۴

کیا توہی چھو اس سرتی اتھ (نظارس) متعلق
توان یس تہ (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم) (آسمانس پیچھ) وچھمت اوس؟

أَفْتَمَرُؤَتَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۱۵

حالانکہ یہ (نظاری) وچھتہ تہ کی لہے بلکہ دہ یہ
لہے چھن وچھمت - (یعنی اکھ تمہ وڈہ یسیلہ
سہ خدایس نزدیک تہ کوشش کران اوس

وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۱۶

لہ عربس مشر نیلہ زرفی پانہ وازی چگری یارسیدن اوس تم اوس پنہن کمانہ ہندری
ماتہ کری (کمانی ہنر نیہہ) پانہ وازی لوان - اتھ آئیس مشر چھ خدا تعالیٰ تہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم ہند پانہ وازی قرب بیان کرہ امت - (منہ)

قِيلَ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٦١﴾

۱

اور مولا کو گزشتہ ترقیس روزن زرا خرتہ چیر
تو دنیا ہیچ سارے نعمت چھینے اللہ (تعالیٰ)
سند کے اتھس مغز۔

بیہ آسائش منز چھ واریاہ ملایکہ (مگر) تہنہ
سفاش چھینے (کالنبہ) کا نہہ فایر و اتناوان۔
امر و رائی زرا اللہ (تعالیٰ) دیہ تس شخصس متعلق
پتھ کئی کر تک اجازت۔ یس تہنہ مرضی مطابق
آسہ تہ یس سہ پسند کران آسہ۔

یک لوکھ آخرتس پیٹھ اپمان چھینے انان تم چھ
ملاکین زمانہ ناو تنھوان۔

بیہ اتھن چھینے اتھ سلسلس منز کا نہہ تہ عشم
تم چھ صرف اکس و مہس منز ہنہ آہتہ تہ وہم
چھینے حقس مقابلہ کینہ تہ فایر دوان۔

اد یس شخصس سادہ ذکر لہ نشہ ہتھ بھران پتھ
تہ دنیا ہیچہ زندگی و رائی چھینے بیہ کینہ سیزھان
تہ تہ پھر تندر کمنہ ہتھ تہ تہنہ پاروی سہ کر!
یہ چھ ہنن لوکن بندہ فاکمک آنتھ۔ چون پروردگار
چھ بے شک تس شخصس زرا پتھ زانان یس
تہنہ و تہ نشہ ڈلان چھ بیہ چھ تس تہ زرا پتھ
زانان یس سیز و تھ پراوان چھ۔

بیہ آسمان تہ زمپنہ منز یہ کینہ تھ چھ، سورس
چھ اللہ (تعالیٰ) ہندس اتھس منز، امیک چھ
یہ نتیجہ آسان زرا کیویدی کر سہ چھ تہنہ عملہ
مطابق ہنن بدلہ دوان تہ کیوینکی کر ہنن چھ
نیک بدلہ دوان۔

(یعنی) تھو لوکھ ہم بڑو بڑو گوناہو تہ ٹاکار
بدکارو نشہ بچان روزن چھ اماہ پوز یہ ز

وَ كُمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي
شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِّنْ بَعْدِ اَنْ يَّآذَنَ
اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ يَرْضٰى ﴿٦٢﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ
لَيَسْمُوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةً الْاِنْسٰى ﴿٦٣﴾
وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ
اِلَّا الظَّنَّ ۗ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
شَيْئًا ﴿٦٤﴾

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلٰٓىٰ عَنْ ذِكْرِنَا
لَمْ يَرْدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيٰى ﴿٦٥﴾

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ
اَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ۗ وَ هُوَ اَعْلَمُ
بِمَن اِهْتَدٰى ﴿٦٦﴾

وَاللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
لَيَجْزِي الَّذِيْنَ اَسَءُوْا بِمَا عَمِلُوْا
وَيَجْزِي الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى ﴿٦٧﴾

الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓرَ الْاِثْمِ
الْفَوَاحِشِ اِلَّا اللَّمَمَ ۗ اِنَّ رَبَّكَ وَاَسَمُ

رہا (گوناہس) چھوین (تہ پتہ سپدین پشیمانی)۔
تہ چون پروردگار چھ سپدھا و سیلح مغفرتہ و ول۔
سہ چھو تہ و تہ پتہ تہہ زبر پاتھو زمان
بیلہ تہ توہی زہ پتہ منز یاد کرک و تہ بیلہ

زن توہی پنہن ماہین ہنہن شکمن مشر پو شہید
مسی و۔ لہذا پنہنس پانس بہ دیوی پاک قرار
متقیہن چھ اللہ (تعالیٰ) زبر پاتھو زمان۔
کیا تہ زمانہنا سہ شتھن سیمو (چاہنہ و حیہ نشہ)
بتہ پھیر؟

بہ کم کینتھا دیتن (خداہ سنز و تہ) تہ پتہ
ہنہن کینتھی سہام، ہنہ۔
کیا تہ اتھ چھا علم غای؟ تہ سہ چھ (ہنہ)
انجام و پھان۔

کیا تہ آوناہ تہیک علم دہہ بہ موسیٰ
تہ وفادار! براہیمہ ہنہن کتابن منز چھ؟
(یہ زن ہتھ کتھو چھ زہ) کا تہہ بورٹمن و ول
زو ہنیکہ نہ دویمہ زوک بورٹتھ۔
بہ انسانس چھ تی میلان ہنہن سہ کوشش کران
چھ۔

(بہ چھ ہنہن صحیفن منز لیکاتھ زہ) سہ (انسان)
و چھ ضرور پسنہ کوششہ ہنہن ہنہن۔
بہ تہ سہ میلہ لور جزا۔

بہ پتہ زہ (ہنہن تہ ازک کین سارکہنہ
قون ہنہن) آخری فاصلہ چھ پچائس پروردگار
ہنہن سہ اتھس منز۔

بہ پتہ زہ سہ چھ انسانوان تہ سہ چھ و دناوان۔
بہ سہ چھ ماران تہ سہ چھ زہنہ کران۔

بہ تہی چھ (ساری روادار) نہ تہ مادہ صورتس منز
پاد کرک ہنہ۔

الْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ
أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿۷۹﴾

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴿۷۹﴾

وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْذَى ﴿۸۰﴾

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوَّ يَرَى ﴿۸۱﴾

أَفَرَأَيْتَ يَتَّبِعُهُ الْيَهُودُ مَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿۸۲﴾

وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَكَّى ﴿۸۳﴾

أَلَا تَذَرُ وَآزَرَكَ وَذَرَ الْآخِرَى ﴿۸۴﴾

وَأَنْ لَّيْسَ لِإِلَادِنَا مِنْ إِلَّا مَا سَخَى ﴿۸۵﴾

وَأَنْ سَعْيِهِ سَوْفَ يَرَى ﴿۸۶﴾

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَى ﴿۸۷﴾

وَأَنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴿۸۸﴾

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَكَ وَأَبْكَى ﴿۸۹﴾

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَّاكَ وَآخِيَا ﴿۹۰﴾

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذُّؤَجَيْنَ الذَّكَرَ وَ
الْأُنثَى ﴿۹۱﴾

نظفہ بشو بیلیہ سہ (ماجر ہندس ٹیکس منتر)
تراونہ بیان چھ۔

بیسہ پیر ڈوبار پاد کرن تہ چھ تسی مسہ۔

بیسہ پیر زسے چھ بختاوار بناوان تہ سے چھ
مزیب بناوان۔

بیسہ سے چھ مانک شعی (تارگ)

بیسہ تھی کریاو گوڈ نیگ عاد قوم ہلاک۔

بیسہ بتمن پتہ شموڈ قوم تہ (بیم عاد سیند قومہ
کے اکھ حصہ اسی) تہ (عذابن) اوس نہ تہند
کبھی تروومت۔

بیسہ بتمن بروٹھ نوچہ سند قوم تہ۔ تم اسی سخت
ظلم کران۔ بیسہ اسی سہٹا بھتی پھر۔

بیسہ بملک پیٹھ کرنہ امتر بیستی تہ آسہ تمہ
ہسہ پیٹھ بون ڈارتھ ڈر مشر۔

پتہ اوس بتمن سہ چیز ولہ آمت لیس بتمین
موقعن پیٹھ ولہ بیان چھ۔

اد پینس پیرور ڈکار ہنزو لغتو منتر کتھ کتھ
بغٹھ پیٹھ کرکھ ڈر شک۔

پیرسون رسول تہ چھ پتہ بن رسول ہند رنگ
اکھ رسول۔

(بیسہ قومہ کہ فاصلک) وقت چھ نزدیک امت۔

اللہ (تعالے) ہس وائی بیکہ نہ اتھ کتھ
دہستی تہ) ڈلمہ۔

کیا توہی جھوا اتھ کتھ پیٹھ تعجب کران۔

بیسہ جھو اسان تہ ودان جھو نہ۔

بیسہ توہی جھو حاران شرتھ استاد (کانہہ پوز
فاصلہ کرنس پیٹھ توہی جھو نہ قودرت حاصل)

(اد ووتھو) اللہ (تعالے) ہس برتھ کتھ کر
شعبہ بیسہ کر و تسز عبادت۔

مِنْ نُطْقِهِ إِذَا تُمْنِي ۝

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَ الْآخِرَى ۝

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَغْنَىٰ ۝

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ۝

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۝

وَتَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ۝

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ
أَظْلَمَ وَأَطَىٰ ۝

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۝

فَغَشَّهَا مَا غَشَّىٰ ۝

فِي آيِ الْآلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ ۝

أَرْفَعِ الْآزِفَةَ ۝


لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝

أَقِمْنَ هَذَا الْحَدِيثَ تَعَجَّبُونَ ۝

وَتَضَحَّكُونَ وَلَا تَتَكُونُونَ ۝

وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ۝

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَابِدُوا ۝



سورة قمر: یہ سورہ چھ کی ہے بسم اللہ ہے چھ جہاتہ شونزہ آیہ بیہ چھس تریہ رکوع۔

یَسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
بہ چھس (اللہ تعالیٰ) سدا ناو ہتہ (پران)
یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیری پھیری
رعم کرن وول۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشْقُ الْقَمَرُ ②
(عربہ چیر) تباہی ہنتر گڑ چھینہ آہتر تہ زونہ
چھ چاک گومت۔

وَاِنْ يَّرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا
سِحْرٌ مُّشْتَمِرٌ ③
بیہ یوہ وے تم کا نہہ نشانہ وچھن تہ ضرور
چھرن ہتہ تہ ون نہ یہ چھ محض اکہ دوکھ یس
ہمیشہ پیٹھ دہ یون چھ۔

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ
أُمَّةٍ مُّسْتَقِرَّةٌ ④
بیہ تمو اپزوو تہ پشہنن ٹاہنن پتہ پتہ پتہ پتہ
پر تہ کامر ہند خاطر چھ اکہ وقت مقرر آسان۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآثَانِ مَا فِيهِ
مُذْجَرٌ ⑤
بیہ ہنن نش چھ ہتہ حالات ڈا آہتی یکن اندر
ہنیک سامانہ موجود اوس۔

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التَّذٰرُ ⑥
بیہ تترہ حکمتہ چہ کتہ تہ آسہ یسہ (دن منتر)
سنن واجبہ آسہ مگر (انسوس نہ) کھوڑ ناوول والہو
دیتہ نہ ہنن کا نہہ فایہ۔

فَتَنَوَّلَ عَنْهُمْ رِيَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِيَ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّجِيًّا
تُكْرِ ⑦
او موکھ تہ پھر ہنن ہند کینہ ہتہ بیہ تھ تھ
پیار سیندہ آلو کرن وول دیہ ہنن اکس ناپسندیدہ
چیزس (بیٹے غلبس) کن ناد۔

حُشًّا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ
الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ⑧
تہ ہنتر اچھ آسن ہتہ، تم نرن قیر منتر تھو
پاٹھ نہ زن تہ چھکرنہ آہتی مالو آسن۔

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ
هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ⑨
آلو وونہ وائس کن تم آسن دو ان گزہان
بیہ ٹاقر گزہن بیہ وناں نہ یہ چھ سہٹھا
تکلیفک دوہ۔

يَسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشْقُ الْقَمَرُ ②

وَاِنْ يَّرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا
سِحْرٌ مُّشْتَمِرٌ ③

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ
أُمَّةٍ مُّسْتَقِرَّةٌ ④

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآثَانِ مَا فِيهِ
مُذْجَرٌ ⑤

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التَّذٰرُ ⑥

فَتَنَوَّلَ عَنْهُمْ رِيَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِيَ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّجِيًّا
تُكْرِ ⑦

حُشًّا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ
الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ⑧

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ
هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ⑨

لہ عرب توہن نزدیک زون اس حکومتی علامت تہ زون چاک گزہنن اوس مطلب نہ ہنتر
حکومت گزہ تباہ۔

تمن بروٹھ اپزوو نوجہ ہندی قومن، تہ سون
(اکھ) بندہ اپزوو گھ تہ ونگھ یہ چھ دیلانہ تہ
اوس چھ (سانو دیوتاہو ہندی طرفہ) دوتھ
والہ آہتر۔

آخر کور تمہ پنس پروردگارس دغا تہ وون۔ یہ
چس وشنن زیر کورمت اہ ترے بیہ

میون بدلہ۔

تہ پچھ اسم اوپرک بر شرابو شرابو دن والہ روہ
سور مشراوہ۔

بیہ کرمی اسم زمینہ ہندی نگراد تہ جاری اہ
(اسانک آب ریو (زمینہ ہندس آس سوتی)
اکہ ترہ کتھ باچھ نیکیک فاصلہ سپد مت اوس۔
تہ اسم کورسوارسہ (نوح) اوس پیجو تہ میجو
سور بناوہ آہتر (نالو پیٹھ)۔

سوم اوس سانہن اچھن تل (یعنے سائہ نگرانہ مشرا)
پکان۔ یہ اوس تس شغہ سند جزا سیمو سند انکار
کرنہ آمت اوس۔

بیہ یہ واقعہ تروو اسم (پتو ہن قومن ہندی جانہ)
اکہ نشا پد کس رنگس مشرا۔ اہ کیا کاٹہہ نصیحت
رٹن وولا چھا؟

بیہ قہجو ! میون عذاب کوتاہ سخت) تہ میون
خبردار کرن کہیتھ (صحیح) چھ۔

اسم چھ قرآن عملہ باچھ سہل بنومت اہ
کیا کاٹہہ نصیحت رٹن وولا چھا؟

(قوم) عادن تہ اوس (پنس رٹولس) انکار کرنہ
اہ تو چھو میون عذاب تہ میون بہیم کرن کہیتھ
اوس؟ (یعنے عذاب کوتاہ سخت اوس تہ بہیم
کرن کوتاہ پوز اوس)۔

اسم سوز تمن پیٹھ اکھ تیٹھ واو یس نیز پکن
وول اوس تہ سہ او اوس تہ میر تام روزن

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا
عِبَادَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ ۖ وَازْدُجِرَ ۝

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرُ ۝

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّثَمَرٍ ۙ

وَوَجَّزْنَا الْاَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى
أُمَّقَدٍ ۙ ۝

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْاَوْجِ وَدُسِرُ ۙ

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ
كُفِرَ ۝

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَكِّرٍ ۝

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ۝

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
مُّدَكِّرٍ ۝

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ
نُذُرٍ ۝

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي
يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝

تَنْزِعُ النَّاسَ ۖ كَانَهُمْ اَعْجَازُ نَخْلِ
مُنْقَعِرٍ ①

وَأَبْسَ مِنْهُنَّ وَمِنْهُنَّ مَنْزِلُ جِلْدُونِ -
سہ اوس لوگن جتھ پانٹھو پرا پٹھتہ ترھنان زن
تہ تم کھنڑ کھنڑ ہنڈر منڈر دراوتھ کھنڈ کھنڈ
گھنڈ مہسی -

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ②

اِدْوَجُو زِمِيون عذاب (کو تانہ سہنت) تہ میون
کھوڑ ناؤن کیٹھ (پوز) اوس -

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
مُدْكِرٍ ③

بسہ اسہ چھ قرآن عمل کرنہ خاٹھ سہل بنو مت
اِدو کیا کاشہہ نفیحت رٹن وولا چھا؟

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ④

(قوم) ثمودن تہ کرایو نبیین ہنڈ انکار -
بسہ وناکھ، اسی کروا پینہو منزے اوس انسانہ
سینڑ ایس اسہ کن سوزنہ آمتہ چھ (فرانہ واری؟
اگر اسی تہ کرو تہ اسی ہے جاو گرا ہی تہ دروہن
عذابس منز سپو -

فَقَالُوا اَبَشْرًا مِمَّا وَاٰحِدًا نَّتَّبِعُهُ ۗ
لَا تَاِذَا لِفِي صَلٰٓئِ وَا سُعْرِ ⑤

کیا خدایہ سینڑ وھی چھا اسہ منز (صرف) تسر
پیٹھ نازل کرنہ آمتہ؟ پزر چھ یہ ز سہ چھ
سخت اپز لور تہ بکر کن وول -

ءَاَلَيْكَ الذُّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ
هُوَ كَذَّابٌ اَشْرٌ ⑥

(اسہ وون) تمن لگر پگاہ پے (یعنی میںہ واپس
زمانس منز) تر کس چھ اپز لور تہ تکبری -

سَيَعْلَمُونَ عَذَابِ الْاَشْرِ ⑦

(اسہ وون تمن ز) اسی چھ اکھ ووتھی تہننڑ
آز مایشہ خاٹھ سوزن وادی (لہذا اسے صالح!)

اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ
فَاذْتَقِبْهُمْ وَاضْطَرِبْ ⑧

تہننڑس انجاس پیار تہ صبرس ہیہ کام -

وَتَبَيَّنَّ لَهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قَسَمَةٌ بَيْنَهُمْ بِ كُلِّ
شَذِبٍ مَّخْتَصَرٌ ⑨

بسہ ون تمن ز آب چھ (انوار پانٹھ) تمن تہ
ثریہ در میان پانڈر آمتہ - پر سچہ دور اوس
پستہ چہنڑ چہ وار پیٹھ خاٹھ سپان -

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ⑩

اتھ پیٹھ اون ہتو پین سر وار ناد وتھ اِدو سہ
او تہ ووتھ تہ ترون بکر مار -

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ⑪

اِدو وچھو تو میون عذاب تہ میون کھوڑ ناؤن کیٹھ
اوس؟ (یعنی میون عذاب کوتانہ سخت اوس تہ
میون کھوڑ ناؤن کیٹھ پوز اوس) -

اسے کوزہ بہن پیچھ اکے عذاب تازل تہ تم گئی
اکیس پل یار گنڈن والی بہن چوہ گمشدن
ترش ہندک پاٹھو۔

بیہ اسے پچھ قرآن عمل کرنہ خاطر سہل بنومت۔
اد کیا کا منہ نصیحت رن وولا چھا؟

لوطہ ہندک قومن تہ اسی نبی اپڑاوتی۔

اسے سوڈ بہن تباہ کرنہ خاطر تہ باجر پڑت
واو (بیمو لوطہ ہند خانانہ در آئی ساری تباہ
کری) اد صیچہ کر وقتہ (بیبیدہ سہ عذاب آوتہ)
اسے پچھو لوطہ سند خانان۔

یہ اسی سانہ طرفہ اکہ نعمت، ایس شکرانہ کران
چھ اسی پچھتس بیتھ پاٹھو جزا دوان۔

بیہ تمہ (لوطن) اسی بہن سانہ عذاب خیر
برونٹھے ڈر بہتر، اماہ پوز، تم لگو تبین تمہتی
مجادلہ کرنہ۔

بیہ تمہ یوزہ سہ پینن پڑھن خلات ورنہ
لاون تہ اسے تروو بہننن اچھن پیچھ پیرد
تہ وولکھ، میانہ عذابک تہ میانہ کھوتناونک

منز تر ہو۔
بیہ صبحن سلی آوتن پیچھ اکہ بیتھ عذاب ایس
بیتھ بیتھ پتہ وول اوس۔

(بیہ وون اسے بہننن) میانہ عذابک تہ میانہ
کھوتن تلانک منز تر ہو۔

اسے پچھ قرآن عمل کرنہ باپتھ سہل بنومت
اد کیا کا منہ نصیحت رن وولا چھا؟

بیہ فرعونہ ہندن لوکن کن تہ آسے پہ نہی۔

اماہ پوز فرعونہ سنبلو لوکو اپڑاوت سانی ساری آسے،
بیتھ پیچھ تم اسے اکیس غالب طاقتہ والی ہندک
پاٹھو عذابس تل رڈ۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَآيَةً
فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ﴿۲۰﴾

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿۲۱﴾

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ ﴿۲۲﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ
نَحْنُ إِنهٗم بَٰسِحِرٌ ﴿۲۳﴾

نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا، كَذٰلِكَ نَجْزِي مَنْ
شَكَرَ ﴿۲۴﴾

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَدُوا
بِالنَّذْرِ ﴿۲۵﴾

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا
أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ﴿۲۶﴾

وَلَقَدْ صَبَبَٰهُمْ بَكَرَةً عَذَابٍ مُّسْتَقِرًّا ﴿۲۷﴾

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ﴿۲۸﴾

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
مُّدَكِّرٍ ﴿۲۹﴾

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ ﴿۳۰﴾

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ
عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿۳۱﴾

أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيَّتِكُمْ أَمْ لَكُمْ
بِرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ①

(اے مکہ والو!) کیا توہم منزجھا کفر کرن والو
ہن بزوتھو من لوکن ہند کھوتہ رڈ کتہ بزوتھو
ہن کتا بن منزجھ تہند باچھ غلابہ نشہ پچاویکھتہ؟
کیا تم جھا دان ز اسی جھ آکھ جماعت یوسہ
غالب پتھ روزہ!

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ②

تہننز جماعت بیہ جلدی نارناونہ تہ تم ترن
تھر پتھ لہ

سَيَلْمُكَ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الذُّبُرَ ③

بلکہ تہننز تباہی ہنزر گر ہند وعدہ جھ دنہ امت
تہ سو وعدہ جھ کر آسہ سبھا جادہ ہاک کرن ورتہ
تہ سخت (تہ تہ)۔

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ
أَذْهَىٰ وَآمَرٌ ④

مجرم لاکھ پن گر آہی تہ ترن و اس غلابہ منز
ولہ۔

لَإِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ⑤

یئہ دوہہ تم پتھ سردار پتھ نارس منز کھکھر
دتھ ہنہ بن (تہ جن بیہ دنہ) ز جہنک
عذاب تر ہو۔

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ
ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ⑥

اسہ جھ پرتھ جیہ اندازہ مطابق یاد کورمت۔
بیہ جھ سون حکم اچھ ٹٹو ہرک پانٹو یکدم پلور
سیدان۔

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ⑦

بیہ اسہ جھ توہہ ہو لاکھ بروتھہ تہ ہاک کر
پتہ۔ تہ کیا (بیکتہ زانتہ) جھا کاتہہ نصیحت
رٹن وولا؟

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ⑧

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ
مُدَّةٍ ⑨

بیہ پرتھ نام یوسہ ہتو کر ہتر اس۔ سو جھ
کتا بن منز (بیکتہ) موجود۔

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ⑩

بیہ پرتھ (کاتہہ) لوکٹ تہ بڑکتھ جھ لیکھتہ
تھاونہ آہتر۔

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّشْتَرٍ ⑪


لہ اتھہ آہس منز جھ جتگ احزاب متعلق پیشگوئی۔ یہ جنگ اوس اسلام

کہ صدائیک آکھ یوڈ نشان۔

لہ وجوہ امیک و احد پتھ وجہ امیک نفلی معنی جھ "بتہ" مگر درگہ پانٹو

جھ امیک مطلب توہر سردار۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿۵۵﴾
 (بیہ) مومن آسن جنتن منز تہ قسمہ قسمہ چین
 اوزوہ جالین اندر۔
 فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿۵۶﴾
 اگس تہتھس متھاس منز بیس ہمیشہ روزن دول
 آسہ (بیہ آسن تم) قدرت تھون ولس بادشاہا
 نش (یعنی تم وچین تہ زینہ رسواپی تہ زوالک
 ہتھ)۔



سورة رحمن: یہ سورہ چھ کلی تہ بسم اللہ ہتھ چھ آتھ کشتہ آتھ بیہ چھس تر تہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۱﴾
 (بہ چھس) اللہ (تعالے) سدا ناو ہتھ (پران)
 بیس حد رؤس کرم کرن دول (تہ) چھری چھری
 رحم کرن دول چھ۔
 (سہ) رحمن خدا ہے چھ۔
 بیس قرآن، بیچھنومت چھ۔
 تمہ بنو انسان۔
 بیس، بیچھنوتون خوش کلامی تہ بیان کرن۔
 آفتاب تہ زون چھ اکہ گنڈتھ مناظر مطابق
 لکان روزان۔
 بیس جڑ بڑ بڑ تہ کک کک تہ چھ خدایں ہر ونڈ
 کک لکھ نیمر اوتھ (سجد کرن۔
 بیس چھ تمہ (خدایں) آسمان تھمز رومت۔ بیس
 چھن (انسانہ بند خاطر) تووزک اصول
 گنڈتھ تھومت۔
 (یہ دنان) تہ عدیج شکر نیمر اوز زوہ تہ زینہ۔
 بیس کرو وزن الصافہ سان قایم تہ تلس اوس

الرَّحْمٰنُ ﴿۲﴾
 عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿۳﴾
 خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿۴﴾
 عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿۵﴾
 الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿۶﴾
 وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدْنَ ﴿۷﴾
 وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿۸﴾
 اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿۹﴾
 وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوْا

لہ النجم، تم ساری لوگوں کو پیمانہ گوند آسہ تہ مثالے دزن آسہ، تھرتہ بچہ بچہ جڑ بڑ بڑ بیتر۔

- المیزان ﴿۱﴾
 وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِأَنَامٍ ﴿۱﴾
 زلو تہ کمی کران۔
 تہ تمو (خدا) چھ زمین ساری نے مخلوقات
 ہند فایدہ خاطر بناو میتر۔
 اتھ منز چھ مہو تہ بیہ گوڑہ کر تھ میو دار
 کھڑ کر تہ۔
- فِيهَا فَاتَكَلَّمُوا ۗ وَاللَّحُلُ ذَاتُ
 الْأَكْمَامِ ﴿۲﴾
 اتھ (زمین) منز چھ داہ تہ یمن پیٹھ
 دل تہ چھ آسان تہ نحو شہودار بلوش تہ چھ۔
 لہذا لہو تہ سہی توہی دونے (یعنی جن تہ انسان)
 ز پینس پروردگار ہنوز لغزشو منز کتھ کتھ
 لغزش کرو توہی انکار؛
 انسان کوڑ تمو کتھ ہندی پاٹھو وڑ وڑ ہو چھ
 میٹر پیٹھ پاؤ۔
 تہ جن چھن نابہ رہیہر پیٹھ پاؤ کر تہ مہو۔
- وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿۳﴾
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۳﴾
 لہذا وڈی تو توہی دونے ز پینس پروردگار
 ہنوز لغزشو منز کتھ کتھ لغزش کرو توہی انکار؛
 سہ چھ دونوں مشرق ہند تہ پروردگار تہ
 دونوں مغرب ہند تہ چھ پروردگار۔
- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿۴﴾
 وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴿۴﴾
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۴﴾
 رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿۵﴾
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۵﴾
 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿۶﴾
 بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿۶﴾
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۶﴾
- انسان کوڑ تھ صلیصلیص کھٹھو۔
 تم کھ اکس منز داخل سپتھ چھن ہکان۔
 وڈی تو توہی دونے ز پینس پروردگار ہنوز
 لغزشو منز کتھ کتھ لغزش کرو توہی انکار؛
- جن مغرب ہند چھ (ما تھ) کھ ٹھور۔ نیمہ کنو
 تم کھ اکس منز داخل سپتھ چھن ہکان۔
 وڈی تو توہی دونے ز پینس پروردگار ہنوز
 لغزشو منز کتھ کتھ لغزش کرو توہی انکار؛

۱۔ اتھ آیس منز چھ زمین گول آسنس متعلق اشار۔ (منہ)
 ۲۔ اتھ آیس منز چھ نہر سویر تہ نہر پانامہس متعلق پیشگوئی مہند
 ہنوز سوزو آو وڈی میس منز کھ معاشرتی تہ معاشی انقلاب۔ (منہ)

یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿۱۷﴾	یکو دونوں وہے سمندرو منتر چھ موخرہ تہ مرجان نیران۔
فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿۱۸﴾	اد وڈی تو توہی دونوں زہینس پروردگار سنزو نمشو منتر کتھ کتھ لغش کرو توہی انکار!
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿۱۹﴾	بہہ لتنتر بناور منتر ناو (تہ چھید) تہ (تہندر بناور متو) سمندری جہاز تہ چھ یکم سمندر منتر بال ہوکر بوڑی یوان چھ۔
فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿۲۰﴾	اد توہی دونوں وڈی تو زہینس پروردگار سنزو لغشو منتر کتھ کتھ لغش کرو توہی انکار!
كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَأِنَّ ﴿۲۱﴾	اتھ از مسپتہ پیچہ یس کا نرھا تہ چھ اسہ چھ پتو لکن فنا سپدن دول۔
وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلِيلِ الْأَعْرَابِ ﴿۲۲﴾	مگر صرف چھ سہ بجان نیس کن چائس شان تہ عزتہ ولس خداپہ سہ توجہ آسہ یہ
فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿۲۳﴾	اد وڈی تو توہی دونوں زہینس پروردگار سنزو لغشو منتر کتھ کتھ لغش کرو توہی انکار!
يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿۲۴﴾	آسمان تہ ز مسپتہ منتر یس کا نرھا تہ چھ سہ چھ تسی پنی حاجت منگان۔ سہ چھ پر پتہ وز ا کس نوس حالتس منتر آسان یہ
فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿۲۵﴾	اد وڈی تو توہی دونوں زہینس پروردگار سنزو لغشو منتر کتھ کتھ لغش کرو توہی انکار!
سَنَفَرُّكُمْ لَكُمْ آيَةَ الثَّقَلَيْنِ ﴿۲۶﴾	اے دونوں زبردست طاقتور! اسی چھ توہی دونوں ہند خاطر فارغ سپدن۔ سہ

۱۷ میں ہیں چھ لفظ " وَجْهٌ " معنی ہے کہس معنی منتر استعمال پدنت تہ معنی
چھ اسم فاعلک معنی تہ دوان تہ اسم مفعولک تہ۔ نیتین چھ یہ اسم مفعولک معنی کتھ
ورتا وہ آیت نیس کہو ایک ترجمہ سپد یہ نہ صرف چھ سہ چیز بجان یقہ
کن چائس پروردگار سہ توجہ آسہ "۔ (منہ)
سہ یعنی پر پتہ وز چھ لتندر نوکر نوکر صفات ظاہر سپدن۔ (منہ)
سہ یعنی روس تہ امریکہ یا یا جوج تہ ماجوج۔ (منہ)
سہ یعنی کہینہ موبلت دتھ کرو اسی توہی دونوں تباہ۔ (منہ)

المُجْرِمُونَ ﴿٧٠﴾

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتِينَ ﴿٧١﴾

(یلیلہ تھہ منتر اتر تک دودہ واہہ) ہم آسن
تھہ (جہنم) منتر باگ تہ گریک و ہنس آس
منتر باگ اور یور پھیلان۔

﴿٧٢﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٧٢﴾

اد وڈی تو توہی دونوںے زہ پننس پروردگار ہنزو
نمٹرو منتر کتھ کتھ نمٹر کرو توہی انکار؟

بہہ یس شخص پننس پروردگار ہندس ترس
کھوٹان چھہ تہندہ خاطر چھہ زہ جنت منقرر۔
(دنیوی تہ تہ آخر تک تہ)۔

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٧٣﴾

اد وڈی تو توہی دونوںے زہ پننس پروردگار ہنزو
نمٹرو منتر کتھ کتھ نمٹر کرو توہی انکار؟
دونوںے باغ آسن سپٹھا لخبہ دار کلر والی (لینے
سپٹھا گتھ باغ آسن)

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٧٤﴾

اد وڈی تو تہ سہی توہی دونوںے زہ پننس پروردگار
ہنزو نمٹرو منتر کتھ کتھ نمٹر کرو توہی انکار؟
ہنن دونوںی منتر آسن تہ ناگ (سپٹھا آب
آسنہ کتھ) جاری۔

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٧٥﴾

اد وڈی تو تہ سہی توہی دونوںے زہ پننس
پروردگار ہنزو نمٹرو منتر کتھ کتھ نمٹر کرو توہی انکار؟
ہنن دونوںی منتر آسن پرچہ تسکیر میوہ دون
دون تہن ہندو۔

فِيهِمَا عَيْنٌ تَجْرِيْنَ ﴿٧٦﴾

اد وڈی تو توہی دونوںے زہ پننس پروردگار ہنزو
نمٹرو منتر کتھ کتھ نمٹر کرو توہی انکار؟
(جنتی لاکھ آسن) فرشس پیٹھہ (تتھن تک
ہن کن) لاکھ وی وی ہن ہندو استر
ز اولہ پارک آسن تہ دونوںی باغن ہنز میوہ
لخبہ آسن (گورہ سوخا) نئے ہنر۔

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٧٧﴾

اد وڈی تو توہی دونوںے زہ پننس پروردگار
ہنزو نمٹرو منتر کتھ کتھ نمٹر کرو توہی انکار؟
ہنن جنتن منتر آسن اچھہ لون کن مقنون واجبہ

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَاوِجٌ ﴿٧٨﴾

مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ
إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّاتٍ الْجَنَّتَيْنِ ذَاتِي ﴿٧٩﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٠﴾

فِيهِنَّ قُصْرٌ لِّلَّذِينَ لَمْ يَطْمِئِنُّوْا

- ۱ اِسْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۵۴
- ۲ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۵۵
- ۳ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۵۶
- ۴ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۵۷
- ۵ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۵۸
- ۶ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۵۹
- ۷ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتِينَ ۶۰
- ۸ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۶۱
- ۹ مُذْهَبًا مَّتَنِينَ ۶۲
- ۱۰ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۶۳
- ۱۱ فِيهِمَا عَيْنِينَ نَضَّاجَتَيْنِ ۶۴
- ۱۲ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۶۵
- ۱۳ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۶۶
- ۱۴ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۶۷

زنانہ میں سے تھی آسہ نہ میو (جنتیوں) بروٹھ
 ٹانہ انسان تہ نہ کانسہ جتن تعلق تھومت۔
 اہ وڈی تو توہمی دو نوے نہ پننس پرور دگار ہنرو
 نعرہ منہ کتہ کتہ نعرہ کڑو توہمی انکار؟
 زن تہ ہم زمانہ آسن یا قوت تہ تہ مہرجان۔
 اہ وڈی تو توہمی دو نوے نہ پننس پرور دگار
 ہنرو نعرہ منہ کتہ کتہ نعرہ کڑو توہمی انکار؟
 کیا احسانک جزا چھا احسانہ وراہی کینہہ بیہ تہ
 اہستہ ہیکان؟
 اہ وڈی تو توہمی دو نوے نہ پننس پرور دگار
 ہنرو نعرہ منہ کتہ کتہ نعرہ کڑو توہمی انکار؟
 بیہ تھو دوہو جنتیو وراہی آسن بیہ تہ نہ جنت۔
 اہ وڈی تو توہمی دو نوے نہ پننس پرور دگار
 ہنرو نعرہ منہ کتہ کتہ نعرہ کڑو توہمی انکار؟
 ہم دو نوے باغ آسن (مستہبہ ستی) سیاہی
 مایل سہنر۔
 اہ وڈی تو توہمی دو نوے نہ پننس پرور دگار
 ہنرو نعرہ منہ کتہ کتہ نعرہ کڑو توہمی انکار؟
 تھن دو نوئی (جنتن) منہ آسن نہ بڑی ناگ
 شولہ ماران وزان۔
 اہ وڈی تو توہمی دو نوے نہ پننس پرور دگار
 ہنرو نعرہ منہ کتہ کتہ نعرہ کڑو توہمی انکار؟
 جتن منہ آسن میو تہ تہ کھنر تہ دھن تہ۔
 اہ وڈی تو توہمی دو نوے نہ پننس پرور دگار ہنرو
 نعرہ منہ کتہ کتہ نعرہ کڑو توہمی انکار؟

۱۵ یعنی تہندس رنگس منہ آسہ سفیدی تہ وہ نہ ہمار ربتہ تہ سبھا نوزک آسن۔
 یا قوت چھ پسنہ وہ زہر رنگہ کتہ مشہد تہ مہرجان پسنہ قد تہ پسنہ نراکتہ
 تہ رنگہ یعنی وہ نہ جاہ تہ سفیدی ہنر بلونی کتہ مشہد۔ لہذا ہم لفظ وراہی
 آسہ تھن زنانہ ہندس ساری صفت بیان کرتہ۔ (منہ)

بتن باغن منز آسن نیک تہ خوش شکل زنا تہ۔
 اِدِ وُذِي تُو تُوہی دونوے ز پننس پرور دگار
 ہنزو نغشو مشز کتہ کتہ نغشو کُرو تُوہی انکار؟
 تم زنا تہ آسن کاجہ اُچھ واجبہ (تہ) خنمن
 اندر آسن تھاونہ آمہز۔

اِدِ وُذِي تُو تُوہی دونوے ز پننس پرور دگار ہنزو
 نغشو مشز کتہ کتہ نغشو کُرو تُوہی انکار؟

بتن آسن تہ امر بر نٹھ اتھ تہ لوگت (جنس)
 اترن واپو انسانو تہ جنو منہز (کالتہ انسان یا جن)
 اِدِ وُذِي تُو تُوہی سہی تُوہی دونوے ز پننس پرور دگار
 ہنزو نغشو مشز کتہ کتہ نغشو کُرو تُوہی انکار؟
 تم (جنی) آسن و تھراونہ آمتہن سبز تہ تھہ
 پایہ خوبصورت فرشن تہ پیچھ ڈکھ دی دی بہتہ۔

اِدِ وُذِي تُو تُوہی دونوے ز پننس پرور دگار ہنزو
 نغشو مشز کتہ کتہ نغشو کُرو تُوہی انکار؟
 چائس جلال تہ عزتہ واپس پرور دگار سنداو
 چھ سہٹھا برکتہ وول۔

فِيهِنَّ حَايَاتِكِ حِسَانٌ ۞

فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبِينَ ۞

حُودٌ مَّقْصُودَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۞

فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبِينَ ۞

لَمْ يَطْمِئْتُهُنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۞


فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبِينَ ۞

مُتَكَلِّمِينَ عَلَى رُفُوفٍ خُضِرٍ وَ عَبَقَرِيِّ
 حِسَانٍ ۞

فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبِينَ ۞

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۞

۱۔ یعنی تم آسن پشینی خانہ دارن نش۔ (منہ)
 ۲۔ رُفُوفٍ؛ کنواں تہ زیر بنگا سہ فرش یس خنمن نیبر نام و تھراونہ پوان چھ۔
 (قاموس / تفسیر صغیر)



سورة واقعه: یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ بہتہ چواتھ سنتنہ آیہ بیچیس تریہ کرلے۔

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
 یس حد رؤس کرم کرن وول تہ پھیرک پھیرک
 رحم کرن وول چھ۔
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

تو چہ تہ ایمان ان والہن منز آسہ تہند تعداد کے۔

تم آسن (لال تو جواہر) جڑتہ پردہ دار تحت پرشن
پیٹھ۔

ڈنگھ وی دی اکھ اکس کن مہتہ کر تہ بہتہ۔

تمن نشین ہمدتہ خاطر واریاہ نوجوان خا دم ہم
زن ہمیشہ پسندہ نیکی پیٹھ قائم تھوتہ یں۔

(تم زین) گلاسہ تہ ہی نار تہ ناگو منز بڑ بڑ
پیالہ بنے بنے۔

(تم پیالہ تہ تریشہ لوزی چیتہ) نے تہ کسہ
جنتین نما تہ نہ کرن تم بے ہودہ کتہ۔
(بیہ) تمن (جنتین) نشین (پیتھے پاٹھ
نوجوان ہمدت گار) تمقین میون ہندہ مجہ ہتہ
ہم تم پسند کرن۔

بیہ جانا وارو منز تمن جانا وارن ہندازہ یمن
تم (جنتی) پسند کرن۔

بیہ آسن سیاہ مہنہ پٹیل تہ ویسچہ ویسچہ اچھ
واجبہ زمانہ۔

ہم رچیتہ سمیابہتہ تھوتہ آقبن موکتہ پھلین
ہندہ پاٹھ آسن۔ (ہم مہلہ آسنہ موکتہ کھتہ
تھوتہ یوان چھ)۔

یہ سورے کیہتہ میلہ مؤمن ہندلو اعمالو کنی
بدلو کنی۔

تم (مؤمن) نے تہ بوزن جنتن منز کانہہ بیہ
مطلب کتہ تہ نہ کانہہ گو تہ بک کلام۔

آ، امانہ پوز تہشہ کتہ بوزن یقہ منز سلام لینے
سلامت رونہ نک دعا آسہ۔

بیہ بوزن تہ، ڈچہتہ طرفہ کن انسان ہند تہ حال۔
تہ تریہ کیا پے چھ تہ ڈچہتہ طرفو انسان کیا چھ!

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿٥٧﴾

مُتَّكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ﴿٥٨﴾

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿٥٩﴾

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّنَ
مَّعِينٍ ﴿٦٠﴾

لَّا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَكَانَ يُرْفَعُونَ ﴿٦١﴾

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٦٢﴾

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٦٣﴾

وَحُورٌ عِينٌ ﴿٦٤﴾

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٦٥﴾

جَزَاءً يَّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٦٧﴾

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٦٨﴾

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٦٩﴾

- فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ①
 وَ طَلْحٍ مَّنْضُودٍ ②
 وَ ظِلِّ مَمْدُودٍ ③
 وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ④
 وَ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ⑤
 وَ لَمْ يَمْسُوعَةٍ ⑥ وَ لَمْ يَمْنُوعَةٍ ⑦
 وَ فُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ⑧
 إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ⑨
 فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ⑩
 عُرْبًا آثَرًا ⑪
 لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ⑫
 ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى ⑬
 وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ⑭
 وَ أَصْحَابِ الشِّمَالِ ⑮ : مَا أَصْحَابُ
 الشِّمَالِ ⑯
 فِي سَمُودٍ وَ حَمِيمٍ ⑰
 وَ ظِلِّ مِّنْ يَّمُودٍ ⑱
 لَا بَارِدٍ وَ لَا كَرِيمٍ ⑲
- تم روزن کٹڈو وراپی سدر باغن منز۔
 بیہ کیلین (ہندین باغن) منز بین ہندو سیدو
 پیوٹس پیٹھ آسن کھو ہوتی۔
 بیہ تجس شہلس تل یس سبھا پھالا ونہ آسہ۔
 بیہ جتین آبن نش بیم (آبسان ہندو پاٹھو تھنہو
 پیٹھ) والنہ یوان آسن۔
 بیہ واریا بن میون منز۔
 نے تہ مرصن تم ترھینہ تہ نہ بین ، تمونشہ ، تم
 (جنتی) ٹھاکناوتہ (لینے تم بین تمہندے مال گنہراؤ)۔
 بیہ روزن تھدہ پایہ آشنہن سستی۔
 اسی چھینہ تمہہ رتی پاٹھو پاؤ کرٹھ تھادو منز۔
 بیہ انہری شہ چھینہ پاؤ کرک منز۔
 سبھا ، سوندرہ تہ جتین ہنہر وانہہ برابر۔
 (بیہ) ڈ چھینہ طرفہ کس دوس کرٹھ (پاؤ کرٹھ
 آسٹھ چھینہ)۔
 یہ دور آسہ (اسلام کس) ابتداہس منز ایمان ان
 والہن منز تہ یسلہ پاٹھو۔
 تہ آخری (زمانس منز) ایمان ان والہن منز
 تہ آسہ یسلہ پاٹھو۔
 بیہ کھوور طرفہ واول۔ تہ تہنہ کیاہ پئے پٹھے نہ
 کھوور طرفہ واول لاکھ کھتھو آسن ؛ (لینے تمن
 لکن ہندتہ بوز حال)
 تم روزن تترن واورنخن تہ آہہ رسرن منز۔
 بیہ روزن ترٹھ ترھاپہ تل یوسہ کرہینہ دیکر پاٹھو
 آسہ۔
 نہ آسہ سہ (ترھاسے) شہج تہ نہ بختاوتھ
 تل روزن عزت۔

تم اسی امر بروٹھ دنیا ہس منز سپہا آراس
منز روزان۔

تہ بڑس گو نہ ہس (سیفہ بشرکس) پیٹھ اسی
ڈاڈ کران۔

تم اسی ونان زہ نیلہ اسی سرو تہ میتر تہ
اڑی جہ پیٹھ گڑھو؛ کیا اسی پھو زانہہ نو سر
زندہ کریتھ استاد کرہہ؟

بیہ سانہن جدن اجدان سستی تہ سپد یا بیہ
معاملہ؟

تہ وکٹھ زہ بروٹھ تہ تہ پیتر تہ۔

سر سالم بن اکہ نازا ہتہ ڈہس وعدس کن سہ بڑو
بنہ۔

اد توہی اے ایوان والہو تہ و تہ ڈل
مر تہو!

ز قوم کلمہ منز کہنیو۔

تہ تمہ سستی برو بیڈ۔

پتہ چیلو اتھ پیٹھ توت آب۔

تہ تریشہ ہتس وونٹہ ہندہ پاتھو گڑھو ڈراہ
کران چہوان۔

یہ آسہ جزا تہ سزا کہ دوہہ ہتہ ہنر مہانداری۔

اسہ چہو توہی یاد کرہی ہتی۔ اد کیا ز چہو تہ
توہی سانی کتھ یز گتہ راوان۔

بیہ تمہ ہ چیز ہج کہفیت تہ و لو، ایس توہی
زنانہ ہندس ہکس منز تراوان چہو۔

کیا توہی چہو تا سہ یاد کران کہہ اسی چہن
سہ یاد کران؟

اسہ چہ توہی منز موتک سلسلہ جاری کوزت

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٥٦﴾

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ
الْعَظِيمِ ﴿٥٧﴾

وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا امْتَنَّا وَكُنَّا
تُرَابًا وَعِظَامًا، إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٥٨﴾

أَوْ آبَاءَنَا أَلَا وَكُنَّا ﴿٥٩﴾

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٦٠﴾

لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ
مَّحْضُورٍ ﴿٦١﴾

ثُمَّ لآتِكُمْ مِنْهَا الضَّالُّونَ
الْمُكَذِّبُونَ ﴿٦٢﴾

لَا جَلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ﴿٦٣﴾

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٤﴾

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٦٥﴾

فَشَارِبُونَ شُرَبَ الْهَيْمِ ﴿٦٦﴾

هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٦٧﴾

بَخْنُ خَلْقِنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ ﴿٦٨﴾

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٦٩﴾

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٧٠﴾

نَحْنُ قَدْ زُنَّا بِبَيْنِكُمْ الْمَوْتِ وَ مَا

- تَحْنُ بِمَسْبُوقَيْنِ ①
عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَتُنشِئَكُمْ
فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ②
- تر اسیر بروٹھ ہینکے نہ کاٹھہ نہ پرتھ۔
بیہ کاٹھہ شخصوں ہینکے نہ اسیر اتھہ کتھہ مشنز
عاجز کرٹھہ، تر اسی الوکھ توہی بدلاوتھہ بیہ
تہندی ہوکر قوم، تہ نہ ہینکے اسیر کتھہ رشتہ
عاجز کرٹھہ نہ) اسی کرو توہی بہ کتھہ تہڑھ منورز
مغز پاد یوہی نہ توہی زمانان چھو۔
بیہ توہی تر چھو گھو ڈپنچ پیدائش زمانہ، اد
کیا چھو توہی نہ گومت تر توہی چھو نہ نصیحت زمان۔
کیا توہی چھو تمیک پنے یہ توہی ووان چھو۔
کیا توہی چھو تہ وہ پداوان کہہ اسی چھہ تر
وہ پداوان؛
- الرُّسِي يَشْرِبُهُ هَوْتِهٖ سُهٗ بِنَاوْنِ رِبْلِكْ دُوْدُمْتِ
تِر زرز یوئمت چوہر۔ اد روز ہو توہی کتھہ بناوان۔
تر ووز ہو تر اسی چھیہ چینیہ ہیمہر۔
بلکہ چھہ حق یہ تر اسی چھہ پستہ محنتہ کر چھیلہ
رشتہ بلکل محروم سپدر ہوتی۔
اد ووز ہو توہی سہ آب یس توہی چھوان چھو۔
توہی چھو یہ اوہر مغز وولمت کہہ اسی چھہ یہ
والان۔
الرُّسِي يَشْرِبُهُ هَوْتِهٖ سُهٗ بِنَاوْنِ رِبْلِكْ دُوْدُمْتِ
اد کیا تر چھو نہ توہی مشکرانہ کران۔
- اد ووز تو تمہ ناک تہ حال یس توہی زلان چھو۔
توہی چھو تمیک کل پاد کورمت کہہ اسی چھن سہ
پاد کران۔
اسیر چھہ سہ نصیحتہ بابتھہ تہ مسافرن ہندرقایدہ
- وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا
تَذَكُّرُونَ ③
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ④
ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ تَحْنُ
الزَّارِعُونَ ⑤
لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ
تَفَكَّهُونَ ⑥
إِنَّا لَمُخْرَمُونَ ⑦
بَلْ تَحْنُ مَحْرُومُونَ ⑧
أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ⑨
ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ
تَحْنُ الْمُنزِلُونَ ⑩
لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا
تَشْكُرُونَ ⑪
أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ⑫
ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ تَحْنُ
الْمُنشِئُونَ ⑬
تَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَ مِتَابًا
- سہ یعنی تھہ پانچ سرسبز کھس چھو کاٹھہ زراعتہ ہیکان تھہ پانچو یس قوم زندہ اسیرتس ہینکے نہ کاٹھہ (جباری)

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۱﴾

عاطف بنو مت -

فَسَيَسْأَلُ بِأَسْمَاءِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۷۲﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لہذا تو کر سنبٹیں عظمت و اسی پروردگار سیدنا و

کہ دوسری تسبیح -

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النَّجْوَ ﴿۷۳﴾

او کوئی چھس یہ تارکن ہند ڈلہ کر شہادت کہہ

پیش کران -

وَأِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَحَلَّمُونَ عَظِيمٌ ﴿۷۴﴾

اگر تو ہی زانان چھو تو یہ شہادت چھین سبھا

بڑا شہادت -

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۷۵﴾

بے شک یہ قرآن چھ بڑا عظمت تمہوں وول -

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿۷۶﴾

بہ چھ اُکس پوشید کتابہ منز موجود -

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿۷۷﴾

اچھ (یعنی قرآن) حقیقت چھوتے لوکھ لبان

یک مطہر (یعنی پاک کرنے آہی لوکھ) آسان چھ -

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۷۸﴾

امیک نازل سپن چھ رب العالمین خدا یہ سید طرفہ -

أَفِيهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴿۷۹﴾

او کیا تمہیں کلامہ کس حقتس منز چھو تو ہی چا پلوسی

تھام ہوں؟

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿۸۰﴾

بہ بیٹن حصہ چھو توہ صرف یہ بناو تمہو مت ز

تو ہی چھو یہ ایزوان -

فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ ﴿۸۱﴾

لہذا کیا نہ سپد نہ میلہ زن زو ہس تن ووت؟

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿۸۲﴾

تو تو ہی مگو و امر وقتہ (ناولہ مید سپد تھ نہ توئی

طرفن) و چھنہ (ز تو ہی) اینکہ ہو پست نہ چوگ کانہ

سامانہ کر تھ -

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِو مِّنكُمْ وَ لَكِن لَّا

بہ (تمہ وقتہ سپد توہ پٹہ تو تہنہ بن اثناوان

پچھ ظاہر نہ) اسی چھو تنس مزن والی سندس

رؤس تہنہ رتہ جاہ نزدیک - اناہ پوز توہ پچھ

آہنہ یہ حقیقت روشن -

تُبْصِرُونَ ﴿۸۳﴾

فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿۸۴﴾

او اگر توہ کانہ بدلہ اوں نہ میلن تو تو ہی چھو

تھ دعواہس منز پز یارک تو یہ کیا نہ سپد نہ -


بقیہ حاشیہ :-

تباہ کر تھ مگر میلہ کل ہو کمان چھ تمیک زین چھ زالنس لگان - یتھ پٹہ میلہ کانہ قوم منور چھو کر تھان

سہ چھ زینکی پٹہ ناور ورتھ تباہ کر تھان - (منہ) لہ یعنی انسانی فطرتس منز - (منہ)

تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴿۳۰﴾
 نہ تو بہرے پہنچو نہ سوجالت واپس نہتھ (یوسہ مرتبہ روز
 یوان چھیہ)۔
 ادریس کا نثرھا خدایہ سُنْدُ مُقَرَّبِ چھ۔
 تَنْبُرٌ خَالِدٌ فِيَّ اَرَامٌ تَرَّ اسْمَائِشُ مُقَدَّرٌ۔ بیہ یتھ
 پامٹھ نمنرو سستی بُریتھ جننت۔
 بیہ اُرسہ شخصوں دُچھنہ طرفہ کہو لوگو منز چھ۔
 تہ تس چھ ونہ یوان ز اے دُچھنہ طرفہ کہہ
 لُکھہ ولہ! ثریہ پیٹھ روزان ہمیشہ سلامتی۔
 تہ اُرسہ مرن وول پزوک انکار کرن والہو تہ لُکھو
 منز آسہ۔
 تیلہ بیہ یتھس شخصس لُکھہ ونہ آہہ سوسال کرنہ۔
 تہ روزنہ باپتھ بیہ تس جہنم دینہ۔
 یہ کہتھ چھینہ حق الیقینس مطابق۔
 لہنڈا تہ کر پسنس عظمتہ واپس پروردگار ہنڈ
 ناہو کہ ڈرلیہ تسبح۔

فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿۳۱﴾
 فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ؕ وَجَنَّتْ نَجِيْمٌ ﴿۳۲﴾
 وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ﴿۳۳﴾
 فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ﴿۳۴﴾
 وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذَّبِيْنَ
 الصَّالِيْنَ ﴿۳۵﴾
 فَتَذَلُّ مِنْ حَمِيْمٍ ﴿۳۶﴾
 وَتَضْلِيَةٌ جَاجِيْمٍ ﴿۳۷﴾
 اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿۳۸﴾
 فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿۳۹﴾



سورة حدید۔ یہ سورہ چھ مدنی۔ تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ تہرہ آہہ بیہ چھیس تہرہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۱﴾
 (بہ چھیس) اللہ (تعالیٰ) سُنْدُ ناو ہتھہ پران ایس
 حد رؤس کرم کرن وول (تہ) چھیرکی چھیرکی رحم
 کرن وول چھ۔
 آسمانن تہ زمہنہ منز یہ کینثرھا چھ تہ چھ خدایہ
 ہنر تسبح کرن، تہ سہ چھ غالب تہ حکمتہ وول۔
 سَبِّحْ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَهُوَ
 الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲﴾

لہ یقینک چھ تہرتہ مرتبہ۔ ۱۔ علم الیقین، شلادہ وُچھنہ نار آسنگ یقین۔ ۲۔ عین الیقین۔ اچھو
 سستی ناروزان وُچھن۔ ۳۔ حق الیقین ووزونس نارس منز اتھ تہرہ نارک یقین سپدن۔
 اتھ یقینس منز چھنہ ایزچ یا خلج کا نہہ کنجائیش روزان (اسلامی اصول کی فلاسفی)

آسمان ہنرتر زمینچ بادشاہت چھینے تہنرے
سے چھ زندہ کران بیچھے سے ماران تہ، بیچھے سے
پرچھ چیزس پیچھے تادہ۔
سے چھ اول تہ تہ آخر تہ، بیچھے ظاہر تہ
تہ باطن تہ۔ بیچھے سے پرچھ کئی چیزس زمانان۔

کئی چھ آسمان تہ زمین شین وقتن منز پادکر
ہتہ۔ پتہ سپد سے عرضس پیچھے مضمونی سان
تاپیم۔ سے چھ تہہ زمانان یہ زمینہ منز داخل
چھ سپدان بیہ تہ پتہہ منز نیران چھ،
بیہ تہہ یہ اسانہ وسان چھ بیہ تہہ یہ تہہ کن
کھسان چھ۔ بیہ توہی نوت تہ تہو سے چھ
توہہ ستی روزان۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تہندو
اعمالو نیشہ واپو پامٹو خبردار۔

(بیہ) آسمان ہنر بادشاہت چھینے تہنرے
بیہ زمینچ تہ (تہنرے) تہ ساری مسلہین
(تہا صلہ پاپتہ) تہی کن واپس پھیرتہ آنتہ۔
سے چھ راتھ دوہس منز داخل کران تہ
دوہس چھ راتھ منز داخل کران۔ بیچھے سے
دلن ہنر کتہہ زبر پامٹو زمانان۔

اے لوگو! اللہ (تعالیٰ) تہ تہنرے رسولس پیچھے
انوا ایمان۔ بیہ تہو بین (جا یادان) ہندہ
(پرانبو توہو پتہ) توہر ہابک بتادو تہو چھو۔ تہو
منز کٹوہ خبرتہ۔ بیہ توہہ منزیم مؤمن چھ
تہ خدایہ ہنر و تہ خرچ کران روزان چھ۔ تہن
مید سبھا بوڈا ہر۔

بیہ توہہ کیاہ چھو گومت ز توہی چھو تہ اللہ
(تعالیٰ) ہس تہ رسولس پیچھے ایمان انان؟ تہ
(اللہ تعالیٰ سند) رسول چھو توہہ صرف اد
خاطر آلو کران ز توہی انو پنس پروردگارس پیچھے

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْتَارُ
يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَمَا يَسْتَفْتِيهِمْ
فِي شَيْءٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٨﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ
يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ
مِنْهَا ۚ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ
فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٩﴾

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ
تُرْجِعُ الْأُمُورَ ﴿٨٠﴾

يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوَلِّجُ
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٨١﴾

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَأَنْفِقُوا مِمَّا
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۚ فَالَّذِينَ
أَمِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ
كَبِيرٌ ﴿٨٢﴾

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَالرَّسُولِ
يَدْعُوكُمْ لِمُنَوَّنُوا بِهِ ۚ قَدْ أَخَذَ
مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٣﴾

ایمان (بیہ) اگر تو ہی مؤمن چھو تیلہ چھ تھلین
توہہ اکھ وعدہ ہو تھمت لہ

سے (یعنی اللہ تعالیٰ ہے) چھہ یس پسینس
بندس پیچھہ ٹاکاہ ہشانہ تاہزل کران چھہ یینیک
نتیجہ پر سپدان چھہ ز سہ چھہ یمو ہشانو ہتہ
دوسری توہہ انہ گہنو منہر کڈتھہ محاشس کن زوان۔
بیہ چھہ اللہ (تعالیٰ) بے شک سہٹا شفقاس
کام ہونہ وول (تہ) پھیرک پھیرک رحم کرن وول۔

بیہ توہہ کیاہ چھہ گو مت ز توہی چھو نہ اللہ
(تعالیٰ) سہزوتہ منہر خریج کران ؛ بوڑوس
تہ آسان ہند تہ زمینک مہرات چھہ اللہ
(تعالیٰ) سہدے۔ اے مؤمنو! فتح (لبنہ)
برونٹھہ نیمر خدایہ سہزوتہ خریج کوز تہ تہ سہز
وتہ منہر جنگ کوزن، سہہ ہینک نہ تس برابر
آسٹھہ نیمر فتح (لبنہ) پتہ خریج کوز تہ فتح
(لبنہ) پتہ کوزن جنگ۔ فتح (لبنہ) برونٹھہ
خریج کرن واکر تہ جنگ کرن واکر چھو در جس
منہر سہٹا تھدک۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ
دوہونی تہ سہہ کہن لوکن سہتر نیکی ہند وعدہ گو مت
تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ تہ ہندن اعلان ہند سہٹا
ز بر پانٹو زان وول۔

کیا کا تہہ چھالیس اللہ (تعالیٰ) ہس (پسینہ
مالک) رت لکھ تہ تہ تہ دیہ ییتھ زن سہ تھہ
تہند خاطر ہر راو تہ تہند خاطر چھہ اکھ عزتہ
وول بدلہ گنتہ تہ۔

نیمر دوہہ تہ مؤمن مرد تہ مؤمن زنانہ و سہہ کھ
ز تہند نور آسہ ہتن برونٹھو کئی تہ ہتن ڈھیز
کئی تہ تھہٹ ماران (تہ خداسے تہ تہند عوامیک
ون) از چھو توہہ زگارنگ باعن ہنر خومہ شہر

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰﴾

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا يَسْتَوِيٰ مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ
الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ
الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِن بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا
وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴿۱۱﴾

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿۱۲﴾

يَوْمَ تَدْرَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ
بِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

لہ یعنی فطرت صحیحہ ہس منہر چھہ تھہ تعالیٰ ہس پیچھہ ایمان اُن تھاونہ آمت۔ (منہ)

فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَافِقَتِنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ﴿٥٨﴾

يُنَادُوا وَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ؕ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥٩﴾

قَالِيَوْمَ لَا يُؤُودُ خَدُّ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ؕ مَا أُولَٰئِكَ إِلَّا نَجَادُ اللَّهِ الَّذِينَ لَهُمْ أَصْفَادٌ ﴿٦٠﴾

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ

دین یوان ۔ (تھو بارغ) میں یونہی کہی کہ لہ
یکان آسن ۔ ہم (خوشخبر بن اول) لوگ گنہگار
ہم جن جن منظر روزانہ تیرے چہرے سے ہوا کامیابی
تیرے دوہرے منافق مرد تو منافق زمانہ مؤمنین و
تو ہمارا پیارو اسے تیرے آس کر تہندہ نور بشتہ کاش
حاصل تیرے وقتہ پیہہ ہمن و نہہ پانس پتہ کن گرشو
وایس تو توت گرتھتہ تھاندو نور ۔ پتہ پیہہ اللہ
(تعالیٰ ہند طرف) ہمن تو مؤمن در میان اکھ دوس
مہر تھوہر ، پتہ منظر اکھ بر آسہ تھہ اندر کر کن
آسہ رحمتک نظر تہ تھہ نیبری کنی آسہ
برو تھہ کنی عذابتک نظر بوز تہ یوان ۔

تم (منافق) دن مؤمن ناد تو دن کیا اسکا
تا تو ہر ستر ؟ تم (یعنی مؤمن) دن جواب
او او ، وونی گوو توہر تراور و پتہ زو پانے
عذاب منظر تہ توہر رودر و (ساتہ تباہی)
پراران ، بیہ رودر و شکن تہ شہین کام ہوان
تہ تہندہ اور زوے رودر و توہر تھہ و قس
تمام فریب دوان یوتام اللہ (تعالیٰ) ستر قاصد
وایتہ بیوہ ۔ بیہ اللہ (تعالیٰ) ہس (یعنی نین
سارک نے کاپن) متعلق شیطان رودر و توہر
بازی تمارن ۔

لہذا (اے منافقو!) اذکر کہ دوہر نہ پیہ توہر
نش کانہہ فدیہ قبول کرتہ تہ نہ کافرن نش
توہر سارک نے ہند بھکانہ چہہ جہنم ۔ سنے چہہ توہر
سوتہ ہمیشہ تعلق تھون دول چہہ ۔ بیہ چہہ سہ
بیچہ بھکانہ ۔

وہی چہہ آس مؤمن دنان نہ کیا ویک نام چہنا
پہندہ دل نمان اللہ (تعالیٰ) ہند ذکر خاطر
تہ تہ کلامہ باپتہ یس حق (تہ حکمت) ہتہ
ووتھمت چہہ ؟ بیہ (مؤمن) پتہ زہ تم بن

قُلُوْهُمُهَا وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَيَسْقُوْنَ ۝۱۰

ہے بہن لوگوں ہند کر پائے ہو۔ بہن بہن ہر وہیہ کتاب
دینہ آموثر آس۔ اماہ پوز (تعالیٰ) سداہ سداہ فضل نمازل
گڑھک (زبانہ سپد تہند خاطر زلیطہ - سیدہ
بکی تہند دل سجت کے ہر ہمو منتر آس
دارباہ فاسق بنے ہوتے۔

یاد تھو نہ اللہ (تعالیٰ) چھ زمیں تمہ کہ
مرنہ پتہ زبند کران۔ اسہ چھ تہند خاطر پتہ
بشاہ واش کدی کدی بیان کرے ہوتے۔ یہ زن
توہی عقلہ کام ہتیو۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتَىٰ إِلَهُكَ وَإِلَهُكَ
مَوْتُهُمَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ۝۱۱

بے شک صدقہ دینہ والہن مردن تہ صدقہ
دینہ واجنن زنانن بیہن لوگوں کیو اللہ (تعالیٰ)
بند خاطر پسند مالہ منتر اکھ رت حصہ تہ
الگ کوزمت آسہ، تہند مالین تہند خاطر
ہر راونہ، تہنن یہ عزت وول بدلہ دینہ۔

إِنَّ الْمَصْدِقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَبُوا
إِلَهُ قَرَضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ
لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝۱۲

یہ کیو اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹہ تہ تہند لوگوں
پیٹہ ایمان اون تہ چھ پنشن پروردگار س بخش
صدقہ تہ شہیدن ہند مقام لین اول، بہن
میلہ تہند پور پور بدلہ، یہ تہ پائے میلہ بہن
تہند لور تہ تم لوگہ پو کھر کور تہ سانی آہ
ایڑا وکھ تم آس جہنی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ
هُمُ الصَّادِقُونَ ۝۱۳ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ
رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝۱۴

اسے لوگو! زانو زونہ ہر زبندگی چہند محض اکھ
گندن تہ دل رنر ناوتک چہر۔ یہ چہند پارا
حاصل کرنک تہ پانہ وانہ تمہنا ونگ تہ اکھ
اکس پیٹہ ماس تہ اولادن منتر بحر وانگ باعش۔
ایچ حالت چہند روڈ سستی وہ پدن والہ زراعت
ہش سیک وہ پدن زمیندارس خوش کران چھ
تہ پتہ چہر (سہ وومدن) زب پائے زعہ ماران مگر
چہن زسہ لیدریرس پیٹہ (نزریوت) وچہان۔ تو
پتہ چھ سہ گوشت چہر چور سپدن تہ مخرس
منتر چہ (بہن دنیا دارن ہند خاطر) سجت

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتَىٰ إِلَهُكَ وَإِلَهُكَ
مَوْتُهُمَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ۝۱۱

عذاب مقرر ہے کینٹرن ہندہ خاطر چھ اللہ تعالیٰ
ہندہ طرفہ مغفرت ہے (خدا تعالیٰ سند) رضا مقرر
تہ یتیم و دنیا بیچ زندگی چھتہ صرف اکھ فریب
وہ وول ٹائیڈ۔

اے لوگو! توہی بڑو ووزھ سان سینس پروردگار
ہندہ طرفہ پیوہ وائس مغفرتس تہ تھس جنس
گن۔ نیکی مومل ساری آسمانہ کس تہ زمینہ
کس مومل برابر چھ۔ تہ لیس اللہ تعالیٰ

تہ تہندس رسولس پیوہ ایمان ان واپن ہندہ
خاطرہ جوہر کرتہ آمت چھ۔ یہ چھ اللہ تعالیٰ
سند فعل، سہ یتیمس پسند کران چھ تس چھ
دولان، بیہ چھ اللہ تعالیٰ) بڑ فضلہ وول۔

زمینس پیوہ چھتہ کانہہ مصیبت یوان تہ یہ چھ
تہندین زون پیوہ کانہہ مصیبت یوان مگر تمہ کہ
ظاہر سپدن تہ بروٹھ چھ اسہ سہ مقرر کورمت
آسان۔ یہ کتہ چھتہ اللہ تعالیٰ) ہندہ خاطر بیکل
سہل۔

یچہ زن توہر پینتہ کو تاہی پیوہ کانہہ افسوس
سپدن تہ نہ سپدو توہی تھہ پیوہ خوش۔ توہر
اللہ تعالیٰ) دیو، تہ اللہ تعالیٰ) چھتہ پرچہ
ترھو کہ باون وائس تھیکن وائس پسند کران۔

تھہ لاکھ یکم پانہ تہ بھلی کام ہوان چھ تہ بین
تہ چھ بھلی بھینتاوان۔ بیہ میں شخصس یتیم لغتہ
نشہ بھہ پھر، اہ یاد تھون ز اللہ تعالیٰ) ہے
چھ پڑو پاٹھو بے نیاز تہ پزین تھون ہندہ تھہ
اسہ چھ پیوہ رسول طاکر نشانہ ہتھ سوزو تو
بیہ تھن ستی چھتہ کتاب تہ میزان تہ تا نول
گر مہتر یچہ زن لاکھ انصاف کران آس۔ بیہ
چھ اسہ ششہر تہ تا نول کورمت۔ یچہ منز
شدہ جنگل سامانہ چھ۔ بیہ لوکن ہندہ خاطر

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ
أَعَدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۷۰﴾

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ
نَبْرَأَ آهَادًا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۷۱﴾

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا
تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَلِفٍ قَلْبًا ﴿۷۲﴾

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ ۗ وَ مَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْعَنِيُّ الْاَحْمِيذُ ﴿۷۳﴾

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ
أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ ۖ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۖ

دُسَلَكُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۱۹﴾
 بیہ تہ کھو یا نفع چھو۔ تہ (یہ سورسے چھو او
 کھو پاؤ کو دست نہ) اللہ (تعالے) زانہ نہ تہنہز
 تہ تہنہز رسولن کس چھو غائب چہر حالہز مشر اتھ
 روٹ کوان تہ اللہ (تعالے) چھو بڑ طاقتہ دول
 (تہ) غالب۔

بیہ اسی آسہ نوح تہ ابراہیم تہ رسول بناوتھ سوزی متہ۔ بیہ
 تہنہز ڈریہ سوزی اس نبوت تہ کتاب مضمون تھاوتہر اذکینہ
 اسی تمومنز بدایت لبس والی تہ واراہ لکھ اکر تہن منرفاسق۔

پتہ سوزی اسہ تہنہد (یعنے نوح تہ ابراہیم سہلو
 اولادو) پتہ پتہ رسول تہنہدس نقش قدس پیٹھ
 پکتاوتھ۔ تہ عیسی ابن مریم تہ پکتو تہنہدس
 نقش قدس پیٹھ بیہ بخشاوتس انجیل تہ مریم
 تہنہد پارو کھنے یہ اسہ کمر تہنہد بن دین مشر
 شفقت تہ رحمت پاؤ تہ تمو پروو انہر روزنگ
 طلقت۔ یہ پروو تمو پانے۔ اسہ اوس نہ یہ
 حکم تہن پیٹھ فرمن کورمت۔ (اگرچہ) تمواوس
 اللہ (تعالے) ہنہز رضامندی حاصل کر تہ تمو کھ
 یہ طریقہ اختیار کورمت۔ گمراہی پور لحاظ
 ہنو کھ نہ تھاوتھ۔ او تہن مشریم مؤمن اسی
 تہن بخشو اسہ مناسب حال اجر تہ تمومنز
 اسی واراہ فاسق تہ۔

اسے ایمان والو! اللہ (تعالے) سہد تعوی پر او
 بیہ اڑو تہنہدس رسولس پیٹھ ایمان تیلہ دیو تہ ہہ
 اللہ (تعالے) پتہ رحمتہ مشر دہ گنہ لوگ تہ
 تہنہد خاطر کر نوز مقرر۔ بیہ کہ مدد سستی توہم
 پکو۔ بیہ کر تہنہد گنہ ناہ معاف۔ تہ اللہ (تعالے)
 چھ سہٹھا بخش نار (تہ) اچھہ روس رحم کرن دول۔

تہ یہ چہر اسی او کھ زانان نہ یقہ نہ اہل کتاب
 یہ زانن نہ مسلمان بیٹھو نہ اللہ (تعالے) ہنہد


وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَ
 جَعَلْنَا فِي دُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ
 الْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثِيرٌ
 مِنْهُمْ فُسِقُونَ ﴿۲۰﴾

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا
 وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ
 آتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَ جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
 اتَّبَعُوهُ رَاقَةً وَ رَحْمَةً وَ رَهْبَانِيَّةً
 ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا
 ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا
 حَقًّا رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ
 آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ كَثِيرٌ
 مِنْهُمْ فُسِقُونَ ﴿۲۱﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
 آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنَ
 رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ
 بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۲﴾

لَيْسَ لَكَ بِمَنْ يَعْلَمَ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَفْقِرُونَ
 عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ أَنَّ

الْفَضْلَ بِإِذْنِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ تَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰﴾
 فضلہ مثل کوئی تر۔ بلکہ زانن نے فعلیٰ بہتہ
 اللہ (تعالیٰ) سندس اتمس مثل، یس بیشہ صان چھ
 دوران چھس تر اللہ (تعالیٰ) چھ بڑی فضل کرن وول۔



سورة مجادلہ، یہ سورہ چھ مرتبہ تو بسم اللہ بہتہ چھو اتھ تر وڑوہ آہیہ بیہ چھس تر تریہ رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سندن او بہتہ (پر ان) یس
 حد رؤس کرم کرن وول (تر)، پھیری پھیری رحم کرن
 وول چھ۔

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي نَادَىٰ
 تَجَادُلًا لَكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ
 وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ
 سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۲﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن بوزتس زوانہ ہند دعا یو سہ
 پینس خاوندس نسبت تریہ سوتی مجادلہ لگان اوس
 بیہ اوس اللہ (تعالیٰ) ہس فریاد کرن۔ تر اللہ
 (تعالیٰ) اوس توہر دلفونی ہنرکتہ ہاتھ بوزان۔
 اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً سہا بوزن وول (تر)
 وچھن وول۔

(او کوئی تھو ویا در) توہر مثلہم لاکھ پینہن
 آشنہن موج ورن، او تہر ونہ سوتی چھہ
 تہر تہنر ماجہ سپان۔ تہنر ماجہ چھہ سہ
 یو تہن زکم دیت مت چھہ تر (یہ کیشہا تہم
 غلطی سوتی ونبہہ مٹھان چھہ تہن ہند حقہ چھہ
 ہیکان بی ونبہہ تہر) تہم بیہ اکھ ناپندیدہ
 تر ایڑ کتہ ونان تر اللہ (تعالیٰ) چھہ تہنر
 سہا معاف کرن وول (تر) سہا بخش مار۔

بیہ تہم لاکھ ہم پینہن آشنہن موج ونان چھہ
 او تہر پتہ (خدا تعالیٰ سہن تھاک کرنہ باوجود)
 یہ کیشہا تہم و نیا و تہہ کمن چھہ پھہ تہ یوان۔
 تہن ہند خاطر چھہ ضروری تر تہم کرن اکھ غلام
 آزاد امر بروٹھ تر تہم دہلے (باز) چھوہن

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ
 مَكَانَهُنَّ أَهْلَهُنَّ وَإِنْ أَهْلَهُنَّ لَا
 الْيَعْلَمُونَ وَلَكِنَّهُنَّ لِيَقُولَنَّ مِنْكُمْ
 مِنَ الْقَوْلِ وَرُءَاوِ إِنْ اللَّهَ كَفُوْا عَفُوْرٌ ﴿۳﴾

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
 نَمَّ يَخُوْدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكَ مِنْكُمْ تَوَعَّظُونَ
 بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۴﴾

اکھ اُکس - یہ چھید سو رکھتے (سینچ توہ بہ لہجہمت
کرنہ یوان چھو - تہ اللہ (تعالے) چھ تہند ہن
اعمالن ہند زبر پانٹھو خبردار -

تہ ووفی یس (علام) بدس پیہ ہن سہ
رؤن متواتر دون رہن روزر ، تمہ
بروٹھ نہ تم لائن اکھ اُکس اتھ - تہ یس یہ
طقت تہ آسہ ہن تہ سہ کھیوان شیٹھن مسکین
کھین - یہ (حکم) چھ او خاطر دہن آمت)
یچھ (زن) توہی اللہ (تعالے) تہ تہندس رسولہ
سبز کتھ آسو مانان - تہ یکم چھ اللہ (تعالے)
ہندہ حد - یہ چھ کافر ہندہ خاطر وگوار
عذاب مقرر -

یکم لکھ اللہ (تعالے) تہ تہندس رسولہ ہندس حکم
خلاف گزھان چھ تم بین ذہیل کرنہ یچھ پانٹھو
ہن بروٹھ لکھ ذہیل کرنہ آہ - تہ آسہ چھ ہن
نئی حکم نازل کرے مگر - تہ یکم لکھ (بین واضح
حکم ہند) نکار کرن ہن واتہ رسوا کرن دول
عذاب -

ہنیر وہ بہ اللہ (تعالے) ہن ساری نے سوز براتہ
تہ تہندس ہن اعمالن ہن خبر وہ یکم اللہ
(تعالے) ہن گنزر راتہ تھا وک ہن چھ مگر ہن
چھ ہن مشر اوتھ ذہنی مگر - تہ اللہ (تعالے)
چھ ہن چھ ہن پانٹھو ہن

خرید پچھ ناپے نہ آسان تہ زمینہ منزیر کیشھا
تہ چھ اللہ (تعالے) چھ تہ زمان - و ذہیس
منز چھ کینہ ترید انسان بیون مشور کرن اول
آسان - ہنیر سہ (اللہ تعالے) تہند ذہورم آسہ
نہ ، تہ نہ چھ پانٹھ مشور کرن اول آسان ہنیر
سہ تہند تہندیم آسہ ہن تہ امر گنیز ہن کم
آسہ تن یا جاو مگر سہ چھ (پر چھ صورتس منز)

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآتَا ۖ فَمَنْ
لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيْنًا
ذَلِكَ لِيَتَذَكَّرَ اللَّهُ وَأَسْأَلَهُ ۖ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَاللَّكُفْرِيْنَ عَذَابُ أَلِيْمٌ ۝

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
كَيْتُوًا كَمَا كُيْتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّكُفْرِيْنَ
عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ
بِمَا عَمِلُوْا ۖ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوْهُ ۗ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ
مَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلَاثَةٍ
إِلَّا هُوَ رَاِبِعُهُمْ ۚ لَا يَخْمَسُهُ إِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ ۚ وَلَا آدٰى مِنْ ذٰلِكَ ۚ وَلَا
أَكْثَرُ ۚ إِنَّ هُوَ مَعَهُمْ آيْنَ مَا كَانُوْا ثُمَّ
يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فانشُرُوا
يَزْفَحِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۷﴾

اللہ (تعالیٰ) تیرے کہ تمہندے باپتھ کشتاوی ہندے
سامانہ پیاو تہ میلے توہہ وتہہ بیوہ زوہو تہ
وہ تعالیٰ مسوزو۔ اللہ (تعالیٰ) ہر راوہ تمہن
درجاتن مشریم زن مؤمن چہ، تہ حقیقی علم
تھون اول چہ۔ بیہ اللہ (تعالیٰ) چہ تہہ تہہ
اعمالو نشہ زبر پامٹو خبردار۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَجَئْتُمْ
الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطَهْرٌ فَإِنْ
لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۸﴾

اے ایمان دارو! میلے توہی رسولس نش اوکپور
رؤزتھ مشور کرن یشہو تہ پسنہ مشورہ
برونٹھ آسو کیہہ صدقہ دولان۔ یہ آسہ تہہ تہہ
باپتھ جان بیہ آسہ دس پاک کرنک باعت۔
(مگر یہ حکم چہ تہہ ہندے خاطر بین تولیق آسہ)
اگر توہہ (کا تہہ چیز تہ صدقہ خاطر) بیوہ و تہہ
(تہ کیہہ فکر چہنہ) اللہ (تعالیٰ) چہ سبٹھا بخش دول
(تہ) چہہری چہہری رحم کرن دول۔

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ
تَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ إِذَا ذَلَمْتُمْ فَفَعَلُوا
تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾

کیا توہی کھوتی وا مشور کرنہ برونٹھ صدقہ دہہ
نشہ؟ اگر توہہ تہ کورو تہ تہ اللہ
(تعالیٰ) ہن چہ توہہ پتھ فضل کورمت، لہذا
توہی کرو نماز تقایم بیہ دیو زکوٰۃ بیہ کرو اللہ
(تعالیٰ) ہس تہ تہہ رسولس اطاعت تہ یہ
کیہہ صا تہ توہی کران چہو اللہ (تعالیٰ) چہ تہ
زبر پامٹو زانان۔


أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا
يُؤْمِنُ بِهِمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿۲۰﴾

کیا تہہ وچہتہاہہ تمہن لوکن کن تہ میوہ تہہ
توس سبتو یارابہ کور بین پتھ خداین غضب
تازل کورمت اوس۔ پتھہ لوکہ نہ چہ توہہ
مشر نہ چہ تہہ مشر تہ تم چہہ اپزہن سکتھن
پتھہ رائتہ مانہہ قسم ہوان۔

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ
سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾
لَاتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۲۲﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن چہ تہہ تہہ سہمت عذاب
تیار کرتہ تھومت۔ تہہندے اعمال چہہ سبٹھا ناکارہ
تہو چہہ پتھہ قسم رسپر بناو کہوت۔ تہ تم چہہ دیوہ
قسمو سبتو، اللہ (تعالیٰ) ستر و تہہ نشہ (لوکن)

حُزِبَ اللَّهُ لَهُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۹﴾ ﴿۵۹﴾
 ہمن ہتھین جنتن مفر قائل بین مفری ہاگی
 کولہ پکان آسن۔ تم گڑھن ہمن مفر روزان۔
 اللہ (تعالے) سپد ہمن راضی تہ تم گے اللہ
 (تعالے) ہس راضی۔ تم چھ اللہ (تعالے) ہتر
 جماعت (تہ) بوزتھ تمھو نر اللہ (تعالے) سند
 دورے چھ کامیاب سپدان۔



سورۃ حشر، سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ پندرہ آیہ ہتھ چھیں تہ تیرہ رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾
 سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲﴾
 هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ
 مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ
 مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَهُمُ
 اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۚ وَ
 قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ
 بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي
 الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي
 الْأَبْصَارِ ﴿۳﴾
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (پران) لیس
 حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رجم
 کرن وول پتھ۔
 آسمان تہ زمیں مفر یہ کثیرھا چھ، تہ چھ اللہ
 (تعالے) ہنر تہیح کرن تہ سہ (اللہ تعالے)
 چھ غالب (تہ) حکمت وول۔
 سے (خدا) چھ تیمو اہل کتاب کافر کو دیکھ
 جگہ ویر تہندو گرو مفر کڈی تہ تو ہر مسود
 نو خیال کرن نہ تم نیرن۔ تہ تم مس خیال کرن
 نہ تہندو تہلیہ بچاون ہمن اللہ (تعالے) ہس تعالہ۔
 تہ اللہ (تعالے) او ہمن ہش تیارک تیارک تہ
 ہمن گمانے اوس تہ تہندو دن مفر تروان ہن۔
 تم مس پتھر گھر اکثیرھا، پنچو اتھو تہ اکثیرھا،
 مؤمن ہندو اتھو سوتی خراب کرن۔ لہذا اسے
 سوچ سمجھ تھاون واپو لوگو! عبرت لو۔

لہ بیتہ آیس مفر چھ تہ جگہ ذکر بیتہ مفر مدینہ شریف مشر روزان وول یہودی قبیلہ
 بنو نضیر مسلمان سوتی جنگس ورا یو۔ (فتح البیان)
 لہ یسیاہ باب ۲۳ آیت ۱۷-۱۸ ہس مفر چھ لکیتھ زاکس موقعس پیٹھ یہودی بین ملک بدر کرنہ۔

لَعَذَابُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
عَذَابٌ النَّارِ ۝

فرمن کر تھ آسو ہے نہ تھومت تہ تمہن دیہ ہے
یتھ دنیاہس منز تہ عذاب تہ اترتس منز چھ
تہہندہ خاطر جہنمک عذاب گند تہ۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ
وَ مَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ
العِقَابِ ۝

یہ سورسے کیہہ سپد او کئی نہ ہو کور اللہ (تعالے)
تہ تہندس رسولس سبتو اختلاف تہ لیس اللہ
(تعالے) ہس سبتو اختلاف کرس تہماون یاد نہ
اللہ (تعالے) سبند عذاب چھ کر لو تھ آسان۔

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْتَةٍ اَوْ نَرَكْتُمْ هَا
قَائِمَةً عَلَىٰ اُصُولِهَا فَبَاذِنِ اللّٰهُ
رِيْحًا زَيِّ الْفَيْسِقِيْنَ ۝

توہہ ترؤلو نہ کھنر سکن ہند کا تہہ مول یا کا تہہ کل
تروو نہ استاد پتہن مولن پٹھ۔ مگر یہ اوس (سورہ)
اللہ (تعالے) ہند مکھ سبتو۔ بیہ اوس او کئی نہ نافرمان
ہن رسوا کر تہ۔ لہ

وَ مَا آفَاءَ اللّٰهُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا
اَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لَا رِکَابٍ
وَ لِحَبْلِ اللّٰهِ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ
يَشَآءُ ۗ وَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

بیہ یہ کیہ تھا مال اللہ (تعالے) ہن تمہن (بھتر
چھرن لوکن) ہند پنس رسولس بیت (توہہ
چھو پی نہ) توہہ دو ناو کو تہ پتو گری تہ اوٹ
سہ مل حاصل کر تہ خاطر۔ و دنی گوو اللہ (تعالے)
چھ پتہن رسولن مالک بناون سبیک تہ سہ
ہترھان چھ بیہ چھ اللہ (تعالے) ہر تہ چیزس
پٹھ تہاور۔

مَا آفَاءَ اللّٰهُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى
فِىْهِ وَّ لِلرَّسُوْلِ وَّ لِذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى
وَ الْمَسْكِيْنَ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۗ كٰى لَا
يَكُوْنُ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَ مَا اَتٰكُمْ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهَا وَ مَا
نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۗ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

بیتہن ہندرن لوکن ہند لیس مال اللہ (تعالے)
ہن پنس رسولس عطا فرموو، سہ چھ اللہ (تعالے)
سہ، بیہ (چھ) رسولس سہ، بیہ (چھ) اشناون
ہند، بیہ (چھ) پتہن ہند، بیہ (چھ) مسکین
ہند تہ مسافرن ہند۔ یہ تہہ سہ مل تہہن ہن
مال وارن منز پھیران روزہ بیہ رسول یہ کیہ تھا
توہہ دیو تہ رلو تہ ہتہہ ہتہہ سہ منع کر و تہہ
ہتہہ روزو زلو پتہہ۔ تہ اللہ (تعالے) سہ تقوی
پہاوو۔ اللہ (تعالے) سہ عذاب چھ بے شک
کر لو تھ آسان۔

لہ اتھ ایس منز تہ چھ ہودی قبیلہ بنو نضیرس سبتو جنگلک ذکر۔
لہ بیہ خیر کن مینو دین ہندو گام۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَ
يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ﴿١﴾

یہ (مال) چھ (ہیر میو لوکو علاو) مہاجرین
بند حق یم تہندبو مرو تو مالو نشہ (بے دخل کر کے)
کڑھتھ تر ہنہ آموتر اسی۔ تم چھ اللہ (تعالیٰ)
سند فضل تو سند رفا یشہان بیہ چھ (ہمیشہ)
اللہ (تعالیٰ ہند و نیگ) تو تمکو ہندس رسولہ
سند مدد کران روزان۔ تے لوکھ چھ (ایمان منتر)
پڑیاری۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ
قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ
لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا
أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ
كَانَ بِهِمْ خَصَّاصَةٌ لَنَادَوْا مَنْ يُؤْتِي
شَيْئًا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿٢﴾

یہ (یتھے پانچو سہ مال چھ بہن لوکن ہند خاطر
تہ) یم مدینس منتر برونہ پٹھے روزان اسی
تہ جو اوس (مہاجرین ہند پینہ برونہ) اپان
قبول کورمت تو بہن سستی اسی محبت کران یم
بہن کن ہجرت کر کے آپہ تہ پینن دن منتر اسی
تہ چھ (یعنی تمہ مارچ) کونہ یشہ تھوان یہ
بہن دنہ آمت اوس ، تہ پانہ غریب آستہ باوجود
اسی تم مہاجرین پینن نفس پھٹ تریج دول۔
تہ یم لوکھ پینہ نفسہ چھ بھلی نشہ بجاوہ پین
ہتھو ساری لوکھ چھ با مراد سپدن اول۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ
رَحِيمٌ ﴿٣﴾

یہ یم لوکھ تہندہ زمانہ پتہ آپہ تم چھ ونان ،
نہ اے ساتھ پروردگار ! اسہ تہ بخش تہ ساہن
بہن باہن تہ و بخشیش یمو اسہ برونہ ایمان
اونمت چھ ۔ یہ ساہن دن منتر مؤہن خلاف
کپتہ پاد گرشہنہ مہ ۔ اے ساتھ پروردگار !
تہ چھکھ سہٹھا مہربان (تہ) اٹھہ رؤس رحم
کران وول۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَافَقُوا يَقُولُونَ
لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ
مَعَكُمْ وَلَا نُنْطِيقُ فِيكُمْ أَحَدًا

کیا تریہ و چھتھنا تم متناق ؟ یم اہل کتابو
منتر پینن کافر باہن ونان چھ نہ اگر توہم
(مدینہ منتر) کڑھتھ تر ہنہ آمو۔ تہ اسی نیرو
توہر سستی تہ توہر خلاف مانو نہ نہٹھ کانسہ

أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرْكُمْ، وَاللَّهُ
يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۷۱﴾

مترجمہ۔ یہ ہر گاہ تو ہم سستی جنگ کرنے آؤ
تو اُسے کرو تو ہم مدد دے گا اللہ (تعالیٰ) چھ
گواہی دہن نہ تم چھ اپنی یاد۔

لَئِن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ
وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ، وَلَئِن
نَصَرُوهُمْ لَيُؤَلَّنَّ الْأَذْبَارُ ثُمَّ لَا
يُنْصَرُونَ ﴿۷۲﴾

یو دے ہم (اہل کتاب) گڈتھ ترہینہ آہ تہ
ہم (منافق) نیرن نہ نہینہ ہمن سستی ترہ گاہ
ہمن اہل کتاب) سستی جنگ کرنے آؤ تہ ہم منافق
کرن نہ ہمن نہینہ اتھ روٹ۔ تہ ہر گاہ اتھ
روٹ کرن تہ، او (تہہ اپنی دلہ کرن نہ) جنگ
سید وئے ترن تھہر پھرتھ۔ تہ (تم کیا ہ اتھہ
روٹ کرن تہند) ہمن آسرتہ پاس کا نہ اتھہ
روٹ کرن ول۔

لَا تِلْكَ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ
اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۷۳﴾

(اے مومنو!) تہند ہم چھ ہمن (منافقن)
ہندن ولن منن اللہ (تعالیٰ) سہند کھوتہ تہ جاؤ
یہ کتھ چھیا او خاطر نہ سہ چھ اکھ تہیہ دور
ہمن کینہ لکری پھینہ تران۔

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَدَرٍ
مَّحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ ذَرَاةٍ جُذُودٍ بِأَسْهُمٍ
بَيْنَهُمْ شَدِيدًا تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا
وَلَا قُلُوبُهُمْ شَيْءٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْقِلُونَ ﴿۷۴﴾

تم کرن نہ نہینہ توہہ سستی جنگ اہہ وراہی نہ
تم آسن مضبوط قلابہ والین گاسن منن یاد یوران
ترہا پہ پتھ۔ تہنہن لڑائی چھیا پانہ وائی کر پھ آسان
تہ چھہک ہم اکھ (مستحد) قوم زمانان دچھ پوز
تہند دل چھ چھہ چھانگہ یہ چھ او کب نہ سہ چھ
تہیہ قوم ہمن تہ عقل چھیا ہی۔

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا
وَبَالَ أَمْرِهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۵﴾

تہنہ حال چھ ہمن (قومن) ہندک پانگہ ہم ہمن
برونٹھ حال حالہ زمانن منن گڈرے ہتو چھہ۔
تمو وچھہ پنہن کرتون ہند انعام تہ ہمن دوت
کر لوتھ عذاب۔

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ
اٰكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ رَبِّ بَرِّئْ
مِّنْكَ رَبِّ اٰخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۶﴾

تہ ہمن (منافقن) ہنن حالت چھیا شیطانس سستی
رلان نیلہ زن سہ انسانن وان چھہ "کفر کر"
او نیلہ سہ کفر کرن چھہ تہ ہمن چھہ وان ہر چھس
ترہ نش بری۔ ہر ہے چھس اللہ (تعالیٰ) اس
کھوتن ہن سارک نے عالمن ہند پروردگار چھہ۔

كَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ
خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَا
الظَّالِمِينَ ﴿۵۹﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۶۰﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿۶۱﴾

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ
الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۶۲﴾
لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ
لَّرَأَيْنَاهُ كَخَشَعًا مَّتَصِدًّا مِّنْ خَشْيَةِ
اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُصِرَ بِهَا لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۶۳﴾

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ﴿۶۴﴾

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۵﴾

لہذا تمہیں دونوں ہی ہند انجام چھہ یہ آسان نہ تم دونوں
چھہ جہنمیں سہلان تہہ شہتو مشر گر شہن روزانہ
تہہ یچھہ چھہ ظالمن ہند بدلہ آسان۔

اے مومنو! اللہ (تعالیٰ) سُنَد تقویٰ پر آوو بسہ
پہر نہر پر تہہ زو تہو اتھ کتھہ پہنہ نظر نہر تمو کیا
چھہ پگہ ہر خاطر بروٹھ سوزمت تہہ تو ہو ساری
پر آوو اللہ (تعالیٰ) سُنَد تقویٰ۔ اللہ (تعالیٰ)
چھہ تہندو اعمالو نشہ نہر پیا تھر خبردار۔

تہہ تمہن لاکن ہند پکھو پہہ تہو یو اللہ (تعالیٰ)
مشر آوتھ تر شہن۔ او اللہ (تعالیٰ) ہن تہہ مشراو
نوہ تمہن سپنہن زون ہند قاید۔ یکے لاکھ چھہ
فرمانبرداری نشہ نہر تہن و اول۔


جہنمی تہہ جنتی ہیکن تہہ ہوئی اُبتہہ۔ جنتی لوکھے
چھہ کامیاب آسان۔

اگر یہ قرآن اسی گنہ کو پس پیچھہ نازل کر ہون
تہہ تہہ و چھہک نہر سہ نمہ ہے (ادبہ سان) تہہ اللہ
(تعالیٰ) ہند بہر سوسو گرتھہ ہے چھہ چھہ تہہ
ہم کتھہ اسی تہہ وان چھی، یہہ چھیہ سارک
ہے انسان ہند خاطر نہر تہہ تم سرن سوچن۔
اللہ (تعالیٰ) ہے چھہ نہنیں ورا لی کا نہہ معبود
چھہ سہ چھہ قاید تہہ حاضر (دولتے) زانان۔
سے چھہ حد رُوس کرم کرن اول (تہہ سے چھہ)
چھہرک پھہرک رحم کرن اول۔

(حق چھہ یہ نہر) اللہ (تعالیٰ) چھہ سہ نہنیں ورا لی
کا نہہ معبود چھہ، سہ چھہ بادشاہ، سہ چھہ (پانہ تہہ)
پاک (تہہ بین تہہ چھہ پاک کرن) پر تہہ عابو
نشہ چھہ (پانہ) سلامت۔ (بہر چھہ بین تہہ سلامت
مقولان) سارک نے چھہ امن دہر اول تہہ سارک نے
ہند چھہ بمران۔ غالب چھہ تہہ سارک نے چھوڑ مسہ
تہہ دن بہتہ جوران۔ بڑ شاپہ اول چھہ۔ ہم

چیز ہم لوگ تندر شرکپ گنہگاروں بچھو تمہو
 بشتہ چھ اللہ (تعالے) پاک -
 (حق چھ میں نہ) اللہ (تعالے) چھ پر پرتھ چیز
 پاؤ کرن وول۔ بیہ چھ پر پرتھ چیز ایجاد کرن وول۔
 بیہ چھ پر پرتھ چیز تمہ کر حالہ مطابق صورت دہن
 وول۔ تس چھ سبھ ہے رہتی صفات۔ آسمان
 تہ زمیں منتر یہ کیشھا چھ (تہ) چھ تسہر تہ
 کرن بیہ چھ سہ غالب (تہ) حکمتہ وول۔

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
 السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ﴿۱﴾



سُوْرَةُ الْمُتَحَنَّةِ اِيه سُوْرَه چھ مدنی تہ بسم اللہ پرتھ چھ اتھ تھوڑا آیت تہ بیہ چھس تہ رکوع۔

(بیہ چھس) اللہ (تعالے) سہ ناو پرتھ (پران) یس
 صہ زوس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر کرم کرن
 وول چھ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

اے مومنین! میاں تہ پینز دشمن مہ اسیلوگہ جانی
 دوست بناوان۔ توہی تہ چھو متن کن محبتکو پیغام
 سوزان حالکہ تم چھ تمہ پیزر کنکر یس تہ ہر
 کن امت چھ۔ تم چھ توہر تہ تہ رسولس تہ
 صرف امہ خاطر (گرو منتر) کڈان نہ توہر ساکوہ
 اولو اللہ (تعالے) ہس پتھ ایمان یس تمہند
 پروردگار چھ، اگر توہی میانہ وتہ منتر کوشش کرن
 باپتہ تہ میاں رضامندی تھانڈنہ خاطر تہرو، تہ
 تہہر منتر چھ کہینہ تہور تہور متن محبتکو پیغام
 سوزان تہہ تہ توہی کھتہ تھوان چھو تہہ تہ توہی
 نون کڈان چھو تہ سورے چھس بہ زہر پانچ زمان
 تہ یس کاشھا تہہہ منتر پتھ کام کر سہ زہن
 نہ سہ ڈول سینر وتہ نشہ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا
 عَدُوِّيْٓ وَّ عَدُوْكُمْ اَوْلِيّٰٓءَ ثَلُفُوْنَ
 اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا
 جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ
 وَّ رِيّٰكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رِیْكُمْ ۗ
 لِاَنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِ
 وَّ اِبْتِغَاءَ مَرْضٰٓئِيْ ۙ تُسَيِّدُوْنَ اِلَيْهِمْ
 بِالْمَوَدَّةِ ۙ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَّمَا
 اَعْلَنْتُمْ ۗ وَّمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ
 سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱﴾

یوڑوے تم توہر پتھ دس لین تہ توہی زانوہر تم

اِنْ يَتَّخَفُوكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءٌ وَّ

يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنْتَهُمْ
بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ
بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي
إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا
لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُكُمْ وَمِمَّا
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ
بَدَأْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْكَوَاثِبَ وَالْبُخَصَاءِ
أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا
قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ لَا سَتُغْفِرَنَّ لَكَ
وَمَا أَمِلْتُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَرَبَّنَا
عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ ﴿١٢﴾

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَاعْفُزْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿١٣﴾

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ
كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَآمَنَ
بِئْتَوَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٤﴾

چہ تہندری دشمن تہ تہنتر تباہی خاطر چہ پیڑا تہ
تہ زبہ زہیراوان۔ تہ تہنتر بیترے چھینہ یہ
روزانہ تہ تہہ سپدو کا فر۔

توہہ نہ تہ تہہ لہ تہندری ڈنہی م تہناو تہ نہ
تہندری اولاد قیامتہ کہ وہہ ہنغ وائتاوتہ، تہہ
وہہ کہ خدایا قاصدہ تہ اللہ (تعالیٰ) چہ تہندری
اعمال تہ پائمر وچھان روزانہ۔

ابراہیم تہ تہندری ستر باجین مفر چہ تہندری خاطر
اکہ ست نمونہ موجود نیلہ زن اتمو پنس نووس و نیاو
تہ اسی چہ توہہ تہ اللہ (تعالیٰ) ہس ورا تہندری
معبودن پور پور بے زار۔ اسی چہ تہنتر کن
انکار کران۔ بیہ اسہ تہ توہہ مفر باگ چہ عدلوت
تہ یقین تہہ ولس تمام خا ہر سیدتہ یوتام (نہ)
تہہ خدایس پیٹہ ایمان اہو۔ چہ پور اسی چہ
ابراہیم سندسہ وعدہ لیس تہ پنس تہس ستر
کوزمت اوس (اوپور) تراوان۔ سہ اوس یہ نہ
یہ کہ چاہہ خاطر استغفار ضرور۔ مگر اللہ (تعالیٰ)
ہس مقابہ آپس نہ یہ تہہ کہ تہہ مدکرتس
پیٹہ تاور (بیہ وون ابراہیم یہ تہہ) اے سانہ
پروردگار! اسی چہ تہہ پیٹہ توکل کران بیہ
چہ تہہ کن نمان۔ بیہ چہ تہہ کن اسہ پھرتہ
عزتہن۔

اے سانہ پروردگار! اسہ مہ بناو کاقرن ہندہ
باپتہ فتنگ باعث تہ سانہ خطا کر معاف۔
اے سانہ پروردگار! تہ چھاکہ سدھا غالب (تہہ)
حکمتہ وول۔

بس لوکن مفر چہ تہندری خاطر اکہ سدھا رت
نمونہ یعنی تہہ پر تہہ شخصہ سندی خاطر نیس اللہ
دتعالیٰ تہہ اترنگ وہہ وچھنغ وہہ میدتھاوان
چہ۔ تہہ لیس کانرھا تہہ مہر تہہ تہاوان یاد

نر اللہ (تعالے) چھ بے نیاز (تہ) برین تعزین
ہند چھ حقدار۔

جلد ہے آسہ وقت نر اللہ (تعالے) کر توہمہ تہ
ہتمن لوکن در میان یم کافرو منتر تہندہ دشمن
چھ، محبت پاؤ۔ تہ اللہ (تعالے) چھ اتھ پیٹھ قار
بہ چھ اللہ (تعالے) بوڈ بخش مار (تہ) ام چھ
رؤس رحم کرن وول۔

اللہ (تعالے) چھو تہ توہمہ ہتمن لوکن سوتی نکلی کرنہ
تہ العساک سلوک کرنہ نشہ ٹھاک کران پچو توہمہ
سوتی دینی اختلاف کرنہ نہ کر لڑائی تہ نہ کر لڑی ہو
توہمہ تہندہ گرو منتر۔ اللہ (تعالے) چھ انصاف
کرن والین سوتی ماٹھنیار کران۔

اللہ (تعالے) چھو توہمہ صرف ہتمن لوکن (سوتی
دوتی کرنہ) نشہ ٹھاک کران پچو توہمہ سوتی دینی اختلافہ
کرنہ جنگ کوز بہیمو توہمہ گرو منتر کوزی و۔
یا تہندہ کڈنس پیٹھ کوزہ تہندہ دشمن مددا
تہ یم لوکھ تہ بتیقہن لوکن سوتی یارانہ لاکن تم
پچھ ظالم۔

اے مومنو! سبیلہ توہمہ نش مومن زنانہ ہجرت
کر تہ بین تہ تم اسیلوکھ بری پانچو آزما وان۔
اللہ (تعالے) چھ تہندہ ایمان زبر پانچو زنانہ۔
وہ فر گوو اگر توہمہ تہ زانو نہ تم چھینہ (پزری
پانچو) مومن زنانہ سبیلہ بہ سوز لوکھ تم کاوزن
کرن والین (سبیلہ) نہ چھینہ تم ہتمن (کافرن)
ہند خاطر جائزہ تہ نہ چھ تم کافر) ہتمن (زنانہ)
ہند خاطر جائزہ۔ بہیمہ پز نہ بہ ہتمن (زنانہ)
ہند نکاح) پیٹھ کافرو خرچ کوزت آسہ
سہ کرو ہتمن والین۔ بہیمہ سبیلہ توہمہ تمہ زنانہ کاوزن
نش آزاد کرنا لوکھ تہ) تہندہ معاومہ (بہیمہ
مہر) ادا کرنہ کس طورس منتر اگر توہمہ ہتمن

عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ
الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ۗ وَاللَّهُ
قَدِيرٌ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ
فِي الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ①

اِنَّ مَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ
فِي الدِّيْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ
ظَاهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلّوْهُمْ ۗ وَ
مَنْ يَتَوَلّٰهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ①

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمْ
الْمُؤْمِنَاتُ مُهٰجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوْهُنَّ ۗ
اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۗ فَاِنْ
عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ
اِلَى الْكُفّٰرِ ۗ لَآ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَ لَآ هُمْ
يَحِلُّوْنَ لِهِنَّ ۗ وَ اَتُوْهُنَّ مَّا اَنْفَقُوْا وَ لَآ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا
اَتَيْتُمُوْهُنَّ اَجُوْرَهُنَّ ۗ وَ لَآ تُمْسِكُوْا
بِعَصْمِ الْكُوفِرِ ۗ وَ سَلُّوْا مَّا اَنْفَقْتُمْ
وَ لِيَسْئَلُوْا مَّا اَنْفَقُوْا ۗ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ
بِحُكْمِ بَيْنِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ①

سیتی خاند ر کُرو تہ توبہ پیٹھ چھنو کنیڑا اعتراض۔
 بیہ کافر زنان ہند ننگ و ناموس سہ تمھا دو پینین
 اتھن منز تہ یہ کینترھا توبہ تمں پیٹھ خرچ کوزمت
 چھو (اگر تمہ کافرن کن شریعتہ عمرتھن تہ) کافرن
 کُرو تمیک مطالبہ۔ بیہ (اگر کافرن ہنر آرتھنہ
 مسلمان سپدتمہ مسلمان سیتی بیتھ دن تہ) یہ
 تم (پینین نکاحن پیٹھ) خرچ کوزمت آسہ
 تمیک مطالبہ مہکن تم مسلمان کُرتھ۔ یہ چھو
 توبہ اللہ (تعالے) سُن حکم۔ سہ چھ توبہ درمیان
 قاصدہ کران تہ اللہ (تعالے) چھہ زان وول (تہ)

حکمتہ وول۔
 بیہ اگر تہنرؤ آ شہو منز کا نہہ شریعتہ کافرن ہنر
 کُرتھ تہ تہ پتہ پتہ تہندس اتھس منز تہ کا نہہ
 کافر زنان (جلی تیدر بونہ) تہ بین لوکن ہنر
 آ شہ شریعتہ کافرن سیتی رلے مشر چھینہ توہم
 کُرو تمں کن اصل خرچس برابر ادا یہ تہو پینین
 نکاحن پیٹھ کوزمت اوس۔ بیہ پراوو اللہ (تعالے)
 سُن تقویٰ سیمس پیٹھ توبہ اپان اوزمت چھو۔
 اے نبی! سبیلہ شریعہ ہنر زنانہ مسلمان بونہ
 میں تہ بیعت کرچ خا ہش کرن، اتھ شرطس
 پیٹھ نہ تم گنر را و ن نہ کانسہ اللہ (تعالے) سُن
 شرک تہ نہ کرن ترورہے، تہ نے کرن زناہ
 تہ نے کرن اولاد تہل تہ نے لگن کانسہ پیٹھ
 اپر توبہمت۔ بیہ کرن نہ نیک کتھن منز
 چاڑی نافرمانی تہ تہ آس تہنر بیعت رمان۔
 بیہ آس تہنر با پتھ مغفرت منگان۔ اللہ
 (تعالے) چھہ سبھا بخش ہار (تہ) اُنچہ روس
 رحم کرن وول۔


اے مومنو! کانسہ اتھس تومس سیتی یارنہ مہ لاگو
 یس پیٹھ خدا (تعالے) ناراض آسہ۔ تم لوکھ چھ

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى
 الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ
 ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۷۰﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
 يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
 شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا
 يَقْتُلْنَ أَوْ لَا ذَهَبَ وَلَا يَأْتِينَ
 بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
 وَأَجْلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ
 فَبَايِعْنَهُنَّ وَاشْتَعِفْنَ لَهُنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۷۱﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا
 غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَكْفُرُونَ

الأخيرة كما يبئس الكفار من أصحاب القُبُورِ ﴿١﴾
 آخرت چہ زندگی نشہ تھو ناوو مید گامتو بیتھ
 پاٹھو کافر قبرن منز پیتھن لکن نش ناوو مید
 گامتو بیتھ۔



سورة صف ۱۰۰ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ پندرہ آہ بیہ چھس تہ رکوع۔

<p>﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بيس حد رُوس كرم کرن وول (تہ) پھیر کر پھیر کر رحم کرن وول چھ۔</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾</p>
<p>آسمان تہ زمیں منز یہ کینر شہا چھ تہ چھ اللہ (تعالے) ہنر تہیح کران تہ سہ چھ غالب (تہ) حکمت وول۔</p>	<p>يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾</p>
<p>اے مومنو! توہی کیا نہ چھو تہم کتھ وناں ایم توہی کران چھو تہ۔</p>	<p>كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٣﴾</p>
<p>خدا (تعالے) ہس نزدیک چھ سلٹھا ناپسند، تمہ کتھ ہند دعویٰ کرن یہ توہی کران چھو تہ۔</p>	<p>اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا كَاَنَّهُُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾</p>
<p>اللہ (تعالے) چھ بہن لکن پسند کران ایم تہنر و تہ صفہ گندتھ جنگ کران چھو لینے کہ زن تہ چھ تہم اکھ دوس سیمیر کہ دردی بہ خاطر تھ پیٹھ ناک آسہ گالتھ تراونہ آمت۔</p>	<p>وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يُقُوْمِ لِمَ تُوَدُّوْنَ بِيْ وَ كَذَّبْتُمْ عَلٰى اٰیٰتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ لِيَكْفُرَ بِكُمْ فَلَئِمَّا زَاغُوْا اَزَّ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ وَاَللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥﴾</p>
<p>بیس (یاد کرو) بیلیہ موسیٰ ہن پینش تومس و نیاو، اے میانہ قومہ! توہی کیا نہ چھو میہ اذا و اتناوان حالانکہ توہی چھو زمان تہ ہر چھس تہ بہ کمن اللہ (تعالے) ہنہر طرفہ رسول بیتھ آمت۔ اماہ یوز (بیلیہ امر باوجود تہم لاکھ سینر و تہ نشہ ڈلی تہ اللہ (تعالے) ہن کڑی تہتدر وول ہلی۔ اہ اللہ (تعالے) چھو فرمانبردار میہ نیرن والین کامیابی</p>	

ہنز و تھ دوان۔

بیر (کرو یاد) سید عیسیٰ ابن مریم پننس قومس
ونیاو، تر اے بنی اسرائیل! ہر تھس اللہ
(تعالے) ہند طرفہ توہر کن رسول ہنہ آمت۔
یہ (کلام) میانہ ہنہ بروٹھ تانزل سیدمت چھ
یہنے تولت، تہر چہر پیشگو پیہ چھس ہر پور کلان
بیر ہچسو اُکس رسولہ ہنز تہ خیر دوان، ایس
مینہ پتہ پیہ، نیمر سندناو اسمہ آسہ۔ پتہ
یہیلہ سہ رسول دلائل ہتھ آو تہ تمو وون یہ تہ
چھ ٹاکار فریب۔

بیر تہند کھوتہ بوڈ ظالم کس ہیکہ آتھ، ایس
اللہ (تعالے) ہس پیٹہ اُپز لگتھ تھو سالانہ
تس چھ اسلاس کن ناد دن پوان تہ اللہ (تعالے)
چھنہ ظلمن تر ہنہ ہدایت دوان۔

تم چھ ہنہ ہان تر پستہو آسو (ہند پو چھ کو)
سیتو تر چھو راو ہن اللہ (تعالے) سند نور، تہ
اللہ (تعالے) تراو پننس نورس پور کر تھ
اد کافر لاکھ کوتاہ تہ ناپسند کر کر تن۔

سہ چھ خدایا نیمر ہن رسول ہدایت ہتھ تہ
پوز دین تھ سوزمت چھ۔ یہتھ زن تھ سار
ہنے دین پیٹھ قابل کر اد مشرک کوتاہ تہ
ناپسند کر کر تن۔

اے مومنو! کیا ہر دموا توہر کہ تہ تجہ تجارت
خبر ایس توہر وگر در ہذابہ ہنہ زچو و؟

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ
يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، فَلَمَّا
جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
مُبِينٌ ①

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ②

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ
وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ ③

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ ④

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى
تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ آلِيبِهِ ⑤

اے تھ ایس منتر چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سہنہ
پیشگوئی ہند ذکر یوہ انجیل برنباس منتر درج چھ۔ ہاتے انجیل منتر تہ چھ فارقلیط
ہند مبعوث سید ریح خبر نیمیک معنی تہ چھ احمد ہر بنان۔ اے ایس منتر چھ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بلا واسطہ تہ تہندس بروزس متعلق بلا واسطہ خبر دینہ آہتر
سورۃ جمعہ ہس منتر تہ چھ ایس بروزس متعلق ٹاکار خبر دینہ آہتر۔ (منہ)

تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ
طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿۱۷﴾

وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرَ مَنْ وَالَّهِ وَقَتَح
قَرِيبًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ
كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيَّتِهِ
مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
تَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا
الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا
ظَاهِرِينَ ﴿۱۹﴾

(سہ تجارت چھ یہ نہ) تو ہی ابو اللہ (تعالیٰ) تو
تیس دنوں پہلے ایمان - بیہ کربو اللہ (تعالیٰ) ہنر
وہ پینچو مالو تہ پینچو ہانو سستی جہاد - اگر تو ہی
نرا ابو تیلہ چھ یہ تہندہ خا طر سہ ہارٹ -

سہ کر (تہندہ بیٹھ کئی کرش پیٹھ) تہندہ گوناہ
معاف بیہ کر و تو بہ بہن جنتن منز و اہل بین
منز کو لہ پکان آس - بیہ (تھو و تو بہ) ہمیشہ
روزن والین جنتن ہندین پاک مکان منز - یہ
چھینہ بڑ کامیابی (یوہ سہ سہ تو بہ دیو) -

تہہ ہلاو چھہ بیاکہ اکھ چیز تہ یہ تو ہی جاو بیہ چرھان
چھو، سہ چھہ اللہ (تعالیٰ) سہ تہا پید، بیہ اکھ
جلدی بیٹن و اجز فنج - بیہ و مومن حق شجر
(نہ بہن میلہ اکھ بیاکہ و لو لہ بیٹن و اجز فنج تہ)

اے مومنین! تو ہی ابو اللہ (تعالیٰ) ہندو (یعنی
تہندہ دیکھو) مددگار - بیٹھ کئی میلہ عیسیٰ ابن مریم
(پینچن) حوارین و نیاو تہ اللہ (تعالیٰ) ہنرن
کاسٹین منز کس پچھو میون مددگار؟ تہ تمو
و فوس نہا سہ اللہ (تعالیٰ) ہندو (یعنی تہندہ
دیکھو) مددگار - اوہی اسرائیلین ہندو اکھ ڈر
اون ایمان سہ مگر اکھ ڈر کور انکار - بیٹھ پلٹہ اسہ
مومن تہندین دشمن خلاف مدد کور تہ مومن
پدے یہ غالب -

لہ یعنی اللہ (تعالیٰ) اس قریب نہتہ و اجنہن کامین منز -
لہ کثیر منز روزن و ابوہ بنی اسرائیلو منز اون اکثر لوگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان -

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ رَوَى مَعَ الْبَسْمَلَةِ اِسْتَنَّاعًا مِنْ آيَةِ وَرُكُوعًا

سورة جمعہ: یہ سورہ چھ مدنی ہے بسم اللہ پہلے چھ آیتہ باہ آیتہ میں چھس نے رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(ہر چھس) اللہ (تعالیٰ) سنا ناو پہلے (پران) یس صبر روس کرم کرن اول (تہ) پھیڑ پھیڑ رحم کرن اول چھ۔

يَسْتَبِشُّ يَلُو مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقَدُوْسِ الْحَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

آسمان تہ زمیہ منز یہ کیتھارت چھ، تہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہنر تسبیح کران تس (اللہ تعالیٰ) ہنر یس بادشاہ تہ چھ تہ پاک (تہ چھ تہ ساری رنر ہتھ) چھ بیہ چھ غالب (تہ) حکمت اول۔ سنے خدا چھ نیلم اکیس ان پڑھ تومس کن تہ منز اکھ شخس رسول بناوتھ سوز۔ یس ہنر خدا پھ ہنر حکم بوزناوان چھ بیہ چھ ہنر پک کران بیہ چھ ہنر کتاب تہ حکمت ہچھاوان۔ حالاکر ہنر اسی امر بروٹھ ہنر مشرفس منز۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ اِنْ كٰنُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ③

بیہ ہنر ورائی (سوز سہ تس) بیس اکیس تومس منز تہ یس و نیگ تام ہنر ہنر ریوہ تہ بیہ سہ چھ غالب (تہ) حکمت اول۔ بیہ چھ اللہ (تعالیٰ) سنا فضل، بیس ہنر چھ تس چھ ووان۔ بیہ اللہ (تعالیٰ) چھ ہنر فضل اول۔

وَ الْاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَ هُوَ الْحَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ⑤

بیں لاکن پیٹھ تواریخ اطاعت واجب کرتہ کرتہ

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِلُوْا التَّوٰدَةَ ثُمَّ لَم

لہ اتھ ایس منز چھ تھ ہنر کس کن اشارتہ منز یہ آمت چھ نہ صحابہ کرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نس دریاقت "آخرین" کم چھ؛ تہ حضور متھو سلمان فارسی ہنر پھیس پیٹھ دست مبارک تہ فرمود کہ لو کان الایمان معلقاً بالشر یا لئالہ رجلٌ اذ رجالٌ من فارسی (بخاری) یعنی اگر کتبہ تہ وقتہ ایمان شر یا تارکس پیٹھ تہ کھسہ تہ فارسی کو لوکو منز اکھ زون یا کیتھ نزو این تھ و پس اتھ منز چھ ہنر ہنر ہنر ہنر متعلق خبر تہ آخرین چھ ہنر جماعت۔ (سنا)

يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجَمَارِ يُحْمَلُونَ أَشْقَاءً
يُبَشِّرُ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ①

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ دَعَمْتُمْ
أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّذِينَ مِنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ①

وَلَا يَتَمَنَّوْنَہٗ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ
أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ①

قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ
فَأِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ①

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ
فَمَنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ①

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَإِذْ كُرُوا لِلَّهِ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

چھینے مگر تمہے باوجود کڑی نہ ہوتی تھی پھر عمل
تہنیز شمال چھینے خبر سنو ہر شیئہ میسر واریہ کتا بہ
بار تجھڑ آسن (مگر زمان چھینے کہنی) اللہ (تعالے)
سند بن محسن ہند انکار کرن والہ تو بیچ حالت
چھینے سبھا بیچہ آسان بیہ اللہ (تعالے) چھینے
ظالم تو س نہ بننے کا میا بی ہند بیچہ ماوان۔

تہر وکھہ ، اسے یہودیو! اگر تہند بیہ دعویٰ چھ
ز باقی دنیا تر او تھ صرف تو ہی چھو اللہ (تعالے)
سند دوست بیہ چھو تہندس پتہ ہس منز تیلہ
ہر گاہ تو ہی (اتھ دعواس منز) پز یار کی چھو، تہ
پر د موتک تنہ کر تو (یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم سہی کرو، مباحلہ)

مگر تم مردھن تہ نہ فیہ پتہ پتہ میو اعمالو کن مباحلہ
خاطر تیلہ تہ اللہ (تعالے) چھ ظالمن ہس زہر
پاٹھو خبر دار۔

تہر وکھہ سہ موت نیبہ ہنہ تو ہی تر لان چھو یقینا
سہ زہر و تو ہی اکہ دو ہیہ۔ پتہ بیو تو ہی کھیلہ تہ لون
زائن و اہس خدایس کن چھیر تہ ہنہ تہ سہ دیو
تو ہی تہند بن اعمالن ہنہ خبر۔

اسے مومنو! نیلہ تو ہی جمعہ دو ہیہ نماز با پتہ ناد
دہر بیو (یعنی جمعہ نماز با پتہ) تہ اللہ (تعالے)
سند ذکر با پتہ آسو و لو و لو گھر حان تہ (ہون)
کن آسو تراوان۔ اگر تو ہی کیہ تہ علم تھاوان چھو
تہ یہ چھینے تہند خاطر رہر کہتہ۔

اد نیلہ نماز مو کلہ تہ زمینہ منز آسو تیلان
تہ اللہ (تعالے) سند فضل آسو تر حاندان، بیہ
آسیون اللہ (تعالے) سبھا یاد کران بیچہ زن


لہ یعنی خدا تعالیٰ اس بروئے کئے کرو و غار اسہ منزیس اپز یور چھ تہس دین اللہ تعالیٰ پز یار
سنز زندگی منز موت۔

تَفْرِحُونَ ①

تو ہی کامیاب سپرو۔

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا لِانْقَضُوا
إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ
خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ ②

بہے نیلے ہم لوگ تجارت تو تما شیخ کہتے دوجان
چہ تو تریہ نش ترہینہ ترشتہ چہ تہو کن گزراں
تہ تریہ چھی کتے زون تراوان - تر و ن ترمن یہ کیشا
اللہ (تعالے) ہس نش چہ سہ چہ تما شہ چہ
کہتے بلکہ تجارت کھوتہ تر رت بہ اللہ (تعالے)
چہ جاو رت رزق دہنہ وول۔



سورة منافقون ایہ سورہ چہ مدنی تر بسم اللہ ہتہ چہ آتہ باہ آہ تر بہ چس تر کوا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

(ہر چس) اللہ (تعالے) سہ ناو ہتہ (پران)
یس ہر روس کرم کرن وول (تر) پھیری پھیری
رہم کرن وول چہ۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ
إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ
الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ②

نیلے تریہ نش منافق یوان چہ تر تم چھی وان
اُسی چہ قسم ہوتہ شہادت دوان تر تر چہ کہ
اللہ (تعالے) سہ رسول - تر اللہ (تعالے) چہ
زانان تر تر چہ کہ سہ رسول - مگر (ستی)
اللہ (تعالے) چہ قسم ہوتہ گواہی دوان تر منافق

چہ اپز یارک -
تمو چہ پینو قسم (چانہ پرزہ کار بنشہ بچہ
خاطر) سپر بناوی مت تر تم چہ لوکن اللہ
(تعالے) ہنر وتر بنشہ ہتہ رمان - تر یہ کیشا
کران چہ سہا نا کار چہ کران۔

لَا تَخْذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ③

یہ سہ چہ تم او مو کو کران تر گوڈ اون تمو
ایمان ہتہ کوڈ تمو انکار - یہیہ کز تہند بن دن
پینو مہر کرنہ آہ او وول چہ ہنر ترمن نگر
تران۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ
عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ④

نیلے تر تم وچھان چہ تہ تہندی اری تر

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ

يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ لَيَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَادُوا فَاحْذَرَهُمْ فَأْتَلَهُمْ
اللَّهُ زَاتَىٰ يُؤَفِّكُونَ ①

دُورِ جِسْمِ پھی ٹریہ ز بر طار کھسان تہ اگر تم
کانہہ کتہ کران چہ تہ (تہہ ربہ انداز سان زہ)
تہ چیکہ تہنتر کتہ (تہنتر حالات زہ تہہ تہ)
بوزان۔ (تم چہ مجلیہ منتر تہہ یا تہو بہتہ آسان)
زان چہ تم بڑی بڑی زہی مؤنڈی بیم (لبہہ
سہتر) دکھراوتہ تھونہ آہتر آسن۔ بیلیہ کتہ
عذابہ خبر (قرآنس منتر) نازل سپدہ تہ تم چہ
خیل کران زہ پہ چینیہ سانی حقہ۔ تم چہی پلوختہ
دسمن لہذا تہ روز تہن نش باخبر۔ اللہ (تعالے)
کران تہن ہلاک۔ تم کیاری چہ پھر تاوتہ (پز
وتہ نشتر) دُور تہن یوان۔

وَإِذْ أٰقْبَلْ لَهُمْ تَعَالٰوْا يَسْتَعْجِلْكُمْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوٰا رِءُوْسَهُمْ وَرَاٰيَتَهُمْ
يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ①

بہ بیلیہ تہن ونہ یوان چہ ز ولبو! اللہ (تعالے)
سند رسول منگہ تہنہ خاطر مغفرت تہ تم چہ پیڑ
کلہ (تکبر تہ انکار سان) پھران۔ بہ چہکہ تہ
تم وچھان زہ تم چہ پز وتہ نشتر لوکن پھران۔ تم
چہ کبر چہ بہار منتر ولہنہ آہتر۔

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَجَفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ
تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ
إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ①

تہ تہنہ خاطر مغفرت منگہ یا متہ منگہ، تہنہ حقہ
چہیہ سارے کتہ ہشی۔ تہ کیا ز اللہ (تعالے)
کر نہ زہ تہ تہن معاف (یوسانی تہ تم پانہ تویہ
کران) اللہ (تعالے) چہنہ فرماہر داری تہہ نیرن
داس قوس کامیابی ہند بہہ تاوان۔

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰی مَنْ
عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَقُوْا وَاِلٰهِيَّ
خَزَاٰئِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلٰكِنَّ
الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ①

یہ لوکہ چہ بیم ونان چہ ز اللہ (تعالے) سہر
رسولس نش بیم لوکہ روزان چہ تہن پیٹہ مہ
کرو خرچہ یوتام زہ تم (فاقوسہ تنگ بیٹہ)
ٹرہن۔ حالانکہ آسمان ہند تہ زہ سیکر خزانہ چہ
اللہ (تعالے) ہس نش۔ امامہ پوز منانقن چہنہ
تکبر تران۔

يَقُولُوْنَ لَنْ نَّزَجِعَنَّ اِلَى الْمَدِيْنَةِ
لَيُخْرِجَنَّ اِلَّا عَزْمُهَا الْاَذَلُّ وَاِلٰهِيَّ الْعِزَّةُ

تم چہ ونان ز اگر اہم مدینس کن چہ تہ گے تہ
کس مدینگ سارو سہ کھوتہ معزز انسان چہ تہ

يَسْتَسْمِعُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ①

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ
مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ②

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ
صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ ③

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا
تُسَوَّرُونَ وَمَا تُخْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ ④

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
قَبْلُ زَقَاتُا فَاؤْتُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا
فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ
عَنِّي حَمِيدٌ ⑥

رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ
بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا
عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑦

آسمان تہ زمینہ منزیہ کیشہا چھ ا تہیہ اللہ تعالیٰ
ہنز تہیح کران۔ بادشاہت تہ چھ تہنہ تہ تعریف
تہ چھ تہندی تہ سہ چھ پرتہ چہس پتہ تادہ۔

سے چھ تہی تہی تہی پادہ کرہ تہی چھ ا تہ تہ منزہ
چھ کاشہ کاشہ بنان تہ کاشہ چھ مؤمن بان تہ
اللہ تعالیٰ چھ تہندی اعمال وچھان۔

آسمان تہ زمین چھ تہی اکھ خاص مقصد نظر تہل
تھاوتہ پادہ کرہ تہی۔ تہ تہی چھ تہنہ صوٹہ
بنادہ منزہ۔ بیہ چھ تہنہ تہل سہما تہ تہ نادہ
منزہ۔ تہ تہی کُن چھ تہ تہی تہ تہن۔

آسمان تہ زمینہ منزیہ کیشہا چھ سہ چھ تہ
زانان۔ بیہ چھ سہ عمل تہ زانان یوہہ تہی
کھٹہ تھاوان چھو یا تہی کڈان چھو۔ بیہ چھ
اللہ تعالیٰ دلہ چھ کتہ تہ زانان۔

کیا تہیہ واژو تہا بروٹھوین کاشہ تہنہ
تہو تہ پتہن اعمالن ہند سزا تہ تہندی تہ
چھ دہ وار عذاب (مقصد)۔

یہ سپد اوکھ تہ تہن ہنش روڈی تہندی رسول
دلہن ہتہ یوان مہر تہ روڈی یوہے جواب
دوان تہ کیا انسانی شکلہ منزیہ واکہ لوکھ
ذناہ اسہ ہدایت؟ (اگر ہدایت دین آسہ ہے
تیلہ وسہ ہن ملک آسمانہ پتہ) ا تہو کور
کھ تہ تہر پتہ کھ۔ تہ اللہ تعالیٰ ہن
تہ تہو تہنہس اپناس سہ تہ بے پروا تہی تہ
اللہ تعالیٰ چھ پرتہ کس ہنہ بے نیاز تہ
بڑن تعرضین ہند تہدار چھ۔

کاشہ چھ خیال کران تہ تہنہ تہنہ تہ (زنہ)
کرتہ تہ تہنہ تہ وکھ چھ کئی تہی خیال کران
چھو۔ تہ کئی سپد تہ بلکہ چھ تہنہ پنہس پروڈا

ہنر ور سے تو ہی بیجو ضرور زندہ کر تھو۔ تہہ
بیجو تو ہی چہنوا عملو بشہہ آگاہ کرتو تہہ یہ کتھہ چھینہ
اللہ (تعالے) ہندہ عا طہر سہل۔

لہذا اے لوگو! اللہ (تعالے) تہہ تہندس رسولس
پیٹھہ اُتو ایمان بیہ تھہ نورس (یعنی قرآن کریم)
پیٹھہ تہہ یس اسہ نازل کوزمت چھہ تہہ اللہ (تعالے)
چھہ تہندلو اعمالو بشہہ خبر وار۔

تیمہ دوہہ سہہ توہہہ سارک تہہ سہہ سزاوتہ کہ دوہہہ
(با پتھہ زندہ کر تھہ) سہہ سزاوتہ کہ دوہہہ۔ یہ آسہہ زمینہ
تہہ ہر تہہ کہہ تھہ سگ دوہہہ تہہ یس کا تھہہا
اللہ (تعالے) ہس پیٹھہ ایمان اتان چھہ تہہ تہہ
مطابق چھہ عمل تہہ کران اللہ (تعالے) تہہ چھہ تہنہن
بدین پر در کران تہہ تہہ چھہ تھہنہن جتنہن منتر
جاٹے دوران بین منتر کہلہ پکان چھینہ۔ تم گرضن
تہن منتر ہمیشہ روزان۔ یہ چھینہ سہہ سہہ کا میابی۔
بیہ پھو کھڑ کور تہہ سانی آہہ اپراوتہہ تم چھہ
جہنمی (تہہ) تم گرضن جہنم منتر روزان تہہ سہہ
چھہ سہہ سہہ کھہ کھہ کھہ۔

کانہہ مصیبت چھہہ یوان نگر اللہ (تعالے) ہندہ
محکمہ تہہ یس اللہ (تعالے) ہس پیٹھہ ایمان اتان
چھہ، سہہ چھہ تہندہ دل کا میابی ہندہن طریقہن
کنہ پھران۔ تہہ اللہ (تعالے) چھہ پر تھہہ چہنہ
زانان۔

بیہ گرو اللہ (تعالے) تہہ تہندس رسولہ ہنر اعانت
ووہہ گروہہ گراہہ پھہ تھہ گرضو تہہ سائس رسولس
پیٹھہ چھہ ہر ف دانش سگ تھہ کتھہ واتناونی اوت
فرمیں۔

اللہ (تعالے) ہس وراہی چھہہ کانہہ معلوہہ تہہ مونہن

فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي
أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱﴾

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ
التَّغَابُنِ وَمَنْ يَأْمُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
يُصْرَفْ أَجْرًا كَثِيرًا مِمَّا كَسَبَ وَيُدْخِلُهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۲﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا
وَيُسَسَّ الْمَصِيرُ ﴿۳﴾

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ
يُكَلِّمُ مَنْ يَشَاءُ عَلَيْهِمْ ﴿۴﴾

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ
تَوَلَّيْتُمْ فَأَتَمَّا عَلَىٰ رَسُولِنَا
الْمُبِينِ ﴿۵﴾

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ وَرَوَى مَعَ الْبِسْمِ كَلِمَةٌ عَشْرَةٌ آيَةٌ وَرُكُوعَانِ

سورۃ طلاق : یہ سورہ چھ مدنی تو بسم اللہ بہتہ چھ اتھ ترواہ آیہ بیہ چھس نہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(پر چھس) اللہ (تعالیٰ) سندا ناو بہتہ (پر ان) ایس
 حہ رؤس کرم کرن دول (تہ) پھیر کی پھیر کی رحم
 کرن دول چھ۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
 فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ لَا تَذَرِي لَحَلِّ اللَّهِ يُخْرِثُ
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ①

اے نبی! (بیہ تو سہندو مانن والو) بیلیہ توہر
 آتھنن طلاق دیو تہ بہن دیو عنڈ تھ وقتہ مطابق
 طلاق۔ بیہ تھادو (طلاق بہتہ) وقتک حساب
 تہ پھنس پروردگار خدایہ سند تقویٰ پر اہو۔ تہہ
 مہ کر لیک تہندو گرو منز تہ نہ مہ نہن تم پانہ
 امر واری نہ بہن سیدن اکہ نتہ وانہ گو نہ ہجہ خطاکار
 تہیم چھ اللہ (تعالیٰ) ہند کی حد۔ تہ ایس کا شہا
 اللہ (تعالیٰ) ہندو حدو اپور تر سہ چھ پھستس
 رؤس پیٹھ ظلم کرن۔ (اے طلاق نہ والہ! تہ
 چھ نہ پے نہ شاید اللہ (تعالیٰ) ماہ کڈ امرہ
 واقعہ بہتہ بیہ کیہ تہ نون۔

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
 الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤَظِّمُ بِهِ مَنْ
 كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ①

اگر بیلیہ زنا نہ حد تہ کس آخری حدس واتن تہ تم
 یا تہ رٹیکھ پانس ہنن مناسب طریقہ سان یا
 تراویکھ تم جان پانٹو تہ پھنہو منز کر لیکھ انصاف
 کرن وای نہ گواہ مقرر تہ خدایہ ہند خ مہ
 دیو پڑ شہادت۔ تہ ہہ منز ایس کا شہا
 اللہ (تعالیٰ) تہ آخر تہ کس وہ ہس پیٹھ ایمان
 انان چھ تس چھ یوان یہ نفیحت کرن تہ ایس
 شخص اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ پر او اللہ (تعالیٰ)
 کڈ تہند خاطر کا نہنتہ کا نہنتہ و تھ۔

۱۔ یعنی ترکہ ہوت گڑھ نہ طلاق دین بلکہ یقین "طہر" کہن وہ ہن منز گڑھ طلاق دین
 یمن منز مرد آشنہ ہنن حکومت آسہ تہ۔ (سند)

وَبَزُرُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَ مَنْ
يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ، إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا ۝

بہ دہ رس رزق تمہ کو بیہ کبر رزق بیگ
تس غیل تہ آسہو۔ بیہ یس کاتہہ اللہ تعالیٰ
ہس پیچہ توکل کران چہ سہ اللہ تعالیٰ چہ
تس کیت کانی۔ اللہ تعالیٰ چہ یقینا بین مقصد
پور کر تہ تراوان تہ اللہ تعالیٰ ہن چہ پر چہ
چیزک انداز مقرر کر تہ تمومت۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ مِنَ الْمَخِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ
إِنْ اذْتَبَعْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِينَ
لَمْ يَحْمِلْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

بیہ (تمہنرو آ شہو منہر) تم زناہ یم ماہواری ہنہ
ناوو مید گامتر آس اگر (تمہندس عدس متعلق)
توہر شک آسہو۔ تہ تمہند عدت چہ تہر رتہ
تہ یس پانچو جن زناہ ہند تہ بین ماہواری
آسہ نہ یوان لو تہ پیہر زناہ بیہ زو آس۔ جن
ہند عدت چہ خلاصہ عرصہ سن تام تہ یس کاتہہ
اللہ تعالیٰ سہ تقویٰ پراہ۔ اللہ تعالیٰ چہ
ضرور تمہندس معاملس منہر سہولیت یاد کران
یہ چہ اللہ تعالیٰ سہ حکم یس تمہر توہر کن
تازل کورمت چہ تہ یس کاتہہ اللہ تعالیٰ
سہ تقویٰ پراہ سہ (خلا) چہ تمہر ہنہر ہدک یہ
دور کران تہ تمہر سہ اجر چہ ہر راوان۔

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ، وَ مَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ، وَ يُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا ۝

(اے مسلمانو! طلاق دینے آمیزان زناہ ہند حق ہر
مشرادو) تم تھاویلو کہ تہر یس تہ توہر پسنہ حبیبہ
مطابق روزن چہو بیہ جن ہر دو کو تہر تمہر ضرر
یہ پانچو تہر گدیو کہ توہر تنگ کر تہ (گر منہر)
بیہ ہر گاہ تم بیہ زو آس تہ توت تانی کرو
جن پیچہ خرچ یوت تام تہر خلاصہ عرصہ تہ
اگر تم تمہند باہتہ شرہن دو دن تیلہ دیو جن
یڑہ شوہر ہر تہر اجرت تہ تمیک فاصلہ کرو پانہ
وازی مشورہ کر تہ دستہ مطابق تہ اگر پانہ واہی کتہ
فاملس پیچہ اتفاق ہو کو تہ کر تہ تیلہ دین ہایک

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وَجَدِكُمْ ، وَلَا تُضَارِدُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ، وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ
أَجُورَهُنَّ ، وَأَنْتُمْ وَابِتَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ،
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِنَعْ لَهُ أُخْرَى ۝

کاٹھہ زنانہ ٹمس مشرس دود۔

مالدار مہنوس پیر (دود و دہ واجتہ زنانہ پٹھ) پینہ
 حیثیتہ مطابق خرچ کرن۔ تہیس مالدار آسہ نہ مہ
 کرن اللہ (تعالیٰ) ہندہ دتہ مہتہ مطابق خرچ۔
 اللہ (تعالیٰ) پھتہ کتہ زوس تہتہ محکم دولہ کم تہندہ
 طاقتہ کھوتہ جاو آسن۔ بلکہ چھ تہتہ محکم دولہ کم پوڑ
 کرنک توفیق تہ بہن بختمت آسہن تہ زن
 گوڑا کر کاٹھہ شخص خدایہ ہندس محکم بیٹھ عمل
 کران دود و دہ واجتہ زنانہ مہلیک پاکھ اجرت
 دیہ تہ اگر مہ تنگ دتہ ہندس حالتس مشر تہ
 آسہ تہ اللہ (تعالیٰ) کر امر پتہ تہندہ خاطر
 قوتس عالی ہنتر حالت پاو۔

بہ واریاہ ہستہ پتہ میو پینس پروردگار ہند
 محکم تہ رسول ہند انکار کوز۔ اتھ پیٹھ ہنوت
 آسہ ہن سہما کر پچھ سان حساب تہ ہن پیٹھ
 کوز بوڈ عذاب نازل۔
 تہ ہنوتس پینہن کر توتن ہندسزا تہ تہندہ انجام
 درو گائے۔

یقین لوکن ہند خاطر حج اللہ (تعالیٰ) ہن
 کر پٹھ عذاب مقرر کورمت۔ لہذا اسے مومنو مشر
 عقلہ والو! اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ پراوو۔ اللہ
 (تعالیٰ) ہن چھ تہندہ با پتہ شرفک سامان وولت
 یعنی رسول پھن نازل کورمت۔ سس توہ بہ اللہ (تعالیٰ)
 ہندہ تہتہ آتہ بوز ناوان چھو ہم (پر چھ پتہ پتہ)
 واتس کڈان چھ۔ نیمیک نتیجہ یہ آسان چھ زہون
 لوکھ ہم پینہ ایمانہ مطابق عمل کران چھ ہم چھ
 انہ گتو مشر نہتہ نورس مشر یوان تہیس تہ اللہ
 (تعالیٰ) ہس پیٹھ ایمان انہ تہ تمہ مطابق عمل
 کر مہ کر تس یقین جتن مشر جاے مین بوئی
 کوز کولہ پکان آسن۔ ہم گرتہ ہن بہن مشر ہمیشہ

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدَرَ
 عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ
 اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

وَكَآيِنٍ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا
 وَرُسُلِهِ فَحَا سَبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا ۖ
 وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا ثَكْرًا ۝


فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ
 أَمْرِهَا خُسْرًا ۝

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا
 اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ
 قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ
 لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِنْ
 بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 أَبَدًا ۚ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ رِزْقًا ۝

روزان۔ اللہ (تعالیٰ) ہن چھ بھتیس شخصس
 سبھا پر نیون رزق بختمت۔
 اللہ (تعالیٰ) چھ سے نیو ستھ آسمان پاد کرکرتی
 چھ۔ تہ زمیں تہ چھن آسمان ہنر غزینر
 مطابق (پاد کرکرتی)۔ زمین آسمان تہ بین زمین
 درمیان چھ کسہ حکم نازل سپلان روزان۔ چھ زن
 توہ زانوہ اللہ (تعالیٰ) چھ پر چھ چیزن پیٹھ
 قاور تہ چھ پانچھ اللہ (تعالیٰ) علمہ سوتی
 پر چھ چھریک احاطہ کرتھ۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ
 الْأَرْضِ وَمِثْلَهُنَّ ۚ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ
 بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عِلْمًا ﴿۱۸﴾



سورة تحريم : یہ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ ہتھ چھ آتھ ترواہ آیہ بیہ چھس تہ رکوع۔

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سندا ناو ہتھ (پران)
 لیس حد زوس کرم کرن وول (تہ) چھریک چھریک
 رحم کرن وول چھ۔
 اسے نبی ! تو کیا زچھکھ سہ (چیز) حرام کران۔
 یہ اللہ (تعالیٰ) ہن چاند قاطر حلال کورمت چھ
 تہ چھکھ پنہن آستہن ہنر خوشی یہ پڑھان تہ اللہ
 (تعالیٰ) چھ سبھا بختن مار (تہ) اُنچہ روس
 رحم کرن وول۔
 اللہ (تعالیٰ) ہن چھ توہ بہ پیٹھ ہتھ تسم پھراوک
 حکم و ہتھت (یو سوتی فبت تہ ووتھ) بیہ اللہ (تعالیٰ)
 چھ تہند تا یک تہ سہ چھ سبھا زان وول (تہ)
 حکمتہ وول۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
 لَكَ ۚ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲﴾
 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلِيلَ آيْمَانِكُمْ ۚ
 وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳﴾

لہ اکہ وہ بہ چا و نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہ ہنر اکہ آستہ ما چھ شربت۔ بیس آستہ
 اوس یہ ما چھک مشک نالیند۔ تہ وون صفونان نر از چھ تہند اسہ منز ما چھ مشک یوان
 اتھ پیٹھ کور تمو عہد نر آستہ کھچہ تہ بہ ما چھ اتھ پیٹھ سید یہ آیہ نازل۔ (منہ)

وَإِذْ أَسْرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ
حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ
عَلَيْهِ عَزَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ
بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ
أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ
الْخَبِيرُ ①

بہ (شریکس پڑو) نیلے نبین پتہو آشنہو
منہو کانسہ کس اکھ پو شہد کتھ وڈی پتہ نیلے تہ
سو کتھ بہ کانسہ وڈی تہ اللہ (تعالے) ہن ڈر تہ
(یعنی تہ کمزوری ہنر) خبرتس (یعنی نیلس) تہ
تہ وڈن (کتھ ہند) کیہتھ حصہ آشنہ تہ کینہر
چھوچ کون پرہ پویشی پتہ نیلے اہل کتھ ہنر
خبرتس (آشنہ) وڈن تہ تہ وڈن تہ تہ کتھ
وڈن وڈی؟ اتھ پیٹھ وڈن تہ (یعنی نبین)
نر مینہ پھو پڑی علمہ وڈی (تہ) واقف کار خدایک
یہ خبر ڈر ہنر۔

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ
قُلُوبُكُمَا ۚ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ مُوَلِّئُهُ وَجِبْرِيْلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ②

پتہ وڈن تہ تہ (میانہ) دوہو پو آشنہو! اگر
توہو پتہ غلطی پتہ اللہ (تعالے) ہن نش توہو
کرو تہ توہو دوہو ہند دل چھ بروٹھے اتھ کتھ
کن ہتھ (تہ توہو خاطر چھ تیار)۔ تہ اگر توہو
دوہو (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) مقابلہ کرن
باپتھ (پانہ وڈی پشت پناہی خاطر استاد گرتھو
تہ یاد تھو وڈی اللہ (تعالے) چھ تہ سند دوست ہتھ
پاٹھو جبریل تہ ساری مؤمن تہ تہ علاوہ چھ ملائکہ
تہ نیلس تھو تھو کھ دہ وڈی۔

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ
أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمًا مَّؤْمِنًا
قَدِيتَ تَبَيَّنَتْ عَيْدَاتٌ سَيُخَيَّبُ تَبَيَّنَتْ
وَآيَاتٌ ③

تہ تہ برس پرور وڈی ہند خاطر چھ بالکل ممکن تہ اگر
سہ توہو طلاق وڈی تہ سہ (اللہ تعالے) دہ
تہ تہ تہ کتھ تہ جاوہر تہ آشنہ بدل کم مسلمان
تہ آسن، مؤمن تہ آسن، فرمانبردار تہ آسن، توہو
کرن واجبہ، عبادت کرن واجبہ، روزہ دن واجبہ
تہ آسن، موئمہ تہ آسن تہ اتھڑی شہ تہ!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ④

اے مؤمنو! بین اہل و عیال تہ تہ پتہ زو تہ
بچا وڈی کھ جہنہ ہتھ نیلک زان خاص لاکھ (یعنی
کافر) آسن بہ ہتھ پاٹھو کتھ تہ (کین پو تہ
بنان چھ)۔ تھہ جہتس (پتھ چھ تھو ملائکہ
تھہ ویم کانسہ ہند زار پار بوزن وڈی جہنہ بلکہ

چھ بیٹن فرین پور کرس منز دُرک تہ اللہ (تعالے)
ہن یس حکم تمس د بیت مت چھ تمبج چھنہ تم
نا فریانی کران تہ یہ کیشہا و تنہ یوان چھکھ تم
چھرتی کران۔

اے کافر! ازہہ کرو عذر توہہر میل و تہندہو
اعلام مطابق جزا۔

اے نومو! اللہ (تعالے) ہس کن کرد شوڈو پیاٹو
سبرع بیتہ منسنا فقہج کاٹہہ زادگی گتہہ نہ آسہ
کاٹہہ تعوب چھنہ نہ تہندہ پروردگار کر تہنہر ہدیہ
نا بود تہ توہہر کرو تہقین جنتن منسنا سےمین (بندین
شہلین تل کولہ پکان چھنہ۔ تمہہ دوہہر سیمہ دوہہر
اللہ (تعالے) اپتس نبیس رسوا کر تہ تہ نہ کر تمس
لوکن میوتس سوتی ایمان اونمت چھ۔ تہندہ نور
آسہ تمس بروٹھی کتہ تہ زھٹہ ماران تہ تہندہ
ڈھنہ کتہ تہ، تم و ن تر اے سانہ پروردگار!
سون نور کر سانہ قایدہ خاطر کابل تہ اسہ کر معاف
تہ چھکھ پر چھہ چہرس پیٹھ تادور۔

اے نبی! کافرن تہ منافقن خلاف کر زبر پیاٹو
تبلیغ تہ تہندہ کاٹہہ اثر ہہر کر قبول۔ (بیر (زان
نہ) تہندہ ٹھکانہ چھ جہنم تہ سہ چھ سہٹا چھ ٹھکانہ۔

اللہ (تعالے) چھہ کافرن ہنر حالت نوح تہ لوط
سہنن آسہن ہنر ہش بیان کران۔ تم دونوے
آسہ سانہ نیک بندن ہندین نکاحن تل۔ مگر
تمو دونوے و ہے کریاوہ تمس دونوئی (بن دن)
سوتی خیانت تہ تم دونوے ہیکر نہ خدائی عذاب
کر وقتہ تمس (آسہن) کتہ بکار چھ۔ تہ تمس
دونوئی زمین آلو و منہ نہ جہنم منسنا
والین سوتی گتہہ توہی دونوے تہ جہنم۔

بہیہ مؤمن ہنر حالت چھہ اللہ (تعالے) فرعون
سہنر آسہ ہنر ہش بیان کران نیلہ تمہ پانس

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَخْتَدُوا الذُّيُومَ
لَأَنَا خَيْرٌ مِنْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً
نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ
النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۗ نُورُهُمْ
يَسْطِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَ
اغْفِرْ لَنَا ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٢﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا لَهُمْ
جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٣﴾

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ
نُوحَ ۗ وَامْرَأَتَ لُوطَ ۗ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ
مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا ۗ فَلَمْ
يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا
النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿٥٤﴾


وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ
فِرْعَوْنَ ۗ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ائْتِنِي بِعَذَابِكِ ۙ

بَيْنَنَا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ
عَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾

پروردگار من و نیاو، تر اسے خلدیہ! اثر بناو تو پائس
بش میاں خاطر جنتس منز اکھ گر تو مینہ بچاؤ
تو فرعونس تو تہنزو یکچہ عملو نشہ تو تیتھے پاٹھر
دتم (تہنہ) ظالم قومہ نشہ نجات۔

وَمَزِيْمًا ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ
فَرْجَهَا فَنَقَّصْنَا فِيهِ مِنْ دُونِ مَا وَصَدَقْتِ
بِكَلِمَاتٍ رَبُّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ
الْقَنِينِ ﴿۱۱﴾

بیہ چھ اللہ (تعالیٰ) مؤمن ہنڑ حالت سرکینو
پاٹھر بیان کران بلوہہ عمران ہنڑ کوراس نیسہ
پہنڑ شہم رچھہ تو اسراوس تس منز مین کلام
ترو ومنت تو تمہ اوس تمہ کلامک تصدیق کورنت
یس تہندک پروردگارن تس پیٹھ نازل کرایو،
بیہ اوس تہنڑن (بیٹھ خلدیہ ہنڑن) کتابن پیٹھ
تو ایمان او منت۔ تو وار وار آہن تڑھ منور
پداو ہنڑن، تمہ اوس فرمانبردارن ہند مقام حاصل
کورنت۔



سورة ملك : یہ سورہ چھ کئی تو بسم اللہ ہتھ چھ اتھ اکثرہ آہر بیہ چیس تر رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

(بہ چیس) اللہ (تعالیٰ) سداو ہتھ (پرلن) یس
حد روں کرم کرن دول ہتھ، چھیرک چھیرک رحم کرن
دول چھ۔

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَذِي
الْحَرْقِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲﴾

سبھتا برکڑ دول چھ سدا (ضدا) نیو ہندس اتھس منز
بادشاہت چھینہ۔ بیہ چھ سدا پر ہتھ اکھ ارادہ لوہ
کرنس پیٹھ قادر۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ
اَيْكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَفُوْر ﴿۳﴾

تو چھ موت تو زندگی او خاطر پاؤ کرک ہتھ تر
سدا آزماؤ تو ہنڑ تو ہنڑ منز کس چھ جادو ہنڑ
عمل کرن دول۔ بیہ چھ سدا غالب (تو) سبھتا

اتھ آہس منز چھینہ پیشگوئی تر آہنہر زمانس منز سپدا امت محمدیس منز اکھ بیٹھ مؤمن تو
ظاہر نیس منز سرکی صفات آسن تو تس بیہ الہامن منز مریم ناو ہنڑ۔ امیر پتہ کر سدا
روحانی ترقی تو تس بیہ عیسیٰ علیہ السلام سدا مقام تو ناو عطا کرنہ علیہ السلام

بمخشن بار -

سے چھ بیٹرو ستھ آسمان درجہ چھ درجہ بناؤ کہ
ہو تر چھ (تہ) تر چھ کنہ رحمان (خلایہ) ہنر
پاؤ ایشہ منہر کا نہہ چھیر گبر و چھان تہ تر و چھ
(اوکن یوکن) اچھ پھیر پھیر - کیا تر یہ چھیا
(خلایہ ہنر پاؤ ایشہ منہر کنہ جاہ تہ) کا نہہ ڈر
یا و تر ہنر بوز تہ پوان ؟

بہہ تر پھیر پھیر نظر سو بہہ ام تر تر یوکن
نا کام گرہ صحتہ واپس تہ سوہ آسہ پھمہر (تہ تھہ
بہہ تہ کا نہہ قاب تہ رم نیت تر بوز تہ) -
بہہ اسہ چھ بوز تہس آسائس تر اٹھو ستر پارو
کورمت تہ تہم (تر اٹھو) چھ شیطان ہنہ خاطر
کنہ در شکر باہت بناؤ کہ ہو تر - تہ اسہ چھ نم
(شیطان) ہنہ خاطر اکھ و ہون عذاب مقرر
کر تھہ تھومت -

بہہ بیو پینس پروردگار سنہ انکار کورمت چھ تہن
واہر جہنک عذاب تہ سہ چھ سچھا بچھ ٹھکا تہ -
بیلہ تہ تھہ (جہنم) منہ تراو تہ پین تہ تہم بوزن
تھہ منہ ترچ اکھ بڑ کر کہہ (زن تہ آسہ تر ٹانگ)
تہ سہ (جہنم) آسہ شولہ مارن -

زن تہ ورنہ پینہ تر کہہ ستر چھینہ ، نیلہ تہ کا نہہ
لوگبا تھہ منہ تراو تہ پینہ ، تھو ڈیڈی وان پتر من
تہن تر کیا تو بہ نیش آیو ناہ کا نہہ تہی ؟

تہم دین آ ، اسہ نیش آیو ضرور تہی ، امانہ پوز اسہ
اپز او سوہ تہ اسہ دنیا و تس تر اللہ (تعالیٰ) ہن
کوہ تہ کہنی تہ تا نزل (سورہ سے چھ تہ ہنہ اپز) توہر
چھو اکس تہہ وانہ تھرا ہی منہ ولہ آہتر (تہ پتر خیال
چھو کہہ البام گنہرا وان) -

الذی خلق سموات طباقاً ما
تراه فی خلقی الرحمن من تقویٰ ،
فارجع البصر هل تراه من فطور ①

ثم ارجع البصر كرتین ينقلب
إلیك البصر حاسياً وهو حسیئر ①

ولقد زیننا السماء الذنیاً بمصابیح
وجعلناها جُزُماً للشیطین واعتدنا
لهم عذاب السعیر ①

والذین کفروا بریہم عذاب
جہنم ، وریس المصیر ①

إذا ألقوا فیہا سمعوا لها شھیفاً وہی
تفؤر ①

تکاد تمیز من الخیظہ کلماً لقی فیہا
فوج سألهم خزنتها ألم بأتکم
نذیر ①

قالوا بلی قد جاءنا نذیرہ فکذبنا
فلنما نزل اللہ من شیء ۱ ۱ لان انتم
إلا فی ضللی کبیر ①

بیہ تم لوگو ورنہ پتہ نہ ہر گاہ اسے بوز تک طاقت
آسے ہے یا اسے عقل آسے ہے تو اسی پتہ ہو تو
زنجیے جہنمی۔

لہذا تم کوئی چیز کو ناہ تسلیم اور کئی (بے لایکوا)
جہنمین ہند خاطر شہود لعنت مقدمہ کر رہے۔

یقیناً ہم لاکھ ایم مخلوقہ پاٹھی تہ پتہ پر روزگار
کھوڑاں چھ تہن کیت چھ مغفرت تہ بودہ اچسر۔
بیہ (اسے لوگو!) تو ہی پتہ کتہ کعبتہ سہاوی تو یا
تو کڈی تو، سہا خدایا چھ ورنہ کتہ تہ زبر
پاٹھی زانان۔

کیا یہ چھا سپد تہ بیان نہ سیمو یا د کڈی تو آسن
سے زانہ نہ اندر حال؟ حالانکہ سہ چھ پوشیدہ
کھوتہ پوشیدہ سرن ہند تہ واقف تہ سہ سہا خبر دار۔
سے چھ سیمو شہد با چھ زمین روزن لایق بناؤ تہ
چھتہ۔ لہذا تہنن وادین منز پھیرو تہ تہند ایسے
خداہ سہد، برتہ منز کینو تہ تہن کن چھو پھیرو
گر تہن۔

کیا تو ہی چھو آسمان منز روزن واجتہ ہستی ہستہ
امر کتہ کتہ امنس منز آمتہ؟ زمسہ کر و (تہ)
تو ہر دنیاہس منز ذیل تہ تو ہی وچھو نہ سوزمین
چھتہ چکر کھنواں (تہ تو ہی چھو تباہی نزدیک)

کیا تو ہی چھو آسمان منز روزن واجتہ ہستی ہستہ
امر کتہ کتہ امنس منز آمتہ؟ زمسہ والہ (نہ) تو ہر
پتہ کتہ رود؟ اور کئی (یہ شکلہ منز تہ میون عصب
تازل سپر) تو ہی تازو نہ میون خبر دار کرن کیتہ کر لو تہ
اوس؟

بیہ تم بروٹھو ہو لوگو تہ اسی رسول اپڑا دی ہو (اد)
تمو وچھ ناہ (میون عذاب کیتہ کر لو تہ اوس۔

کیا تمو وچھ ناہ پائس پتہ کئی (تہنہس منز پتہ

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي
أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿۱۱﴾

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ
السَّعِيرِ ﴿۱۲﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿۱۳﴾

وَأَسْرُوْا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۴﴾

أَلَا يَخْلُقُ مَنْ خَلَقَ، وَهُوَ اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ ﴿۱۵﴾

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا
فَأَمْشُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَرَأَيْتُمُ النَّشُورُ ﴿۱۶﴾

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ
الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿۱۷﴾

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ
تَذَكَّرِ ﴿۱۸﴾

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيرِ ﴿۱۹﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ

وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُنَّ إِلَّا الرِّحْمَنُ ۗ عَلِيمٌ ﴿۱۸﴾
 کہہ مثر اوتھ صفت در صف وڑوہ جانوار؛ یکم کبہ وز
 بولن ونہ مہ کوہ پستہ کہہ ومان چہ رحمان (خدائی)
 چہ تم ٹھکاناوان لہ۔ سہ چہ پرتہ چیزک رڈ پانچ
 واقف۔

کیا تم لاکھ میں تہند لشکر ونہ یوان چہ۔ رحمان
 (خدائیس) مقابلہ ہیکنوا توہر اتھ روٹ کر تھہ؛
 کافر تہ چہ صرف فریس منز ہستہ آہتر۔

کیا سوہستی یوسہ توہہ برق دوان چہ، ہر گاہ
 پنن برق بند کر (تہ کا نہہ جھائیس توہہ برق دیوا)
 پندر چہ پے زہ تم چہ بھہ پھرنس تہ ستھہ بشہ ڈور نلس
 (یعنی تھہ عادتس) منز (جادسے بہن) بروٹھ دواتہ۔
 کیا سہ شخص ییس بھہ وارک وکرتھ پکان آسہ، سہ آسہ
 جاد ہائیس پٹھ کہہ سہ شخص ییس سینوہ صراط مستقیمس
 چہ کین اول آسہ؟

تہ وکٹھ نہ سہ چہ خدای ییم توہی یاد کرک وکھو تہ
 تہند خاطر چھن کن رتہ آچہ تہ دل بناور ہتر اماہ
 پور توہی چہو تہ بالکل شکرانہ کران۔

تہ وکٹھ نہ سہ چہ ییم توہی زہینہ منز یاد کرک وکھو
 چہو تہ تسی کن بیو توہی زہند کر تھہ پھرتھہ ہنہ۔

بہ چہ تم ونان نہ ہر گاہ توہی پڑ یارک چہو تہ پے
 وعدہ کر گرتھہ لورہ؛

تہ وکٹھ نہ امیک علم چہ صرف اللہ (تعالیٰ)
 ہس تہ بہ تہ چھس صرف اکہ واش کڈی کڈی
 ہشیار کرن اول (ستقیمس)۔

بہ نیلہ تم سہ (وہہ ونہ آمت غلاب) نزدیک
 یوان وچھن تہ کافرن ہندی بھہ وٹن تہ ہنن ہسہ
 ونہہ۔ یوسہ چہ سہ چیز نیلیک توہی پھری پھری
 مطالبہ کران آسہ و۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ
 يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۗ إِنَّ
 الْكُفْرَ هُوَ إِلَّا فِي عُرْوَةٍ ﴿۱۹﴾

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَزُرُّكُمْ إِنْ أَمْسَكَ
 رِزْقَهُ ۗ بَلْ لَجَّوْا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿۲۰﴾

أَمَّنْ يَمْشِي مَكْبَأً عَلَىٰ وَجْهِهِ ۗ أَهْدَىٰ
 أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۱﴾

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ
 السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا
 تَشْكُرُونَ ﴿۲۲﴾

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ ﴿۲۳﴾

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿۲۴﴾

قُلْ إِنَّمَا الْحِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَإِنَّمَا أَنَا
 نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۵﴾

فَلَمَّا رَأَاهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِه
 تَدْعُونَ ﴿۲۶﴾

لہ یعنی سردار کہتہ والا گرد تہ کا نہ چہیہ ہنہ ہس منز پاران نہ توہی کر مشر و غلاب سرتی تہ تم کہن تہند ماہ۔

گرتھ صافہ پنپنس باغس میو۔
تہ خدایہ سُنہ ناو ہوترا کہ تہ۔

نتیجہ درو یہ نہ پچائیں پروردگار سُنہ طرفہ پھیوڑا تھ
(تہندس باغس) پھیش نیلہ زن تم شوگر تہ
اُسی۔

تہ صبحس تام اوس سہ باغ زستہ و ہلاونہ اُمت
چنانچہ صبحی پکائی کوزہ پانہ و اُنی اکھ اُکس آلو (تہ
وؤکھ ز)

ہر گاہ تہنتز نیت باکٹ میو واپغ چینیہ تہ وونی پکوپنپس
باغس کُن۔

چنانچہ تم گئے تہ تم اُسی لوہ تہ لوہ پانہ و اُنی یہ زمان۔
نہ ازہ تہنتز منوہوڈی منتر کا تہہ مسکین باغس منتر
دائیل سپد۔

تہ صبح پھولنہ برونیٹے اوس تہو بوجکٹ فامہ کرتہ تہو
اڈ نیلہ تہو سہ باغ وچہ تہ وؤکھ اُسی ماہ چہ و تہ
ڈر تہو۔

بلکہ پزیر چہ یہ ز اُسی چہ (پسنہ میو نشہ) نولی مردم
تہا تہو۔

یس تسن منتر جان انسان اوس، تہو وؤکھ کھاسیا توہ سہ
ونیا و ناہ میہ نہ توہی کو تہ چہ خدایہ ہنتر تسبیح کران؛

تہو وون سون پروردگار چہ پرتہ عاہہ نشہ پاک تہ
اُسی اُسی ظلم کرن و اُلی۔

پتہ کوزہ جو اکھ اُکس کُن تو تہ تہ اکھ اُکس، نیشہ کھ طاعت
کرتہ۔

تہ و تہ لگو، اُسہ پیٹھ افشوس۔ اُسی بنے یہ تہو پھوڑ۔
(اگر اُسی توہہ کرو تہ) ووسید چینیہ نہ سون پروردگار
رہہ اسر تہہ کھوتہ جادوت (باغ)۔ اُسی نمو ضرور
پسنس پروردگار کُن۔

وَلَا يَسْتَشْفُونَ ﴿۱۰﴾

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَ هُمْ
نَاثِمُونَ ﴿۱۱﴾

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿۱۲﴾

فَتَنَادَا مُصْبِحِينَ ﴿۱۳﴾

أَنْ اَعِدُوا عَلَيَّ حَزَنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۱۴﴾

فَانطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿۱۵﴾

أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ
مُسْكِينٌ ﴿۱۶﴾

وَ عَدُوا عَلَيَّ حَزْدٍ قَادِرِينَ ﴿۱۷﴾

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ﴿۱۸﴾

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿۱۹﴾

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا
تُتَّبِعُونَ ﴿۲۰﴾

قَالُوا اسْبِخْنَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۲۱﴾

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْا مُونَ ﴿۲۲﴾

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۲۳﴾

عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى
رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿۲۴﴾

تھے یا کچھ عذاب نازل سیدان روزان تہ اگر تم
زان تہ اُسزیک عذاب چھ دُنیاہر کب عذابہ ہنتر
سبھا بڑو۔

مستقین ہند خاطر آسن تہ ہنس پروردگارس ہنتر لغتو
بُرقتہ بارغ۔

کیا اُس زانو کھا مسلمان مجرم برابر؟

توہر کیاہ چھوگومت؟ توہر کیئہ فاصلہ چھوکران؟

کیا توہر ہنتر چھا کائہ (ترتھ الہی) کتاب یئہ منز
توہر یچ کتہہ پران چھو؟

نر یہ توہر پند کرؤ توہر میلہ و (تہ) ضرور۔

یا کیا توہر چھو اسہ کینہہ قسمی و ہر ہنتر ہنتر
قیامت سرام جاری روزان۔ بیہ پر نر یہ توہر و ہنتر
میلہ و توہر۔

ہن پرترھو نر پھو منز کس چھ اسہ کتہ ہند ذہوار؟

کیا ہن لکن ہند حقہ چھا خرایہ ہنتر کینہہ غیالی
شریک؟ او اگر تم پڑی یارک چھو تہ تم شریک کرن
پیش۔

ہنہر دوہر مہینیک وقت پیہ تہ تم ہن شہجہ کرن
خاطر نادتہ انہہ تہ ہن آسہ ہن سجد کرن سب
ہکتہ۔

تہنہر نظر آسن (شرع ہنتر) ہن کن ہنہہ تہ اولت
آسہ ہن ولہ آمہر تہ اکھ وقت اوس سہ نیلہ تم
آسہ سجد خاطر نادتہ انہہ یوان تہ ہن آس
ہن کتہہ یارک (نکر تمو کرایو سجد کرن ہنہہ انکار۔

او وہو نیلہ زن بشر پچ کتہہ ہن کال تام تہنہر
دن پیہ کھتر ہنتر چھہہ ہم کتہہ پاٹھ ہن سجد کرنہہ

لہذا تہ تراو مینہ تہ بیہ (تراو کھ) تم تہ ہم
کتاب اپزان چھہ۔ (پانہ سزا دینچ ہنکر مہ کر)
اُس الزکھ ہم درجہ چھہ درجہ سبھاہی کن تمو طرفو

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ
اَكْبَرُ لَوْ كَانُوۡا يَعْلَمُوۡنَ ﴿۷۰﴾

اِنَّ لِلْمُتَّقِيۡنَ عِنۡدَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٍ النَّعِيۡمِ ﴿۷۱﴾

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيۡنَ كَالْمُجْرِمِيۡنَ ﴿۷۲﴾

مَا لَكُمْ وَاَنۡتُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوۡنَ ﴿۷۳﴾

اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيۡهِ تَدۡرُسُوۡنَ ﴿۷۴﴾

اِنَّ لَكُمْ فِيۡهِ لَمَآ تَخَيَّرُوۡنَ ﴿۷۵﴾

اَمْ لَكُمْ اٰيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالۡحَقِّ اِلَىٰ يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ لَكُمْ لَمَآ تَحْكُمُوۡنَ ﴿۷۶﴾

سَلٰهُمۡ اَيُّهُمۡ بِذٰلِكَ دَعِيۡمٌ ﴿۷۷﴾

اَمْ لَهُمۡ شُرَكَآءُ فِىۡلِیۡۤا تُوۡاۤیۡسُرُ كَاۡتِبُهُمۡ ۗ اِنَّ
كَاۡنُوۡا صٰدِقِيۡنَ ﴿۷۸﴾

یَوْمَ یُكۡشَفُ عَنۡ سَاقِیۡ وَ یُدۡعَوۡنَ اِلَى
السُّجُوۡدِ فَلَا یَسۡتَظِنُّوۡنَ ﴿۷۹﴾

حَاۡشَعۡةٌ اَبۡصَارُهُمۡ تَرۡهَقُهُمۡ ذٰلِۡۤا وَقَدۡ
كَاۡنُوۡا یُدۡعَوۡنَ اِلَى السُّجُوۡدِ وَ هُمۡ سٰلِمُوۡنَ ﴿۸۰﴾

فَذَرٰنِیۡ وَ مَنۡ یُّكۡذِبۡ بِهٰذَا الْحَدِیۡثِ ۗ
سَنَسۡتَدۡرِجُهُمۡ وَّ مَنۡ حَیۡثُ لَا یَعْلَمُوۡنَ ﴿۸۱﴾

کئی لمٹتے ہیں تم زانان تہ چھینے۔
 تہ متن دہر بہ مولیت (یعنی تہ مہر کہ ہتھنرتاہی
 ہند دعا) میون تدسرتھ سبھا دور۔ (تہ سہ
 تھاوتسن انجرتباہ کرتھ)۔
 کیا تہ چکاہا متن کانہہ اجرت مکان؟ تہ تم چھرتہ
 چنیٹہ ہند باعتہ برس تل دہتھ؟

کیا متن چھا غائب علم تہ تم چھرتہ لیکان گرتھان؟
 نہذا تہ روز پینس پروردگار ہندس حکمس پٹھ قائم
 تہ صاٹہ وائل ہندس پٹھ مہ بن نیلہ تہ پینس پروردگار
 آلو کر یاد تہ سہ اوس علم سستی برتھ۔
 اگر تہ ہندس پروردگار ہتھنرتت تہند لکلیف تدوک
 کرہے نہ تہ سہ بیہ ہے اگس دود مہ ہنس مادانس
 منز تراوتھ ترھنہ تہ سہ ہنہے ملائک ہتھانہ۔
 مگر تہ ہندس پروردگارن ترور سہ تہ سہ کورن نیکو
 ہندن منز تھائل۔

یہ لوگوں کو گمراہی پر دوہتو نیلہ تہ ہنس قرآن بوز تہ تم اگس
 پستہو تہو ہرتھو اچھو سوتو تہ ہنس تہکلن وچھان
 زن تہ ہنس والہ ہنس چانہ متاہ ہنس۔ بیہ چھرتہ زمان
 گرتھان نہ یہ تہخص چھ دیوانہ۔
 حالانکہ یہ (قرآن) چھ ساری دنیا ہہ باپتھ شرف
 تہ عزت تہ ہتھ آمت۔

وَأْمِنَ لَهُمْ إِنْ كُنْوا فِي مَدِينَةٍ ۝۲۹

أَمْ تَشَاءُ لَهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّخْرُومٍ
 مُثْقَلُونَ ۝۳۰

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ۝۳۱
 قَاضِيًا لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ
 الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝۳۲

لَوْ لَا أَنْ تَدْرِكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ
 بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۝۳۳

فَاجْتَنِبْ رُبَّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۳۴


وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ
 بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ
 يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝۳۵

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝۳۶

۱۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام ہندس پٹھ مہ بن یعنی ہنس قومس متعلق فاصلا طلب کرنس

منز جلدی مہر۔

۲۔ ہند پتھ کتاب انن دول کتھ گئی آہہ دیوانہ۔



سورۃ الحاقہ، سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ ترو ترو تزاہ آہرہ بھچیس تہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 (ہر چھیس) اللہ (تعالیٰ) سُدناو ہتھ (پرلن) یس
 حدر رُوس کرم کرن دول تہ پھیر پھیر کرم کرن دول
 چھ۔

الْحَاقَّةُ ①
 مَا الْخَاقَةُ ①
 یعنی سو برحق خبر (لیوہ قرآن وُذی)
 الخاقۃ کیاہ چھین؟

یہ تریز کوی چیزن پھے ووڈنت نہ سو پور سپدھ
 روزن واجیو خبر کیاہ چھین؟

کَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِ ①
 تہ زمانہ کہ عذاب (خبر اس) تہ اوس "قارہ" اپروڈمت ایوہ
 تہ عذاب (خبر اس) تہ اوس "قارہ" اپروڈمت ایوہ

فَإِذَا ثَمُودُ جَاهِلِكُوا بِطَغْوَاهِ ①
 یوسام (قوم) تہوڈک تعلق چھ تم آہہ کہ تہ عذاب
 سوتی ہاک کرن یس پننس شدنس منزاً تھقس
 ووڈمت اوس۔

وَإِنَّمَا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِسِرِّهِمْ صَرَصِرٍ
 عَابِيَةٍ ①
 تہ عاد (تہ) آہہ کہ تہ عذاب سوتی ہاک کرن یس
 داو تھکہ آمت اوس یس مسلسل پکان روڈتہ سجت
 تیز اوس۔

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَلَمِيَّةَ آيَاتٍ ①
 ستن راتن تہ اٹھن دن ہن تہنر تہا ہی خاٹہ
 مقرر کر تھ تھومت۔ (اے وچین والہ!) تہ
 وچھین سہ قوم اُس تہوڈہ بس تہ پھیر پھیر
 حاس منزرن چھ تہم کہ کھ کھ کھ کھ کھ کھ کھ
 یہ تیز واون پھیر پھیر تھو ہتھ آسن۔

فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ①
 (اے مخاطب!) وہ ذی دن نہ کیا تہنہ کا نہہ
 نشانہ چھیا تری نظر یوان؟

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمِن قَبْلِهِ وَالْمُؤْتَفِكِ
 بِالْخَاطِئَةِ ①
 یہ فرعون تہ ہم لاکھ ہم تس بروڈھ اُس آہہ
 (یہ ذی یہس منز) خطا زد گرتھ ہتھ۔ یہ (قوم
 لوط چہ) تہہ بستیہ تہ یہہ گونہ ہو کونہ پھرنہ آمتہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 (ہر چھیس) اللہ (تعالیٰ) سُدناو ہتھ (پرلن) یس
 حدر رُوس کرم کرن دول تہ پھیر پھیر کرم کرن دول
 چھ۔

<p>آسہ - (بیہ) تمہو آس پنشن پروردگار ہندس رسولہ ہنتر نافرمانی کر پڑے۔ لہذا تم تہ رُذِلَ اللہ (تعالیٰ) ہن اکر تہجد عذابہ سستی یس ہران گرتھان اوس (تہ سہما بکروٹھ اوس)۔</p>	<p>فَعَصُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَاخَذَهُمْ آخَذَةً رَابِيَةً ⑩</p>
<p>(توچہ ہند وقتہ) نیلہ آب تمدن ہوتن آسہ آسود توہی لاکھ تہ آکس ناو منز سوار کرک ہوتی۔ بیٹھ زن آسوسہ (واقبہ) تہند تہا طراکھ نشان مٹھراون تہ یوزن واطر کن یوزن (تہ دل تھون سہ یاد)۔</p>	<p>إِنَّا لَمَطَّاءُ الْمَاءِ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ⑪ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أذُنٌ وَأَعْيَةٌ ⑫</p>
<p>اد سینلہ پوگہ منزی زورہ سلان اکی لہ پھو کھ دہہ پیہ۔</p>	<p>فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ تَفَجَّعًا وَاحِدَةً ⑬</p>
<p>تہ زمین تہ بال بین پسنہ مقامہ پیٹھ تمھو تسنہ تہ تم گرتھن آکس تہ ہس منز ریزہ ریزہ۔</p>	<p>وَخُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ⑭</p>
<p>اد تہ دوہہ گرتھہ مقررہ پیدمت واقبہ وزن بیہ آسمان پھٹ تہ سہ پیہ تمہ دوہہ ہکل بود یوزن تہ۔</p>	<p>فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ⑮ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ⑯</p>
<p>بیہ ملائک آس تمہ کین زندین پیٹھ تہ تمہ دوہہ آس آکھ ملائک چاہس پروردگار سند عرش تہلٹھ۔</p>	<p>وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَزْجَائِهَا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ قَوْمَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمِينًا ⑰</p>
<p>تمہ دوہہ بیو توہی خدایس بروٹھ کنبہ پیش کرنہ تہ کنبہ کتھ روزہ تہ تمہ ہنش کھٹھ (یسنہ تہند سورہ حساب کتاب بیہ تمہہ بروٹھ کنبہ پیش کرنہ)۔</p>	<p>يَوْمَئِذٍ تُحَرِّسُونَ لَاتِخْفُ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ⑱</p>
<p>اد بیس تسند اعمالنا ہندس دچھنس اتھس منز دہہ پیہ سہ ونہ شتمہ سستی باجین نہ ڈولہ میون اعمالنا ہہ وچھو۔</p>	<p>فَأَمَّا مَنْ أَدْبَىٰ كِتَابَهُ بِبِئْسَ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُ وَكَثِيْبَةٌ ⑲</p>
<p>میزہ آس پور پڑھ نہ ہہ ڈھہ اکر دوہہ پن حساب۔</p>	<p>إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيَةٍ ⑳</p>

لہ الحاقہ یعنی پڑی پڑھی پور سپدن واجبی پیشگوئی گرتھہ فتح کہہ کر دوہہ پور۔
 تہ سورہ فاتحہ ہس منز چھ اللہ (تعالیٰ) ہندک ترور صفات بیان کرنہ آوتی تہ فتح کہہ کر دوہہ
 گرتھن تم دکن تہ اللہ (تعالیٰ) سند جلال سپد جلو کر۔

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٦٧﴾

لہذا یہ خوش ہے اور سچے سچے پریمیوں پر زندگی ہندسہ ۵۰۰۔

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٦٨﴾

بہ روزِ عالی شان باغِ اندر۔

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٦٩﴾

جنگو مہو آسن نیچے۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا آسَلَفْتُمْ فِي
الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٧٠﴾

(تو تم پیو و پیو، دنہ زہ، پتھر بس زمانس منزیم اہمال
توہہ بجا آئی ہو آسرو۔ تمہن ہندس تپتیس منز

کھینو زہر پاپو (میو) بیہ چینیو (تامن ہند) آب،
زہ پو منز شریو توہہ پر سچہ کا نہہ چیز جان پاپو۔

تہ پتیس شخصس تہند امانان تہ ہندس کھوورس اتھس
منز دنہ پیو، سہ و نہ ہے کیا گوم! میں نے میرن

اگانام دئے پیو ہے۔

تہ میں لگہ ہے نہ پتیس زہ میرن حساب کیاہ چہ؟

کاش! میرن موت نہہ ہے میں مو کلاو پتہ۔

میاں مان دیت نہ میں از کا نہہ قاید۔

تہ میاں پیٹھولی روز سوران۔

وَلَمْ آذِرْ مَا حَسْبَ يَهُ ﴿٧١﴾

يَلِيَّتَهَا كَأَنَّ الْقَاضِيَةَ ﴿٧٢﴾

مَا آغَى عَنِّي مَالِيَةَ ﴿٧٣﴾

هَلَاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةٌ ﴿٧٤﴾

خُذْهَا فَعَلُّوهُ ﴿٧٥﴾

(تہ و تہ و نہ خدا ٹھیکن) یہ رٹیون تہ اوس ترا دو

گردن طوق تالی۔

پتہ رٹیون جہنس منز برتہ۔

پتہ چاریون پہ اوس کاکلہ منز لوسہ آنتہ روس ریٹہ

آسہ۔

یہ اوس نہ کتا حکومتہ و اوس اللہ (تعالیٰ) بس پتہ

ایمان انان۔

بیہ اوس نہ مسکین کہن کھیاوس کن (لوکن) مال

پھران۔

لہذا اڑ کر دہہ آسہ نہ کا نہہ تہند یار (تہ کیا نہ

پتہ پتہ کئی چہ تہ لوکن ہنس ہمدردی راورا پتہ۔

تہ تس میلہ نہ کتہ کہن چھکن ہند چیلن وانہ روس۔

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾


وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَشْكِينِ ﴿٧٧﴾

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَشِيلِينَ ﴿٧٩﴾

لہ عربی زبان منز چہ آنتہ روس مفہوم ادا کرتہ خاطر سنتہ استعمال کرتہ یوان۔

وَرَأَيْتُ لَحْشَرَ عَلَى الْكُفْرَيْنِ ⑩
 بے (چھریۂ زمانہ زہ) کافرن ہندین دین مشر چھ
 قرآن حسرت پاد کران -
 وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ⑪
 بے امیک پزر چھ حق الیقین پاطھ نون -
 فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ⑫
 لہذا تر کر سبب سبب پرور دیکھ ہند نلو ستر
 تہنہ پاکیزگی بیان -



سورة معارج : یہ سورہ چھ کئی تر بسم اللہ پتھ چھ اتمہ پندرہ تا جی آیہ بے چھس تر رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
 بے چھس (اللہ تعالیٰ) سندا ناو پتھ (پیران)
 یس حد رؤس کرم کرن وول (تر) پتھ ک پتھ ک
 رحم کرن وول پتھ -
 سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ②
 پرتھن وول پتھ پرتھان (منکرن پتھ) کر بے
 اٹل عذاب -
 لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ③
 (یاد تھوور زہ) کافرن پتھ تمہ نیشہ بچاون وول
 کنہی (اذکر) وقتس متعلق سوال کرن پتھ بے فایدہ -
 مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ④
 بے (عذاب) پتھ ذوالمعارج خدایہ سندر طرفہ -
 تَخْرِجُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ
 كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ⑤
 عام ملائک تر جبرائیل پتھ تن (خدایس) کن تپتس
 وقتس کھسان تیپج بمقدار پانترہن ساسن ورین
 برابر آسان چھہ -
 قَاسِمٍ صَبْرًا جَمِيلًا ⑥
 لہذا تر کر زبر پاطھ صبر -
 إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ⑦
 ہم لوکھ چھ سہ (دوہ) سبھا دور زمانہ -
 وَتَرَاهُ قَرِيبًا ⑧
 مگر اُسو چھن سہ سبھا نزدیک وچھان -
 يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ⑨
 تمہ دوہ سید (تمیز تر تر کر باعہ) آسمان
 وگلاوہ آمتہ تراکی پاطھ -

لہ یعنی درج پتھ درج ترقی دہ ولس خدایہ سندر طرفہ -

- تو بال عشرتوں دونوں آمتہ سیرک پائو۔
 ۱۰ وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۱۰
- بہ تہ دوہہ کمر نہ کاتہہ دوست کاتہہ دوستس
 متعلق کاتہہ سوال۔
 ۱۱ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۱۱
- تہ کیا ز تہ دوہہ سیر پرتہ شخفہ سنز حالت
 تہرس دوستس ناوتہ۔ مجرم سیرتہ نہ اگر اڑی کہ
 دوہہ کہ ہذاہ (بنتہ بچتہ) خاطر تہ توہربان کرنی
 بین پرتہ گبر۔
 ۱۲ وَيُبَصِّرُوا كَأَنَّ مَحَدًا مُّجْرِمًا لَّو يَفْتَدِي
 مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِمْ يَسْتَأْذِنُ ۱۲
- تہ پرتہ آسیر تہ پنن بوے
 تہ پنن قسبہ لیس تس (وقتہ وز) پناہ دولان اول۔
 نہ دنیاہس منزہہ کینترھا چھ (تجھ توہربانی) تس
 سجات دیہ سبہ
 ۱۳ وَ صَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۱۳
- بوزو اسہ عذاب سیرتہ خبر دہہ آسیر چھہ ، چھ ناہ
 ترھہ مالک دول عذاب۔
 ۱۴ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۱۴
- کلس تام مسلہ والن دول عذاب چھہ۔
 لیس تس تہ ابن ناد وقتہ لیس تھر چھر تھہ ثلن
 سیرتہ۔
 ۱۵ كَلَّا إِنَّهَا لَأَنفٌ لُّظِي ۱۵
- بہ (تس تہ) لیس جمع کران رُوڈ تہ سوہ تہر اوتہ
 کورن ذخیر۔
 ۱۶ نَزَّاعَةً لِّلشَّوْمِ ۱۶
- انساس چھہ فطرس منزہہ غار مستقل مزاری
 سیرتہ کاتہہ تکلف واتہ آتی چھہ کابران
 ۱۷ تَدْعُوا مَنْ آذَبَكَ وَ تَوَلَّى ۱۷
- تہ سیرتہ کاتہہ قاید واتہ تیلہ چھہ سخی کرنی لاکان
 (تہ چھہ سیرتہان تہ کاتہہ گورہ تس شریک اسن)
 رالاکہ نماز پران اولی۔
 ۱۸ وَ جَمَعَ قَاوِمِي ۱۸
- یم پینن نماز پرتہ ہمیشہ تاپیم روزان چھہ۔
 بہ سیرتہ مان منزہہ گندہ جھہ آسان۔
 ۱۹ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ ۱۹
- غریب سوالن ہند خاطر بہ تہند خاطر تہ یم سوال
 ۲۰ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْدُ مَنُو عَا ۲۰
- ۲۱ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۲۱
- الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۲۱
 وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۲۱
 لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۲۱

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا
لَقَادِرُونَ ﴿۷۱﴾

او کہو بہ چھین (نیمہ قرآنک تازل کرن وول)
مشرکت تہ مغربک پروردگار شہادتہ کہتہ پیش
کران ز اسی چہ اتھ کتھ پیٹھ قادر۔
نہ یہ قوم تباہ کرتھ کردن اسی اکھ بیاکھ قوم پاؤ۔
تو کاشہہ ہیکہ نہ اسہ امر ارادہ ہتہ باز تھوتھ۔

عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ۚ وَمَا نَحْنُ
بِمَسْبُوقِينَ ﴿۷۲﴾

لہذا تہ تراوکتھ تم میتھ دن تم روزن پزرس
گروٹ کران تہ اسنس گندس مشر سپدن مبتلا
تتھ ولس تام نیلہ تم سہ دہہ وچن نیکی
تمن ستر و عد کرتہ یوان چہ۔


فَذَرَهُمْ يَخْضَوْنَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا
يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿۷۳﴾

نیمہ دوہہ تم قبر و مشر زہد سپدتھ نمبر نرن تہ
و تاول سان آسن دولن دن تہ آسن تم خاص ستون
کن دولن گرتھان۔

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا
كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُودِضُونَ ﴿۷۴﴾

تہنہر اچھ آسن شرمہ ستی نہتھ تہ تہندن تھن
پیٹھ آسہ ذلت چھاوتھ۔ یہ چھ سہ دہہ نیکی
تمن ستر و عد کرتہ یوان چہ۔

كَاشِحَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهَهُمْ ذُلًّا ۚ
ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۷۵﴾



سورۃ نوح : یہ سورہ پچھ کئی تہ بسم اللہ پچھ چھ اتھ کنترہ آہہ بیہ چھس تہ رکوع۔

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سنداو ہتھ اپران) بیس
حدہ دوس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رحم
کرن وول چہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ

لہ احاص، یخوض، رہ ستر میتھ کرتھ آب گروٹ کرن۔
تہ بیستین اگر دنیاوی قیامت مراد نہ بیہ تہ امیک مطلب آسہ تر نیلہ دنیاوی عذاب
پیہ تہ کھان مغر گرتھ اکھ بیداری پاؤ بیٹھو نوح مگر کس موقس پیٹھ کھان ہوش
آیاو تہ ہتھ ہوت پتھن ستون لینے لیدن کن پناہ باپتھ گرتھن۔ نضب چھ تھن نشان
ذنان مگر کردہ دور ہندن مادان مشر آخری ہتھ ناوہہ موکھ نضب کرتہ یوان چہ۔

زَمِينٌ قَوْمِ كُرْنِ تَمِيهِ وَقَتْمِيهِ بَرُونِطُهُ بِشِيَارِ يَنْبِيْلِ زَنْ
تَمِنِ پِيٹھ دگر دار عذاب تَنْزِيلِ سِيدِ -

تَمَرُ وَتِيَاوِ (پننس تومس کُن کتھ کران) اے میانہ
قَوْمِ! بِرِ تَمِنِ تَوْبِهِ كُنْ اَكْه تَمِيهِ وَابْنِ كَهْوَرِ نَاوِنِ وَوَلِ
(نہی) بُنِيْتَةُ اَمْتِ -

(تو توبہ چھسو ذان تر) بِرِفِ كَرُو اللّٰهَ (تعالے)
بہنرے عبادت بیہ پراو تَسَدِّے تَقْوَىٰ بِيہ كَرُو سَايْرِ
فَرَا مِي رَا رِي -

سُہ كَرِ تَمِيْدِ كَرِ مَوْنَاهِ مَعَا فِ تَوْبِهِ دِيُوَهْ اَكْسِ كَرِ مِيْدِ
وَقَسِ تَامِ مَوْبَتِ تِ اَلر تَوْبِي زَانَانِ چَمُو (تیلہ تَرِكِ
تَوْبِكِرِ) نَرِ يَقِيْنَا (كَمِي تَوْبِي مِيَاہِي خَا طِرِ) يَنْبِيْلِ اللّٰهَ
(تعالے) ہنر مَقَرَّرِ كَرِ مِيْرُ پِيہ تِ سُوہ مِي كَرِ مَوْنَاهِ
پِي تھ -

پِي تِ وَوِنِ تَوْبِ (اللّٰهَ تعالے ہس) اے میانہ پَرُو رِ دِ كَاہِ!
مِيہ لُو سِے پِنْسِ تومس رات كِيْتِ تِ نَادِ تِ دِہ ہلہ
تِ لُو سِے كَھ نَادِ -

اِمَاہِ پِلُو زِ مِيَاہِ تَبْلِيْغِہِ كَرِ كَرِ تَمِ بِرِہِنِ تِ دُوْرِ تَرَلِيْنِہِ -
بِيہ يَنْبِيْلِہِ مِيہ تَمِنِ زَانِيْہِ تَبْلِيْغِہِ كَرِ يَتھ تِ رِ تَمِ مَانِيْنِہِ تِ
تِ كَرِ كَرِہِ تَمِنِ مَعَا فِ - تَمُو تَرَاوِ پِنْسِ اُو كَمِجِ پِنْسِيْنِ
كَمِنِ مَنَزِ تِ پِيْنِزِ پِلُو اُو كَمِجِ (پِنْسِيْنِ كَمِنِ) تِ نَكَارِ
پِي تھ كَرِ كَرِہِ اُو اُو - تِ شَدِيْدِہِ تَمَكْتَرِہِ ہنر كَرِہِ سَا مِ -

پِي تِ كَرِ مِيہ تَمِنِ تَمِنِ تَمِنِ اَوَا زِہِ (يِنِے تَقْرِيْرِ) سَقِي تِ
تَبْلِيْغِہِ -

پِي تِ كَرِ مِيہ تَمِنِ تَمِنِ تَمِنِ اَوَا زِہِ (يِنِے تَقْرِيْرِ) سَقِي تِ
تَبْلِيْغِہِ -

پِي تِ وَوِنِ مِيہ تَمِنِ پِنْسِ پَرُو رِ دِ كَاہِ سُنُو مَغْفَرْتِ
سُہ چھ سَبْطَا بَجَشِ نَارِ -

اَلر تَوْبِي تَوْبِيہِ كَرُو تِ سُوہ سُوہ تَوْبِيہِ كُنِ دَرَا يِہِ رُوْدِ وَوَلِ
وَلِ اُو زِہِ -

قَوْمِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَهُمْ عَذَابٌ
اَلَيْمٌ ۝۱

قَالَ يَقُوْرُ اِنِّي لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۲

اِنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ۝۳

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُوَجِّزْ لَكُمْ اِلَى
اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا
يُؤَخَّرُ مَلُو كُنْتُمْ تَخْلَمُوْنَ ۝۴

قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝۵

فَلَمَّ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي اِلَّا فِرَادًا ۝۶

وَرَبِّي كَلِمًا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا
اَصَابِعَهُمْ فِيْ اُذَانِهِمْ وَاسْتَخْشَوْا
رِيْآبَهُمْ وَاَصْرُوْا وَاَسْتَكْبَرُوْا
اَسْتَكْبَرُوْا ۝۷

ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَادًا ۝۸

ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَزْتُ لَهُمْ
اِسْرَارًا ۝۹

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ عَفُوًّا ۝۱۰

يُزِيْلُ السَّمَاءَ عَلَيكُمْ مِّدْرَارًا ۝۱۱

بہ کر مالو تہ اولاد سب تو تہند امداد۔ بیہ وہ پدلو تہند
خاطر بارغ تہ تہند خاطر کیناو ڈریاد۔

توہر کیا چھو موت ز اللہ (تعالے) ہس نش چھو تہ
حکایت و امید تھاوان۔

خانہ کو چھو توہر سبھا ترتیبہ، قابل کر تک طاقت
دقت سوزی ہوت۔

کیا توہر چھو نا و چھو تہ اللہ (تعالے) ہن کتھ پاٹو
چھو شتہ آسمان پاڈ کر کر ہوت؟ بیم (توہر نہ کر خاطر)
اکہ اُکس مطابق چھو۔

بیہ چھو تہ زون آسمان) منز نوک باعت
بناو ہوت۔ بیہ چھو آقب آسمان (منز) اکہ تراکب کس
منزلت منز ہوت۔

بیہ کر کر و توہر اللہ (تعالے) ہن زمینہ منز پاڈ
تہ وہ پدن پے بخش تو جان پاٹو۔
پتہ تی و سہ توہر پھیرتھ اُتھو منز تہ توہر کڈو
(تہ) امی منز۔

بیہ چھو اللہ (تعالے) ہن زمین سوتہ بناو ہوت۔

یہ زون توہر تو چھو کھڈ ڈلہ و تن پیٹھ پکو۔

پتہ وون توہن ۱۰ سے میانہ پروردگار! تو کر میانی
نا فرمائی تہ (میانہ بدل) چھو تن پتہ دراہتی نیمر مند
مال تہ اولاد آسمان (رؤحانی) خسارس منز ہر راوان کوڈ
بیہ کر کر (میںہ خلاف) بڑی بڑی تدبیر۔

بیہ روڈی (پننس قوس) و نان ز یختہ توہر پیٹو مینو
تراویکھ۔ نہ کر تھ وڈ تراوان، نہ سوارع تراوان تہ نہ

وَيُؤَدِّكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَيَجْعَلُ
لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَرًا ۝۷

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝۸

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝۹

أَلَمْ تَرَ أَوَّكَيفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
طَبَقًا ۝۱۰

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ
الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝۱۱

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝۱۲

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝۱۳

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝۱۴

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا وَجَاجًا ۝۱۵

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا
مَنْ لَمْ يَزِدْكَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۝۱۶

وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ۝۱۷

وَقَالُوا لَا تَنْزِلُنَّ إِلَيْنَا وَمَا تَنْزِيلُكَ إِلَّا
وَأَسْوَأُ عَاءً وَلَا يَغُوثٌ وَيَعُوقُ وَنَسْرًا ۝۱۸

لہ یعنی ساری ہے کائیناتس منز چھو اکے توہن جاری تہ یہ چھو اللہ تعالیٰ ہندس اُکس
وہوڈس پیٹھ اکھ شہادت۔

لہ یعنی توہر کوہر رتہ پاٹو نشو و نما عطا۔

یغوث تہ نہ یعوق تہ نہ نسرہ
بہ تم کڑی داریاہ لوگہ گمراہ تہ (اے خدایہ!) ظالم
ہر رادک ربکہ صرف ناکامی منہز۔

تم آیہ پسنہو گوناہن ہند شامہ آیس چاٹناوتہ،
پتہ آیہ نارس منہز داؤخل کرنہ تہ اللہ (تعالیٰ) اس
ورائی نوب نہ ہتو پستہ شاہر کشتہ مددگار۔

بہ کوز نونن یہ دکانر اے میاہ پروردگار! کافر
منہز ہتھاؤن زہینہ پیٹھ اکھ گرتہ پتھ کن۔

اگر تیر تم پتھ پاٹھ تراوتھ تہ ہم کرن چاہن بین بند
تہ گمراہ تہ تم زبوراون نہ بدکار تہ کفر کرن والہو
ورائی کاشہ اولاد۔

اے میاہ پروردگار! میںہ بخش تہ بہ میاہن مابن
ماہر بہ پرتھ تس شخصس یس میاہن گرس منہز موبن
پتھ داؤخل سپدن چھ، بہ سارک ہن موبن مردن
تہ سارک ہن موبن زمانن تہ (کر تہ مغفرت) بہ سپدن
پتھ کوز نونن صرف تہا ہی منہز ترقی دہن
مہ مابن کامیابی نصیب)۔


وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ
إِلَّا ضَلَالًا ①

مِمَّا حَطَّيْتَهُمْ أَغْرَقُوا فَأَدْخُلُوا نَارًا
فَلَمْ يَجِدْوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ②

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ
الْكُفْرِينَ دِيَارًا ③

إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا
يَلِدُوا إِلَّا فِاجِرًا كَفَّارًا ④

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ
بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ⑤



سورۃ جن - یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اٹھ کتترہ آیہ بہ چھس زہر رکوع۔

(ہر چھس) اللہ (تعالیٰ) سندن او ہتھ (پران) یس
جہر دوس کرم کرن اول (تہ) پھیرک پھیرک رحم کرن
اول پتھ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

لہ اصل چہریم کہینہ ساکن تہ تہندن منہزن ہندر ناو - نوح ہندر تومن آسی یکن ناون پیٹھ
جون بیون پوٹھ بناو ہتہ تہ تہندن تقلیدس منہز آسی کہہ تہ طایف کہو بیت پرستو تہ یکن
ناون پیٹھ پوٹھ بناو ہتہ۔

تو ان میں پھیلے وحی کرنے آہنتر زریقینا جنو منزلہ اکر
بماثر یوز (قرآن) تو پیتہ (نیلہ تم پنس تومس کن
چھپر تھ گے تہ) پنس تومس وونکھ تر اسہ یوز اکھ
عجب قرآن۔

سہ چھ ہدایتس کن نوان میںہ کوز اسہ اوان تھہ پیوٹھ
ایمان تہ اسی ٹھہراون نہ میںہ یوز نہ میںہ پنس
پروردگار مند کاٹھہ شریک۔

تہ حق چھ بہ تر سون پروردگار چھ سبھا تھہ شاہ
دول، میں نہ چھ تو زانہہ کاٹھہ آہنتر بناو منتر تہ
نہ چھن کاٹھہ نیچو بنو مت۔

میں بہتہ چھ حقیقت تر اسہ منتر اسی کہینہ بیوقوف
لوکھ اللہ (تعالے) ہس متعلق تم کتھ کران کم تہ
تو بہ ہن۔

تہ اسی اسی اتھ خیاس پیوٹھ تر انسان تہ جن ہیکن
نہ اللہ (تعالے) ہس متعلق ایڑ و تھہ۔

میں بہ تہ چھ حقیقت تر انسانو منتر اسی کہینہ لوکھ
تھو یکم جنو منتر کینترن نفرن پناہ منگان اسی۔ او
کتر تمیک تہ تہ دراوہ در امو انسان ہندی جن
پناہ منگن اہر راوی جن کبرس منتر میں ہن تہ۔

میں بے تنک اسی تم تہ تی گمانہ کران تھکن تو اسی
گمانہ کران چھو تر اللہ (تعالے) کتر نہ میںہ یوز کاٹھہ
سبوت۔

میں اسہ چھو آسمان یعنی آسمانی علم حاصل کرنج کر
کوشش مگر اسہ لوب میں مضبوط پھر ڈرو تہ تہاٹھ

قُلْ أُذِجِي إِلَيَّ إِنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ
الْحِجِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝

بِهَدْيِي إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابَهُ وَلَكِنْ تَشْرِكُ
بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝

وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدًّا رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً
وَلَا وَلَدًا ۝

وَأَنَّهُ كَانَ يَفْقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ
شَطَطًا ۝

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ الْإِنسَ وَالْحِجُّ
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ
بِرِجَالٍ مِّنَ الْحِجِّ فَرَادُهُمْ رَهَقًا ۝

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ
اللَّهُ أَحَدًا ۝

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلْأَتْ
حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝

لہ جنو تہ چھ مراد مکس میںہ کینہ یہودی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میںہ بعثت
علم سید تہ قومہ کہ میںہ آپ کھو کھو تہ تہہ بوزکھ قرآن کریم۔

سہ سوناہ میںہ یوسہ رات کیت آسمان منتر دور تام اکہ پر زلونہ ہرکھ ہندی یا مٹو بوز تہ اوان
چھینہ تہ کاشرک یا مٹو "سارکھ ڈلہ گزھن" وناں چھہ۔ پتہ چھہ مراد تریس شخص قرآنی
تعلیم منتر غلط کتھ بناوانی میںہ، اللہ تعالیٰ سوز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میںہ ہرکٹہ چھینہ
لوکن کن تہا ہی ہندی سامان۔

ثاقبوسو ستر برتھ

تہ اسی اسی بروٹھ (آٹھ مندر آسمانی کھج) بوز تہ
خاطر بہان مگر وہ ذلیس کا ترزا (آسمانی کھج)
بوز پرخ کوشش کران چہ تہ سہ چہ افس (ہلاک کرن
و افس) تارکس پاس زباگر رُوڑ تھ لبان۔

بیہ اسی چھتہ زانان زامس بیہ وادی بند دوسری چھا
زہیدہ مندر بسن والین لاکن بند خاطر کتہ عذابت
فاصلہ کرتہ آمت کتہ تہندہ خاطر چھ تہندہ پروردگار
ہایت دیکھ فاصلہ کورمت۔

بیہ اسہ مندر چھ کیتہ نیک لوکھ تہ تہ کیتہ چھ آٹھ
جگات تہ۔ اسی اسی بیون بیون دن پیٹھ پکان۔

تہ اسی اسی پترھ مھوان زہ اسی ہیکون تہ اللہ
دعاے) دنیاہس مندر ناکام بناوتھ تہ نہ ہیکون
سہ دوو کرتھ عاجز کرتھ۔

بیہ اسہ سیتھ ہدایت کلمہ بوز، تھ پیٹھ اون ایمان
تہ یس شخص پینس پروردگار پیٹھ ایمان انان چھ
سہ نہ چھ کتہ تو تعاس کھوتان تہ نہ کتہ ظلمس۔

تہ اسہ مندر چھ کیتہ فرمانبردار تہ کیتہ چھ ظالم تہ، تہ
یس کا ترزا فرمانبردار بنان چھ سہ چھ ہدایت طلبکار
آسان۔

بیہ یم ظلم کران چھ سہ چھ جہنمک زان بنان۔

تہ (اسے بیغیر! میں اوس فاصلہ کرتھ مھومت زہ)
اگر یم (ہلکو کافر) سائس وڈی سہ بس طریقس
پیٹھ تا یم سید بن تہ اسی چاو ہوکھ تم کتہ آب۔

یہ تہ زن امہ کہ دوس اسی تہنہ آزمائش کریم تہ یس شخص
تہ پینس پروردگار بندہ ذکر بشہ رو سے گردانی کران
چھ۔ سہ (خدا) چھ تس تہ تہ عذاب چھ و تہ پیٹھ
پکانوان یس ہر اپنے چھ گزھان (تہ) تم چھ سوس

وَ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۚ
فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاَنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا ﴿۱۰﴾

وَ اَنَّا لَا نَدْرِي اَشْرُّ اَرِيْدَ يَمَّنَ فِي
الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿۱۱﴾

وَ اَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذٰلِكَ ۚ
كُنَّا ظَرَائِقَ قَدَرًا ﴿۱۲﴾

وَ اَنَّا ظَنَنَّا اَن لَّن نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ ۚ
لَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿۱۳﴾

وَ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰى اٰمَنَّا بِهِ ۚ فَمَنْ
يُّؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا
رَهَقًا ﴿۱۴﴾

وَ اَنَّا مِنَّا الْقٰسِطُونَ وَمِنَّا الْقٰسِطُونَ ۚ
فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُوْلٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿۱۵﴾

وَ اَمَّا الْقٰسِطُونَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ
حَطَبًا ﴿۱۶﴾

وَ اَن لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَ الطَّرِيْقَةِ
لَا سَقِيْنَهُمْ مَّاءٌ غَدَقًا ﴿۱۷﴾

لِنَقْتَنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ
رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿۱۸﴾

وتمہ اختیار کر رہا ہے۔

بہ اوس اسے پتہ تھا صلہ کورمت نہ مسجد بن ہمیشہ اللہ (تعالیٰ) ہنترے ملکیت ٹھہراوے۔ لہذا اسے لڑو! تو ہر مہ کرو بہن مشرتس وراہی ٹھانسی آلو۔
بہ اسے چھ بوزنہ یوان۔ نہ نیلیر اللہ (تعالیٰ) سند بند (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تن آلو دہہ خاطر استاد سپان چھ تہ یم (مکہ واری) چھ تنس پیٹھ، ہجوم کر تھہ پتھہ پہوان۔

تہ وہکھ بہ تہ چھٹس صرف پینٹس پروردگار اس ناد دوان تہ کانہہ چھسن تہ تمہ سند شریک قرار دوان

بہ وہکھ پتہ نہ مینہ منر چھپنہ توہر کتہ تہمک ضرر واتناونک یا ہدایت وکک طاقت۔

(بلکہ یہ تہ) وہکھ (زار اللہ تعالیٰ مینہ پیٹھ عذاب نازل کر تہ) اللہ (تعالیٰ) بند عذاب ہنتر مینہ بچاون دول آسہ نہ کہنہ تہ سہ تراوتھ چھٹس نہ بہ کانہہ جایہ پناہ بیان۔

مینا کلام تہ چھینہ صرف یہ نہ اللہ (تعالیٰ) سوز کتھ تہ تہند پیغام واتناو تہ یم لاکھ اللہ (تعالیٰ) تہ تہنک رسولہ ہنتر کتھ چھتہ مانان بہن چھ تہمک نار میلان۔
تہم گزہن تھہ مشرتس کال تام روزان۔

آ، نیلیر تہم وعدہ دہہ آمت عذاب وچھن تہ زانن کس چھ مددگار و لحاظ کمزور تہ کس چھ گزہنیز حسابہ کم۔

تہ وہکھ نہ مینہ چھنہ پے نہ تہنتر وعدہ دہہ آمت گزہ چھ نزدیک کہنہ اللہ (تعالیٰ) کر تہہ خاطر کانہہ زیلوٹھ مدت مقرر۔

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۱۱

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۱۲

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۱۳

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۱۴

قُلْ إِنِّي لَنْ يُخَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۱۵

إِلَّا بِنِعَايِنِ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۱۶


حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۱۷

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُكَ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۱۸

لہ معنی اللیب ہس مشرتس پیکتھ نہ بعضہ اوقات چھ لفظ حتیٰ زاید آسان تہ امیک چھنہ کانہہ معنی تہ آسان۔ صرف کلام پراوہہ خاطر چھ استعمال کر نہ یوان
تہ یعنی نیلیر تہم پین تہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند پانہ واری مقابلہ کرن۔

غَابِكُ زَانِ دَوْل چھ سُسے تہ سُسے چھتہ پننس غابِس
 پٹھ سانسہ پوٹن پاپے دوان -
 بھتس رٹوس وراہی سبیس سُسے امہ کامہ ٹاٹھ پند کران
 چھ تہ اُمس رٹولہ سُسے رتہ چھ پے نہ راجھدر ٹاٹھ
 چھتس پتہ بروٹھ پکان آسان -
 تیتہ زن اللہ (تعالیٰ) زانہ نہ پکو رٹولو چھ پتس
 پروردگار سُسے پیغام لاکن تام واننومت تہ سُسے چھ
 پننس اماطس منتر تھوان یہ کیشہا تین لیش چھ تہ
 پرچہ چیز چھ ٹنتر تھ تھوان -

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝
 إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ
 مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَخْلُفُهُ رَاصِدًا ۝
 لَيَعْلَمَنَّ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ
 عَدَا ۝



سورة مزمل: یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ تہ چھواتھ اکوہ آہے بیہ چھس نہ رُکوع۔

(پہ چھس، اللہ (تعالیٰ) سُسے ناو پتہ پیران) یس حسہ
 رٹوس کرم کرن دول (تہ) پھپرک پھپرک رحم کرن
 دول چھ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

ہے تراور ٹولتھ (خدا یہ بندس رمتس پیارن والہ!)۔
 راترن ڈتھو ڈتھو کرم عبادت (بیتہ تہ اسہ یہ مراد چھ)
 نہ راتر ہند جاڈ حصہ آس تہ عبادتس منتر گدراوان۔
 یعنی تمیک اوڑ یا اڑ کھوتہ تہ کرکینہ کم۔

يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ۝

یا ہر راو آتھ پٹھ کتہ بیہ ہنا۔ تہ قرآن آس قرابہ
 سان تہ مڈر لین پیران۔

تَضَفَّهُ أَوْ انْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا ۝

اُسک چھ تہ پٹھ اکھ تیتھ کلام ٹاٹھ کرن واول یس
 (ذمہ واری حساب) سہت گوب پتھ۔

أَوْ زِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْفُرْقَانَ تَرْتِيلًا ۝

رات کیت ووتھن چھ نفس کھورن تہل متھتھ
 ٹرھنہ ٹاٹھ ساری وے کھوتہ کامیاب سنجہ تہ رات
 کیت ووتھن والین چھ پزیک تہ عادت گزھان لہ

إِنَّا سَلَّمْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ
 قِيلًا ۝


لہ یعنی رات کیت عبادت کرن سستی چھ تہ ہنسر روحانیت کابل گزھان تہ بہن چھ پزیک
 عادت گزھان۔

ثَنِيَّةٌ يَخْصِي دَهْلِبُ سِدِّهَا كَأَمَّ أَسْمَانَ -	إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ①
بیسے پزیر نہ تیرے آس پستنس پروردگار ہند کی صفات یاد کران بیسے آس تسمی سستی دل لاگان۔	وَإِذْ كُنَّا نَسْتَنْتِ لَكَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ①
سُوءٌ مِّمَّ مَشْرِقَتِكَ تِجْرُورِ دِغَارِ تِجْرُورِ دِغَارِ تس ورا لے چھتے کا شہر معبود۔ او کئی بناؤں سے پینے کار ساز۔	رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ②
بیسے یہ ہم (چاندنی سوائف) ونان چھ تھ پٹیہ کر صبر تہ شرافہ سان سپہ تمن نشہ الگ۔	وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَفْعُلُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَوِيلًا ③
بیسے تراو میں تہ نغمہ والی (ملدار) منجر کئی تری تہ تہ تہ تمن کیہتہ مہلت (تہ تہنتر وُلُو تباہی ہند و عامہ آس کران، یہ کرکہ ہم پانے تباہ)۔	وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلَهُمْ قَبِيلًا ④
اسہ نش چھینے تہما فیکو زولانہ تہ جہنم۔	إِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالٌ وَجَحِيمًا ⑤
بیسے چھ تہتھ کہیں تہ تیس گمیس پیٹھ رو مان چھ تہ دگر دار عذاب تہ چھ۔	وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ⑥
بیسے دوہہ ترین تہ بال ترہرن تہ بال ترہرن تہتھن تہنکن ہند کی پائلو ہم پائی پانے رہہ و سان چھ۔	يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ⑦
(تہ دوہہ بیہ سہ عذاب)۔	إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ⑧
ہے کو! اسہ چھ توہہ کن کہ تہتھ رول سوزت میں توہہ پیٹھ بمران چھ تہتھ پائلو چھ پائلو اسہ فرعونس کن رسول سوزا۔	فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ آخِذًا وَّيْلًا ⑨
اد فرعون کر یا یہ تس رسولہ ہتر نافرمانی تہ اسہ رچاؤ سہ اکہ وبال دار عذاب سستی۔	فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ يَتِيبًا ⑩
بیسے وڈی تو تہ ہرگاہ توہہ تہ دوہہ ہتہ انکار کوز و تیس جوان بڈ بناوان چھ تہ توہی کہتہ پائلو روزو (عذاب ہتہ) پچتھ۔	إِلَ السَّمَاءِ مُنْقَطِرًا بِهِ لَكَ آتٌ وَعَذَابٌ مَّفْعُولًا ⑪
آسمان چھ پانے تہ عذاب سستی پھٹن وول۔ یہ چھ تہتھ (یعنی خلیہ سند) و عدیس پور سپتھ روز۔	إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ⑫
بیسے (قرآن) چھ کہ نفعیت لہذا میں بیترہ سہ کر پستنس پروردگارس کن ترہن واجزی و تہ اختیار	

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنُلُحِّي
 الْإِيلِ وَنَضَمَهُ وَثَلَّثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
 الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ
 النَّهَارَ ۚ عَلِيمٌ أَن لَّنْ نُّحْصِيَهُ فَتَنَابَ
 عَلَيْكُمْ فَأَقْرُدُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ
 عَلِيمٌ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَ
 أَخْرُوكَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنبَغُونَ
 مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُوكَ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَأَقْرُدُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَ
 آتِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآقِرُوا
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
 خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦﴾

۱۳

چون پروردگار چھ زمانہ نہ تہ مجھ پہنچے کہتے ہو
 باجگ ہتھہ راتہ ہندو تریو منتر نہ جمعہ کھوتہ
 ہناکم نمازہ خاطر استاد روزانہ تہ کہتہ کہتہ
 نفس برابر تہ کہتہ تریو میں حصس برابر یہ
 چھ اللہ (تعالے) راتہ تہ وہس لوکٹ بود
 کران روزانہ - خدایے چھ زمانہ نہ توہی ہیکو
 نہ پور پاطھ نماز ہندہ وقتک اندازہ کر تھہ - لہذا
 چھ تھو تھہ پیٹھ رحم کوڑمت ، او مھکھ پیر نہ
 قرآنہ منتر - پتر ہن تھہ میسر گر تھو ، توہی او
 رات کہتہ ، پران - اللہ (تعالے) چھ زمانہ نہ
 تھہ منتر آسن کہتہ بیارتہ تہ کہتہ تیرن تجارتہ
 خاطر سفرس پیٹھ تہ تہ کہتہ لاکھ تیرن اللہ (تعالے)
 سنتر وتہ جہاد کرنہ تہ - لہذا (اسی چھو ہندک
 وائی دنان نہ قرآنہ منتر - پتر ہن میسر گر تھو
 پران اسو بیہ اسو نمازہ شرطو مطابق ادا کران
 بیہ اسو زکوٰۃ دوان بیہ اسو اللہ (تعالے)
 ہس راتہ کرنہ خاطر پستہ مالک اکھ رت
 طکر تہ تھتھ الگ کران - بیہ یس رتر تہ توہی
 پستہن ترون ہندہ خاطر برو تھہ سوزو - توہی
 بو تہ اللہ (تعالے) ہس ہنش - سہ چھ جاد
 رت نتیجہ کڈن وول تہ جاد کھوتہ جاد اجہر
 دتہ وول - بیہ سبھو اللہ (تعالے) ہس معفرت
 اللہ (تعالے) چھ سبھہ معاف کرن وول (تہ)
 حد رؤس رحم کرن وول -



سورة مدثر، یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ پچھ چھ اتھ سنو نزاہ آہیہ بیہ چھس تہ رکوع۔

يسموا لله الرّحمن الرّحيم ①	(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو پچھ (پران) یس حد رُوَس کرم کرن وول (تہ) چھپر ک چھپر ک رُحْم کرن وول چھ۔
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ②	ہے وردی پیرتھ استا د سپدن والہ۔
قُمْ فَأَنْذِرْ ③	تھوڑ ووتھ تہ دُور دُور گتھتھ کڑکھ لُکھ ہتیار۔
وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ④	بیہ کر ستنس پروردگار سُنَد بجر بیان۔
وَيُنَادِكُ فَظَهْرُهُ ⑤	بیہ پانس نش روزن وُالی لُکھ کڑکھ پاک۔
وَالرُّجْمَ فَاهْجُرْ ⑥	بیہ تہ صن شرک نہناوتھ۔
وَلَا تَمُنْ بِتَسْوَعِئِكَ ⑦	تہ امر نیستہ مہر کرا حسان نہ امر بدلہ میلی تریہ جاہ۔
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ⑧	بیہ (بیز دل سان تہ بلکہ) بین پروردگار خوش کرنہ خاطر ہنیہ صبرس کلام۔
فَإِذَا نَهَرَ فِي النَّاقُورِ ⑨	اد سید پُوس چھو کھ دتہ بیہ۔
فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ⑩	تہ یہ آسہ اکھ کر لُٹھ دوہ۔
عَلَى الْكُفْرَيْنِ عَسِيدٌ يُسِيرٌ ⑪	کافرن کیت آسہ تہ ہرگز سہل۔
ذَٰرِفٍ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ⑫	(اے رسول!) بہ تہ سہ یس میہ بے یار و مددگار پاؤ کر یارو، تراؤ کھ کئی نزل۔

لہ: مَدَّثِرٌ لفظک عام معنی چھ کمل وُرن وول مگر لو غتس مشرچھ امیکو بیہ تہ معنی

(۱) گریس نش وودنہ روزن وول یعنی سوار گز صنس تیار بر تیار (اقرب)

(۲) پلو لُگتھ تیار سپدن وول مگر دثار چھتھ پُوس و نان یس کرتنہ بیتر پچھ لُگنہ

یوان چھ۔

(۳) فوجی وردی منز استا د۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمس چھ مَدَّثِرٌ ونہ آمت یعنی خدایہ سندنس حکمس پچھ تیار بر تیار۔

تہ جب تک داروغہ چھو اسے ملا کیجو منتر سے اوت مقرر
کر کر موت تہ ہنتر گر بند چھینے صرف کافرن ہنتر
آزادیشہ ہندو رنگ و بی موش۔ تہ امیک نتیجہ نیمہ
یہ نہ اہل کتابن بیسہ پڑھ تہ مؤمن ہرن اپنا منتر
بیہ نہ کرن اہل کتاب شک تہ نہ کرن مؤمن شمشیر
نتیجہ نیمہ یہ نہ بین ہندن دن منتر بیمارک چھینے تم
تہ بیہ کافروں نہ یہ کہتہ و نہ منتر اللہ (تعالیٰ)،
سند کیا منشار چھ؟ یتھے یا علی اللہ (تعالیٰ) بیس
متعلق ارادہ کران چھ تس چھ گراہ گنزاروان۔ تہ
یس متعلق ارادہ کران چھ تس چھ ہدایت روان، تہ
چائیس پروردگار ہندو لشکر چھینے تس ورائی و کھنتر زمانہ
تہ یہ (قرآن) چھ انسانہ ہند خاطر صرف اکھ نصیحت۔
بوزو! اسی چین زون شہادتہ کہتہ پیش کران۔

بیہ رات بییلہ سو تھر پھران چھینے۔

بیہ صبح بییلہ سہ گاہ تراوان چھ۔

نہ پہ (ساعت بیلیک ذکر کرتہ آمت چھ) چھ
سپٹھا بڑو بڑو چیزو منتر اکھ۔
انسانس چھ کھوتر ناون دول۔

تس (انسانس) یس تو بہ منتر بیشرہان چھ نہ کانہہ
بڑھ کی کر ہے یو بہ بڑو نمٹو بس عالمس منتر تس
بکار پیہ ہے یا کہتہ بد پہ ہنتر، بیلیک تس
عادت پیومت آسہ، چھ روز ہے (تہ تمہ کہ
کرتہ ہنتر لب ہے نہات)۔

پر چھ زون یہ کینترھا کورمت چھ تھ بدل
چھ سہ (زو) گرو۔

ڈچھنہ طرفہ والہ لاکو ورائی۔

نہ ہم آس جتن منتر سہ سوال کران۔

مجرمن۔

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً سَاءَ مَا
جَعَلْنَا عِدَّةَ لَهُمْ إِلَّا فَئِئَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۝
لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيُذَادَ
الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانًا وَلَا يُزَاتَبَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۝ وَلِيَقُولَ
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ
مَاذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ
اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا
يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا
ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿۲۹﴾

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿۲۹﴾

وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ﴿۳۰﴾

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿۳۱﴾

إِنَّهَا لَا تَخَذِي الْكُبْرَىٰ ﴿۳۲﴾

تَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿۳۳﴾

لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَّقَدَّمَ أَذْيَتَا خَرِ ﴿۳۴﴾


كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿۳۵﴾

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿۳۶﴾

فِي جَنَّتٍ ثَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۳۷﴾

عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۳۸﴾

- مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿۲۷﴾
 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿۲۸﴾
 وَلَمْ نَكُ نَطْعُهُ الْمَشْكِينِ ﴿۲۹﴾
 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿۳۰﴾
 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿۳۱﴾
 حَتَّى آتَيْنَا الْيَقِينِ ﴿۳۲﴾
 فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّاؤِجِينَ ﴿۳۳﴾
 فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُخْرِضِينَ ﴿۳۴﴾
 كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿۳۵﴾
 فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿۳۶﴾
 بَلْ يَرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُثُوقَ
 صُحُفًا مِّنْشَرَّةٍ ﴿۳۷﴾
 كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿۳۸﴾
 كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ ﴿۳۹﴾
 فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿۴۰﴾
 وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ
 أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ ﴿۴۱﴾
- نہ تو ہی کڑ چہ زن نی تو جہنس کن ۶
 تم دن جواب، اسی اسی نہ نماز پران۔
 بیہ اسی نہ مسکین کھن کیا وان۔
 بیہ بے حکمت کتہہ کرن والہن ستی رتہہ اسی بے حکمت
 کتہہ کران۔
 بیہ اسی اسی جزا سزا کس دوہس انکار کران۔
 یزت تام نہ اسر آو موت۔
 لہذا یقین لاکن ویہ نہ سفارش کرن والہن ہنز سفارش
 کا شہد ناید۔
 یمن لاکن کیا چہ گو مت؛ نہ نفیہ ہنہ چہ ہنہ
 بتہ پھران، نہ
 زن چہ تیم کھوڑی ہنہ خر۔
 ہم سہہ ہوجتہ ثلہ ہنہ آس۔
 حقیقت چہنیہ نہ نہ یونہنہ چہ ہرتہ کہ نفر ہنہ ہنہ
 نہ تہنہس اتہس ہنہ ہنہ کتاب دنہ ہنہ۔
 یہ وہ مید چہنہ ہنہ ہنہ واجتہ ہنہ ہنہ نہ نہ
 چہنہ اترس کھوڑن۔
 ہنہ ہنہ! یہ کلام چہ کہ نفیہت۔
 لہذا یس ہنہ ہنہ ہنہ ہنہ ہنہ۔
 تم مکر لاکہ رن نہ زانہ اللہ تعالیٰ) ہنہ ارادہ و رانی
 نفیہت۔ (تو یہ چہنہ کا شہد نامکن کتہہ نہ ہنہ ہنہ
 اللہ تعالیٰ) چہ تقویٰ نہ دوان نہ ہنہ ہنہ دوان۔



سورة قیامت، یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ چھ آیتھ اکا جیسہہ آہ بیہ چیس تہ رکوع۔

يسْمُو اللّٰهَ الرَّحْمٰنَ الرَّحِیْمَ ①	(یہ چیس، اللہ تعالیٰ) سُندناو ہتھ (پر ان) ایس حد
لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ②	رؤس کرم کرن اول (تہ) پھیر پھیر کر ہم کرن اول چھ۔
وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَاْمَةِ ③	یہ چیس قیامتہ کہ وقتک قسم تاوان (یسنہ سہ چیس شہادہ
اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَنْ نَّجْمَعَهُ ④	کہہ پیش کران)۔
عِظَامَهُ ⑤	بیہ چیس یہ نفس لواہ تہ شہادہ کہہ پیش کران۔
بَلٰی قَادِرِیْنَ عَلٰی اَنْ نُّسَوِّیَ بَنَاتَهُ ⑥	کیا انسان چھا خیال کران نہ اسی کرو تہ تسز اڑو جیہ
بَلٰی یُرِیْدُ الْاِنْسَانَ لَیَفْجُرَ اَمَامَهُ ⑦	جمع؟
یَسْئَلُ اَیَّانَ یَوْمَ الْقِیَمَةِ ⑧	نہ نہ اسی تہ چھ آتھ بیٹھہ قادر ز تسندی اؤ لکھ گنتام
فَاِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ ⑨	بنا و لو سہر۔
وَحَسَفَ الْقَمْرُ ⑩	پتر چھہ یہ تر انسان چھہ پترھان نہ سہ روزہے آیتہ
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ ⑪	تہ بدکاری منز آؤر۔
یَقُوْلُ الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ اَیْنَ الْمَقْرُ ⑫	سہ چھہ پترھان (روزان) نہ قیامتک دوہ کر آہہ؟
كَلَّا لَا وَوَرَرٌ ⑬	اؤ بیٹلہ اچھہ درنگن۔
اِلٰی رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ⑭	تہ ترؤتہ گہہ گرہن۔
یَنْتَبُوْنَ اَلَا الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ ⑮	تہ آفتاب تہ زون دوہ لوے بین جمع کر تہ بلہ
وَ اٰخِرٌ ⑯	تہ وقتہ ونہ انسان، وہ نہ کوت ہنکے یہ تہ لٹھہ؟
	لوزو! اڑ چھنہ عذابہ نیشہ بچنہ کھنہو جاے۔
	اما پؤد تہہ دوہہ آہہ چائس پر در و کارس نشی بھکا تہ۔
	تہہ دوہہ پیسہ الناس خبر دہہ بہن کاہن، منز
	تہہ ہم نش کر تہہ پترہن نہ مگر تہہ کر بہہ بہن کاہن

لہ یتھ آیس منز چھہ تہہ پتنگویہ کن اشارہ یہ بہ مہدی علیہ السلام متعلق حدیثس
مفہ بیان سپر ہتر چیمہ نہ تہہ ہتر ہتر گہہ ماہ رمضان منز زونہ تہ آفتابس گرہن
یہ پتنگوی چیمہ ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۹۹۲ء کس رمضان منز پؤر سپر ہتر۔

ہنرتہ ہم تہس کرنہ پیزہن مگر تمہو کرنہ۔
پیزہ چھہ یہ نہ انسان چھہ پینس نفس زبر پاٹھو
دُجھان (تہ زنان چھہ) نہ تہنر حینتیت کیا چھہ!
اِدِسہ تر بانی سستی کتا تہ صفائی پیش کرکرتن۔

(اے نبی!) تہ مہ دِ پستہ زنیو حرکت مہ چھہ نہ
یہ قرآن گوتہ اول اول تازل سڈن۔
ایک جمع کرن تہ چھہ سانہ ذہم تہ ذنی یہس بوز
نازن تہ (چھہ سانہ مٹی)۔

لہذا نیلہ اسی یہ پران آسون تہ سانہ پیزہ تہ آس
تہ تہ پران۔

تہ یہ چھہ سون فرس نہ اسی بوز نادون یہ (لوکن
چانہ زنیو) واشس گڈھ۔
بوزو! توہی چھو اول اول میلن واجز نعمت پیندکران۔

تہ پیتہ پیتہ واجز نعمت چھوون تہ مجراہ گڈان۔

تمہ دوہہ آس کینہ لاکھ اَسہ ورنہ مہنہ نموش تہ
خوشحال۔

پینس خدایس کن آس نظر تھاوتہ۔

بیسہ کینہ لاکھ آس تمہ دوہہ (بومہ سستی) مہنہ
تہ کر آوتہ۔

تہ کیا نہ تم کرن خیال نہ تہن سستی یہیہ سہ سلوک
کرنہ یہیہ سستی کہہ کر تمہر کندی تام چھہن۔
بوزو! سینہ ترو، برس پیٹھ واتہ۔

تہ ورنہ یہیہ نہ از چھا کانہہ یس دم دعا کرٹھ
چھو کہ دتہ اُمس مہیک کہ۔

بیسہ پرچھہ اکھ کر پڑھ نہ وو ذی چھہ جدائی ہنر گڑ
آپڑ۔

بَلْ اَلَدُّ نَاسًا عَلٰى نَفْسِهٖ بِصِيْرَةٍ ۱۵

وَلَوْ اَلْفٌ مَّكَذِبَرَهٗ ۱۶

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَتَّجَلَ بِهٖ ۱۷

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْآنَهٗ ۱۸

فَاِذَا قَرَأَهٗ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهٗ ۱۹

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۲۰

كَذٰلِكَ يُجٰۤبُوْنَ الْعٰجِلَهٗ ۲۱

وَتَذٰرُوْنَ الْاٰخِرَهٗ ۲۲

وَجُوْهُ يَوْمَئِذٍ نٰصِرَهٗ ۲۳

اِلٰى رِبِّهَا نٰظِرَهٗ ۲۴

وَجُوْهُ يَوْمَئِذٍ نٰصِرَهٗ ۲۵

تَنْظُرُوْنَ اَنْ يُفْعَلَ بِهَآ قٰرِعَهٗ ۲۶

كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ الشَّرٰٓئِفِ ۲۷

وَقِيْلَ مَنْ رٰقِ ۲۸

وَهَلْ اِنَّهٗ الْفِرَاقُ ۲۹

۱۵ یعنی قرآن کریم کہ اول اول تازل سڈنک دعا پر آس کران۔ یہ سپد خدائی تقدیر مطابق تازل

تو زُو در گنگہ کنی پیہ اکھ گروہ زبیس گروہ زولہہ۔	وَأَلْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿۲۹﴾
تہر دوہہ آسہ پچائیں پروردگار کے گزشتہ۔	إِلَى رِجْلِكَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَسَاقِ ﴿۳۰﴾
ادو کیا سپد تر تیرو شمعفس نہ دیت صدقہ، تہ نہ پیرن نماز۔	فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ﴿۳۱﴾
مبکہ روڈ (پزرد) اپزاولان تہ (امر لہنتہ) پھرن تھر۔	وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿۳۲﴾
تہ امہ پتہ شرمندہ گزشتہ بدل گوڈ پنتہن گرواہن کتن تر صو کھ باوان۔	ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى آهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿۳۳﴾
(اسے شمعفس!) تر تہ پیٹھ آسن ہاکتس پیٹھ ہاکت۔	أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَى ﴿۳۴﴾
اُسک چیر بیہ زمان تر تریہ پیٹھ آسن ہاکتس پیٹھ ہاکت۔	ثُمَّ أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَى ﴿۳۵﴾
کیا انسان چھا خیال کران نہ سہ بیہ (لاکہ رستہ) سہ تر او تہ؟	أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿۳۶﴾
کیا سہ اوس نا اکہ وقتہ اکھ آہ پھنور یس پنتہ مناسب حال جاپہ منتر تراونہ آو؟	أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ﴿۳۷﴾
پتہ بنو سہ اکھ لار تہ گزشتہن دول ماز لو تھر، پتہ بنو سہ تھر (خدایان) بیس شکلہ منتر تہ انہر کورن سہ مکمل۔	ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْى ﴿۳۸﴾
ادو بتو دن سہ جوہر جوہر کر تھہ۔ یعنی نرتہ مادہ تہر شکلہ منتر۔	فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿۳۹﴾
کیا یہ (خدا) چھتا اتھ کتھ پیٹھ۔ قادر تر سہ کر معردن بیہ زہد؟	أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخَيِّبَ الْمُؤْتَى ﴿۴۰﴾

سُورَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ السَّلَاةِ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَرُكُوعَانِ

سُورَةُ دَهْر: يه سُورَه چھ کئی تہ لسم اللہ ہتھ چھ اٹھ دو تیرہ آیتہ بیہ چھس ہر رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①	(بر چھس، اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہتھ (پران) یس جہر رُوس کرم کرن وول (تہ) چھہرہ چھہرہ رسم کرن وول چھہ۔
هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ②	کیا انسان پیٹھ آیتہ ناہ سہگڑ بیبارہ سہ بکل بے حقیقت اوس تہ تشرہ کامہ اوس تہ کہتہ یاد کران؟
إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ مَّا نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ③	اسہ چھہ انسان اکہ تہ تھہ لظہہ لنتہ یاد کرمت ہتھ منز بیون بیون قوت رُبتہ اسی ہتھ زن اُسمہ تشرہ آزمایش کرو۔ پتہ بیون سہ اسہ سہٹھاہ بوزن وول (تہ) سہٹھاہ وچین وول۔
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ④	اسہ ہاوس تشرہ حالہ مطابق و تھہ ادر سہ شکرانہ کروی تن یا نافرمان گرتھو تن۔
إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ⑤	اسہ چھہ کافرین بندہ باچھہ ٹاٹھہ تہ طوق تہ جہنم تیار کر تھہ تھادوی دتھ۔
إِنَّ الْإِنْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ⑥	خدا یہ ہندی نیک بندہ چین تھہو پیالہ یمن منز کافور چ خاصیت رلاو تہ آمتر آسہ یلہ
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ⑦	یہ (کافور) آسہ اکھ ناگ نیبہ منز اللہ (تعالیٰ) ہندی بندہ چین۔ تم چھہ کوشش کر تھہ سُر ناگ تہ بن چین بھاو تھہ کڈان۔
يُوفُونَ بِاللَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ⑧	تم چھہ پتہ ندر (نیاز) پور ادا کران تہ تمہ وہ ہہ رتہر چھہ کھوتران نیبہ دُرج ناکارگی ساری ہے دُنیہس منز تیلے مٹر آسہ۔
وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشْكُونًا	یہ چھہ تشرہ (یعنے خدایہ بندہ) لوہ مسکینس۔ مٹیس

لہ کافور چ خاصیت چھتہ ہر یہ چھہ جوش بہتاوان تہ نہرک تریاق آسان۔ جنگتک یہ ناگ تہ کر گم منہن ہندی نہر دوز تہ سیکھ جذبات تہرہ تھہٹھ کر تھہ۔

وَيَنْتِيْمًا وَاَسِيْرًا ①

تہ فَاَس کھین کھیادوان۔

اِنَّمَا نَطَعُكُمْ لِيُوجِبَ اللهُ لَكُمْ نُرِيْدُ
مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكُوْرًا ②

بہ چھہ زمان نہ ہے لکو! اسی چھہ تو بہ صرف
اللہ (تعالیٰ) ستر رضامندی خاطر کھین کھیادوان
نہ چھہ اسی تو بہ کا نہ بدلہ منگان تہ نہ چھہ تہند
شکرانہ بہ ترهان۔

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
قَطَطٍ ③

اسہ چھہ پینس رہہ ہند تمہ ڈک خوف، نیلہ لوکن
بہہ ستر بہہ تر لادھہ آس تہ ڈکن آسکھ گینہ
کھتر مہتر۔

فَوَقَّعَهُمُ اللهُ شَرًّا ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَا
لَقَهُمْ نَصْرَةٌ وَّسُرُوْرًا ④

ہند اللہ (تعالیٰ) بجاو جن تمہ ڈکہ شرہ شتر تہ تن
بخشہ تر تازگی تہ خوشی۔

وَجَزَّئِيْلًا بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ⑤

بہہ کرہ جن تہند نیکن پیٹھ قائم آسہ مکھ (وزن
خاطر) باغ تہ (نار لاکہ خاطر) ریشم عطا۔

مُتَّكِلِيْنَ فِيْهَا عَلَ الْاِرَائِكِ بِرَا
يَبْرُوْنَ فِيْهَا شُمْسًا وَّلَا زَمَهْرِيْرًا ⑥

تم آس تمہ باغس منز پر دم دار تخت پوش پیٹھ
تکیہ دی دی بہہ تہ نہ وچین تم تمہ باغس منز
شدید تر تہ نہ تر تہ گتہ ہونی تر۔

وَاٰنِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَاذَلَّلَتْ
فُطُوْرَهَا تَذَلِيْلًا ⑦

تمہ باغی شہلی آس جن پیٹھ بہہ تہ تک میوہ جن
جن نزدیک اسہ۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّ
اَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرًا ⑧

بہہ چاند ہندک باو تہ ہی نار تہ صریہ بہہ بہہ
شہو آس جن وار وار جن پیش کرنہ۔

قَوَارِيْرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ⑨

ہم پیٹھ پاٹھ شہو بوڑن بہہ وار باو آس ترکہ
رہ بہ ہندک ہم خدایہ ہندک ٹا یک پور پور
کارک مڑی سان بناون دتھو نہ ہم بہ شہو
پاٹھ پورن

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاسًا كَانَتْ مِرْاَجِمًا
رَنَحِيْبًا ⑩

بہہ (موبن) بہہ جن جنن منز تھو گلاو ستر
تریش چاونہ جن منز شوٹھہ بناو تھہ آسہ۔

۱۔ یہ تہ چھہ تمہیل کلام شوٹھہ چھہ گرم تہ شہر آسان تہ یہ چھہ حرات مغربی یاد کران۔ یعنی جنن
منز بہہ موبن بہہ علاج کرنہ تہ ہم گتر جن روعانی لحاظ طاقتور تہ صحت مند۔

عَيْنًا فِيهَا تُسْمَى سَلْسَبِيلًا ①

(بیر، تھتہ (جنس) منتر آسیر سبیل ناوک تہ
اکھ تاک (دینیہ منتر مؤمن چین)۔

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ
إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّثْنُورًا ②

بیر روزن بتن نیش ہمیشہ خدمت کرن اول نو جوان
گمرا گمرا حاضر سپان۔ بیبلہ تہ تم خادم و چھبکھ
تہ بتن بندہ حقہ گرتھی گمانہ نہ تم چھ چھکرتہ
آتمو موختہ پھلو۔

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَجِيمًا وَ مَلَكًا
كَبِيرًا ③

بیر بیبلہ تہ تم و چھبکھ تہ تہنتر جایہ پیٹھ بی
اکھ سپٹا بڑ نعمت تہ بڑ بادشاہی، بوز تہ۔

عَلَيْهِمْ نِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَ اسْتَبْرَقٌ ز
وَ حُلُوعَا اسَاوِرٌ مِّنْ فِضَّةٍ ۚ وَ سَقَمُهُمْ
رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ④

بتن آسن ز اوک لہ سپز پانکی پلو لاگتھ بیر پتھ
پانکو تانکو۔ بیر پن، بتن روہ، ہندی کرکی
لوگہ۔ بیر چارو بتن تہند پروردگار پاک کرن اول
شراب۔

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَ كَانَ
سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ⑤

(بیر بیبکھ و سنہ نہ اے جنبتیو!) یہ جزا چھ
تہند خاطر مقرر تہ تہنتر کوشش پھیر عزتہ چھ
نظر و چھنہ آہنتر۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
تَنْزِيلًا ⑥

اسہ چھ تریہ پیٹھ قرآن ہنہ بہتہ نازل کورمت۔

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آئِمًا
أَوْ كَفُورًا ⑦

او موکھ روز تہ پسنس پروردگار ہندس حکمس پیٹھ
ڈاڈ کرگتھ تاہم۔ بیر کرکی نہ نہ اسانو منتر گوہ نہ
کار تہ ناشکری کرن اول سپز فرمانبرداری۔

وَ إِذْ كَرِهَ اسْمُ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ اصْبِلًا ⑧

بیر آس پسنس پروردگار سند ذکر مجھن تہ شان کرن

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا
طَوِيلًا ⑨

بیر آس رات کبیت تہ تس بروٹھ کتہ سبھ کرن تہ
روتہ آس تریہ تام تہنتر تسبیح کرن۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ
وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ⑩


بیم لوکھ چھ و ذی بہک انعام پسند کرن تہ پانس پتھ
کن چھ اکھ سپٹا بروٹھ دہہ تراوتھ گرتھان۔

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَ شَدَدْنَا آسْرَهُمْ ۚ وَ
إِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ⑪

اسی چھ تم پاڈ کرکی تہ تہند کر جوہ چھ مضبوط
بتاؤ کرکی تہ بیبلہ اسی نیشہو بتن ہوک بہ خلق
پاڈ کرگتھ کرکھ تم تہنتر جایہ استاد۔

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ
إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۲۹﴾
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۳۰﴾
يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَ
الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۳۱﴾

یہ چھو اگھ نصیحت ۔ لہذا میں یہی ہے کہ سر پر اوان پنس
پروردگار کن و اتناون واجبہ و تھ ۔
تہ تو ہی ہیکو تہ خدایہ سبزی مرضی روں تھ یہی ہے
ہیکایز اللہ (تعالے) چھ سبھا علمہ وول (تہ) جبہ
حیکمتر وول ۔
سہ میں یہی ہے تھان چھ تس چھ سینس رحمتس منز
دا نخل کران ۔ تہ نخلن ہندہ خاطر تہ چھ تکر کرلو تھ
عذاب مقرر کر کے تھے تھومت ۔



سورة مرسلات : یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ بہتہ چھ اٹھ اکوڑا آئیہ بیہ چھیس تہ رکوع ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾
وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿۲﴾
فَالْخَصَفَاتِ أَعْفًا ﴿۳﴾
وَالنُّشْرَاتِ نَشْرًا ﴿۴﴾
فَالْفُرْقَاتِ قُرْقًا ﴿۵﴾
فَالْمُعَفِّاتِ مَعْفًا ﴿۶﴾
عَذْرًا أَوْ تَدْرًا ﴿۷﴾
إِنَّمَا تُؤَدُّونَ لَوَاقِعًا ﴿۸﴾

(یہ چھیس) اللہ (تعالے) سہد ناو بہتہ (پران)
میں سہ روں کرم کران وول (تہ) پھیر کر پھیر کر
رحم کران وول چھ ۔
یہ چھیس شہادہ تہ کنبہ تہ ہستتہ پیش کران ہم گہ ہنچہ
وارہ وارہ پکناو تہ یوان چھینہ
پتہ چھ تہ تیزی سان پکن، یوان ۔
بیہ چھیس یہ ڈزی ہیس منز چھالوان واجبہ ہستتہ تہ
شہادہ تہ کنبہ پیش کران ۔
بیہ چھیس تہ اپزس منز فرق کران واجبہ ہستتہ تہ ۔
بیہ خدایہ سہد کلام بوزناون واجبہ ہستتہ تہ ۔
امر غرضہ تہ تہ لوکن پٹہ سپہ حجت پورہ ۔ تہ امر
مقصود تہ تہ لوکہ بن خیر وار کرنہ ۔
تہ ہر سستی ہستتہ کنبہ ہند و عد کر تہ یوان چھ سہ
روہ پورہ گرتہ صتہ ۔

لہ بیہ آیس منز چھ صحابہ کرام ہند ڈبر ہیکو گہ ڈنچہ وارہ وارہ تہ پتہ تیزی سان ڈزی ہیس
منز اسہد تہ نیکی ہند نور چھالوو ۔

اور میلہ تارکھ گئی گزشتہ سال	فَإِذَا الثُّجُومُ طُمِسَتْ ①
تہ میلہ آسائس زمہ گزشتہ سال	وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ②
بہ میلہ بل موراوہ بن۔ سال	وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِفَتْ ③
بہ میلہ رسول پینس مقرر سپر بہتس وقتس پیٹھ آسنہ بن سال	وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتَتَتْ ④
(بہ پیہ لوکن و سنہ ز) یہ کتھ کہہ دوہہ ہاتھ آس کتھہ تھوہ آہترہ؟	لَا يَتَّبِعُهُ يَوْمَئِذٍ ⑤
(اکر) فاصلہ کرن والہ دیکھ خاطر۔	لِيَوْمِ الْفَضْلِ ⑥
تہ تر یہ کیا چھے پے ز فاصلہ کرن وول دہہ کیا چھے؟	وَمَا أَذْرَكَ مَا يَوْمَ الْفَضْلِ ⑦
تہ دوہہ پیہ اپزلون والہن پیٹھ تباہی (اتھ اندر چھنہ کنبہ تہ تنک)۔	وَبَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ⑧
کیا اسہ کرک ناہ بزوتھم قوم ہلاک؟	أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ⑨
پتہ کیا تمہن پتہ پتہ وارل قوم کینا دوکھ ناہ اسی تمہن پتہ پتہ؟ (اگر یہ بیون بیون سلوک کیا ز اسہ؟)	ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ⑩
اسی چہ مجرم سنہ تیٹھ معاملہ کرن۔	كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ⑪
تہ دوہہ پیہ اپزلون والہن پیٹھ تباہی (اتھ اندر چھنہ کنبہ تہ تنک)۔	وَبَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ⑫
بہ وول اسی تمہن، کیا اسہ کرک و ناہ توہی اکہ ذہیل آہہ (یعنی لطفہ) لٹہ پارہ؟	أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ⑬
تہ پتہ تھوہ سہ اسہ اگس ترہہ جاہہ (یعنی ماجہہ ہندس شرک بالسن منتر) یوسہ تھہ وارہ پاطر ترہہ تھوہن لائق اس۔	فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ⑭
بہ پیٹس کالس یہ لطفہ ماجہ ہندس شرک بالسن منتر تھوہن مناسب اوس تپٹس کالس تھوہ اسہ سہ	إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ⑮

لہ یعنی عالم خراب گزشتہ سال الہامک سلسلہ پیہ بہ دباہ شروع کرنہ۔
 سال یعنی بیچ بیچ بادشاہتر گزشتہ تباہ۔
 سال میلہ اکھ مانور پیہ استناد کرنہ تپٹس سارک نے تپٹس ہندک ناو دہ بن۔

- تھہ مشر۔
 تہ اسر کور اکھ انداز مقرر تہ اسی کوتاہی رت
 انداز گنڈتھہ تھون وائل چھہ!
 تمہ دہ ہر پیہہ اپزاون والہن پیٹھہ تباہی (تھہ مشر
 چھہہ کھنہو تہ شک)۔
 کیا اسر بناوناہ یہ زہن سہ سہراون واجہز۔
 زندن تہ مہردن۔
- ۱۷ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقُدْرُونَ ﴿۱۷﴾
 ۱۸ وَيَلِيَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۸﴾
 ۱۹ اَلَمْ يَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿۱۹﴾
 ۲۰ اَحْيَاءً وَاَمْواتًا ﴿۲۰﴾
 ۲۱ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَادًا يَشْمَخُتِ وَاَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿۲۱﴾
 ۲۲ وَيَلِيَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۲۲﴾
 ۲۳ اِنطَلِفُوا اِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ﴿۲۳﴾
 ۲۴ اِنطَلِفُوا اِلَى ظِلِّ ذِي ثَلْثِ شُعْبٍ ﴿۲۴﴾
 ۲۵ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْاَلْهِبِ ﴿۲۵﴾
 ۲۶ اِنهَاتَزِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ ﴿۲۶﴾
 ۲۷ كَاَنَّهُ جَمَلَتٌ صَفْرًا ﴿۲۷﴾
 ۲۸ وَيَلِيَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۲۸﴾
 ۲۹ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿۲۹﴾
 ۳۰ وَلَا يُؤذَنُ لَهُمْ فَيُحْتَدِرُونَ ﴿۳۰﴾
- تہ ہر پیہہ اپزاون والہن پیٹھہ تباہی (تھہ مشر
 چھہہ کھنہو تہ شک)۔
 یہ آسہ تہتھہ دہ ہر دہنہہ دہ ہر مجرم پستہ مرضی ستر
 کھتہ تہ ہیکن تہ کڑتھہ۔
 تہ ہن پیہہ تہ (خدا یہ بند طرفہ تہ کھتہ کرنک)
 اجازت دہنہہ تہ زن تم ہیکہ ہن کاٹھہ عذر پیش
 کڑتھہ۔

تمہ وہ بہ پیہہ ایزاون والہن پیٹھ تباہی (تھاند
چھنہ کپنہز تہ شک)۔

یہ آسہ فامسک وہ بہ پیٹھ مغز مس توہی تہ تہ
برؤ نپھر قوم تہ سو تیرا وکھ۔

لہذا اگر توہہ نش کا تہہ تدہر چھہ تہ سہ تدہیر
ورننا ویون میہ بخلاف۔

تمہ وہ بہ پیہہ ایزاون والہن پیٹھ تباہی (تھاند
چھنہ کپنہز تہ شک)

تمہ وہ بہ آسہ متقی بے شک شہیلہن تہ ناگہ
واجنہن جاین مشر۔

یہ آسہ پستہن پسند پیہہ والہن میون مشر باگ
وہتہ ایم بہن تہہنہ مرضی مطابق میلن)

(یہ پیہہ بہن ونہز) دل خوش کر دہی میو کھیوہ
تہ رت آب چینیوہ ، یہ چھہ تہہنہن ملن ہند جزا۔
اُسی چھہ احسان کرن والہن پیٹھ پانٹھو جزا دوان۔

تمہ وہ بہ پیہہ ایزاون والہن پیٹھ تباہی (تھاند
چھنہ کپنہز تہ شک)۔

(اُسی چھہ بہن ونان ز) کھیوہ تہ نیہہ دُنی مہک
کم جاوہ فایدہ سبلوہ ، توہی چھہ مجرم۔

تمہ وہ بہ پیہہ ایزاون والہن پیٹھ تباہی (تھاند
کپنہز تہ شک)۔

بہن لوکن پیٹھ بہن نیلہہ زانہہ ونہہ یوان چھہ زہ
توہدس پیٹھ سپروہ قائم تہ تم چھنہہ توہدس پیٹھ
قائم سپدان (مہک چھہ ہتر کس کتہ چھہ تہ تھان)

تمہ وہ بہ پیہہ ایزاون والہن پیٹھ تباہی (تھاند
چھنہ کپنہز تہ شک)۔

لہذا تم وُنی تن تہ سہی نہ پیہہ (قرآن) پیہہ کتہ
سنا کتاہر پیٹھ اُن تم ایمان ؟

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۸﴾

هَذَا يَوْمَ الْقَضِيلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَئِينَ ﴿۳۹﴾

إِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكَيْدُؤُنِ ﴿۴۰﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۴۱﴾

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونِ ﴿۴۲﴾

وَأَفْوَاكِهِمْ وَمَا يَشْتَهُونَ ﴿۴۳﴾

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۴﴾

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۵﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۴۶﴾


كُلُوا وَاتَّمَعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ﴿۴۷﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۴۸﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿۴۹﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۵۰﴾

فِي آيَةِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾



سورة نبا : یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ ہتھ چھ آتھ کاشچہہ آتھ بیہ چھس تہ رکوع ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	(یہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہتھ (پرلن) بیس جد روُس کرم کرن دول (تہ) چھپرک چھپرک رم کرن دول چھ ۔
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ②	یَم (لواکھ) کتھ (چھپرس) متعلق چھ اکھ اُکس (تعبیر سان) سوال کران ۔
عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ ③	تہ (بروٹھ ونہ آمشر یوم الفعول واجتہ) سبھا بچہ خبر ہند حقہ ! ؟
الَّذِیْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ ④	یہیمہ کہ حقہ یَم لواکھ (قرآن کس وئی بیس پزرس ستی) اختلاف تھوان چھ ۔
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ⑤	واہ! پاتھی تھوو یاد تہ اصل حقیقت چھ تہ ہندین عقیدن خلاف تہ اکہ دن ہر سپر امن یہ معلوم ۔
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ⑥	بیہ چھ اُسی دنان تہ کتھ چھ تہ ہندین عقیدن خلاف تہ یَم لواکھ زان سنہ پیشگوئی یو سو آتھ سو رس منز بیان کر تہ آمشر چھ ۔
اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ⑦	(سوچن تہ مٹی تہ) کیا اسہ بنو ناہ ز مپنہ و تھرن ۔ تہ پہاڑ دباو کرنا مینو کتہ ۔
وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ⑧	بیہ (تھوو بیس تہ بیس تہ) اسہ چھو توہی (ساری لواکھ) جوہر (جوہر بناو کر تہ) ۔
وَ جَعَلْنَا نُوْمَكُمْ سُبَاتًا ⑨	تہ اسہ چھ تہ ہنہز بندہ راحک باعت بناو ہنہز ۔ تہ اسہ چھ رات پردہ پوش بناو ہنہز ۔
وَ جَعَلْنَا الْاَيْلَ لِبَاسًا ⑩	تہ اسہ چھ دوہ ز ندہگی ہند (یعنی تہ کہ اظہارک) موقعہ بنو مت ۔
وَ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا سِدَادًا ⑪	تہ اسہ چھ تہ ہر بیٹو کئی سٹھ (تھو تہ) مضبوط (آسمان) بناو کر تہ ۔
وَ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَ هَاجًا ⑫	بیہ چھ اسہ اکھ پر بزلون آفتاب (تہ) بنو مت ۔

- بیس چھ اسر گنہ اوپر مغز واریاہ وسہ ون آب (تہ) نازل کورمت۔
 بیٹھ زن اسی تمہ کہ دوسر (انہ پکو) دانہ تہ سبزہ وہ پداو۔
 بیس (وہ پداو) گنہ بارغ۔
- بے شک یہ خاصک دہہ چھ اکھ گنہ تہ وقت (یعنی گنہ تہ وقتہ بینہ وول)۔
 نیمہ وہ ہر پوگس چھو کہ دہہ بیسہ۔ بیٹہ بیو توہر (اسر بردھ گنہ) لو گنہ لو گنہ۔
- بیس آسمان بیسہ مشراونہ یوت تام ز سہ سپر (برہے) بریلہ۔
- بیس پہاڑ بین (پستہ جایہ نشہ) پکناونہ۔ یوت نام ز تم گزھن سراب (ہوکی) یلہ۔
 بے شک چھ جہنم (بہن لوکن) زاگہ (رؤز تھ)۔
 (بیس) سہ چھ رنہ سے گردان ہند خاطر روزن چاکہ۔
 تم گزھن اتھ مشر وری یہ وادن روزان۔
- (شیرتہ آسہ بہن لوکن ہنزیہ حالت) نہ نہ تہ (کرن تم محسوس) اتھ مشر کتہ قہیح ٹھندی تہ نہ میلہ بہن کا شہ چہنہ چیز (بیس ہنسن تریش کا بیٹھ ہیکہ)۔
 آ، مگر اللہ (تعالیٰ) دہہ بہن (جاؤ) توٹ سہر ہیو آب تہ (نافا بل رواشت) ہنہ رتخ ہو آب۔
 (بیٹھ پاٹھو بیس بہن بہنہ پو مالو) مطابق جزاوتہ
- تم گزھن حساب دنگ کا شہ خوف تہ (پنشن وول منرا) تھاوان۔
- وَ أَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿۱۱﴾
 لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَبَاتًا ﴿۱۲﴾
 وَ جَعَلْنَا أَلْفًا ﴿۱۳﴾
 إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿۱۴﴾
 يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿۱۵﴾
 وَ فُزِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿۱۶﴾
 وَ سَيَّرَتِ الْجِبَالَ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿۱۷﴾
 إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿۱۸﴾
 لِلطَّغْيِينِ مَا بَأْسًا ﴿۱۹﴾
 لِيُجِيبُنَّ فِيهَا آخَاقًا بَأْسًا ﴿۲۰﴾
 لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَ لَا شَرَابًا ﴿۲۱﴾
 إِلَّا حَمِيمًا وَ غَسَاقًا ﴿۲۲﴾
 جَزَاءً وَ قَاقًا ﴿۲۳﴾
 إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَزْجُونَ حِسَابًا ﴿۲۴﴾

لہ یعنی آسمان سپدن کثرت سان نشانہ ظاہر (منہ)

لہ یعنی دُڑ میکی بارشاہ تہ دیکر ہمار وہ نوے گزھن سراب کی پاٹھو بے حقیقت تہ تہ اچھن ہند دھوکہ۔

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا ۝

بہ اسے تم ساری نشانی سستی سان اپڑوان -

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِنْتَابًا ۝

تہ اسہ (تہ) چھہ پر سچہ چیز پوہر پامھو گنتہ رتھہ
مقومت -

فَذُوْقُوا فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝

لہذا (پستہ پستہ ہلو مطابق) تہ ہو عذاب کمز
تہ اسے گتھو توہہ ہذا بے (عذاب) دوان -

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝

بے شک چھہ متقین ہندہ خاطر کامیابی (مقدر) -
(یعنی) باغ تہ دچھہ -

حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝

تہ ہشتی وانسہ ہنہر نوجوان زنانہ -

وَكَوَاعِبَ أَثْرَابًا ۝

بہ تالیہ تام ہر ہر پالیہ -

وَكَأْسًا دِهَاقًا ۝

تہ تہ بوزن تم (جتن) ہنہر بے مطلب
کھتہ تہ نہ اپڑاو زانہہ کانہہ (تہ ہنہر کھتہ) -

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا ۝

تہن سہہ چائس پرور دگار ہندہ طرفہ ہتھہ بدلہ دہہ
یس متاسب حال انعام آسہ -

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ۝

(چائس تہن پرور دگار ہندہ طرفہ یس) آسمان تہ
زمین تہ تہن درمیان یہ کینہر تھا چھہ تہن سارکہ ہنہ
ہندہ پرور دگار چھہ - (تہ) حدہ رڈس کرم کرن
دول چھہ - تہن آسہ تہ تہس برودھہ کتہ (اجازتہ
ورائی) کھتہ کرنک طاقت -

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۝

(یہ آسہ تہہ دہہہ) نیہ دہہہ کھل روج تہہ
ٹاکیہ صفہ گتہ گتہ گتہ گتہ استاد آسن - (تہ) تم
ہسکن تہ کھتہ کتہ تہس ورائی یس رحمان (خلیان)
اجازتہ دیتہ مت آسہ - تہ ہتھہ شخس کہ صرف
موتہہ مطابق (تہ) ٹھپک ٹھپک کھتہ -

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا ۝

لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَن اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ

وَقَالَ صَوَابًا ۝

یہ دہہ چھہ ضرور ہتھہ روزن دول - لہذا توہہ
منہر (یس) شخس (یترہہ سہ بتاؤن پنہس پرور دگار
نہس پنہن ٹھکا تہ -

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ

اِلٰى رَبِّهِ مَا يٰبَا ۝


اسہ چھو توہہ کہ نزدیک (زمانہ منہر ہنہر والہ)
عذابہ ہتھہ زہر پامھو ہتھہ کتہ ہتہ - نیہ دہہہ
انسان سہ چیز موحہ یس تہہ ہندہ اتھو بروٹھہ

اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يُّسْمِعُ الْيَوْمَ

يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاو وَيَقُوْلُ

الْكٰفِرُ لِيَلْتَنِيْٓ اِنْ كُنْتُ تُرٰبًا ۝

سُوْرَةُ الذُّرْعَةِ چھ تو کا فرقہ (تمہ وہ بہر) اے کاش!
یہ آسہ ہائیش ہے۔



سُوْرَةُ نَارِعات، یہ سُوْرہ چھ کی تہ سبم اللہ ہجھ چھ اتھ تہ تہ تہ می آہیہ بیہ چھس تہ رُوع۔

(یہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہجھ (پرلن)
لیس حد رؤس کرم کرن وول (تہ)، پھیری پھیری
رحم کرن وول چھ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

بہ چھسکھ تمہ ہستیہ شہادتہ کنہ پیش کران ہم
پور رعیتہ سان دین علم پائش کن (لمتھ) بوان چھ
بیہ تمہ (ہستیہ) ہم زبر پائش گنڈ کران چھ
بیہ تمہ (ہستیہ) ہم دُور دُور تہ تہ گرھان چھ
پتہ چھ (مقابلہ کرھتہ پنس مد مقابلس)
سٹھا بروٹھ تہ تہ گرھان۔

وَ الذُّرْعٰتِ عَزَقًا ①

وَ الثَّقِیْطِ نَشْطًا ①

وَ الشَّیْخِیَّتِ سَبْحًا ①

فَالشَّیْخِیَّتِ سَبْحًا ①

پتہ چھ (دُور ہستیہ) کاسن ہندہ تدیرن تہ
آور کر گرھان۔

فَالْمَدَیْرٰتِ اَمْرًا ①

(ہم صفتہ) والہ تو کہ ظاہر گرھتاک آسہ سہ (دوہ)
ہنیہ وہ بہر جنگ (کر مچ تیاری) کرن وول (قوم)
جنگ تیاری کر۔

یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ①

تمہ (جنگ چہ تیاری کرن) پتہ بیہ (تمی تہبیج)
پتہ بیہ واجوز (اکھ بیکھ) گڑ۔

تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ①

تمہ وہ بہر آسہ کیشن (لوکن بندن) دن سلواس
ووتھمت۔

قُلُوْبٌ یُّؤْمِنُوْنَ وَ اٰجِفَةُ ①

بیہ آس تہ تہ نظر بہر سوتہ بولن کن۔

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ①

۱: عا پتہ عا تمام آسین مٹھ چھ صحابہ کرامن ہنزن جہانن ہند ذکر۔
۲: یعنی اللہ تعالیٰ ہس سوتہ چھ تعلق مقبول۔ ۳: صحابن ہنزن جہانن ہم جہاد تہ اشاعت اسلام
کر تہ موکہ دُور سفر کران آسہ۔ ۴: ہم تکین مٹھ بین صحابن سوتہ مقابلہ کران آسہ۔

- يَقُولُونَ ءَاِنَّا لَمَزِدُودُونَ فِي الْكَافِرَةِ ۝۱
- (تہ) تم وین، کیا اسی کو پھوپھو پڑھتے ہو؟
کھوری والیں تہنہ؟
- ۱۷ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا تَّخِرَةً ۝۱۷
- کیا میں نے ماسی دھورے مہتر اڑی جہ سپرو (تہ)
حالتس مہتر تہ سپدیا تھکتی؟
- ۱۸ قَالُوا تِلْكَ اِذَا كَرِهْتَ خَاسِرَةً ۝۱۸
- تم چہ وناں (اگر تھکتے سپد) تہ تہ آسہ یہ ہتر
گاڑی واجی والیسی۔
- ۱۹ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝۱۹
- (سہ) تھووہ ہتہ یاد نہ، یہ جہجہ خبر تہ آسہ صرف
اکھ مہتر۔
- ۲۰ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝۲۰
- چنانچہ تم سپدن (اگر مہتر ہتہ) یکدم (جنگہ گس)
مادانس مہتر جاہتر۔
- ۲۱ هَلْ اَتَاكَ حَدِيثٌ مُّوسَىٰ ۝۲۱
- کیا تہ تہ چھیا موسیٰ ہنر کتہ (تہ) واڑ مہتر؟
- ۲۲ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝۲۲
- میں نے تہ تہ تہ پروردگارن مقدس وادی میں
طوی ہس مہتر ناد ہراو۔
- ۲۳ اِذْ هَبَّ اِلَيْهِ فِرْعَوْنُ رَاثَةً طَغٰى ۝۲۳
- (تہ) فرعون نہ، فرعونس کن گتہ ہکلیانہ سہ پتہ
تھووہ چھیر گومت۔
- ۲۴ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزْحٰى ۝۲۴
- بہ (تہ) اول نہ، کیا تہ تہ چھیا (اگر کتہ ہنر تہ کتہ)
ہتہ ہا نہ تہ تہ گوتہ کتہ پاک سپدن؟
- ۲۵ وَاَهْدِيْكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝۲۵
- تہ تہ ہاوسے تہ تہ چائس پروردگارن کن و تہ تہ تہ
ہککہ (خدایس) کھوتن۔
- ۲۶ فَاَرٰنَهٗ الْاٰیَةَ الْكُبْرٰى ۝۲۶
- چنانچہ (موسیٰ گوتہ) تہ تہ (فرعونس) ہودن اکھ
بوڑ ہشاپ۔
- ۲۷ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۝۲۷
- تھ پتہ تہ تہ (موسیٰ) اپروو تہ نافرماتی کرن۔
- ۲۸ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْحٰى ۝۲۸
- تہ علاوہ پھر تہ تہ فسادک تہ تہ کران ہنر ہتہ تہ تہ
- ۲۹ فَحَشَرَ فَنَادٰى ۝۲۹
- تہ زن گوتہ (پنہر دربارک) سونہراون تہ تہ تہ
مہتر (دیاون) عام) پارے (تہ)۔
- ۳۰ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰى ۝۳۰
- تہ (اگر سونہراوتہ) ووشکتہ نہ بہ جیس تہ تہ
ساری وہے کھوتہ بوڑ پروردگار!
- ۳۱ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاَخِرَةِ وَالْاُولٰٓئِ ۝۳۱
- تہ پتہ روٹ سہ اللہ (تعالیٰ) ہن مہتر تہ کس

تو دُنی میکیں عدلیس مثر آوراو تہ خاطرہ۔
یقیناً چھ اتھ (واقص) مثر اکھ بڑ عبرت (بزرگ)
ساما تہ، تنہر خاطرہ یس عدلیس کھوڑان آسہ۔
(سوچو تہ سبھی) کیا توہی (دُبار) پاد کھرنی چھوا
جاو مشکل کھنہ آسمان (پاد کھرن) یس کھ (خلین)
بنومت چھ۔

اتہ) تہیج بلندی چھن تھنر راد ہنر پتہ چھن سہ
بے قاب بنومت۔

بیہ تہیج راتھ (تہ) چھن گٹ بناو ہنر وہ ذگوو
امیک ڈوپہر چھن (کھاشرقہ) نون کوزومت۔
بیہ چھن تھنر سوتو (تھنر زمانس مثر) زین تہ
وتھراو ہنر۔

پتہ چھن (تہ مثر) تمیک آب تہ تہکو نیرہ
کھوڑو سوتو۔

بیہ بال تہ چھن اتھ مثر ٹھاسر ہوتو۔

تہنہر باپتہ تہ تہنہر چاروان ہنہ فایدہ خاطرہ
(چھ تہ یہ سورے کھنہ کوزومت)۔

اد میلیہ سو بڑ بلا یہ پتہ۔

یہنہر وہ ہر انسان پین کوزومت تہ ہنہس پاو۔

بیہ جہنم بیہ تہنہر خاطرہ نون کھنہ یس تھہ
(ققلہ ہنر و اچھو) وچھ۔

لہذا یہو روے گردانی اختیار کھ۔

تہ دُنی بیہرہ زندگی ہنر (اخترس پٹھ) فوقیتہ

بے شک چھ جہنم (ہے) تہنہر ٹھکانہ۔

بیہ نیو سٹنس پروردگار ہنہر رتیک ہم روٹ
تہ (پین) نفوس روٹن و مسی پایہ تھانہو لہنہ پتہ۔

یقیناً آسہ جنتہ تہنہر ٹھکانہ۔

تم چھ تہنہر تھہ گر متعلق پرتھان (نہ) تمیک

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿١١﴾

وَإِنَّمَا أَشَدُّ خَلْقًا مِّنَ السَّمَاءِ بِئْسَ مَا نُفِثُوا ﴿١٢﴾

رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿١٣﴾

وَإِعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿١٤﴾

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿١٥﴾

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿١٦﴾

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿١٧﴾

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ ﴿١٨﴾

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ﴿١٩﴾

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى ﴿٢٠﴾

وَبُورَاتِ الْجَحِيمِ لِمَن يَرَى ﴿٢١﴾

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٢٢﴾

وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٣﴾

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٢٤﴾

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى

النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿٢٥﴾

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٢٦﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ

(نہیں واقف لڑکھ زماناں چھہ۔)

یہ (اے رسول!) کس کتھ ہیکہ ہی تریہ (اتھ پیٹھ) آگاہ کر تھ نہ سہ سپد ہزور پاک۔
یا سہ کر باد (عبرتی کو سامانی) تہ (یہ) یاد کرن
بختہ تس نفع۔

کیا یہ ہیکیا سپد تھ تریس شخص (پتر پتر تہ) لاپرواہی
کر۔

تہ تر دکھ (تس کن) زبر پٹھ دیان (حلاکہ یہ چھہ
سارک سے قرآن نجلاں)۔

تہ کتھ پٹھ ہیکہ تہ تھکن کر تھ! تیلہ تیلہ
ہدایت لپچ تریہ پیٹھ کاٹھ ذہن واری تہ پھینہ۔
یہ یس کاٹھ تریہ کن دوآن دوآن پیہ۔

یہ آسہ سہ (سستی خدایس تہ) کھوڑان۔

(تہ اعتراف کرن والی بند و نپہ کن) تہ چھکھ
تس سستی بے پروائی کران۔

ہرگز چھہ یڑھ کتھ (بیم ساری الزامات چھہ غلط)
بے شک یہ (قرآن) چھہ اکھ نصیحت۔ (اتھ سستی آپہ تہ
تنوار والہ نہ تہ سپدکھ لڑکھ مسلمان بناؤس پیٹھ
مجبور)۔

اویس سیرتھ سہ تھان و ن تہ تہس۔

یہ (قرآن) چھہ (تھقین صحیفن) منزا (بیم عزتہ والی
تھدہ تہانہ والی تہ پاک چھہ۔

یہ (قرآن چھہ) صحیفہ لیکھن والین تہ دور
دور) سفر کرن والین ہندن اتھن منزا
(تھقین لوکن ہندن اتھن منزا) بیم عزتہ والی
چھہ تہ تھدہ درجہ تیکو کار چھہ۔

انسان سپدن ہلاک! سہ کوتاہ ناشکری کرن و دل چھہ۔

وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّخِي ۝۱

أَوَيْدَكَرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۝۲

أَمَّا مَنْ اسْتَعْجَلَ ۝۳

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۝۴

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَّخِي ۝۵

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۝۶

وَهُوَ يَخْشَى ۝۷

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۝۸

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝۹

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝۱۰

فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝۱۱

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝۱۲

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝۱۳

كِرَامٍ بَرَدَةٍ ۝۱۴

فَتِلْكَ الْآنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۝۱۵

لہ یعنی صحابہ کرام کرن قرآن مجید اتھن منزا تھہ اشاعت اسلام خاطر نہ چھہ تہ پٹھ سفر۔ (من)

- مِنَ آتِي شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝۱۱
 (سہ کون غور تو، نہ) خلائق کمر چھڑ، ہنستہ چھ سہ
 پاؤ کورمت ؟
 (تس سپہ معلوم نہ بے شک سہ چھ تکر) اگر لطفہ
 ہنستہ پاؤ کورمت - پتہ کوزن تہنہ خاطر (ترقی ہند
 اکھ) اندازہ مقرر -
 پتہ بتاؤن (تستہز) وتھ سہل تہ سپٹھا آسان -
- ثُمَّ السَّيْلِ يَسْرَهُ ۝۱۲
 (پتہ مورن سہ) (فطری عمر دتھ) پتہ تھوون سہ
 (دوہد دتہ آستہ) قہر منزلیہ
 پتہ نیلہ سہ ہنستہ تس کر دبار سہلقتہ استاد -
- ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝۱۳
 کلا لکما یقض ما امرہ ۝۱۴
 ہرگز چھنہ (بیزہ کتھ) لہسہ توہی سہجان چھو، توہی
 چھونا و سجان ؟) تس (یعنی انسان) یس حکم سولت
 اوس تھو کوزنہ و نیکتام سہ پور -
 لہذا پز ز انسان و چھ پننس کھنس کن -
- فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝۱۵
 أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝۱۶
 (بیہ و چھ نہ) اسہ چھ اوہر معز زہر پاٹو آب
 دولت -
 پتہ چھ زہن زہر پاٹو پھانٹا و پتہ -
- ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝۱۷
 فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝۱۸
 تہ زن گوڈا ہر پھانٹا و تہ کس تہنہس منز چھ اسہ
 تھ منز تہما قہسہ بزق پٹھو وہ پداوی ہتہ -
 یسٹھ پاٹو دچھ تہ سہزہ ترکارہ -
- وَعَبَابًا ۝۱۹
 وَزَيْتُونًا تَخْلًا ۝۲۰
 بے زیتون تہ کھنہر -
 بیہ اتھ سوتی گئی باغ تہ -
- وَوَحْدًا أَرْقُ غُبًّا ۝۲۱
 وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝۲۲
 بیہ میو تہ تہ ہوکھ کاسہ (تہ نہ نہ تہ) -
- فَتَنَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ ۝۲۳
 فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ۝۲۴
 (یہ سورسہ یچھ) تہنہد تہ تہنہدین چارواں ہند
 فایدہ خاطر (پاؤ کر تہ آمت) -
 پتہ (پہ تہ سوچو تہ نہ) نیلہ کنن زر بہن وان
 اول (معیبت) پیہ -

لہ جتہ دوزیہس منز چھنہ پر تھ انسانس قہر میلان لہذا اتہن چھیا ہر زچ قہر مراد - (منہ)

یوم یفر المزمء من اخیه ﴿۱﴾	یہیہ وہ بہ انسان پنہن بپس نش (ترہ دور) نزلہ۔
وأمه وایہہ ﴿۲﴾	ترہ دیتھے پانگو، پسنہ ماہر نش تہ پسنس مابس نش (ترہ)
وصاحبۃہ وبنیہہ ﴿۳﴾	بیہ پسنہ آشنہ تہ پسنہن ہچون نش (ترہ)۔
لکلی امرئ ینہم یومئذ شان ﴿۴﴾	تہ وہ بہ آسہ پر ہتہ انسانہ ہتہز حالت ترہہ ترہہ
یغنیہہ ﴿۵﴾	تھاوتس پانس کئے لگتھہ -
وَجُوَاکَ یومئذ مُسْفِرَةٌ ﴿۶﴾	کیہہ (لوکن ہندر) ہتھو آس تہ وہ بہ پر ہزلہ و ہزلہ۔
صاحکة مُستبشرة ﴿۷﴾	آسہ و ہزلہ تہ تھو ہزلہ۔
وَدُجُوَاکَ یومئذ عَلَیْهَا غَبْرَةٌ ﴿۸﴾	تہ کیہہ (لوکن ہندر) ہتھو آس تہ وہ بہ ہتھو
تَرَهْفُهَا فَتْرَةٌ ﴿۹﴾	زنتہ آسہ اتھن پیٹھ گرم چھاوتھہ۔
أُولَٰئِكَ هُمُ الْکَافِرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿۱۰﴾	بیہ آسہ (اندہم حالت ظاہر کرتہ ظاہر) تہہن دن
	ہتھن پیٹھ اکھ (تہتھہ) کر ہنہار چھاوتھہ (یس) ہتھہ
	وقتہ چھاوتہ یوان پھہ)۔
	یکے لوکھن کافر تہ بدکار گنہراونہ۔

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ دَرَجَةُ ثَلَاثُونَ آيَةٌ

سورۃ تکویر: یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ ہتھ چھو اتھ ترہ آہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾	(بہ ہتھس) اللہ (تعالیٰ) سنداوتھہ (پران) یس
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿۲﴾	حدو دوس کرم کرن دول (تہ) پھیرہ پھیرہ رحم کرن
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿۳﴾	دول چھہ۔
	ییلہ آفتاب (یعنے تمیک نور) ولتہ پیہ بلہ
	بیہ ییلہ تارکھ گنہ گرتھن۔

لہ بین آین منز چھہ یسماان پیٹھ پتہ واپس عارضی زوالس متعلق پیشگوئی۔ قرآن کریمس
منز چھہ رحول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب و نرہ آمت یسٹھ آیس منز چھہ یہ پیشگوئی ز
اکس زمانس منز یہ آفتابس پیٹھ پر دتراونہ یعنے لاکن ہندن دن منز روزنہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنداوتھہ عورت قائم ییکو تھ مستحق چھہ۔

وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٦٠﴾	بیسے سیلہ پہاڑ پکناو پین۔
وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٦١﴾	بیسے لہ واہ ریختہ نہ واول وونہ وونٹنہ بیلہ تراوہ پین۔ لہ
وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُوْشِرَتْ ﴿٦٢﴾	بیسے سیلہ وحشی سونبر او پین۔ لہ
وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦٣﴾	بیسے نیلہ ڈریا و بلناو پین۔ لہ
وَاِذَا النُّفُوْسُ رُوْجِحَتْ ﴿٦٤﴾	بیسے نیلہ (بیون بیون) نفوس سونبر او پین۔ لہ
وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٦٥﴾	بیسے نیلہ زندے دباوہ پینہ واجنہ (کور) بندہ حقہ سوال کرن پین۔ لہ
يَآٰئِيْ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٦٦﴾	(زہ آہر) کتھ گونہ ہس بدل آہ سو قبل کرتہ؟
وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿٦٧﴾	بیسے سیلہ کتاب پھالاوہ پین۔
وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿٦٨﴾	بیسے نیلہ آسمان مسلہ والنہ پین۔ لہ
وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُجِّرَتْ ﴿٦٩﴾	بیسے نیلہ جہنم و ہناوہ پین۔ لہ
وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ﴿٧٠﴾	بیسے نیلہ جنت نکھ انہ پین۔ لہ
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَخْضَرَتْ ﴿٧١﴾	(تہر دہ پین) زانہ پرتھہ اکھ زوہ کینترہا تھہ ٹاھنر کوزمت آہ۔
فَلَا اُقْسَمُ بِالْخُنُوسِ ﴿٧٢﴾	لہذا (یہ توہی خیال کران چھو) تہ چھتہ ہر چھسکھ

لہ یعنی آخری زمانس منزریل، جہازہ بیتر سوار ایجاد کرتھنہ مہ کہ روزہ نہ وونٹن ہند کپتہ قیمت۔ تہر خاص کرتھہ داہ ریختہ نہ واول وونہ وونٹنہ ہند قیمت اوس سہٹا جاوہ آسان۔ لہ چڑیا گرن منزریں جنگلی جالور۔ جمع کرتہ یا وحشی قوم سپدن تہذیب یافتہ یا بین پینہو ملکو منز کڈنہ۔

لہ یعنی ڈر یاون ہند آب کڈتھہ بیہ منہرن منز تراوہ۔
 لہ یعنی سفر گزھن سہل تہ ملکن ہند لوکھ کرن اکھ اکس سترہ ملاقات۔
 لہ یعنی کور زندے قبرن تراوہ تہ سستی بیتر رسم پین خلاف قولون قرار وونہ۔
 لہ یعنی علم ہیئت COSMOLOGY تہ ASTRONOMY کرن ترقی۔

لہ بیسے لہ ناہ سپدن جاوہ۔
 لہ اتھ دنیا ڈری ہندس زمانس منز بناو اکھ لوکھ نیکی تہ جنگھ حقدار۔

پکان پکان پتھ نزلن والی شہادتہ کنہ پیش کران -
 (یکم سستی) نسبتہ سیوڈسے پکان والی (تہ چھ تہ
 پتہ) گرن مشر بہتہ روزن والی سہ
 بیہ (چھس بہ شہادتہ کنہ پیش کران) راتھ ییلہ
 سواند واتان چھینہ -

الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ﴿۱۷﴾

وَالْيَلِ إِذَا عَاشَسَ ﴿۱۸﴾

بیہ صبح ییلہ سہ شاہہ ہنیتہ لگان چھہ لہ

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿۱۹﴾

یقینا چھہ یہ (قرآن) اگرس بزرگ رسولہ سداکلام

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿۲۰﴾

(یس رسول سپہا) تو تہ وول تہ عرشہ واپس
 خداے ہندس دربارس منز یوڈ درجہ تھون وول چھہ
 (بیہ) مطاع (تہ) چھہ (تہ) اتھہ عرشہ چھہ
 اپن تہ -

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿۲۱﴾

تہ ہنہ سستی بوج چھہ ہرگز دیوانہ -

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿۲۲﴾

تہ تو چھہ یہ (غاب) پزری پاٹھ کلمہ نمہ بندس
 پیٹھ وچھمت -

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿۲۳﴾

تہ سہ چھہ غابہ چہ خیر و نسن مشر ہرگز ییل کران

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿۲۴﴾

تہ نہ چھہ یہ (یعنے تس پیٹھ نمازل سپن وول
 کلام) کلا تھ ترعتہ آتس شیطا تہ سنہز (وڈ مشر)
 کتھہ -

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿۲۵﴾

اد (امر باوڈ) توہر کونت چھو گرتھان؟

فَأَبْنِ تَذَهَّبُونَ ﴿۲۶﴾

یہ (قرآن) تہ چھہ سارک نے عالمن ہند تھاپر اکھ
 نصیحت -

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۲۷﴾

لہ یکن آین مشر چھہ تباہ گرتھن والہن تومن ہند ذکر یعنے خطر کر وقتہ
 چھہ پوت ہوان تہ سوچہ سمجھ وراڈی چھہ جزات کران تہ پتہ چھہ ناکام سپد تھہ
 گرن مشر بہان -

سہ یکن آین مشر چھہ خبر دہ آ مشر نہ مسلمان ہند تراپرح راتھ موکلمہ تہ ترقی ہند صبح
 پھولہ -


سہ یعنے تس چھہ کہ فرمانبردار صحابن ہنر جماعت عطا کرن آ مشر بیہ دشمن تہ چھہ زمان نہ سہ چھہ اپن
 لہذا تسد معلوی ہیکہ نہ اپن آستھہ -

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿۱۱﴾

(خاص کڑھ) تو بہرے منتر تیندے خاطر میں سینے
وتہ پیٹھ پکن یتزھان آسہ۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲﴾

تہ تو ہی ہیکو تہ یہ یتزھتھ ، مگر خدایہ سیند
یتزھتھ مطابق ، لیس سارکے عالم ہند پروردگار
چھ۔



سورة انفطار : یہ سوره چھ کلی تہ بسم اللہ بہتہ چھیس وہ آسہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

بہ چھیس ، اللہ (تعالے) مند ناو بہتہ (پران) لیس
حہ رؤس کرم کرن اول (تہ) چھیرک چھیرک رحم
کرن اول چھ۔
یسیلہ آسمان چھٹہ

وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿۲﴾

بہ یتیلہ تارکھ ہیرتھ پین لہ

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿۳﴾

بہ یتیلہ سمندر چھیرتھ بلناونہ پین لہ

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿۴﴾

بہ یتیلہ قہر پراہتھ اور یور چھکراونہ پین لہ

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿۵﴾

اد زانہ سہ نوڈ (خطاکار) زولہ نہ تکی کیا (ہو)
چھ بروٹھ سوزمت تہ کیا ہو ، چھین پتھ کن ترومت۔

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿۶﴾

اے انسان! تہ تکی چھکھ پننس پروردگار ہندس حق
منتر مغرور (تہ قریب خود) بنومت ؛

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ
الْكَرِيمِ ﴿۷﴾

لہ یتھ سوس منتر تہ چھ آخری زمانہ کو علامات بیان کرنہ آہتہ۔ (منہ)

لہ یتھ یتیلہ کھرتہ شہرک یتیلہ پراہتھ اللہ تعالیٰ کر عذاب والنک قاصو۔ (منہ)

لہ یتھ علمائے دین گرتھن ناوڈ۔ (منہ)

لہ یتھ منتر نہر سوزتہ تہ نہر پانامہ یوڈی سمندر بلناونہ آسہ۔ (منہ)

لہ یتھ پرائن بادشاہن تہ فرعون ہنز قبرین پرائنہ تہ تہندک مہردین اور یور ملکن منتر سوزنہ۔ (منہ)

لہ یتھ نصرانیت نمبر دومیہ منتر شہرک تہ الحاد چھالومت چھ۔ (منہ)

(تس پروردگار ہند حق)۔ نیو تہ پاؤ کورکھ پتہ سنہو کھ
تہ (یعنی چاند اُدری طاقت کرن درست) پتہ پتہ کونے
تہیہ مناسب طاقت۔

پتہ یوہ بہ صورت تہ پتہ کورکھ پتہ قائلہس منز تہرنگہ۔

(یہ توہی خیل کران چھو) تہرہ کتہ چھہ ہرگز بلکہ
توہی تہ چھو جزا سزاہس ایزاوان۔

بیہ چھو بے شک تہہ بہ پیہ (تہہندس خلیہ ہر بظرف)
راچھدر مقرر۔

ہم عزتہ واکہ تہ شریف چھ (تہ) پرتہ کا نہ کتہ چھ
لیکن واکہ

توہی یہ کیشرا تہ کران چھو تہ چھہ ہم زمان۔

یقینا چھہ پیکین منز بروٹھ پکن واکہ لاکھ (ہمیشہ)
نعمتس منز (روزان)۔

تہ بدکار لاکھ چھہ یقینا جہنمس منز (روزان)۔

ہم اژن تہہ اندر (تھاس کڑتہ) جزا سزا کہ وہ بہ۔

ہم ہم پیکن تہ کتہ پاٹھ تہ تہ سہہ بچتہ غاب منز تہہ۔

ہم (اسے مخاطب!) تہیہ کتہ چھہ امہ کتہ ہند علم

دیت مت نہ جزا سزا کہ وقت کیا چھہ؟

ہم (چھی اُس تہیہ پرتھان نہ) تہیہ کتہ چھہ علم دیت
نہ جزا سزا کہ وقت کیا چھہ؟

(یہ وقت آسہ) تہہ وہہہ سینہ کا نہہ ترو کا نہہ
تروس قایدہ واناوہہ خاطر کا نہہ اختیار آسہ تہ تھالان۔

تہ سورسے قائلہ آسہ تہہ وہہہ اللہ (تعالیٰ) ہندہ
سہہ اتھس منز۔

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ۝۱

فِي آتِي صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝۲

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ ۝۳

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝۴

كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝۵

يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَّلُونَ ۝۶

إِنَّ الْآبَاءَ لَكَفِيٍّ نَعِيُونَ ۝۷

وَإِنَّ الْفُجَارَ لَكَفِيٍّ جَحِيمٍ ۝۸

يَصْلُونَ نَهَايَوْمَ الدِّينِ ۝۹

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝۱۰

وَمَا آذَاكَ مَا يُؤْمُرُ الدِّينِ ۝۱۱

ثُمَّ مَا آذَاكَ مَا يُؤْمُرُ الدِّينِ ۝۱۲

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۝۱۳

وَالْأَمْرُ يَوْمَ مَعْدٍ لِلَّهِ ۝۱۴

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكَانَتْ مِنْ آيَاتِهِ

سورة مطففين - یہ سورہ چھ رکعی ہے بسم اللہ پہلے چھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①	(ابو جحیس) اللہ (تعالیٰ) سُنَدِناو پہلے (پران) یس حدیثوں کرم کرن وول (ہ) پھیڑی پھیڑی رحم کرن وول چھ۔
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ②	سو دہس منز چھوڑی دینہ والین ہندِ خاطر پہلے (عذاب) عذاب۔
الَّذِينَ إِذَا أَتَاؤهُم مَّا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ③	(تمن ہندِ خاطر) ہم نیلے تولتہ ہوان چھ آتی چھ زیر پاٹھ پور تولتہ ہوان۔
وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ ذُرِّئَهُمْ يَخْسِرُونَ ④	تہ (نیلے کانہ چیز) بین تولتہ ووان چھ تہ نیلے پچھ تفس منز چھوڑی نہر تھا وول۔
أَلَّا يَظُنُّوا لِعَلَّكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ ⑤	ہیں لوکن چھنا پڑھ نہ تم میں (زندہ کرتے) تلتہ۔ تہ تھہ تشارہ والہ وقتہ (سیدان وول فاصلہ وچھتہ) خاطر۔
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ⑥	نیہ وقتہ (ساری) لوکھ سار کرنے عالمن ہندس پروردگار ہند (یعنی سُنَدِ فاصلہ بوزتہ) خاطر اساد سیدان۔
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ⑦	(بیٹھنے میں فکر نران چھ) تڑھ کتھ چھنہ ہرگز (بلکہ) برکارن ہند (یعنی تہندس جزہس متعلق) حکم پچھ بیشک اگس ہمیشہ روز و نیکتابہ منز۔
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ⑧	یہ تڑیہ کم چھے وڈنت نہ سچین کیا چھ؟ سہ چھ تہتہ حکم یس (ازلہ پیٹھ) بکھتہ چھ۔
وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ⑨	تہ دہ ہر آسہ ایزاون والین ہندِ خاطر (عذاب) عذاب۔
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ⑩	(تمن) ہون ایزاون والین) ہندِ خاطر ہم جزا سترکہ وہب انکار کران چھ۔
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ⑪	اتھ بکھتہ نہ بیہ کانہ انکار کرتے مگر سے یس حد
الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ⑫	
وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلٌّ مُّخْتَدٍ آفِيئِهِ ⑬	

نمبر درامت (تہ) سخت گونہ گار آسہ۔
 سبیلہ چھین لوکن بروٹھ کنہ سانی نشانیہ پرہہ یوان
 چہ تہ تم چہ ونان نہ ایم تہ چھینہ بروٹھو ہن لوکن
 ہنر نقل کرے مٹر کتھ۔
 ہرگز چھتہ (تھکنی تھکنی تم ونان چہ) بلکہ (اہل کتھ
 چھینہ نہ نہ) یہ تو کو موت چھ تو چھ تھندہن دن
 پٹھ کتھ یاد کر ہنر۔
 بلکہ پتھ کتھ ولو نہ تم ہن تمہ دو ہر پتھس پرہہ دگارس
 بروٹھ کنہ حاضر سپنہ نشہ بے شک پتھ رٹنہ۔
 پتہ سپنہ تم ضرور جہنس منز داہل۔

پتہ پتہ پتہ ونہہ یو ہے چھ سہ (انجام) نیکیک توہر
 انکار کران مسر و۔

تھندہو نیالو ہر خلاف ابرارن ہند (یعنی تھندہ
 جزبہ) حکم چھ یقینا علیینس منز۔
 تہ تہ نہ کو پتھہ وونت نہ علیون کیا چھ؟
 سہ چھ اھ لیکتھ حکم۔

یچھ مقرب لوکھ (پاہ پسنہو اچھو) دھین۔
 فیکین منز بروٹھہ درامت لوکھ بن یقینا نعمتس منز تھوہر
 پھرتل تہ پاراؤر متین سخت پوش پیٹھ (بہتھ) آسن
 (سورسے حال) دوجھان۔
 (اگر تہ تم دھچھہک تہ) تھندہن بھین پیٹھ کرکھ تہ
 نعمتن ہنر ہازل تہ رونق محسوس۔
 تمن بیہ شتوہ تہ مہر بند شراب چاوتہ۔

یچھ آخری داسس کستوری تافہ مشک آسہ او ٹا ہش
 تھون والہن (انسان) ہر بیسی چیز بچ ٹا ہش کرے۔

إِذَا تَنُتِلَ عَلَيْهِ أَيْتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ
 الْأَوَّلِينَ ﴿۱۶﴾

كَلَّا بَلْ عَدَوَانٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
 يَكْسِبُونَ ﴿۱۷﴾

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
 لَمَخَجُوبُونَ ﴿۱۸﴾

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿۱۹﴾

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
 تُكَذِّبُونَ ﴿۲۰﴾

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿۲۱﴾

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿۲۲﴾

كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿۲۳﴾

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿۲۴﴾

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿۲۵﴾

عَلَى الْأَرْشِ يَنْظُرُونَ ﴿۲۶﴾

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ
 النَّعِيمِ ﴿۲۷﴾

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿۲۸﴾

خِتْمُهُ مِسْكَءٌ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
 الْمُتَنَافِسُونَ ﴿۲۹﴾

وَمِرَاجُهُ مِنَ تَشْنِئِهِ ﴿۱۸﴾

بیہ آسہ تھہ منز تسمیح لہ یوان۔

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿۱۹﴾

(سون مطلب چھ) سہ ناگ نیبہ منز مقرب لاکھ
تریش چین۔

لَإِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ
أَمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿۲۰﴾

تم لاکھ ہم مجرم سپدی تم اسی یقیناً مؤمن سدی استہ
ہنا کران۔

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَخَمَّزُونَ ﴿۲۱﴾

تہ نیلہ تمو کوئی نیران اسی تہ ہم اسی اکھ افس
اچھ ناٹ کران۔

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا
فَكَفِهُنَّ ﴿۲۲﴾

بیہ نیلہ ستنہن گہ باترن کن واپس یوان اسی تہ زبر
پاٹھو اسی (مسلمان خوات) کتھ بناوان واپس یوان۔

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿۲۳﴾

بیہ نیلہ (تہ) تمن وچھان اسی ، دنان اسی نہ ہم لاکھ
تہ چھ اُکے گراہ۔

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿۲۴﴾

تہ یوز چھ بیہ نہ ہم اسی تہ تمن پیٹھ راچھدر باوتھ
سونہ آہتی نہ

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ
يَضْحَكُونَ ﴿۲۵﴾

او یو ایمان اون ، تمہر جزا سزاکر دہ ہر تراون کافرن
پیٹھ استہ ہنا۔

عَلَىٰ الْأَرْأْسِ يَنْظُرُونَ ﴿۲۶﴾

تم آسن چھترل تہ پسر تھ تحت پوتن پیٹھ بہتھ (تہتھ
سورس سال) وچھان۔

هَلْ ثُبُوبَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۲۷﴾

(تہ پاپنہ وانی وشن نہ) کیا کافرن میولا (تھیک) پوپ
بدلہ یہ کینترھا تم کران اسی؟ (کتہ نہ؟)

لہ تھیک معنی چھ تھو درجم یہ چھ جت تہ کر کہ ناگت ناو امیک رو حالی آب چینہ سوتی

مؤمن ہند کرجم گرتھن تھدی۔ (منہ)

لہ اتھ آیس منز چھ بیان کرتہ امت نہ دلہ چین کتھن پیٹھ گرتھ نہ فتوی لائن۔ (منہ)

سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا مَعَ الْمَسْمُوكَةِ سِتِّ وَعِشْرُونَ آيَةً

سورۃ انشقاق : یہ سورہ چھٹے کی ہے بسم اللہ ہیچہ چھ آیتھ شہتوہ آیت۔


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	ابو حیصس، اللہ (تعالے) سداو ہتھہ (پران) یس سہ رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر کر رحم کرن وول چھ۔
اِذَا السَّمَاءُ اِنْشَقَّتْ ①	ییلہ آسمان چھٹیلہ
وَ اِذْ نَسَتْ لِرَبِّهَا وَ حَقَّتْ ①	تہ سینس پروردگار ہند (یعنے تہنہز کتھہ بوزہ) خاطر تھوکن تہ یس چھ (تس پیٹھ) قرین۔
وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ①	بہ ییلہ زمین و ہراوہ پیہ۔
وَ اَلْقَتْ مَا فِيهَا وَ تَخَلَّتْ ①	تہ یہ کتھرھا تھہ منز چھ سہ ترھند تہ تہیر چھکھتھ تہ ترھریے روزہ۔
وَ اِذْ نَسَتْ لِرَبِّهَا وَ حَقَّتْ ①	بہ سینس پروردگار ہند (کلامہ کر بوزہ) خاطر دار کرن تہ یس چھ (تس پیٹھ) قرین۔
يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَىٰ رَبِّكَ كَذٰلِكَ فَمَلِكِيهِ ①	اے انسان! تہ چھکھ سینس پروردگار کن یازہ نور لاگتھ گزھن وول او چھکھ تس سمکھن وول۔
فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِينِهِ ①	لہذا سیکر ہندس و حیسس اعقس منز تئند اعمال نامہ دہو پیہ۔
فَسَوْفَ يَحْسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا ①	تہ تس پیہ اول اول سہل پاٹھو حساب بہتہ۔
وَ يَنْقَلِبُ اِلَىٰ اٰهْلِهِ مَسْرُورًا ①	تہ سہ چھیر سینس اہل و عیاس کن خوش تہ خوشحال پاٹھو واپس۔
وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ وَّرَآءَ ظَهْرِهِ ①	تہ تیس تہنہز تھریتر کتھ تئند اعمال نامہ دہو پیہ۔

یہ یعنی ییلہ آسمان پیٹھ سپدن ییلہ پاٹھو نشان ظاہر۔ (منہ)
تہ یعنی آسمانی لوکھ یعنی نیک لوکھ سپدن خدا تعالیٰ بہترن کتھن پیٹھ دیان ولس تیار۔ (منہ)
تہ یعنی علم طبقات الارض (GEOLOGY) کر ترقی تہ زمیہ منزین پیٹھول گیس تہ معدنیات کڈتہ۔ (منہ)
یہ یعنی زمیہ لوکھ تہ سپدن خدا تعالیٰ سدا کلام (قرآن) بوزلس کتھ تیار۔ (منہ)
یہ یعنی خدا تعالیٰ سدا ملاقات چھ تسو لعیہ آسمان یس سارک سے و التہ عبادت کر۔ (منہ)

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُودًا ۝۱۶
 وَيَضِلُّ سَجِيرًا ۝
 إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُودًا ۝
 إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُودَ ۝
 بَلْ جَرَاتِ رَبَّةَ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝
 فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝
 وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝
 وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝
 لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝
 فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝
 وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝۱۷
 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ۝
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝
 فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
 أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝۱۸

سے دیکھ جلدیے (پہننے دہنہ سوتی پنٹس) ہوا کتس ناد۔
 سے سیدر ہو جنس تارس منتر۔
 سے اوس پنٹس اہل دعیاس منتر سپٹھا خوش روزان۔
 (تو) پڑھ اسس نہ کشادی پتہ پیہ نہ تس زاتہ شغلی۔
 مگر تہ اوس (مضور) سیدن تہ کیا نہ تسد پروردگار اوس
 تس یقیناً دوجھان۔
 تو تہندہ نیارچ غلطی ثبات کرتہ خاطر چھن اوس شفق
 پیش کران۔
 بیہ راتھ تہ بیہ تبتہ یہ سہ سہ نہ تہ لوطھ انان چھین۔
 بیہ زون تہ بیہ سہ تر واپہہ راتھ ہنر سپدان چھین
 (چھن اک شہادتہ کتہ پیش کران)۔
 تو ہی داتو ضرور درجہ پتہ درجہ یکن حالتن پیٹھ۔
 تہ یکن کافرن کیا چھ گومت نہ ہم چھتہ ایکن انان۔
 بیہ سیدر یکن بروٹھ کتہ قرآن یہ تہ پیہ تہ سجد چھ کران۔
 بلکہ کافر چھ پنٹس کتوس منتر یات سہ نہ سیر درا تہ
 نہ ہم لک (قرآنک پڑ) اپڑاوتہ۔
 تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تہ زہر پاطھ زانان یہ تو پنٹین
 دن اندر کھبتہ مقصودت پیٹھ۔
 لہذا یکن د (تہندہ پو شیدہ خیالہ تہ ظاہری اعمال ہند
 پاعوتہ) کر بیٹھ عذاب نہ خبر۔
 مگر تم (لوگ) ہیو ایمان اون تہ مناسب حال علو کرکھ
 یکن سیدر اکھ نہ موکلن وول (نیک) اجہر۔

۱۷ شفق سے وہ زہار میں آفتاب کہتے تہ لوستہ ویر نہیہ ذنہر پیٹھ غا ہر سپدان پیٹھ۔ اتھ
 آیس منتر چھ ونہ امت نہ تیکتو شفق چھ کہے کالس روزان۔ یہ تھ کتو اسہ اسلامک
 آفتاب لوستہ پتہ کے زمانہ تہ تہ کہسہ بیہ۔ (منہ)
 ۱۸ میں نے تیکتو تر واپہہ، تر واپہہ، پندہ ہم نہ شو را ہم زون کمل چھین آسان یہ تھ پاطھ سپدہ تر واپہہ،
 تر واپہہ، پندہ ہم نہ شو را ہمہ صدی منتر اسلامچ ترقی کمل۔ انشاء اللہ



سورة بروج . یہ سورہ چھ کی ہے لیکن اللہ بہتہ چھ اتمہ ترووہ آیت ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	(ہر چھیس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو بہتہ (پران) یس حہر رُوس کرم کرن (وہ) چھپرک چھپرک رگم کرن وول چھ۔
وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ①	ہر چھیس بُرجہ (رُاش) وول آسمان شہادہ کتبہ پیش کرن ایلہ
وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ①	بہ سہ دوہہ تہ نہیک وعلہ چھ۔
وَشَآهِدٍ مَّشْهُودٍ ①	بہ (وعلہ) وہر آمت (گواہ) تہ بہ سہ شخص یس بہتر پیشکونی بروٹھن کتا بن مشر ہووہ چھہ۔
فَتِلْ آصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ ①	خندہ وُالی گے ہلاک۔
التَّارِذَاتِ الْوَفُودِ ①	یعنی (خندہن مشر) نار (وہاوان وُالی) یس کھین مشر (جان پاطھی) زان (تراوہ آمت) اوس۔
اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ①	بیلہ تم تھہ نارس پیٹھ (درتہ وٹھ) بہتہ اوس۔
وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُُوْدٌ ①	بہ یہ کھینہ (معالہ) تم مؤمن سوسی کران اوس بہتہ دل اوس تہج حقیقت زمان۔
وَمَا نَقْمُوْا بِمَنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْحَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ①	بہ تم اوس بہتن سوسی محسن اوبکتی دشمنی کران تہتو کیا تہاوان غالب (تہ) سارکبے تعریفن لایق اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ ایمان ؟

یہ چھ اتمہ سانس باہ راش مانہ لوان چھہ تھہ پاطھی چھہ لوان آسمان تہ باہ بُرج تہ مؤمن بہتہ
رُاش پستہ رُاش ترقی کر تھہ کسان تہ آمت محمد کریم رُوحانی آفتاب چھہ تم چھہ اسلام کر پزح شہادت دوان۔
تہ یعنی آمت محمد یہ ہس مشر پزح اکتہ امتی استا وکر تہ یس الہام الہی سوسی دنیا ہس مشر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ہند پزح شہادت وہہ تہ بہہ پاسہ آسہ ہس شخص متعلق تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہندس کلاس مشر پیشکونی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسہ شہادہ تہ تہ مشہود تہ۔
تہ پزح مذہب ہند کر مخالفت چھہ پزحہ زمانس مشر مؤمن خوات ہستہ تہ فسادک نار وہاوان
تہ تھہ مشر چھہ تھہا تھہم زانہ تراوان گر شہان مگر مؤمن ہند خاطر چھہ یہ نار کھزار بنان تہ
مخالفت چھہ اتمہ مشر دزان۔

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۰﴾

سے اللہ (تعالیٰ) سب کو بندس اتقس منتر آسمان
ہنرتہ زمپنچ بادشاہت چھین۔ سب (پہ چھین
سوچان ز) اللہ (تعالیٰ) چھہ بڑیچہ چھین
(کبو حالاتو) ہنرتہ خبردار۔

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ
عَذَابٌ الْحَرِيقِ ﴿۱۱﴾

تم لو کہ یو مؤمن مرد تہ مؤمن زنانہ عذابس
منتر گرفتار کرکے پتہ کورکھ تہ (پتہ نہ کرتو تہ ہنرتہ)
توبہ بہن میلہ بے شک جہنمک عذاب بے میلہ بہن
(یچہ دنیہ ہس منتر تہ اول) زابہ تہ ہنرتہ اول
عذاب۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْكَبِيرُ ﴿۱۲﴾

(تہ) یو لو کو ایمان اون تہ سستی کرکھ تہہ (ایمان
کہ حالہ) مطابق عمل تہ بہن میلن (تہہ) بارغ
بہن منتر کولہ پکان آسن (تہ) بیہہ چھین بڑا کامیابی۔

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿۱۳﴾

بے شک چھینہ چالس پروردگار سنرتھپ کر سچہ آسان۔

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُخْتِئُ ﴿۱۴﴾

(تہ کیا ز) سے چھہ دنی پبہک عذاب شروع کران۔
تہ (اگر کا نہہ توم بانہ پبہ تہ تیبہ) چھہ پھیر کر پھیر کر
عذاب انان۔

وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ﴿۱۵﴾

بہہ چھہ سہ (اتھ سستی) اتھہ رؤس بخش مار (تہ)
اتھہ رؤس محبت کرن اول تہ۔

ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿۱۶﴾

(تہ) عرشک مالک (تہ) تھہہ شانہ اول

فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ﴿۱۷﴾

سہ نیہہ کتھہ ہند ارادہ کر سہہ چھہ کرہتہ روزن اول۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿۱۸﴾

کیا تو بہہ ہنرتہ آئی تا (پزہر بہن دشمن ہنرتہ) لشکر بہر
تھیر؟

فِرْعَوْنُ وَثَمُودَ ﴿۱۹﴾

یعنے فرعون تہ تمود بہن لشکر ہنرتہ۔

بِالَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿۲۰﴾

پزہر چھہ بے تر کافر چہہ رشدا پدا انکار (کس مرضس)
منتر (آورتہ آہتی)۔

وَاللَّهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ مُخِيطٌ ﴿۲۱﴾

بوزوے تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ بہن پتہ کتہ (تہہ)
(تہن) گہر کرن اول۔

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿۲۲﴾

ہہ تہ چھہ (امر مغلو) اکھ حقیقت تر سہ (کلام سہ)

میں کھن ہنر خبر دوان چھ) سہ چھ اکھ اظہ
 پاک کلام بیہ چھ پر پتہ جائے تو پر پتہ زانس منز
 پر پتہ بیہہ دول کلام بیہ
 (تہ تمہرہ طلو چھ کمال بیہ زہ) سہ چھ لوح محفوظ بیہ
 منز۔

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ ذَرِيَّةٌ مَعَ الْبِسْمِلَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ آيَةً

سورة طارق : ۱۸۔ سورہ چھ کی تو بسم اللہ ہتھ چھ اتھ اردوا آہ۔

(پر چھس) اللہ اتعالیٰ) سہ ناو ہتھ (پر ان) بیس
 حد روس کرم کرن دول (تہ) پھیر کر پھیر کر رحم
 کرن دول چھ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

بیہ چھسن آسمان تہ مہیک تارکھ شہادتہ کتہ پیش
 کران۔

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝

تہ کتہ چہزن چھ تریہ علم دیت مت نہ مہیک
 تارکھ کیا چھ؟

وَمَا أَذْرَكَ مَا الطَّارِقِ ۝

(سہ چھ) سہ تارکھ بیس سہٹا زوان چھ۔

النَّجْمِ الثَّاقِبِ ۝

(اکی چھ دعویٰ کران نہ) کانہہ زو تہ چھنہ (تہ
 قبمک) بیہ پتہ (تہ لایہ بند طرف) اکھ راجھدر
 مقرر آسہ تہ۔

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

لہذا انسان پتر وچھن نہ سہ کتہ چہنہ ہتھ پاد
 کرتہ آمت!

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ وَمِمَّا خُلِقَ ۝

سہ چھ اکھ دول آہ (بھیر) ہتھ پاد کرتہ آمت
 سہ چھ تھرتہ لکانو منزی ہاگر نیران۔

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝


سہ (یعنی خدا) چھ تس یقیناً دوبار پھیرتہ انس
 پتہ تادہ۔

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝

سہ قرآن، بیس تحریر ہمیشہ پر نہ بیہ۔
 سہ یعنی قیاس تمام روز محفوظ۔

یَوْمَ تُنْبَلُ الشَّرَائِدُ ﴿۱۰﴾
 فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿۱۱﴾
 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿۱۲﴾
 وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَءِ ﴿۱۳﴾
 إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ ﴿۱۴﴾
 وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿۱۵﴾
 إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿۱۶﴾
 وَآكِيدُ كَيْدًا ﴿۱۷﴾
 فَمَهْلُ الْكُفْرِ بَيْنَ أُمَّهَلِهِمْ ذَوَيْدًا ﴿۱۸﴾ ﴿۱۹﴾

تہہ دوہہ نیلہ یوشید رازتخی کرٹہ بیڑی۔
 نیہہ کونے تہ روزتس (انسائس) بش (بلاے
 کاسٹک) کاٹھہ طاقت تہ نہ آسہ تس کاٹھہ مددگار
 بہر چھس شہادہ کتہ سہ او بر پیش کران یس آسہ
 ہستی برتہ پھیر پھیر رؤد والان چھہ۔
 بیہ چھس زمین تہ شہادہ کتہ پیش کران یوہہ رؤد
 پسپو پتہ وول پدن پلو ہوان چھہ۔
 بہ شہادت چھہ اتھہ کتہ پٹھ نہ سہ (قرآن) چھہ
 یقینا، قطعی تہ فاصلہ کرن وول۔
 تہ سہ چھہ کاٹھہ (بے کار تہ) کمزور کلام۔
 ہم لوگہ کرن یقینا (یتھ قرآنس خلاف) نرھل تھہر
 تہ بہ (تھل) تہ کر (تس خلاف) زبرد سیرا تہ پوز تہہ۔
 لہذا (اے رسول!) کافرن و موہت (آ) تمہن
 و کینہہ دوہہ بیہ موہت (یتھ نہ یوت زور لاگن
 بیڑھن، لاگن)۔



سورة الاعلیٰ : یہ سورہ چھہ کی تہ بسم اللہ ہتھہ چھہ اتھہ ثہ آہہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
 سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی ﴿۲﴾
 الَّذِیْ خَلَقَ فَسْوَیٰ ﴿۳﴾
 وَالَّذِیْ قَدَرَ فَهَیٰ ﴿۴﴾

(بہر چھس) اللہ (تعالے) سندا تاو ہتھہ (پران)
 یس حدہ رؤس کرم کرن وول تہہ پھیر پھیر
 رحم کرن وول چھہ۔
 (بہ رسول!) پینس بزرگ تہ برتر پروردگار
 ہندہ تاوگ بے قاب آس کر بیان۔
 سہہ سہہ (انسان) پاد کوز تہ (سہ) بنوون
 بے قاب۔
 بیہ سہہ (تہنہن طاقتن ہند) اندازہ کوز تہہ (تمو
 مطابق) دین تس ہدایت۔

بے سیمو ز مسیبتہ منز ڈرمن وو پوو۔ پیتر۔ نوڈن تنھہ کزہن ترھوٹھ۔	وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۙ فَجَعَلَهُ عُتَاقًا وَآهَوَىٰ ۙ سُنْقَرٍ نَّكَ فَلَآ تَلْسَىٰ ۙ
(اے مسلمان!) اسی پرناووتھہ تر (تنھہ پاٹھو) نہ تمہ کز ترھکھہ نہ تر نہ (تر) مُشتر اوتھہ۔ تمہ ورازی ی اللہ (تعالیٰ) مُشتر اوانوں نیزہ سہ چھہ یقیناً ظاہر تر زانان تر تیرہ یہ ترھایہ چھہ۔	إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفَىٰ ۙ
بے (اے مسلمان!) اسی کرو چاہہ تر طاہر (کامیاب تر) سہولیت تر حاصل کرنہ سہل۔ لہذا تر تر روز نفیحت کران۔ نفیحت کرہ چھہ (ہمیشہ) ڈی مہس منز) قائد مند روزان۔ یس (خدا یس) کھوتران چھہ سہ رط یقیناً نفیحت۔ تر (تنھہ مقابلہ) یس نہایت بدبخت آسہ سہ روز اہر ہنتر لوبے ہوان۔ (سے) یس بُر یس ناس منز داخل سپدن وول چھہ۔ پیتر (تنھہ منز گرتھتھ) نہ تر مر سہ تنھہ منز تر نہ روزہ نہنہ۔ یس پاک بنہ سہ سپد یقیناً کامیاب۔ شرط چھہ یی نہ سہ ہنہ (پاک پننس ستر ستر ستر) پننس پروردگار سندا ناو تر بے روز نہاز پران۔ مگر (اے مخالفو!) توہر (لوکھ) تر چھو دنیادی نہندگیہ (مترلس پیٹھ) تھنر روان۔ بوز وسے تر آخرت چھہ کتر کور بہتر تر یر کال پر ستر ون۔ بے شک چھہ یہہہ کہتہ، بروٹھو ہن صحیفن منز تر (درہج)۔ (یعنے) ابراہیم تر موسیٰ ہندن صحیفن منز۔	وَتُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۙ فَذِكْرٌ إِنْ تَفَعَّتِ الذُّكْرَىٰ ۙ سَيَذَكُّكَ مَنْ يَخْشَىٰ ۙ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَىٰ ۙ الَّذِي يَصِلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۙ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَىٰ ۙ فَذَا فَلَاحٌ مَنْ تَزَكَّىٰ ۙ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۙ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ وَ الْاٰخِرَةَ خَيْرًا وَّ اَبْقَىٰ ۙ إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولَىٰ ۙ صُّحُفٍ اٰمُرْ هٰذِهِمْ وَاْمُرْ هٰذِهِمْ ۙ

۱
۱۴

۱۰ یعنی قرآن کریم بے مسلمان ہندن دن منز تھپاٹھو لوپہ تر کرہ نہ قیامت نام روزان بین منز کیہنہ
بتھو لاکھ ہم قرآن کریم کیچ تعلیم ڈی مہس منز چھالون تر اچھہ عالم تھوان تھنر۔ (منہ)

فِيهَا سُرُورٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٥﴾	تھ (جنس) منز آسن (بیر) تھدک تحت تہ تعاون آہتر۔
وَأَكْوَابُ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٦﴾	بیر آسن تر نیشہ ٹوزک سجادہ آہتر۔
وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٧﴾	بیر آسن لہ کپڑ لہ کپڑ سیکپ (ڈوڈھ دتہ خاطر) سیکر تیکہ لگتھ تھوتہ آہتر۔
وَذَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٨﴾	بیر آسن قاپین دتھراونہ آہتر۔
أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٩﴾	تہم جھنا اؤبرس لہ کن وچھان نہ سہ کہتہ پاٹھو چھ پاڈ کر نہ آمت۔
وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿٢٠﴾	بیر (تہم جھنا) آسمان کن (وچھان تہ) سہ کہتہ پاٹھو چھ تھراونہ آمت۔
وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٢١﴾	بیر پانترال کن (جھنا وچھان تہ) تہم کہتہ پاٹھو چھ تھاسہ آہتر۔
وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٢﴾	بیر زمیں کن (جھنا وچھان تہ) سہ کہتہ پاٹھو چھ سٹراونہ آہتر۔
فَذَكِّرْهُ لَأَنَّكَ آتَمٌ مُذَكِّرٌ ﴿٢٣﴾	لہذا تہم کر نصیحت تہ تہم چھکھ صرف نصیحت کرن دول۔
لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٤﴾	تہم چھکھ نہ تہم (لوکن) پیٹھ وارو تہم (ہیو) مقرر۔
إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٥﴾	الایمہ تھرمپہر تہم کفر کورن۔
فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٦﴾	تہم کس نتیجس منز وہی اللہ (تعالی) تس سارو کھوتہ بوڈ عذاب۔
إِنَّ إِلَيْنَا أِيَابَهُمْ ﴿٢٧﴾	یقیناً پھہ تہم اسی کن پھہر تہم یں۔
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٨﴾	پہر تہم حساب ہون تہم چھ بے شک سانی کام۔

لہ ایل: چھ دونہر سدعام ناو۔ لوغس منز چھ اتھ اوبر تہم معہ لپکھتھ (مفردات)۔

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا مَعَ الْبَسْمَلَةِ اِحْدَى وَ ثَلَاثُونَ آيَةً

سُورَةُ فَجْرٍ : پَر سُورَه چھ مکی تہ بسم اللہ ہتھ چھ آیتھ اکثرہ آیتہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	(بہ چھیس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہتھ (پر ان ایس) حد رؤس کرم کرن دول (تہ) پھیرک پھیرک رحم کرن دول چھ۔
وَ الْفَجْرِ ②	بہ چھسن شہادت تہ کہہ کہہ پتہ دول فجر پیش کران۔
وَ الْبَیِّنَاتِ ③	بہ داہ راز تہ یلہ
وَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ④	بہ کہ جُفَّت تہ کہ طاق تہ یلہ
وَ الْاَيْلِیْلِ اِذَا یَسِرْنَ ⑤	بہ (پہلے کہہ و تنہ آ مشرو ڈھو راترو پتہ پتہ و اجڑ) کہ راتھ ییلہ سہ تیرتہ با چھ سکھریلہ
هَلْ فِیْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِیْ حِجْرٍ ⑥	کیا اتھ منز حیا عقلہ اول سندر خاطر کا نہہ قسم (یعنی شہادت کہہ تہ؟)
اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ⑦	کیا تری چھیا پے تہ چانی پروردگارن کیاہ (معاہدہ) کوز عاد (تومس) سبتی؟
اِذْ هَدٰى ذَاتِ الْاِحْمَادِ ⑧	یعنی (عاد) اِسْم یلم تھزن تھزن مندورن ہندک ہا یک اُس۔
الَّتِیْ لَمْ یُخَلِّقْ مِثْلَهَا فِی الْاِیْلَادِ ⑨	تہ لاکھ یمن ہجو کہنتر قوم یمن ملکن مشر پاد کرنہ آمت اوس تہ۔
وَ ثَمُوْدَ الَّذِیْنَ جَابُوا الصَّخْرَ ⑩	تہ (کیا) ثمود (تومس متعلق تہ چھیا تری علم؟) یلم وادین مشر کھنفتہ (بجز مکاتہ) بناوان اُس۔
بِالْوَادِ ⑪	

لہ فجر اسلام یعنی ہجرت مدینہ (منہالہ یعنی یہ سورہ نازل سیدہ پتہ مکر مس منز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ صحابین ہندین تکلیفین تہ مصیبتن ہندک گلا کرک داہ وری ہجو پتہ ہجرت سینہ۔ (منہ)


تہ یعنی ہجرتس منز اوس رسول اللہ صبتی حضرت ابو بکر یلم سپرک جُفَّت تہ اللہ تعالیٰ گوو طاق یس یمن سبتی اوس۔ (منہ)

تہ یعنی ہجرت پتہ مدینس منز اسہ گہ و ہتھ تکلیفین ہنزا کہ راتھ لہ سہ جلدی ختم گرتھ۔ (منہ)

وَفَزَعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝
 اَلَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝
 فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝
 فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝
 إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمُرْصِدِ ۝
 فَمَا آتَى الْإِنْسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ
 فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝
 وَإِنَّمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ
 فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝
 كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرَمُونَ الْيَتِيمَ ۝
 وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝
 وَتَأْكُلُونَ السَّرَاةَ الْكَلَّا لَمَّا ۝
 وَتُحِبُّونَ الْعَالَ حُبًّا جَمًّا ۝
 كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝
 وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝
 وَجِئْنَا بِيَوْمٍ مَّيِّدٍ بِجَهَنَّمَ ۝ يَوْمَئِذٍ

بیہ فرعونس (متعلق تہ چھیا کینہ پئے) یس بالہ ہند
 مابک اوس۔
 تم (بل)، یو شہن منز سجت فساد نہمت اوس۔
 بیہ اوس فسادن منز جادے جادے ہران۔
 بیتھ پیٹھ چانڑ پروردگارن تمن پیٹھ عذابک دہر وول۔
 چھن پروردگار چھ بے شک نراگہ (روزیتھ)۔
 لہذا تہر وچھ تہ، انسانہ ستر حالت نیلہ تہر پروردگار
 تس آزمائشہ منز تراوان چھہ بیہ چھہ تس عزت کران
 بیہ چھہ تس پیٹھ نعمت نازل کران تہ سہ چھہ ونان
 نہ (ہر چھس تہیتہ شاہہ وول نہ) میانی پروردگارن
 (تہ) کڑ میہ عزت۔
 تہ نیلہ (خدا) تس آزمائشہ منز تراوتھ تسدہ برقی
 تنگ کران چھہ تہ سہ چھہ ونان، میانی پروردگارن
 کڑ میہ (ہنگتہ منگہ) بے عزتی۔
 (خدا تعالیٰ چھہ ہنگتہ منگہ سزاوان) ہنگہ (تصور
 چھو توہہ پین نہ) توہر اوس و تہ ہتہیم ستر عزت
 کران۔
 تہ نہ اوس و مسکینس کھین کھیا ونس کن اکھ اوس
 رعیت دیاوان۔
 بیہ اوس و دراتنگ مال سرسالم (عاشن منز)
 وڈاوان۔
 بیہ اوس و توہر ماس ستی اچھہ روستے محبت کران۔
 بلونو! نیلہ زمین چھہ چھہ کر نہ ہیم۔
 تہ چھن پروردگار بیہ تھہ شانس منز زلا پاک اوس
 صف گندہ تہہ استاؤ۔
 تہ تمہ دوہر پیہ جہنم نزدیک، انتہ۔ امیر عبدہر

يَتَذَكَّرُ إِلَّا نَسَانٌ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٧﴾
 وَبِشْرِهِ إِنْسَانٌ نَزَّاعَتُ رُءُوسَهُ مِمَّا رَمَى
 نَفْسَهُ يَنْشَرُ بِرَأْسِهِ فَمَا يَدُومُ لَكَ وَتَت -
 يَقُولُ يَلَيِّنَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٨﴾
 سہ و تہ اکاش! میں آس رہے پست بن (نیمہ) زندگی
 خاطر کینترھا برؤٹھ سوزمت۔
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٩﴾
 لہذا تہ دوہو وہ نہ تہ تہ کا تہہ خلیہ ہندس غذا میں
 ہو عذاب۔
 وَلَا يُؤْنِقُ وَلَا يَدْنِقُ أَحَدٌ ﴿١٠﴾
 نہ نہ ہیکہ کا تہہ تسنز ہش گرفت کربھ۔
 يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿١١﴾
 ارجیٰ الی ربک راضیة مَرْضِيَّةٌ ﴿١٢﴾
 اے نفس مطمئنہ!
 فَأَذْخِلْنِي فِي عِبَادِي ﴿١٣﴾
 پس منس پروردگارس کن بہ واپس اتھ حاس منس نہ تہ
 چکھ تہ راضی تہ سہ چھ تہ راضی۔
 وَادْخِلْنِي جَنَّاتِي ﴿١٤﴾
 اڈ (جون پروردگار چھ تہ زان و نان نہ) دولہ میانین
 (خاص) بدن منتر گڑھ داخل۔
 اے (دولہ) میانین جنس منتر تہ گڑھ داخل۔



سورة بلد، یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ اکوہ آہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
 بِر چھس) اللہ (تعالے) سہ ناو ہتھ (پرلن) میں
 حہ رؤس کرم کرن دول لہ، پھیرک پھیرک رحم کرن
 دول چھ۔
 لَا أُفْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾
 بوڑو! تہنز کتھ چھینہ غلط۔ بر چھس یہ شہر (کہہ)
 چاہہ پڑہ کہہ پیش کران الہ
 وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٣﴾
 میں (چھس) و نان نہ اسے محمد! تہ چکھ (اکر دہہ)
 میں عتھ شہرس (یعنے کس) منتر واپس میں دول۔
 وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ ﴿٤﴾
 میں دول تہ تہ نیچو تہ (چھس) یہ شہاد تہ کہہ پیش کران

سہ یعنی پچھس یہ شہاد تہ کہہ پیش کران۔

سہ یعنی مول حضرت برصم علیہ السلام تہ نیچو حضرت اسامہ علیہ السلام کیو کج بنیاد تھاوے یہ تویم دونو سے
 تہ چھ مولی اللہ علیہ وسلم ہندس پڑرس گواہ۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝
 أَيَحْسَبُ أَن لَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝
 يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدٌ ۝
 أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝
 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝
 وَرِسَالًا وَسَفْعَيْنِ ۝
 وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝
 فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝
 فَكَّ رَقَبَتَهُ ۝
 أَوِ اطَّعِمُهُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَبَةٍ ۝
 بَيْتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝
 أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝
 ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا
 بِالضَّيْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَايَعْنَا هُمْ أَصْحَابُ
 الْمَشْأَمَةِ ۝

اسے چھ انسان یقیناً ہمیشگی کے مستحق پابند بنوئے۔
 سہ چھایہ گماہ کران نہ تس پیٹھ چلہ نہ کانسہ ہند زور؛
 سہ چھ وٹان نہ میڈ چھ اشیرو اشیرو مال خرچومت۔
 کیا سہ چھا زانان نہ تس چھنہ کنہز وچین دول؛
 کیا اسے کرناہ تندر خاطر نہ اچھ پاد؛
 بیہ زوہ تہ تہ نہ وٹھ تہ (کرناہ پاد؛)۔
 پتہ چھ اسے تس (ہدایت تہ گراہی ہنر، دہ نوے
 و تہ تہ ہاوی مشر۔
 (۱۱۱ پوز) سہ کھوت نہ توتہ تھوٹس پیٹھ۔
 یہ کھ چھے تریہ وونمت نہ تھونگ کیاہ چھ؛ (۱) تہ
 کھ چیزک ناو چھ؛ (۹)
 (تھوٹس پیٹھ کھسن) چھ (غلام ہنر) گردن لہ کلاہر۔
 یا چھ بوجھ ہند دہ ہو کھین کھیاؤن۔
 تپس یس آشنا (تہ) آسہ۔
 یا مسکپس یس پتھرہ یومت آسہ۔
 پتہ (تھوٹس پیٹھ کھسن اوس پتہ نہ تو کا ہوا ہوا)
 ہنہ بے سہ تھو لوکو منہر یو ایمان افن تہ (بیو)
 اگھ اگھ صبرج نصحت کر۔ بیہ کرکھ اگھ اگھ پیٹھ
 رحم کرینج نصحت تہ۔
 یے لوکھ چھ برکتر وال۔
 تہ یو سانہن آین ہند کھر کور تم آسن سوہتہ وال۔

۱۔ یعنی کہ فتح کرنے یا پتہ پیسہ محنت کرنے تہ بچہ قربانی بین دہن۔
 ۲۔ یعنی ہلکے کافر چھ گمان ران نہ تس ہیکہ نہ کانسہ فتح کرکھ۔
 ۳۔ یعنی اصلاح مخالفت کران منہر۔
 ۴۔ یعنی زبوتہ وٹھو ہنر کرکھ پیٹھ شک تہ ہاہر تہ پتہ دل کرکھ پاک۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ۝۱
اگر نیچر پہ (نفس) پاک کر (زانی توڑ) سہ دوت
پینس مرادس۔

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۝۲
تہ نیچر یہ (نیچر منفر) ڈو روو (زانی توڑ) سہ گوز
ناکام۔


كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝۳
تموڈ (قومن) اپزوو (زمانک نبی) پستہ جد غر شتہ
روے گردانی کوز۔

إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝۴
تہ وقتہ سیکہ زن تہند قومہ منفر ساروے کھوتہ لوز
بد بخت تمو ہند (یعنی زمانہ کس نبی ہند) مخالفتہ باقتہ
استاؤ سید۔

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ
سند کی رسولن (یعنی صالحن) ز اللہ (تعالیٰ) ہند قاطر
وقف وؤن شہہ ہشہ روزو بچتہ تہ یسہ پاتھو روزو
تس تریش چاوتہ کس معالس منفر تہ پر پتہ قسمہ چہ
روے گردانی ہشہ پتہ۔

وَسُقِيَهَا ۝۵
اما یوز ہتو مانی تہ تمو ہنز کتہ بکد اپزوو کتہ سہ تہ
(تس) وؤن شہہ (سین ہش پچتہ روز بک تن حکم
دنہ آمت اوس) تہ کتہ کتہ تہ تہ تہ تہ تہ اللہ (تعالیٰ)
ہن کوز تن نیچر سستی ہنا وکف قاصدہ تہ تہ تہ تہ تہ
کرن تہ تہ پاتھو سید تہ۔

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝۶
تہ سہ کر تہ (یعنی پاتھو) یمن (کبہ وایمن) ہند
انجامک تہ کینہہ پروائے۔



سورۃ بیل : یہ سورہ چھ اکی تہ بسم اللہ ہتہ چھ اتھ تہ تووہ آہ۔

(بہ چیس) اللہ (تعالیٰ) سید ناو ہتہ (پران)
یس جد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک
رحم کرن وول پتہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

بہ چھیس راتھ شہادہ تہ کہہ پیش کران نیلہ سہ و دولت کر	وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَى ①
بہ چھسن دہہ تہ (بہ شہادہ تہ کہہ پیش کران) نیلہ سہ زبر پاٹھو روشن سپدان چھہ۔	وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ②
بہ عر تہ ماد ہنز پادایش تہ (چھسن شہادہ تہ کہہ پیش کران)۔	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ③
ز تہنہز کوششہ چھینہ بے شک بیون۔ بیون۔	إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ④
اڈ بیجو (خلیہ ہنز و تہ) دیت تہ تقویٰ پروون۔	فَأَمَّا مَنْ آعطَى وَآتَقَى ⑤
تہ نیک کتہ کوزن تصدیق۔	وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى ⑥
تس کزو مس ضرور آسانی (ہندہ موقتہ) مہیا۔	فَسَنِيسِرُهُ لِّلْغُشَى ⑦
تہ سہ دشخص، نیجو بچلی کھم ہنز تہ لاپرواہی ہند اظہار کوزن۔	وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ⑧
تہ نیک کتہ اپڑاؤن۔	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ⑨
تہند خاطر کرو اسی تکلیف (و اتنا دیک سامانہ) مہیا۔	فَسَنِيسِرُهُ لِّلْغُشَى ⑩
تہ نیلہ سہ ہلاک سپد تہ تند مال و اتناو تہ تس کاشنہ فایدہ۔	وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ⑪
ہایت دین چھہ بلوشک سانی مہ۔	إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ⑫
بہ پرتھ کتہ ہند اتھہ تہ گھوڈ تہ چھہ بیشک اسی کتہ۔	وَأَنَّ لَنَا لِّلْآخِرَةِ وَالْأُولَى ⑬
لہذا (یاد تھوونہ) مینہ (تہ) کز و توہی امر و ہونہ نار نشہ ہشتار یس رہنہ ترھمان آسہ۔	فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ⑭
تھہ مفر غرہہ تہ کاشنہ ہڈس بد بختس و رانی کنتی و اہل۔	لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْآشَقَى ⑮
(تہنہ بد بخت) نیجو (پڑا) اپڑو تہ (پڑ تہنہ) بچھن بقتہ۔	الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ⑯
تہ یس بڑ متقی آسہ سہ بہ ضرور تہ نشہ دور تھونہ۔	وَسَيَجْجَبُهَا الْآثَقَى ⑰
اتہنہ متقی (یس پڑن مل) (اچھنی خلیہ ہنز و تہ)	الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ⑱

لہ یعنی نیلہ و ذی ہیس مفر مذہبی رنگس مفرانیہ گونٹ سپدان چھہ یعنی نیلہ و ذی یا مجد و تہ مامزور تہنہ
خال سپدان چھہ۔ (مند)

سوتی تھلہ پایہ تہ؟) تمہ کوہے ناہ تہ تہ یتیم و یتیم
(پینس سالیس تن) جائے۔

بیدہ (بیلہ) اڑو چھکھ تہ (پینس قومہ کس محبتس مشر مشر شاز
تہ تہ تہ ناوے (تہن ہند اصلاح کرینچ) اہسل و تھ
بیلہ تہ عیالبار و چھکھ تہ (پینس فضلہ سوتی) اکوزکھ
قنی۔

لہذا امین احسان ہندس یتیمس مشر) روز تہ تہ
یتیم (سند رتہ) تھن راوتس مشر معروف۔
تہ سوال کرن و اس مہ اس درو کر دو ان۔

۱۲ بیہ روز تہ پینس پروردگار ہندہ نعمتک مزر اظہار کرن


وَدَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝

وَدَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغَىٰ ۝

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝



سورة النام شرح : یہ سورہ چھو کی تہ بسم اللہ ہتھ چھو اتھ لا آہ۔

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سند ناو ہتھ (پرلن) یس
جدہ زوس کرم کن دول (تہ) چھپرک چھپرک رحم کرن
دول چھ۔

کیا اسہ مشر دو ناہ چاہہ خاطر چون و چھ۔
تہ اسہ وول نا چون بور چاہہ نہم پتھ؟

سہ (بور) سیکو پون کمر چھپر راوتھ تھوومت اس۔

بیہ چون ذکر تہ چھنا اسہ چاہہ خاطر تھوومت؟

لہذا یاد تھو تہ) اتھ تھلی سوتی چھیدہ اکھ بڑ کامیابی
مقدر۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝

وَدَوَّعْنَا عَنْكَ إِدْرَكَ ۝

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

لہ عام طور چھ امیک تہ جریون کرن تہ تہ لا بکھ تہ گمراہ نغوز بالذہا یتیم معنی چھ انحضرت ہندس شناس
خلوات عربی زبان تہ منزعہ ضال تس تہ و تان یس کالندہ ہندس محبتس مشر مست تہ سرشار اسہ یہ سنہ چھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس شناس مطابقی۔ (مفروات امام راغب)
تہ یعنی قرآن کریم کچ نعمت روز لوکن بتش و اتنا وان۔

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝
 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝
 وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

اے شک اتھ تھی سستی چھینے اکھ (بیاکھ) بڑ
 کامیابی (تہ مقدر)۔
 لہذا نیلے (تہ) تہ فراغت لبان آسکھ تیلہ آس
 (خدا تعالیٰ اس سستی رہنہ یا پتھ) کو سبشتہ منزگتھ
 روزان۔
 یہ کر پتھس پروردگار کن تو جہ۔

سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ وَرُحِيَ مَعَ الْبِسْمَلَةِ تَسْمُحُ آيَاتِ

سورۃ تین : یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ بہتہ چھو اتھ تو آئیہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 وَالتّٰینِ وَالتّٰیثُونِ ۝
 وَطُورِ سِیْنِیْنِ ۝
 وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ ۝
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ
 تَقْوِیْمٍ ۝
 ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنِ ۝

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سُد ناو بہتہ (پران)
 یس حد روس کرم کرن وول (تہ) چھیر کر چھیر کر
 رحم کرن وول چھ۔
 بہ چھسن انجیرہ تہ ز تیون شہاد تہ کتہ پیش کران۔
 بیہ یٹھ پاٹھو سپنن پہاڑ (تہ)۔
 بیہ امن (تہ آشتی) وول شہر اکبر (تہ)۔
 ایہ سارہ شہادت چھید ثبات کران نہ (یقیناً چھ
 اسہ انسان پر نیہ کن تہ مناسب ترین حالتس مشر
 پاؤ کوڑمت۔
 پتہ چھیر اسہ سہ اونے درجہ کھوتہ (تہ) جساد
 ناکار درجس کن واپس۔

لہا انجیر چھ اکھ میو امہ کر ذکر سوتی چھ آدم علیہ السلام کن اشارہ تینس متعلق تورات کتاب
 پیدایش باب ۱۱ ہس مشر چھ لکھتہ ز انجیر کہو و تھرو سوتی و جاو تہ پتہ پتہ پان۔
 لہ ز تیون چھ حضرت نوح علیہ السلام کن اشارہ کران نیلے تہن ناو سالاک بک آب و منہ پتہ
 جوڈی باس پیٹھ مٹھرے تہ اک کو ترن ائی پتہ توتہ مشر ز تیونچ اکھ لند نیہ تیلہ
 تہ پے وک نہ خدا تعالیٰ ہند فقلہ سوتی چھ سالاک آب و و تھمت۔
 تہ یہ لفظ چھ جمع تہ مراد چھ سلسلہ کوہ سینا اتھ مشر چھ ٹوٹی علیہ السلام کن اشارہ کرتہ آمت۔


تمو لاکو ویاہی بیو ایمان اڈون بیہ کیو متاسب حال
املل بجا اڑ۔ لہذا تہندہ خاطر آسہ کہ اندنہ واتن
وول نیک اچہ۔

لہذا امر (حقیقتہ کہ خاطر سپدہ) پتہ کس چیز
چھ تہیہ جزا سزا کس معامس مشر ایزوان؟
کیا (وہ فی تہ بیکیا کا شہر خیل کر تھہ) از اللہ تعالیٰ
پچھتہ سارہ وسے جا کو کھوتہ بوڈ جا ک۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ①

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ يَا لَيْسَ

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ ①



سورۃ علق، یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ ہتھ چہ اتھ وہ آہ۔

(بہ چھس، اللہ تعالیٰ) سندا و ہتھ (پران)
سے جدہ ریس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر
رحم کرن وول چھ۔

پننہ پروردگار سندا و ہتھ پڑہی (ساری چیز) پاد
کر۔

(بہ سیکر) انسان اکہ رتہ لو تھہر تہ پاد کور۔

(بہ چھی اسی زبان تو قرآن) آس پرتھ بو زبان
تہ کیا نہ جان پروردگار چھ بوڈ کریم۔

سہ پروردگار سیکر علمہ سنتی علمہ نیچینو (مت چھ تہ
برونچہ تہ نیچینا)۔

تو چھ انسان (تہ کیتھا) نیچینو مت یہ سہ برو تھہ
زانان اوسہ۔

ایتھ پٹھو تم خیل کرن چھ تھہ پٹھو، بلکہ انسان
چھ یقینا جدہ سہیر تیران۔

ہتھ پٹھو تہ سہ چھ پننہ پان (تھایہ سہر نقدہ تہتہ)
بے نیاز زانان۔

پزہ چھ یہ نہ چائس پروردگار ہسے کن چھ پھتہ کر تھن۔
(اسے محاط ب!) تہ د (مید) تہ تہر ایسے تہس شغہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ①

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②

إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيْغَىٰ ⑥

أَن يَرَاهُ اسْتَكْبَرَ ⑦

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ⑧

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُنْفَىٰ ⑨

سنبہر کا پتھ (تمبر) ایس (نمازِ نشہ) پتھ رٹان پتھ۔
اُکس (عبادت گزار) بندس نیلہ سہ نہماز منتر اُور
آسان پتھ۔

عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝۱۱

(اے بوزن والہ!) تڑوتہ (میہ) زہ اگر سہ (نماز پرین)
دول بندہ (ہدایتس پیٹھ آسہ)۔
یا تقویٰ محکم دوان آسہ۔

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۝۱۲

أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ ۝۱۳

تہ تس ٹھاک کرن دول آسہ (ہدایتس) منکر تہ
(امہ نشہ) آسہ مجتھ پھران (تہ آس ٹھاک کرن اول
سند انجام کیا آسہ؟)۔

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝۱۴

سہ چھنا (یوت تہ) زانان زہ اللہ (تعالے) چھ پیر پتھ
اکھ چہرہ وچھان (اوجہتی بوزن سہ کن سیلہ تھو تھہ زہ
سہ چھ غلطی کران)۔

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝۱۵

پتھ پٹھو سہ بیترھان چھ تھہ پٹھو سپد تہ بلکہ اگر
سہا پتہ امر کامہ نشہ (باز آوہ تہ اُسی دوس
ڈیکہ ترھاکہ رٹھہ زور سان کھاکہر۔
پتھ ڈیکہ ترھوگ ایس اپزور تہ چھ تہ خطا
زد تہ۔

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا
بِالنَّاصِيَةِ ۝۱۶

لہذا (کافرس) پزیرہ سہ انہ پتہی مجس ناد دتھ۔
اُسی تہ ان پین پٹھیس ناد دتھ۔

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝۱۷

قَلِيلٌ نَّادِيَهُ ۝۱۸

سَنَدُ الرِّبَايَةِ ۝۱۹

دشمنہ ہنتر مرضی مطابق سپد تہ معاملہ (لہذا اے
نہا!) تہ مہ کر اُسی ہنتر (یعنے امہ تہہ کس کافر ہنتر)
(طاعت تہ) صرف پینس پروردگارس بروٹھ کتہہ
کر سجدہ تہ (امہ سجدہ کتہہ) روز (پینس پروردگارس)
تزدیک گرتھان)۔

كَلَّا وَلَا تَطِعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝۲۰

لہ یعنی عذاب کی طاقت۔

سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ وَرَوَى مَعَ الْبَسْمَلَةِ سِتُّ آيَاتٍ

سورة قدر : یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ بہتہ چھ اتھ شیعہ آیہ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	(بہ چھیس) اللہ (تعالے) سُنَد ناو بہتہ (یران) یس حدروس کرم کرن دول (تہ) پھیری پھیری رحم کرن دول چھ۔
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ②	اسہ چھ یقینا یہ (قرآن) اُکس (عظیم الشان) تقدیر واجبہ رعتہ منز تازل کوڈرمت -
وَمَا آذَانَكَ مَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ ③	تہ (اسے مخاطب) تہ تہ کیا پئے چھ تہ (عظیم الشان) راتھ تیہ منز تقدیر وسان چھ، کیا چیز چھینے؛
لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ④	یہ (عظیم الشان) تقدیر واجبہ راتھ تہ چھینے (اکہ) ساہر رہتہ کھوتہ تہ برتہ۔
تَنْزِيلَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّؤُوسُ فِيهَا يٰٓأَذِنَ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ ⑤	اتھ (راتھ) منز چھ (پر چھ تھیکو) ٹھیک تہ (کابل) رؤوس پنہس پروردگار ہند مکہ ساری (دینی) تہ دنیادی) معاملات بہتہ تازل سپدان۔
سَلَّمَ تٰٓهِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ⑥	تہ ٹھیک تازل سپدنہ پتہ چھینے سلاتی (بہ سلاتی) آسان تہ یہ (حالت) چھینے ہاہ پھولس تامار وراک۔

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ وَرَوَى مَعَ الْبَسْمَلَةِ تِسْعٌ آيَاتٍ

سورة بیئنا : یہ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ بہتہ چھ اتھ نو آیہ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	(بہ چھیس) اللہ (تعالے) سُنَد ناو بہتہ (یران) یس حدروس کرم کرن دول (تہ) پھیری پھیری رحم کرن دول چھ۔
--	--

سہ تیسہن چھ قرآن کریم یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سُنَد وجود مراد
سہ نبی سُنَد زما تہ چھ راتھ ہند پٹھو آسان مگر ترترہ راتھ تیہ منز تیرہ واپس ترانس متعلق
اللہ تعالیٰ ہندی قاصد تہ قوم ہندی تقدیر تازل سپدان چھ
سہ نبی ہندس زانس منز چھ ٹھیک ہند نزول سپدان یو نام تہ فجر یعنی دینچ فتح پور سپدنہ

تم لوگھ پھو کفر کورمت چھ لینے اہل کتاب تہ مشرک
(دولت) اسی تہ زانہہ (پستہ کفر بنتہ) باز پتہ
دائل یوت تام تہ متن نشن ٹاکارہ دلیل یہ ہے۔

یعنی اللہ (تعالیٰ) بندہ طرفہ پتہ دول اکھ رسول
یس (متن) تھو پاکیزہ تہ شوزی صیحفہ پتہ بوزاوا
مین منز قائم روزن دائل حکم آسن یلہ

یہ (عجیب کتھ چھنہ یہ تر) مین لوکن بلہ (قرآن
بچس پیش کمل) کتاب دتہ آہتر چھنہ۔ تم چھ
یہ ٹاکارہ دلیل (یعنی رسول) پتہ پتہ (نینون نینون
دین منز) باگرہ آہتر۔

حالانکہ متن اس یو ہے حکم دتہ آمت زہ تم کرن
اکس خدایہ سنہر عبادت تہ عبادت کن صرف آہتر
تہا طر محفوس (اتھ حالتس مشرتہ) تم آسن پنہن
نیک ارادن منز ثابہت قدم روزن دائل تہ (پتہ اوس
صرف اہر کتھ بند حکم دتہ آمت تہ) تم روزن نماز
باجماعت ادا کران تہ زکوٰۃ دوان تہ یو ہے چھ (ہمیشہ
پرس پیٹھ) قائم روزن دول دین۔

اہل کتابو تہ مشرک منز کفرس پیٹھ قائم روزن
دائل لوگھ گرتھن یقینا جہنم کس ناس منز (اہل
تہ) اتھ منز عمرتھن تم روزن۔ تے لوگھ چھ
بدترین مخلوق۔

(اتھ مقابلہ) تم لوگھ پھو (اہل کتابو تہ مشرک منز)
ایمان اون تہ تھو کر (ایمان کہ) متاسب حال اعمال تہ
تے لوگھ چھ بہترین مخلوق۔

تہنہ بدلہ آسہ تہنہس پروردگار ہندس درباس
منز قائم روزن دائل باغ مین منز کولہ پکان آسن

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَّفَكِينَ حَتَّى
تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۝
فِيهَا كُتِبَ قَيِّمَةٌ ۝

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

لہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھینے سو کتاب (قرآن کریم) اسی مشرتہ منز دائمی صدقہ
موجود چھینے اتھ مقابلہ چھتہ باتے آسانی کتابن منز پریم مقت۔
تلہ یعنی ہم اہل کتاب مین ہندس زمانس منز قرآن کریم نازل سپد۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ
 لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝
 تم گرتے ہیں جسے مفر ہمیشہ روزانہ - اللہ (تعالیٰ)
 سید تمہیں بخشے گا، تم گرتے ہو جسے اللہ (تعالیٰ)
 پس بخشے گا - یہ ہے (جزا) چھ تہہ نشانی
 مطابق یس پسنس پروردگار کھوڑاں چھ۔

سُورَةُ الزَّلْزَالِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا مَكِّيَّةٌ نِسْمُ آيَاتٍ

سورۃ زلزال : یہ سورہ چھ کی ہے بسم اللہ ہوتی ہے چھ آیتوں پر مشتمل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝
 وَاخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝
 وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝
 يَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝
 يَا اَنْتَ رَبَّنَا اَوْحِ لَهَا ۝
 يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّیُرَدَّوْا
 اَعْمَالَہُمْ ۝
 فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرْہَا ۝
 وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرْہَا ۝

(یہ چھ ہی، اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہوتی (پر ان)
 یس صد رُوس کرم کرن دول (تہ) پھیر پھیر
 رحم کرن دول چھ۔
 نیلیہ زمین پور پانچ اُلوہ پیہ۔
 تہ زمین تھہ پینز باری نمبر کڈتھ۔
 تہ انسان ونہ نہاتھ کیا چھ گومت ہ
 تمہ دوہہ ونہ سوا زمین، پستہ (سارہ پوٹید) تہ
 اوکو نہ چانی پروردگارن چھ امہ (زمین) کہ حقہ
 وحی کڈتھ تھاوتہ۔
 تمہ دوہہ سمن لوکھ بیون بیون دربن منز میتھ
 زن تمہن جہتزن علمن ہنز حقیقت ہاونہ پیہ۔
 ادہ نیو اُکس ذرس سنب (تہ) نیکی کڈتھ آسہ
 سہ وچھ تہ (یعنی تمیک نتیجہ)۔
 تہ نیو اُکس ذرس برابر تہ بدی کڈتھ آسہ
 سہ تہ وچھ تہ (یعنی تمیک نتیجہ)۔

یہ یعنی پتہ علم میتھ دنیہس مفر پوٹید آسہ ہم سپدن ظاہر۔

یہ یعنی آخری زمانس متعلق پیہ پتہ گویا آسہ ہم سپدن پور گویا زمین کر پتہ پوٹید خزانہ
 نثر۔


سُورَةُ الْغَدِيَةِ مَكِّيَّةٌ ذَرَعِيٌّ مَعَ الْبَسْمَلَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً

سُورَةُ عَادِيَاتٍ : يه سورہ چھٹھی کی ترجمہ بسم اللہ پہلے چھ ایتھ باہ آہیہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	(بہ چھٹس) اللہ (تعالیٰ) سنداو پہلے (پران) یس حدروس کرم کرن وول (تہا پھر ک پھیری رحم کرن وول چھ۔
وَالْغَدِيَةِ صَبْحًا ①	بہ چھسکھ تمہ گری سوار جہاڑ شہادت کتہ پیش کران یہ گریں کھیتھ ہمن تتھیاطھ ورن ناوان چھیز تہند کھیج آواز چھینہ یوان بہ
فَالْمُؤْرِبَاتِ قَدْحًا ①	بہ اتم گری سوار مہند ک گری (پڈرو ستر) تہمیر تھلان چھ۔
فَالْمُخَيَّرَاتِ صَبْحًا ①	پتہ مٹھ مٹھ حملہ کرن واول (چھسکھ بہ شہادت کتہ پیش کران)۔
فَأَثَرُنَّ بِهِ نَقْعًا ①	نیہ کتہ تتھ (مٹھ کس وقتس) منتر تہ چھ اتم گری غبار تھلان۔
فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ①	بہ چھ (دو شتمہ ہندس) لشکر منتر زور سپدان انسان چھ یقینا پننس پروردگار سنداوڈ ناشکری کرن وول۔
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ①	تہ سہ چھ بے شک اتم پیٹھ (پہنہ قولہ تہ فعلہ سوتی) گواہی دوان۔
وَرَأَتْهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ①	بہ چھ سہ (تمہ باوجود) بے شک مالکس محبت منتر سٹھا بروٹھ درامت۔
أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ①	کیا یقینہ انسان چھنا زانان؟ زہیلہ اتم لواکھ تھوڈ تھنہ پن کم قبرن منتر چھ۔
وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ①	تہ یہ کیشٹھا وچھن منتر کھٹھ چھ (تہ) پہنہ ہرا کڈنہ۔

لہ میں آہن منتر چھ پٹیکولی زہ جلدی یہ سہ وقت نیلہ صحابہ کرام گریں کھیتھ غزواتن منتر شریک سپدان۔

۱۱۳
 ۱۱۳
 إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿۱۰﴾
 تمہ دوہم آسہ یقیناً تمہند پروردگار تمہنہ نگرانی
 کرن وول۔



سورة قارعه : یہ سورہ چھ کی ہے بسم اللہ پڑھتے ہو اتھ باہ آہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾	(بہ رحیمس) اللہ (تعالیٰ) سنداو پڑھتے (پران) ییس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیری پھیری رحم کرن وول چھ۔ (دنیہ ہس پیٹھ چھ) اکھ کر لوٹھ مصیبت (بینہ وول)۔
الْقَارِعَةُ ﴿۲﴾	تہ تریہ کیا پنے پھے نہ سہ مصیبت کیٹھ چھ؟
مَا الْقَارِعَةُ ﴿۳﴾	بیہ (جھی اسی زمان نہ اے مخاطب!) تریہ کیاہ پنے چھے نہ یہ (بوڑ) مصیبت کیا چھ؟
وَمَا أَذْرٰك مَا الْقَارِعَةُ ﴿۴﴾	(یہ مصیبت نیلہ پیہ) تمہ وقتہ آسن لوکھ چھلہ چھا نگر کا متین پو سپرین ہندک پاٹھو (حاران تہ تہ پریشان)۔
يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿۵﴾	بیہ بال گرتھن تمہ ہیرہ کر پاٹھو ییس دوتہ امت آسہ۔
وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوثِ ﴿۶﴾	تمہ وقتہ نیمو ہندک (اعمالن ہندک) پوتر وزن دار آسن۔
فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿۷﴾	سہ آسہ (جاوہر رتس تہ) پریوینس حالتس منز۔
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاٰضِيَةٍ ﴿۸﴾	تہ نیمو ہندک (اعمالن ہندک) پوتر لوتر آسن
وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿۹﴾	تسہنز روزن جائے آسہ ماوینہ (بیٹے جہنم)۔
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿۱۰﴾	بیہ (اے مخاطب!) تریہ کیا پنے پھے نہ یہ (ماوینہ) کیاہ چھ؟
وَمَا أَذْرٰك مَا هِيَ ﴿۱۱﴾	یہ چھ اکھ و ہون نار۔
نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿۱۲﴾	۱۱۳ ۱۱۳

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّي مَعَ الْبَسْمَلَةِ نَسَمُ آيَاتٍ

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ : یہ سُورہ مجھے مکئی ہے بِسْمِ اللّٰہِ ہفتہ چھ آیتہ نواسیہ۔

<p>(بہر چھٹس) اللہ (تعالے) سُند ناو ہفتہ (پران) یسُ صدر رُوس کرم کرن وول (تہ) پھہرک پھہرک رحم کرن وول پھہ۔</p>	<p>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①</p>
<p>توہی دتو اگہ اگہ سُند کھوتہ بروٹھ نیر نکر ازان فقلتس منز دارتہ (تہ توہی رُوڑو پیتھ پائٹو غافل) یوت تام ز توہی وَاو مزاب بلن منز۔</p>	<p>اَلْهٰكُمُ التَّكْوِيْنُ ②</p>
<p>(واہ پائٹو تھوو یادز) توہی لُوکھ زانو (قرآن) کر پیک بیان کوزمت پز (سٹھا جلد) بیر (چھو اسی زمان ز تہنر حالت پھتہ ترہ پترہ توہی زانان پھو تہ) غنقرے سید لوق ہب معلوم (ز تہنر اندر حالت پھتہ پز کئی سوس یوسہ قرآن کرمن بیان کڑ ہتر پھتہ۔</p>	<p>حٰثِي زُزْتُمُ الْمَقَابِرَ ③</p>
<p>(اصل حقیقت) پھتہ ہرگز تہند لو خیا لو مطابق کاش! توہی ہیکہ ہو اصل حقیقت یقینہ کہ علمہ سبتی زانتہ۔</p>	<p>كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ④</p>
<p>(اد گترھی ہے و توہی معلوم ز) توہی و پھون تہنم ضرور (سینتھو دنی بیہس منز) تہ اہر پترہ و پھون توہی سہ پترہ ہنر اچھ سبتی (آخرتس منز) تہ۔</p>	<p>ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ⑤</p>
<p>(اد تھوو بیت تر ہتس ز) توہی نش سبتی تہدوہ (پر تہ بجر) نعتہ متعلق پترہ سگار کرتہ۔ (ز توہی پھوا تمیک شکرانہ ادا کوزت کہتہ تہ)۔</p>	<p>كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ⑥</p>
	<p>لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ⑦</p>
	<p>ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ⑧</p>
	<p>ثُمَّ لَتَسْعُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّحِيْلِ ⑨</p>

لہ یعنی مرلش تام رور ہیند یو ہے حال۔ (منہ)

سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّي مَعَ الْبَسْمَلَةِ اَزْبَعُ اَيَاتِ

سورة عصر : یہ سورہ چھ رکعی ہے بسم اللہ پہلے چھ آیتھ شروع آئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 بِرِجْمِمْس (اللہ تعالیٰ) سُنْدَنَاو ہیتھ (پران)
 لیس سہر دوس کرم کرن وول (پہر) پھیرک پھیرک
 رحم کرن وول چھ۔
 بِرِجْمِمْس (محمدؐ سُنْد) زمانہ شہادت پہر کتہ پیش کران۔
 نَبِیْنَا چھ (نبین ہند مخالف) انسان (ہیتھ)
 کاش مشر روزان۔
 مگر تم لوگ یوں (نبین پیٹھ) ایمان اون تہ تہ کو کر
 (پہر موقد کر) مناسب حال اعمال۔ بیہ کو کر اگہ اگہ
 پزیر کرن اصولن پیٹھ قانیم روزنک تلقین۔ بیہ روڈ
 اگہ اگہ (پیش آمتن مشکین پیٹھ) حیرس کاشم
 ہینک ہدایت کران۔ (بھو لوگ ہین تہ تہ کاش
 مشر پیٹھ)۔

سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّي مَعَ الْبَسْمَلَةِ عَشْرُ اَيَاتِ

سورة همزة : یہ سورہ چھ رکعی ہے بسم اللہ پہلے چھ آیتھ داہ آئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 بِرِجْمِمْس (اللہ تعالیٰ) سُنْدَنَاو ہیتھ (پران)
 لیس سہر دوس کرم کرن وول (پہر) پھیرک پھیرک
 رحم کرن وول چھ۔
 پیر ہتھ غابت کرن وائس (پہر) غاب تزارن
 وائس کیت چھ عذاب ہے، عذاب۔
 لیس مال سو تیراوان چھ تہ سہر گتزاراوان چھ۔
 سہر چھ خیال کران زرتسہ مال تھوئس (یعنی
 تسنڈناو) ہتھ کُن باقی۔

وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ ①

وَالَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ①

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ①

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝۱

ہرگز چھتہ تھکر کنی (بتھکنے سے خیل چھٹے بلکہ) سے پیہ لپینا (تند مال ہوتے) حطہ میں منڑ واٹھ دیتے۔

وَمَا آذْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝۲

بیہ (اے مخاطب!) تزیہ کیا پئے چھتے زہ پیہ حطہ کیا چیز چھتے؟

نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ ۝۳

یہ چھ اللہ (تعالے) سے زہر پائٹھی و ہنومت نار۔ یس و انجہ تمام واہ۔

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝۴

پتہ پیہ سہ (نار) پر پتہ طرفہ بند کرتے پیہ زن تمیک تشرہ متن بیہ ہن تہ جاوہ تکلیف دہ و ول محسوس سپد۔

لَا تَهَاوَنَ عَلَيْهِمْ مُّوَدَّةٌ ۝۵

بیہ آسن (تم لوگ تمہ وقتہ) زہ یسین تمہین سیتی گندہ تھ۔

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝۶

۱
۲۹

سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا مَعَ الْبَسْمَلَةِ سِتُّ آيَاتٍ

سورۃ فیل : یہ سورہ چھٹے مکی تو بسم اللہ ہوتے چھ آیتہ شیعہ آیتہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

(بہر چھٹے) اللہ (تعالے) سے ندا و ہوتے (پران) یس حہر روس کرم کرن و ول (تہ) پھیرے پھیرے رحم کرن و ول چھتے۔


أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
الْفِيلِ ۝۲

(اے محمد!) کیا تزیہ چھیننا معلوم زہ چاڑی پروردگار کے ہستی و الہن سیتی کیتھہ ورتا و کوز

۱۔ حطہ میں چھ جہنم تراوہ۔ عقلی معنی چھٹے یس پھٹے راوہ پیہ۔ قرآن کریم تہ حدیث چھوڈان زہ جہنم پیہ پیہ لکھ وقت نیلہ تھ مشر مکنتی تہ روزہ تہ و او سستی آسن تمکو دروازہ سیدے تراوہ یوان (معالم التنزیل) لہذا جہنم چھٹے لکھ عارضی ہستیال یہ تھ مشر جہنم ہند علاج سپد تہ روحانی رنگہ صحت یاب سپد تہ پتہ پن تم جہنم مشر سوز تہ۔
۲۔ یہ سورہ مشر چھٹے تھ تاریخی واقعہ کن اشارہ یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنتر پادالیشہ لکھ رتھ بروٹھ ظاہر سپد۔ اے سپنا پتہ ہستی کلومیہ کہ طرفہ اوس ابرہہ لقرآنی نیک (جاری)

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝
 وَآزَسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْفًا أَبَايِبًا ۝
 تَزْمِيهِمْ بِحِجَابٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝
 فَجَعَلَهُمْ كَصَفِّ مَأْكُولٍ ۝

کیا وہ تہمت منسوب کوڑناہ تمکو (اللہ تعالیٰ ہن) ناکام؟ (تہمت حملہ کرتے بیرونٹیجے)۔
 تہ (تہ پتہ) سوزن (ہنزن لاشن) چہ پٹھ کھینچو کھینچو جاناوار۔
 (یکم) ہن (ہند ماہ) کہہ پلن پیٹھ ترور لوان
 ۴ سی۔
 لہذا امہ کنی کر کی تم تہمتہ بوسکی پاٹھویس
 چاروالو کھینومت آسہ۔



سُورَةُ قُرَيْشٍ : یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ پاٹھ آسہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝
 الْفِوْهُم رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝
 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝

(بہ چھس) اللہ تعالیٰ سنداو ہتھ (پران) بیس
 حد ہوس کرم کرن (تہ) پھیرک پھیرک رحم
 کرن وول چھ۔
 (دو بیسوغرضو علاو) قریش ہند دل مالدار کرن
 موکھ (کوڑا سہ ابرہہ تہ تشکر تباہ)۔
 یعنی تہندی دل کر تہمتہ کالہ کین تہ وندین سفرن
 کرتہ مالدار بناونہ موکھ (کوڑا سہ ابرہہ تہ تشکر تباہ)
 لہذا تہمتہ (قریش ہند) باچھ چھ لازم نہ تم
 کرن تہمتہ کر (یعنی کعبہ) کس ماہک ہنتر عبادت۔

بقیہ حاشیہ :-

گورتر تمکو کوڑناہ کھیلہ لوان تہ نہناونہ باچھ ہستین ہند کہ تشکر تیار بیلہ مکہ مکرمس نزدیک ووت
 تہ کین رون و البین یعنی قبیلہ قریش اوس تہ ہن سوتی تقابل کرنک کاہنہ طاقت۔ اللہ تعالیٰ ہن
 کوڑ پہ سورسے تشکر تہمتہ مغز مبتلا تہ سورسے تشکر گو فنا۔ تہ ہنتر لاشن آسہ صحراوس مشر پیتر
 تہ سردار خوار گردو وہ ہلو ہتھ تہمتہ ماہ تہ خانہ کعبہ روو محفوظ۔

لے اللہ تعالیٰ ہن اوس کبہ کین قریش ہند رزق اکھ وسپہ یہ ہنومت بزوندس
 مغز آسہ تم تجارتی قافلہ ہتھ یمن عرشان تہ رپہ کالس مغز آسہ شام کن مال
 تجارت لوان گویا ایشیا تہ یورپ دون براعظمن ہند تجارت اوس قریش ہند رو سپدان۔

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُؤَيْبٍ؛ وَآمَنَهُمْ
مِّنْ خَوْفٍ ۝

یٰمِیْکِ بِتَمِّ (پر پتہ قسمہ چیر) بوجھ (ہندس حالتس)
منز کھین کھیاوک تہ (پر پتہ قسمہ کر) خوفہ
کس حالتس منز بخشش نہا اوس۔

سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا مَعَ الْبِسْمَلَةِ تَمَارُفِ آيَاتٍ

سُورَةُ مَاعُون: يه سُورَةُ چھ مکی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ اٹھ آیہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

دہ چھیس (اللہ تعالیٰ) سُنَد ناو ہتھ (پر ان)
ییس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر کر پھیر کر
رہم کرن وول چھ۔

اَرَاَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّیْنِ ۝

اے مخاطب یا کیا تیرے پر بڑنوتھا سہ شخص ییس
دین اپڑوان چھ۔
سے تہ چھ ییس تیس دیکر دتھ کڈان اوس۔

فَذٰلِكَ الَّذِي يُدْعُ الْیَتِیْمَ ۝

بیہ اوس بڑ سہ مسکپش کھین کھیاونہ باچھ (لوکن
نہ تیبہ) آماد کران۔

وَلَا یَحْضُرُ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِیْنِ ۝

تو تم نمازین ہند باچھ تہ چھیر بربادی۔
یم پستونمازو نشتر خافل روزان چھ۔

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ ۝

الذِّیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

الذِّیْنَ هُمْ يُرَآءُونَ ۝

وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

بہ چھیر تم گرت معمولی سامان تمام دہ نشتر (تیبہ)
نفسن تہ بین) ٹھاک کران۔

سُورَةُ الْكُوْثُرِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا مَعَ الْبِسْمَلَةِ اَذْبَعُ آيَاتٍ


سُورَةُ كُوْثُر: يه سُورَةُ چھ مکی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ شورا آیہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

(دہ چھیس) اللہ تعالیٰ) سُنَد ناو ہتھ (پر ان)
ییس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر کر
پھیر کر رہم کرن وول چھ۔

إِنَّمَا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝
 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝
 إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

(اے نبی! یقیناً اُسے چھ تریہ کوثر عطا کورمت ہے
 لہذا تمہے کس شکر انس منتر) کر تہ پینس پروردگار
 ہنر (جاد جاد) عبادت، بیہ کرتندی خاطر قرآنہ
 یہ تھو پترہ تہ چون تھانے سیدہ نریتہ اولاد
 ہنر محروم ثابت ہے



سورۃ کافرون : یہ سورہ چھ آئی تہ بسم اللہ ہنر چھو اتھ سٹھ آئیہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ۝
 لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝
 وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝
 وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝
 وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝
 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِي ۝

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنڈ ناو ہنر (پرک)
 یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) چھری
 چھری رحم کرن وول چھو۔
 (اکی چھو پر ہنر زمانہ کس مسامس وناں زہ) تہ
 روزا پسند زمانہ کین کافرن) وناں (زہ) بوزو
 ہے کافرو!
 بہ چھس تہ تہنر طریقہ مطابق عبادت کران۔
 تہ نہ چھو توہی میانہ طریقہ مطابق عبادت کران۔
 بیہ نہ چھس بہ (تہنر) عبادت کران یہ ہنر
 عبادت توہی کران آمخہ چھو۔
 تہ نہ چھو توہی (تہنر) عبادت کران یہ ہنر
 عبادت بہ کران چھس۔
 (پشیم اعلان چھ تہنر امر کتھ ہنر) تہنر

لہ کوثر یعنی ہنیرات کرن وول شھس تہ پر ہنر چیز ہج کشرت۔ یعنی اللہ (تعالیٰ)
 ہن چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار رؤحانی انعامات دتی ہتی۔ (منہ)
 لہ آسانی کتاہن منتر چھ نرینہ اولاد تہنر لکھ مراد آسان بین اللہ تعالیٰ ہنر
 طرفہ وحی تہ ابہام نصیب آسہ۔ ہنر لکھ سیدن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 ہنر آنتس منتر یاد ہاتھ دین روزن ابتر یعنی ملہم من اللہ لکھ ہنر محروم۔

دین چھ تہندہ خاطر (اکھ طریق کار مقرر کران)
تہ میں دین چھ میانہ خاطر (میاکھ طریق کار مقرر کران)

سُورَةُ النَّصْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ الْبِسْمَلَةِ آدُبُ آيَاتٍ

سورة نصر: یہ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ ترور آہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
(بہ، چھس، اللہ تعالیٰ) سندا ناہ ہتھ (پران) یس
حدہ رؤس کرم کرن دول (تہ) پھیر پھیر رحم کرن
دول چھ۔

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ②
تیلہ اللہ تعالیٰ) سندا مد تہ پور پور علیہ بیہ۔

وَآيَاتِ النَّاسِ يَخْلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ
اَفْوَا جَا ③
تہ تر وچکھ امرکتھ ہندہ آثار ز اللہ تعالیٰ
ہندس دہس مشر سپدن فوج فوج لاکھ داہل۔

فَسَيَحْمَدُ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَاسْتَعْفُوهُ تَائِبًا
كَانَ تَوَّابًا ④
تمہ وقتہ سپد ز تر پینس پروردگار ہندس تعین
ستو (ستو) تہنر پاکیزگی بیان کرنس مشر مشغول
تہ (مسلمانن ہندس تربیتس مشر یم تر ہن تر
رودک ہتر آسن تمن پتھ) لنگی زتس (خدایس)
پردہ تراونک دُعا۔ سہ چھ بے شک پینس
ہندس کن رحمت ہتھ پھیر پھیر پتہ دول۔

سُورَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ الْبِسْمَلَةِ سِتُّ آيَاتٍ

سورة اللہب: یہ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ شہ آہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
(بہ، چھس، اللہ تعالیٰ) سندا ناہ ہتھ (پران)
یس حدہ رؤس کرم کرن دول (تہ) پھیر پھیر
رحم کرن دول چھ۔

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ②
الوہبتی لہ دولوے اتھ چھ روزتھ گاہتر تہ سہ

لہ اعلیٰ زباز مشر چھ لفظ دینک اکھ معنی طریق کار تہ

لہ الوہب: عبدالعزیٰ ناوگ اکھ قریش سردار یس پینتہ تاری مزاز کنی الوہب (جاری)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (تسبیح و تسبیح منتر) تسبیح کہنہ و تہ شریک
کار۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

سُورَةُ الْفَلَقِ مَدَنِيَّةٌ فِيهَا مِائَتُ اثْنَتَيْ سِتِّ آيَاتٍ

سُورَةُ فَلَقٍ : یہ سورہ چھ مدنی تو بسم اللہ پہلے چھ اٹھ تیسرے آہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(بہ چھٹس) اللہ (تعالیٰ) سدا تاو پہلے (پرآن)
یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر
رعم کرن وول چھ۔

(اُسکی چھ پر پھرتے زمانہ کس مسلمانس و نان تر) تر
روز (دویمین لوکن) و نان تر بہ چھٹس مخلوقان
ہندس پر درگارس (تسند) پناہ منگان۔

تسندس پر پھرتے مخلوق ہنتر (ظاہری تہ باطنی) شہر
لشہر (بچہ تہ خاطر)۔

بہ اندگٹ کرن وائل ہند پر پھرتے شہر لشہر (بچہ
تہ خاطر) بیلب سہ اندگٹ کران چھ۔

بہ سارہ تہ ہنتر نفس ہند شہر لشہر (بچہ
تہ خاطر) ایم (پانہ وائل تعلقات ہندس) گندس
ترشا و نہ کر شہر تہ) چھو کھ لایان چھ۔

بہ پر پھرتے سارہ ہند شہر لشہر (تہ) بیلب سہ
ہندس پہلے ہول گندران چھ۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

سُورَةُ النَّاسِ مَدَنِيَّةٌ فِيهَا مِائَةُ آيَاتٍ

سُورَةُ نَاسٍ : یہ سورہ چھ مدنی تو بسم اللہ پہلے چھ اٹھ ستھ آہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(بہ چھٹس) اللہ (تعالیٰ) سدا تاو پہلے (پرآن)
یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر
رعم کرن وول چھ۔

(اُسکی چھ پر پھرتے زمانہ کس مسلمانس و نان تر) تر

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

عزٹھ (دو بیہن لوکن) دنان زہ چیس تمام انسان
ہندس پروردگار (تسند) پناہ منگان۔
(سہ پروردگار) یس سارک ہنہ انسان ہند
بادشاہ (تہ) چھ۔
بہ تمام انسان ہند معبود (تہ) چھ۔

مَلِكِ النَّاسِ ۱

لِلَّهِ النَّاسِ ۱

(بہ چیس تسند پناہ منگان)۔ پرچہ ولس
تراون والی ہندک شہر ہنہ یس (پرچہ ہیکو
وسواس تراوتھ) چھ ترلان چھ۔
(بہ) یس انسان ہندین دن مشر تشک پاؤ
کران چھ۔
ادسہ (ہنتہ گر) کھنہ روزن واجہنہ ہستو
مشر اسون (یا) عام انسان مشر اسون۔

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۱

الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۱

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۱

ع ۳۹

لہ مغربی ملکن ہندک فلاسفر۔ یادری تہ پر وفسیر ریم خدا تعالیٰ لہس تہ مذہب اسلام متعلق
قسما قسما ہیکو شکوک تہ شہمات پاؤ کران چھ۔
تہ یعنی نیہر من ملکن مشر روزن عالی بہ نظر لوان چھ، یا تم لوکھ کم پاتہ چھ روز تھ لوکن مشر
پسنہ سحر ہیکو چلاوان چھ۔

دعاء ختم القرآن

اے اللہ! میانہ قبرِ منتر کر میوں خوف دور۔
 اے میانہِ خدایہ! قرآنِ عظیم کہ برکت کر
 میں پیچھے رسم۔ تو یہ بناؤن میانہِ خاطرِ امام،
 نور، ہدایت تہ رحمت۔
 اے میانہِ خدایہ! یہ کینترھا میں قرآنِ کریم
 منترِ مشیتہ گوشت چھہ تہ پاوتم تر پست، تہ
 یہ کینترھا میں چھہ یوان تہ بیچنا وتم۔ یہ دہس
 رالتس و تہ میں اچ تلاوت کر تک توفیق
 تہ اے رب العالمین! یہ بناؤن میانہِ قایدہ
 باپتہ بطورِ حجت۔ آمین ۶

اللَّهُمَّ اِنْسِ وَحَشِيَّتِي فِي قَبْرِى
 اللَّهُمَّ اِرْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ
 وَاجْعَلْهُ لِي اِمَامًا وَ نُورًا
 وَ هُدًى وَ رَحْمَةً اَللّٰهُمَّ
 ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَ
 عَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ
 وَ اَسْرِفْنِي تِلَاوَتَهُ اِنَاءَ اللَّيْلِ وَ
 اِنَاءَ النَّهَارِ وَ اجْعَلْهُ لِي
 حُجَّةً يَّارَبِّ الْعَالَمِيْنَ

THE HOLY QUR'AN ARABIC TEXT AND KASHMIRI TRANSLATION

First published in 1998
Second Edition 1999 Qnty. 2000

Islam International Publications Limited

Published by:
Islam International Publications Limited
"Islamabad"
Sheephatch Lane
Tilford, Surrey GU10 2AQ
England

You may contact the following for further information:

1. Nazarat Nashro Ishaat Qadian
Dt. Gurdaspur Punjab, INDIA
Ph. - 0091 - (0)1872 - 20749
Fax - 0091 - (0)1872 - 20105

2. Ahmadiyya Muslim Mission
Near D. G. P. Office
Srinagar -
Ph. - 0091 - (0)194 - 476218
Fax - 0091 - (0)194 - 470036

3. The London Mosque
16 Gressenhall Road
London SW18 5QL
England. Tel: +(0) 181 - 8708517
Fax: +(0) 181 - 8744779

ISBN: 1 85372 659 1

Printed at :
Printwell, 146, Indl. Focal Point, Amritsar.

THE HOLY QUR'AN

**ARABIC TEXT
AND
KASHMIRI TRANSLATION**

Published under the auspices of:

HADHRAT MIRZA TAHIR AHMAD
Fourth Successor of the Promised Messiah and
The Head of the World-wide Ahmadiyya Muslim Community

1999

Islam International Publications Limited